



# غیتِ الطالبین

اُردو ترجمہ مع عربی متن

محبوب سبحانی قطبِ ربابی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

تفیس اکیڈمی  
اُردو بازار، کراچی، طمکی



# عبدالقادر جیلانی

اردو ترجمہ مع عربی متن

(اول - دوم)

اردو ترجمہ :

مولانا راغب رحمانی دہلوی

تصنیف :

محبوب بھائی شیخ عبدالقادر جیلانی

## حصہ اول

یہ کتاب سرخیل علماء عارفین اور سرتاج اولیاء و مسلمین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسینیؒ کی وہ شہرہ آفاق تصنیف ہے جو صدیوں سے دینی روحانی اور اخلاقی تعلیم کا سرچشمہ ہے۔ حضرت والانے ایمان اور اسلامی اخلاق و شریعت و طریقت کے مسائل کو بہت سہل انداز میں پیش کیا ہے۔ عبرت ناک کرامات و تصرفات کا گنجینہ ہے آداب شریعت اور خزانہ علم و عرفان پر مشتمل وہ عظیم الشان کتاب ہے جس نے لاکھوں طالبان حق کی رہنمائی کی اور سلوک و عرفان کی منزلیں کامیابی کے ساتھ طے کرنے میں گرانقدر امداد بہم پہنچائیں۔

نقیس کیسی  
اردو بازار، کراچی طبعی



## غنیۃ الطالبین

مصنف محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کے حصہ اول دوم کے اردو ترجمہ  
کے جملہ حقوق اشاعت و طباعت تصحیح و ترتیب و تبویب قانونی بحق

چوہدری طارق اقبال گاہندری

مالک

نفس اکیڈمی اردو بازار کراچی محفوظ ہیں

۲۹۷۵۶۱  
ع ۱۸۷۸ ع

۱۲۷۱۰

نام کتاب: غنیۃ الطالبین (اول دوم)

مصنف: محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی

ترجمہ: مولانا راغب رحمانی دہلوی

ناشر: نفس اکیڈمی اردو بازار کراچی

طبع: مئی ۱۹۸۹ء

ایڈیشن: آفسٹ

ضخامت: ۱۰۰ صفحات

ٹیلیفون: ۲۱۳۳۰۳

مطبوعہ: احمدیہ ادرز پبشرز - کراچی



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَضْرَتِ بَخْوَتِ الْاَعْظَمِ رَحْمَةُ اللّٰهِ

چوہدری محمد اقبال سلیم گاندھری

ہمارے بزرگان دین میں سے جن بزرگ کی کرامتیں تواریخ اور تذکروں میں سب سے زیادہ ملتی ہیں وہ سرخیل علمائے عارفین اور سرتاج اولیائے مسلمین حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت والا کے علم، عمل، تقاریر، پرہیزگاری، وعظ و بندگی اثر اندازی اور حیرت ناک کرامات و تصرفات کا تذکرہ، اُن کے معاصرین سے لے کر آج تک کے تمام تذکرہ نویس اور مورخین اس کثرت و تواتر کے ساتھ پیش کرتے رہے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔

حضرت نہ صرف عابد و زاہد، عارف و کامل اور صاحب کرامات و تصرفات بزرگ تھے بلکہ اپنے زمانہ کے عظیم المثال عالم مشہور معلم، ماہر فقیہ، صاحب قلم اور بہترین خطیب اور واعظ بھی تھے۔ کوئی دوسرا شخص اس جامعیت اور اس کا طہیّت کا حامل اُن کے زمانہ میں نہیں تھا۔ اُن سے پہلے والے بزرگوں کا نام اگر نہ لیا جائے تو یہ مکمل نکتہ میں سے اور صحیح طور پر کہا جاسکتا ہے کہ امت اسلام میں اُن سے زیادہ بلکہ اُن کے برابر مقبولیت بھی کسی دوسرے بزرگ کو حاصل نہیں ہو سکی۔ شاید اسی وجہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو بڑے پیر کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ صحیح ہے کہ وہ تمام پیروں سے بڑے پیر تھے۔ اُن کا روحانی فیض بہت ہی وسیع ہے اور اُن سے نسبت رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد اُن کے زمانہ چھٹی صدی ہجری سے آج تک قائم ہے۔ وہ پیر و سنگیر کہے جاتے ہیں اور یہ لقب اُن کے لیے سزاوار ہے کیوں کہ انہوں نے اپنی ساری عمر یعنی راہِ حق سے ہٹ جانے والوں اور ایمانی رفعت سے گرنے والوں کی دستگیری کی اور اُن کے ہاتھ پکڑ کر سیدھی راہ پر لگا دیا۔ ہزاروں ہی کفار نے اُن کے دستِ حق پرست پر توبہ کر کے دینِ حق اختیار کیا، اور لاکھوں آلودہ عصیان نے اُن کے وعظوں اور نصیحتوں سے ایمان و



وایقان کی روشنی پائی۔ وہ نہ کسی حاکم اور بادشاہ کے پاس جاتے تھے اور نہ ان سے کوئی بدیہ و نذرانہ قبول فرماتے تھے لیکن ان کی محفل میں زمانہ کے بڑے بڑے صاحب جلال بادشاہ اور حاکم حاضر ہوتے تھے اور اکثر بہت دور بلکہ عام عزا بار و مساکین کے پیچھے پیٹھتے تھے ان کی محفل میں کسی کو کوئی خصوصی استراذ و اکرام میسر نہ آتا تھا لیکن پھر بھی بادشاہ و وزیر پھٹے پڑتے گدڑیوں والے فتراہ کے پیچھے بھجکا کر بیٹھتے اور ان کے الفاظ سے سکنت قلب کا سامان حاصل کرتے تھے۔

## بیاض ناصح

وہ بڑے پر جلال انداز میں وعظ فرماتے اور بغیر مہنت و چالپوسی کے پیغام حق سناتے بادشاہ ان سے ڈرتے اور وزراء ان کے سامنے کانپتے تھے۔ حق و صداقت کی آواز ایمان بھرے دل کی گہرائیوں سے بلند ہوتی اور اس قوت و جلال کے ساتھ بلند ہوتی کہ شاہوں کی پرغزور گردنیں اس کے حضور شرم و ندامت کے ساتھ جھک جاتی تھیں۔

## پابند سنت

ان کی محفل میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی، بدعت کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں صرف خدا اور رسول کی اطاعت کا درس دیا جاتا تھا۔ خانقاہی انداز کے رسوم اور بدعات کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ انھوں نے اپنی مشہورہ آفاق کتاب فتوح الغیب کے مقالہ دوم میں فرمایا ہے:-

”سنت کی پیروی کرو، بدعت سے بچتے رہو، اللہ و رسول کی فرمانبرداری کرو، ان کے حکم سے ہرگز باہر نہ جاؤ، اللہ کو کیٹا جانو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھراؤ۔ اس کو پاک بے عیب مانو اور اس پر بتنان نہ لگاؤ، دین اسلام کو سچ جانو اور شک کو قریب نہ آنے دو۔ بلاؤں پر صبر کرو اور کبھی نہ گھراؤ نہ ثابت قدم رہو اور کبھی نہ بھاگو۔ اللہ تمہارے سے فضل و کرم کا سوال کرو اور سوال کرنے سے نہ اتنا ڈرو اور نہ آرزو ہو جاؤ، انتظار کرو، امید رکھو کبھی نا امید نہ ہو جاؤ،

آپس میں برادرانہ محبت اور دوستی کو قائم رکھو، دشمنی پیدا نہ ہونے دو، اللہ کی اطاعت و بندگی میں اکٹھے ہو جاؤ، بکھر کر ایک دوسرے سے جدا جدا نہ ہو جاؤ، آپس میں محبت



رکھو، کینہ نہ رکھو، گناہوں سے پاک و صاف رہو، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلودہ نہ  
 ہونے دو، اپنے رب کی بندگی کے ذریعہ اپنے لیے زینت و زیبائش حاصل کرو، اپنے  
 مالک کے دروازے سے دُور نہ ہٹ جاؤ، اس کی طرف توجہ قائم رکھو۔ اپنا منہ کبھی

نہ پھرو،  
 توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، دن ہو یا رات اپنے پروردگار کے حضور اپنے گناہوں سے معافی  
 مانگتے رہو، توبہ کرنے سے کبھی طویل نہ ہو جاؤ۔ اُمید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تمہیں نیک  
 بخت بنا دیا جائے گا، تمہیں دوزخ سے نجات دی جائے گی جنت میں تمہیں خوشی عطا فرمائی  
 جائے گی، اللہ کی دید تمہیں مسیر آئے گی۔“

یہ ہے خلاصہ اس تعلیم و تلقین کا جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے۔  
 اسی طرح حضرت شیخ نے فرمایا:-

اگر تم اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگتے ہو یا اُس سے ذرا بھی ڈرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ  
 تمہارا ایمان ضعیف اور تمہارا دین نامکمل ہے۔“  
 بغض و محبت کی بنیاد یہ بتائی کہ:-

”جب دل میں کسی سے محبت و عداوت کا اثر پاؤ تو اسی شخص کے اعمال کو قرآن مجید  
 اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے اس کا مقابلہ کرو، اگر اس  
 معیار پر اس کے اعمال نہ اتریں تو ایسے آدمی کو جلد از جلد بھول جاؤ، اور اگر اس کے اعمال  
 صحیح ثابت ہوں تو اس کی عداوت کو دل سے نکال دو، اور توبہ کر لو۔“

یہ ہیں وہ تعلیمات اور اصول زندگی جن پر حضرت شیخ نے اپنی طویل زندگی بسر کی، اور لوگوں کو اس  
 کی طرف بلاتے رہے، ہزاروں نہیں لاکھوں ہی نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور اپنی زندگیوں کو سنوار  
 کر دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کی۔ آج بھی جو چاہے ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار  
 سکتا ہے۔

## حالات

عربی، فارسی، اور اردو میں حضرت شیخ جیلانی کے حالات اور کرامات و مناقب پر بہت سی  
 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہم بھی اس جگہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات درج کرتے ہیں تاکہ ناظرین غینۃ الطالبین



کے معنی رحمتہ اللہ علیہ سے واقف رہیں۔

## اسم مبارک

اسم مبارک عبدالقادر تھا۔ ابو محمد کنیت تھی اور محی الدین لقب تھا۔ متاخرین عقیدت مندوں نے اپنی عقیدت سے بہت سے مزید القاب کا اضافہ کر دیا ہے۔ مثلاً محبوب سبحانی، غوث اعظم قطب ربانی، فرد صمدانی، پیر دوستگیر، بڑے پیر وغیرہ وغیرہ۔

## نسب

آپ کا پوری نسب نامہ یہ ہے محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح موسیٰ جنگی دوست بن ابی عبداللہ یحییٰ الزاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن الجون بن عبداللہ المحض بن حسن المثنیٰ بن حسن السبط رضی اللہ عنہ۔

آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ یہ حضرت شیخ عبدالقادر الصومی الزاہد حسینی کی دختر نیک اختر تھیں۔ شیخ عبدالقادر الزاہد الصومی گیلان رحیلان کے مشہور بزرگ اور بڑے مستجاب الدعوات عالم تھے۔ نسباً حضرت حسین السبط رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں پورنے کی وجہ سے الزاہد حسینی کہلاتے تھے اور اسی لیے حضرت شیخ عبدالقادر رحیلانی کو حسینی لکھا جاتا ہے کہ پوری نسب حضرت حسن السبط سے اور ماوری نسب حسین السبط سے مل جاتا ہے۔

## ولادت

حضرت شیخ کی ولادت ۳۰۰ھ میں بمقام گیلان ہوئی۔ بعضوں نے سال ولادت ۳۰۰ھ لکھا ہے۔ گیلان، گیل، جیل اور رحیلان سب ایک قصبہ کے نام ہیں جو طبرستان کے نواح میں واقع ہے فارسی میں اس کو گیلان اور کبھی تحقیف کر کے گیل کہتے ہیں، عربی میں گاف کو جیم سے بدل کر رحیلان اور جیل کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے گیلان کے قریب زیت نامی ایک گاؤں میں ولادت بتائی ہے۔

حضرت کے والد بزرگوار کا انتقال جب ہوا تو آپ ابھی بچے ہی تھے، مادر مہربان نے جو ایک دیندار اور بزرگ خاتون تھیں حضرت شیخ اور ان کے بھائی دونوں کی تعلیم و تربیت کا نظم فرمایا۔ حضرت نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبہ ہی کے بزرگوں سے حاصل کی، ممکن ہے اپنے جلیل القدر نانا اور ماموں



بھی کچھ پڑھا ہو،

۱۲۸۵ھ میں جب کہ آپ کی عمر اٹھارہ سال کی تھی تلاش علم میں بغداد آئے اس وقت میں  
بغداد میں المستنصر بالله احمد بن المعتدی بامر اللہ العباسی خلیفہ تھا۔ حفظ قرآن مجید کی تکمیل آپ اپنے  
وطن ہی میں کر چکے تھے۔ بغداد آکر آپ نے اساتذہ بغداد سے علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ و اصول فقہ  
اور علم ادب و معانی کی تکمیل اس زمانہ کے بڑے بڑے اساتذہ سے کی جن میں ابوسعید المبارک بن  
علی الخرمی، ابوالقاسم علی بن احمد بن بنان الکرخی اور ابوذر کربیع بن علی التبریزی جیسے جلیل القدر  
محدث، فقیہ اور ماہرین ادب کے نام بھی شامل ہیں۔

حضرت شیخ تحصیل علم کے لیے بغداد کیا آئے کہ ہمیشہ کے لیے یہیں کے ہو رہے سفر حج و زیارت  
کے علاوہ شاید ہی کہیں کا سفر فرمایا ہو، اپنی ساری عمر یہیں بغداد میں بسر کی، ابتدا ہی سے اپنے استاد  
شیخ ابوالخیر حماد بن مسلم الدباس کی خدمت میں رہے اور اثنیہا تک ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان ہی کے  
علم ادب تصرف بھی حاصل کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ حماد ہی کے حکم پر حضرت شیخ نے قاضی ابوسعید  
المبارک الخرمی سے خرقہ فقر حاصل کیا۔ اس طرح حضرت کا سلسلہ طریقت یہ ہوا۔

قاضی ابوسعید المبارک بن الخرمی عن شیخ ابی الحسن علی بن محمد القرشی عن ابی الفرج الطوسی عن ابی  
الفضل عبدالواحد التیمی عن ابی بکر شیبلی عن شیخ ابی القاسم جنید البغدادی عن السری السقطی عن معروف  
الکرخی عن ابی داؤد الطائی عن حبیب العجمی عن حسن البصری عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ  
تعلیم کی تکمیل کے بعد تربیت کے بعض سخت مراحل سے گزرے۔ اس کے بعد مدرسہ کس و تدریس  
کو زینت بخشی۔ پہلے اپنے استاد حماد کے مدرسہ میں پڑھاتے رہے اس کے بعد خود اپنا مدرسہ قائم کر لیا۔  
ہزاروں ہی تشنگان علم نے اس چشمہ فیض سے علم حاصل کیا اور ان میں سے سینکڑوں ہی زمانہ بالبعد  
میں علم و عمل کے آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے،

مدرسہ

۱۲۸۵ھ سے جب کہ ان کا جدید وسیع مدرسہ بن کر تیار ہوا۔ اپنی وفات ۱۲۸۱ھ تک ۲۸-۲۹  
سال سلسلہ تعلیم، افتاء و عطا اور تلقین میں بسر کیے اور ماہ ربیع الثانی ۱۲۸۱ھ میں ۹۱ سال کی عمر میں اصل  
بج ہو گئے۔ تاریخ وفات میں ربیع الثانی ۱۲۸۱ھ پر سب متفق ہیں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وفات  
ماہ ربیع الثانی کی کس تاریخ کو ہوئی۔ ۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶ یہ چھ تاریخیں مختلف تذکرہ نویسوں نے



بیان کی ہیں حضرت شیخ فقہی مسلک حنبلی تھا یعنی وہ اس طریقہ استنباط مسائل کے قائل تھے جو حضرت امام احمد حنبل المتوفی ۲۴۱ھ  
رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ وہ اسی فقہی مسلک پر فتاویٰ صادر فرماتے تھے حضرت شیخ ابن عربی زبان کے بحر بیان خلیب اور بڑے بھنی  
اللسان شاعر بھی تھے۔ متعدد قصائد ان کے ملتے ہیں جو زبان و بیان کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔

حضرت شیخ نے درس و تدریس، فتاویٰ نویسی، وعظ و ارشاد اور طلبہ و مریدین کی تربیت کی غیر  
معمولی شہرتوں کے ساتھ ساتھ متعدد کتابیں بھی تصنیف فرمائیں معلوم نہیں کتنی کتابیں تصنیف فرمائیں  
لیکن حسب ذیل آٹھ کتابوں کے نام ملتے ہیں۔

- (۱) غنیۃ الطالبین (الغنیۃ لطالبی طریق الحق عزوجل)
- (۲) فتوح الغیب
- (۳) الفتح الربانی
- (۴) جلاء الخاطر
- (۵) البیانیت والحکم
- (۶) الفروضات الربانیۃ
- (۷) حزیب بنتا الخیرات
- (۸) الواہب الربانیۃ

ان میں سے پہلی کتاب غنیۃ الطالبین کا فارسی ترجمہ فاضل علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی المتوفی  
۱۰۶۸ھ نے کیا تھا، اور غالباً یہ پہلا ترجمہ تھا۔ مطبع کی ایجاد کے بعد غنیۃ الطالبین (عربی) مصر، بغداد اور  
مکہ مکرمہ میں کئی بار طبع ہو چکی ہے، اس کتاب میں حضرت شیخ نے کیا بیان فرمایا ہے یا بیان فرمانے کو  
مقصد تیار دیا ہے یہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے۔ کتاب کے نام کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا۔  
”و حق تعالیٰ عزوجل کی راہ تلاش کرنے والوں کے لیے ایک ایسی کتاب جو اس قسم کی ہر  
دوسری کتاب سے بے نیاز کر دے“

کتاب غنیۃ الطالبین کا یہ اردو ترجمہ جو اس وقت پیش کیا جا رہا ہے مولانا رابع حمانی کی محنت و  
مشقت کا نتیجہ ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ آسان اور سلیس اردو زبان اس عظیم المرتبت کتاب کے مطالب کو کما حقہ ادا کر دیا  
جائے۔ مترجم ایک کہنہ مشق عالم اور فن کے شناسا ہیں اس لیے وہ اس فریضہ سے اچھی طرح عہدہ برآ ہوئے ہیں وہیں ائید ہے  
کہ یہ ترجمہ اسی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا جس کی مستحق اہل عربی کتاب ہے اور عاقل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اردو ترجمہ سے بھی وہی فیض علم و عرفان  
جاری فرمادے جو اصل کتاب کے کئی صدیوں سے جاری ہے۔ ہم نے اردو ترجمہ کے ساتھ عربی متن بھی دے دیا ہے تاکہ اہل علم استفادہ کر سکیں۔







طواف کا طریقہ

طواف قدم کرنے والے کو کس حال میں ہونا مناسب ۳۵

ہے؟

دو گانہ طواف

سچی کرنے کا طریقہ

منیٰ کو روانگی

موقف کی دعائیں

آب زمزم پینے کی دعا

تنگ وقت پر مکہ پہنچنا

عمرہ کو کس طرح ادا کیا جائے؟

ہم بستری سے حج باطل ہو جاتا ہے

ارکان حج

واجبات حج

سنن حج

عمرے کے ارکان

عمرے کے واجبات

سنن عمرہ

مسجد نبوی میں داخل ہونے کی دعا

قطعہ جنت میں نماز

چھٹا باب ، آداب

ملاقات کے وقت سلام کرنا

مصافحہ

معانقہ

تعظیم کے لئے کھڑا ہونا

چھینکنے کے آداب

جھانک کے آداب

دس پید النبی عادتیں

زیر ناف کے بال مونڈنا

سفید بال اکھاڑنے کی کراہت

جموعہ کے دن ناخن کاٹنا

خلاف ترتیب کا مطلب

سر منڈوانا

صرف بیچ سر کے بال منڈوانے مکروہ ہیں

گردن کے بال منڈوانے مکروہ ہیں

بال رکھنا اور مانگ نکالنا

رخساروں پر بال چھوڑنے کی کراہت

خالص سیاہ خضاب مکروہ ہے

کس قسم کا خضاب مستحب ہے؟

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا؟

کیا واس و زعفران کا خضاب جائز ہے؟

سرمہ لگانا

ایک دن ناخنہ کر کے بالوں میں تیل لگانا

سفر و حضر میں کن سات باتوں کا خیال رکھنا

مستحب ہے؟

مکروہ عادتیں

گھر میں آنے کی اجازت حاصل کرنا

کون سے کام دائیں اور بائیں ہاتھ سے کیے جائیں؟

کھانے پینے کے اصول و آداب

روزہ کھولنا



۹۸	جانور وغیرہ کو خستی کرنا مکروہ ہے	۶۹	حمام کے آداب
۹۸	مسجدوں کی صفائی وغیرہ	۷۰	مطلق یا غسل کے وقت ننگے ہونے کی ممانعت
۱۰۰	الحان و سحر	۷۱	پانی میں برہنہ ہونے کا جواز
۱۰۲	کن جانوروں کا مارنا جائز ہے اور کن کا نہیں؟	۷۱	انگوٹھی بنوانا اور پہننا
۱۰۵	ماں باپ کی فرماں برداری	۷۲	لوہے کی اور پتیل کی انگوٹھی
۱۰۶	والدین کی فرماں برداری کیا ہے؟	۷۲	انگوٹھی کس انگلی میں پہنی جائے؟
۱۰۹	مکروہ و مستحب کینتیں اور نام	۷۲	بائیں ہاتھ میں سب سے چھوٹی انگلی میں انگوٹھی
۱۰۹	غصہ دور کرنے کی ترکیب		پہننے کا جواز
۱۰۹	دعا کے کفارہ مجلس	۷۳	قضائے حاجت اور استنجا کرنے کے آداب
۱۱۰	نبی صلعم کے علاوہ دوسروں پر بھی درود کا جواز	۷۵	دبر کا استنجا
۱۱۰	ذمّی سے مصافحہ کی کراہت	۷۵	ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا دوسرا طریق
۱۱۱	آداب دعا	۷۶	پانی سے استنجا
۱۱۱	استحازہ (پناہ مانگنا)	۷۷	دائرہ دبر سے غلاطت کا انکشاف
۱۱۱	بخار کا تعویذ	۷۷	ڈھیلوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟
۱۱۲	درود کا تعویذ	۷۷	کن حالات میں استنجا کیا جائے؟
۱۱۳	نظر بدگ جانے کا علاج	۷۸	طہارت بکری (غسل جنابت)
۱۱۳	بیماریوں میں علاج کا جواز	۷۹	غسل اعضاء کے وقت مستحب اذکار
۱۱۴	حرام و ناپاک اشیاء سے علاج ناجائز ہے	۸۱	آداب لباس
۱۱۴	اجنبی خواتین سے خلوت	۸۲	واجب و مندوب کے اعتبار سے لباس کی قسمیں
۱۱۵	غلاموں کے ساتھ حسن معاشرت	۸۲	مکروہ لباس
۱۱۵	دشمن کے علاقہ میں قرآن پاک لے جانے کا حکم	۸۲	سونے کے آداب
۱۱۵	آئینہ دیکھنے کی دعا	۸۸	گھر میں آنا، حلال کمائی اور خلوت
۱۱۵	کان بچنے کی دعا	۸۹	کسب معاش
۱۱۵	درد اعضاء کی دعا	۹۲	گوشہ نشینی اور خلوت
۱۱۶	برے ننگوں کے وہم کو رفع کرنے کی دعا	۹۵	سفر و فقائے سفر کے آداب



۱۲۲	پانچویں شرط کی وضاحت	۱۱۶	مکروہات کے دفاع کی دعا
۱۲۳	اچھے اور برے کاموں میں معیاری فرق	۱۱۶	کڑک اور بجلی کی دعا
۱۲۴	تادیب و تربیت	۱۱۶	آندھی کی دعا
۱۲۵	آٹھواں باب ، معرفت الہی	۱۱۶	بازار میں آنے کی دعا
۱۲۵	حق تعالیٰ جل مجدہ کی معرفت	۱۱۶	ہلال دیکھنے کی دعا
۱۵۴	گنہ گار مومن دامن جہنمی نہیں	۱۱۶	کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا
۱۴۵	شفاعت	۱۱۶	سفر حج سے واپس آنے والے حاجی کے لئے دعا
۱۴۶	پہل صراط	۱۱۶	قریب المرگ مسلمان بیمار کو دیکھ کر کیا دعا پڑھی جائے
۱۶۸	حوض کوثر	۱۱۶	توبہ کی تلقین
۱۶۱	میزان	۱۱۸	مردوں کو قبر میں اتارنے کی دعا
۱۶۳	وزن اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے اقسام	۱۱۸	بٹی دیتے وقت کیا دعا پڑھی جائے؟
۱۶۴	جنت و جہنم کا وجود	۱۱۸	آداب نکاح
۱۶۵	حوریں	۱۲۱	سہبستری کی دعا
۱۶۶	ختم نبوت	۱۳۰	سجبت کے سلسلہ میں عورتوں کی اطاعت
۱۶۷	نبی صلعم کے معجزے	۱۳۱	ولیمہ
۱۶۸	امیت محمدیہ کی فضیلت	۱۳۲	نکاح کے لئے لڑکی کی اجازت
۱۹۰	بدعتیوں کی علامتیں	۱۳۳	نکاح کا خطبہ
۱۹۱	کن کن صفات و اخلاق کا باری تعالیٰ پر اطلاق جائز ہے اور کن کن کا محال ہے؟	۱۳۵	سناٹوں باب ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر
۱۹۶	گمراہ فرقے	۱۳۵	تبلیغ ، وعظ و نصیحت
۲۰۰	سورہ فرقوں کی تفصیل	۱۳۸	گناہوں سے روکنے کی تین صورتیں
۲۰۵	شیعوں کے نام	۱۳۸	تبلیغ کرنے کے باوجود برسی بات کے قائم رہنے پر غائب گمان ہو تو کیا کیا جائے؟
۲۰۵	رافضی	۱۳۹	تبلیغ سے شرائط
۲۱۱	رافضیوں کے اقسام	۱۴۱	سناٹوں میں وعظ و نصیحت
۲۱۳	مرجئہ		



۲۲۲	اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا	۲۱۲	وجہ تسمیہ
۲۲۵	شیطان سے مجاہدہ	۲۱۳	جمیہ
۲۲۴	دوسری مجلس	۲۱۴	کرامیہ
۲۲۶	بلقیس کے نام حضرت سلیمان کا ایک خط	۲۱۴	معتزلہ اور قدریہ
۲۴۰	حضرت سلیمان کا فقہ عبرت کے لئے بیان کیا گیا	۲۲۱	مشبیہ
۲۴۲	بسم اللہ کی فضیلت	۲۲۱	جمیہ فرقہ کی وضاحت
۲۴۵	دوسرے اعتبار سے بسم اللہ کی فضیلت	۲۲۳	سالمیہ
۲۴۸	بسم اللہ کی تفسیر	۲۲۵	نواں باب ، قرآن مجید سے نصیحت
۲۴۰	لفظ اللہ کے اشتقاق و معنی میں اختلاف		حاصل کرنا
۲۴۵	فوائد بسم اللہ	۲۲۵	قرآن و حدیث سے وعظ و نصیحت کی مجلس
۲۴۵	بسم اللہ کے معانی	۲۲۵	پہلی مجلس
۲۴۶	برکات بسم اللہ		تلاوت سے پہلے اعوذ بقرطضا
۲۴۶	دوسرے اعتبار سے برکات بسم اللہ	۲۲۵	دسواں باب
۲۴۸	صفات بسم اللہ	۲۲۹	استعاذہ کی لغوی تحقیق
۲۴۸	شیطان کی مخالفت	۲۲۹	شیطان کی لغوی تحقیق
۲۴۹	توبہ	۲۳۰	رجیم کی لغوی تحقیق
۲۸۰	گناہوں کی تفصیل	۲۳۰	شیطان کی شرعی تحقیق
۲۸۲	چھوٹے گناہ	۲۳۲	فوائد استعاذہ
۲۸۲	توبہ فرض عین ہے	۲۳۳	شیطان کن چیزوں سے ڈرتا ہے؟
۲۹۵	شرائط توبہ	۲۳۳	شیطان سے بچنے کی تدبیر
۳۱۵	دفاع و عوض مظالم	۲۳۵	شیطان کے انڈے بچے
۳۱۴	مظالم سے سبکدوشی کے بعد پارسائی	۲۴۰	انسان کے موکل، جن اور فرشتے
۳۲۴	تجیل پارسائی	۲۴۱	خطرات قلب
۳۲۲	تدریجی توبہ	۲۴۲	نفس و روح کے دو خانے
۳۳۰	احادیث توبہ		



۳۲۵	رجب مفر کئے کی وجہ	۳۲۵	توبہ کے دل خوش کن نتائج
۳۲۶	شہر اللہ الاصم کی وجہ تسمیہ	۳۲۶	توبہ کے سلسلہ میں چند واقعات
۳۲۳	رجب کو اصعب کئے کی وجہ	۳۲۳	توبہ کی پہچان
۳۲۵	رجب کو مہتر کئے کی وجہ	۳۲۵	توبہ کی قبولیت کی علامت
۳۲۶	رجب کو سابق کئے کی وجہ	۳۲۶	توبہ کے بارے میں مشائخ کے اقوال
۳۲۸	رجب کو فرد کئے کی وجہ	۳۲۸	تیسری مجلس
۳۲۸	حرمت والے مہینوں کے سلسلہ میں احادیث اقوال	۳۲۸	تقویٰ پر وعظ
۳۲۲	رجب کی پہلی تاریخ کے دن کے روزے کی اور شب	۳۵۳	تقویٰ کی حقیقت
	بیداری کی فضیلت	۳۵۵	تقویٰ پیدا کرنے کا طریقہ
۳۲۲	برکت والے اور معزز ایام	۳۵۶	نجات کے بارے میں مختلف اقوال
۳۲۵	رجب کی ادعیہ مانورہ	۳۵۸	توحید باری تعالیٰ
۳۲۶	ماہ رجب کی نمازیں	۳۶۱	جنت و جہنم اور ان کا ثواب و عذاب
۳۲۸	رجب کی پہلی جمعرات کے روزے کی اور پہلے جمعہ کی	۳۶۱	جہنم کے روح فرسا عذاب اور جنت کی روح
	رات کی نماز کی تاکید و فضیلت		پرورد بہاریں
۳۵۱	رجب کی شائیسویں تاریخ کے روزے کی فضیلت	۳۹۲	پل صراط
۳۵۲	روزوں کے آداب	۴۱۶	حق تعالیٰ کا مومنوں کا خیر مقدم فرمانا
۳۵۵	روزہ کھولنے کی دعا		
۳۵۶	ماہ رجب میں دعاؤں کا حکم	۴۲۶	گیارہواں باب
۳۶۰	پانچویں مجلس	۴۲۶	چوتھی مجلس
۳۶۰	ماہ شعبان کی فضیلت	۴۲۶	مہینوں کے اور برکت والے دنوں کے فضائل
۳۶۲	حق تعالیٰ شانہ کی چھٹی ہونی مخلوق	۴۲۶	ماہ رجب کی فضیلت
۳۶۲	شعبان کے حرفوں سے اشارات	۴۲۸	دینِ قیم کی تفسیر
۳۶۴	شب برات اور اس میں مخصوص رحمت بزرگی اور فضیلت	۴۲۸	رجب کو رجب کئے کی وجہ
۳۶۴	شب برات کی وجہ تسمیہ	۴۳۰	رجب کے مختلف نام
۳۶۴	شب برات کیوں ظاہر کی گئی اور کیوں چھپائی گئی	۴۳۱	رجب کو فرزند کو منصل الائمہ کئے کی وجہ
۳۶۵	شب برات کی نماز		



چھٹی مجلس

فضائل رمضان المبارک

رمضان کی وجہ تسمیہ

شہر رمضان الذی انزل الخ کی تفسیر

۴۷۶ رمضان کے خصوصی فضائل

۴۸۰ برکات رمضان المبارک


۴۸۱ رمضان کے حرفوں کے اشعارے

۴۸۲

۴۸۵

۴۹۲







## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



رَبِّ لِيَسْرُوَاعِن يٰ كَرِيْمُ ط اللّٰهُمَّ عَوْنِكَ و  
 لَطْفِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ  
 وَسَلِّمَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي تَبَحِيْدُهُ يَسْتَفْتَحُ كُلَّ كِتَابٍ  
 وَيَذْكُرُهُ يَصِدُّرُ كُلَّ خُطَابٍ وَيُجَمِّدُهُ يَنْتَعِمُ اَهْلُ  
 النَّعِيْمِ فِي دَارِ الْجَزَاءِ وَالصَّوَابِ وَبِاسْمِهِ يَشْفَى  
 كُلُّ دَاءٍ وَيَبِيْهُ يَكْشِفُ كُلَّ غَمَّةٍ وَيَبْلِّغُ اِلَيْهِ تَرْفِعُ  
 الْاَيْدِيْ بِالْتَضَرُّعِ وَالِدَّعَاءِ فِي الشَّدَاةِ وَالرِّخَاءِ  
 وَالسَّرَّاءِ وَالْفَرَّاءِ وَهُوَ سَامِعٌ لِجَمِيْعِ الْاَصْوَاتِ  
 لِفَنُوْنِ الْخُطَابِ عَلٰى اَخْتِلَافِ اللُّغَاتِ وَالْمَجِيْبِ  
 لِلْمِضْطَرِّ الدَّعَاءِ فَلَنُحَمِّدُ عَلٰى مَا اَوْلٰى وَاَسْتَدِي  
 وَلَهُ الشُّكْرُ عَلٰى مَا اَلْعَمُّ وَاَعْطٰى وَاَوْفَى الْحُجَّةِ و  
 هَدٰى ط وَصَلَوَاتُهُ عَلٰى صَفِيِّهِ وَرَسُوْلِهِ الَّذِي  
 مِنْ الصَّلٰةِ هَدٰى مُحَمَّدًا وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ و  
 اٰخِرَانِهِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةَ الْمُقْرَبِيْنَ وَسَلِّمَ  
 تَسْلِيْمًا ط اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ اَلْحَمُّ عَلٰى بَعْضِ اَصْحَابِي  
 وَشَدَّ دَنِي الْخُطَابِ فِي تَصْنِيْفِ هٰذَا الْكِتَابِ  
 لِحَسَنِ ظَنِّهِ فِي الْاَصَابَةِ الصَّوَابِ وَاللّٰهُ هُوَ  
 الْعَاصِمُ فِي الْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ وَالْمَطْلَعُ

**حمد و ثنا** | اے میرے پروردگار! مجھ پر میرا کام آسان فرما اور اے عزیز  
 رب میری اعانت فرما۔ اے اللہ! میں تیری امداد اور تیرا لطف و کرم  
 چاہتا ہوں۔  
 حق تعالیٰ اپنی رحمتیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلعم پر نازل فرمائے  
 اور آپ کے اہل و عیال و اصحاب کرام پر بھی رحمتیں، اسی اللہ کے لئے  
 ہر طرح کی تعریفیں سزاوار ہیں جس کی حمد و ثنا سے ہر کتاب شروع کی جاتی  
 ہے اور جس کے عالی شان ذکر سے ہر خطاب و خطبہ کا آغاز کیا جاتا ہے۔  
 اور جس کی تعریفوں ہی کی بدولت نعمتوں والے جزا والے اور حقیقی گنہگار  
 بنا کر محفوظ ہوتے ہیں اور جس کے نام کی برکت سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے  
 اور ہر بے یقاری اور مصیبت زائل ہو جاتی ہے اور جس کی طرف مصیبت و  
 راحت کے زمانے میں دعاؤں اور گڑ گڑاہٹوں کے ساتھ لوگوں کے ہاتھ  
 اٹکتے ہیں اور جس سے لوگ عافیت و بیماری کی حالت میں عاجزی زاری  
 کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں اور جو مختلف زبانوں میں طرح طرح کے خطابوں  
 والی آوازیں سنتا ہے اور بے یقاری و مضطر حضرات کی دعائیں قبول فرماتا ہے  
 لہذا اس کے لاتعداد انعامات و احسانات پر طرح طرح کی حمد اسی کی  
 شان اقدس کے ثنایاں ہیں اور اس کے بے شمار انعامات و عطیات پر شکر  
 کا شکر اسی کی ذات و الاصفات کے لائق ہے کیونکہ اسی نے حجت برائے  
 واضح فرمائی اور ہدایت و قرآن نازل فرمایا۔



على الضمائر والنیات والمنعم المتفضل بتفیل  
 ما اراد اليه عز وجل الارحاء لتطهير  
 القلوب من الریاء والنفاق وابدال  
 السیئات بالحسنات انه غافر للذنوب و  
 الخطیات وقابل التوبة من العباد فلما  
 رايت صدق رغبته فی معرفة الآداب  
 الشرعیة من الفرائض والسنن والهیئات و  
 معرفة الصانع عز وجل بالآیات والعلامات  
 ثم الاتعاظ بالقرآن والالفاظ النبویة فی  
 مجالس تذکرها ومعرفة اخلاق الصالحین  
 سنترینما فی اثناء الکتب لیکون عوناً له علی  
 سلوک طریق اللہ عز وجل وامثال اوامره و  
 انتفاء نواهیہ ووجدت له نیة صادقة قد  
 صدرت من فتوح الغیب فی فاجبته الی ذالک  
 فسارعت مشمراً متبعیاً محتسباً للشواب راجعاً  
 للنجاة فی لیم الحساب الی جمع هذا الکتاب  
 بتوفیق رب الارباب الملهم للشواب فقد  
 سیتة غنیة لطالبی طریق الحق عز وجل ٥

لعت رحمت عالم صلعم : حق تعالیٰ شانہ کی اس کے برگزیدہ  
 رسول پر بے شمار دان گنت رحمتیں نازل ہوں جس نے لوگوں کو  
 گراہی کے گھٹا لوپ اندھیروں سے نکال کر راہ ہدایت پر ڈالا یعنی  
 سید المرسلین ورحمۃ للعالمین سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم فرامی و ابی کو حق تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے  
 اور آپ کے اہل و عیال صحابہ کرام کو بھی اور آپ کے تمام بھائیوں  
 کو بھی جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور مقرب فرشتوں کو بھی اور  
 ان سب پر کمل سلامتیاں نازل فرمائے (آمین)

و جہت الیفت | حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز قارئین  
 کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ مجھ سے میرے  
 بعض دوستوں نے امر کیا اور پر زور الفاظ میں درخواست کی  
 کہ میں یہ کتاب تصنیف کروں کیونکہ انہیں صحیح صحیح مسائل پیش کرنے  
 کے بارے میں مجھ سے حسن ظن تھا اور ان کا اقوال و افعال کو جو  
 کے توں لانے میں مجھ سے حسن عقیدت تھی۔ کسی کتاب کو حق تعالیٰ  
 ہی خطیبوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور دلی ارادوں اور نیتوں کے  
 وہی بخوبی خبردار ہے وہی ہر کام میں سہولتوں کے انعام و اکرام سے  
 نوازتا ہے مجھ سے میرے احباب نے جس کام کی توقع و التمسک  
 ہے اس میں وہی آسانیاں فراہم فرمائے گا۔

اے اللہ! مجھے مجھ سے گہری اور قوی امید ہے کہ تو ہی ریا اور نفاق کی گرد سے میرا دل صاف فرمائے گا اور اس مجھ آئینہ پر زنگ نہ  
 آنے دے گا کیونکہ تو ہی ریا اور نفاق سے دل پاک فرماتا ہے اور ان آئینوں کو کدر نہیں ہونے دیتا اور تو ہی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا  
 ہے بلاشبہ تو ہی گناہوں اور قصوروں کو معاف فرمائے والا ہے اور اپنے پیمان بندوں کی پر خلوص توبہ قبول فرمانے والا ہے۔

دوستوں کی درخواست کی منظوری | جب میں نے دیکھا کہ احباب کرام معلومات شریعت مطہرہ کے لئے بے قرار ہیں  
 اور آداب شریعیہ کو یعنی اللہ کے مقرر کردہ فرائض کو ورحمت عالم کی سنتوں کو اور  
 علمائے کرام کی بیعتوں کو معلوم کرنے کا اپنے اندر جذبہ صادق اور پر زور تڑپ رکھتے ہیں اور آیات و علامات سے صانع عالم کو جاننے  
 کے لئے بے تراز ہیں اور قرآن و حدیث کے شناسخش الفاظ و حروف سے ذکر کی مجلسوں کو گمانے کے متمنی ہیں (مجالس ذکر کا اہتمام)



بیان آنے والا ہے) اور صلحاء کے اخلاق و عادات کو معلوم کرنے کے مشتاق ہیں (جن کو ہم النشاء اللہ اثنائے کتاب میں بیان کریں گے) تاکہ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے میں ان کے لئے معاون ثابت ہوں اور حق تعالیٰ کے احکامات کو بجالانے میں اور نافرمانیوں سے بچنے میں ان کی مدد کریں چونکہ یہ نے کشف کے ذریعہ ان کے ارادوں میں صداقت پائی اس لئے میں نے بڑے شوق سے ان کی درخواست قبول کر لی اور میں خود اس نیک کام کے لئے کمر کس کر کھڑا ہو گیا کیونکہ میں تو ثواب کا تلاشی اور طلبگار ہوں اور مجھے امید ہے کہ حق تعالیٰ رب الارباب نے (جو دلوں میں صحیح حقائق ڈالنے والا ہے) مجھے اس کتاب کے مرتب کرنے کی توفیق اس لئے عطا فرمائی ہے کہ النشاء اللہ یہ میرے لئے حساب کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی اس لئے میں نے اس کا نام "غنیۃ الطالبین" تجویز کیا کیونکہ یہ حق تعالیٰ عزوجل کی راہ کے طالبوں کے لئے کافی ہے اور دوسری کتابوں سے بے نیاز کرنے والی ہے۔ اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔

## پہلا باب ایمان و اسلام کے بیان میں

فنبذ عن فنقول الذی یجب علی من یرید والدخول فی دیننا اولاً ان یتلفظ بالشہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ط ویتبرأ من کل دین غیر دین الاسلام و یعتقد بقلبہ وحدانیت اللہ تعالیٰ علی ما سنبتینہ النشاء اللہ تعالیٰ اذ کان الاسلام هو الدین عند اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ عزوجل ط ان الدین عند اللہ الاسلام و قال تعالیٰ و من یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه فاذا اتى بذک دخل فی الاسلام و حرم قتله و سبی ذراریہ و استغنام اموالہ و یغفر لہ ما تقدم من التفریط فی حق اللہ عزوجل لقولہ تعالیٰ قد لتذین کفروا ان ینتھوا یغفر لہم ما قد سلف و قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان

جو شخص بہارا دین (اسلام) قبول کرنا چاہے اس کا فرض ہے کہ سب سے پہلے کلمہ شہادت "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" پڑھے یعنی اللہ کی کا اور رحمتہ للعالمین کی رسالت کا اقرار کر لے اور اسلام کے علاوہ دنیا کے ہر مذہب سے بیزار ہو جائے اور دل میں اللہ کی توحید کا ہمارے بیان کردہ طریقہ کے مطابق عقیدہ جماعے کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے۔ فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام یعنی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور ساری جگہ فرمایا: و من یتبع غیر الاسلام دیناً یعنی جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈھے تو اس سے وہ دین کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔

مسلمان ہونے کا طریقہ | پھر جب کوئی کلمہ شہادت پڑھے اور دل میں توحید کا عقیدہ جماعے لے تو وہ مشرف بہ اسلام ہو جاتا ہے اب اس کا قتل کرنا اس کی اولاد کو لڑائی غلام بنانا اور اس کا مال لوٹنا حرام ہے اس نے



اقام الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا  
 عنصروا مني وما عجزوا وما اهلوا لا يحتسبوا  
 حساب لهم على الله عز وجل ولقوله صلى الله عليه  
 وسلم الاسلام مرجب ما قبله ثم يجيب عليه  
 الغسل للاسلام لما روى ان النبي صلى الله عليه  
 وسلم امر قمامة ابن اقبال وقيس بن عامر بما  
 اسلما بالغسل وفي رواية التي عنك شعير الكندي  
 يغسل ثم يجيب عليه الغسل لان الايمان قول و  
 عمل لان القول دعوى والعمل هو البينة والقول  
 صورية والعمل روحها والصلوة شرائط يتقيد بها  
 وهي الطهارة بالماء الطهور او التيمم عند  
 عدمه والستارة بشرب طاهر والوقوف على  
 بقعة طاهرة واستقبال القبلة والنية ودخول  
 الوقت اما الطهارة فلها فرأى سنن والفرق  
 في طاهر المذهب عشرة ائمة اذ كان يهودي  
 بعد ارتدادهم اذ كان تيممًا فاستباحة  
 الصلوة لان التيمم لا يرفع الحدث ووجهها  
 القلب فان ذكر ذلك بلسانه مع اعتقاد  
 بقلبه كان قد اتى بالفضل وان اقتصر على  
 الاعتقاد اجزأه التسمية وهو ان تذكروا  
 الله تعالى عند اذنته اخذ الماء ثم المضمضة  
 وهو دوران الماء في الفم ووجهه واخر اجزاء  
 منه ثم الاستنشاق وهو ادخال الماء في خروبي  
 الاذن ثم غسل الوجه ووجهه لا من منابت  
 شعر الراس الى ما يحده من العينين والاذن

حق تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں جس قدر کسی کی تھی اور اپنے جسم پر  
 گناہوں کی جتنی نجاست تھی سب دھل جائے گی، فرمایا  
 آل طہرین کفر والہ یعنی آپ کا زوروں سے فرمادیں مگر وہ کفر  
 وشرک سے ازا جائیں تو ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر  
 دئے جاتے ہیں علاوہ ان میں رحمت عالم صغیر نے فرمایا مجھے لوگوں  
 سے جنگ کرنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہیں جس  
 جب وہ اس کلمہ کا اقرار کر لیں گے تو مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے  
 مال محفوظ کر لیں گے تاکہ یہ کہ ان سے اسلام کے حق و البتہ جو ان  
 ان کا حساب حق تعالیٰ پر ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا  
 اسلام اپنے سابقین کے تمام گناہ کاٹ دیتا ہے یعنی تہاوت ہے  
 کیا مسلمان ہونے والے پر غسل واجب ہے؟

مسلمان ہونے والے پر غسل واجب ہے و تمام بنی نبال نے  
 پہلے غسل کیا تھا پھر کلمہ پڑھا تھا اور کلمہ پڑھنے سے تمام گناہوں  
 تیس دن کا حکم کو جب انہوں نے اسلام لانے کا ارادہ کیا تھا  
 غسل کرنے کا حکم فرمایا تھا ایک روایت میں ہے کہ جب فرمایا  
 کلمہ کے بل مشرک اگر غسل کر لے، پھر نو مسلم پر بھیگنا نہ ازمنہ  
 کیونکہ ایمان جامع قول و عمل ہے، قول ایک دعویٰ ہے عمل  
 اس کو دلیل ہے، اور قول ایک صورت ہے اور عمل اس کی  
 نذر ہے۔

نماز کے شرائط نماز سے پہلے کچھ شرطوں کی تکمیل ضروری ہے  
 یعنی نماز سے قبل پیاک پانی سے  
 اور پانی نہسنے کی صورت میں پیاک مٹی سے جسے تیمم کہتے ہیں  
 پیاکی حاصل کرنا، بدن پر پیاک کپڑوں کا ہونا، تاکہ ستر خورت  
 ہو، نماز کے لئے جگہ کا اور جانماز کا پیاک ہونا، تہجد کی طرف



طوكاً ومن وثد الاذن الى وثد الاذن عرضاً ثم  
 غسل اليدين الى المرفقين ثم مسح الرأس  
 وصفته ان يغمس يديه في الماء ثم يرفعهما نارعتين  
 فيضعهما على مقدم راسه ويجرهما الى قفلا  
 ويعيدهما الى مواضع الذي بدء منه ويكون  
 الايديان في صياحي الاذنين فيمسح بهما  
 الجذبتين القائمتين مع الصياحين ثم يغسل  
 الرجلين الى الكعبين وهما النابتان في مفصل  
 القدم وكل ذلك مرّة مرّة واما التاسع فهو  
 ترتيب الاعضاء كلها كما نطق به القرآن في  
 قوله عز وجل يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم  
 الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى  
 المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى  
 الكعبين والعاشر المواكاة وهو اتباع العضو الثاني  
 الاول قبل ان ينشف ماء الاول واما سنتها  
 فعشر ايضا غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء  
 والسواك والمبالغة في النضضة والاستنشاق  
 الا ان يكون صائماً وتخليل اللحية على اختلاف  
 الروايتين وغسل داخل العينين والبدية باليمين  
 واخذ ماء جديد للاذنين ومسح العنق و  
 تخليل ما بين الاصابع والغسلة الثانية و  
 الثالث واما التيمم فان يقرب يديه على  
 تراب صاهرلة عبار لعلت باليد ناديا لا ستباحة  
 صلوة مفروضة مسيياً ضربة واحدة يفرج  
 بين اصابعه فيمسح وجهه بباطن اصابع يديه

رخ کرنا، نیت کرنا اور نماز کا وقت ہو جانا، ان سات شرطوں کی تکمیل ضروری ہے۔

**فرائض وضو** طہارت کیلئے کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ مستحب ہیں فرائض دس ہیں سب سے مقدم نیت ہے یعنی پاکی سے پہلے حدث (ناپاکی) کو زائل کرنے کی اور اگر تیمم کرنا ہے تو نماز کے مباح ہونے کی نیت کر لی جائے (کیونکہ تیمم ناپاکی نہیں مٹاتا) نیت دل سے کی جاتی ہے یعنی دلی ارادے کا نام نیت ہے اگر دلی ارادے کے ساتھ زبان سے بھی نیت کر لی جائے تو اچھا ہے۔ اور اگر دلی ارادے ہی پر قناعت کی جائے تو بھی کافی ہے۔

پھر وضو سے قبل بسم اللہ کا پڑھنا فرض ہے یعنی جب وضو کے لئے چلو میں پانی لینے کا قصد کیا جائے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، پھر کئی فرض ہے یعنی منہ میں پانی لے کر اسے منہ ہی میں گھمانا یعنی نغزغہ کرنا پھر اسے باہر نکال دینا، پھر ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے یعنی دونوں ناکوں میں پانی چڑھانا اور ناک سنکنا، پھر چہرہ دھونا فرض ہے چہرے کے حدود اور بعد طول میں سر کے بالوں سے لے کر دونوں جبڑوں کے درمیان کے زیرین حصہ تک اور نضر میں کان سے لے کر کان تک ہیں پھر معہ کہنیوں کے دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے پھر سر کا مسح کرنا فرض ہے مسح کی صورت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پانی میں ڈبوئے جائیں پھر بلا پانی کے خالی ہاتھ اٹھا کر سر کے اگلے حصہ پر رکھ کر انہیں گدڑی تک لیجا یا جائے پھر اسی مقام پر لوٹا دئے جائیں جہاں سے مسح شروع کیا گیا تھا اور ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے سوراخوں میں داخل کر لئے جائیں اور ان کانوں کی اس تمام کھال کا جو سوراخوں کے ارد گرد ہے مسح کیا جائے پھر پیر معہ ٹخنوں کے دھولے جائیں، ٹخنے



وظهر كعبه باطن راحتيه واما طهارة الكبرى  
 فنذكرها في باب اداب الخلاء انشاء الله تعالى و  
 اما الاستدابة فان يكون ثوبا طاهرا يستزود منه و  
 من كعبه من سائر انواع الثياب الا الحرير فان  
 الصلوة فيه باطلة وان كان طاهرا وكن الك  
 المنصوب واما البقعة فان يكون طاهرة  
 من جميع النجاسات فان كانت النجاسة التي  
 عليها قد نشفتها الريح او الشمس فبسط  
 عليها بساطا طاهرا فصلت عليه صحت صلوة  
 على احدى الروايتين وكن الك ان كانت  
 مغسوبة على رواية ضعيفة واما استقبال  
 القبلة فان يتوجه الى عين الكعبة ان كان  
 بمكة وما قاربها من البقاع والى جهتها ان  
 كان على بعد منها بالاجتهاد وبذل الطاقة  
 بالاستدلال بالشواهد والدلالات بالجم  
 والشمس والرياح وغير ذلك واما النية  
 فتحلها القلب وهو ان يعتقد اداء ما افترض  
 الله تعالى عليه من فعل الصلوة بعينها و  
 امثال امره الواجب من غير رياء وسعة  
 ثم يحضر قلبه الى ان يفرغ منها وقد جاء  
 في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
 لعائشة رضي الله عنها ليس لك من صلواتك  
 الا ما حضر فيه قلبك واما دخول الوقت فيعلمه  
 يقينا او غلبة الظن في ليرم الغيم وهيجان الرياح  
 والموانع ثم يؤذن فيقول الله اكبر الله اكبر

پیروں کے جوڑ میں اٹھی ہوئی ہڈیاں ہیں ان سب پر ایک ایک  
 بار عمل کرنا فرض ہے اور نواں فرض تمام اعضائے وضو کی ترتیب  
 کو قائم رکھنا ہے جیسا کہ قرآن حکیم فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم  
 نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو اپنے سروں کو اور مونہ کیوں کے  
 ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور پیروں کو معہ گتوں  
 کے دھو لو، و سواں فرض اعضائے وضو کا لگا مار دھونا ہے  
 جسے اصطلاح فقہ میں موالاة کہتے ہیں یعنی لاحق عضو کو سابق عضو  
 کے دھوتے ہی اس حال میں دھونا کہ سابق عضو خشک نہ ہونے  
 پائے اس طرح اعضائے وضو کو لگا مار دھونا موالاة ہے۔

**سنن وضو**

فرائض کی طرح وضو کی سنتیں بھی دس ہیں  
 برتن میں ہاتھ دھونے سے پہلے انہیں دھو  
 لینا، مسواک کرنا، مضمضہ (غرغره) میں اور ناک میں پانی  
 چڑھانے میں مبالغہ کرنا، اہل اگر روزہ ہو تو مبالغہ سے بچ جائے  
 ایک روایت کی رو سے ڈاڑھی میں خلال کرنا، آنکھوں کے اندر  
 گوشہ کو دھونا، دھونے کا آغاز سیدھی طرف سے کرنا، کانوں  
 کے مسح کے لئے جدید پانی لینا اگر دن کا مسح کرنا، انگلیوں میں  
 خلال کرنا۔ اور ہر عضو کو دوسری اور تیسری بار دھونا۔  
 تیمم کی صورت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ انگلیاں کھول کر فبار والی  
 مٹی پر وقتی فرض نماز کا ارادہ کر کے فرض کو مباح کرنے کی  
 نیت سے ایک بار رکھے جائیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر  
 حصوں سے اور ہتھیلیوں سے چہرے پر اور ہتھیلیوں سے ہتھیلیوں  
 کی پشت پر مسح کر لیا جائے، مذکورہ بالا چھوٹی پاکی ہے بڑی  
 پاکی کا بیان آداب قضائے حاجت میں انشاء اللہ کیا جائے گا  
 ستر عورت کی کیفیت یہ ہے کہ پاک کپڑے سے ستر مگاہ اور  
 دونوں کندھے چھپائے جائیں خواہ کسی طرح کا کپڑا ہو، البتہ



اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد  
ان لا الہ الا اللہ ط اشہد ان محمداً رسول اللہ  
اشہد ان محمداً رسول اللہ حی علی الصلوٰۃ حی  
علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر  
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ط ثم یقیم فیقول اللہ  
اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد  
ان محمداً رسول اللہ حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح  
قد قامت الصلوٰۃ قد قامت الصلوٰۃ اللہ اکبر  
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔

**فصل** فاذا کملت هذه الشرائط دخل فی  
الصلوٰۃ بقول اللہ اکبر لا یجزیہ غیرہ من  
الفاظ التظیم ولها اركان دو اجبات ومسنونتا  
وهیئات اما الارکان فخمسة عشر القیام و  
تکبیرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع  
والطمأنیة فیہ والاعتدال عنہ والطمأنیة فیہ  
والسجود والطمأنیة فیہ فی المجلس بین السجدین  
والطمأنیة فیہ والتشهد الاخیر والمجلس فیہ  
والصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتسلیم  
واما الواجبات فتسعة التکبیر غیر تکبیر الاحرام  
والتسبیح والتحمید عند الرفع من الركوع والتسبیح  
فی الركوع والسجود مرة مرة وقوله رب اغفر لی  
فی الجلوس بین السجدتین مرة واجدلة والتشهد  
الاول والمجلس له ونية الخروج من الصلوٰۃ فی  
التسليم واما المسنونات فاربعة عشر الاستفتاح  
والتعویذ وقراءة بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

مرد و لیشمین کپڑے سے اگر چہ پاک ہو چکے کیونکہ اس میں نماز نہیں  
ہوتی اسی طرح چھینے ہوئے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی جس جگہ  
نماز پڑھی جائے وہ جگہ بھی ہر طرح کی پلیدی سے پاک ہو اگر اس  
جگہ ایسی پلیدی ہو جو ہوا اور دھوپ سے خشک ہو گئی ہو اور اس  
پر پاک جا نماز پچھا کر نماز پڑھ لی جائے تو دروایتوں میں سے  
ایک روایت کی رو سے نماز ہو جائے گی اسی طرح ضعیف روایت  
کی رو سے غصب کی ہوئی جگہ پر بھی نماز ہو جائے گی۔

قبلہ کی طرف رخ کرنے کی دو صورتیں ہیں اگر نماز می مکہ میں  
یا اس کے قریب وجوار میں ہے تو عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری  
ہے اور اگر مکہ معظمہ سے دور ہے تو سمت قبلہ کافی ہے قبلہ کو  
پہچاننے کے لئے دلائل و شواہد سے اور تاروں اور سورج اور ہواؤں  
وغیرہ سے مقدور بھر حد و جہد کی جائے۔

نیت کی جگہ دل ہے یعنی وقتی فرض یا نفل نماز کما ادا کرنے کی دل  
میں نیت کر لی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی جو بندوں پر واجب  
کر دیا گیا ہے ریا و شرت کے بغیر تعمیل ہو جائے پھر نماز دل لگا کر  
فارغ ہونے تک خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے ایک  
حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا: تمہارے  
لئے وہی نماز ہے جس میں تمہارا دل حاضر رہے۔

نماز کے وقت کا علم یقین سے یا برو اندھی دلیے دن غالب گمان  
سے ہوتا ہے جبکہ بالکل شبہ باقی نہ رہے۔ نماز کا وقت ہو جانے  
کے بعد اذان دی جائے اذان جوڑا جوڑا ہے اور سب کو معلوم ہے  
پھر تکبیر کہی جائے تکبیر اکبری ہے اور طاق ہے ہاں قد قامت الصلوٰۃ  
دو بار ہے۔

مذکورہ بالا شرط پورے کر کے

اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی جائے

نماز پڑھنے کا طریقہ



وقوله آمین وقراءة سورة وقول ملا السموات  
والارض بعد التحميد وما زاد على التسيحة الواحد  
في الركوع والسجود في قول رب اغفر لي والسجود  
على الالف في احدى الروايتين وجلسة الاستراحة  
بعد قضاء السجودتين والتعوذ من اربعة  
اشياء بان يقول اعوذ بالله من عذاب  
جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة  
المسيح المدجال ومن فتنة المحيا والممات  
والدعاء بها ذكر في الاخبار بعد ان يصلي على النبي  
صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير و  
القنوت في الروت والتسليم الثانية على رواية  
ضعيفة واما الهيئات فخمسة وعشرون  
هيئة رفع اليدين عند الافتتاح والركوع و  
الرفع منه وهوان يكون كقاه مع منكبيه  
وابهاما عند شحمتي اذنيه واطراف اصابعه  
مع فروع اذنيه ثم ارسالهما بعد الرفع و  
وضع اليدين على الشمال فوق السترة والنظر  
الى موضع السجود والجمهر بالقراءة وامين  
والاسرار بهما ورفع اليدين على الركبتين  
في الركوع ومد الظهر ومجاذاة عضدين  
عن جنبيه فيه والبدائة بوضع الركبة ثم اليد  
في السجود ومجاذاة البطن عن الفخذين والفخذين  
عن السابقين فيه والتفرق بين الركبتين في السجود  
ورفع اليدين حذاء المنكبين فيه والافتتاح  
في الجلوس بين السجودتين وفي التشهد الاول

اللہ اکبر کے علاوہ تعظیم دالے دوسرے کلمے ناکافی ہیں اور ان سے  
نیت نہیں بندھتی، نماز کے بھی ارکان، واجبات اسنتیں اور  
بیشیں ہیں۔

### ارکان نماز

نماز کے ارکان پندرہ ہیں، اقیام، تکبیر تحریمہ  
قرآنہ فاتحہ، رکوع، رکوع میں اعتدال و  
اطمینان، قومہ اور اس میں اعتدال، دو سجدے اور ان میں  
اعتدال، قعدہ اور اس میں اعتدال، پچھلا تشہد اور اس میں  
بیٹھنا، رحمت عالم صلعم پر درود بھیننا اور اسلام پھیرنا۔

### واجبات نماز

نماز میں نو باتیں واجب ہیں، علاوہ تکبیر  
تحریمہ کے باقی تکبیریں، رکوع میں ایک بار  
سبحان ربی العظیم، قومہ میں سبح اللہ من حمدہ، دونوں سجدوں میں  
ایک ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ، جلسہ میں ایک بار رب اغفر لی، پہلا  
تشہد اور اس کے لئے بیٹھنا اور اسلام پھرتے وقت نماز ختم  
کرنے کی نیت کرنا۔

### سنن نماز

نماز میں چودہ چیزیں مسنون ہیں، دعائے افتتاح  
اعوذ باللہ، بسم اللہ، آمین، دوسری کسی سورت  
کا پڑھنا، سبح اللہ من حمدہ ربنا تک الحمد کے بعد ملا السموات  
والارض، رکوع اور سجدے میں ایک تسبیح سے زیادہ تسبیحات  
رب اغفر لی ایک سے زیادہ بار، دو روایتوں میں سے ایک  
روایت کی رو سے ناک پر سجدہ، دو سجدوں کے بعد جلسہ استراحت  
یعنی ذرا سی دیر بیٹھ کر اٹھنا، چار چیزوں عذاب جہنم، عذاب  
قرآنہ، مسیح و جال، اقدنہ، حیات و موت، سے اللہ کی پناہ  
مانگنا، پچھلے تشہد میں درود کے بعد مسنونہ دعائیں مانگنا، وتر  
میں دعائے قنوت پڑھنا اور ضعیف روایت کی رو سے دوسری  
طرف سلام پھیرنا۔



والتورك في الثاني ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى  
مقبوضة مشيراً بالسبابة معلقاً بالابهام مع  
الوسطى ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة  
فان اخل بشرط من الشرائط التي ذكرناها اولاً  
بغير عذر لم ينقض الصلوة وان ترك ركناً  
عامداً او ساهياً بطلت وان ترك واجباً ساهياً  
جبراً لسجود السهو وان تركه عامداً بطلت  
الصلوة وان ترك سنة او هيئة لم يبطل ولم  
يسجد -

## ھیئات نماز

نماز میں پچیس ہینٹیں ہیں نماز شروع کرتے  
وقت، رکوع میں جانتے وقت اور رکوع  
سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنا یعنی دونوں ہاتھ اتنے بلند  
کرنا کہ ہاتھوں کی پشت کندھوں کے محاذ میں اگوٹھے کانوں کے  
لو کے محاذ میں اور انگلیوں کے بالائی پورے کانوں کے اوپر  
والے حصہ کے محاذ میں آجائیں پھر ہاتھ اٹھا کر انہیں چھوڑ کر  
سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے اوپر باندھنا، نگاہ سجے  
کی جگہ پر رکھنا، ہمری (زور سے پڑھی جانے والی) نمازوں میں  
قرآۃ و آئین زور سے کہنا اور سری و آہستہ پڑھی جانے والی نمازوں

میں آہستہ کہنا، رکوع میں دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا پشت ہموار و لمبی رکھنا، بازو پہلو سے دوسرے رکھنا، سجدے میں زمین پر پہلے  
گھٹنے رکھنا پھر ہاتھ رکھنا، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے دوسرے رکھنا، گھٹنے کو گھٹنے سے علیحدہ رکھنا، ہاتھوں  
کو کندھوں کے بالمقابل رکھنا، دو سجدوں کے درمیانی بیٹھنے میں اور پہلے تشہد میں نیز کھانا پچھلے تشہد میں تورك کرنا یعنی سرین پر بیٹھنا  
سیدھے ہاتھ کو سیدھی ران پر اس طرح رکھنا کہ درمیان کی انگلی کے بعد والی دو انگلیاں مڑی ہوئی ہوں اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے  
حلقہ بنا لیا جائے اور تشہد والی انگلی سے اشارہ ہو اور اٹھالی جائے اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر کھلا ہوا رکھ لیا جائے۔

مذکورہ بالا شرطوں میں سے اگر کوئی شرط بلا عذر کے  
رکن چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی واجب بھول کر چھوڑ جائے تو اس کی کمی سجدہ سہو سے پوری ہو  
جائے گی اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی اور اگر کوئی سنت یا کوئی ہیئت چھوڑ دی جائے تو نہ  
نماز باطل ہوگی اور نہ سجدہ سہو لازم آئے گا سنت چھوڑنے والا گنہگار نہ ہوگا

## دوسرا باب

### زکوٰۃ

مختلف مالوں میں زکوٰۃ کا اصاب  
اگر زکوٰۃ والا مال  
ہو تو مسلمان کہنے

سال کے سال زکوٰۃ دینا واجب ہے یعنی کم از کم بیس مثقال

و يجب عليه ان كان له مال زكوتي وهو ان  
يملك عشرين مثقالاً من الذهب او مائتي  
درهم من الورق او قيمة احد هما من عروض



التجارة او خمساً من الابل او ثلاثين من البقر  
 او اربعين من الغنم سائمة حولا كاملاً الا ان  
 يكون عبداً او مكاتباً فانه لا يجب عليهما  
 الزكاة فيخرج عن الذهب والفضة ربع  
 العشر فيكون عن عشرين ديناراً نصف دينار  
 لان عشرها ديناران وربعها نصف دينار  
 او عن مائتي درهم خمسة دراهم لان عشريها  
 عشرون وربعها خمسة وعشرون من الابل  
 شاة وهي الجذع من الصان فدتت لها ستة  
 اشهر والثني من المعز وهو ماله سنة وعن  
 عشر شاتان وعن خمسة عشر ثلاث شياه  
 وعن عشرين اربع شياه وعن ست وعشرين  
 ابنت مخاض وهي ماله سنة ودخلت في  
 الثانية فان لم يقدر عليها فابن لبون ذكر  
 وهو ماله سنتان ودخل في الثالثة وعن ست  
 وثلاثين ابنت لبون وهي في سن ابن لبون وعن  
 ست واربعين حقة وهي ماكمل لها ثلث سنين  
 وعن احدى وستين جذعة وهي ماكمل لها  
 اربع سنين وعن ست وسبعين بنتي لبون وعن  
 احدى وتسعين حقتين الى ان يبلغ عشرين و  
 مائة فاذا زادت واحدة كان في كل اربعين  
 بنت لبون وفي كل خمسين حقة واما البقر  
 فيخرج عن ثلثين تبناً او تبعة وهي ماكمل  
 لها سنة وعن اربعين مسنة وهي ماكمل لها  
 سنتان وعن ستين تبعتين فاذا بلغت سبعين

(سارٹ سے سات تولہ) سونا ہو اور دو سو درہم (سارٹ سے باون تولہ) چاندی ہو اور ان پر پورا سال گزر جائے تو زکوٰۃ پہ ادا کی جائے یا اسی قدر سونے یا چاندی کی قیمت کا تجارتی سامان ہو یا پانچ اونٹ ہوں یا تیس بیل یا گائیں یا بھینسے یا بھینسیں ہوں یا چالیس بکریاں یا بھیرٹیں یا دس بے وغیرہ ہوں اور یہ جانور چرتے والے ہوں اور ان پر پورا سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہے البتہ لونڈیوں غلاموں اور کتابت والے غلاموں اور لونڈیوں پر زکوٰۃ نہیں۔

### مختلف مالوں سے زکوٰۃ کتنی لی جائے؟

زکوٰۃ چالیسواں حصہ لیا جائے یعنی بیس مثقال سونے سے آدھا مثقال (مثقال = ۴ ماشہ) اور دو سو درہم چاندی سے پانچ درہم لئے جائیں کیونکہ بیس مثقال کا دسواں حصہ دو دینار ہیں اور دو دیناروں کا چوتھائی حصہ آدھا دینار ہے اور نقد کی زکوٰۃ دسویں حصہ کا چوتھائی حصہ (ربہ) ہے اسی طرح دو سو درہم کا دسواں حصہ ۲۰ درہم ہیں اور بیس درہم کا چوتھائی حصہ پانچ درہم ہیں اگر پانچ اونٹ ہوں تو سال بھر کی ایک بکری یا چھ ماہ کا بھیرٹ کا بچہ زکوٰۃ میں دیا جائے، اسی طرح دس اونٹوں میں دو بکریاں پندرہ میں تین اور بیس میں چار بکریاں دس چالیس اگر ۲۴ اونٹ ہوں تو ایک بنت مخاض (سال بھر کی) اور پندرہ سال میں لگ گئی ہو) دو اگر بنت مخاض نہ ہوں تو ایک ابن لبون ذکر پورے دو سال کا نہ جو تیس سال میں لگ گیا ہو) دو، اگر ۳۶ اونٹ ہوں تو ایک بنت لبون پورے دو سال کی مادین جو تیس سال میں لگ گئی ہو) دو، اگر ۴۸ اونٹ ہوں تو ایک حقتہ (پورے تین



كان فيها تبيع ومسته على هذا الاعتبار  
يخرج عن كل اربعين مستة واما القتم  
ففي كل اربعين ثمانية الى ان تبلغ مائة وعشرين  
فاذا زادت واحدة ففيها شتان الى مائتين  
فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شيا الى ثلاثمائة  
فاذا زادت ففي كل مائة شاة فيعطى المخرج عن  
جميع ذلك للثمانية الاصناف المذكورة في القرآن  
للفقراء الذين لا يملكون كفايتهم والمسكين  
وهم الذين لهم معظم الكفاية ولا يملكون  
تمامها والعاملين عليها وهم الحياة لها والحفظون  
لها الى ان يؤذوها الى الامام والمؤلفة قلوبهم و  
هم قوم من الكفار يرجي اسلامهم اذا اعطوا  
المال او يكفوا شرهم عن المسلمين وفي الرقاب  
وهم المكاتبون وان اشترى بذكوتهم رقبة  
كاملة فاعتقها جاز ايضا على رواية والغارمين  
وهم المديون الذين لا طاقة لهم على قضاء  
ديونهم وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين  
لا جزاء لهم في ديار الامام ولا غيره من  
السلطين وان كانوا اغنياء وابن السبيل و  
هو المسافر المتقطع به دون الذي ينشئ  
السفر من بلد فاذا ادى ما عليه من  
زكاة الفرض يستحب له صدقة التطوع في  
سائر اوقانهم ليلا ونهارا قليلا وكثيرا لا سيما  
في اشهر المباركة كشهر رجب وشعبان  
وشهر رمضان وايام العيد وعاشوراء

سال کی اونٹنی جو چوتھے سال میں لگ گئی ہوم دو، اگر ۶ اونٹ ہوں  
تو ایک جذبہ رپور سے چار سال کی اونٹنی جو پانچویں سال میں لگ  
گئی ہوم دو، اگر ۶ اونٹ ہوں تو دو بنت لبون دو، اگر ۹ اونٹ  
تو ۱۲ اونٹ دو حقہ دو، اگر ایک سو بیس اونٹوں سے اونٹ بڑھے  
جائیں اگر چہ ایک ہی بڑھے تو ہر چالیس پر ایک بنت لبون اور  
ہر پچاس پر ایک حقہ دو۔

اگر گائیں یا بیل یا بھینسے یا بھینسیں وغیرہ تیس ہوں تو پورے  
سال کی ایک بھیا یا بچھڑ اور اگر چالیس ہوں تو دو سالہ بچہ دو  
اور اگر ۶ ہوں تو ایک سالہ دو بچے دو اور اگر ستر ہوں تو ایک  
ایک سالہ اور ایک دو سالہ بچہ دو، اگر اس سے بھی زیادہ ہوں  
تو ہر تیس میں ایک سالہ اور ہر چالیس میں دو سالہ بچہ دو۔  
اگر بکریاں، بھڑیاں، اونٹے وغیرہ الگ الگ یا ملے جلے چالیس  
ہوں تو ۱۲ اونٹ ایک بکری دو پھر ۱۲ سے دو سو تک دو بکریاں  
دو، پھر تین تک تین بکریاں دو، اگر اس تعداد سے بھی زیادہ  
ہوں تو ہر سو پر ایک بکری دو۔

مذکورہ بالا تمام مالوں میں سے  
زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے | زکوٰۃ نکالنے والا اپنی زکوٰۃ

ان آٹھ اصناف میں سے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ صنف  
کو ویدے ان آٹھ اصناف کی تفصیل انما الصدقات لانفقوا  
میں ہے۔ فقراء وہ ہیں جو بقدر ضرورت خرچ کے بالکل مالک  
نہیں، مسکین وہ ہیں جو بقدر ضرورت اکثر خرچ کے مالک تو ہیں  
مگر پورے خرچ کے مالک نہیں، عامل زکوٰۃ وصول کرنیوالوں کو اور  
اسے محفوظ رکھنے والوں کو کہا جاتا ہے جب تک کہ زکوٰۃ امام کو ادا کر  
دیں تا لیف قلوب والوں میں وہ کافر شامل ہیں جن سے توقع ہے  
کہ اگر انہیں مال دیا جائے تو اسلام قبول کر لیں یا اسلام کے خلاف



وایام الجذب والفتیق لیجری بذلک العاقبة  
فی الجسم والمال والاهل والخلف السریع فی الدنیا  
والثواب الجزیل فی الآخرة ط

لو نڈی غلام بھی اگر انہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ غارمین میں وہ قرضدار شامل ہیں جن کو قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں، اللہ کی راہ والے وہ رضا کار غازی ہیں جن کو امام یا سلطان تنخواہ نہیں دیتا اگرچہ وہ مالدار ہیں اور مسافر وہ ہیں جو خرچ نہ کر سکتے۔

جب مسلمان فرض زکوٰۃ ادا کر دے تو پھر اسے نفلی صدقہ خواہ بہت ہوں یا تھوڑا، کی طرف دن رات اور

### نفلی صدقہ یا خیرات

ویا جائے جیسے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان اور عید، بقر عید اور عاشوراء کے دن اور قحط سالی اور گرانی کے زمانہ میں تاکہ زکوٰۃ کے ذریعہ جسم، مال اور اہل و عیال میں خیریت و عافیت رہے اور دنیا میں جلدی ہی بدل عظیم کا اور آخرت میں ثواب جزیل کا حقدار۔

**فصل** ویخرج زکوٰۃ الفطر اذا فضل عن  
قرتہ وقوت عیالہ یوم العید ولیلۃ عن نفسه  
وزوجتہ ورفیقہ وولدہ وامہ وابیہ واخوتہ  
واخواتہ واعمامہ وبنی اعمامہ عن ترتیب  
الاقرب فالاقرب بشرط ان یکونوا فی مؤنتہ  
ولفقتہ وقد رها صاعاً وزنه خمسة ارطال  
وثلت بالعلقی من التمر والزبيب او البر او  
الشعیر او دقیقہما او سویقہما كذلك الاقط  
على الصحيح من المذهب فان عدم هذا  
الاصناف جميعها فليخرج من قوت البلد من  
سائر انواع الحب كالارز والذرة والدخن  
وغیرہا۔

جو ہوں یا گیہوں کا یا جو کا آٹا ہو یا دونوں کے کٹو ہوں یا پیڑ ہو جیسا کہ صحیح قول کی رو سے ثابت ہے اگر مذکورہ بالا تمام اقسام نہ پائے جائیں تو طرح طرح کے غلّوں سے جو ستر میں کھائے جاتے ہوں صدقہ نظر ادا کیا جائے جیسے چاول، جو اور کنگنی وغیرہ سے ادا کر دیا جائے غرضیکہ جو اناج کھایا جاتا ہو اسی کو ہر شخص کی طرف سے فقرا کو ایک ایک صاع دیدیا جائے۔

اپنی ریشہ دوانیوں سے باز آجائیں اور وہ تو مسلم بھی جن کے دل میں محبت اسلام کی طرف مائل کرنے ہوں، گزرتوں کے آزاد کرنے میں مکاتب لو نڈی غلام شامل ہیں اور ایک روایت کی رو سے مطلق

غارمین میں وہ قرضدار شامل ہیں جن کو قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں دیتا اگرچہ وہ مالدار ہیں اور مسافر وہ ہیں جو خرچ نہ کر سکتے۔

جب مسلمان فرض زکوٰۃ ادا کر دے تو پھر اسے نفلی صدقہ خواہ بہت ہوں یا تھوڑا، کی طرف دن رات اور

ویا جائے جیسے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان اور عید، بقر عید اور عاشوراء کے دن اور قحط سالی اور گرانی کے زمانہ میں تاکہ زکوٰۃ کے ذریعہ جسم، مال اور اہل و عیال میں خیریت و عافیت رہے اور دنیا میں جلدی ہی بدل عظیم کا اور آخرت میں ثواب جزیل کا حقدار۔

فطر اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے اپنے غلام و لو نڈی کی طرف سے، اپنے ہر بچہ اور بچی کی طرف سے اپنے ماں باپ کی طرف سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے اور اپنے چچاؤں اور چچا زاد بھائیوں کی طرف سے اور تمام قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بشرطیکہ یہ سب صدقہ فطر دینے والے کے زیر کفالت ہوں اور ہر ایک کی طرف سے ایک حجازی صاع (جو ۸۰ تولہ والے سیر کے حساب سے تقریباً دو سیر گیارہ چھٹانک کا اور ۱۰۰ تولہ والے کا ہوتا ہے) اور ایک رطل ایک پونڈ کا ہوتا ہے) غلّہ ادا کیا جائے جو بھی اناج گھر میں کھایا جا رہا ہو اسی میں سے ایک صاع فی کس دیدیا جائے خواہ کھجوریں ہوں یا منقے ہوں یا گیہوں ہوں یا

جو ہوں یا گیہوں کا یا جو کا آٹا ہو یا دونوں کے کٹو ہوں یا پیڑ ہو جیسا کہ صحیح قول کی رو سے ثابت ہے اگر مذکورہ بالا تمام اقسام نہ پائے جائیں تو طرح طرح کے غلّوں سے جو ستر میں کھائے جاتے ہوں صدقہ نظر ادا کیا جائے جیسے چاول، جو اور کنگنی وغیرہ سے ادا کر دیا جائے غرضیکہ جو اناج کھایا جاتا ہو اسی کو ہر شخص کی طرف سے فقرا کو ایک ایک صاع دیدیا جائے۔

فطر اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے اپنے غلام و لو نڈی کی طرف سے، اپنے ہر بچہ اور بچی کی طرف سے اپنے ماں باپ کی طرف سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے اور اپنے چچاؤں اور چچا زاد بھائیوں کی طرف سے اور تمام قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بشرطیکہ یہ سب صدقہ فطر دینے والے کے زیر کفالت ہوں اور ہر ایک کی طرف سے ایک حجازی صاع (جو ۸۰ تولہ والے سیر کے حساب سے تقریباً دو سیر گیارہ چھٹانک کا اور ۱۰۰ تولہ والے کا ہوتا ہے) اور ایک رطل ایک پونڈ کا ہوتا ہے) غلّہ ادا کیا جائے جو بھی اناج گھر میں کھایا جا رہا ہو اسی میں سے ایک صاع فی کس دیدیا جائے خواہ کھجوریں ہوں یا منقے ہوں یا گیہوں ہوں یا

جو ہوں یا گیہوں کا یا جو کا آٹا ہو یا دونوں کے کٹو ہوں یا پیڑ ہو جیسا کہ صحیح قول کی رو سے ثابت ہے اگر مذکورہ بالا تمام اقسام نہ پائے جائیں تو طرح طرح کے غلّوں سے جو ستر میں کھائے جاتے ہوں صدقہ نظر ادا کیا جائے جیسے چاول، جو اور کنگنی وغیرہ سے ادا کر دیا جائے غرضیکہ جو اناج کھایا جاتا ہو اسی کو ہر شخص کی طرف سے فقرا کو ایک ایک صاع دیدیا جائے۔

جو ہوں یا گیہوں کا یا جو کا آٹا ہو یا دونوں کے کٹو ہوں یا پیڑ ہو جیسا کہ صحیح قول کی رو سے ثابت ہے اگر مذکورہ بالا تمام اقسام نہ پائے جائیں تو طرح طرح کے غلّوں سے جو ستر میں کھائے جاتے ہوں صدقہ نظر ادا کیا جائے جیسے چاول، جو اور کنگنی وغیرہ سے ادا کر دیا جائے غرضیکہ جو اناج کھایا جاتا ہو اسی کو ہر شخص کی طرف سے فقرا کو ایک ایک صاع دیدیا جائے۔



# تیسرا باب

## روزے

### رمضان کے روزے فرض ہیں

مہر مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں فرمایا

واذا دخل شهر رمضان وجب عليه ان يعوم لقولہ تعالیٰ فمن شهد منكم الشهر فليصمه فاذا ثبت عند دخول الشهر ما برؤية نفسه الهلال او شهادة رجل واحد عدل ثبت بذلك او اكمل شعبان ثلثين يوماً او حدوث غلیم او نتره في ليلة الثلثين منه نوى اتي وقت من الليل من وقت غروب الشمس الى قبل ان يطلع الفجر الثاني بانه صائم غداً من شهر رمضان هكذا كل ليلة الى ان ينتهي الشهر وان نوى في اول ليلة من الشهر انه صائم الشهر جميعه كفاً ذلك في رواية ضعيفة والصحيح الاول اصبغ وجب عليه ان يمسك في جميع نهارة عن الاكل والشرب والجماع وجميع ما يبل الى جوفه من اى موضع كان وعن العجامة لنفسه او غيره واستدعاء القئ والمني فان خالف في جميع ذلك بطل صومه ووجب عليه الامساك الى غروب الشمس والقضاء الا الجماع فانه يجب عليه مع ذلك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المفترقة في العمل فان لم يستطع فاطعام ستين

### روزے کی نیت

روزے کی نیت سورج غروب ہونے کے بعد صبح صادق کے طلوع ہونے کے درمیان رات میں جس

وقت بھی کر لی جائے مباح ہے رات ہی کو دل میں آئیوا لکل کے روزے کی نیت کر لی جائے اسی طرح ماہ رمضان کے ختم ہونے تک روزانہ رات کو نیت کر لی جائے اگر رمضان کی پہلی رات میں یہ نیت کر لی کہ میں تمام رمضان کے روزے رکھوں گا تو یہ بھی ایک ضعیف روایت کی رو سے کافی ہے لیکن صبح پہلی ہی سورج پھر صبح صادق ہو جائے تو دن بھر سورج کے ڈوب جانے تک طعام شراب اور بہتری سے رک جانا ضروری ہے کسی سمت سے بھی کوئی چیز پیٹ کے اندر نہ جانے پائے اور روزے دار سینگیان نہ لگوائے اور نہ خود لگائے اور جان بوجھ کر کسی قے نہ کرے اور نہ منی نکالے اگر نہ کر رہ بالا باتوں میں سے کسی بات کا ارتکاب کر لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا لیکن سورج ڈوبنے تک روزے دار کو کھانے پینے سے رک جانا ضروری ہے اور اس پر روزے کی تقاضا لازم ہے البتہ اگر بہتری سے روزے کو خراب کیا ہے تو اس پر تقاضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے بہتری سے فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ: کفارہ یہ ہے کہ ایک سو



مسکینا واحد منهم مائة من طعام وهو رطل وثلث  
بالعراقی فیكون مائة وثلثة وسبعون درهماً و  
ثلث درهماً ونصف صاع من تمر او شعیران  
لم یجد ذلك فمن قوت بلده كما قلنا فی الفطرة فان  
لم یجد شيئاً سقطت عنه واستغفر الله عز وجل  
وتاب علیه واحسن العمل فی الثانی ویجتنب  
فی نهار رمضان الخلوة یا امرأة شابة  
والقبلة اهما وانكأبت ایضاً من تحل له  
او ذات محرم یعنی رحم ویجتنب السواک  
بعد الزوال ومضغ العلك وجمع ريقہ ثم  
بلعه وذوق الطعام عند الطبخ وغیره والغیبة  
والنمیمة والكذب والسب وغیر ذلك ویستحب  
له تعجیل الافطار الا فی یوم الغیم فتأخیر  
افضل وتأخیر السحور الا ان یكون ممن  
یغفی علیه ذلك ای طلوع الفجر والاولی  
له ان یفطر علی التمر او علی الماء ویدعو  
وقت الافطار لما روی عن النبی صلی الله  
علیه وسلم انه قال اذا صام احدکم  
فقدم عشاءه فلیقل بسم الله اللهم  
لك صمت وعلی رزقك افطرت سبحانک  
وبحمدک اللهم تقبل منا فانک انت  
السمیع العلیم

غلام آزاد کیا جائے جو تندرست و قوی ہو اور ان تمام عیبوں سے پاک  
ہو جو عورت میں رکاوٹ ڈالنے والے ہوں اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو  
تو در ماہ کے گناہ روزے رکھے جائیں اگر روزے بھی بس کے نہ ہوں تو  
ساتھ محتاجوں کو کھلا کھلا دیا جائے (مہر مسکین کو ایک مد غنہ دیدیا جائے ایک  
مد لہ صاع کی اور لہ ارطل کی برابر ہوتا ہے یعنی پندرہ صاع غنہ ساتھ  
مسکینوں میں برابر برابر باٹ دیا جائے یعنی ہر محتاج کو تقریباً ۱۱ چھٹانک  
دیدیا جائے) گھیسوں ہر محتاج کو بقدر لہ ۱۳ اور ہم کے دیدیا جائے یا ادھا  
صاع کھجور یا جو وغیرہ فی مسکین دے دئے جائیں یا جو غنہ روزے دار کے  
شتر میں کثرت سے استعمال ہو رہا ہو اسے بقدر نصف صاع کے فی مسکین دے  
دیدیا جائے جیسا کہ فطرہ میں بیان کیا جا چکا ہے لیکن اگر کسی شے کی بھی طاقت  
نہ ہو تو کفارہ ساقط ہو جائے گا اس صورت میں حق تعالیٰ شانہ سے معافی  
مانگ لی جائے، پر خلوص تو یہ کہہ لی جائے اور آمین والے رمضان میں انتہائی  
احتیاط برتی جائے علاوہ ازیں ماہ رمضان میں دن میں جوان عورت کے  
ساتھ خلوت نہ کی جائے نہ بوسہ لیا جائے اگرچہ عورت اس کے لئے حلال  
ہو یا محرمات ابدیہ میں سے ہو یعنی اس کا نکاح اس کے ساتھ حرام ہو۔  
روزے دار زوال کے بعد مسواک نہ کرے، گو ندر وغیرہ نہ چبائے اور  
مخموک جمع کر کے نہ ننگے اور نہ سالن کا نمک چکھے اور غیبت سے اجنبی سے  
جھوٹ سے اور گالی وغیرہ سے پرہیز کرے۔ روزے دار کو روزہ کھولنے  
میں سورج ڈوبتے ہی جلدی کرنی مستحب ہے البتہ ابرو والے دن قدرے  
تاخیر افضل ہے، اسی طرح سحری دیر کر کے کھانا مستحب ہے ہاں جیسے صبح  
صادق کے نمودار ہونے کی پہچان نہیں اگر وہ جلدی سحری کھالے تو کوئی  
خرچ نہیں، ادلی یہ ہے کہ روز کھجور سے اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے کھولا

جائے اور افطار کے وقت دعائیں مانگی جائیں اور بسم الله اللهم لك صمت وعلی رزقك افطرت پڑھ کر روزہ کھولا جائے کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا: جب  
روزے دار کے سامنے کھانا چن دیا جائے تو اسے بسم الله اللهم لك صمت وعلی رزقك افطرت پڑھ کر روزہ کھولنا چاہیے (صحیح حدیث میں اسی تذکرہ  
دعا ہے مگر مصنف نے جو روایت بیان کی ہے اس میں افطرت کے بعد یہ زیادہ ہے سبحانک و بحمدک اللهم تقبل منا فانک انت السميع العليم



# پوتھاباب

## اعتکاف

وینتخب له الاعتکاف ولا یکون الا فی مسجد یصلی فیہ بالجماعة اولی المساجد الجامع اذا کان ایاماً یتخللہا جمعة و یصوم بغیر صوم و اولی ان یکون بالصوم لانه اجتمع لهتمہ و اعون علی کسر نفسہ و البقی باشتقاق ما هو بصدد لان الاعتکاف هو حبس النفس فی مکان مخصوص و لزوم الشئ و المداومة علیہ قال اللہ تعالیٰ ما هذه التماثل التي انتم لها عکفون ط و هو من السنن الماثورة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاخیر من شهر رمضان ثم لم یزل علی ذلك حتی توفاه اللہ تعالیٰ برغب الصحابة الیہ فقال من اراد ان یعتکف فلیعتکف العشر الا و اخر فاذا اعتکف ینبغی له ان یتشاغل بفعل یقریبہ الی اللہ تعالیٰ من قراءۃ القرآن و التسمیج و التهلیل و التفکر و یجتنب ممالا یغنیہ من القول و الفعل و العمل و یلزم الصمت من غیر ذکر اللہ تعالیٰ و یجوز له التدریس و اقراء القرآن لان ذلک یتعدی نفعہ

روزے دار کے لئے اعتکاف میں بیٹھنا مستحب ہے، اعتکاف اسی مسجد میں ہوتا ہے جس میں جماعت سے ناز پڑتی جاتی ہو، اعتکاف کے افضل وہی مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے بشرطیکہ اعتکاف کے دنوں میں جمعہ کا دن بھی شامل ہو، اعتکاف روزے کے بغیر بھی صحیح ہے لیکن روزے کے ساتھ اولیٰ ہے کیونکہ یہ معتکف کے عزم کسر نفسی کے لئے خوب جامع و معاون ہے اور اس میں اس مقصد کے پورا کرنے کی پوری پوری صلاحیت ہے جو معتکف کے پیش نظر ہے۔

**اعتکاف کی تعریف** | اصل میں اعتکاف یہ ہے کہ انسان خود کو ایک مخصوص جگہ پر روکے رکھے اور کسی چیز کو چھٹ جائے اور اس پر پیشگی کرے حق تعالیٰ نے فرمایا: یہ مورتیاں کیا ہیں جن سے تم چپے ہوئے ہو۔

**اعتکاف سنت مسنونہ ہے** | اعتکاف ان سنتوں میں سے ہے جو رحمت عالم صلعم اور صحابہ کرام سے منقول ہیں کیونکہ نبی صلعم رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ حق تعالیٰ کو پیار سے ہو گئے اور آپ صحابہ کرام کو ان الفاظ میں اعتکاف کا شوق دلایا: جو اعتکاف کرنا چاہے اسے رمضان کے پچھلے عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، حالت اعتکاف میں ایسی عبادتوں میں مشغول رہنا لائق ہے جو اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والی ہوں جیسے تلاوت قرآن پاک، سبحان اللہ و الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ کی کثرت مراقبہ، حق تعالیٰ کے افعال و صفات میں غور و فکر وغیرہ۔ اور فضول و بے ہودہ قول، فعل اور عمل سے بچا جائے اور علاوہ ذکر اللہ کے خاموش رہا جائے معتکف کو قرآن و حدیث پڑھنا پڑھانا جائز ہے



الى غيرہ فهو اکثر ثواباً من اشتغاله بخاصة  
نفسه ويجوز له الخروج من معتكفه لئلا يبدله  
من الاغتسال من الجنابة والاكل والشرب  
وقضاء حاجته اللسان من البول والغائط  
وعند الخوف على نفسه والمرض الشديد و  
غير ذلك۔

## پانچواں باب

### حج

فاذا كملت في حقه شرائط الحج وجب عليه  
اداء الحج والعمرة على الفور وهو ان يكون  
لجداً اسلامه حراً عاقلاً بالغاً مستطيعاً  
بالزاد والراحلة وتخلية الطريق من عدو  
بينه وامكان السير اليه وهو التمتع  
الوقت لاداء الحج وصحة البدن للاستتمساك  
على الراحلة والاستطاعة بالزاد والراحلة  
انما يكون لجداً تحصيل النفقة لعياله الى  
ان يعود اليهم وانسكن لهم وقضاء  
الدين ان كانت عليه وان يكون له  
كفاية لجداً رجوعه من فضل مالي او اجرة  
عقار او بضاعة فان خالف وقصر بعياله  
وامتنع من قضاء دينه وخرج الى الحج كان مأثوماً  
مستحوطاً عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم

کیوں کہ ان کا نفع دو مردوں کو بھی پہنچتا ہے اس لئے اس میں ذاتی منفعت  
والی عبادت سے زیادہ ثواب ہے معتکف کو ان ضروریات کے لئے  
جن کے بغیر چارہ نہیں گذرے خلوت سے باہر آنا جائز ہے جیسے ناپاکی  
کی حالت میں غسل جنابت کے لئے، کھانے پینے کے لئے، بول  
براز کے لئے، یا کسی فتنہ میں پڑ جانے کا ڈر ہو، یا سخت  
بیماری کا ڈر ہو۔

حج کی شرطوں کی تکمیل کے بعد فرزند یا اسلام پر حج و عمرہ فوری طور پر فرض ہو جاتا ہے  
حج کی شرطیں آزاد، عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض  
ہے جو سامان سفر و سواری پر قادر ہو اور راستہ بھی پر امن ہو کہ دشمن وغیرہ برا  
نہ ہوں اور بیت اللہ تک پہنچنا ممکن ہو یعنی حج کے فرض ہونے کے بعد اتنا  
وقت مل جائے کہ حج ادا کیا جاسکے اور تندرست ہونے کا سواری پر ٹھہرنے کے  
اور سامان سفر و سواری کی استطاعت کے ساتھ ساتھ اہل و عیال کو اتنا  
خرچ دینے کی استطاعت ہو کہ وہ واپس آنے تک آرام سے گزر کر کہیں  
اور ان کی رہائش کا بھی انتظام ہو اور اگر قرض ہو تو اسے بھی ادا کرنے کی  
استطاعت ہو، واپس ہونے کے بعد بقدر ضرورت اس کے پاس مال یا زمین  
و جائداد کا کہ ایر یا سامان وغیرہ ہو۔ اگر مذکورہ بالا کسی شرط کے خلاف کیا اور  
اہل و عیال کے خرچ میں تنگی کی یا قرض ادا نہیں کیا اور حج کو چلا گیا تو گناہ گار  
ہو گا اور اس پر اللہ کا عصبہ ہو گا کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا: انسان کے لئے یہی  
ایک گناہ کافی ہے کہ جن کا خرچ اٹھاتا ہے انہیں ضائع کر دے اگر کسی  
شرط کے خلاف نہیں کیا اور حج کو چلا گیا حتیٰ کہ حج اور عمرے سے فارغ



كفي بالمرء اثماً ان يضيع من يقوته فان سلم  
 من المخالفة حتى فرغ من الحج والعمرة سقط عنه  
 الفرض. **فصل** فاذا ابلغ الميقات الشرعي  
 وهو ذات عرق ان كان من اهل المشرق والحجفة  
 ان كان من اهل المغرب وذو الحليفة ان كان من  
 اهل اليمن وقرن ان كان من اهل نجد يغتسل  
 ويتنظف او يتمم ان لم يجد الماء ويتزرد بازار  
 ويرتدي برداء ويكونان ابيضين نظيفين و  
 يتطيب ويصلي ركعتين ثم يحرم وينوي الاحرام  
 بقلبه ويلبي بالعمرة ان كان متمتعاً وهو الافضل  
 او بالحج المفرد او بالحج والعمرة جميعاً ويشترط فيقول  
 اللهم اني اريد العمرة او الحج او اياهما جميعاً  
 فيسردالك لي وتقبل مني وتحل حيث حبستني و  
 ويلبي وصفة التلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك  
 لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا  
 شريك لك يرفع بذلك صوته يقول ذلك بعد  
 الاحرام وعقيب الصلوة الخمس وفي اقبال الليل  
 والنهار والتقاء الرفاق واذا علا شرفاً او هيبط  
 وادياً او سنع مليباً وفي مساجد الحرام ولقاعه  
 ويملي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو  
 لنفسه بما احب اذا فرغ من التلبية.

**فصل** فاذا احرم لا يغطي راسه ولا بليس  
 الخفيف ولا الخفين فان فعل ذلك لزمه ذبح  
 شاة الا ان لا يجد الا ذار والتعلين ولا يتطيب  
 في بدنه وشيابه من انواع الطيب فان فعل

هو كذا تو فرض سے سبکدوش ہو جائے گا۔

**ميقات احرام** | شریعت نے احرام باندھنے کے لئے چند مقامات مقرر  
 فرمادئے ہیں جن کو ميقات کہا جاتا ہے یہ ميقات اہل مشرق کے لئے ذات  
 اہل مغرب کے لئے حجة، اہل مدینہ کے لئے ذو الحلیفہ، اہل یمن کے لئے یلم  
 اور اہل نجد کے لئے قرن المنازل ہیں۔

**احرام باندھنے کا طریقہ** | جب حاجی ميقات پر پہنچے تو خوب زور  
 کرنا لے یا پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرے اور تہ بند باندھ

لے اور چادر اوڑھ لے دونوں کپڑے سفید و صاف ہوں اور خوشبو  
 لگائے اور دو رکعت نماز ادا کرے اور دل میں احرام کی نیت کرے احرام  
 باندھ لے اور دل سے نیت کر لے ریح اور عمرنے میں زبان سے بھی  
 نیت مسنون ہے پھر یا تو اسے حج تمتع کا جو افضل ہے احرام باندھنا ہے یا  
 حج افراد کا یا حج قرآن کا، ہر حال میں شرط کر لے اور اس طرح زبان سے نیت

اے اللہ! میرا ارادہ عمرہ کا یا حج کا یا دونوں کا ہے اس لئے انہیں میرے  
 لئے آسان فرما اور میرا یہ عمل قبول فرما اور مجھے اسی جگہ حلال فرما دے جہاں تو  
 مجھے روک دے۔ تلبیہ: تلبیہ کا مشہور صیغہ یہ ہے لبيك اللهم لبيك  
 لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك  
 یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں

میں حاضر ہوں بلاشبہ اس مخصوص نعمت کا شکر تیرے لئے ہی ہے اور تمام ملک تیرا  
 ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں مذکورہ بالا تلبیہ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز  
 سے کہے اور بیچگانہ نمازوں کے بعد بھی اور دن کے اور رات کے شروع میں بھی اور  
 رفقاء سے ملاقات کے وقت بھی اور نشیب و فراز پر چڑھتے اترتے ہوئے بھی

اور دوسروں سے تلبیہ سن کر بھی اور حرم کی مسجدوں اور مقامات میں بھی  
 تلبیہ سے فارغ ہو کر نبی صلعم پر درود بھیجے اور اپنے لئے جو بھی دعا مانگنا چاہے مانگے

**احرام باندھنے کی سمیت اور اس کی شرطیں** | حالت احرام میں مرد  
 سر کھلا رکھے اور سلا ہو کپڑا اور موزے نہ پہنے ورنہ ایک بکری کی قربانی لازم ہے



ذٰلک متعمداً غسلہ و ذبح شاة و لا یقلما اظفارة  
 و لا یجلق راسہ فان قلم ثلثة اظفار او حلق  
 ثلث شعرات من راسہ او بدنہ فعلیہ ذبح  
 شاة فان کان دون ذٰلک ففی کل ظفر او شعرة  
 مد من طعام و لا یجقد النکاح لنفسہ و لغيرہ  
 و یجوز لہ الارتجاع و لا یشتر الزوجة و الامة  
 فی الفرج و دون الفرج فان فعل ذٰلک بطل  
 حجة اذا کان ذٰلک قبل رمی جمرة العقبة  
 و لا یستمنی و لا یکرر النظر فان فعل قامنی  
 فعلیہ الکفارة وھی ذبح شاة و لا یقتل الصيد  
 الماکول و ما تولد من ماکول و غیر ماکول  
 و لا یاکل ما صید لاجلہ او اشار الیہ او دل  
 علیہ او اعان علی ذبحہ مثل ان یمسکہ او  
 یعبیہ سکینا و نحو ذٰلک فان فعل فعلیہ  
 الجزاء مثله من النعم فان کان الصيد لغامة  
 فعلیہ بدنة و ان کان حمار و حش فعلیہ بقرة  
 و ان کان بقرة الوحش و اوعھا فعلیہ بقرة و ان کان غزالاً او  
 ثعلباً فعلیہ عنزة و ان کان صنباً فکبش و ان کان  
 ارنباً فعتاق و ان کان یرلوعاً فحضرة و فی الضب  
 جدی و فی الکبیر کبيرة و فی الصغیر صغیر علی  
 مثل ما قبل فی جمیع الصفات و ان کان ذٰلک حماماً  
 ففی کل واحد شاة فان لم یکن لہ مثل فقیستہ  
 یرجع فی معرفة ذٰلک الی قول عبدلین من المسلمین  
 و یجوز لہ ذبح الحيوان الالسی واکلہ و یجوز  
 لہ قتل کل ما فیہ مضرة کالحیة و العقرب و

آئے گی، اہل اگر تہمند اور خونایستری ہو تو رہلا ہو اکر ۱۱ اور موز سے جائز نہیں نہ  
 کسی طرح کی بدن پر یا کپڑوں پر خوشبو لگانے اگر جان بوجھ کر خوشبو لگانے کا  
 تول سے دھو کر ایک بکری کی قربانی دینی ہوگی، نہ ناخن کاٹنے اور نہ سر کے بال  
 منڈوانے اور نہ کتروائے اگر محرم نے تین ناخن کاٹ لئے یا تین بال منڈوا لئے  
 لئے یا کتروائے خواہ سر کے بال ہوں یا بدن کے تو ایک بکری کا ذبح کرنا ضروری  
 ہے اور اگر تین سے کم ہوں تو ہر ناخن یا ہر بال کے عوض ایک مدراپہ صاع  
 تقریباً ۱۱ چھٹانک) غلہ کسی محتاج کو دینا ہوگا۔ محرم نہ خود نکاح کرے اور نہ  
 نہ کسی کا نکاح کرانے، اہل نکاح کے سلسلہ میں بات چیت کر سکتا ہے۔ محرم اپنی  
 بیوی یا لونڈی سے مہبستری نہ کرے ورنہ احرام ٹوٹ کر حج خراب ہو جائیگا  
 بشرطیکہ مہبستری حجرہ عقبہ سے قبل کی گئی ہو۔

محرم تصدائی نہ لگے اور عورتوں پر بار بار نگاہ نہ ڈالے اگر اس نے بار بار  
 بار عورتوں کو دیکھا اور انزال ہو گیا تو اس پر کفارہ یعنی ایک بکری کی قربانی  
 لازم ہے اور جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا شکار نہ کرے اور ان کا  
 بھی جو ان سے پیدا ہوئے ہوں اور ان کا بھی جن کا گوشت حرام ہو محرم  
 اس شکار کا گوشت نہ کھائے جو اس کی وجہ سے کیا گیا ہو یا جس کی طرف محرم  
 نے اشارہ کیا ہو یا سے بنایا ہو یا جس کے ذبح کرنے پر اعانت کی ہو جیسے اسے  
 ذبح کرنے کے لئے پکڑ لیا ہو یا ذبح کرنے کے لئے چھری دیدی ہو یا اعانت  
 کے سلسلہ میں کوئی اور کام کیا ہو تو چوپایوں میں سے اسی شکار کی مانند قربانی  
 کرنی پڑیگی، جیسے اگر شتر مرغ ہے تو اس کی مانند ادنٹ ہے، اگر جنگلی گدھا  
 تو گائے ہے، اگر جنگلی گائے یا ہیل وغیرہ ہے تو گائے وغیرہ ہے، اگر ہرن یا  
 لومڑی ہے تو پہاڑی بکری ہے، اگر بچھو ہے تو مینڈھا ہے، اگر خرگوش ہے  
 تو بکری ہے، اگر جنگلی چوہا ہے تو بکری کا چارہ ماہہ پیچہ ہے، اگر گدھے ہے تو  
 جس عمر کی گدھے ہے اسی عمر کا بکری کا بچہ ہے اور اگر کبوتر ہے تو ہر ایک کے  
 بدلہ ایک بکری ہے، اگر بدل ممکن نہ ہو تو اس کی قیمت ادا کر دے قیمت  
 کا تعین دو مسلمان عادل گواہ کریں گے۔



کلب العقور والسبع والثور والذئب والفهد  
والفارة والغراب الابقع والحدأة والسبوات  
والزواجا والزنبور والبق والبراغیث والقراد  
والاوذاع والذباب وجیع حشرات الارض  
ویجوز قتل النملة عند الاذیة وكذلك القمل  
والصیبان فی احدی الروایتین والاخری علیه  
ان یتصدق بما مکن ولا یقتل صید الحرم فان  
قتله کان حکمة کما ذکرنا فی صید الاحرام ولا  
یقطع اشجار الحرم ولا یقلعها فان فعل ذلك ضمن  
الشجرة الکبیرة بیقرتة والصغیرة لبثاة و  
کذلك صید المدینة وشجرها یحرم علیه  
الا ان جزاءها سلب ما علیه من الثیاب  
ویکون ذلك حلالا لمن اخذة۔

**فصل** فان کان فی الوقت سعة ومکنه  
دخول مكة قبل یوم عرفة بایام فالستحب  
له ان یغتسل غسلًا کاملًا ویبذل خلعها من  
اعلاها فاذا ابلغ المسجد الحرام دخل من  
باب بنی شیبہ ویرفع یدیه عند رویة البیت  
ویقول اللهم انک انت السلام ومنک السلام  
حینا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البیت  
تعظیما وتشریفا وتکریمًا ومهابة وبراؤد  
من شرفه وعظمه عن حجه او اعتمک تعظیما  
وتشرفا وتکریمًا ومهابة الحمد لله کثیراً  
کما هرا هله وکما ینبغی لکرم وجهک و  
عزک وجلالک الحمد لله الذی بلغنی بیتہ

پالتو کٹائے جانے والے جانوروں کو محرم ذبح کر سکتا ہے اور ان کا گوشت  
بھی کھا سکتا ہے، محرم سر نقصان دہ اور مضر جانوروں کو جیسے سانپ، بھینس  
حمہ کرنے والے، اور زندہ، شیر، چیتا، بھیر یا پتندو، چوہا، چنگیر، کوا  
چیل اور انہیں اقسام کے دیگر جانور اور بھیر، پھیر، پسو، چیرٹی، گرگٹ،  
مکھی اور تمام حشرات الارض کو مار سکتا ہے اگر حیوانیاں آزار دہ ثابت  
ہوں تو انہیں بھی مار سکتا ہے ایک روایت میں جوں اور لیکھ کا مارنا بھی  
جائز ہے۔ محرم کو لائق ہے کہ مقدور بھر صدقہ کرے اور محرم کا شکار نہ کرے  
اگر کسی محرم نے محرم کا شکار کر لیا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو حالت  
احرام میں شکار کرنے کا ہے۔ محرم کے کسی درخت کو نہ کاٹا جائے نہ  
اکھاڑا جائے ورنہ بڑے درخت کے بدلہ ایک گائے کی قربانی اور چھوٹے  
کے بدلہ ایک بکری کی قربانی لازم آئے گی، یہی حکم محرم مدینہ کے شکار کا اور  
درختوں کا ہے کہ یہ بھی حرام ہیں مگر ان کی جزا بدن کے کپڑوں کا چھین لینا ہے  
اور وہ کپڑے چھیننے والوں کے لئے حلال ہیں۔

مکہ معظمہ کس وقت پہنچنا مستحب ہے؟ اگر وقت میں گنجائش ہو  
تو مکہ معظمہ میں حج سے چند روز پہلے پہنچ جانا مستحب ہے مکہ میں داخل ہونے  
کے لئے اچھی طرح سے غسل کرنا اور بلندی کی طرف سے داخل ہونا ادائیگی ہے  
پھر حرمت والی مسجد میں باب بنو شیبہ سے داخل ہو اور بیت اللہ کو دیکھ کر  
دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے اللهم انک انت السلام ومنک السلام حینا  
ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریمًا ومهابة وبراؤد  
من شرفه وعظمه عن حجه او اعتمک تعظیما  
وتشرفا وتکریمًا ومهابة الحمد لله کثیراً  
دائے اللہ بلاشبہ تو سلام (تمام عیوب و نقائص سے پاک) ہے اور تجھ ہی سے  
سلامتی ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اے اللہ  
اس گھر کی عظمت، شرافت، اکرامت، ہیبت اور بگی میں اضافہ فرما اور جنہوں  
نے اس گھر کا حج یا عمرہ کر کے اس کی عزت و عظمت کا اظہار کیا ان کی عظمت  
و شرافت اور عزت و ہیبت میں بھی زیادتی عطا فرما۔ میں اللہ کی شان کے لائق



ورائي لذ لك اهلا والحمد لله على كل حال اللهم  
 انك دعوت الى حج بيتك وقد جنناك له لذلك  
 اللهم تقبل مني واعف عني واصلم لي شافي كلفه  
 لا اله الا انت يرفع بذلك صوته ثم يطوف  
 للقدر ويضطبع بردائه فيكشف كتفه  
 الايمن وليستر الايسر ثم يتقدم الى الحجر الاسود  
 فيستلمه بيده ويقبله ان امكنه والا استلمه  
 وقبل يده فان زحما شرا بيده اليه ويقول  
 بسم الله والله اكبر اللهم ايماننا بك وتصديقنا  
 بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد  
 صلى الله عليه وسلم ويطوف على يمينه وهوان  
 يرجع الى باب البيت فيمضي الى الحجر الذي  
 عليه ميزاب البيت مسرعاً وهو سعي الشديدي  
 مع تقارب الخطأ حتى اذا بلغ الركن اليماني استلمه  
 ولم يقبله فاذا بلغ الحجر الاسود عد ذلك  
 شرطاً واحداً ثم يطوف كذلك ثانياً وثالثاً  
 قائل في جميع ذلك اللهم اجعله حجاً مبروراً  
 وسعياً مشكوراً وذنبا مغفوراً ثم يخفف مشية  
 ويقارب خطاه فيمشي على هيئته في الاربعة  
 الباقية ويقول فيها رب اغفر وارحم واعف  
 عما تعلم وانك اعز الاكرم اللهم ربنا  
 اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و  
 وقنا عذاب النار ويدا عوبما اراد من خير  
 الدنيا والآخرة وينبغي ان يكون نادياً كذلك  
 طاهراً من الاحداث والانجاس ساتراً العورة

کثرت سے اس کا شکر ادا کرتا ہوں جیسا شکر اس کی بزرگ ذات کے لئے اور  
 اس کی عزت و جلال کی شان کے شایان ہے اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے  
 اپنے گھر تک پہنچایا اور مجھے اس مقدس گھر کی زیارت کا اہل سمجھا ہر حال میں  
 اللہ ہی کے لئے ہر طرح کی عبادتیں ہیں اے اللہ تو نے ہمیں اپنے مقدس گھر  
 کی زیارت کی دعوت دی تھی آج ہم تیرے فرمان کی تعمیل کے لئے اس گھر کی  
 زیارت کے لئے حاضر ہو گئے ہیں اے اللہ مجھ سے میرا حج قبول فرما اور  
 میرے گناہ معاف فرما اور میری ہر گلی درست فرما تیرے سوا کوئی حق دار  
 عبادت نہیں۔ یہ دعا بلند آواز سے پڑھی جائے پھر حاجی طواف قدم  
 کرے اور اپنی چادر سیدھی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لے۔  
 اسے اضطباع کہتے ہیں اور سیدھا کندھا کھول لے اور بائیں ڈھکے  
 طواف کا طریقہ | اضطباع کر کے حاجی حجر اسود پر پہنچے اور اس پر  
 اگر ممکن ہو اپنا ہاتھ پھیرے اور ہونٹوں سے اسے چومے اگر چہ ممکن  
 نہ ہو تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لے اگر بہت بھیر ہو تو اپنے ہاتھ  
 سے حجر اسود کی طرف دوڑ ہی سے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اشارہ کرے  
 اور سیدھی طرف سے طواف کا آغاز یہ دعا پڑھتے ہوئے کرے اللهم  
 ايماننا بك وتصديقنا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد  
 صلى الله عليه وسلم یعنی اے اللہ میرا تجھ پر ایمان ہے میں تیری کتاب کو  
 سچا مانتا ہوں اور میں نے تجھ سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کر دیا ہوں اور  
 تیرے نبی محمد صلعم کی پیروی کر رہا ہوں اس طرح حاجی حجر اسود سے دوڑ کر  
 (حالت رمل میں) باب بیت الحرام سے گزرتا ہوا احطیم سے جس میں بیت اللہ  
 کا پرنا لگتا ہے گزرے گا رمل قریب قریب قدم رکھ کر دوڑنے کو  
 کہتے ہیں اور رکن یمانی تک پہنچ کر اس پر ہاتھ پھیرے گا اسے چومے گا نہیں  
 پھر حجر اسود تک پہنچ جائے گا اسی طرح ایک شرط دیکھ لو راہو حاجی  
 اسی طرح دو سر اور تیسرا چکر پوزا کرے گا اور یہ دعا پڑھتا رہے گا اللهم  
 اجعله الخ اے اللہ میرا حج قبول فرما اور میری ساری گناہوں کو معاف فرما اور میرے گناہ



لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطواف  
 بالبیت صلوة الا ان اللہ تعالیٰ ابا حکم فیہ  
 النطق فاذا فرغ من ذلك صلی رکعتین خفیفین  
 خلف مقام ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام  
 فیقرأ فی الادوی لبعث الفاتحتہ قل یا ایہا الکفرون  
 و فی الثانیۃ قل هو اللہ احد ثم یرجع الی الحجر  
 الاسود فیستلمہ ثم یرجع الی الصفا من بابہ  
 و یرقی علیہ الی حیث یمکنہ رویۃ الکعبۃ  
 ثم یرکب ثلاثا ویقول الحمد للہ علی ما هدانا  
 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ  
 صدق وعدہ و نصر عبدہ و ہزم  
 الاحزاب و حلہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد  
 الا یتیمہ خلمین لہ الدین و لورکیرہ الکافرون  
 ثم ینزل ویلبی و یدعو ثانیاً و ثالثاً ثم ینزل  
 ما شیا حتی یکون بینه و بین المیل الاخضر  
 المتنصب عند المسجد ما قدرہ سنتہ اذرع  
 ثم یرفع فی المشی حتی یرتفع الی المیلین الاخضرین  
 ثم ینحرف مشیۃ الی ان یرتفع المروۃ فیرقی علیہا  
 فیفعل کما فعل علی الصفا ثم ینزل و یشی فی  
 مرفع مشیمہ و لیسعی فی مرفع سعیمہ الی ان یرتفع  
 الی الصفا ثم یرکب لک فیعد سبعاً یسجد و بالمصفا  
 و یختم بالمروۃ و ینبغی ان یکون متطہراً  
 کما ذکرنا فی الطواف بالبیت فاذا فرغ من  
 ذلك حلق او قصر ان کان متمتعاً و لہ ینک  
 قد ساق ہدیاً و فعل ما یفعل الحلال فاذا

معاف فرما پھر باقی چار چکر چل کر بلازل کے پوزے کر لے اور ان میں یہ دعا  
 پڑھے رب اغفر الخ لے پروردگار مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور میرے  
 وہ گناہ بھی معاف فرما دے جن کو تو جانتا ہے۔ تو انتہائی معزز و بزرگ  
 ہے اے اللہ سے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی  
 عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اس دعا کے علاوہ جو دعا  
 چاہے مانگے جس میں دنیا اور آخرت کی کھلائی ہو۔

**طواف قدوم کرنے والے کو کس حال میں ہونا مناسب ہے؟** طواف

قدوم کرنے والا ہر قسم کی لمبیدی سے پاک ہو، بارخند ہوا اور ہلوس ہونگے نہ ہو کہ  
 نبی صلعم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز ہے مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو  
 بولنا مباح فرما دیا ہے۔

**دو گناہ طواف** | طواف کے سات چکر پورے کر کے مقام ابراہیم کے چمچے  
 جا کر دو ہلکی رکعتیں پڑھ لے پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد قل یا ایہا الکافرون  
 اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے پھر حجر اسود پر پس  
 آکر اس پر ہاتھ پھیرے۔

**سعی کرنے کا طریقہ** | پھر باب صفا سے نکل کر صفا پر پہنچ جائے اور  
 اس پر اس تند چڑھ جائے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے، پھر بیت اللہ کی  
 طرف دیکھ کر آئین بار اللہ اکبر پڑھے کہ یہ دعا پڑھے الحمد للہ الخ یعنی اللہ ہی  
 کے لئے تعریفیں ہیں کہ اس سے نہیں ہدایت نصیب فرما لے اللہ کے سوا کوئی حقدار  
 عبادت نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے  
 بندے کی مدد فرمائی اور خجاعتوں کو اکیلے نہ شکست دی اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت  
 نہیں ہم اسی کی عبادت کرتے اور اسی کے لئے پر خلوص عمل کرتے ہیں اگرچہ کافروں  
 کو ناپسند ہوں پھر صفا سے قدرے اترے اور لبیک کہے اور دوسری بار  
 دعاناگے پھر ذرا نیچے اترے اور تیسری بار دعاناگے پھر صفا سے باکل اتر کر  
 معمولی رفتار سے آگے بڑھے حتیٰ کہ حاجی کے اور سبزیل کے بزم مسجد کے پاس  
 ہے بقدر ۶ ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے پھر دونوں سبزیلوں کے درمیان درڑے



كان يوم التزوية وهو الثامن من ذي الحجة احرم من مكة للحج  
 نياتي من ان يفتلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وببيت  
 برعائم يصلي الصبح فاذا الملت الشمس دفع مع الناس الى  
 الموقف بعرفة فاذا زالت الشمس خطب الامام خطبة يعلم الناس  
 فيها ما ينبغي ان يفعلوا من الوقوف وموقفه ووقته ودفعه من  
 عرفات والصلوات بزلفة والمبيت بها وغير ذلك من رمي الجمار  
 والنحر والحلق والطواف بالبيت ونام الامام فيعي ما يقول ثم يصلي  
 الامام الظهر والعصر مجتمعا بينهما باقامة لكل صلوة ثم تقدم الى جبل  
 الرحمة والنفحات بقرب الامام ليستقبل القبلة فيقف هناك و  
 يجتهد في الدعاء والثناء على الله عز وجل وينبغي ان يكون اكثر  
 ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد  
 يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شئ قدير  
 اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا  
 ليروى امرى فان فاتته الوقوف مع الامام نهارا وادركه  
 بعد خروج الامام من الموقف قبل ان يطلع الفجر الثاني  
 من ليلة النحر فقد فاتته الوقفة والافتق فباته الحج فاد  
 دفع مع الامام الى طريق مزدلفة يكون على التودعة  
 والبكون والوقار فاذا وصل مزدلفة صلى مع الامام بها  
 المغرب والعشاء جماعة او منفردان فانتد مع الامام ثم  
 حط رحله فيبيت هناك وياخذ منها حصي الجمار ومن  
 حيث يسر له ذلك وعد لا سبعون حصاة وقد رآه ان يكون اكثر  
 من الحصص واصغر من الفصدف وليستحب ان يفسله ثم يصلي  
 الفجر اذا اصبح ويجتهد ان يغلس برعائم ياتي المشعر  
 الحرام فيقف عند لا فيكثر الحمد لله والثناء  
 عليه والتهيل والتكبير والدعاء والادلى

پھر معمولی رفتار سے چل کر مردہ پر چڑھ جائے اور جو کچھ صفا پر کیا تھا وہی مردہ  
 پر کرے پھر مردہ سے اتر کر معمولی رفتار سے صفا کی طرف بڑھے اور دونوں سنبھ  
 میلوں کے درمیان دوڑے پھر معمولی رفتار سے صفا پر چڑھ جائے اسی طرح  
 سات چکر لگائے صفا سے صفا تک دو چکر ہیں یعنی صفا سے مردہ تک پورا ایک  
 چکر ہے اور مردہ صفا تک پورا دو چکر ہے اسی طرح سات چکر پورے کرے  
 سعی صفا سے شروع ہوگی اور ساتواں چکر مردہ پر ختم ہو جائے گا طواف کی  
 طرح سعی میں بھی با وضو ہونا اولیٰ ہے پھر اگر صاحب نیت ہے اور قربانی ساتھ  
 نہیں ہے تو سعی سے فارغ ہو کر سر منڈالے یا کتر والے اور احرام کے کپڑے  
 اتار دے اب وہ حلال ہے۔

**منیٰ کو روانگی |** پھر یوم التزویۃ (ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ) کو  
 مکہ ہی سے اپنی قیامگاہ سے حج کا احرام باندھ لے اور منیٰ میں ظہر عصر  
 اور عشاء پڑھے اور منیٰ ہی میں رات گزارے پھر منیٰ ہی میں صبح کی نماز پڑھے  
**عرفات کو روانگی |** پھر سورج نکلنے کے بعد لوگوں کے ساتھ عرفات میں  
 جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں چلا جائے زوال کے بعد امام لوگوں کو ایک خطبہ دیکھا  
 جس میں انہیں وقتی ضروری مسائل بتائے گا جیسے عرفات میں قیام کرنا،  
 موقف میں ٹھہرنا، قیام کا وقت، عرفات سے روانگی کا وقت مزدلفہ میں  
 جا کر مغرب و عشاء کو جمع کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، مزدلفہ سے  
 منیٰ روانہ ہونا، منیٰ میں جا کر شیطانوں پر کنگریں مارنا، قربانی کرنا، سر  
 منڈانا اور طواف افاضہ کرنا وغیرہ کہ امام یہ تمام بتائے گا۔ حاجی امام کے  
 قریب رہے اور پوری توجہ سے مسائل سن کر یاد رکھے پھر امام کے ساتھ ظہر و  
 عصر ملا کر دو اتانتوں کے ساتھ پڑھے پھر جبل رحمت و جبل صخرات کی  
 طرف امام کے قریب جائے اور قبیلہ کی طرف رخ کر کے وہیں کھڑا ہو جائے  
 اور پوری مرگمی اور تندہی سے دعاء و ثنا میں مشغول ہو جائے۔  
**موقف کی دعائیں |** مناسب تو یہ ہے کہ کثرت سے مندرجہ ذیل دعائیں  
 پڑھے (ہم محض ترجمہ کئے دیتے ہیں دعائیں سن میں مذکور ہیں)



ان يقول في دعائه اللهم كما اذقتنا فيه واريتنا  
ايلا فوفقنا الذكر كما هديتنا واغفر لنا و  
ارحنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فاذا  
افضتم من عرفات الى قوله تعالى غفور رحيم  
واذا صاء النهار واسفر رفع الى منا واسرع في  
وادي محسر فاذا وصل الى وادي منى رعى جمرة  
العقبة بسبع حصيات مكبراً في اثر كل حصاة  
رافعا يديه حتى يري بياض الطية كما روى عن النبي  
صلى الله عليه وسلم انه رعى كذلك وسكت  
عن التلبية عند اول حصاة يومئذ ويكون  
رمية هذا الجد طلوع الشمس وقبل الزوال وفيها  
بعد من ايام الترتيق بعد الزوال فاذا رعى خسر  
هدياً ان كان معه وحق او قصر جميع راسه  
وان كانت امرأة تقصر من شعرها بقدر الانملة  
ثم يفيض الى مكة ويغتسل ويتوضأ فيطوف  
طواف الزيارة ويعينه بالنية ويصلي ركعتين  
خلف المقام فاذا فرغ سعى بين الصفا والمروة  
ان اراد ان السعي قد سقط عنه بمفعله في طواف  
القدم ثم قد حل له كل شئ من مخطورات  
الاحرام و صار حلالاً كما كان قبل الاحرام  
ثم يتقدم الى زمزم فيشرب من ماءها فيقول  
عند شربه لبسم الله اللهم اجعله لنا  
علماً نافعاً ورزقاً واسعاً ودرياً وشفعاً وشفاءً  
من كل داء واغسل به قلبي واملا لا من  
خشيتك ثم يرجع الى منى فيبيت بمهاتلث

اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں وہ تمہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریفیں ہیں وہی حیات و موت عطا کرتا ہے وہ زندہ ہے اسے فنا نہیں اسی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اے اللہ میرے دل میں نور میری آنکھوں میں نور اور میرے کانوں میں نور عطا فرما اور میرے کام میں آسانی فرما۔ پھر اگر دن میں امام کے ساتھ قیام نہ مل سکے اور امام کے عرفات سے روانہ ہونے کے بعد دو سو یا تا بیخ کی صبح صادق سے پہلے پہلے مزدلفہ میں امام کے ساتھ جائے تو جاگ سے محض و قوت عرفات فوت ہوا اور اگر مزدلفہ والی شب میں بھی امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا تو حج ہی فوت ہو گیا۔ عرفات سے امام کے ساتھ جانے وقت مزدلفہ کے راستے میں آرام سے سکون و اطمینان کے ساتھ روانہ ہو کر پھر مزدلفہ پہنچ کر امام کے پیچھے مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھے اور اگر جماعت نہ ملے تو تنہا پڑھے پھر اپنی سواری کھول دے اور مزدلفہ ہی میں رات گزارے اور یہیں سے سنگریزے شیطانوں پر مارنے کے لئے چن لے یا جہاں سے آسانی سے بلیں رہاں سے اٹھائے سنگریزوں کی تعداد ستر ہونی چاہیے ہر سنگریزہ چنے سے بڑا اور آخر ڈٹ سے چھوٹا ہونا چاہیے سنگریزوں کو دھونا مستحب ہے پھر مزدلفہ میں صبح کی نماز اذنیہ سے میں صبح صادق ہوتے ہی پڑھے پھر کدہ مشعر الحرام پر آئے اور وہاں ٹھہر جائے اور کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے اور خوب خوب دعائیں مانگے۔ دعایہ ادنیٰ سے اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ مقام دکھایا اسی طرح اپنی ہدایت کے مطابق ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما جیسا کہ تو نے اپنے اس قول سے وعدہ فرمایا۔ ہے (اور تیرا قول بالکل سچا ہے) کہ جب تم عرفات سے روانہ ہو تو کدہ مشعر الحرام کے پاس ذکر اللہ کرو اور اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تم کو ہدایت فرمائی



لیال فیرمی الجمرات الثلث فی ایام التشریق علی  
 ما ذکرنا کل یوم باحدی وعشرین حصیة  
 کل جمرة سبع حصیة فیبد ابا الجمرة  
 الاولی وهی العبد الجمرات من مكة مایل  
 مسجد الخیف فیجعلها عن یسارہ ویستقبل  
 القبلة فاذا رماها تقدم عنها یسیر البید یصیبہ  
 حصی غیرہ فیقف هناك داعی اللہ عزوجل بقدر  
 فراءة سورة البقرة ان امکنه ثم یرمی الجمرة  
 الوسطی فیجعلها عن یمنہ ویستقبل القبلة  
 فیدعو کالاولی ثم یرمی بجمرة الاخیرة وهی  
 جمرة العقبة فیجعلها عن یمنہ وینزل الی  
 الرادی یکون مستقبلا الی القبلة ولا یقف  
 هناك ثم یفعل فی الیوم الثانی الثالث كذلك  
 وان احب ان یتعجل ولا یرمی فی الیوم الثالث  
 دفن ما بقی معه من الحمی هناك ویخرج  
 قاصدا الی مكة فیاتی الابطح فیصلی هناك  
 الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ینام  
 یسیرا ثم یدخل مكة فیقیم بها وغیرها  
 کالزاهر والابطح واذا اراد ان یدخل البیت  
 یکون حافیا ویصلی فیہ لفلان ویشرب من ماء  
 زمزم ویزتری منه وینوی ما احب من العلم  
 والمغفرة والرضوان لقوله علیه السلام  
 ماء زمزم لما شرب له ویكثر الاعتماد  
 والنظر الی الکعبة لماروی فی بعض الاخبار  
 ان النظر الیها عبادة ثم لا یخرج حتی یورد

اگر چہ تم اس سے پہلے بالکل ہی جاہل تھے پھر وہیں سے روانہ ہو جہاں  
 لوگ روانہ ہوئے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو بلاشبہ اللہ خوب بخشنے والا  
 اور انتہائی مہربان ہے پھر جب اجالا ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے  
 منیٰ کے لئے روانہ ہو جائے اور وادی عسیر سے تیزی سے نکل جائے اور  
 منیٰ میں پہنچ کر تلبیہ موقوف کر کے جمرہ عقبہ پر سات کنکریں مارے اور  
 ہر کنکر مارنے کے بعد دونوں ہاتھ اس قدر اوپر اٹھائے کہ بغلوں کی  
 سفیدی نظر آجائے اور اللہ اکبر کہے جیسا کہ سرور عالم صلعم سے منقول ہے  
 کہ آپ نے اسی طرح کنکریں ماریں پہلی کنکر پر ہی تلبیہ موقوف کر دے  
 یہ رمی سورج نکلنے کے بعد اور زوال سے قبل ہونی چاہیے اور ایام تشریق  
 میں زوال کے بعد ہونی چاہیے سنگریز سے مار کر اگر قربانی ہے تو اسے  
 ذبح کر دے اور تمام سر کے بال منڈوا لے یا کتر والے اور عورت بقدر  
 تین پوزوں کے بال کاٹ لے پھر کہہ جا کر غسل کر کے وضو کرے اور  
 نیت کر کے طواف زیارت کرے پھر مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کا دو گانہ  
 ادا کرے پھر اگر چاہے تو صفائے درمیان سعی کرے کیونکہ سعی طواف  
 قدم ہیں کرنے کی وجہ سے لازم نہیں پھر احرام کھول ڈالے اب حاجی  
 کے لئے ہر چیز حلال ہے جو احرام میں حرام تھی پھر زمزم پر جا کر خوب  
 سیراب ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اور یہ دعا پڑھ کر تین سالوں میں  
 آب زمزم پیئے۔

آب زمزم پینے کی دعا | بسم اللہ اللہم اجعلہ لنا علما نافعا و رزقا و  
 الخ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ سے ہمارے لئے نفع بخش علم فرا  
 رزق سیراب دیری اور ہر بیماری سے شفا بنا اور اس سے ہمارا دل  
 دے اور اسے اپنے ڈر سے بھر دے۔ پھر منیٰ لوٹ جائے اور وہاں  
 تین راتیں گزار دے اور ایام تشریق میں ہمارے بیان کے مطابق روزانہ  
 تینوں شیطانوں پر سات سات کنکریں مارے۔ ابتداء جمرة اولی سے  
 کرے جو مسجد خیف کے قریب ہے اور کہ سے تمام جمرات سے دوڑے۔



البیت فیطرف بہ سبعا ثم یقف بین الرکن  
والباب ویذعر ویقول اللہم هذا بیتک و  
انا عبدک وابن عبدک وابن امتک حملتني  
على ما سخرت لی من خلقک وسیرتني فی  
بلادک حتی بلغتني بنعمتک واعنتني على قضاء  
نسکي فان كنت رضیت عني فاذا دعيت رمضان  
والا فمق على الان قبل تباعدی عن بیتک  
هذا والعرافی ان اذنت لی غیر مستبدل  
بک ولا ببیتک ولا داعب عنک ولا عن  
بیتک اللہم فاصبحنی العافیة فی بدنی  
والصحة فی جسمی والعصمة فی دینی  
واحسن منقلبی وارزقنی طاعتک ما  
القیبتنی واجمع لی خیر الدنیا والاخرة انک  
على کل شیء قدير وما زاد علی ذالک من  
الدعاء من خیر الدنیا والاخرة کان حسنا  
ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
ولم یقیم بعد ذالک تبکة فان اقام  
اعاد الطواف والاذبح شاة۔

فصل فی طواف بیتک  
الوقفۃ لعرفات فان احرم من البیقات بدء  
لعرفات فوقف هناك ثم دفع منها بعد  
غروب الشمس فیفعل ما قلنا من البیتوتة  
بزدلفة ثم الرمی بمہنی ثم اذا دخل مكة  
طاف طوافین نبوی بالاول القدوم والثانی  
الزیارة ثم یسعی بین الصفا والمروة ثم

حاجی جبرہ اولی کو اپنے بائیں طرف کرے۔ اور قبلہ رخ کھڑا ہو پھر اس جگہ سے  
جس جگہ کھڑا ہے ذرا آگے بڑھ جائے تاکہ دوسرے کے سنگریزوں سے محفوظ  
رہے اور اگر ممکن ہو تو وہاں اتنی دیر کھڑے ہو کہ دعائیں مانگے جتنی دیر سوچو  
بقرہ کی قرأت میں لگتی ہے پھر درمیانی شیطان پر سنگریزے مارے اور اسے اپنے  
دائیں کر کے قبلہ رخ کھڑا ہو اور حسب سابق یہاں بھی دعائیں مانگے پھر اخیر کے  
شیطان پر اسے اپنی دائیں جانب کر کے وادی عقبہ میں قبلہ رخ کھڑے ہو کہ  
کنکریں ماریں اور یہاں نہ ٹھہرے پھر دوسرے اور تیسرے دن بھی اسی طرح شیطان  
پر کنکریں مارے اگر سنی سے جلدی جانا پسند کرے اور تیسرے دن کنکریں مارنا نہ  
چاہے تو اپنے پاس والے سنگریزوں کو جو چاہے گئے ہیں زمین میں دفن کر دے اور  
مکہ کے لئے روانہ ہو جائے اور اہل بیت کو وہاں ظہر عصر مغرب اور عشاء پڑھے  
پھر تھوڑی سی دیر سو کہہ میں داخل ہو پھر مکہ میں یا اس کے گرد و نواح میں  
جیسے زاہرہ اہل بیت میں ٹھہر جائے از جب بیت اللہ میں جانے کا ارادہ کرے تو  
نگے پیر ہو کر داخل ہو اور اس میں نوافل پڑھے اور آب زمزم پیے اور خوب  
سیراب ہو کر پیئے اور زمزم پیئے وقت علم مغفرت اور رضائے ربانی کی نیت  
کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اس چیز کے لئے ہے جس کے لئے  
پیا جائے اور اپنا پورا پورا دھیان اور نگاہ بیت اللہ کی طرف رکھے کیونکہ ایک  
حدیث میں ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے پھر کہ سے روانہ نہ ہو جب تک  
بیت اللہ کو رخصت کرنے کے لئے طواف و دواع نہ کرے پھر حج اسود اور آب  
کعبہ کے درمیان آکر کھڑے ہو کہ دعائیں مانگے اور کہے: اے اللہ تیرا گھر ہے اور  
میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور لونڈی کا بیٹا یا بیٹی ہوں تو نے اپنی  
ایک مخلوق کو میرے تابع بنا کر اس پر مجھے سوار کیا اور مجھے اپنے شہروں کی سیر  
کراتے کراتے اپنے فضل و کرم سے مکہ تک پہنچایا اور حج کے احکام ادا کرنے پر میری  
اعانت فرمائی پھر اگر تو مجھ سے راضی ہے تو اپنی رضا میں اور امانت فرما اور اگر  
اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہے تو قبل اس کے کہ میں تیرے اس گھر سے دور ہو جاؤں  
جاؤں اور واپس چلا جاؤں مجھ پر احسان فرما اور اب مجھ سے راضی ہو جاؤں



يجد له كل شئ ثم يعوراني مني للرحي في  
الايام الثالث ثم يتم الافعال على ما  
تقدم ذكره -

**فصل** وصفة العمرة ان يحرم لها  
من الميقات الشرعي الذي تقدم ذكره  
بعد ان يغتسل ويتطيب ويصلي ركعتين  
فيطوف بالبیت سبعاً وليسعى بين الصفا  
والمروة وليقصر او يخلق ثم يجل منها ان  
لم يكن ساق هدياً وان كان بسكة خرج  
الى النعيم فيحرم منه فيفعل كذلك -

**فصل** ولا يبطل الحج الا بالطوف في الفرج او  
بدون الفرج مع الانزال واركان الحج اربعة  
الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي و  
عن الشيم رحمه الله لها ركنان احدهما  
الوقوف بعرفة والثاني الطواف بالبیت  
والصحيح الاول فاذا ترك واحد من هذه  
الاركان كان حجه ناقصاً وعليه الاتيان  
به اما في سنته واما في العام المستقبلي ياتي  
به محرماً ولا يجزى دم بعال واما واجباته  
فخسنة وهي المبيت بمزدلفة الى ما بعد  
نصف الليل والمبيت ببني والرحى والحلاقة  
وطواف الوداع فان ترك واحداً منها جبراً  
بدن وهو شاة كما قلنا في ترك الواجبات  
في الصلوة يجزى بسجود السهو واما مسنوناً  
فخسة عشر وهي الاغتسال للاحرام ولدخول

اگر تو نے اپنا گھر چھوڑنے کی مجھے اجازت دی ہے تو مجھے اس حال میں رخصت  
فرما کہ میں تجھے چھوڑ کر کسی اور کا دامن نہ پکڑوں اور نہ تیرا گھر چھوڑ کر کسی اور  
گھر کی تڑپ رکھوں اے اللہ میرے بدن میں عافیت میرے جسم میں ندرستی اور  
میرے دین میں طہارت و پاکی عطا فرما - اور میری دایسی خوبصورت بنا اور  
جب تک تو مجھے زندہ رکھے اپنی اطاعت پر قائم رکھو اور مجھ میں دنیا اور آخرت  
کی تمام بھلائیاں جمع فرما بلاشبہ تو ہر چیز پر خوب قادر ہے علاوہ ازیں اگر  
دین و دنیا کی ہر سعادت کی دعا مانگے تو چھاپے پھر نبی اکرم صلعم پر درود  
بھیجے اور طواف و داع کے بعد کہ میں نہ ٹھہرے اگر ٹھہر گیا تو طواف ٹوٹانا  
پڑے گا ورنہ دم (بکری) لازم آئے گا -

**تنگ وقت پر مکہ پہنچنا** | اگر محرم کہ معظمہ ایسے وقت پہنچے کہ وہ  
عرفات فوت ہو جائے گا ڈر ہے تو میقات مقررہ سے احرام باندھ کر سیدھا  
عرفات جائے اور عرفات سے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ جا کر وہاں رات  
گزارے پھر منیٰ میں آ کر شیطانوں پر کنکریں مارے پھر جس وقت مکہ جائے تو  
دو طواف کرے پہلے طواف میں طواف قدوم کی نیت کرے اور دوسرے  
طواف میں طواف زیارت کی پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرے سعی کے  
بعد اس کے لئے ہر چیز حلال ہو جائے گی پھر تین دن منیٰ میں شیطانوں پر  
کنکریں مارنے کے لئے گزارے اور کنکریں اسی طرح مارے جس طرح ادب پر  
بیان کر چکا -

**عمرہ کس طرح کیا جائے؟** | عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ نہادھو کر اور خوشبو  
لگا کر مقررہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھا جائے اور دو گانہ ادا کیا  
جائے پھر مکہ معظمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کر کے صفا مروہ کے درمیان  
سعی کی جائے پھر سر کے بال کتروائے جائیں یا منڈوائے جائیں پھر اگر  
محرم قرظانی نہیں لایا ہے تو عمرہ کا احرام کھول ڈالے - اگر مکہ میں ہو تو  
کوہ تنعیم پر جا کر وہاں سے عمرہ کا احرام باندھے اور طواف سعی کر کے  
اور سر منڈوا کر حلال ہو جائے -



مكة وللوقوف بعرفة وللبيت بمزدلفة ولرحى  
الجبار ايام منى ولطواف الزيارة ولطواف  
الوداع والثاني طواف القدوم والثالث الرمل  
والرابع الاضطباع في الطواف والسعي واستلام  
الركنين والتقيل والارتقاء على الصفا والمروة  
والمبيت بمنى ثلثا والوقوف على المشعر الحرام  
والوقوف عند الجمرات الثلاث والخطب  
والاذاكروشد السعي في مواضعه والمشبي في  
مواضعه وركعتا الطواف فان ترك هذه  
الاشياء ادا واحد منها كان تاركا لافضل  
ولا شئ عليه.

مہبتسری سے حج باطل ہو جاتا ہے | صحبت سے بشرط انزال حج باطل  
ہو جاتا ہے خواہ شرمگاہ میں ہو یا کسی اور جگہ۔ ارکان حج : حج کے ارکان  
چار ہیں میقات سے احرام باندھنا، عرفات میں قیام کرنا، طواف زیارت  
کرنا اور صفا مزدہ کے درمیان سعی کرنا، شیخ سے مروی ہے کہ حج کے صرف دو  
رکن ہیں عرفات میں قیام کرنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا لیکن صحیح یہ ہے  
قول ہے لکن ان چاروں رکنوں میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو حج ناقص  
رہے گا اور حاجی پر واجب ہے کہ اسی سال یا آئندہ سال احرام کے ساتھ  
حج ادا کرے بہر حال دم دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوگی۔

واجبات حج | حج میں پانچ چیزیں واجب ہیں مزدلفہ میں آدمی رات  
کے بعد تک رات گزارنا منیٰ میں رات گزارنا، شیطانوں پر لنگریں  
مانا، سر منڈانا اور طواف و دواع کرنا۔ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے

تو اس کی تلافی دم (ایک بکری کی قربانی) سے ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اگر نماز میں واجب ٹٹے چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سہو کے دو سجدوں سے  
ہو جاتی ہے۔ سنن حج : حج میں پندرہ سنتیں ہیں احرام کے لئے، مکہ میں داخل ہونے کے لئے، عرفہ میں قیام کے لئے، مزدلفہ میں رات گزارنے  
کے لئے، ایام منیٰ میں شیطانوں پر لنگریں مارنے کے لئے، طواف زیارت کے لئے اور طواف و دواع کے لئے غسل کرنا (۲) طواف قدوم (۳) رمل (۴) طواف  
دوسی میں اضطباع کرنا (۵) بوقت طواف سعی کرنا (۶) رکن بیانی اور حجر اسود پر ہاتھ پھیرنا (۷) حجر اسود کو چومنا (۸) صفا مزدہ پر چڑھنا (۹) تین راتیں  
منیٰ میں گزارنا (۱۰) گوہ شعر الحرام پر کھڑا ہونا (۱۱) لنگریں مارتے وقت تینوں شیطانوں کے پاس کھڑا ہونا (۱۲) خطبہ و ذکر سننا (۱۳) مقامات سعی  
میں سخت سعی کرنا (۱۴) معمولی رفتار والے مقامات پر معمولی رفتار سے چلنا (۱۵) اور طواف کے بعد دو گنا نداء کرنا اگر مذکورہ بالا سنتوں میں سے ایک یا  
ایک سے زیادہ سنتیں چھوٹ جائیں تو افضل ٹٹے سے ترک عمل لازم آئے گا لیکن حج میں نقص نہیں آئے گا۔

عمرہ کے ارکان | عمرہ کے ارکان تین ہیں (۱) احرام (۲) طواف (۳)  
عمرہ کے واجبات : عمرہ میں صرف سر منڈانا واجب ہے۔  
سنن عمرہ : احرام کے وقت غسل کرنا اور طواف سعی کرتے ہوئے  
سنون اذکار و دعائیں پڑھنا۔ سنتوں کے چھوٹنے  
کا حکم ہم حج کی سنتوں کے چھوٹنے میں بیان کر  
آئے ہیں۔

مسجد نبوی میں داخل ہونے کی دعا | اگر حاجی اللہ کے فضل و کرم سے

فصلے واما العمرة فاركانها ثلاثة الاحرام  
والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة  
وواجباتها الحلاق فحسب واستناتها الغسل  
عند الاحرام والادعية والاذكار المشروعة  
في الطواف والسعي وقد بينا الحكم في  
تركها في الحج۔

فصلے فاذا من الله تعالى بالعافية وقدم



المدينة فالستحب له ان ياتي مسجد النبي صلى  
الله عليه وسلم فليقل عند دخوله المسجد  
اللهم صلى على سيدنا محمد  
وعلى آل سيدنا محمد وافتم لي ابواب  
رحمتك وكف عني ابواب رحمتك الحمد لله  
لله رب العالمين ثم ياتي القبر ويكون  
مجداً لهم بينه وبين القبلة ويجعل جدار  
القبلة خلف ظهره والقبرا امامه تلقاء وجهه  
والمنبر عن يساره وليقم مما يلي المنبر وليقل  
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته  
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت  
على ابراهيم انك حديد مجيد اللهم ان سينا  
محمد ان الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة  
والمقام المحمود الذي وعده الله الله صل على  
روح محمد في الارواح وصل على جسده في  
الاجساد كما بلغ رسالتك وتلى آياتك وحدك  
بامرك وجاهد في سبيلك وامر بطاعتك و  
نهى عن معصيتك وعادى عدوك ووالى وليك  
وعبدك حتى اتاه اليقين اللهم انك قلت  
في كتابك لنبيك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم  
جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول  
لوجدوا الله تواباً رحيماً واني اتيت نبيك تائباً  
من ذنوبي مستغفراً فاسئلك ان توجب لي المغفرة  
كما اوجبتها لمن اتاه في حال حياته فاقر  
عند لا بد لربه فدعى له نبيته فغفرت له

خبر وعانت کے ساتھ مذینہ پہنچ جائے تو مسجد نبوی میں جانا مستحب ہے اس  
مبارک مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی  
آل سیدنا محمد وافتم لی ابواب رحمتک وکف عنی ابواب رحمتک الحمد لله  
رب العالمین (یعنی اے اللہ ہمارے سرور و آقا محمد رسول اللہ پر اپنی رحمتیں  
بھیج اور آپ کی اہل و عیال پر بھی اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے  
کھول دے اور مجھ سے عذاب کے دروازے بند فرما دے تمام تعریفیں اللہ  
ہی کے لئے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر قبر نبوی کے پاس  
آئے اور قبر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو قبر نبوی زائر و قبلہ کے درمیان زائر  
کے سامنے رہے اور قبلہ کی طرف پشت کر لے اور منبر کو اپنی بائیں طرف کر لے  
اور منبر کے پاس کھڑا ہو اور درمیانی آواز سے کہے السلام علیک ایہا  
و رحمة اللہ وبرکاتہ یعنی اے نبی آپ پر تعالیٰ کی سلامتیاں ہوں اور اس  
کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت  
علی ابراهيم انک حمید مجید اللهم انت سیدنا محمد الوسیة والفضیلة والدرجة  
الرفیعة والمقام المحمود الذی وعده الله و جعلنا من اهل شفاعتہ تک یعنی  
اے اللہ محمد پر اور آل محمد پر اپنی رحمتیں بھیج جس طرح تو نے ابراهیم پر اپنی  
رحمتیں بھیجی ہیں بلاشبہ تو حمد و مجد والا ہے اے اللہ ہمارے سید محمد رسول  
صلعم کو وسیلہ (ایک عالی مقام کا نام ہے) فضیلت، بلند درجہ اور مقام  
عطا فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے اے اللہ ارواح میں روح محمد  
پر رحمتیں بھیج اور اجسام میں آپ کے جسم پر رحمتیں بھیج جیسا کہ آپ نے  
تیرا پیغام پہنچایا اور تیری آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور ٹوٹے کی چوٹ  
تیرے دین کا اعلان کیا اور تیری راہ میں دھوڑ دھوپ کی اور دنیا کو تیری  
فرمانبرداری کا حکم کیا اور زانفرمانیوں سے روکا اور تیرے دشمنوں سے  
دشمنی اور دوستوں سے دوستی کی اور آپ تادم واپس تیری عبادت  
میں لگے رہے اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں اپنے نبی کے لئے فرمایا۔  
ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الخ اگر لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد آج



اللهم انى ارجو اليك بنيتك عليه سلامك  
 نبى الرحمة يا رسول الله انى ارجو بك الى ربى  
 ليغفر لى ذلربى اللهم انى اسئلك بحقك ان تغفر لى  
 وترحمنى اللهم اجعل محمداً اول الشافعين  
 وانج السائلين واكرم الاولين ولا تخربن اللهم  
 كما اصابه ولمنزله ومدقناه ولم نلقه  
 فاوخلنا مدخله واحشنا نانى زمرة واوردنا  
 حوضه واسقنا بحاسه مشربا روياسا نغنا  
 هنيئا لا نظما بعدا ابدا غير خزايا ولا ناكثين  
 ولا مارقين ولا جاحدين ولا مرتابين ولا  
 مغضوبا عليهم ولا ضالين واجعلنا من اهل  
 شفاعته ثم يقدم عن يمينه ثم ليقل السلام  
 عليك يا صاحبى رسول الله ورحمة الله وبركاته  
 السلام عليك يا ابا بكر الصديق السلام عليك  
 يا عمر الفاروق اللهم اجزهما عن نبيهما  
 وعنه لا سلام خيرا واغفر لنا ولاخواننا الذين  
 سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين  
 امنوا ربنا انك رؤف رحيم ثم يعلى ركعتين  
 ويجلس وليستحب ان يعلى بين القبر والمنبر  
 فى الروضة وان يتسبح بالمنبر تبركابه  
 والصلوة بسجد تباران ياتى قبور الشهداء  
 والزيارة لهم وافعل ذلك واكثر الدعاء  
 هناك ثم اذ اراد الخروج من المدينة اتى  
 مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وتقدم الى  
 القبر وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم

پاس آجانے اور اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرنے اور ان کے لئے  
 رسول اللہ صلعم بھی دعائے مغفرت فرماتے تو یقیناً وہ اللہ کو خوب  
 توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان پاتے، اے اللہ میں تیرے نبی کے  
 پاس اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے اور مغفرت طلب کرنے کے لئے  
 آیا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لئے بخشش واجب فرما دے  
 جیسے تو نے اس کے لئے بخشش واجب فرمائی جو آپ کے پاس آپ کی  
 زندگی میں آیا اور جس نے آپ کے پاس آکر اپنے گناہوں کا انزرا کیا ہے  
 اس کے لئے اس کے نبی نے دعائے مغفرت فرمائی اور تو نے اسے بخش  
 دیا اے اللہ میں تیری طرف تیرے نبی کے ذریعہ متوجہ ہو رہا ہوں جو  
 رحمت والے نبی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعہ اپنے رب کی طرف  
 متوجہ ہو رہا ہوں تاکہ میرا رب میرے گناہ بخش دے، اے اللہ میں تجھ  
 سے آپ کے حق کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم  
 فرما اے اللہ محمد صلعم کو سب سے پہلے شفاعت کرنے والا سوال کرنے  
 والوں میں سب سے پہلے کامیاب ہونے والا اور تمام اگلوں اور پچھلوں  
 میں انتہائی عزت والا بنا اے اللہ جس طرح ہم بلا دیکھے آپ پر ایمان لائے  
 اور ہم نے بلائے آپ کی تصدیق کی اسی طرح ہمیں آپ کے داخل ہونے  
 کی جگہ میں داخل فرما اور آپ کی جماعت میں ہمیں اٹھا اور ہمیں آپ کے  
 حوض کوثر پر لے جا اور آپ کے جام کوثر سے ہمیں ایسا مشروب پلا جو  
 سیراب کن، خوشگوار اور مبارک ہو جسے پی کر پھر کبھی ہمیں پیاس محسوس  
 نہ ہو اور ہم رسوا نہ ہوں اور نہ غدار بنیں، نہ مرتد ہوں، نہ منکر ہوں، نہ  
 مزدور ہوں، نہ ہم پر تیرا عتاب ہو اور نہ ہم گمراہ ہوں اور ہمیں کبھی آپ کی  
 شفاعت کے حقداروں کی فہرست میں شامل فرمائے پھر اپنی دائیں جانب  
 سے آگے بڑھ کر کہے: اے رسول اللہ صلعم کے دو ساتھیوں تم دونوں پر  
 بھی اللہ کی سلامتیاں، رحمتیں اور برکتیں ہوں اے ابو بکر صدیق السلام  
 علیک، اے عمر فاروق! السلام علیک، اے اللہ ان دونوں کو ان کے



فعل كما فعل اولاً وودعه وسلم على صاحبيه  
كذا لك ثم قال اللهم لا تجعل اخر العهد  
منى بزيارة قبر نبيك واذ التوفيتني فتوفني على  
محبتم وسنته امين يا ارحم الراحمين -

نبی کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ اور ہمیں ہمارے  
ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے پیشقدمی کر گئے بخشہ دے اور ہمارے دلوں میں  
ایمان والوں کی طرف سے کینہ پیدا نہ کرے ہمارے رب بلاشبہ تو انتہائی نرم و  
مہربان ہے پھر قبلہ رُخ دو گنا نہ ادا کر کے بیٹھ جائے۔

**قطعہ جنت میں نماز** | زائر کے لئے مستحب یہ ہے کہ قبر و منبر رسول کے درمیان جو قطعہ جنت ہے اس میں نماز پڑھے اگر بطور تبرک منبر پر ہاتھ پھیرنا  
چاہے تو پھیرے مسجد قبا میں نماز پڑھنا بھی مستحب ہے اور شہدائے احد کی قبروں پر جا کر ان کی زیارت کرنا بھی۔ وہاں خوب دعائیں مانگے، پھر جب دینہ  
چھوڑنا چاہے تو مسجد نبوی میں آ کر قبر کی طرف بڑھ کر رحمت عالم صلعم کو پہلے کی طرح سلام کرے اور آپ سے رخصت ہو اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی  
سلام کرے پھر یہ دعائیں مانگے: **لے اللہ یہ میرا اپنے نبی کی قبر کی زیارت کے لئے سب سے بچھلا زمانہ نہ کہ دو بار بار یہاں لا اور مجھے آپ کی محبت و سنت پر قائم  
رکھ کر اپنے پاس بلا۔ آمین** اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے آمین۔

## چھٹا باب آداب

**فصل** الابتداء بالسلام سنة و ردك  
أكد من ابتدائه وهو خير في صفة ا ما  
ان يدخل الالف واللام فيقول السلام عليكم  
ورحمة الله وبركاته او يجذفهما فيقول سلام  
عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزيد على ذلك  
وقد روى في ذلك حديث وهو ما روى عن عمران  
ابن الحصين رضى الله تعالى عنهما انه قال  
جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم  
فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال  
النبي صلى الله عليه وسلم عشر ا ثم جاء اخر  
فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**ملاقات کے وقت سلام کرنا** | سلام کی پہل کرنا سنت ہے اور سلام کا  
جواب دینا سلام کی ابتدا سے زیادہ ضروری ہے سلام کرنے والے کو  
اختیار ہے خواہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے یا سلام علیکم ورحمۃ  
وبرکاتہ کہے اس میں کچھ اور نہ بڑھائے، اس سلسلہ میں ایک حدیث بھی  
آتی ہے۔ عمران بن حصین کا بیان ہے کہ نبی صلعم کے پاس ایک دیہاتی آ کر  
کتنا ہے السلام علیکم آپ اسے سلام کا جواب دے دیتے ہیں پھر وہ  
بیٹھ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں: **ترنے دس نیکیاں کما لیں پھر دوسرا  
دیہاتی آ کر کتنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اسے بھی  
سلام کا جواب دے دیتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتا ہے، آپ نے فرمایا تو  
نے تیس نیکیاں کما لیں۔ سنت یہ ہے کہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور بیٹھے  
چلتے ہوئے کو اور بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔**



فرد علیہ فجلس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 ثلاثون ای ثلاثون حسنة والسنة ان یسلم الماشی  
 علی الجالس والراکب علی الماشی والجالس وسلام  
 الواحد من الجماعة علی غیرهم یجزی وکذا لک  
 رد الواحد من الجماعة یجزی عنہم ولا یجزی  
 البدائة بالسلام علی المشرك فان بدء مشرك  
 رد علیہ بان یقول وعلیک واما ردہ علی المسلم  
 بان یقول وعلیکم السلام كما قال وان زاد علی  
 قولہ والبرکات کان اولی وان قال مسلم لیسلم  
 سلام لم یجبہ ویعرفہ انه لیس بتجیة الاسلام  
 لانه لیس بکلام تام ویستحب للنساء السلام  
 بعضهن علی بعض واما سلام الرجل علی المرأة  
 الشابة فمکروه وان کانت بوزة فلا حرج  
 واما السلام علی الصبیان فمستحب لان فیہ  
 تعلیم الادب لہم وکذا لک لیستحب لمن قام  
 من المجلس ان یسلم علی اہلہ وکذا لک یسلم  
 علیہم اذا عاد الیہم وکذا لک ان حال  
 بیئہ وبینہم حائل مثل الباب والخائط و  
 کذا لک اذا سلم علی رجل ثم التقاہ ثانیاً  
 سلم علیہ ولا یسلم علی المتلبسین بالمعاصی  
 کن اجناز علی قوم یلعبون بالشطرنج والنرد  
 ولشیربون الخمر ویلعبون بالجوز والقمار وان  
 سلموا علیہ رد الا ان یغلب علی ظنہ اترجاء  
 عن معاصیہم بترکة الرد علیہم فاذا  
 لا یرد ولا یلجزم المسلم اخاہ فوق الثلاث

اگر جماعت کا ایک آدمی دوسری جماعت کو سلام کرے تو سب کی طرف  
 سے کافی ہے اسی طرح اگر جماعت کا ایک آدمی جواب دے دے تو  
 سب کی طرف سے کافی ہے۔ مسلمان مشرک پر سلام کی ابتداء نہ کرے لیکن  
 اگر مشرک مسلمان کو سلام کرے تو مسلمان اسے رد علیک کہہ کر جواب  
 دیدے ہاں مسلمان مسلمان کو وعلیکم السلام کہہ کر جواب دے جیسے سلام  
 کرنے والے نے اسلام علیکم کہا تھا اگر جواب میں والبرکات بڑھادے تو  
 اچھا ہے اگر مسلمان مسلمان کو دیکھ کر فقط سلام کہے تو اسے جواب نہ دیا جائے  
 جلتے اور اسے بتا دیا جائے کہ اسلام میں السلام علیکم ہے فقط سلام  
 نہیں ہے کیونکہ یہ پورا جملہ نہیں خواتین کو بھی آپس میں سلام کرنا مستحب  
 ہے لیکن مرد کا جوان عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے تاہم اگر وہ بے پردہ  
 ہے تو کوئی ہرج نہیں بچوں کو سلام کرنا بھی مستحب ہے کیونکہ سلام میں  
 بچوں کے لئے ادب کی تعلیم ہے اسی طرح یہ مستحب ہے کہ مجلس سے جانے  
 والا اہل مجلس کو سلام کرے اسی طرح جب کوئی مجلس میں آئے تو  
 اہل مجلس کو سلام کرے اگر کوئی مجلس سے آٹھیں ہو جائے خواہ دلیر  
 یا دروازے یا پردے وغیرہ کی آٹھ ہو پھر وہ آٹھ دور ہو جائے تو سلام  
 کرے اسی طرح اگر ایک یا کسی کو سلام کر لیا ہو پھر اس سے دوسری  
 بار ملاقات ہو تو پھر اسے سلام کرے۔ فاسق و فاجر کو سلام نہ کیا جائے  
 مثلاً ایسے لوگوں کے پاس سے گزر رہو جو شطرنج یا نرد سے کھیل رہے  
 ہوں یا شراب پی رہے ہوں یا آخر وٹوں سے یا کسی اور طریقہ سے  
 جو کھیل رہے ہوں تو انہیں سلام نہ کیا جائے اگر فاسق سلام کریں  
 تو جواب دیدے لیکن اگر اس بات کا غالب گمان ہو کہ میرے جواب  
 نہ دینے سے وہ ان گناہوں سے باز آجائیں گے تو جواب نہ دینے۔  
 مسلمان مسلمان کو تین دن سے زیادہ نہ چھوڑے ہاں بدعتی اگر  
 اور گناہوں میں لٹھڑے ہوؤں کو ہمیشہ کے لئے چھوڑنا مستحب ہے  
 سلام کرنے سے چھوڑنا جانا رہتا ہے اور چھوڑنے کے گناہ سے



نجات مل جاتی ہے۔

**مصافحہ** | مسلمان کا مسلمان سے ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مستحب

ہے ادب یہ ہے کہ دوسرے کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہ کھینچا جائے جب

تک دوسرا خود ہی ہاتھ نہ کھینچے بشرطیکہ اس نے سلام میں پہل کی ہو۔

**مخالفتہ** | اگر دو مسلمان گلے ملیں اور تبرک کے طور پر متفق خیال کر کے ایک

دوسرے کا سر یا ہاتھ چوم لے تو جائز ہے لیکن چہرے کا چومنا مکروہ ہے۔

**تعظیم کے لئے کھڑا ہونا** | عادل بادشاہوں اور حکام کے لئے

ماں باپ کے لئے، دینداروں اور پارہ سادوں کے لئے تعظیم کے لئے

کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت سعد بن معاذ کو قرظی یہودیوں کے فیصلہ کے لئے بلوایا اور وہ

آپ کے پاس ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کھڑے ہو کر اپنے سردار کے استقبال کے لئے جاؤ۔ حضرت عدلیقہ

کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تو

آپ کھڑے ہو کر سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے آگے بڑھتے

اور آپ کا دست مبارک لے کر چومتے اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھا

دیتے اور جب حضرت فاطمہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتیں تو آپ

ان کی طرف بڑھتے اور ان کا ہاتھ لے کر چوم لیتے۔ اور ان کو اپنی جگہ

پر بٹھا دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر کسی قوم کا

معزز شخص تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو کیونکہ اس سے

دلوں میں محبت و الفت کی جڑیں پھلتی ہیں اس لئے کہ اباب خیر و

صلاح کی تعظیم کے لئے چند قدم آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرنا

اور انہیں مخالفت دینا مستحب ہے البتہ فساق و فجار کے لئے ایسا کرنا

مکروہ ہے۔

**چھینکنے کے آداب** | چھینکنے کا ادب یہ ہے کہ چھینکنے والا اپنے

منہ کو ہاتھ وغیرہ سے ڈھانپ لے اور آواز پست رکھے اور بلند آواز نہ

الان يكون من اهل البدع والضلال والمعاصي فيستحب

استدامة الهجرة لهم وبالسلام يتخلص من اثم الهجرة

للمسلم وليستحب للمسلم المعافحة لاجبة المسلم

ولا ينزع يده حتى ينزع الاخر يد الا اذا كان هر

المبتدى وان تعالفا وقتل احدهما راس الاخر ويدا

علي وجه التبرك والتدين جازوا ما تقبل الفهم فمكروه

**فصل** وليستحب القيام للامام العادل

والوالدين واهل الدين والورع واکرم الناس

واصل ذلك ما روي ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم ارسل الى سعد رضى الله عنه في شان

اهل قريظة فجاء علي حمارا فرفق قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم وقد

روت عائشة رضى الله عنها انها قالت كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل على

فاطمة رضى الله تعالى عنها قامت اليه فاخذت

بيده وقبلته واجلسته في مجلسها واذا

دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام اليها

واخذ بيدها وقبلها واجلسها في مجلسه و

قد روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال

اذا جاءكم كريم قوم فاكرموه وان ذلك

يغرس المحبة والورع في القلوب فاستحب لاهل

الخير والصلاح كالمهادات لهم ويكره

لاهل المعاصي والفجور ومن الادب ان يخبر

العاطس وجهه ويخفض صوته ويحمد الله

عز وجل الى قوله رب العليم رافعا بها صوته



لانه روى في بعض الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان العبد اذا قال الحمد لله قال الملك رب العالمين فاذا قال رب العالمين بعد قال الملك يرحمك ربك ولا يلتفت يمينا وليسارا فاذا قال ذلك استحب لمن سمعه ان يثمنه بان يقول له يرحمك الله ويرد عليه فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم وان قال يعفركم الله لکم جاز عن الاول فان زاد العاطس على ثلاث مرات سقط التثمين لان ذلك ریح و زکام كذا جاء في الاثر وهي ما روى عن سلمة بن الاكوع رضى الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن شئت العاطس ثلاثا فان زاد على ذلك فهو مزكوم واذا تاوب احدكم غطى فيه بيده او بكفه قال صلى الله عليه وسلم اذا تاوب احدكم فليسك على فيه فان الشيطان يدخل وعن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب العاطس ويكره التثاوب فاذا تاوب احدكم فليرد ما استطاع ولا يقول هاه هاه فان ذلك من الشيطان يضحك منه ويجوز للرجل تشييت المرأة البرزة العجوزة ويكره للشابة الخفزة فاما الصبي فتسميته ان يقال له بورك فيك او جزاك الله تعالى او خير الله تعالى.

فصل في العشر الخصال التي في الفطرة

سے الحمد للذرب العالمین کہے کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا: جب بندہ الحمد للذرب العالمین کہتا ہے تو فرشتہ رب العالمین کہتا ہے اور جب بندہ الحمد للذرب العالمین کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یہ حکم ربک یعنی تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے چھینکتے وقت دائیں بائیں منہ نہ پھرے پھر اگر چھینکنے والا اس کے جواب میں یہ حکم اللہ کے اور چھینکنے والا یہ حکم اللہ کہنے والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم سے جواب دے یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت پر قائم رکھے اور تمہارا حال سنوار دے۔ اگر چھینکنے والا ایغفر اللہ لکم واللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے کہہ دے تو یہ بھی جائز ہے اگر تین چھینکوں سے زیادہ چھینکیں آئیں تو جواب سناٹا ہو جاتا ہے کیونکہ کثرت سے چھینکیں زکام و ریاح کی وجہ سے آیا کرتی ہیں جیسا کہ سلمہ بن اکوع والی حدیث میں ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا چھینکنے والے کو تین بار جواب دیا جائے اگر تین چھینکوں سے زیادہ چھینکیں آئیں تو چھینکنے والا زکام میں مبتلا ہے۔

جمائی کے آداب | جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے یا آستین سے منہ ڈھانپ لے۔ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ شیطان اس کے منہ میں گھس آتا ہے اسی طرح حضرت ابوہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: حق تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند، لہذا اگر کسی کو جمائی آئے تو مقدور بھر اسے روکنے کی کوشش کرے اور ہاتھ نہ کرے کیونکہ یہ ایک شیطانی نشہ ہے اور شیطان اس سے منہتا ہے۔ مرد بے پردہ عورت کو اور بڑھیا کو چھینک کا جواب دے سکتا ہے البتہ پردہ نشین جو ان عورت کو جواب دینا مکروہ ہے بچہ کی چھینک کے جواب میں یہ کہا جائے بورك فيك، یا جزاك اللہ تعالیٰ یا خیرک اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے یا جزائے خیر دے یا خیر و سعادت عطا فرمائے۔

وس پیدا نشی عادتیں | پانچ پیدا نشی عادتوں کا تعلق مر سے ہے



خمس منها فی الراس وخمسۃ فی الجسد فالتی  
 فی الراس المضمضة والاستنشاق والسواک  
 وقصر الشارب واعفاء اللحية والتی فی  
 الجسد حلق العانة وشف الابط وتقلیم  
 الاظفار والاستنجاء بالماء والختان والاصل  
 فی قص الشارب ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انه  
 قال احفوا الشارب واعفوا اللحية و فی  
 حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
 قصر الشارب واعفوا اللھی وکلا اللفظین  
 واحدة ومعناها قصہ من اصول الشعر  
 بالمقراض واستبصالہ بہ واما حلقہ  
 بالموسیٰ فمکروه لما روی عبد اللہ بن عمر  
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما انه قال قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من حلق الشارب  
 ولان فی ذلک مثلۃ وذہا بالماء الوجه وجماله  
 و فی بقاء اصول الشعر زینۃ وجمال وقد روی عن  
 الصحابة رضی اللہ عنہم انہم کانوا یجزون  
 شواربہم واما اعفاء اللحية فهو توفیرھا  
 وتکثیرھا ومنہ قولہ تعالیٰ حتی عفوا ای کثروا  
 وقد روی ان ابا ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
 کان یقبض علی لحيته فما فضل عن لحيته جزء  
 وكان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول خذ واما نعت  
 القبضة۔

فصل فی حلق العانة وشف الابط

اور پانچ کا جسم سے اول الذکر یہ ہیں :- غرغره کرنا ، ناک میں پانی  
 چڑھا کر اسے سکننا ، مسواک کرنا ، مونچھیں کاٹنا اور ڈاڑھی بڑھا کر  
 اور ثانی الذکر یہ ہیں :- زیر ناف کے بال مونڈنا ، بغل کے بال  
 اکھاڑنا ، ناخن کاٹنا ، پانی سے استنجا کرنا اور ختنہ کرنا۔  
 مونچھیں کاٹنے کی دلیل حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : مونچھیں صاف کرو اور ڈاڑھی بڑھاؤ  
 حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے مونچھ کاٹو اور  
 ڈاڑھیاں بڑھاؤ۔ دونوں لفظ ہم معنی ہیں جن کا مطلب  
 یہ ہے کہ مونچھیں جڑ سے کاٹ دی جائیں اور قینچی سے ان کا  
 قلع قمع کر دیا جائے ، مونچھوں کو اُسترے سے مونڈنا مکروہ  
 ہے کیونکہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ہے کہ رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مونچھیں منڈوانے والا تم  
 میں سے نہیں۔

علاوہ ان میں مونچھوں کو منڈوانے سے اصلی خلقت میں تغیر  
 پیدا ہو جاتا ہے اور چہرے کی نشاقت اور اس کی رونق اور حسن و  
 جمال جاتا رہتا ہے اور بالوں کی جڑوں کو باقی رکھنے سے زیب و  
 زینت اور حسن و جمال باقی رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ  
 عنہم اجمعین سے منقول ہے کہ وہ اپنی مونچھیں کاٹا کرتے تھے  
 اعفاء لحيہ سے ڈاڑھی کا بڑھانا اور اس کی کثرت مراد  
 ہے اسی معنی میں قرآن پاک میں حتی عفوا یعنی حتی کہ  
 وہ بہت ہو گئے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  
 منقول ہے کہ آپ اپنی ڈاڑھی مٹھی میں لے کر مٹھی سے باہر والی  
 ڈاڑھی کو کاٹ لیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا  
 کرتے تھے مٹھی سے باہر والی ڈاڑھی کاٹو۔

زیر ناف کے بال مونڈنا اس کی دلیل انس بن مالک والی حدیث



و تقليم الاظفار ما روى عن النس ابن مالك  
رضى الله تعالى عنهما انه قال وقت لنا رسول  
الله صلى الله عليه وسلم اربعين ليلة لا تجاوزها  
قص الشارب وقص الاظفار ونف الا بط  
وحلق العانة قال لبعض اصحابنا هذا في  
حق المسافر واما المقيم فلا يستحب له  
ان يزيد ذلك على عشرين يوما واختلفت  
الرواية عن الامام احمد في تصحيح هذا الحديث  
فروى عنه انكاره وروى عنه الاحتجاج به  
في التوقيت بهذا المقدار فاذا ثبت استحباب  
ذلك فهو مخير بين التنوير بالنورة وبين حلقه  
بالموسى فقد روى عن الامام احمد رضى الله تعالى  
عنه انه يتنور ركنا لك روى منصور بن حبيب  
بن ابي ثابت رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه  
وسلم انه طلى له البوكر رضى الله تعالى عنه  
وتولى عانته بيده وروى عن النس رضى الله تعالى  
عنه بخلافه فقال لم يتنور رسول الله صلى الله  
عليه وسلم قط وكان اذا كثر عليه الشعر  
حلقه فاذا ثبت هذا فيجوز ان يتولى ذلك  
غيره اذا لم يجس هونى ما سوى العانة من  
الفخذ والساق فاذا بلغ العانة تولاها هو بنفسه  
والاصل في ذلك ما روى عن ام سلمة رضى الله  
تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان  
اذا بلغ عانته تولاها بنفسه وفي بعض اللفاظ  
اذا بلغ مراقه واخذ احمد بن حنبل رضى الله  
عنه

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے چالیس دن کی مدت مقرر  
فرمائی اس مدت کے اندر اندر مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال  
اکھاڑنا اور زیر ناف کے بال مونڈنا ضروری ہیں اور اس سے  
تجاوز کرنا جائز نہیں، ہمارے بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ یہ مدت  
مسافر کے حق میں ہے، لیکن جو وطن میں مقیم ہو وہ بیس دن سے آگے  
نہ بڑھے اس میں اختلاف ہے کہ اس حدیث کی تصحیح امام احمد نے  
فرمائی یا نہیں آپ سے اس کا انکار منقول ہے اور معینہ مقدار کے  
سلسلہ میں استدلال بھی منقول ہے لہذا جب ان امور کا استحباب ثابت  
ثابت ہے تو چونے وغیرہ سے بال اڑانے میں اور آسترے سے مونڈنے  
میں اختیار ہے امام احمد سے منقول ہے کہ آپ اس مقصد کے لئے  
چونا استعمال فرمایا کرتے تھے، اسی طرح منصور بن حبیب بن  
ابی ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت  
البوکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چونے کا طلا لگایا اور زینا  
آپ نے خود اپنے ہاتھ سے چونے کا طلا کیا لیکن حضرت انس سے  
اس کے خلاف روایت ہے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم نے چونے کا طلا نہیں کیا جب آپ کے بالوں کی کثرت ہو جا کر  
تھی تو آپ مونڈ لیا کرتے تھے اگر چونے والی حدیث صحیح ہو تو جابج  
ہے کہ علاوہ زیر ناف وغیرہ کے کوئی دوسرا شخص چونے کا طلا کر  
دے بشرطیکہ کوئی خود طلا کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو لیکن پردے  
والے مقامات پر خود اپنے ہاتھ سے طلا کرے، اس مسئلہ کی دلیل  
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ  
علیہ وسلم نے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔

اس حدیث کے ایک لفظ میں ہے آپ پیٹ پر طلا اپنے ہاتھ  
سے لگایا کرتے تھے امام احمد نے اسی حدیث سے بال اڑانے کے  
لئے چونے کا استعمال جائز قرار دیا ہے۔ ابو العباس نسائی فرماتے



بہذا قال ابو العباس النساء في نورنا ابا عبد الله  
فلما بلغ عاتة نورها بنفسه فاذا ثبت هذا  
وانه يجوز ازالة هذه الشعور من العانة  
والفخذين والساقين بالنورة فيجوز ايضا  
بالموسى لانه احد ما يزال به كالنورة ويؤيد  
هذا القياس حديث النس بن مالك رضی اللہ تعالیٰ  
عنه لم يتور رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قط وكان اذا كثرت عليه الشعر حلقه ولا يقل  
ان الحلق والتوير انما ورد في العانة خاصة  
لما تقدم من حديث ام سلمة رضی اللہ تعالیٰ  
عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم  
كان اذا بلغ عاتة نورها بنفسه خدل على  
انه كان تولى غير العانة في ازالة الشعر لغيره  
وليس ذلك الا الفخذ والساق وان ذكر  
في ذلك حديث في المنع فهو محمول على ان  
من اراد بذلك التزيين لرغبة الرجال فيه  
من العلوق والتشبهين بالنساء من المخائبة  
وغيرهم والله تعالى اعلم بالصواب -

### فصل في كراهة تنف الثيب لما روى عمرو

بن شعيب عن ابيه عن جد له رضی اللہ تعالیٰ  
عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى  
عن تنف الثيب وقال انه نور الاسلام وفي  
لفظ اخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لا تنتفوا الثيب ما من مسلم البس ثيبه  
في الاسلام الا كانت له نورا يوم القيامة و

ہیں ہم نے ابو عبد اللہ کے چرنے کا طلا لگایا لیکن آپ نے زیر  
ناف خود اپنے ہاتھ سے طلا لگایا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ زیر  
ناف کے رانوں کے اوپر پنڈلیوں کے بال چرنے سے اڑانے  
درست ہیں تو انہیں السنز سے مونڈنا بھی درست ہے کیونکہ  
کیونکہ چرنے کی طرح استرا بھی صاف کر دیتا ہے اس کی تائید  
النس بن مالک والی حدیث دکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے کبھی چونا استعمال نہیں کیا اور جب آپ کے بال بڑھ جاتے  
تو آپ انہیں مونڈ لیا کرتے تھے (سے بھی ہو جاتی ہے یہ بھی نہیں  
کہا جا سکتا کہ مونڈنا اور چونا استعمال کرنا زیر ناف کے بالوں  
کے لئے خصوصی طور پر آیا ہے کیونکہ ام سلمی رضی اللہ تعالیٰ  
عنها والی حدیث میں گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ  
وسلم زیر ناف خود اپنے ہاتھ سے طلا لگایا کرتے تھے۔  
معلوم ہوا کہ زیر ناف کے طلا کے علاوہ دوسروں سے لگایا کرتے  
تھے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے مقامات رانیں اور ٹانگیں ہی ہیں اگر  
رانوں اور پنڈلیوں کے بال صاف کرنے کی ممانعت کے بارے  
میں ممانعت والی حدیث بیان کی جائے تو ممانعت کی حدیث ان لوگوں پر  
محمول ہوگی جو بالوں کی صفائی سے عورتوں کی طرح زینت نہ چاہتے  
ہوں کہ مردان کی طرف مائل ہوں جیسے محنت اور بیچرٹے کیا کرتے ہیں۔  
سفید بال اکھاڑنے کی کراہت | سفید بالوں کا اکھاڑنا مکروہ  
ہے کیونکہ عمرو بن شعیب والی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال  
اکھاڑنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ اسلام کا نور ہے ایک  
ایک دوسرے لفظ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-  
سفید بال نہ اکھاڑو، جس مسلمان کے حالت اسلام میں سفید  
بال آگ آئیں وہ قیامت کے دن اس کے لئے نور کا کام دیں  
گے۔ اور یحییٰ والی حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ ہر سفید بال کے



فی حدیث یحییٰ الاکتب اللہ تعالیٰ لہ بہا حسنة و حط  
 عنہ خطیئة و قد روی فی بعض التفاسیر فی قوله  
 عزوجل و جاء کم الذبیر انه هو الشیب فیکف یجوز  
 ازالة الذبیر بالموت و المذکر بہ الناهی عن الشہوات  
 واللذات و الکاف عنہا المحدث علی التاہب  
 و التجهیز للآخرۃ و عمارة دار البقاء و مع ذلك  
 یكون مقادماً للقدر کا رہا لفعول اللہ تعالیٰ بہ  
 و غیر راض بقضائہ عزوجل موثر للشباب  
 و الطراوۃ و البقاء علی حدیث السن زاہد فی  
 الوقاہ و الحرمة و التقصص بنو الاسلام و خلقة  
 ابراہیم خلیل الرحمن لانه روی فی بعض الکتاب  
 انه اول من شاب فی الاسلام ابراہیم النبی علیہ  
 الصلوۃ و السلام و روی عن النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم انه قال ان اللہ لیستحب من ذی الشیبۃ  
 یعنی من عذابہ۔

**فصل** و یستحب تقیماً لظفار لیوم الجمعة  
 فیکون مخالفاً لیکون الترتیب لما روی عن النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم من قص اظفارہ مخالفاً لم  
 یرنی عینیہ رمداً و فی حدیث حمید بن عبدالرحمن  
 عن ابیہ من قص اظفارہ لیوم الجمعة دخل فیہ  
 شفاء و خرج منه داء و قد روی ہذا الفضیلة  
 و الاستحباب فی ذلك یوم الخمیس بعد العصر  
 و معنی البغالفة ان ید ابا المختصر من الیمنی  
 ثم بالوسطی ثم بالابہام ثم بالینصر ثم السبابة  
 و من الیسری ان ید ابا الایہام ثم الوسطی ثم

بدلہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ بعض تفسیروں  
 میں آیت و جاء کم الذبیر اور تمہارے پاس ڈرانے والا  
 آگیا ہے کہ ذبیر سے مراد سفید بال ہیں۔

لذا جو موت سے ڈرانے والے موت کو یاد دلانے والے خواہشوں  
 اور لذتوں سے باز رکھنے والے آخرت کی تیاری پر ابھارنے والے  
 اور دائمی گھر بننے کا شوق دلانے والے ہوں ان کا اکھاڑنا  
 اور زائل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے علاوہ ازیں سفید بالوں کا اکھاڑنا  
 تقدیر کا مقابلہ کرنا، اللہ کے ایک فعل کو برا سمجھنا اور اللہ کے نیک فعل پر  
 راضی نہ ہونا ہے اور جوانی، شادابی اور بقاء کو جو جوانی وغیرہ پر  
 ترجیح دینا ہے بردباری اور بزرگی سے کترانا ہے سفید بالوں کو  
 کا کرنا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نیابت یاد دلاتے ہیں  
 کیونکہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے  
 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سفیدی آئی ایک حدیث میں ہے کہ  
 نبی صلعم نے فرمایا کہ اللہ سفید بالوں والے سے شرماتا ہے یعنی اسے  
 عذاب دینے سے شرماتا ہے۔

جمعہ کے دن ناخن کاٹنا | جمعہ کے دن خلاف ترتیب ناخن کاٹنے  
 مستحب ہیں کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: جس نے  
 خلاف ترتیب ناخن کاٹے اسے آشرب چشم کی شکایت نہ ہوگی۔ حدیث  
 حمید بن عبدالرحمن از عبدالرحمن میں ہے جو جمعہ کے دن اپنے ناخن  
 کاٹے اس میں شفا گھس جائے گی اور بیماری نکل جائے گی۔ ناخن  
 کاٹنے کے سلسلہ میں یہی کیفیت جمعرات کے دن عصر کے بعد بھی آتی ہے  
**خلاف ترتیب کا مطلب** | خلاف ترتیب کا یہ مطلب ہے  
 کہ پہلے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹے پھر بیچ  
 والی انگلی کا، پھر انگوٹھے کا، پھر چھوٹی انگلی کے پاس والی انگلی کا  
 پھر انگشت شہادت کا، پھر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا، پھر درمیان



الخنصر ثم السبابة ثم البنصر هكذا فستره  
 عبد الله ابن بطة عن اصحابنا رحمه الله وروى  
 وكيع عن عائشة رضي الله تعالى عنهما انها  
 قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا  
 عائشة اذا انت قلت اظفارك فايدى بالوسطى  
 ثم بالخنصر ثم بالابهام ثم بالبنصر ثم السبابة  
 فان ذلك يورث الغناء وينبغي ان يكون التقليم  
 بالمقص او السكين ويكره ذلك بالاسنان و  
 اذا قلم اظفاره ليتحب له غسل البواجم و  
 دفن الاظفار في التراب وكذلك الشعر من  
 الراس والبدن والدم من الحجامة والقص  
 لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه  
 امر بـ دفن الدم والشعر والظفر۔

**فصل** واما حلق الراس في غير الحج والعمرة  
 والضرورة فنكروه في احدي الروايتين عن  
 الامام احمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه  
 وسلم لما روى في حديث البرمسي وعبيد بن عمر  
 رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه  
 قال ليس منا من حلق وروى الدارقطني في الافراد  
 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي  
 صلى الله عليه وسلم قال لا توضع النواصي  
 الا في حج او عمرة ولان النبي صلى الله عليه وسلم  
 ذم الخوارج وجعل سيماهم حلق الروس ولان  
 عمر رضي الله عنه قال لصبيغ لو وجدتك مغلقا  
 لفرقت الذي فيه عيناك وعن ابن عباس رضي الله

انگلی کا پھر سب سے چھوٹی انگلی کا پھر انگشت شہادت کا پھر چھوٹی  
 انگلی کے پاس والی انگلی کا پھر سے اصحاب میں سے عبد اللہ بن بطنے  
 خلاف ترتیب کی اسی طرح وضاحت فرمائی ہے۔

دیکھ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا عائشہ  
 جب تم اپنے ناخن تراشنا چاہو تو درمیانی انگلی سے ابتدا کرو پھر سب سے  
 چھوٹی انگلی کے کاٹو پھر انگوٹھے کے کاٹو پھر چھوٹی انگلی کے پاس والی انگلی  
 کے کاٹو پھر انگشت شہادت کے کاٹو کیونکہ اس سے تو نگرسی پیدا ہوتی ہے۔  
 ناخن، ناخن تراش یا چھری وغیرہ سے کاٹنے مناسب ہیں اور اونٹوں  
 سے تراشنے مکروہ ہیں۔ ناخن تراشنے کے بعد انگلیوں کے سروں  
 کو دھونا اور ناخنوں کو مٹی میں دبانا مستحب ہے اسی طرح سر کے اور  
 بدن کے بالوں کو اور سینگوں سے اور فصد سے نکلے ہوئے خون کو مٹی  
 میں دبانا مستحب ہے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلعم نے خون، بال  
 اور ناخنوں کو دفن کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

**سر منڈوانا** علاوہ حج اور عمرہ کے اور کسی خاص ضرورت کے امام احمد  
 سے دو روایتوں میں سے ایک روایت کی رو سے بلا ضرورت سر منڈوانا  
 مکروہ ہے کیونکہ حدیث ابی موسیٰ اور حدیث عبید بن عمیر میں ہے کہ سرور  
 عالم صلعم نے فرمایا وہ ہم سے نہیں جس نے سر منڈوایا اور افراد دار  
 میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: کہ حج اور عمرہ  
 کے علاوہ بال نہ منڈولے جائیں علاوہ ازیں نبی صلعم نے خادجیوں کی  
 برائی کی اور ان کی سر منڈوانے کی نشانی بیان فرمائی اور حضرت عمر رضی  
 صبیغ سے فرمایا اگر میں تجھے سر منڈوایا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔  
 نیز حضرت ابن عباس رضی نے فرمایا: جو شخص شہر میں سر منڈواتا ہے  
 وہ شیطان کی مشابہت کے لائق ہے اور سر منڈوانے میں عجیبوں کی  
 مشابہت بھی ہے اور رسول اللہ صلعم نے فرمایا: جس نے کسی قوم کی  
 مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَجْتَنِي فِي الْمَصْرِخِ لَيْتِي بِالشَّيْطَانِ  
وَلَانِ فِي ذَلِكَ تَشْبِيهَا بِالْأَعْجَمِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَشَبَهَ لِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" وَ  
إِذَا تَبَتَّ كَرَاهِيَةَ مَا ذَكَرْنَا جَعَلَ مَكَانَهُ اخْتِذَ الشَّعْرَ  
بِالْجِلْمِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ كَمَا كَانَ لِفِعْلِ أَحْمَدَ بْنِ حَبِيبٍ رَضِيَ  
تَعَالَى عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ اسْتَقْصَى فِي ذَلِكَ فَيَقْصِدُ مِنْ أَمْلِهِ  
وَإِنْ شَاءَ اخْتِذَ اطْرَافَ الشَّعْرِ وَالرَّوَايَةُ الْآخَرَى  
لَا يَكْرَهُ ذَلِكَ لِمَا رَوَى الْبُودَاؤُودُ بِإِسْنَادٍ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ  
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى آلِ جَعْفَرٍ  
بِلَدَانِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَيَّ  
إِخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا  
إِلَى بَنِي إِخِي فَجِئْتُ بِنَاكَأَنَا إِفْرَاحُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ادْعُوا إِلَى الْخَلْقِ فَامْرَأَةٌ فَخَلَقَ رُؤْسًا وَقَدْ  
رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ رَأْسَهُ  
فِي آخِرِ عِمْرَةٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ شَعْرَةٌ لِيَضْرِبَ مَنْكَبِيهِ  
وَفِي حَدِيثٍ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ شَعْرٌ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَحْمَتِي أَذْيَنُهُ وَلَانِ النَّاسُ  
عَصْرًا بَعْدَ مَعْرِجَتِهِ لَمْ يَظْهَرِ عَلَيْهِمْ تَكْبِيرُ وَلَا نِ فِي  
ذَلِكَ مَشْتَقَةٌ وَحَرَجًا عَفَى عَنْهُ كَمَا عَفَى عَنْ سُورِ  
الْمُهْرَةِ وَخَشَلَاتِ الْأَرْضِ -

**فصل** ويكره القزع وهو ان يجلق لبعض  
الشعر ويترك بعضه لما روى عن النبي صلى الله  
عليه وسلم انه نهى عن القزع واما حلق القفا  
فمكروه الا في الحجامه خاصة لان النبي صلى الله عليه  
وسلم

اب جب کہ مذکورہ بالا روایتوں سے سر منڈوانے کی  
کراہت ثابت ہو گئی تو بالوں کو سوچنے سے اکھاڑنے جیسا کہ  
حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اور اگر چاہے تو  
باریک مشین سے ترشوالے، اور اگر چاہے تو موٹی مشین سے  
ترشوالے۔

دوسری روایت کی رو سے سر منڈوانا مکروہ نہیں۔ کیونکہ  
عبداللہ بن جعفر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالؓ کو  
آل جعفر کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر کہو کہ آج کے بعد میرے  
بھائی جعفر پر نہ رونا۔

پھر آپ نے فرمایا میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ آخر کا  
ہمیں آپ کے پاس لایا گیا گو یا ہم چوزے ہیں، پھر آپ نے فرمایا  
کہ نائی کو بلاؤ پھر نائی نے آپ کے حکم سے ہمارے سر منڈ  
لئے (البوداؤد)

منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں اپنے  
بال منڈوائے جب کہ آپ کے بال کندھوں تک تھے۔ حدیث علیؓ  
میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لوت تک تھے علاوہ ازیں  
لوگ ہرزمانہ میں بال منڈوائے چلے آ رہے ہیں اور کوئی عالم ان کے  
خلاف آواز نہیں اٹھاتا اور بال رکھنے میں تکلیف و حرج ہے  
اس لئے بال منڈوانے جائز ہیں جیسے بی کے اور حشرات الارض  
کے جھوٹے پانی سے بچنے میں تکلیف و مشقت ہے اس لئے ان کا  
جھوٹا جائز ہے۔

صرف بیح سر کے بال منڈوانے مکروہ ہیں | قزع مکروہ ہے  
یعنی اگر سر کے کچھ بال منڈوائے جائیں اور کچھ چھوڑ دئے جائیں  
تو ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے  
منع فرمایا۔



نهى عن حلق القفاة الا في الحجامة لانه من فعل  
المجوس وكان ابو عبد الله احيدا يملقه في الحجامة  
ولان ذلك حال الضرورة واما اتخاذ الجملة وخرق  
الشعر فسنة ما ثورته روى ان النبي صلى الله عليه وسلم  
فرق و امر اصحابه رضی اللہ تعالیٰ عنہم بالفوق  
وقد روى ذلك عن بضعة وعشرين من اصحاب  
النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو عبیدة وعمار  
وابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

**فصل** ويكره التخفيف للرجال وهو ارسال  
الشعر الذي بين العذار والنزعتين الذي هو  
عادة العلويين ولا يكره ذلك للنساء لما روى  
الربكر الجلاذ من اصحابنا باسناد عن علي بن  
الله تعالى وجهه انه كرهه عن الوليد بن مسلم  
انه قال ادركت الناس وما هو من زيهم واما  
اخذ الشعر من الوجه بالمنقاش مكره للرجال  
والنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن  
التنصتات وهو اخذ الشعر من الوجه بالمنقاش  
ذكرة ابو عبیدة واما المرأة فيكروا بها حف  
خبينها بالزجاج والبرسى والشعر الخارج على  
وجهها لما تقدم من النهي عن ذلك وقيل  
يجوز لها ذلك لزوجها خاصة اذا طلب منها  
ذلك وخافت ان لم تفعله اعرض عنها و  
وتزوج بغيرها فادى الى الفساد والمفسدة  
بها فيجوز لها ذلك لما فيه من المصلحة كما  
جوز لها التزين بالوان الثياب والتطيب بالوان

گردن کے بال مندوانے مکروہ ہیں اگر گردن کے بال مندوانے یا  
ترشوانے بھی مکروہ ہیں ہاں خاص طور سے اگر پھینے لگوانے کے وقت گردن  
کے بال ترشوائے جائیں تو خیر کیونکہ نبی صلعم نے پھینوں کی جگہ کے علاوہ گردن کے  
بال مندوانے سے منع فرمایا کیونکہ یہ مجوسیوں کا فعل ہے ابو عبد اللہ امام  
پھینے لگوانے کے وقت گردن کے بال ترشوائے کرتے تھے کیونکہ ایسا کرنا ضرورت کی  
وجہ سے جائز ہے۔ بال رکھنا اور مانگ نکالنا: بالوں کا رکھنا اور مانگ نکالنا  
سنت ہے خود نبی صلعم نے بال رکھے اور ان میں مانگ نکالی اور صحابہ کرام کو مانگ نکالنے کا  
فرمایا پھر سر پر بال رکھنے اور مانگ نکالنے کے بارے میں میں سے کچھ اور صحابہ کرام  
سے روایتیں آتی ہیں جن ابو عبیدہ، عمار اور ابن مسعود بھی شامل ہیں۔

رخساروں پر بال چھوڑنے کی کراہت مردوں کے لئے تخذیف  
مکروہ ہے تخذیف رخساروں اور کنپٹیوں پر بال چھوڑنے کو کہتے ہیں جیسا  
کہ علویہ میں کی عادت ہے یہ وہ فرقہ ہے جو اپنے کو حضرت علی کی طرف منسوب  
کرتا ہے لیکن تخذیف عورتوں کے لئے مکروہ نہیں کیونکہ ہمارے اصحاب  
میں سے ابو بکر جلاذی سند سے حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ  
نے مردوں کے لئے انہیں مکروہ سمجھا عورتوں کے لئے نہیں۔ ولید بن مسلم  
منقول ہے کہ میں نے صحابہ کو پایا اور یہ ان کا طریقہ نہ تھا۔ چہرے سے مونچھے  
سے بالوں کو نوچنا مرد و عورت دونوں کے لئے مکروہ ہے کیونکہ نبی صلعم نے  
چہرے سے بال نوچنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے تنمض منوچنے سے بالوں  
کو نوچنے کو کہتے ہیں ابو عبیدہ نے اس کا یہی معنی لکھا ہے۔ عورت کو شیشے اور  
سترے سے پیشانی اور چہرے کے بال مونڈنے مکروہ ہیں کیونکہ اس کی ممانعت  
کی روایت اور پر گزر چکی۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کو خاص طور سے اپنے شوہر کے  
ایسا کرنا جائز ہے جب کہ شوہر اس سے اس قسم کی خواہش کا اظہار کرے اور  
ڈر ہو کہ اگر اس کی خواہش پوری نہ کی جائے گی تو وہ اس سے ناراض ہو جائیگی  
اور دوسری عورت سے شادی کر لے گا اور اس کا گھر برباد ہو جائے گا اور اسے  
نقصان پہنچے گا تو ان حالات میں عورت کو مصلحت کی وجہ سے چہرے کے



الطيب والتشوق له والملاعبة والمنازجة اياها  
فعلی هذا یجمل لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
المتنصات علی اللواتی اردن بذ لك غیر  
ازواجهن للفجور بہن والمیل الیہن وترویج  
انفسہن للزنا واللہ اعلم۔

**فصل** ویکرة الخضاب بالسواد لما روی  
الحسن رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
قال فی قوم لیغیرون البیاض بالسواد لیسود اللہ  
تعالی وجوہہم یوم القیامة و فی حدیث بن عباس  
رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
قال فیہم لا یریحون راحة الجنة واما الاخبار  
التي رویت فی الخضاب بالسواد فانه انس للزوجة  
ومکیدة للعدو فمحصول لاجل الحرب وذكر  
الزوجة فیہ تبعاً لافصدا۔

**فصل** فاذا ثبت كراهية السواد فالمستحب  
ان یغصب الرأس بالحناء والکتم وقد  
خضب الامام احمد بن حنبل رحمه اللہ علیہ  
راسه وله ثلث وثلثون سنة فقال له عمه  
عجلت فقال له هذه سنة رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم وروی عن ابی زرر رضی اللہ  
تعالی عنہ انه قال خیر ما غیرہم الشیب الحناء  
والکتم واما خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم فاختلف الناس فی ذلك فروی عن انس  
رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
ما شاب الا لیسیراً وکن ابابکر وعمر رضی اللہ

بال صاف کرنے جائز ہیں جیسے اسے شوہر کے لئے طرح طرح کے کپڑوں سے  
زینت کرنا، قسم قسم کی خوشبو لگانا، شوہر کے لئے بننا اور سنورنا اس کے ساتھ  
کھیلنا کو دنا اور اس کے سامنے ناز و انداز کا اظہار کرنا جائز ہے رسول اللہ  
صلعم نے ان بال لڑچنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو اس قسم کے  
بناؤ سنگھار سے اپنے شوہروں کے علاوہ دوسرے مردوں کو گناہ کی  
دعوت دینا چاہتی ہوں غیروں کا دل لہکانا چاہتی ہوں اور ان کے ساتھ نہ  
کالا کرنا چاہتی ہوں۔

**خالص سیاہ خضاب مکروہ ہے** | خالص سیاہ خضاب کرنا مکروہ  
ہے کیونکہ حسن کا بیان ہے کہ نبی صلعم نے ان لوگوں کے بارے میں جو سفیدی  
کو سیاہی سے بدلتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے چہرے  
سیاہ فرمادے گا حدیث ابن عباس میں ہے کہ نبی صلعم نے ایسے لوگوں کے بارے  
میں فرمایا کہ انہیں جنت کی خوشبو نصیب نہ ہوگی، مطلق سیاہ خضاب لگانے  
کے بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں وہ بیوی کو خوش کرنے کے لئے اور دشمن پر  
اپنی جوانی ظاہر کرنے پر محمول کی جائیں گی اصل میں لڑائی کے لئے سیاہ خضاب  
جائز ہے اور بیوی کو خوش کرنے کے لئے بالتح جائز ہے۔

**کس قسم کا خضاب مستحب ہے؟** | اب جب کہ مطلق سیاہ خضاب  
کی کراہت ثابت ہو گئی تو مہندی اور دسمہ کا سیاہ خضاب لگانا مستحب  
ہے کیونکہ وہ مطلق سیاہ نہیں ہوتا۔ امام احمد نے ۲۴ سال کی عمر میں خضاب  
لگایا اس پر آپ کے چچا جان نے آپ سے فرمایا کہ تم نے جلدی کی تو آپ نے  
انہیں جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلعم کی سنت ہے ابو ذر سے روایت  
ہے کہ آپ نے فرمایا ان تمام چیزوں میں جن سے سفیدی بدلی جاتی ہے  
بہترین چیز مہندی اور دسمہ ہے۔

**کیا رسول اللہ صلعم نے خضاب کیا؟** | اس میں علماء کا اختلاف  
ہے حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی صلعم کے تھوڑے سے بال سفید ہوئے  
تو البتہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر و حضرت عمر نے مہندی اور دسمہ لگائے



تعالیٰ عنہا خضبا بعدہ بالجناہ والکتم وروی  
ان امر سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا اخرجت للناس  
شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضوبا بالجناہ  
والکتم فدل حدیثها علی اثبات خضابه صلی  
اللہ علیہ وسلم بذلک واما الخضاب بالورس  
والزعفران فظاهر کلام الامام احمد رضی اللہ  
تعالیٰ عنہ فیہ الجواز لما روی عن ابی مالک  
الاشعری رضی اللہ عنہ انه قال کان خضابنا  
لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالورس و  
الزعفران فاذا ائتت هذا فی شعر الراس فثله  
فی اللحیة لعموم قوله صلی اللہ علیہ وسلم  
غیر والشیب ولا تشبهوا بالیہود وقوله  
صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابی ذر رضی اللہ  
عنه خیر ما غیر بہ الشیب الجناہ والکتم و  
وهو عام فی شعر الراس واللحیة والیضا ان  
ابا بکر رضی اللہ عنہ جاء بابیہ ابی قحافة  
یوم فتح مکة الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اقررت  
الشیخ فی بیتہ لاتینا نکرمۃ لابی بکر فاسلم  
وراسہ ولحیتہ کالتغامة البیضاء فقال رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم غیر وھنا وحنوۃ عن  
السواد وقال ابو عبیدۃ التغامة نبت امیض  
الزھر والشبر لیشبہ بیاض الشیب بہ وقال  
ابن الاعرابی ہی شجرة تبیض کانتھا الثلج  
فصلہ ویستحب ان یکتحل وترا الماروی

خضاب لگایا، منقول ہے کہ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے مبارک نکال کر لوگوں کو دکھائے جو ہندی اور سرمہ سے رنگے ہوئے تھے۔ ام سلمہ والی حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے بھی ہندی اور سرمہ کا خضاب لگایا۔

کیا ورس وزعفران کا خضاب بھی جائز ہے؟ اس قسم کے خضاب کا بظاہر امام احمد کے کلام سے جواز ثابت ہوتا ہے کیونکہ ابو مالک اشعری کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس وزعفران کا خضاب لگایا کرتے تھے پھر جب یہ خضاب سر کے لئے جائز ہے تو ڈاڑھی کے لئے بھی جائز ہے کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (سفیدی کو بدلوا اور بیویوں کی مشابہت اختیار نہ کرو) اور یہ قول کہ ہندی اور سرمہ سفیدی کو بدلنے کے لئے بہترین شے ہے) عام ہے جس میں سر اور ڈاڑھی دونوں داخل ہیں علاوہ ازیں نفع مکہ کے دن حضرت ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے آپ نے حضرت ابو بکر کی خاطر ودرارت کے لئے فرمایا: اگر تم اس بزرگ کو گھر ہی میں ٹھہراتے تو اچھا تھا ہم ہی ان کی ملاقات کو آجاتے پھر ابو قحافہ مشرف بہ اسلام ہوئے ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال سفید بگے کے پرکی طرح تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال خضاب سے بدل ڈالو مگر انہیں سیاہ خضاب سے بچانا۔

ابو عبیدہ: تغامہ سفید پھولوں اور پھولوں الی ایک بوٹی ہے جس سے بڑھاپے کی سفیدی کو تشبیہ دی جاتی ہے۔  
ابن اعرابی: یہ برف کی طرح ایک سفید درخت ہے۔

سرمہ لگانا | طاق سلائی سے سرمہ لگانا مستحب ہے کیونکہ حضرت



انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یکتحل وتراواختلف الناس فی صفة الوتر فی ذلک فردی فی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکتحل ثلاثاً فی الیمنی ویمیلین فی الیسری وروی فی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما فی کل عین ثلاثاً۔

**فصل** ویدهن غبا وهو ان یفعل ذلک یوما یتزک لیر ما روی البرہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی ان یتزجل الرجل الا غبا والفضیلة فی ذلک ان یکون بدھن البنفسج لما روی البرہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فضل دھن البنفسج علی سائر الادھان کفضل علی سائر الناس۔

**فصل** یتحب ان لا یتخلی اللسان بنفسہ سفر وحقیرا عن سجة اشیاء بعد تقوی اللہ تعالیٰ والثقة بہ وہی التہنئف والتزین والمحلة والمشط والسواک والمقص والمدراع وہی خشبة مدرة الراس ادنی امن شہر یتخذها العرب والصوفیة یدرؤن بہا عن النفس لم الاذی کالقلم وغیرہا ویجکون بہا الجسد ویقتلون الدیب متی لا یباشرون کل شیء باید یہم والسابع قارورة الدھن لانه روی فی حدیث عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یفرته ذلک حقیراً ولا سفراً۔

**فصل** نیبا یکرہ من الحصال یکرہ الصغیر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرمہ لگایا کرتے تھے۔

اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ طاق کا کیا مطلب ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی آنکھ میں تین اور بائیں آنکھ میں دو سلاخیاں لگایا کرتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ ہر آنکھ میں تین تین سلاخیاں لگایا کرتے تھے۔

**ایک دن ناغہ کر کے بالوں میں تیل لگانا** | ایک دن ناغہ کر کے تیل لگانا مستحب ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ بالوں میں کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔ الا یہ کہ ایک دن ناغہ کر کے کنگھی کی جائے تیلوں میں افضل روغن بنفشہ ہے کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیلوں پر بنفشہ کے تیل کی اسی طرح فضیلت ہے جیسے مجھے تمام لوگوں پر فضیلت ہے۔

**سفر و حضر میں کن سات باتوں کا خیال رکھنا مستحب ہے**

اللہ پر تقویٰ اور اس پر بھروسہ کے بعد انسان کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں مندرجہ ذیل سات باتوں سے خالی نہ رہے (۱) پاک اور صاف اور بنا سنورا رہے (۲) سرمہ لگائے (۳) کنگھی کرے (۴) مسواک کرے (۵) موچنیا پینچی رکھے (۶) پھر بھگانے کا آلہ (مدراع) رکھے (مدراع ایک باشت سے چھوٹی گول سروالی لکڑی ہوتی ہے جسے عرب و ارباب تصوف موزی جانوروں کو بھگانے کے لئے اپنے پاس رکھا کرتے ہیں اور اس سے بدن کو بھی کھجالتے ہیں اور بگنے والے کپڑے کھڑوں کو بھی مار ڈالتے ہیں تاکہ موزی چیزوں کو ہاتھوں سے براہ راست دھک نہ کریں (۷) اور تیل کی شیشی اپنے پاس رکھے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیل کی شیشی حضرت و سفر میں چھوٹی نہ تھی۔

**مکروہ عادتیں** | سبٹی بجانا، تالی بجانا اور نماز میں انگلیاں چٹکانا



والتصفیق وفرقة الاصابع فی الصلوة ویکرة تغزی  
الشیاب فی حق المتواجد عند السماع ولا یعارض  
فی ذلك الواحد ویکرة الاکل علی الطریق ومد  
الرجل بین جلسائهم والارتکاء الذی یرج بہ عن  
مستوی الجلوس لانه تجبروا هو ان بالجلساء  
الا من العذر ویکرة اطالة الثیاب ویکرة مفتح  
العکک لانه دناءة ویکرة التشدق بالضحک و  
الفتقمة ورفع الصوت فی غیر حاجة وینبغی  
ان یکون مشیه معتدلاً لا یسارع الی حد  
یسدم الماشی ویتعب نفسه ولا یخطو بحیث  
یورثه العجب ویکرة فی البکاء التخیب والتعدا  
الا ان یکون من خوف الله تعالی او الندم  
علی ما فات من اوقاته بیطالته او انکسار  
قلبه عند عدم بلوغه الی درجة لخطها فیبکی  
حسرة علیها ویکرة ازالة درنه بحضور  
الناس ویکرة الکلام فی المواضع المستقدرة  
کالحمام والخلاء وما شبه ذلك وكذلك  
یسلم ولا یرد علی مسلم ویکرة کشف راسه  
بین الناس وما لبس لعودته ما جرت العادة  
لبترة ویرم کشف العورة ویکرة ان  
یقسم بایه او بغير الله تعالی فی الجملة فان  
حلف حلف بالله والا فلیصمت كذلك  
جاء فی الاثر عن النبی صلی الله علیه وسلم -

### فصل فی الاستیذان ینبغی له اذا قصد

باب النان ان یسلم فیقول السلام علیکم

مکروه ہیں بحالت سماع میں بناوٹی وجد میں آنے والے کو کپڑے  
پھاڑنے مکروه ہیں لیکن جو واقعی صاحب وجد ہے اس کے لئے جائز  
ہیں راستہ میں مطلق کھانا بھی مکروه ہے اسی طرح مجلس نداء میں  
پیر پھیلا نا اور ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھنا بھی مکروه ہے کہ بیٹھا ہوا مسکرا  
نہ ہو۔ کیونکہ اس میں اہل مجلس کی حقارت و اہانت ہے ہاں اگر عذر ہو  
تو خیر اسی طرح لمبا لباس پہننا مکروه ہے اور گوند وغیرہ کا چبانا بھی  
کہ یہ کینگی ہے اور پورا منہ کھول کر سنسنا بھی اور ٹھٹھا مار کر سنسنا بھی  
اور بلا ضرورت کے آواز بلند کرنا بھی۔ رفتار میں اعتدال مناسب ہے  
انتانیز نہ چلے کر راہ گیروں سے ٹکرا جائے اور خود کو مشقت میں ڈالنے  
اور نہ اسن طرح کی آہستہ آہستہ رفتار ہو کہ اس سے غور ٹپکے۔  
اسی طرح بلند آواز سے رونا اور امان کہ کر کے رونا مکروه ہے۔  
ہاں اگر اللہ کے خوف سے یا عمر کے قیمتی اوقات لہو و لعب میں  
ضائع ہو جانے سے یا اس پر حسرت افسوس کرنے کی وجہ سے  
کہ میں صحیح معنی میں اپنے فرائض ادا نہ کر سکا، رونے میں آواز بلند ہو  
جائے تو کوئی ہرج نہیں۔ اسی طرح مجلس میں بدن سے میل چھڑانا  
بھی مکروه ہے اور گندے مقامات میں جیسے حمام یا پائخانہ وغیرہ  
میں بات کرنا بھی مکروه ہے اور سلام کرنا بھی اور سلام کا جواب  
دینا بھی، لوگوں کے درمیان سر کا کھولنا اور غیر پردے والے بدن  
کے ان حصوں کا کھولنا جن کو عام طور پر چھپایا جاتا ہے مکروه ہے  
اور شرمگاہ کو کھولنا حرام ہے اسی طرح اپنے باپ کی یا غیر اللہ کی  
قسم کھانا مکروه ہے اگر قسم کھائے تو اللہ ہی کی قسم کھائے ورنہ قسم  
کھانے کی ضرورت ہی نہیں، خاموش رہے حدیثوں میں نبی صلعم سے  
اسی طرح منقول ہے۔

گھر میں آنے کی اجازت حاصل کرنا اگر کوئی شخص کے

دروازے پر جائے تو مناسب یہ ہے کہ اس سے اس طرح اجازت



ادخل لماروی ان رجلا من بنی عامر استاذن علی  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیت  
فقال لجم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمہ  
اخرج الی هذا وعلم الاستیذان فقال لہ  
قل السلام علیکم ادخل فتسعه الرجل فقال  
السلام علیکم ادخل فاذن لہ فدخل ولا ینب  
ظہرہ الی الباب ولا یبعد لانه ینعہ من  
سماع الجواب کذا لک ثلثا فان اجیب فیہا  
والانصراف ان یغلب علی ظنہ انہ لم  
یسع نداء لہما بینہما من بعد او شغل کان لہ  
ان یشیر علی الثلث والاصل فی ذلک ماروی  
ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم انہ قال الاستیذان ثلاث فان  
اذن لک فادخل والا فارجم وسواء فی ذلک  
الاجانب والاقارب المحرمات کالامومہ ما شاکلہا  
لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما سألہ رجل  
هل علی ان استاذن علی اخی قال نعم قال اخی  
معہا فی البیت قال صلی اللہ علیہ وسلم استاذن  
علیہا قال اخی خادمہا قال استاذن علیہا تمب  
ان تراہا عربیۃ فاما زوجتہ وامنتہ الجائز  
لہ وطیبہا فلیس علیہ الاستیذان فی حقہما  
لان اکثر ما فی ذلک ان یصادف منکشفة  
منیسطہ وقد ایحی لہ النظر الی ابدانہن ولکن  
لیستحب لہ ان ینحرک نعلہ اولاً اذا دخل المنزل  
لیعلم دخوله نص علی ذلک الامام احمد فی

مانگے السلام علیکم، کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ کیونکہ ایک عامری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگی، کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ نہیں صلعم نے اپنے خادم سے فرمایا: اس کے پاس جا کر اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ اور آخر کار خادم نے اس سے جا کر کہا: اس طرح اجازت مانگو السلام علیکم، کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ پھر آپ نے اسے اندر بلا لیا۔ اجازت مانگنے والا دروازے کی طرف پشت نہ کرے اور نہ دروازے سے دور کھڑا ہو ورنہ جواب سننے میں دشواری ہوگی، اجازت مانگنے والا السلام علیکم، کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ اگر اجازت مل جائے تو فہم اور نہ واپس چلا جائے ہاں اگر یہ غالب گمان ہو کہ گھر والوں نے دور ہونے کی وجہ سے یا کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں سنی تو تین دفعہ کے علاوہ بھی اجازت مانگ سکتا ہے اس کی دلیل ابو سعید خدریؓ والی حدیث ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا کہ اجازت تین بار مانگی جائے اگر اجازت مل جائے تو اندر جاؤ ورنہ واپس ہو جاؤ۔ اس میں اپنے اور پرانے سب برابر ہیں خواہ محرم ہوں جیسے والدہ وغیرہ یا غیر محرم، کیونکہ جب نبی صلعم سے ایک شخص نے پوچھا: کیا میں اپنی والدہ سے بھی اندر آنے کی اجازت مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں، کہنے لگائیں ان کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں، فرمایا: ان سے بھی اندر آنے کی اجازت مانگ، کہنے لگا: میں ان کا خادم ہوں، فرمایا: ان سے بھی اندر آنے کی اجازت مانگ، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو برہنہ دیکھے۔ البتہ بیوی اور لونڈی سے جن سے ہمبستری حلال ہے اجازت لینا ضروری نہیں کیونکہ انہیں زیادہ سے زیادہ اتفاق سے برہنہ یا جس حال میں ہوں دیکھ لے گا اور اس کے لئے ان کا بدن دیکھنا مباح ہے تاہم مستحب یہ ہے کہ دروازے پر آکر جوتے پر جوتا زور سے مارے تاکہ انہیں اپنے آنے کی اطلاع ہو۔



روایۃ مہنی واذا دخل یسلم علی اہلہ لیکثر  
خیر بیتہ کما جاء الاثر ولستوفی ذلک فی باب  
دخول المنزل انشاء اللہ تعالی ولا یطرق اہلہ  
لیلاً لنہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یطرق  
الرجل اہلہ لیلاً قد فعل ذلک رجلاً فوجد  
عند اہلہ ما یکرہان فاذا اذن له فی دار  
غیرہ فدخل جلس حیث یاذن له صاحب الدار  
وان کان من اہل التیمۃ وان فجا قوما وہم  
علی طعامہم فلا یأکل الا ان یکون صاحب  
الطعام من جرت عادتہ بالسماحة وطیب  
القلب بذلک۔

**فصل فیما یتحب فعلہ بيمينہ وما یتحب**  
فعلہ بشمالہ لیتحب لہ تناول الاشیاء بيمينہ  
والاکل والشرب والمصافحة والبدآة  
بہا فی الرضوء والانتعال ولبس الثیاب وكذلك  
یبء فی الدخول الی المواضع المبارکة  
کالمساجد والمشاهد والمنازل والدور  
برجلہ الیمنی واما الشمال فلعل الاشیاء  
المستقدرة وازالة الدرن کالاستنثار  
والاستنجاہ وتنقیۃ الالف وغسل النجاسات  
کلہا الا ان یشتق علیہ ذلک او یتخذ کالمشول  
وللفطرۃ لیسارۃ فیفعلہ بيمينہ ولا یشی فی  
نعل واحد الا ان یکون ذلک یسیرا  
بمقدار ما یصلح الاخری اذا القطع شسعہا  
واذا اراد ان یناول النساۃ ترقیعاً وکتاباً

منہی کی روایت میں امام احمد سے اس کی صراحت آگئی ہے پھر گھر میں  
داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرے تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو جیسا کہ  
حدیث میں آتا ہے اس سلسلہ میں پوری تفصیل گھر میں داخل ہونے کے باب  
میں انشاء اللہ آ رہی ہے، سفر سے آئیں اور رات میں بیوی کے پاس آئے  
کیونکہ نبی صلعم نے رات میں گھر میں آنے سے منع فرمایا ہے دو آدمیوں نے لیا کیا  
کہ رات ہی کو گھر میں آگئے اور اپنی اپنی بیوی کے پاس ناخوشگوار چیزیں  
دیکھیں، اگر کسی کو کسی غیر کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مل جائے  
تو گھر میں جا کر جہاں مالک مکان بیٹھنے کو کہے ہیں بیٹھ جائے اگر چہ مالک مکان ذمی  
اگر اتفاق سے ایسے لوگوں کے پاس پہنچے کہ وہ کھانا کھا رہے ہوں تو  
ان کے ساتھ کھانا نہ کھائے ہاں اگر صاحب خانہ کی سخاوت کی اور خوشی  
خوشی کھانا کھلانے کی عادت ہو تو خیر۔

کو نئے کام وائیں اور بائیں ہاتھ سے کئے جائیں؟ | دائیں ہاتھ  
سے ہر چیز لینا، کھانا کھانا، مشروب پینا، مصافحہ کرنا، وضو میں دائیں  
طرف سے ابتدا کرنا، اسی طرح جوتا پہننے میں اور کپڑے بدلنے میں دائیں  
طرف سے ابتدا کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح مقامات مقدسہ (مسجدوں  
مجلسوں، منزلوں اور گھروں) میں داخل ہوتے وقت دائیں پیر سے  
ابتدا کرے۔ بائیں ہاتھ گھنڈنی اور گندی چیزوں کے لئے اور بائیں  
دفع کرنے کے لئے ہے جیسے ناک سنکنا، استنجاہ کرنا، ناک صاف  
کرنا اور تمام گندی گیوں کا دھونا بائیں ہاتھ سے مستحب ہے الا یہ کہ  
سیدھا ہاتھ لگائے بغیر یہ کام دشوار ہوں یا ممکن نہ ہوں جیسے بائیں  
ہاتھ سن ہو گیا ہو یا کٹ گیا ہو اس صورت میں بائیں ہاتھ کے کام  
مجبوراً دائیں ہاتھ سے کرنے مباح ہیں۔

ایک جوتا پہن کر چلنا لائق نہیں ہاں دوسرے جوتے کے در  
کرنے کے لئے جبکہ اس کا تسمہ لٹ جائے اگر ذرا سی دور چلا جائے  
تو کوئی ہرج نہیں۔



فلیقصد بعینہ وازامشی مع من هو اعلیٰ منہ  
فی المنزلة والفضل فلیمش عن ینہ یجعله  
کامامہ فی الصلوة وان کان دونہ فی المنزلة  
یجعله عن ینہ ویشی عن لیسارہ وقد قیل  
المستحب المشی علی الیمین فی الجملة لتخلی الیسار  
للبراق وغیرہ۔

**فصل فی آداب الاکل والشرب ولینتخب**  
للاکل ان لیسہی اللہ تعالیٰ عند اکلہ ویحمدہ  
عند فراغہ وكذلك عند الشرب لان ذلك  
ابرك لطعامہ والبعد لشیطانہ لما روی ان  
اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا  
رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع قال صلی اللہ علیہ  
وسلم فلعلکم تفترون قالوا نعم قال صلی اللہ  
علیہ وسلم فاجتمعوا علی طعامکم واذکرو  
اسم اللہ تعالیٰ بیادک لکم فیہ وعن جابر  
بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما انه سمع النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتہ  
فذکر اسم اللہ عزوجل عند دخوله وعند  
طعامہ قال الشیطان لا ولادہ لا مبيت لکم  
ولا عشاء واذا دخل فسلم ینکر اللہ عند  
دخوله قال الشیطان ادرکنتم المبيت فاذا لم  
ینکر اسم اللہ عند طعامہ قال ادرکنتم المبيت  
والعشاء وعن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال کنا اذا حضرنا  
مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم  
یضع احدنا یدہ حتی ینسب رسول اللہ صلی اللہ

اگر کسی کو شاہی فرمان یا خط وغیرہ دینا ہے تو دائیں جانب سے  
دیا جائے اگر کسی معزز آدمی کے ساتھ ساتھ چلو جو تم سے افضل اور اعلیٰ  
مرتبہ کا ہو تو اس کی دائیں جانب چلو اور اسے نماز میں بمنزلہ امام  
کے سمجھو اور اگر وہ مرتبہ میں تم سے کم ہو تو اسے اپنی سیدھی جانب  
کر لو اور تم اس کی بائیں جانب چلو بعض کے نزدیک مطلقاً سیدھی  
جانب چلنا مستحب ہے تاکہ بائیں جانب تھوک وغیرہ کے لئے خالی رہے  
کھانے پینے کے اصول و آداب | کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ  
پڑھنا اور فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مستحب ہے کیونکہ  
اس طرح کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے اور شیطان بہت دور  
جاتا ہے منقول ہے کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں  
مگر سیر نہیں ہوتے فرمایا: شاید تم الگ الگ کھاتے ہو صحابہ نے کہا  
بات تو یہی ہے فرمایا: بل کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو اس  
طرح تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔

حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی صلعم سے سنا آپ فرما  
رہے تھے اگر کوئی گھر میں داخل ہونا چاہے اور داخل ہوتے وقت  
اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اپنی اولاد سے  
کتنا ہے: یہاں تم کو نہ رات میں رہنے کے لئے جگہ ہے اور نہ رات  
کا کھانا ہے یعنی اس گھر میں تمہاری دال گلنے والی نہیں اور اگر  
گھر میں جاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی تو کتنا ہے تم نے رات کا  
ٹھکانہ پالیا۔ پھر اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تو کتنا  
ہے اس گھر میں تم نے رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی پالیا اور رات  
کا کھانا بھی۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلعم  
کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم سے کوئی کھانا کھانے  
کے لئے ہاتھ نہیں بڑھایا کرتا تھا جب تک آپ کھانے کے لئے ہاتھ  
نہ بڑھاتے تھے پھر ایک دیہاتی آتا ہے گویا اسے کسی نے دھکا دے



عليه وسلم وانا حضرنا معه طعاما فجاء اعرابي  
 كانا يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فاخذ  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجاءت  
 جارية كانا تدفع فذهبت لتضع يدها في  
 الطعام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 بيدها وقال ان الشيطان يستحل الطعام الذي لم  
 يذكر اسم الله عليه وانه جاء بهذا الاعرابي  
 يستحل به فاخذت بيده وجاء بهذا الجارية  
 يستحل بها فاخذت بيد هافر الذي نفسي بيد  
 ان يده لا في يدي مع ايد يها وان لسي ان يذكر  
 اسم الله تعالى عنده اوله فيقل بسم الله اوله  
 و آخره هكذا روى في حديث عائشة رضي عن  
 النبي صلى الله عليه وسلم وليستحب ان يبدء  
 بالماء ويغتم به ويتناول اللقمة بيمينه و  
 يمغرها ويجيد مضغها ويطيل بلعها وياكل  
 مما يليه اذا كان نوحا واحدا وان كان الزاعا  
 فلا بأس ان يجيل يده في القصعة وكذلك  
 اذا كان ثمارا او فاكهة فلا ياكل من ذرورة  
 الطعام ووسطه بل ياكل من جوانبه واذ كان  
 ثريدا اكل بثلاثة اصابع ولغة ها ولا ينفع في  
 الطعام ولا الشرب ولا ينفس في انائه واذ  
 اصاق نفسه نحي القدر عن فيه فاذا تنفس  
 اعاده اليه ويكره الاتكاء في الاكل والشرب  
 ويجوز الاكل والشرب قائما وقيل يكره والجلوس  
 احب واذ ادفع الاء الى احد من جلسائه

کر بھیجا ہے اور کھانا کھانے کے لئے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے رسول اللہ  
 صلعم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر ایک پی آتی ہے گویا اسے بھی کسی  
 نے دھکا دیا ہے اور کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے آپ اس کا  
 بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں شیطان اپنے لئے وہ کھانا حلال  
 سمجھتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے چنانچہ وہ اس دیہانی کو لاتا  
 ہے تاکہ اس کے ذریعہ اپنے لئے کھانا حلال کر لے لیکن میں اس کا  
 پکڑ لیتا ہوں پھر اسی مقصد کے لئے اس پکڑ لیتا ہے لیکن میں اس کا  
 ہاتھ بھی پکڑ لیتا ہوں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان  
 دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔  
 اگر کوئی کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو توبہ میں  
 بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے جیسا کہ حدیث عائشہ میں نبی صلعم سے  
 منقول ہے۔

کھانے کی ابتداء نمک سے کرنا اور نمک ہی پر ختم کرنا مستحب ہے۔  
 سیدھے ہاتھ سے چھوٹا نوالہ توڑو اور اسے اچھی طرح چباؤ اور  
 آہستہ آہستہ نگھو اور اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو اپنے سامنے سے  
 کھاؤ اور اگر ایک ہی پیالہ میں مختلف قسم کا کھانا ہو تو چاروں طرف  
 سے کھانے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر پھل یا میوہ ہو تو ان کی  
 چوٹی سے اور درمیان سے پھل نہ اٹھاؤ بلکہ ایک طرف سے اٹھا کر  
 کھاؤ اگر شوربہ میں روٹی بھینگی ہوئی ہو تو تین انگلیوں سے کھاؤ  
 اور انہیں چالو کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارو اور پانی  
 وغیرہ پیتے وقت برتن میں سانس نہ لو اگر سانس پھول جائے تو منہ  
 سے برتن ہٹا کر سانس لے لو اور پھر اسے منہ سے لگا لو۔

کھاتے پیتے وقت ٹیک لگانا مکروہ ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا  
 جائز ہے مگر بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے اور بیٹھ کر کھانا پینا  
 بہت اچھا ہے اگر صدر مجلس یا کوئی اور مجلس میں کسی کو برتن دینا



بدء بمن عن يمينه ولا يجوز الاكل والشرب في  
 اواني الذهب والفضة ولا المصيب اذا كان ذلك  
 كثيراً واذا قدم بين يديه في شيء من ذلك طعام  
 رفعه من الاتاء الى الخبز وانا غير ذلك الجنس  
 ثم اكله والانكار على من احضره واجب و  
 كذلك المحكم في البخور في مدخن الذهب  
 والفضة وكذلك المحكم في ماء الورد من  
 المراش المتخذة من ذلك فيعمر عليه الحضور  
 في تلك البقعة ويتعين عليه الانكار والقيام  
 من ذلك المجلس ويكون انكاره برفق بان يقول  
 تمام سرور كما ان يتحملوا بما اباحت الشريعة  
 وجعلته جبالاً بما حرمته وحطرتته ولا  
 خير في لذة تزول الى معصية اذكروا رحمكم الله  
 قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب في  
 اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك  
 فانا يجرح في بطنه نار جهنم واذا حصلت  
 اللقمة في فيه فلا يجوزها منه الا ان يفطر الى  
 ذلك لشرقه او حرارة ليتفري بها واذا عطس  
 على طعام حصر وجهه واخطا في ستره لاجل  
 الطعام واذا كان على راسه النسان قائم اذن  
 له في المجلس فان ابى عليه ارقام متروكة  
 او غلامه لقضاء حاجة وسقيه الماء  
 اخذ من اطائب الطعام فلقمة وليستحب مسح  
 الاناء من فضلة الطعام ولقط الفئات من  
 جوانب الاناء والطبق وليستحب ان يباسط

چاہے تو اپنے دائیں جانب والے کو دے سونے چاندی کے برتنوں  
 میں کھانا پینا جائز نہیں اور نہ سونے چاندی کے طمع کئے ہوئے  
 برتنوں میں۔ اگر اس قسم کے کسی برتن میں کھانا لایا جائے تو کھانا روٹی  
 نپریا کسی دوسرے برتن میں الٹ لے اور کھانا کھالے لیکن اس طرح  
 کے برتن میں کھانا لانے والے کو بتا دینا لازم ہے کہ اس طرح کے  
 برتنوں میں کھانا حرام ہے اسی طرح سونے چاندی کے عود والوں  
 میں عود وغیرہ سلگانا حرام ہے یہی حکم سونے چاندی کے گلاب  
 پاشوں کا ہے اس لئے اس قسم کی مجلس میں جہاں اس طرح کے برتن  
 استعمال کئے جاتے ہوں جانا حرام ہے اور انہیں ڈانٹنا متعین ہے  
 اگر باز نہ آئیں تو دباں سے اٹھ آنا مناسب ہے اہل خانہ کو ثبت  
 اور پیار سے سمجھا دینا چاہیے کہ تمہاری مسرتوں کا تہمتہ اسی میں ہے  
 کہ مباح چیزوں سے گھر سجاؤ اور انہیں رونق دو اور حرام چیزوں  
 میں نہیں اس لذت میں خیر و برکت نہیں جس کا انجام گناہ ہوں  
 حق تعالیٰ شانہ تم پر رحم فرمائے نبی صدم کی اس حدیث میں غور  
 کرو آپ نے فرمایا: جو سونے یا چاندی کے برتن میں جس میں  
 سونے چاندی کا کچھ حصہ ہو پانی وغیرہ پیئے وہ اپنے پیٹ میں  
 جہنم کی آگ ہی ٹھونس رہا ہے۔

جب منہ میں نوالہ لے لو تو مجبوری کے سوا اسے منہ سے نہ نکالو  
 مجبوری یہ ہے کہ پھندا لگ جائے یا سخت گرم ہو یا کسی مضر  
 شے کا وہم ہو اگر کھانا کھانے وقت چھینک آئے تو ناک اور منہ  
 پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھانپ لو اور کھانے سے دوسری طرف  
 منہ کر کے چھینکو اور احتیاط رکھو کہ کھانا محفوظ رہے اگر تمہارے  
 پاس کوئی شخص یا پانی پلانے کے لئے یا دوسرے کاموں کے  
 لئے غلام یا لڑکا کھڑا ہو تو اسے بلٹھ جانے کی ہدایت کرو اگر  
 وہ نہ بیٹھے تو نفیس ترین عمدہ کھانے میں سے ایک نوالہ لے



الاخوان بالحدیث الطیب والحکایات القلیق  
 بالحال اذا كانوا متبصین وینبغی ان یاکل مع ابناء  
 الدنیا بالادب ومع الفقراء بالایشار ومع الاخوان  
 بالانسیاط ومع العلماء بالتعلم والاتباع و  
 اذا اکل مع من یراعلمہ بہا بین ید یدہ فریما  
 فانتہ اطائب الطعام لعماء ولینتخب الاجابۃ  
 الی ولیمة العرس فان احب ان تاكل اکل وال  
 دھا والنصف لما روئی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ  
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعی  
 فلیجب فان شاء طعم وان شاء ترک وعن عبد اللہ  
 بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 من دعی فلم یجب فقد عصی اللہ تعالیٰ ورسولہ  
 ومن دخل علی غیر دعوة فقد دخل سارقاً وخرج  
 مغیراً هذا الذی ذکرنا اذا کان ذلک خالیاً عن  
 المنکر فان حفرة منکر کالطبل والمزمار والعود  
 والناء والشلوب والشبابۃ والرباب والمغاتی  
 والطابیر والجعران الذی یلعب بہ الترتک لا  
 یجلس هناك لان جمیع ذلک محرم واما الدف  
 فیموز استعمالہ فی النکاح وسماع القول بالنصب  
 والرقص مخروہ کما فسر بعض المفسرین قوله  
 عز وجل ومن الناس من یشتری لہم الحدیث فقال  
 هو الغناء والشعر وجاء فی بعض الحدیث عن رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الغناء ینتہ التفاق  
 فی القلب کما ینتہ السیل البقل وسئل الشیبلی رضی  
 عن الغناء فقیل الحق هو قال لا قال فماذا البد الحق

اسے دے دو۔ ادھر ادھر سے برتن کا پونچھنا اور برتن صاف کرنا  
 مستحب ہے اور گرے ہوئے دینے سے چن کر کھانا بھی اسی طرح ال مجلس  
 سے اگر وہ دل گیر ہوں تو اچھی اور دل خوش کن باتیں کرنا اور مناسب  
 حال واقعات بیان کرنا مستحب ہے اور نیا داروں کے ساتھ پورے  
 ادب و تیز سے فقراء کے ساتھ تواضع اور انکساری سے، عوام کے ساتھ  
 خندہ پیشانی سے اور علماء کے ساتھ ادب و احترام سے کھانا مستحب ہے  
 اگر کسی نابینا کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہو تو اسے دسترخوان پر  
 چنا ہوا کھانا تیار دو کیونکہ نظر نہ آنے کی وجہ سے اس سے عمدہ کھانا  
 فوت ہو جاتا ہے۔ دلیمہ کی دعوت کو قبول کرنا اور اس میں شریک ہونا  
 مستحب ہے اگر کھانا چاہے کھالے ورنہ میزبانوں کے لئے دعا کر دے۔  
 کیونکہ حدیث جابر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دعوت کی  
 جائے اسے دعوت قبول کر لینی چاہیے پھر اگر خواہش ہو تو کھانا کھالے ورنہ  
 نہ کھائے۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کی اور جو بلا دعوت  
 کے شریک ہو گیا وہ چور بن کر شریک ہوا اور لیٹرا بن کر نکلا۔ مذکورہ بالا  
 احکام اس وقت ہیں جب مجلس دعوت خلاف شرع کاموں سے  
 ہو لیکن اگر مجلس دعوت میں خلاف شرع باتیں دکھائی دیں جیسے ڈھول  
 سازگی، بربط، شہنائی، شربلوق، شبابہ، ارباب، نوٹیکہ، ہرتم کے باجے،  
 اسی طرح باج بجانے والے اور ناچنے والے لوتڑے اور جبران جسے ترک  
 کھیتے ہیں تو اس مجلس میں نہ بیٹھو کیونکہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں نکاح میں اعلان  
 کے لئے صرف دف، ڈھول، بجانا مباح ہے اور نے کے ساتھ سماع کرنا اور  
 ناچنا مکروہ ہے جیسا کہ بعض مفسروں نے ومن الناس من یشتری لہم الحدیث  
 بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ بات خریدتے ہیں، میں لہم الحدیث کی  
 تفسیر گانے سے اور شعر سے کی ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا: گانا دلوں میں اس طرح لفاق پیدا کرتا ہے جیسے سیلاب گھاس پیدا کرتا ہے۔



الا الضل ثم يكفي في كراهة ما في ذلك من تورث  
الطبع وهيجان الشهوة والميل الى النسوان و  
اباطيل النفوس وزعوناتها والطرب والسخف و  
الدناءة والاشتغال بذكر الله تعالى اطيب اسلم  
لن امن بالله واليوم الآخر ودعوة الختان ليست  
مستحبة ولا على من دعى اليها ان يجيب ويكره  
التقاط النار لانه شبيهة النهبة وفيه سخف  
ودناءة ويكره حضور طعام الولائم ما عدا العرس  
اذا كان على الصفة التي وصفها رسول الله  
صلى الله عليه وسلم بينع منه المحتاج ويغضره  
المستغنى عنه ويكره لاهل الفضل والعلم في  
الجملة التسرع الى اجابة الطعام والتسامح بذلك  
لما فيه من الذلة والدناءة والشرة لا سيما اذا  
كان حاكنا وقيل ما وضع احد يده في قصعة  
احد الا ذل ويجرم التطفل على طعام الناس و  
هو دخوله مع المدعو من غير ان يدعى وهو  
ضرب من الرقاحة والخصب فقيه اثمان احد  
هنا الاكل لما لم يدع اليه والثاني دخوله الى  
منزل الغير لغير اذنه والنظر الى اسراره والتفتيق  
على من حضرة ومن الادب ان لا يكثر النظر  
الى وجوه الاكلين لانه ما يجشمهم ولا يتكلم  
على الطعام بما يستقذره الناس من الكلام ولا  
بما يفضحهم خوفا عليهم من الشرف ولا بما  
يجزنهم لئلا ينقص على الاكلين اكلهم وليستحب  
غسل اليد قبل اكل الطعام وبعده وقيل يكره

شہلی سے گانے کے بارے میں پوچھا گیا اور کہا گیا کیا گانا ٹھیک ہے؟  
فرمایا: نہیں پھر فرمایا نماز بعد الحن الا الضلال رکھتے ہیں کہ بعد بجز گانے  
کے اور کیا ہے؟ اگر بہت کے لئے وہ پہچان ہی کافی ہے جو گانے بجانے سے  
ذلوں میں پیدا ہوتا ہے شہوت بھرک اٹھتی ہے عورتوں کی طرف رغبت  
ابھرتی ہے نفسانی اور باطل باتیں جو شہ مارنے لگتی ہیں رعزتیں نمودار  
ہوتی ہیں اور غمگینے کا اور سبکی اور کمینگی کا ترشح ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا  
اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول  
ہونے سے زیادہ دل خوش کن اور سلامتی والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔  
خفتوں کی دعوت مستحب نہیں اور نہ اس دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے  
بھیری جانہ والی چیزوں کا چننا مکروہ ہے کیونکہ یہ لوٹ کے مشابہ ہے  
اس میں ایک قسم کی خفت و دناوت ہے۔

شرع کے مطابق شادی کے ولیمہ کے علاوہ دیگر خوشیوں کی ایسی دعوتوں  
میں شریک ہونا مکروہ ہے جن میں بیچارے محتاج اور غرباء شریک کئے  
جائیں اور جو لوگ ان دعوتوں سے مستغنی ہوں ان میں انہیں کو بلا یا جائے۔  
ارباب علم و فضل کے لئے دعوت قبول کرنے میں جلدی کرنا مطلقاً  
مکروہ ہے، جیسے وہ دعوت کے منتظر ہی تھے اور ادھر بلا آیا ادھر جا  
کر لی کیونکہ اس سے ایک قسم کی ذلت، کمینہ پن اور طعام کی حرص ثابت  
ہے خصوصاً صاحب دعوت کرنے والا حاکم ہو۔ کہا جاتا ہے جس نے  
کسی کے برتن میں ہاتھ دکھا وہ ضرور ذلیل ہوا۔

ناخواندہ مہمان بن کر کسی دعوت میں جانا مکروہ ہے ایسے شخص کو طفیل  
کہا جاتا ہے اس میں ایک قسم کی بے حیائی اور لوٹ ہے اور دو گناہ لازماً  
آئے ہیں، اس کا کھانا جس کے لئے بلایا نہیں گیا تھا اور بلا اجازت کے  
کے دوسرے کے گھر میں داخل ہو جانا اور اس کے بھیدوں کو ٹوٹنا  
اور حاضرین مجلس کو تنگی میں ڈالنا۔  
کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانے والوں کے چروں کو نہ دیکھا جائے



قبل الطعام وليستحب بعد الاكل البقلة والخبيثة  
 هي الثومة والبصله والكراث لكرهه رجم  
 وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه  
 قال من اكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب  
 مصلا نادكثر الاكل بحيث يغاف منه الثمة  
 مكروهة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم  
 انه قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه  
 ويكره لغير صاحب الطعام من الضيف ان  
 يلتم من حضر معه على الطبق الا باذن صاحب  
 الطعام لانه ياكل على ملك صاحبه على وجه  
 الاباحة وليس ذلك بتملك ولهذا اختلف  
 الناس في الوقت الذي يحصل الطعام ملك الاكل  
 فقال قوم اذا حصل في فيه واستهلك وقال  
 اخرون لا يملكه بل ياكل على ملكه و اذا  
 قدم الطعام فلا يحتاج بعد التقدير الى اذن  
 اذ كان قد جرت العادة في ملك البلد الاكل  
 كذلك فيكون العرف اذنا ويكره اخراج  
 شئ من فيه و رد الى قصعة ويكره التخلل  
 على الطعام ولا يمس بيد لا بالخيز ولا يستدله  
 ولا يخلط طعاما بطعام يعني الوان الطباخ  
 لانه قد يكره ذلك طباع كثير من الناس  
 وان كان نفسه تبيل اليه فيترك ذلك لاجلهم  
 ولا يجوز له ذم الطعام ولا لصاحبه استئمانه  
 ومدحه ولا تقويمه لانه دفاعة وقد روى  
 ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مدح طعاما

کیونکہ بار بار دیکھنے سے لوگوں کے دلوں میں غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔  
 کھانا کھانے وقت ناخوشگوار اور منہ سانس والی باتوں سے پرہیز کرو۔  
 ایسا نہ ہو کہ کھانے والوں کو پھندا لگ جائے اور نہ غم انگیز باتیں کرو۔  
 کہیں ان کا کھانا مکر نہ ہو جائے۔  
 کھانا کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ  
 دھو لو۔ بعض کے نزدیک قبل از طعام ہاتھ دھونے مکروہ ہیں اور  
 بعد میں مستحب ہیں۔ بدبو والا ساگ رکیا لہسن، پیاز اور گندنا وغیرہ  
 کھانا مکروہ ہے کیونکہ ان کی بو ناگوار معلوم ہوتی ہے رحمت عالم صلعم  
 نے فرمایا جو اس مکروہ بو والے ساگ کو کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب آئے  
 ناک تک پیٹ بھر کر کھانا جس سے بد بھنی کا ڈر ہو مکروہ ہے رحمت  
 عالم صلعم نے فرمایا آدم کے بیٹے نے اپنے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں  
 علاوہ میزبان کے کسی مہمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسے کوئی نعمت  
 دے جو اس کے ساتھ دسترخوان پر موجود ہے ہاں اگر میزبان اجازت  
 دیدے تو خیر کیونکہ وہ میزبان کے دسترخوان پر اباحت کے طور پر رکھا  
 رہا ہے ملکیت کے ڈر پر نہیں۔ اسی لئے علماء کا اس وقت میں اختلاف  
 ہے جس وقت کھانا کھانے والے کی ملکیت بنتا ہے۔ بعض علماء کے  
 نزدیک جب نوالہ منہ میں چلا جائے اور منہ میں جا کر غائب ہو جائے  
 تو کھانے والے کی ملکیت بن جاتا ہے، دوسرے علماء کہتے ہیں کھانے  
 والا مالک نہیں ہوتا بلکہ کھانا میزبان کی ملکیت باقی رہتے ہوئے کھانا ہے۔  
 جب کھانا چن دیا جائے تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں بشرطیکہ اس  
 کی یہی عادت ہو یہ عرفی عادت ہی اجازت ہے۔ منہ سے نکال کر کچھ  
 برتن میں ڈالنا مکروہ ہے نیز کھاتے وقت خلال کرنا مکروہ ہے۔ رٹی  
 سے ہاتھ نہ پونچھو اور رٹی کی بے عزتی نہ کرو۔ ایک کھانا دوسرے  
 کھانے سے نہ ملاؤ کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کی طبیعتوں کے خلاف ہے  
 کے علاوہ معدہ بھی خراب کرتا ہے اگر کسی کو چند چیزیں ملا کر کھانے کی



ولا ذمۃ ولا یرفع یدہ حتی یرفعوا ید یمہم الا  
ان یعلم منہم الا نبطا الیہ فلا یتکلف ذلک  
ولیتحب ان یجعل ماء الایدی فی طست واحد  
لما روی فی الخبر لا یتدد وایید وشلکم وروی  
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی ان یرفع الطست  
حتی یطف یعنی یتلی ولا یغسل یدہ بما یطعم  
من دقیق الباقلاء والعدس والهرطان وغیر  
ذلک یجوز بالنخالة ولا یقرن بین التمرین  
لنہیہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک وقیل  
لا یکرہ ذلک ان کان وحدا او کان ہر صاحب  
الطعام ولا یتخیر الا طعمۃ علی صاحب الدار بل  
یقنع بما قدم لان فی ذلک حملۃ علی التکلف و  
قد قال صلی اللہ علیہ وسلم انا والقیاء  
امتی برآء من التکلف وان استدعی منہ  
صاحب الدار التثنی علیہ کان لہ ان ینکر  
شہوتہ ویکرہ لہ رد الہدیۃ وان قلت  
اذا کانت من جہۃ حلال طیبۃ واحتشد  
فی المكافات او الدعاء لہ ومن سقط فی طعامہ  
او شربہ شئی فلا یخلو ما ان یکرب لہ نفس  
سائلۃ ما عدل السمک ینکون الطعام نجسا  
ویجرم اکلہ اذا کان مائعاً وان کان جامداً  
رفعه وما حولہ وان کان مالا نفس لہ سائلۃ  
فان کان من ذوات السوم لم یاکلہ ویجرم  
الطعام لاجل الضرر بہ لا لعینہ کالحیۃ  
والعقرب وان کان ذاباً غسہ فی الطعام حتی

خواہش ہو تو الگ ایک برتن میں لا کر کھالے اور تمام کھانے جوں  
کے توں لوگوں کے لئے چھوڑ دے کسی کو کھانے میں چیں بیخ نکالنا جائز  
نہیں اور نہ کھانا کھانے والے کو اپنے کھانے کی تعریف و خوبی بیان کرنے  
کا جواز حاصل ہے نہ یہ کہے کہ یہ کھانا بڑا قیمتی ہے کیونکہ یہ کم ظرفی اور  
کینہ پن کی علامت ہے نہ صلعم نے نہ کبھی کسی کھانے کی تعریف کی اور نہ برائی کی  
کھانے سے ہاتھ نہ رو کر جب تک دوسرے لوگ کھا رہے ہیں ہاں اگر  
لوگ خندہ پیشانی سے اجازت دیدیں تو خیر کھیر تکلف نہ کیا جائے۔  
ایک ہی لگن میں ہاتھ دھوئے مستحب ہیں کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا اگر لگن  
نہ ہو ورنہ تمہارا اتحاد جاتا رہے گا اور نبی صلعم نے لگن اٹھانے سے  
بھی منع فرمایا جب تک وہ بھر نہ جائے۔

کھانی جانوروں سے ہاتھ نہ دھوؤ جیسے باقلا، سورا اور  
ہرطان (جو ایک قسم کا غلہ ہے) کے اٹے سے ہاتھ نہ دھوؤ ہاں بھوسے  
سے ہاتھ دھونے جائز نہیں دو کچوریں اکٹھی منہ میں نہ رکھو کیونکہ نبی صلعم  
نے اس سے منع فرمایا ہے بعض کے نزدیک اگر کوئی تنہا کھا رہا ہو یا  
صاحب خانہ ہو تو کوئی ہرج نہیں۔ میزبان سے کسی خاص طرح کے  
کھانے کی فرمائش نہ کرو بلکہ جو کچھ سامنے آجائے اسی پر قناعت کرو  
کیونکہ اس طرح میزبان پر ایک قسم کا بار پڑ جاتا ہے اور تکلف میں  
تکلیف ہے رحمت عالم صلعم نے فرمایا: میں اور میری امت کے پاس  
حضرات تکلف سے بیزار ہیں البتہ اگر میزبان خود اپنے مہمانوں سے  
فرمائش کرے کہ وہ اپنی خواہش و شوق کا کھانا تبادیں تو پھر جس  
کو طبیعت چاہتی ہو بلا کسی کراہت کے تبادیا جائے۔

ہدیہ کا لوٹانا مکروہ ہے اگر چہ تھوڑا ہو اور حلال و طیب مال میں سے  
ہو۔ ہاں بدلہ دینے کی اور تحفہ دالے کے لئے دعائے خیر کرنے کی پوری  
پوری کوشش کی جائے، اگر کھانے پینے کی کسی چیز میں کچھ گر جائے  
تو اگر اس میں مچھلی کے علاوہ بننے والی خون والی شے ہو تو کھانا ناپاک



یغوص جناحاً لثم اخرجہ وان مات فان الطعام  
 طاهراً کلمہ لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 انہ قال اذا وقع الذباب فی اقاء احدکم فلیغمسه  
 فیہ فان فی احد جناحیہ داء و فی الاخری شفاء  
 و انہ یلقی بالذی فیہ الداء ویستحب لہ مق  
 الشراب ولا یکرعہ کرعاً ویقطعہ ثلاث  
 دفعات للنفس ولا یتنفس فی الاقاء ولیس علی  
 اولہ ویحمد اللہ تعالیٰ فی اخرہ والاختصار فی  
 ہذا الجملة ان لقولہ فی اثنا عشر خصلة اربع  
 منها فریضة و اربع سنة و اربع اداب اما الفریضة  
 فالعرفۃ بما اکلہ من این هو والتسیبۃ والرضاء  
 والشکر و اما السنة فالجلوس علی الرجل الیسری  
 والاکل بثلاثة اصابع ولعن الاصابع والاکل  
 مما یلیہ و اما الادب فالضعف الشدید وتصغیر  
 اللقم و قلة النظر الی وجرة القوم وان لا یفرش  
 المائدۃ بالخبز ویضع فوقہ الادم و ان لا یاکل  
 متکئاً ولا مضطجاً علی بطنہ۔

**فصل** فاذا افطر عند غیرہ قال افطر عندکم  
 الصائمون واکل طعامکم الابرار و تنزلت  
 علیکم الرحمة و صلت علیکم الملائکۃ الحمد  
 الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین  
 وهدانا من الضلالة و فضلنا علی کثیر من  
 خلقہ تفصیلاً اللهم اشبع جیاع امة محمد  
 صلی اللہ علیہ وسلم واکس عاربہا و عاف  
 مرضہا و رد غائبہا و اجمع شمل اهل الدار

ہو جائیگا اس کا کھانا حرام ہے بشرطیکہ سبیل ہو اور اگر بھنگے تو اسے اور اس کے  
 آس پاس والے حصوں کو نکال کر پھینک دو اور اگر ایسی شے ہو جس میں  
 والا خون نہ ہو تو اگر وہ زہریلی ہے تو وہ کھانا نہ کھایا جائے کیونکہ وہ ضرر کی وجہ سے  
 حرام ہے بلذات نہیں جیسے سانپ بچھو وغیرہ اور اگر گرنے والی شے زہریلی نہ ہو جیسے مکھی  
 وغیرہ تو اسے شرابے میں ڈبو کر نکال پھینکو اگرچہ وہ مر جائے اور کھانا پاک ہے اسے کھالو  
 کیونکہ رحمت عالم صلعم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے برتن میں مکھی گر جائے تو مکھی کو اس  
 میں ڈبو دینا چاہیے کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں اس کا  
 فاؤز ہرے اور وہ بیماری والے بازو کو ڈالتی ہے اور شفا والا پراٹھا لیتی ہے۔  
 پانی کو گھونٹ لے لے کر پیو جانوروں کی طرح زبان سے چاٹ کر نہ پیو اور تین سالوں  
 میں پیو اور برتن میں سانس نہ لو شروع میں سیم اللہ پڑھ لو اور اخیر الحمد لے کر۔  
 غرضیکہ کھانے پینے کے سلسلہ میں بارہ آداب ہیں چار تو فرض ہیں اور چار سنتیں ہیں  
 اور چار آداب ہیں داخل ہیں فرض یہ ہیں کھانی یا پی جانے والی چیز کا علم کہ کہاں سے  
 آئی، شروع میں سیم اللہ پڑھنا، اللہ کی عطا کردہ نعمت سے راضی ہونا اور اس کا شکر بخال  
 اور سنتیں یہ ہیں بائیں پیر سے پھینکا، تین انگلیوں سے کھانا، انگلیوں کو چا  
 اور سامنے سے کھانا۔ اور آداب یہ ہیں خوب چابنا اور چھوٹے چھوٹے ٹوٹے  
 لینا، لوگوں کے چہروں کو نہ دیکھنا، نوٹیوں کو دسترخوان پر الگ الگ نہ رکھنا  
 بلکہ تہہ تہہ رکھنا اور ٹیک لگا کر اور اونڈھا ہو کر پیٹ کے بل لیٹ کر نہ کھانا  
**روزہ کھولنا** اگر کسی کے گھر روزہ کھولو تو یہ دعا پڑھو تمہارے پاس  
 روزہ داروں نے روزے کھولے اور تمہارا کھانا نیک حضرات نے تناول فرمایا  
 اور تم پر اللہ کی رحمتیں اتریں اور تمہارے لئے فرشتوں نے دعائے مغفرت کی  
 حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا اور  
 مگر ابھی سے نکال کر ہدایت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوق پر زبردست  
 فضیلت عطا فرمائی اے اللہ امت محمدیہ کے بھوکوں کا پیٹ بھر انگوٹھ  
 کو لباس عطا فرما، بیماروں کو شفا بخش، کھوٹے ہوؤں کو واپس لا اور  
 خانہ ذنوں کی پرگندگیاں دور فرما، ۱۱ پر روزیاں برس اور کہ میں بیمار ہوں



وادرارزاقہم واجعل دخولنا بركة وخرجنا مغفرة  
وانتانی الدنیا حسنة وانی الآخرة حسنة وانا عذاب النار  
برحمتک یا ارحم الراحمین۔

**فصل فی اداب الحمام بناء الحمام وبيعہ وشرأه  
وكراءه مکروهه فی الجملة لما فیہ من مشاهدات  
عوارت الناس وقد روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ  
قال بس البيت الحمام ینزع من اهلہ الحیاء ولا  
یقرب فیہ القرآن واما دخوله فالاولی ان لا یدخل  
اذا وجد من ذلک بعد الماورد من عبد اللہ بن  
عمر رضی اللہ عنہ کان یکره الحمام ویعلل بانہ من  
رقیق العیش وعن الحسن و ابن سیرین انہما کانا  
لا یدخلان الحمام وقال عبد اللہ بن الامام  
احمد رحمہما ربیت ابی قط دخل الحمام وان کان  
بہ حاجة الی ذلک وان دعت الضرورة جازلہ  
دخوله مستترا بسیر غامضا بصری عن عورات  
النساء وان امکنہ ان یجلی الحمام لہ فی دخله  
باللیل او وقتا یقل ذبوتہ بالنهار وقد سئل  
الامام احمد رحمہ اللہ عن ذلک فقال رحمہ اللہ  
تعالی ان کنت تعلم ان کل من فی الحمام علیہ  
ازار فادخله والا فلا تدخله وقد روی  
عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم انہ قال بس البيت الحمام بیت لا یستر  
وماؤہ لا یطهر قالت عائشة رضی اللہ عنہا ما یستر عائشة  
انہا دخلتہ ولہا مثل احد ذہبا وقال صلی اللہ  
علیہ وسلم فی حدیث جابر بن عبد اللہ من**

آنے جانے کو موجب بخشش بنا اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت  
میں بھی اور اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ہمیں آگ کے عذاب  
سے محفوظ فرما۔ آمین۔

**حمام کے آداب** حمام کی تعمیر اس کی خرید و فروخت اور اس کا کراہ  
فی الجملة مکروہ ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے پردے کے مقامات مشابہ  
میں آتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے بدترین گھر حمام ہے جو لوگوں  
کو بے حیاب بناتا ہے، حمام میں قرآن پاک نہ پڑھا جائے۔

اولیٰ تو یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو حمام میں نہ جاؤ کیونکہ حضرت ابن عمر  
حمام کو مکروہ سمجھتے تھے اور یہ وجہ بیان کرتے تھے کہ یہ لطیف عیاشی ہے  
حسن لہری اور محمد بن سیرین حمام میں نہیں جایا کرتے تھے، عبد اللہ بن  
امام احمد کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد کو کبھی حمام میں جانا ہوا نہیں  
دیکھا۔

اگر کسی کو حمام میں جانے کی ضرورت ہو تو ازار باندھ کر اس میں  
جانا جائز ہے اور خواتین کے جسم کو نہ دیکھے نگاہ نیچی رکھے اگر حمام  
کو اپنے لئے خالی کرانا ممکن نہ ہو تو اس میں رات میں جائے یا دن میں  
اس وقت جائے جب نہانے والے کم ہوں۔

امام احمد سے اس کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا: اگر تمہیں یقین ہو کہ  
حمام میں تمام لوگ تہنڈ باندھے ہوئے ہیں تو جاؤ ورنہ نہ جاؤ، حدیث  
کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدترین گھر حمام ہے حمام ایک ایسا گھر  
ہے جس میں پردہ نہیں کیا جاتا اور اس کا پانی پاک نہیں حضرت عائشہ  
فرماتی ہیں: اگر احد پہاڑ کی برابر مجھے کوئی سونادے تو میں ہمیشہ حمام  
میں نہ جاؤں، حدیث جابر بن عبد اللہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
فرمایا: جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے وہ حمام میں ازار  
کے بغیر نہ جائے۔

خواتین کو بھی حمام میں ان شرطوں کے ساتھ جانا جائز ہے



كان يؤمن بالله البرم الاخر فلا يدخل الحمام الا  
بمیزر واما النساء فانما يجوز لهن دخوله بالشرا  
التي ذكرناها في حق الرجال اذ وجود العذر  
واحدة كالمريض والحیض والنفاس لما روى  
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه  
قال سيفتح عليكم ارض العجم وستجدون  
بيوتاً يقال لها الحمام فلا يدخلها الرجال الا  
بازار وامتوا منها النساء الا مريضاً او نفساً  
واذا دخل الحمام فلا يسلم ولا يقرأ القرآن لما  
تقدم من حديث علي رضي

### فصل في النهي عن التعري في الجمدة وفي

حال الغسل لما روى البوداؤد باسناد عن بعض  
بن حكيم عن ابيه عن جده رضي قال قلت يا رسول  
الله صلى الله عليه وسلم عورتا ما نأتي سترها  
وما نذر قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك  
الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قال قلت  
يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم في بعض  
قال صلى الله عليه وسلم ان استطعت ان لا  
يرينها احداً فلا يرينها قال قلت يا رسول الله  
اذا كان احدنا خاليا قال صلى الله عليه وسلم  
الله احق ان يتبعي منه من الناس وروى  
البوداؤد باسناد عن ابي سعيد الخدري رضي  
عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا ينظر المرأة  
الى عورة المرأة ولا يفيض الرجل في ثوب ولا

جو شریطیں ہم نے مردوں کے حق میں بیان کی ہیں یا کسی معقول عذر  
اور ضرورت سے حمام میں جانا جائز ہے جیسے بیماری، حیض  
اور نفاس کی وجہ سے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی  
حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب تمہارے  
لئے سرزمین فتح ہوگی، تم وہاں ایک تم کے گھر جن کو حمام کہا جاتا  
ہے اپاؤ گے، خبردار ان میں مرد تہبند کے ساتھ داخل ہوں اور  
ان میں جانے سے اپنی عورتوں کو روک لو۔ البتہ بیمار اور حیض والی  
والی عورت جا سکتی ہے۔

حمام میں جا کر سلام نہ کرے اور نہ قرآن پڑھے اس کی دلیل حدیث  
علیؑ ہے جو اوپر گزر گئی۔

### مطلق یا غسل کے وقت ننگے ہونے کی ممانعت مطلق یا

غسل کرتے وقت ننگا ہونا منع ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں: میں  
نے رحمت عالم صلعم سے پوچھا یا رسول اللہ تم کس کے سامنے ننگے ہو سکتے  
اور کس کے سامنے نہیں؟ فرمایا: بجز اپنی بیوی یا لونڈی کے کسی اور کے  
سامنے نہیں انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! اگر ایک جماعت ملی جلی ہو  
(اور کسی کے پاس کپڑا ہو اور کسی کے پاس نہ ہو تو کیا کیا جائے؟)  
فرمایا: مقدور بھر ستر کو چھپائے رکھو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ  
اگر ہم میں سے کوئی خلوت میں ہو؟ فرمایا: لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ  
اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شریا جائے، حضرت ابو سعید  
خدری رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ  
علیہ وسلم نے فرمایا: مرد مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے اور عورت عورت  
کی شرمگاہ نہ دیکھے اور ایک کپڑے میں درمرد ننگے نہ ہوں اور نہ  
ایک کپڑے میں دو عورتیں ننگی ہوں۔ (البوداؤد)

خلوت میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو غسل کرتے وقت ننگا  
ہونا مکروہ ہے بلکہ تہہ بند باندھ کر غسل کیا جائے، کیونکہ



تفضی المراۃ الی المراۃ فی ثوب واما حالۃ الغسل  
فی موضع خال لا یراہ احد فیکرہ ان یغتسل بلا  
میزر لما روی البوداؤد باسنادہ عن عطاء بن  
یعلی بن امیۃ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم رای رجلاً یغتسل بلا ازار فصعد  
المنبر فحمد اللہ تعالیٰ واثنی علیہ وقال ان اللہ  
حبیب سبیر حبیب الستر والحیاء فاذا اغتسل  
احدکم فلیستنتر واما ان دخل الماء للغسل  
اول غیرہ فیکرہ ایضاً بلا میزر لان للماء سکانا  
لما روی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
انہ نہی ان یدخل الماء بلا میزر وعن الحسن رضی اللہ  
عنه قال للماء سکان وان احق من استتر من سکانہ  
لنخن

**فصل** وقد رخص الامام احمد رحمہ اللہ  
فی ذلک فی روایۃ اخری وانه لا یکرہ ذلک  
لانہ سئل عن رجل کان عند نهر لیس یراہ  
احد قال ارجو ومعنی ذلک انہ لا یکون بہ  
باس والاولی والاصح ما تقدم من النهی۔

**فصل** فی لبس الخاتم واتخاذہ عن ابی داؤد  
باسنادہ عن النس بن مالک رضی اللہ عنہما قال اراد رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی بعض  
العاجم فقیل لہ لا یقرؤن کتاباً الا بالخاتم  
فاتخذ خاتماً من فضة ولفقش فیہ محمد رسول  
اللہ وعن النس رضی اللہ عنہما قال کان خاتم رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم من فضة کلہ فضة منه  
وفی لفظ عن النس رضی اللہ عنہما قال کان خاتم رسول اللہ

عطاء بن یعلیٰ سے روایت ہے کہ یعلیٰ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے دیکھا کہ ایک شخص ننگا ہو کر بلا تہبند کے نہا رہا ہے آپ نے  
منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا: دیکھو  
اللہ تعالیٰ انتہائی شرمیلا اور سخت پردے والا ہے اور پردہ  
اور حیا سے محبت کرتا ہے لہذا جب تم میں سے کوئی نہائے تو اسے  
پردہ کر لینا چاہیے (البوداؤد)

اگر پانی میں غسل کرنے کے لئے یا غسل کی نیت کے بغیر کوئی  
گھس جائے تو بلا تہبند کے پانی میں گھسنا بھی مکروہ ہے کیونکہ پانی  
میں بھی رہنے والے رہتے ہیں اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے  
ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تہبند کے پانی میں داخل ہونے سے منع فرمایا  
حسن کہتے ہیں کہ پانی میں بھی رہنے والے رہتے ہیں اور پانی کے رہنے  
والوں سے شرمگاہیں چھپانے کے ہم زیادہ حق دار ہیں۔

پانی میں برہنہ ہونے کا جواز | ایک روایت میں امام احمد نے پانی  
میں برہنہ ہونے کی رخصت دی ہے اور فرمایا ہے کہ مکروہ نہیں ہے کیونکہ  
آپ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نہ کے پاس ہے اور اسے  
کوئی دیکھنے والا نہیں فرمایا مجھے امید ہے کہ اس کو برہنہ ہو کہ پانی میں نہانے  
میں کوئی حرج نہیں لیکن اولیٰ اور صحیح یہی ہے کہ مطلقاً نہ نکال کر نہ نکالے۔

**انگوٹھی بنوانا اور پہننا** | حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے  
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عجمیوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا لیکن  
آپ سے کہا گیا کہ عجمی بلا تمہارے خط نہیں پڑھتے لہذا آپ نے چاندی  
کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ کہہ کر الیہا بوداؤد  
حضرت انس رضی اللہ عنہما بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی  
تمام کی تمام چاندی کی تھی جسے کہنگ بھی چاندی کا تھا۔ انس رضی اللہ عنہما کی  
روایت کے ایک لفظ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی  
کی تھی اور اس کا رنگ سیاہ تھا۔



صلی اللہ علیہ وسلم من ورق فصۃ حبشی روی البوداد  
باسنادہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم خاتماً من ذهب وجعل فصۃ  
مما یلی بطن کفیه ونقش فیہ محمد رسول اللہ فاتخذ الناس  
خواتیم الذهب فلما رأوہم اتخذوا ہارمی بہ و  
قال لا البسۃ ابداً ثم اتخذ خاتماً من فضۃ ونقش  
فیہ محمد رسول اللہ ثم لبس ذلك الخاتم  
بعد ما البر بکر رضی اللہ عنہ لبس بعد ابي بکر عمر رضی  
اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ حتی وقع فی بئر الریس۔

**فصل** ویکرا اتخاذ الخاتم من الحديد  
والشبه لما روی البوداد و باسنادہ عن عبد اللہ  
بن بریدۃ عن ابيہ رضی اللہ عنہ قال ان رجلاً  
جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ  
خاتم من شیبۃ فقال لہ مالی اجل منک ریح  
الاصنام فطرحہ ثم جاء وعلیہ خاتم من حديد  
فقال مالی اری علیک حلیۃ اهل النار فطرحہ  
فقال یا رسول اللہ من ائی شیء اتخذت قال رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذت من ورق ولا تمۃ  
مثقال۔

**فصل** ویکرا التختم فی الوسطی والسبایۃ  
لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی علیاً رضی  
اللہ عنہ عن ذلك۔

**فصل** والاختیار التختم فی البصری وفي المختصر  
لما روی البوداد و باسنادہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی لیسارہ وکان

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی سونے کی بنوائی  
آپ تک کا رخ کف دست کی طرف رکھا کرتے تھے اور اس پر محمد رسول اللہ  
کنڈہ تھا پھر لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں سونے کی بنوائیں پھر جب  
آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں بنوائی ہیں تو آپ نے  
اپنی انگوٹھی اتار بیھنی اور فرمایا اب میں کہیں اسے نہ پہنوں گا پھر آپ نے  
چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ کنڈہ کر لیا پھر  
آپ کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہنی پھر آپ کے  
بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہنی  
حتیٰ کہ وہ اریس نامی کنوئیں میں گر گئی۔

لوہے کی اور پتیل کی انگوٹھی | پتیل اور لوہے کی انگوٹھی بنوانا اور  
پننا مکروہ ہے کیونکہ حضرت بریدہ کا بیان ہے کہ ایک شخص پتیل کی  
انگوٹھی پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے فرمایا  
کیا بات ہے مجھے تجھ سے بتوں کی تو آ رہی ہے آخر کار اس نے  
انگوٹھی اتار بیھنی پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آیا فرمایا کیا بات ہے میں تجھ  
پر جنم والوں کا زیور دیکھ رہا ہوں پھر وہ بھی اس نے اتار بیھنی اور  
پوچھنے لگا یا رسول اللہ! کس چیز کی انگوٹھی بنوائیں؟ فرمایا چاندی  
کی بنوائے اور چاندی ساڑھے چار چار ماشہ سے کم ہی ہو۔

(البوداد)

★

انگوٹھی کس انگلی میں پہنی جائے | درمیانی اور شہادت والی  
انگلی میں انگوٹھی کا پننا مکروہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی  
اللہ عنہا کو اس سے منع فرمایا۔

بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننے کا جواز  
ہے اور پسندیدہ بات یہی ہے کہ انگوٹھی بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی  
انگلی میں پہنی جائے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم



فصل فی باطن کفہ وروی ذالک عن اکثر السلف  
الصالح ولان خلاف ذالک عادة وشعار المبتدعة  
ولان المستحب ان یکون تناول الاشیاء بالیمن  
لیرضعه فی الشمال و فی ذالک صیانة للخاتم و صیانة  
للمکتوب علیه من الاسماء والحروف وقد روی  
عن علی رضا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم  
فی یمینہ فعلی هذا الیمن والیسار سواء الاختیار الاول  
**فصل فی آداب الخلاء والاستنجاء** اذا اراد  
دخول الخلاء نھی عنہ ما کان فیہ ذکر اللہ  
عزوجل کالخاتم والتعویذ وغیرہما ویتقل  
رجلہ الیسری ویؤخر الیمنی ویقول بسم اللہ  
اعوذ باللہ من الخبث والخبائث ومن الرجس  
النجس الشیطان الرجیم لما روی عن النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم انه قال ان هذه الحشوش مختلفة  
فاستعیدوا باللہ من الشیطان ویقل احدکم  
اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث الشیطن  
الرجیم ویكون مغطی الراس مستترا ولا یرفع  
توبہ حتی یدل من الارض ویكون اعتاده علی  
رجلہ الیسری لانه اسهل لخروج الخارج ولا  
یتکلم ولا یرد علی من لیسلم علیہ ولا یجیب  
متکلماً ویحمد اللہ فی قلبہ عند العطاس ولا  
یرفع راسه الی السماء ولا یضحک ما یرج  
منہ ولا من غیره ویبعد من الناس ویبقی  
مرضعاً مستقلاً رخوا لبلولہ لئلا یتیشش علیہ  
ولا یری عورته احداً فان کان الموضع صلباً

اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور اس کے ننگ کا رخ آپ کی  
ہتھیلی کی طرف ہوتا تھا (البدواؤد) یہی اکثر سلف صالح سے منقول ہے  
کیونکہ اس کے خلاف بدعتیوں کی عادت ہے اور ان کا شعار ہے۔  
علاوہ ازیں یہ مستحب ہے کہ دائیں ہاتھ سے کپڑے بائیں ہاتھ میں چھوئے اسطر  
انگوٹھی کا اور ننگ الی تحریر میں اسما و حرف کا تحفظ ہو جاتا ہے لیکن حضرت علی سے  
منقول ہے کہ وہ انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے بنا بریں انگوٹھی پہننے میں  
دایاں بائیں دونوں ہاتھ برابر ہیں لیکن ترجمہ کے لائق پہلا ہی قول ہے۔  
**قضائے حاجت اور استنجاء کرنے کے آداب** جب قضائے

حاجت کے لئے بیت الخلاء میں جانا چاہے تو اپنے بدن سے تمام وہ  
چیزیں ہٹا دے جن میں حق تعالیٰ شانہ کا ذکر ہو جیسے انگوٹھی اور تعویذ  
وغیرہ اور بیت الخلاء میں پہلے بائیں پیر رکھے پھر دایاں پیر رکھے اور  
بیت الخلاء سے باہر یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث  
الخبائث یعنی میں خبیث جنوں سے اور جتانینوں سے اللہ تعالیٰ کی  
پناہ مانگتا ہوں اور پلید و ناپاک اور راند سے گئے شیطانوں سے بھی  
کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا: بلاشبہ ان کھڑیوں پر شیطان موجود رہتے ہیں  
لہذا شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور یہ دعا پڑھو  
میں گندگی، نجاست اور گھناؤنی چیزوں سے اور راند سے گئے شیطانوں سے  
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قضائے حاجت کے وقت منہ و عانپ لو اور  
پردہ کر کے بیٹھو اور اپنے کپڑے نہ اٹھاؤ جب تک زمین کے قریب نہ ہو  
جاؤ اور بائیں پیر ٹیک لگائے رہو کیونکہ اس طرح بسہولت قضائے حاجت  
ہوتا ہے اس حالت میں بات نہ کرو، نہ کسی کو سلام کرو اور نہ کسی کو  
سلام کا جواب دو اور نہ کسی اور سے بات کا جواب دو اگر چھینک آ  
جائے تو دل میں الحمد للہ کا خیال کر لو، اس حال میں اوپر کو سر نہ اٹھاؤ  
اور اپنے یا کسی اور کے براز کے خارج ہونے پر نہ سنسو قضائے حاجت  
حاجت کے لئے لوگوں سے دور چلے جاؤ اور بیٹھنے کے لئے کوئی



اد صلب الریح الصق راس ذکرة بالارض وان  
 كان فی الصحراء لم یستقبل القبلة ولم یستدبرها  
 بل لیشرق ویغرب کما جاء فی الخبر ولا یستقبل  
 الشمس والقمر ولا یبل فی حجر ولا تحت شجرة  
 مثمرة ولا غیر مثمرة لانه قد یستظل بظلها  
 فیتلوث ثیابهم وقد لیسقط من ثمرتها فیتنجس  
 ولا فی طریق ولا فی مشرعة نہر ولا فی فناء حائط  
 لان بذالك لیستحق اللعنة کما ورد فی الخبر ولا  
 یدکر الله فی موضعه بالقرآن ولا لغيره تنزیها  
 لا سمع عز وجل ولا یزید علی بسم الله والتعوذ  
 من الشیطن علی ما ذکرنا فاذا فرغ قال الحمد لله  
 الذی اذهب عنا الذی وعافانی غفرانک ثم یفر  
 عن موضعه الی موضع طاهر ولا یتنہی هناك  
 لئلا یتلوث یدیه بالنجاسة او یرش الماء علی یدیه  
 وثیابہ ثم ینظر فان کان الخارج لم ینتشر عن  
 المخرج الا بمقدار ماجرت العادة بہ کان  
 مخیرا بین الاستجمار بجماد و بین الاستنجاء  
 بالماء فان اختار الجماد فالاختیار الحجر و عددہ  
 ثلثة ا حجار ان کان لم یتجمر بہن احد من  
 قبل طاہرۃ فیاخذ حجرا منها بیمنہ فیبدء بالقبل  
 لعل ان یمس اصل ذکرة الی راسہ و یتنزه  
 ثلاثا بید الیسار متوجعا لیتحقق استفرغ  
 البول بذالك فهو الاستبراء و یاخذ ذکرة  
 بشمالہ و یمد لعلی الحجر الذی فی بیمنہ و یمسح  
 حتی یرى موضع المسح جافا لیفعل کذلک ثلاثا

مستقل اور نرم جگہ منتخب کرنا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ رہے اور  
 کوئی تمہاری شرمگاہ دیکھ بھی نہ سکے اگر جگہ سخت ہو یا ہوا چلنے کی وجہ سے  
 گرد سے صاف ہو تو آگہ تناسل کا منہ زمین سے لگا دو۔ اگر کھلے میدان  
 میں تھائے حاجت کے لئے بیٹھو تو قبلہ کی طرف رخ اور پشت نہ کرو  
 ہاں غیر سمت قبلہ کی طرف رخ اور پشت کر سکتے ہو جیسا کہ احادیث  
 میں آتا ہے اور سورج اور چاند کی طرف بھی منہ کر کے نہ بیٹھو۔ اسی طرح  
 کسی بل میں پیشاب نہ کرو اور نہ درخت کے نیچے خواہ وہ پھلدار ہو یا  
 غیر پھلدار کیونکہ کبھی کبھی لوگ اس کی چھاؤں میں آکر اٹھتے بیٹھتے ہیں  
 ایسا نہ ہو کہ ان کے کپڑے لٹھڑ جائیں اور اگر پھلدار درخت ہے تو نیچے  
 گرنے والا پھل لٹھڑ جائے گا نہ راستہ میں رفع حاجت کرو اور نہ گھاٹ  
 میں اور نہ دیوار کے نیچے کیونکہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ لعنت کا خفزار  
 بن جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ قضائے حاجت کی جگہ ذکر اللہ نہ کرو  
 خواہ قرآن سے ذکر اللہ ہو یا غیر قرآن سے تاکہ حق تعالیٰ شانہ کے نام کی اور اس کے  
 کلام پاک کی عظمت و پاکی برقرار رہے اور بجز بسم اللہ اور اعوذ باللہ من الخبث و  
 النجاست کے کچھ اور نہ کہو اور یہ دعا بھی ٹھینے سے اور بیت الخلا میں جانے سے  
 پہلے پڑھ لو پھر فارغ ہو کر باہر آکر یہ دعا پڑھ لو اللہ تعالیٰ کا شکر جس نے  
 ہم سے غلاظت دور کی اور آرام پہنچایا اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں  
 غرضیکہ اس جگہ سے ہٹ کر پاک و صاف جگہ پر آ جاؤ اس جگہ استنجاء بھی نہ کرو  
 تاکہ ہاتھ کو غلاظت نہ لگے یا بدن یا کپڑوں پر چھینٹیں نہ آئیں بلکہ ذرا ہٹ کر  
 استنجاء کرو پھر دیکھو اگر فضلہ مخرج سے منتشر نہیں ہوا اور مخرج تک ہی محدود  
 تو ڈھیلوں اور پانی سے استنجاء کا اختیار ہے اگر ڈھیلوں سے استنجاء کرو تو  
 تین پتھروں سے استنجاء کرو بشرطیکہ وہ پتھر غیر مستعمل ہوں یعنی ان کے کسی  
 اور نئے استنجاء نہ کیا ہو اور پاک ہوں ان میں سے ایک پتھر بائیں ہاتھ میں  
 لے کر دائیں جانب سے مخرج غلاظت پر گرگو اور آگہ تناسل سے اتنا  
 کر دیکھیں پہلے اسے جڑ سے لیکر ترک دباؤ اس طرح تین پتھروں سے



ثلاثة احجار وان لم يقدر على الاحجار فثلاث  
 خرق او خرف او مدرا وثلاث حثيات من تراب  
 او يسحه على الارض او المائل عند عدم هذه  
 الاشياء حتى يبرى الجفافة والشفافة عن اثر كل  
 مسحة فاذا فعل ذلك فقد سقط عنه حكم  
 القبل ويبلغى ان يجترز عن سد الذكر في الاستبراء  
 من موضع الحشفة لانه قد تبقى البول في قصبة الاحليل  
 ثم يخرج بعد فراغه عن الوضوء فيبطل وضوءه  
 ولهذا اشرف في حقه ان يخطر خطوات قبل الاستبراء  
 والتختم خوفاً من بقاء شئ من البول في الاحليل واما  
 الذبر فياخذ الحجر لثماله ويسحه على المسربة  
 من مقدمها الى ان يبلغ ان مؤخرها ثم يرمى به  
 ثم ياخذ الحجر الثاني ويبدء به من مؤخرها  
 فيمسحها الى ان يبلغ مقدمها ثم يرمى به ثم  
 ياخذ الحجر الثالث فيبدء به حول المسربة فيرمى  
 به وقد حصل بذلك الاجزاء فان لم يتق بان راي  
 على الحجر الاخير ندادا زاد الى خمسة وان  
 لم يتق بذلك زاد الى سبعة او تسعة ولا تقطعه  
 الا على وتر وان نقي بمجر واحد او اثنتين زاد على  
 ثلاثة لان الشرع بذلك ورد وقد ذكر للاستجمار  
 صفة اخرى وهو ان ياخذ الحجر لثماله  
 فيضعه على مقدم صفحته اليمنى ثم يرميها الى  
 مؤخرها ثم يبدء به على اليسرى فيمسحها الى  
 مؤخرها حتى بلغ الموضع الذي بدأ منه وياخذ  
 حجراً اخرى فيمسح به من مقدم صفحته اليسرى

آذتناسل پونچھو اور کھنکارو تاکہ اگر آذتناسل میں کوئی قطرہ باقی ہو تو وہ  
 بھی نکل آئے اسے اصطلاح فقہ میں استبراء کہتے ہیں اور ذکر کو بائیں ہاتھ سے  
 پکڑ کر اسے کھینچ کر پتھر سے رگڑو حتیٰ کہ مخرج خشک ہو جائے اسی طرح تین بار  
 تین پتھروں سے استنجا کرو اگر پتھر نہ ملے تو تین چیتھروں یا ٹھیکروں  
 یا ڈھیلوں سے یکے بعد دیگرے مخرج بول خشک کر دو یا تین مٹھی مٹی لے کر  
 اس سے خشک کر دو اگر کچھ بھی نہ ملے تو زمین پر یا دیوار پر رگڑو حتیٰ کہ  
 ہر پتھر کے استعمال کے بعد خشکی اور صفائی دیکھ لو جب ایسا کر لو گے تو آذتناسل  
 کا استنجا مکمل ہو جائے گا۔ استبراء کے بعد حشفہ کو دبانے سے پرہیز کیا جائے  
 کیونکہ کبھی ذکر میں کوئی قطرہ رہ جاتا ہے پھر وضو کے بعد وہ نکل آتا ہے جس  
 سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی لئے جسے یہ بیماری لاحق ہو اس کے حق میں یہ  
 مشروع ہے کہ وہ استبراء سے چند قدم چلے اور کھنکارے تاکہ اگر کوئی  
 قطرہ ہو تو نکل آئے۔

دبر کا استنجا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پتھر بائیں ہاتھ میں لیکر  
 آگے سے سمجھے تک پونچھتا ہوا چلا جائے پھر اسے پھینک کر دوسرا پتھر  
 لے کر پیچھے سے آگے تک پونچھتا ہوا آئے پھر اسے پھینک کر تیسرا پتھر  
 لے اور اسے متعقد کے ارد گرد گھما کر پھینک دے اس طرح کفایت حاصل  
 ہو جاتی ہے اگر تین ڈھیلوں سے پوری طرح صفائی نہ ہو اور اس کی  
 نشانی یہ ہے کہ پھلے ڈھیلے پر تری نظر آئے تو پانچ ڈھیلے استعمال کر  
 لئے جائیں اگر پانچ سے بھی صفائی نہ ہو تو سات یا نو استعمال کر لئے  
 جائیں اسے کو طاق ڈھیلوں ہی پر ختم کیا جائے اور اگر صفائی ایک  
 ہی بار وہی ڈھیلوں سے ہو جائے تو تیسرا ڈھیلا ضرور لیا جائے کیونکہ  
 شریعت میں تین کی تعداد آتی ہے۔

ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا دوسرا طریقہ | دوسرا طریقہ یہ ہے  
 کہ بائیں ہاتھ میں ایک ڈھیلا لے کر متعقد کے دائیں طرف سے پونچھتا  
 پیچھے تک لے جائے اور اسے گھماتا ہوا بائیں طرف سے اسی جگہ لے



كذلك ثم ياخذ حجراً اخر فيسح به  
الوسط والكل جائز فقد جاء في الاثر ان رجلاً  
قال لبعض الصعابة من الاعراب وقد خاصه  
لا احسبك انك تحسن الخراءة فقال بلى  
وابيك اني نبها الحاذق قال فصفها لي قال  
الجد الاثر واعد المدر واستقبل بنت  
الشيخ واستدبر الريح واقعى اقعاء الضبي  
واجفل اجفال الثغام اما الشيخ فهدر بنت  
طيب الريح يكون بالبادية والاقعاء  
ههنا الاستيفاز على صدور قدميه والاجفال  
ارتفاع عجزه عن الارض -

**فصل** والاستنجاء بالماء ان يسك  
قضيبه بيده اليسرى ويطح الماء باليمنى  
فيغسله سبعاً بعد الاستبراء والتعميم وفضل  
اذعاج على ما ذكرناه وقد شبه فقهاء  
المدنية رذا الذكر بالضرع ولا يزال يخرج  
منه الشيء بعد الشيء مادام الرجل يمداه  
فاذا وقع الماء على الذكر القطع البول واما  
الدبر فيباشر المحل بيده اليسرى وليصب الماء  
باليمنى فيتا صبه وليستخى قليلاً ومجيد  
ذلك الموضع بيد لا حتى يتيقن نطقه وينقى  
ولا يلزمه غسل باطن المخرجين لان ذلك  
ما يعفى عنه في الشرع ولا عليه الاستنجاء  
من الريح والفضيلة في الجمع بين الاستنجاء  
بالجاء والماء فان اختصر على الحجر اجزاء لكن

جہاں سے ابتدا کی تھی پھر دوسرا پتھر بائیں طرف سے شروع کر کے گھماتا ہوا اسی جگہ سے  
لے آئے جہاں سے ابتدا کی تھی پھر تیسرا پتھر لیکن خاص مقعد پر درمیان میں رگڑے وغیرہ کی طرح  
طریقہ جائز ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے کسی دیہاتی صحابی سے جھگڑا کیا اور کہنے لگا  
میرے خیال میں تمہارا قصائے حاجت کا طریقہ اچھا نہیں انہوں نے فرمایا کیوں نہیں  
البتہ کی قسم میں تو اس کام میں بڑا محتاط و ہوشیار ہوں بولا: ذرا بیان تو کیجئے فرمایا  
میں آبادی سے دور چلا جاتا ہوں اور ڈھیلے تیار رکھتا ہوں اور شیخ جھڑکی کے  
پچھلے اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور ہوا کے رخ پر بیٹھ کر لیتا ہوں اور  
ہرن کی طرح دونوں پیروں پر اکڑوں بیٹھ جاتا ہوں اور شتر مرغ کی طرح سرین  
زمین سے بلند رکھتا ہوں شیخ ایک اچھی خوشبودار جھاڑی ہے جو عموماً صحرا میں  
پائی جاتی ہے۔ اقعاسے یہاں پیروں کی انگلیوں پر بیٹھنا مراد ہے دراجفال  
سے سرین کا زمین سے اٹھانا مراد ہے۔

**پانی سے استنجاء** پانی سے استنجاء کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے  
ذکر پکڑ لو اور سیدھے ہاتھ سے اس پر پانی ڈالو اور ذکر کو استبراء کھینکا  
کے اور دبانے کے بعد سات مرتبہ دھو دھو جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔  
مدینہ کے فقہاء نے ذکر کو عورت کی چھاتی کے مشابہ فرمایا ہے کہ جب تک اسے  
کھینچا جاتا رہے اس سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا ہے پھر جب ذکر پر پانی پڑتا ہے  
ہے تو اس سے پیشاب کا نکلتا بند ہو جاتا ہے مقعد کو بائیں ہاتھ سے  
براہ راست دھونا پڑتا ہے وائیں ہاتھ سے لگاتار اس پر پانی ڈالو  
اور بائیں ہاتھ سے اس کو دھویا جائے دھوتے وقت مقعد ذرا ڈھیلے  
رکھی جائے اور بائیں ہاتھ سے اس قدر دھوئی جائے کہ اس کی پاکی کا اور صفائی  
ایقین ہو جائے قبل و دبر کے اندرونی حصوں کا دھونا لازم نہیں کیونکہ ہماری  
شریعت میں اندرونی حصے معاف ہیں اور نہ ریح سے استنجاء لازم آتا ہے  
اسی استنجاء کو ہے جس میں ڈھیلے اور پانی استعمال کیا جائے لیکن اگر  
ڈھیلوں پر قناعت کی جائے تو بھی کافی ہے اور مطلق پانی کا استعمال  
اول سے ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر پانی استعمال نہیں کیا گیا تو طرح



استعمال الماء اولی فی الجملة لانه قبل اذ الملیتیم  
بالماء اعتراه الرسواس ولقد اقبل ان قوما من  
الشعراء لا یستنجون بالماء لان کلام الخنا والفحش  
یکفی بذلک فهو سببه نعوذ باللہ من کلام شجرة  
القدر والنتن۔

**فصل** واما اذا انتشر النجاسة الی معظم  
حشفته فی القبل والصفحتین فی الدبر لم  
یجزئہ غیر الماء لانها خرجت من محل التخص  
نصارت كالنجاسة التي علی بقية البدن من  
الفخذ والصد وغيرهما ولا یزول الا بالماء۔

**فصل** وضفته ما یجوز به الاستجمار ان ین  
جامدا طاهرا متقیبا غیر مطعوم لاحرمه له  
وغیر متصل بحیوان ولا یجوز بالروت والرمه  
لانها من طعام الجن ولا یثقی من لزج یلطم  
فلا یبقی کالحمة والزجاجة والحصاة الملساء۔

**فصل** ویجب ما ذکرنا من الاستنجاء  
لجميع ما ینخرج من السبیلین سوی الریح وذلك  
کالغائط والددوة والحصاة والدم والمدة  
والشعر واما الذکر فالخارج منه خمسة اشیاء  
أحدھا البول والثانی المذی وهو ماء ابيض

رقيق فیخرج عند اللذة عند الملاحظة والتذکر  
وحکمہ حکم البول وزیادته غسل الذکر  
والانثین کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
فی حدیث علی رضی اللہ عنہ ذلک ماء الفجل وکل فحل ماء  
فلیغسل ذکرة وانثیم ویتوضا وضوءة للصلاة

کے دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ شعراء  
پانی سے استنجا نہیں کرتے، کیونکہ اس سے جھوٹ اور نحس  
گوئی کی آمد ہوتی ہے، اور یہی ان گندگیوں کا سبب ہے  
ایسے کلام سے اللہ کی پناہ جو غلاظت و بدبو کا سبب  
متر ہو۔

**دائرہ دبر سے غلاظت کا انتشار** اگر نجاست تمام حشفہ  
پر یا دائرہ دبر سے تجاوز کر کے ادھر ادھر پھیل جائے تو پھر  
بجز پانی کے کوئی شے اسے پاک کرنے والی نہیں جیسے اگر  
ران وغیرہ پر نجاست لگ جائے تو اسے پانی ہی پاک  
کرتا ہے۔

**طھیلوں میں کیا چیزیں شامل ہیں** | طھیلوں میں ہر وہ چیز  
شامل ہے جو جامد، پاک اور صاف کرنے والی ہو مگر کھائی جانے والی نہ ہو  
اور نہ کسی جانور کا جزو ہو، گو برادر ہڈی سے استنجا جائز نہیں کیونکہ یہ دونوں  
جنوں کی خوراک ہیں اور نہ لیسدار چیز سے جو چپک جانے والی ہو استنجا  
جائز ہے کیونکہ اس سے صفائی نہیں ہوتی بلکہ لٹھیرتی ہے جیسے کھٹکے شیشہ اور چکنیا پتھر وغیرہ

**کن حالات میں استنجا کیا جائے؟** | استنجا ہر اس چیز سے کیا جائے  
جو قبل ذہب سے خارج ہو مگر اس سے ریح مستثنیٰ ہے جیسے اگر مقعد سے  
براز اکیڑے سنگریزے خون اسپ اور بال خارج ہوں تو استنجا واجب  
ہے اسی طرح اگر ذکر سے پانچ چیزیں خارج ہوں تو استنجا واجب ہے  
پیشاب، مذی، ایک سفید ورقیق پانی ہے جو شہرت اکبر ولذت خیر  
خیالات دلبوس و کنار کے وقت نکل آتی ہے

جو پیشاب کا حکم ہے وہی مذی کا حکم ہے ہاں اس سے پورے ذکر کا  
اور فوطوں کا دھونا ضروری ہے جیسا کہ حدیث علی رضی اللہ عنہم  
نے فرمایا: یہ نر کا پانی ہے، بہرے سے پانی لکلا کرتا ہے انہیں ذکر معہ  
فوطوں کے دھولینا چاہیے اور جو وضو نماز کے لئے کیا جاتا ہے وہی



والثالث الودي وهو ماء ابيض خاثر يخرج باثر البول فحكمه حكم البول فقط والرابع المنى وهو الماء الابيض الدافق عند اللذة الكبرى بالجماع او الاحتلام وقد يكون اصفر عند قوة الرجل وقد يكون احمر عند كثرة الجماع وقد يكون رقيقا عند ضعف البنية والقوة ويعلم بالرائحة كرائحة الطلع والعجين وهو طاهر في اشهر الروايتين وموجبه غسل جميع البدن وماء المرأة رقيق اصفر والخامس الرجم يخرج من القبل فادراكا يخرج من الدبر.

### فصل في كيفية الطهارة الكبرى وهو على

ضربين كامل ومجزئ اما الكامل فهو ان ياتي بالنية وهو اعتقاده رفع الحدث الاكبر او الجنابة فان تلفظ به مع اعتقاده بقلبه كان افضل وليس في عند اخذ الماء ويغسل يديه ثلاثا ويغسل ما به من الاذى ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويؤخر غسل قدميه ويحشي على راسه ثلث حثيات من الماء يروي بها اصول شعره ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا ويبدلك بدنه بيديه ويتبع المغابن وغضون البدن ويتحقق حصول الماء عليها القول صلى الله عليه وسلم بلوا الشعر والفرا البشرية فان تحت كل شعر جنابة ويبدء بشقه الايمن وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه فان سلم في خلال ذلك من لواقض الطهارة الصغرى

وضوكلينا چاہیے تیسری چیز دوی ہے دوی ایک سفید اور گارٹھا پانی ہوتا ہے جو پیشاب کے بعد خارج ہوا کرتا ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو پیشاب کا ہے چوتھی چیز منی ہے یہ سفید پانی ہوتا ہے جو پیشاب یا احتلام سے انزال کے وقت کو دکھ نکلتا ہے اگر مرد قوی ہو تو یہ پانی زرد ہوتا ہے اور کثرت سمبستری سے سرخ نکلتا ہے کبھی منی تنلی ہوتی ہے جب قوت میں ضعف آجاتا ہے یا پیدلشی کمزوری ہوتی ہے۔ منی کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے جو کھجور کی کلی کی بو سے اور آٹے کے خمیر کی بو سے ملتی جلتی ہے مشہور روایت کی رو سے منی پاک ہے اور خروج منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے عورت کی منی رقیق و زرد ہوتی ہے پانچویں چیز ریح ہے جو قبل سے شاذ و نادر نکلتی ہے۔

### طہارت کبریٰ (غسل جنابت) | اس کی دو قسمیں ہیں کامل اور کانی

کامل طہارت میں نیت کرنا ضروری ہے یعنی دل میں حدث اکبر (جنابت) کے زائل کرنے کا ارادہ کر لیا جائے اگر نیت کے ساتھ زبان سے بھی کہ لیا جائے تو نور علی نور پانی استعمال کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لو اور تین بار یا تھوڑے دھوؤ پھر جسم پر لگی ہوئی پلیدی دھوؤ پھر علاوہ پیروں کے دھونے کے پورا وضو کرو پھر سر پر تین لب بھر کر پانی ڈلو تاکہ بالوں کی جڑیں سیراب ہو جائیں پھر تین بار تمام جسم پر پانی بہاؤ اور دونوں ہاتھوں سے بدن بھو اور ہاتھوں اور بدن کی سلوٹوں کو تر کر دو ہر سلوٹ پر پانی پہنچانا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ترکہ اور جلد صاف کر دو کیونکہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے اور غسل کی ابتدا اس سے ہونی چاہیے غسل کی جگہ سے ہٹ کر پیر دھو لو پھر اگر اس اثنا میں وضو توڑنے والی چیزوں سے محفوظ ہو تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہو کیونکہ اس غسل کا حکم دونوں قسم کے حدثوں کا رفع کر دینا ہے اور اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز کے لئے جدید وضو کرنا پڑے گا۔

ان تمام باتوں کی دلیل حدیث عائشہ سے آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے بائیں



جائز له ان يصلي بهذه الطهارة لانه محكم  
 له برفع الحدثين جميعاً والا حدث للملوة  
 وضوءاً و الاصل في جميع ذلك ما روى عن  
 عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم اذا اراد الغسل من الجنابة لغسل  
 يديه ثلاثاً ثم ياخذ يمينه فيصب على شاله ثم  
 يتبضع ويستنشق ثلاثاً ويغسل وجهه ثلاثاً و ذراعيه ثلاثاً  
 ثم يغتسل فاذا اخرج غسل قدميه واما المجزئ فهو ان  
 يغسل فرجه و يبرى ويسمي ويمسك يده بالغسل مع المنفضة  
 والاستنشاق لانهما واجبان في الكبرى وفي  
 الصغرى روايتان اصحهما وجرهما فيهما ايضا  
 ولا يجوز له ان يصلي بهذه الغسل الا ان يبرئ  
 به الغسل والوضوء ويتداخل بقية افعال  
 الوضوء في الغسل للعدو بالنية و اذا عدت  
 النية لم يحصل له الوضوء فلا تعلم الملوة  
 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ملوة  
 لمن لا وضوء له بخلاف الاول فانه قد اتى  
 فيه بالوضوء الكامل والشرف في استعمال  
 الماء غير مستحب والاقتصاد هو الحمود  
 المندوب اليه وقلة الماء مع احكام الغسل  
 والوضوء ادلى من الاسراف وقد روى عن  
 النبي صلى الله عليه وسلم لو ضا بحد وهو  
 رطل وثلاث و اغتسل بصاع وهو اربعة امداد  
**فصل في الاذكار المستحب ذكرها عند**  
**غسل الاعضاء يقول اذا فرغ من الاستطابة**

باته دھوتے پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے پھر تین  
 بار غرغره کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے اور تین بار منہ دھوتے اور  
 تین بار دونوں ہاتھ معہ کہنیوں کے دھوتے پھر سر پر تین بار پانی  
 ڈالتے پھر غسل کرتے پھر غسل سے فارغ ہو کر دونوں پیر دھوتے  
 کافی غسل یہ ہے کہ شرمگاہ دھو کر غسل کی نیت کر و اور بسم اللہ پڑھ کر  
 غسل کر و مگر غسل میں غرغره کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے  
 کیونکہ یہ دونوں غسل میں تو واجب ہیں مگر وضو میں وجوب و عدم وجوب  
 کے بارے میں دو روایتیں ہیں جن میں صحیح روایت وجوب ہی کی ہے  
 اس غسل سے نماز پڑھنا جائز نہیں الا یہ کہ غسل و وضو دونوں کی  
 نیت کر لی ہو وضو کے باقی افعال غسل میں بالتبع شامل ہیں کیونکہ وضو  
 کی نیت بتاتی ہے کہ وضو بھی غسل میں شامل کر لیا گیا ہے لیکن اگر وضو  
 کی نیت نہیں کی تو وضو نہیں ہوا تو نماز پڑھنا جائز نہیں  
 کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی نماز صحیح  
 نہیں جس کا وضو نہ ہو، بخلاف پہلی صورت کے کیونکہ  
 پہلی صورت میں پورا وضو کیا گیا ہے۔

پانی کے استعمال میں اسراف اچھا نہیں، وضو  
 میں بھی اعتدال ہونا ہی قابل تحریف و مستحب  
 ہے۔

غسل و وضو کے احکام میں کم پانی استعمال کرنا  
 اسراف سے اولیٰ ہے۔ منقول ہے کہ نبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے ایک مد (پونڈ) پانی سے وضو  
 فرمایا۔ اور ایک صاع (پونڈ) پانی سے غسل  
 فرمایا۔

غسل اعضاء کے وقت مستحب اذکار استنجے سے فارغ ہونے  
 کے بعد اللہ میرا دل شک اور نفاق سے صاف فرما، بے جا میوے



اللهم لن قلبى من الشك والنفاق وحصن فرجى  
 من الفواحش ولىقول عند التسمية اعوذ بك  
 من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرو  
 ولىقول عند غسل يديه اللهم انى اسالك اليمن  
 والبركة واعوذ بك من الشوم والهلكة و  
 ليقول عند الضميمة اللهم اعنى على تلاوة  
 القرآن كتابك وكثرة الذكر لك ولىقول  
 عند الاستنشاق اللهم اوجدنى راحة الجنة  
 وانت عنى راض ولىقول عند الاستنشاق اللهم  
 انى اعوذ بك من روائج النار ومن سوء المذار  
 ولىقول عند غسل وجهه اللهم بيض وجهى  
 يوم تبيض وجوه اولياك ولا تسود وجوه  
 اعدائك وعند غسل ذراعى اليمنى اللهم  
 انى كتابا بيمينى وحاسبتى حسابا ليبيرا و  
 عند غسل ذراعى اليسرى اللهم انى اعوذ  
 بك ان تؤتبنى كتابى لشمالى او من وراء ظهري  
 ولىقول عند مسح الراس اللهم غشى  
 برحمتك وانزل على من بركاتك واظلتى تحت  
 ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولىقول عند  
 مسح الاذنين اللهم اجعلنى من الذين  
 يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم  
 اسمعنى منادى الجنة مع الابرار ثم يسبح  
 عنقه فيقول اللهم فك رقبتي من النار  
 واعوذ بك من السلاسل والاعلال ولىقول  
 عند غسل قدمه اليمنى اللهم ثبت قدمى

سے میری شرمگاہ محفوظ فرما، بسم اللہ پڑھتے وقت کہو اے اللہ  
 میں شیطانی دسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار  
 مجھے تیری پناہ کہ میرے پاس شیطان آئیں ہاتھ دھوتے وقت اے  
 اللہ میں تجھ سے سعادت و برکت مانگتا ہوں اور نحوست و ہلاکت  
 سے تیری پناہ مانگتا ہوں، غزغزہ کے وقت کہو اے اللہ قرآن پاک  
 کی تلاوت پر جو تیری کتاب ہے اور کثرت ذکر اللہ پر میری مدد فرما  
 ناک میں پانی دینے وقت کہو اے اللہ مجھ سے راضی ہو کر مجھے  
 جنت کی خوشبو سگھا۔ ناک سنکنے وقت کہو اے اللہ میں تجھ سے آگ  
 کی بو سے اور برے گھر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ منہ دھوتے وقت کہو اے  
 اللہ جس دن تو اپنے دوستوں کے چہرے روشن فرمائے گا، میرا چہرہ بھی  
 روشن فرما۔ اور جس دن تو اپنے دشمنوں کے منہ کالے کرے گا، اس  
 دن میرا منہ کالا نہ کر، سیدھا ہاتھ دھوتے وقت کہو اے اللہ مجھے میرا اعمال نامہ سیدھے  
 ہاتھ میں دے اور مجھ سے آسان حساب لے، بایاں ہاتھ دھوتے وقت کہو اے اللہ  
 تیری پناہ کہ مجھے بائیں ہاتھ میں یا لپشت کے پیچھے سے اعمال نامہ  
 ملے، امر کا مسح کرتے وقت کہو اے اللہ مجھے اپنی رحمت میں ٹھکانہ  
 لے، مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما اور مجھ پر اپنے عرش کی چھاؤں  
 رکھ جس دن تیرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، کالوں  
 کا مسح کرتے وقت کہو اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما  
 جو بائیں سن کر اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اے اللہ  
 نیکیوں کے ساتھ مجھے بھی جنت کی منادی کی آواز سنا۔  
 گہرے دن کا مسح کرتے وقت کہو اے اللہ میری گردن آگ سے  
 چھڑا، میں زنجیروں اور طوقوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔  
 سیدھا پیر دھوتے وقت کہو اے اللہ مومنوں کے قدموں  
 کے ساتھ میرے قدم بھی پل صراط پر جائے رکھ، بایاں پیر  
 دھوتے وقت کہو اے اللہ مجھے تیری پناہ کہ میرے پیر



على الصراط مع اقدام المؤمنين ويقول عند غسل  
قدمه اليسرى اللهم انى اعوذ بك ان تنزل قدمي عن  
الصراط ليرتزل اقدام المناقين فاذا فرغ من  
وضوءه رفع راسه الى السماء ثم قال اشهد  
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد  
ان محمداً عبده ورسوله سبحانك وبحمدك  
لا اله الا انت عملت سوء وظلمت نفسي  
استغفرك واسئلك التوبة فاغفر لي وتب  
علي انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلني  
من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني  
صبوراً شكوراً واجعلني اذكرك واسبحك  
بكرة واصيلاً۔

**فصل في اداب اللباس وهو على خمسة**  
اضرب محرم على كل مكلف محرم على شخص  
ومكروه ومباح ومتنزه عنه فاما المحرم  
على كل مكلف فالمختص واما المحرم  
على شخص دون شخص فالحرير مباح للنساء  
حرام على بالغى الذكور وهل يباح ان يلبسوا  
البنين الصغار ام لا على روايتين وكذلك  
في اباحة لبس للبالغين في قتال المشركين  
وجهادهم روايتان فهذا هو الضرب المباح  
واما المكروه فهو اطالة الثوب الى حد  
يخرج الى الخيل والكبر وكذلك ما فيه الحرير  
والقطن لا يعلم هل هما نصفان او احدهما  
اكثر واما المتنزه منه فهو كل لبسة يكون بها

پل صراط سے پھسلیں جس دن منافقوں کے پیر پھسلیں گے پھر  
وضو سے فارغ ہو کہ آسمان کی طرف سہاڑھا کہ یہ دعا پڑھو  
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت  
نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں  
کہ محمد (صلعم) اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اسے اللہ تو  
اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں  
میرے برے عمل ہیں اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں تجھ سے  
معفرت کا طلبگار ہوں اور توبہ کی توفیق کا بھکاری ہوں اسے اللہ مجھے بخش دے  
اور میری توبہ قبول فرما واقعی تو خوب توبہ قبول کر نیوالا اور انتہائی مہربان  
ہے اسے اللہ مجھے خوب توبہ کر نیوالوں کی اور پاک لوگوں کی فرستے ہیں  
شمال فرما، مجھے صبر و شکر کرنے والا بنا اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں صبح تا  
شام ذکر کرتا رہوں اور تیری پاکیاں بیان کرتا رہوں۔

**آداب لباس** | لباس پانچ قسم کے ہیں، ہر اس شخص پر حرام جو  
عاقل و بالغ ہو، کسی کے لئے حرام اور کسی کے لئے حرام نہیں،  
مکروہ، مباح، ایسا لباس جس سے بچا جائے۔ مطلق حرام وہ  
لباس ہے جو کسی سے چھین کر اور غضب کر کے پہنا جائے، حرام و حلال  
لباس ریشم ہے کہ مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لئے حلال ہے  
اس میں دو روایتیں ہیں کہ چھوٹے لٹکوں کو ریشمین لباس پہنانا مباح  
ہے یا نہیں، اسی طرح مشرکوں سے جہاد کرتے وقت مہاجرین کو ریشم  
پہنانا جائز ہے یا نہیں اس میں بھی دو روایتیں ہیں۔ مکروہ لباس  
یہ ہے کہ بہت لمبا اور نیچا پہنا جائے کیونکہ اس طرح کبر و غرور  
ثابت ہوتا ہے اسی طرح وہ لباس مکروہ ہے جس میں سوت اور  
ریشم ملے جلے ہوں اور دونوں کی مقدار معلوم نہ ہو کہ کتنا سوت ہے  
اور کتنا ریشم۔

اور جس لباس کا نہ پہنا دلی ہے وہ لباس ہے جس سے لوگوں



مشتهراً بين الناس بالخروج عن عادته اهل  
بلده وعشيرته فيبغى ان يلبس ما يلبسوت  
ولا يباينهم فيها حتى لا يشار اليه بالاصابع و  
يغتاب فيكون ذلك سبباً الى حملهم على  
غيبة فيشاركهم في اثم الغيبة له۔

**فصل** ولنا قسان آخران احد هما واجب  
والآخر مندوب فاما الواجب فعلى ضربين احد  
هما يرجع الى حق الله تعالى والثاني الى حق الانسان  
خاصة واما الذي لحق الله تعالى هوستر العورة  
عن اعين الناس على ما بيناه في فصل التعري  
واما الذي لحق الانسان فهو الذي يترتق به من  
الحرو والبرد والواغ المضار فيجب عليه ذلك  
ولا يجوز تركه لان فيه عونا على اتلاف نفسه  
وذلك حرام واما المندوب فكذلك ينقسم  
على قسمين احد هما في حق الله تعالى وهو  
الرداء اذ كان في جماعة ومجمع الناس فلا  
يعرى منكبيه من شئ من الثياب الجميلة  
عباد والجمع وغير ذلك والقسم الثاني في  
حق المخلوقين وما يتجملون به بينهم  
من الواغ الثياب المباح ولا يزدري لصاحبه  
ولا ينقص مرونته بينهم ويكره الاقتطاع  
وهو التعيم بغير الخنك وليستحب التلجي  
وهو اذ كان بالخنك ويكره كلما خالف  
نهي العرب وشايه زي الاعاجم وتطويل  
الذيل مكره لانه ورد في الاثر عن النبي

میں انگشت نمائی ہو کہ اپنے کنبہ کے اور شہر کے رواج کے خلاف  
ہو مناسب بھی ہے کہ عام طور پر جو لباس پہنا جاتا ہے وہی  
لباس استعمال کیا جائے تاکہ لوگ انگشت نمائی نہ کریں اور بیٹھ پیچھے  
برائی نہ کریں کیونکہ ایسا شخص لوگوں کی غیبت کا سبب بنتا ہے  
اور سبب بننے کی وجہ سے غیبت کے گناہ میں حصہ دار بھی بنتا ہے۔

واجب و مندوب کے اعتبار سے لباس کی قسمیں | لباس یا تو

واجب ہے یا مندوب پھر واجب کی دو قسمیں ہیں ایک قسم کا تعلق  
اللہ کے حق سے ہے اور ایک قسم کا تعلق خاص بننے والے کے حق سے ہے

جس لباس کا تعلق اللہ کے حق سے ہے وہ لباس ہے جس سے لوگوں

سے جسم (ستر عورت) چھپا رہے جیسا کہ ہم برہنگی کے بیان میں ذکر کرتے

ہیں اور جس لباس سے انسان کے حق کا تعلق ہے وہ لباس ہے جو

گرمی، سردی اور ہر طرح کے ضرر سے بچنے کے لئے پہنا جائے لہذا

اس طرح کا لباس پہننا واجب ہے اور اس کا چھوڑنا جائز نہیں

کیونکہ چھوڑنے سے جان کے ضائع ہونے کا خوف ہے اور جان کو

ضائع کرنا حرام ہے۔

مستحب لباس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم سے اللہ کے حق کا تعلق

ہے یہ ایک چادر ہے کہ جب تم کسی اجتماع میں یا لوگوں کے بڑے

مجمع میں جاؤ تو کسی خوبصورت کپڑے سے کندھوں کو محروم نہ رکھو۔

عید، بقر عید اور ہر جمعہ وغیرہ میں اس قسم کا لباس استعمال کرو اور

قسم کا تعلق لوگوں کے حق سے ہے کہ لوگ قسم قسم کے مباح لباس پہن

کر آراستہ ہوتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں میں ان کی عزت

بڑھتی ہے اور حقیر و ذلیل نہیں سمجھے جاتے۔

مکروہ لباس | اقتطاع مکروہ ہے اور تلخی مستحب ہے اول الذکر یہ

ہے کہ جب بگڑی باندھی جائے تو اس کا سر اٹھوڑی کے نیچے نہ دبا لیا

جائے اور اگر دبا لیا جائے تو تلخی ہے۔



صلى الله عليه وسلم انه قال اذرتة المسلم  
الى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بين  
الكعبين وما كان اسفل من الكعبين فهو في  
النار من حرا اذ اذرتة بطرا لم ينظر الله تعالى  
اليه وذكر الورد اذ باسناد عن ابي سعيد  
الخدري رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم  
اشتمال الصماء مكرهه في الصلوة وهو  
ان يلتحف بثوب ويجعل طرفيه على جانب  
فلا يكون ليد في موضع يخرج منه ولذلك  
سمى الصماء وكذلك يكره السدل وهو  
ان تترك وسط رداءك على راسه وبقية  
سدل على ظهره وهي لبسة اليهود وكذلك  
يكره الاحتباء وهو ان يجلس ويضم ركبتيه  
الى نحو صدره ويد برثويه من وراء ظهره الى  
ان يبلغ ركبتيه ويشد حتى يكون كالمعتمد  
عليه والمستند اليه اذا لم يكن على الثواب  
لانه يؤدي الى انكشاف عورتك ولا بأس  
بذلك اذا كان تحت ثوب وكذلك يكره  
التتم وتغطية الالف في الصلوة ويكره  
التشبه بزي النساء للرجال وكذلك للنساء  
التشبه بزي الرجال لان النبي صلى الله عليه  
وسلم لعن فاعلة وتوعد عليه ويكره الالقاء  
في الصلوة وهو ان يمد ظهر قدميه ويجلس  
على عقبية او يجلس على التبية وينصب قدميه  
قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اقعاء كاقعاء

عربوں کی ہیئت و عادت کے خلاف اور عجمیوں کا سلباس پہننا مکروہ  
ہے اسی طرح دامن حد سے زیادہ لمبا رکھنا مکروہ ہے کیونکہ نبی صلعم نے  
فرمایا: مسلمان کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے اور ٹخنوں تک بھی  
کوئی حرج نہیں ہاں ٹخنوں کے نیچے والا حصہ جہنم میں ہے۔ جو شخص ازراہ  
غدر اتنا نیچا تہبند رکھے کہ چلتے ہیں اسے گھسیٹے حتیٰ تعالیٰ اسے قیامت  
کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا (الورد اذرتہ)

نماز میں اشتمال صماء بھی مکروہ ہے یعنی چادر اس طرح اور ٹھہری جائے  
کہ ہاتھ اس میں بند ہو جائیں اور چادر کے دونوں سرے کندھوں پر  
ڈال لئے جائیں اور ہاتھ لگانے کے لئے جگہ نہ رہے اسی لئے اس طرح  
اور ٹھہرنے کی ہیئت کو صماء (پتھر کی طرح ٹھوس) کہا جاتا ہے۔  
سدل بھی مکروہ ہے۔ سدل یہ ہے کہ وسط چادر سر پر ڈال لو  
اور اس کے سرے پشت وغیرہ پر ٹکے رہیں۔ یہ یہودیوں کا پہننا ہے  
اسی طرح احتباء بھی مکروہ ہے یعنی دونوں گھٹنے سینہ سے لگا کر  
بیٹھا جائے اور پشت کی طرف سے چادر لاکر دونوں گھٹنوں میں  
باندھ لی جائے تاکہ وہ پشت کی طرف سے ٹیک کا کام دے اور  
ٹیکہ کا بھی بشرطیکہ بدن پر چادر کے سوا کچھ اور نہ ہو کیونکہ اس سے  
کھل جانے کا اندیشہ ہے لیکن اگر بدن پر دوسرے کپڑے ہوں تو  
پھر احتباء میں کوئی حرج نہیں۔

اسی طرح نماز میں ڈھاتا ہا ہا نہ صفا اور ناک چھپانا مکروہ ہے۔

مردوں کو عورتوں کی سعی اور عورتوں کو مردوں کی سعی ہیئت  
بنانا مکروہ ہے کیونکہ ایسا کرنے والوں کو نبی صلعم نے لعنت فرمائی  
ہے اور اس پر وعید بھی آئی ہے۔

نماز میں اقعاء بھی مکروہ ہے یعنی پیر کھڑے کر کے ایڑیوں پر  
بیٹھنا یا دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے سر نیوں پر بیٹھنا نبی صلعم نے  
فرمایا یہ کتے کی طرح بیٹھنا ہے جو منع ہے۔



الکلب منہی عنہ ویکرہ لبس ما شق منہ  
 الابدان من الثیاب وان شقت منہ العورتۃ  
 کان فلسقا کما لو کشفها اذا تعمد لبسہ ولا  
 نعم صلواتہ فیہا وقد مدح الشرع السراویل  
 لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم السراویل نصف  
 الکسوتۃ وہی فی حق الرجال اکد ویکرہ تسعة  
 بوائکم وتفیقہا اولی و احب لائنہ استر  
 للعورتۃ وقد روی لائنہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 قال اللہم اغفر للمسرولات قال ذلک فی  
 حق امرءۃ مرتبہا علت باکیۃ فسقطت فادار  
 وجہہ عنہا فقیل انہا مسرولۃ و فی بعض  
 الاحادیث عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کرہ  
 السراویل المخرفجۃ وہی الواسعۃ الطویلۃ التي  
 تخرج علی ظہر القدمین واصلہ السعۃ یقال  
 عیش مخرفج اذا کان واسعاً و افضل اللباس  
 ما کان ساتراً و افضل الوان الثیاب ما کان  
 ابیضاً لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ثیابکم  
 البیاض و فی لفظ اخر علیکم بالبیاض یلبسہا  
 احیاءکم و کفروا بہا من تاکم و عن ابن عباس  
 انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 البسوا من ثیابکم البیاض فانہا من خیر ثیابکم  
 و کفروا فیہا من تاکم و ان خیر الخالکم  
 الا ثمد یجلو البصر و ینبت الشعر۔

**فصل فی آداب النوم** لیستحب لمن اراد ان

ینام ان یوکی شقاء و یطفی سراجہ ویلق باہ

اپنے پٹے ہوئے کپڑے پہننے مکروہ ہیں جن سے بدن نظر آئے اگر  
 پردے والی جگہ سے پھٹا ہوا ہے اور اسے کیا نہیں جاتا ایسا  
 شخص گنہ گار ہے اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا لباس پہن کر نماز پڑھے  
 گا تو نماز نہیں ہوگی۔ نبی صلعم نے پائجامہ کی تعریف فرمائی ہے  
 فرمایا پائجامہ آدھا لباس ہے۔ پائجامہ مردوں کے لئے بہت اچھا  
 ہے اور پائجامہ کے پانچے زیادہ وسیلے رکھنے مکروہ ہیں۔  
 اور تنگ رکھنے بہتر اور پندیدہ ہیں۔ کیونکہ اس طرح بدن اچھی  
 طرح سے چھپ جاتا ہے، نبی صلعم نے فرمایا ایسے اللہ! پائجامہ  
 پہننے والیوں کو بخش دے آپ نے یہ بات اس عورت کے ہالے  
 میں فرمائی جو بے تحاشہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور آپ اس کے  
 پاس سے گزر رہے تھے پھر وہ گر پڑی آپ نے اپنا منہ اس سے  
 پھیر لیا پھر آپ سے کہا گیا کہ یہ پائجامہ پہنے ہوئے ہیں، نبی صلعم نے  
 فرما دیا کہ پانچے والے پائجامہ کو جو پیروں پر پڑا ہے  
 مکروہ قرار دیا۔ مخرفج اصل کے اعتبار سے وسیع و فراخ کہتے  
 ہیں جیسے عیش مخرفج یعنی فراخ عیش۔ افضل لباس وہی ہے جو  
 ستر چھپ جائے اور رنگوں کے اعتبار سے افضل لباس سفید  
 لباس ہے کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا: تمہارے بہترین کپڑے سفید  
 ہیں اسی حدیث کا دوسرا لفظ یہ ہے سفید لباس لازم کر لو سفید لباس  
 تمہارے زندہ بھی نہیں اور سفید ہی میں اپنے سروں کو کفناؤ حضرت  
 ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: اپنے کپڑوں  
 میں سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں اور انہیں  
 اپنے سروں کو کفن دو اور تمہارا بہترین سرمہ اشد ہے جو لگاؤ  
 تیز کرتا ہے اور بلیکس اگانا ہے۔

سونے کے آداب | سوتے وقت یہ مستحب ہے کہ ٹشیکڑوں کے

منہ باندھ دو اور پانی وغیرہ کے برتن ڈھک دو اور چرخ بجھا



و یغسل فاذا ان کان قد اکل مالہ راحۃ لشد  
 یقصدہ الدیب ویسبی باسم اللہ عزوجل  
 ثم یقول ما روی البراء و اود باسنادہ عن سعید  
 بن عبیدۃ قال حدثنی البراء بن عاذب رضی اللہ  
 تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم اذا اتیت مضجعک فترضاً وضوءک  
 للملوتۃ ثم اضجع علی شفق الایمن وقال  
 اللهم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری  
 الیک والحیات ظہری الیک و رغبت و رہبت  
 الیک لا ملجاء ولا منجا منک الا الیک امنت  
 بکتابک الذی انزلت و نبیک الذی ارسلت  
 فان میت علی الفطرۃ واجعلہن اخر ما تقول  
 قال البراء فقلت استذکرہن فقلت برسولک  
 الذی ارسلت قال لا و نبیک الذی ارسلت  
 و یكون لومہ علی ما ذکر فی الخیر علی جنیم  
 الایمن مستقبل القبلة کما یكون فی المحدث  
 وان نام علی ظہرہ متفکراً فی ملکوت السموات  
 والارض فلا یاس و یکرہ لومہ علی وجہہ  
 و اذا رای فی منامہ ما یرعجہ استغاذ باللہ  
 لعالی من شریہ و تقل عن لیسارہ ثلاثاً و قال  
 اللهم ارزقنی خیر رؤیای و اکفی شرہا  
 و یقرء آیۃ الكرسی و قل هو اللہ احد و  
 معوذتین الا ان ینام و لا یفسر منامہ  
 الا علی من یحسن من عالم و حکیم و ینام و یحبا  
 و لا یفسر ما راہ من الاحلام لان الشیطان

دو دروازے بند کر دو اور اگر مخصوص بودالی کوئی چیز کھائی ہے تو  
 منہ خوب صاف کر لو مبادا کوئی ہانور اس کی بوسہ لگھ کر آئے اور کاٹ  
 کھائے اور بسم اللہ پڑھ لو اور مندرجہ ذیل حدیث کے مطابق عمل کرو  
 براء بن عاذب کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلعم نے فرمایا جب تم اپنی  
 خوابگاہ میں لیٹنے کا ارادہ کرو تو وضو کر کے سیدھی کروٹ پر لیٹ جا  
 اور یہ دعا پڑھو اے اللہ میں نے اپنی ذات تجھے سونپ دی اور میں نے  
 اپنے کام تجھ پر چھوڑ دئے اور میں نے تجھ پر بھروسہ کر لیا اور میں نے  
 تیری طرف رغبت کی اور تجھ سے ڈرتا بھی رہا کیونکہ تیرے سوا تیرے ب  
 سے کوئی پناہ گاہ اور چھکارے کی جگہ نہیں میرا تیری کتاب پر ایمان ہے  
 جو تو نے اتاری اور تیرے نبی پر ایمان ہے جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا  
 فرمایا اگر تم اس رات میں مرجاؤ گے تو تم توحید و ایمان پر مرد گے  
 یہ دعا سوتے وقت پڑھو پھر کوئی اور بات نہ کرو براء فرماتے ہیں  
 میں نے سنالے کہ نے آپ کے سامنے یہ دعا دہرائی اور میں نے یہ کہہ دیا  
 اور میرا تیرے رسول پر ایمان ہے فرمایا نہیں یونسی کہو اور میرا تیرے  
 نبی پر ایمان ہے۔

حدیث میں جو سیدھی کروٹ لیٹنے کا ذکر ہے تو سیدھی کروٹ پر  
 قبلہ صبح ہو کر لیٹا جائے جیسے بغلی قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے اگر  
 اگر سیدھی لیٹ جاؤ اور کائنات عالم میں حق تعالیٰ کی صنعت میں غور و فکر کرو  
 تو بھی کوئی حرج نہیں۔

اوندھا لیٹنا کمزور ہے اگر ڈراؤ نے خواب دکھائی دیں تو ان کی برائی  
 سے حق تعالیٰ سے پناہ مانگو اور تین بار بائیں طرف تھنکا رو اور دعا  
 مانگو کہ اے اللہ مجھے اچھے خواب دکھا اور برے خوابوں سے کافی ہو جا  
 اور آیتہ الکرسی، سورہ اخلاص اور سورہ نلق اور سورہ ناس پڑھ لو  
 بشرطیکہ جنہی نہ ہو اور خواب اسی کے سامنے بیان کر دو تمہارا خیر خواہ  
 ہو اور عالم یاد النشد ہو اور ڈراؤ نہ اور پریشان خواب کسی کے سامنے



یتمثل له وقد روی عن ابی قتادۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرؤیا  
من اللہ والحلم من الشیطان فاذا رأى احدکم  
شیئاً یکرهہ فلیتفت عن لیسارہ ثلاث مرات  
ثم لیتعوذ من شرہا فانہا لاتضر لا وعن ابی  
ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم کان اذا انصرف من صلوۃ الغدا ل یقول  
ہدای احد منکم اللیلة روایہ ل یقول انہ  
لیس ببقی لجدی من النبوة الا الرؤیا الصالحة  
وفی حدیث عبادۃ ابن الصامت عن النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم انہ قال رءیا المؤمن جزئ من ستة  
واربعین جزء من النبوة واذا اراد الخروج  
من منزله ذکر الکلمات التی وردت فی حدیث  
الشعبی عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت ما خرج  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیتی قط  
الا رفع طرفہ الی السماء فقال اللہم انی اعوذ  
بک ان أضل او أضل او ازل او ازل او اظلم  
او اظلم او اجہل او یجعل علی ولیقرب تل ہو  
اللہ احد مع المعوذتین اذا اصیبم واذا امسى  
ویدعو مع ذلک بدعاء رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم اللہم بک نصیبم وبک نسبی  
وبک یغنی وبک نموت ویزید فی الصباح والیک  
النشور فی المساء والیک المصیر ول یقول مع  
ذلک اللہم اجعلنی من اعظم عبادک عندک  
تصیباً فی کل خیر تقسمہ فی هذا الیوم وفیما

بھی بیان نہ کر دیکو کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں حضرت  
ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے  
تھے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور پریشان خواب شیطان کی  
طرف سے ہے پھر اگر کوئی ناگوار خاطر خواب دیکھے تو تین بار  
بائیں طرف تھکا کر دے اور اس کی برائی سے اللہ سے پناہ مانگے  
پھر وہ مسخر ثابت نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے  
کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر لیٹا  
کرتے تھے: کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ اور فرمایا کرتے تھے  
میرے بعد نبوت میں سے سچا خواب ہی باقی رہے گا۔ حدیث عباد  
بن صامت رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا  
خواب نبوت کا چھبیا لیسواں جزئ ہے۔

جب گھر سے باہر جانے کا ارادہ ہو تو حدیث ام سلمہ پر عمل کرو  
جو شعبی سے منقول ہے آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر  
سے جب بھی روانہ ہوئے برابر آپ نے آسمان کی طرف لگا ہاتھ  
کر یہ دعا پڑھی: اے اللہ میں گمراہ ہونے سے یا گمراہ کئے جانے  
سے یا پھسلنے سے یا پھسلانے جانے سے یا ظلم کرنے سے یا ظلم  
کئے جانے سے یا جاہل بننے سے یا جاہل بنائے جانے سے تیری پناہ  
مانگتا ہوں اور صبح و شام قل ہو اللہ احد اور معوذتین پڑھو اور  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا بھی پڑھو اے اللہ ہم پر  
تیری توفیق کے ساتھ صبح آتی ہے اور تیری توفیق ہی کے ساتھ شام  
آتی ہے اور تیرے ہی حکم سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہمیں  
موت آئے گی۔ صبح والی دعا میں یہ اور پڑھاؤ اور تیرے ہی پاس  
ہمیں زندہ ہو کر آنا ہے اور شام والی دعا میں یہ پڑھاؤ اور ہمیں  
تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ مذکورہ بالا دعا کے ساتھ ساتھ  
یہ بھی پڑھو اے اللہ آج کے دن بانٹی جانے والی ہر بھلائی میں



بعدها من نور تهلدي به اور رحمة تنشرها درزق  
تبسطه او ضررتكشفه او ذنب تغفره او شدرا  
تدفعها او قننة تصرفها او معافاة تمن بها  
برحمتك انك على كل شئ قدير واذا اراد دخول  
المسجد فليقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى  
ويقول بسم الله السلام على رسول الله عليه  
وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد  
واعف عني ذنوبي وافتح لي البواب رحمتك وليسلم  
علي من كان في المسجد فان لم يكن فيه  
احد قال السلام علينا من ربا عز وجل واذا  
دخله لا يجلس حتى ياتي بركعتين ثم ان شاء  
تنفل والا جلس مشتغلا بذكر الله عز وجل  
او صامتاً لا يذكر شيئاً من امور الدنيا ولا يكثر  
كلامه الا ما لا بد منه فان كان قد دخل  
وقت الصلوة صلى السنة والفرض مع الجماعة  
فاذا فرغ واداد الخروج فليقدم رجله اليسرى  
ويؤخر اليمنى وليقل بسم الله السلام على رسول  
الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد  
فاغفر لي ذنوبي وافتح لي البواب فضلك وليستحب  
له في دبر كل صلوة ان يسبح ثلاثاً وثلاثين ويمجد  
ثلاثاً وثلاثين ويكبر ثلاثاً وثلاثين ويحتم المائة  
بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك  
وله الحمد وهو على كل شئ قدير وليستحب له  
المدائمة على الظهور فانه يروى عن النبي صلى الله  
عليه وسلم في حديث السن بن مالك رضي الله عنه قال

مجھے حصہ کے اعتبار سے اپنے عظیم بندوں کی فہرست میں درج فرما اور اس نور میں بھی جو  
آج کے بعد انیوالا ہے جس سے تو اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے اور اس رحمت میں بھی  
جیسے تو عام فرماتا ہے اور اس روزی میں بھی جسے تو فرائض فرماتا ہے اور مہمانوں کے ہاں  
نقصانات میں بھی بخشے جانے والے گناہوں میں بھی ہٹائی جانے والی سختیوں میں بھی اور پھر  
جانیمالی بلاؤں میں بھی اور اس عافیت میں بھی جس سے تو اپنی رحمت سے نوازتا ہے  
بلاشبہ تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جب تم کسی مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرو  
پہلے مسجد میں دایاں پیر رکھو پھر بائیں اور یہ دعا پڑھو میں اللہ ہی کے نام سے  
اس مسجد میں داخل ہونا ہوں میری طرف سے رسول اللہ صلعم کو سلام پہنچا رہے اللہ  
محمد پر اپنی رحمتیں بھیج اور آل محمد پر بھی اور میرے تمام گناہ معاف فرما دے اور  
میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے پھر مسجد میں جا کر حاضرین مسجد کو  
سلام کرو اگر مسجد میں کوئی نہ ہو تو السلام علینا من ربا عز وجل کے ساتھ  
سلام کرو یعنی ہم پر ہمارے عزت و جلال والے پروردگار کی طرف سے سلام  
پہنچا رہے ہیں جا کر دو گانہ ادا کئے بغیر نہ بیٹھو بعد میں اگر چاہو تو نوافل پڑھتے  
رہو خواہ ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤ یا خاموش رہو کسی ذبیہی کام کا ذکر نہ  
کرو اور بلا ضرورت کے بات نہ کرو۔ اگر کسی نماز کا وقت ہو گیا ہو تو سنتیں  
ادا کرو اور جماعت کے ساتھ فرض پڑھو پھر نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے  
باہر آنے کا ارادہ کرو تو پہلے مسجد سے باہر بائیں پیر رکھو پھر دایاں رکھو اور یہ  
پڑھو میں اللہ ہی کے نام سے مسجد سے باہر رہا ہوں رسول اللہ صلعم کو میرا سلام  
پہنچا رہے اللہ محمد و آل محمد پر اپنی رحمتیں بھیج اور میرے تمام گناہ معاف فرما دے  
اور مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ بار  
سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ ۳۳ بار اللہ اکبر اور ایک بار لا اله  
الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير۔  
پڑھنا مستحب ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں وہ  
ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا ملک ہے اور اسی کی بڑائیاں ہیں اور  
وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ہمیشہ با وضو رہنا مستحب ہے کیونکہ حدیث میں



وم علی الظہور فی عمرك وصل باللیل والنهار  
ما استطعت تجلب الحفظۃ وصل صلوات الفی  
فانها صلوات الابرار وسلم علی اهل بیتک  
اذا دخلت بیتک یكثر خیر بیتک و ترکیب السلیب راجع  
صغیر ہم تراقفی فی الجنة فقد جمع هذا الحدیث  
اداباً جنة -

**فصل فی دخول المنزل والکسب من  
الحلال والوحدة و اذا اراد دخول منزله فلا  
یدخل حتی یتنعم ویقول السلام علینا من ربنا  
فقد جاء فی بعض الاخبار ان المؤمن اذا خرج  
من منزله وكل الله تعالی ببابه ملکین یحفظان  
ماله و اهله و لیکل ابلیس سبعین شیطاناً مردة  
فاذا دنی المؤمن من بابه قال الملكان اللهم  
وفقه ان كان القلب یكسب طیب فاذا اتختم  
دنی الملائکان و تتباعدت الشیاطین و اذا قال  
السلام علینا من ربنا توارت الشیاطین  
وقام الملكان احدهما بالیمین والاخر عن الشمال  
و اذا فتم الباب فقال بسم الله ذهب الشیاطین  
و دخل معه الملكان و حسنا كل شیء فی منزله  
و اطاب الة معیسة یومہ و لیلته فاذا جلس  
المؤمن قام الملكان علی راسه فان اكل اكل  
طیباً و ان شرب شرب طیباً ما دام فی منزله  
یوم و لیلته و كان طیب النفس فان لم یفعل  
من ذلك شیئاً ذهب عنه الملائکان و دخل  
معه الشیاطین و استقبحو اكل ما فی منزله فی**

انس بن مالک میں ہے کہ نبی صلیم نے ان سے فرمایا: اپنی زندگی میں ہمیشہ  
با وضو رہو اور دن رات میں جس قدر ممکن ہوں نماز میں پڑھو حفاظت  
کرنے والے فرشتوں کو تجھ سے محبت ہو جائیگی اور چاشت کی نماز پڑھ کر  
یہ نماز ان بندوں کی ہے جو اللہ کی طرف لپکتے ہیں انہوں نے کہا: جب گھر میں  
آؤ تو گھر والوں کو سلام کہو تمہارے گھر میں خیر و برکت کی ریل پیل رہیگی۔  
بڑھے سماں کی عزت کرو اور چھوٹوں کی شفقت سے پیش آؤ جنت میں میری رفیق بنو گے یہ حدیث  
بہت سے آداب کی جامع ہے۔

گھر میں آنا حلال کما فی اور خلوت | جب تم اپنے میں جانے کا  
ارادہ کرو تو پہلے کھنکھارو اور السلام علینا من ربنا کہو یعنی ہم پر ہمارے  
رب کی طرف سے سلام ہو کیونکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب مومن اپنے  
گھر سے نکل کر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پر دو فرشتے  
تعینات فرمادیتا ہے جو اس کے مال کی اور بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں  
اور ابلیس نثر شیطان تعینات کر دیتا ہے پھر جب مسلمان اپنے گھر کے  
دروازے کے قریب آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ پاکیزہ کار کا  
کر کے آیا ہے تو اسے تو فریق عطا فرما پھر جب کھنکھاتا ہے تو فرشتے قریب  
آجاتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے پھر جب السلام علینا من ربنا کہتا  
ہے تو شیاطین چھپ جاتے ہیں اور فرشتے کھڑے ہو کر دائیں بائیں آجاتے  
ہیں پھر جب دروازہ کھول کر بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان چلے جاتا ہے  
اور اس کے ساتھ فرشتے بھی گھر میں آجاتے ہیں اور فرشتے اسے اس کے  
گھر میں ہر چیز حسین و خوبصورت دکھاتے ہیں اور اس کی آج کے دن  
رات کی زندگی طیب و پاکیزہ بنا دیتے ہیں پھر جب مومن بیٹھ جاتا ہے  
تو دونوں فرشتے اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر آج کے دن رات  
میں جب تک وہ اپنے گھر میں رہتا ہے تو اگر وہ کھاتا ہے تو حلال و  
طیب ہی کھاتا ہے اور اگر پیتا ہے تو حلال و طیب ہی پیتا ہے اور خوش  
و خرم رہتا ہے لیکن اگر مذکورہ بالا باتوں میں سے کچھ نہیں کرتا تو



فرشتے چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ گھر میں شیطان آجاتے ہیں اور وہ اسے گھر کی ہر چیز بری بنا کر دکھاتے ہیں اور گھر والوں سے اسے بری باتیں سنواتے ہیں حتیٰ کہ اس کے اور اس کے گھر والوں میں دین میں بگاڑ پیدا کرنے والی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اگر مرد ہے تو اس پر ادب نگہ اور سستی مسلط کر دیتے ہیں اگر سوتا ہے تو ایک مردہ لاش کی طرح سوتا ہے اور اگر بیدار ہوتا ہے تو غیر مفید تناؤں میں ڈوب جاتا ہے اور مزاج میں بگاڑ و گندگی ہوتی ہے غرضیکہ شیاطین اس کا کھانا پینا اور خواب و بیداری سب ہی کو مگر کر دیتے ہیں۔

**کسب معاش** | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حلال دنیا اس لئے طلب کی کہ اپنے کو سوال سے بچا سکے اور اس دور و دھوپ سے اپنے اہل و عیال کا خرچ اٹھائے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عنایت و لطف سے پیش آسکے تو حق تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس حال میں زندہ فرمائے گا کہ اس کا چہرہ چور دھویں رات کے چاند کی طرح درخشاں ہوگا اور جس نے حلال دنیا اس لئے طلب کی کہ مال جمع کرے اس پر فخر و مباہلہ کرے اور ریاکاری پیش نظر ہو تو وہ حق تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ حق تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔

ثابت البنانی فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ عافیت دس چیزوں میں ہے جن میں سے نو کا تعلق کسب معاش سے ہے اور ایک کا عبارت ہے حضرت جابر بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی اپنے اور پر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جو سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ اور جو بے نیازی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیازی بنا دیتا ہے دیکھو تم میں سے کسی کا رستی لے کر اس وادی میں کام کرنا اور لکڑیاں جمع کر کے بازار میں لا کر انہیں ایک مد کھجوروں کے عوض

عینہ واسعتہ من اہلہ مالیسوء حتی یكون  
بینہ و بین اہلہ ما یفسد علیہ دینہ وان کات  
اغرب القوا علیہ النعاس والکسل وان نام  
نام حیفۃ وان جلس جلس فی تمنی ما لا ینفعہ  
خبیث النفس ویفسد ون علیہ طعامہ وشرابہ  
ولو مہ واما الکسب فقد روی ابو ہریرۃ رضی اللہ  
تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
انہ قال من طلب الدنیا حلالاً استعفا فاعن  
المسألة وسعیاً علی اہلہ وتعطفاً علی جارہ بعثہ  
اللہ تعالیٰ یوم القیامۃ ووجعہ کالقبر لیلۃ  
البدرو من طلب الدنیا حلالاً مکاتراً مفاخرأ  
مرأیاً لقی اللہ عزوجل یوم القیامۃ وهو علیہ  
غضبان وعن ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
انہ قال بلغنی ان العافیۃ فی عشرۃ اشیاء  
تسعۃ منها فی طلب المعیشۃ وواحدۃ فی  
العبادۃ وروی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یفتق  
الرجل علی نفسه من المسألة الا فتم اللہ علیہ  
بابا من الفقر ومن یستعفف بعفہ اللہ ومن  
یستغن یغنہ اللہ لان یاخذ احدکم حیلۃ ثم  
یعمل الی ہذا الوردی فیحتطب منه ثم یاتی  
سوقکم فیبیعہ بمد ثم یرخیر لہ من ان لیسال  
الناس اعطوا او منعوا وروی ما من رجل  
یفتق علی نفسه بابا من المسألة الا فتم اللہ علیہ  
سبعین بابا من الفقر وروی عن رسول اللہ صلی



عیدہ وسلم انه قال ان الله يحب كل مؤمن  
 محترف ابا العیال ولا یحب الفارغ الصغیر لا  
 فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرة وروی ان  
 داؤد صلی الله علیه وسلم خلیفة الله عزوجل  
 سأل الله تعالی ان یجعل کسبه بیدة فالان  
 فی بیدة الحدید فصارت فی بیدة کالشع والعجین  
 یتخذ منه الدروع فیبیعها فیعیش هو وعیاله  
 بثمنها وقال ابنه سلیمان علیهما السلام رب  
 قد اعطیتنی من الملك ما لم تعط احدا قبلی  
 وسألتک ان لا تعطیه احد البعدی فاعطیتنیه  
 فان قصرت فی شکرک فدلتنی علی عبد هو  
 اشکر منی فوحی الله تعالی الیه یا سلیمان  
 ان عبداً یتکسب بیدة لیسد جوعه ویستر  
 عورته ویعبدنی هو اشکر لی منک فقال اجعل کسی  
 بیدی فاقال جبریل علیہ السلام نعلیه عمل الخو  
 یتخذ منه العفاف فاول من عمل الخوص سلیمان  
 علیہ السلام وقیل عن بعض الحكماء انه  
 قال لا یقوم الدین والدنیا الا باریعة العلماء  
 والامراء والغزاة واهل الکسب فالامراء  
 هم الرعاة یرعون الخلق والعلماء وهم ورثة  
 الانبیاء یدلون الخلق علی الآخرة والناس  
 یقتدون بهم والغزاة هم حید الله تعالی  
 فی الارض یقلع بهم الکفار واما اهل الکسب  
 فہم امناء الله تعالی بہم مصاب الخلق و  
 سمارۃ الارض والرعاة اذا صاروا اذیابا فمن

فروخت کرنا اس کے لئے لوگوں سے سوال کرنے سے بڑھے کہ جس میں یاہ  
 یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اپنے مانگنے کھانے کا دروازہ کھول لیتا ہے  
 اللہ تعالیٰ اس پر یقیناً فقر کے ستر دروازے کھول دیتا ہے رسول اللہ  
 صلعم نے یہ بھی فرمایا: حق تعالیٰ ہر مومن پیشہ ور کو جو صاحب عیال کے  
 دوست رکھتا ہے اور بے کار و خالی بیٹھے والے کو جو تندرست ہے اور  
 کسی دنیوی یا اخروی کام میں مشغول نہیں، محبوب نہیں رکھتا۔ منقول ہے  
 کہ حضرت داؤد نے جو اللہ کے خلیفہ تھے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے  
 کوئی پیشہ سکھا دیا جائے کہ ہاتھ سے کما کر کھا سکوں حق تعالیٰ نے آپ کے  
 ہاتھ میں لوہا نرم بنا دیا چنانچہ لوہا آپ کے ہاتھ میں آکر موم اور آٹے کی  
 طرح بن جاتا تھا آپ لوہے سے زرہیں بنا کر اور انہیں فروخت کر کے  
 اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچ چلایا کرتے تھے آپ کے فرزند حضرت  
 سلیمان نے حق تعالیٰ سے دعا مانگی پروردگار عالم! آپ نے مجھے وہ  
 ملک عطا فرمایا جسے آپ نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا اور میں نے  
 آپ سے یہ التجا کی کہ ایسا ملک آپ میرے بعد کسی کو نہ دیں آپ نے میری  
 یہ دعا بھی قبول فرمائی لہذا اگر میں آپ کے شکر میں کوتاہی کروں تو  
 آپ مجھے مجھ سے زیادہ اپنا شکر گزار کوئی بندہ بنا دیں۔ حق تعالیٰ نے  
 آپ پر وحی کی اور فرمایا کہ اے سلیمان! جو انسان اپنے ہاتھ سے اس لئے  
 کمائے کہ اپنا پیٹ بھر کر بھوک دفع کرے اور اپنی شرمگاہ چھپائے اور  
 میری عبادت میں لگا رہے وہ تجھ سے زیادہ میرا شکر گزار بندہ ہے  
 بولے: اے اللہ مجھے بھی کوئی پیشہ سکھا دے کہ اپنے ہاتھ سے کما کر  
 کھاؤں اس پر حضرت جبرئیل نے آکر حضرت سلیمان کو کھجور کے پتوں سے  
 ٹوکریاں بننے کا ہنر سکھا دیا تاکہ آپ سوال سے بچیں لہذا سب سے  
 پہلے زمبیلیں بنانے والے حضرت سلیمان ہی ہیں۔

بعض حکماء سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دین اور دنیا چار قسم  
 کے لوگوں سے قائم ہے، علماء، امراء، مجاہد اور صنایع سے امراء، ہنر مند



یجفظ العلم والعلماء اذا ترکوا العلم واشتغلوا  
 بالدنیا فبین لفتدی الخلق والغزاة اذا رکبوا  
 للفخر والخیلة وخرجوا للطعم فمتی یظفرون علی  
 العدو واهل الکسب اذا خافوا الناس فکیف  
 یامنهم الناس واذ المریکن فی التاجر ثلاث خصا  
 افتقر فی الدنیا والآخرۃ اولها لسان لقی عن ثلاث  
 الکذب واللغو والحلف والثانیة قلب صافی  
 من العش والحسد بجارۃ وقرینہ والثالثة  
 نفس محافظۃ لثلاث خصا لجمعة والجماعات  
 وطلب العلم فی بعض ساعات الیل والنهار  
 وایثار مرضاة اللہ علی غیرہ وایاک والکسب  
 الحرام فقد قیل اذا کسب العبد حیثا وادان  
 یا کل منه وقال لیسما اللہ قال الشیطان کل انی  
 کنت معک حتی کسبتہ فلا فارقک انما  
 اناشریک فہو شریک کل کاسب حرام قال اللہ  
 عزوجل وشارکهم فی اموال والاولاد فالاموال  
 الحرام والاولاد اولاد الزنا کذا ذکر فی  
 التفسیر وروی عن ابن مسعود رض عن رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا یکتسب  
 العبد مالا من الحرام ویصدق بہ فیئوجر  
 علیہ ولا ینفق منه فیبارک لہ فیہ ولا یتبرک  
 خلف ظہرہ الا کان زادہ الی النار و  
 بالجملة انه لا یتنعم من الحرام الا من هو  
 مشفق علی لحمہ ودمہ فذین المرء لحمہ  
 ودمہ فلیجتنب الحرام واهلہ ولا یجالسہم

چرہ دہوں کے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے نگران ہیں، علماء انبیاء کے وال  
 ہیں اور لوگوں کی آخرت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں اور لوگ ان کی  
 اقتداء کرتے ہیں اور مجاہدین دنیا میں اللہ کا شکر ہیں جن کے ذریعہ دنیا  
 کا استیصال کیا جاتا ہے۔ صناع اللہ کے امین ہیں ان سے دنیا کی ضرورت  
 کی چیزیں وابستہ ہیں اور دنیا آباد و پر رونق ہے اگر چہ وہ اسے بھیرے  
 بن جائیں تو بکریوں کی کون نگرانی کرے، اگر علماء علم چھوڑ کر دنیا  
 میں مشغول ہو جائیں تو دنیا کس کی اقتدا کرے اگر مجاہدین ذرا فخر  
 و کبر گھوڑوں پر سوار ہوں اور لالچ پیش نظر رکھیں تو کیسے دشمنوں پر  
 فتویاب ہوں اور اگر صناع خائن بن جائیں تو لوگ ان سے کیسے مانوس  
 ہوں بلکہ اس طرح کاریگریوں کی ساکھ جاتی رہے گی۔ اگر تاجران تین  
 خوبیوں سے متصف نہ ہوں تو دنیا اور آخرت میں محتاج رہے گا (۱)  
 زبان کو تین باتوں سے بچائے رکھے جھوٹ سے، ایسے ہودہ کو اس  
 سے درگم سے (۲) اپنے دل کو ہمسایوں کی رفقاء کی اور عوام کی طرف سے  
 صاف رکھے اور دل میں ان کی طرف سے کینہ، کپٹ اور حسد نہ رکھے (۳) ان  
 ان تین باتوں کا عادی بنے جمعہ اور جماعت میں شریک رہے دن رات  
 میں چند گھنٹے علم و مطالعہ کے لئے وقف کرے اور رضائے حق تعالیٰ کو  
 دوسروں کی رضا پر ترجیح دے۔

خبردار! حرام کی کمائی سے بچو کیونکہ مشہور ہے کہ جب بندہ حرام و گندی  
 کمائی کرتا ہے اور اس میں سے کھانے کا ارادہ کرتا ہے اور ہم اللہ کرتا ہے  
 تو شیطان کہتا ہے: کھا، تیری کمائی میں بھی میں شریک تھا اور اب بھی  
 میں تجھ سے جدا نہیں تیرے ساتھ کھاؤں گا ہر حال میں میں تیرا شریک ہوں  
 لہذا شیطان ہر حرام کمائی والے کے ساتھ ہوتا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے  
 اے شیطان لوگوں سے مال و اولاد میں شرکت کر اور ان سے جھوٹے  
 وعدے کر، چنانچہ مال حرام مال ہے اور اولاد ذنا کے بچے ہیں جیسا  
 کہ تفسیر میں بیان ہے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ



ولا یاكل طعام من کسبه حرام ولا یدل احدًا  
 علی حرام فیکون شریکاً فالورع هو ملاک  
 الدین وقوام العبادۃ واستکمال امر الاخرۃ  
 واما الواحدۃ والعزلة فقد جاء عن النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم انه قال علیکم بالعزلة  
 فانها عبادۃ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 المؤمن من جلس بیتیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم افضل الناس رجلاً اعتزل یکتف عن  
 الناس شره وفي بعض الالفاظ عنہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم انه قال الغریب هو الذی یفر  
 بديتہ وعن بعض السلف انه قال هذا  
 زمان السکوت ولزوم البیوت وهو لیسر الخا  
 وقیل لسعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما فی قصر  
 بالعقیق ترکت اسواق الناس ومجالس  
 الاخوان وتخلیت فقال رایت اسواقهم  
 لا غیبة وھیالسمهم لاهیة فوجدت الاعتزال  
 فیما هناك عافیة قال وهیب بن الورد  
 اللہ خالطت الناس خمسين سنة فما وجدت  
 رجلاً غفراً زلة ولا ستر لی عورۃ ولا امنته  
 اذا غضب وما وجدت منهم الا من  
 یرکب هواه وعن الشعبي رحمہ اللہ انه قال  
 تعاشر الناس بالدين زمان طویل حتی ذهب  
 الدين ثم تعاشروا بالمرۃ حتی ذهب المرۃ  
 ثم تعاشروا بالحیاء حتی ذهب الحیاء ثم  
 تعاشروا بالرغبة والرہبة واطن انه سیتی

صلعم نے فرمایا: جو بندہ حرام مال کھاتا ہے اور اسے صدقہ میں دیتا ہے تو اس  
 کا اجر اسے نہیں ملتا اور جو کچھ اس میں خرچ کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اور  
 جو کچھ چھوڑ کر مر جاتا ہے وہ اس کے لئے جہنم کا توشہ بن جاتا ہے۔ غرضیکہ حرام  
 سے وہی بچتا ہے جسے اپنے گوشت اور خون سے محبت ہے اور وہ ان دونوں کی طرف  
 سے ڈرتا رہتا ہے کیونکہ محفوظ دین ہی سے انسان کا گوشت اور خون جہنم کی  
 آگ سے محفوظ رہتا ہے لہذا حرام دہل حرام سے بچنا چاہیے۔ اور ان کے ساتھ  
 اٹھنا بیٹھنا بھی لائق نہیں۔ حرام پیشہ وروں کا کھانا نہ کھاؤ۔ اور کوئی کسی  
 حرام کا طریقہ بھی نہ بتائے ورنہ گناہ میں وہ بھی حصہ دار ہوگا، پارسانی ہی  
 پر دین موقوف ہے اور وہی عبادتوں کا مادہ ہے اور آخرت کے کاموں کو  
 تکمیل مراحل تک پہنچاتی ہے۔

**گوشہ نشینی اور خلوت** | اس سلسلہ میں رحمت عالم صلعم نے فرمایا: گوشہ نشینی  
 کو اپنے اوپر واجب کر لو کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور سری حدیث میں فرمایا:  
 مومن وہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھے، نیز فرمایا: لوگوں میں افضل وہ شخص ہے جو گوشہ نشین  
 ہے کہ لوگ اس کی برائی سے محفوظ رہیں بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا: غریب  
 وہ ہے جو اپنے دین کے ساتھ بھاگتا ہے یعنی دین کے تحفظ کے لئے بھاگ جاتا ہے۔  
 بعض سلف (بشر حافی) کا قول ہے کہ یہ زمانہ خاموشی کا اور گوشہ نشینی کا ہے۔  
 جب حضرت سعد اپنے عقین والے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے تو آپ سے کہا گیا  
 آپ بازاروں میں اور مجلسوں میں آنا جانا چھوڑ کر خلوت نشین کیوں ہو گئے؟  
 فرمایا: میں نے بازاروں میں بیوہ بکواس اور مجلسوں میں لہو و لعب دیکھا  
 اس لئے میں نے یہاں اپنے گھر میں گوشہ نشینی ہی میں خیر و عافیت پائی۔  
 وصیب بن دردر فرماتے ہیں: میں پچاس سال تک لوگوں میں ملاحزارا  
 میں نے ایک شخص کو بھی ایسا نہیں پایا کہ وہ میرے قصور سے درگزر کرتا  
 یا میرا عیب چھپا لیتا اس کے غصہ کی حالت میں اس سے بے خوف رہتا  
 میں نے ہر شخص خواہش پرست ہی پایا۔

شعبی: لوگ ایک طویل مدت تک اپنی اسلامی زندگی بنائے رہے حتیٰ کہ



بعد هذا ما هو اشد منه وقال الحكيم العباد  
عشرة اجزاء تسعة في الصمت وواحدة في  
العزلة فراودت نفسي على الصمت فلما قدر  
عليه نصرت الى العزلة فجمعت لي التسعة و  
كان يقول لا شيء ادعظ من القبر ولا انس من  
الكتاب ولا اسلم من الراحلة وقال لبشر  
بن الحارث رحمه الله انما يطلب العلم ليهرب  
به من الدنيا لا لتطلب به الدنيا وروى عن عائشة  
انها قالت قيل يا رسول الله ابي جلسنا خبير قال  
صلى الله عليه وسلم من ذكر تكلم الله تعالى  
رويته وذكره الاخرة علمه وزاد في علمكم  
منطقه وكان عيسى ابن مريم يقول يا معشر  
الحواريين تحبوا الى الله عز وجل ببغض اهل  
المعاصي وتقرؤوا الى الله تعالى بالتباعد عنهم  
والقسو ارضاه لسخطهم وان كان لا بد  
من المغالطة فلتكن للعلماء فان النبي صلى الله  
عليه وسلم قال مجالسة العلماء عبادة و  
قال صلى الله عليه وسلم الزم قلبك التفكير  
وجسدك التصبر وعينك البكاء ولا تهتم  
لرزق غد فان ذلك خطيئة تكتب عليك  
والزم المساجد فان عمارة بيت الله تعالى  
هم اهل الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم  
من اكثر الاختلاف الى الساجد اصاب اخا  
مستغفراً ورحمة منتظرة وكلمة تدل على  
هدى واخرى تصرف عن الردى وعلما منتظراً

دین ان سے نکل گیا پھر مردت کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے حتیٰ کہ موت بھی  
جاتی رہی پھر شرم کے ساتھ زندگی گزارتے رہے حتیٰ کہ شرم بھی ختم ہو گئی  
پھر خوف درجا کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے میرا گمان ہے کہ اس کے بعد اس  
سے بھی خطرناک زمانہ آنے والا ہے۔

ایک حکیم: عبادت کے دس حصے ہیں فحصہ خاموشی میں ہیں اور ایک  
گوشتہ نشینی میں ہے میں اپنے نفس کو بہلا بھلا کر خاموشی پر آمادہ کرتا رہا  
مگر اسے قابو میں نہ کر سکا آخر کار میں نے گوشتہ نشینی اختیار کی اور اسی عورت  
کی برکت سے میں نے باقی نو حصے بھی فراہم کر لئے۔ فرمایا کرتے تھے: قبر سے  
زیادہ کوئی داعظ نہیں، کتاب سے زیادہ کوئی مونس نہیں، اور خلوت  
سے زیادہ کوئی چیز سلامتی والی نہیں۔

بشر بن حارث: علم اس لئے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ دنیا سے  
بھاگا جائے نہ کہ اس سے دنیا طلب کی جائے۔ حضرت صدیقہ رضا کا بیان ہے  
کہ کہا گیا: یا رسول اللہ! ہمارا بہترین ہم نشین کون ہے؟ فرمایا جس کا  
دیدار تم میں حق تعالیٰ شانہ کی یاد تازہ کر دے، جس کا علم تمہارے اندر  
آخرت کی تڑپ پیدا کر دے اور جس کی گفتگو تمہارا علم بڑھا دے حضرت  
عیسیٰ فرمایا کرتے تھے: اے حواریو! گنہ گاروں سے بغض رکھ کر حق تعالیٰ  
کی محبت حاصل کرو اور ارباب معصیت سے دور رہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب  
ڈھونڈو اور ان سے ناخوش رہ کر اللہ کی خوشی تلاش کرو۔

اگر لوگوں میں غنے جلنے کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر علماء کی مجلسوں میں ٹھہرو  
بیٹھو کیونکہ رحمت عالم صلعم نے فرمایا: علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عبادت  
ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا: دل کو غور و فکر کا جسم کو صبر و تحمل کا اور  
اور آنکھوں کو اللہ کے ذکر سے رونے کا عادی بناؤ اور کل کی روزی کی نگرانی  
نہ کرو کیونکہ یہ ایک گناہ ہے جو تمہارے اعمال نامہ میں لکھ دیا جاتا ہے اور  
مسجدوں کو چھپے رہو کیونکہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے والے اللہ کے  
ہی ہوتے ہیں۔ نبی صلعم نے فرمایا جو کثرت سے مسجدوں میں آتا جاتا رہے



وترك الذنوب حبا وخشية ولو اعتزل الانسان  
 معها اعتزل لم يكن له متسعاً في الشرع اعتزال  
 عن الجمعة والجماعات فلا يجوز له تركهما  
 في الجملة فانه يكفر بعد اومته على ترك الجمعة  
 لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
 من ترك الجمعة ثلثا من غير عذر طبع الله تعالى  
 على قلبه وفي حديث جابر رضي الله عنهما ان الله عزو  
 قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في  
 شهرى هذا وفي عامى هذا الى يوم القيامة من  
 تركها وله امام عادل او جائز استخفا فابها  
 او مجوداً لها فلا جمع الله تعالى له شمله ولا انه  
 له امره الا لصلوة له الا لركوة له الا لاجم  
 له الا لصومه الا ان يتوب فمن تاب تاب الله  
 عليه ولان في تركها استهانة بمنادى الله عزو  
 يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة  
 فاسعوا الى ذكر الله ومن استهان بالله عزوجل  
 بناديه يكفر فعليه التوبة وتجديد الاسلام  
 ويتوب الله على من تاب فلا يجوز له تركها الا لعذر  
 يبيحه الشرع كما قيل خذ عن الناس جانبا غير  
 طاعن عليهم ولا تاركا لجماعتهم فليجتهد  
 المرء في الاعتزال عن الناس ما استطاع الا من  
 يكون عونا له في امر دينه لان الكذب انما  
 يجزى بين اثنين والفجور بين اثنين وقتل النفس  
 بين اثنين وقطع المال بين اثنين والسلامة من  
 ذلك في الاعتزال والافراد۔

تو اس نے دعائے مغفرت کر لیا ایک بھائی، انتظار کی جانیر الی رحمت،  
 ہدایت کی طرف رہنمائی کر لیا الی ہادی، تباہی سے بچانے والی ڈھال اور نادر  
 علم پالیا اور وہ اللہ سے محبت و طہر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیگا۔  
 انسان کتنی ہی سخت قسم کی گوشہ نشینی اختیار کر لے پھر بھی اسے ہماری شریعت میں  
 جمعہ اور جماعت سے غیر حاضر ہونے کی گنجائش نہیں اس لئے اسے مطلقاً جمعہ  
 اور جماعت کو چھوڑنا جائز نہیں کیونکہ ہمیشہ جمعہ چھوڑنے والا کافر ہوتا  
 جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر عذر کے تین جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ  
 اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ حدیث جابر میں ہے: یقیناً مالم یحضر تعالیٰ  
 نے تم پر جمعہ کی نماز میری اس جگہ اس مہینہ اور اس سال میں قیامت تک  
 کے لئے فرض فرمادیا ہے جو اسے عادل یا ظالم امام کی موجودگی میں اسے حقیقہ و حقیقت  
 سمجھ کر یا اس کو نہ مان کر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کی پراگندگی دور نہ فرمائے اور  
 نہ اس کا کوئی کام بنائے دیکھو اس کی نماز قبول ہوئی الی نہیں، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی  
 نہ حج قبول ہوگا الا یہ کہ توبہ کر لے پھر جو توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول  
 فرمائے گا۔ علاوہ ازیں جمعہ چھوڑنے میں اللہ کے منادی کی توبہ میں ہے فرمایا ہے  
 ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر  
 کی طرف چل پڑو۔ اور جس نے اللہ کے کلام کی توبہ میں کی اور اس کے منادی  
 (مؤذن) کو حقیر جانا اس نے کفر کا ارتکاب کیا اس پر توبہ اور توبہ اسلام  
 ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرے تو اسے کی توبہ قبول فرماتا ہے لہذا کسی کے لئے بلا  
 عذر کے جمعہ کا چھوڑنا جائز نہیں کہا جاتا ہے گوشہ نشینی میں لوگوں سے ایک  
 گونہ تعلق رکھو کہ وہ تم پر طعن و تشنیع نہ کریں اور جماعت کو نہ چھوڑو۔  
 لہذا گوشہ نشین لوگوں سے علیحدہ رہنے کی مقدور بھر کوشش کرے یا ان  
 سے ملتا رہے جو دینی کاموں میں اس سے تعاون کرتے ہوں بخلت کا سبب بڑا  
 فائدہ چھوڑ دینا وغیرہ سے تحفظ ہے کیونکہ جب ایک سے دو ہوتے ہیں تو  
 سچی باتیں کریں گے اور دو کے جمع ہونے سے گناہوں کا بھی ڈر ہے اور قتل  
 و غارت گری کا بھی خوف ہے ان تمام گناہوں سے بچنے کے لئے سلامتی کی راہ طلبی



**فصل** فی آداب السفر والصحبۃ فیہ اذا اراد اسفرا او حجاً او غزواً او تحولا من دار الی دارٍ او طلب حاجة فلیصل رکعتین ثم یطلب حاجتہ او یتحول فی السفر فلیقل علی راس الرکعتین اللهم بلغ بلاغاً مبلغ خیر ومغفرة منک ورضواناً بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدير اللهم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الاهد والبال والولد اللهم هون علينا السفر واطوعنا البعد اللهم انی اعرف بک من وعتاء السفر وکآبة المتقلب وسوء المنظر فی الاهد والولد والممال ویتجرى ان یکون ذلک بکرة خیس اوسبت او اثنين واذا استوی علی راحلتہ قال سبحان الذی سخر لنا هذا وما کناله مقرنین وانا الی ربنا المنقلبون واذا رجع من السفر صلی رکعتین وقال آتینون تائبون عابدون لربنا حامدون لانه روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یفعله واذا خرج فلا یکن قائد للناس اذا وجد من یقودهم ولا یشیر علیهم بینا زل ینزلونها اذا وجد من یکفیه ذلک وعلیه بالصمت وحسن الصحبة وکثرة المنفعة لاخوانه وایاه والقیل والقال ولا ینزل علی الطریق ولا علی ماء فانه ماوی الحیات والسیاب بل یتبعی عنه ولا یعرس علی الطریق فانه مکروه و ینبغی ان یکون سفراً علی لسان المعرفة من

سفر کے اور رفقاء سفر کے آداب | اگر کوئی سفر کا باج کا یا عمر کا یا جہاد کا ارادہ کرے یا کوئی حاجت اللہ سے مانگے تو اسے دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے پھر اپنی حاجت مانگنی چاہیے اور اگر سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر کرنا چاہیے مگر دو گناہ ادا کرتے ہی یہ دعا مانگ لے اے اللہ مجھے خیر والی جگہ پر بھیج و خوبی پہنچا اور اپنی بخشش و رضا عطا فرما تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں اور تو ہر چیز پر خوب قادر ہے اے اللہ سفر میں تو میرا معاون ہے اور میرے گھر والوں کا اور مال کا تو ہی نگہبان ہے اے اللہ ہم پر یہ سفر آسان فرما اور ہمارے لئے ہر مسافت لیٹ دے (کوٹاہ فرما) اے اللہ میں سفر کی سختیوں سے اور واپس لوٹنے کی مصیبت سے اور اہل و عیال میں اور مال میں بڑے منظر سے تیری بناہ مانگتا ہوں۔ سفر جمعرات کو یا ہفتہ کو یا پیر کو صبح کے وقت کرنا مناسب ہے اس کا خیال رکھا جائے اور سواری پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھو وہ اللہ پاک ہے جس نے یہ سواری ہمارے تابع بنا دی حالانکہ ہم اس پر تائب نہ تھے اور ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

اور سفر سے واپس ہوتے وقت دو گناہ ادا کر کے یہ دعا پڑھو: ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کی بڑائیاں بیان کرنے والے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

جب سفر کے لئے گھر سے نکلے تو لوگوں کے قائد نہ بنو اگر ان کا کوئی قائد موجود ہو اور لوگوں کو ٹھہرنے کے مقامات نہ بناؤ اگر ان میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو اس کام کے لئے کافی ہو۔

زیادہ تر خاموش رہو اور اپنی اچھی رفاقت ثابت کرو اور اپنے رفقاء سفر کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو اور قیل و قال سے بچو اور عین راستہ پر اور گھاٹ پر نہ ٹھہرو کیونکہ سانپوں اور درندوں کے ٹھکانے ہیں بلکہ وہاں سے ہٹ کر ٹھہرو اور



او صافہ المذموتہ الی صفاتہ الحمیدۃ فیخرج  
 من ہواہ الی طلب رضا و مولاہ بتصحیح تقواہ  
 فاؤل ما یجب علیہ اذا اراد ان یسافر من  
 بلدہ ان یرضی خصومہ وان یرضی والدیہ و  
 من یکون فی حکمہا من الاحجاء و الخالات  
 ویختلف لعیالہ من ینوئہم فی مدۃ سفرہ او  
 لیتصحبہم ویجملہم معہ و ینبغی ان یکون  
 سفرہ اطاعة من الطاعات کالحج او زیارۃ  
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم او زیارۃ شیخ  
 او موضع من ہذہ المراضع الشریفۃ او  
 المباح کالتجارۃ او العلم بعد احکام علوم  
 العبادات الخمس لان علمہا فریضۃ و ما  
 وراءہا مباح و فیہ فضل وقیل فرض علی  
 الکفایۃ و ینبغی ان یعاشرا صحابہ فی سفرہ  
 بچسن الخلق و جمیل المداراۃ و ترک المخالفة  
 و اللجاج فی جمیع الاشیاء و لیتغلب بخدمۃ  
 اصحابہ فی السفر لا لیتخدم احدًا الا  
 عند الضرورۃ و یجتہد ابدًا ان یکون فی  
 سفرہ علی الطہارۃ و من آداب الصحبۃ  
 ان یقف مع صاحبہ اذا عی و لیسقیہ الماء  
 اذا عطش و یرفق بہ اذا صجروا رید  
 اذا غضب و یحفظہ و رحلہ اذا نام و یوترہ  
 اذا قل الزاد و یواسیہ بما یفتم لہ و لا ینفرد بہ  
 دونہ و لا یکنمہ سراً و لا یفشی لہ سراً و لا  
 یتظہرہ الا یجیل و یرد غیبتہ و یحسن ذکرہ

راستوں میں پڑاؤ نہ ڈالو کہ یہ مکروہ ہے۔ تمہارا سفر قانون شریعت کے مطابق  
 ہو، بری عادتیں ترک کر کے اخلاق حمیدہ سے متصف رہو خواہش نفسانی کو  
 بالائے طاق رکھ کر اللہ کی رضا و ہونڈھو اور صحیح صحیح تقویٰ اختیار کرو  
 جب تم اپنے شہر سے روانہ ہو تو تمہارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے مخالفین  
 کو راضی کر لو اور اپنے مال باپ کو اور ان بزرگوں کو جو الدین کے مرتبہ کے  
 قریب قریب ہیں جیسے چچا اور خالہ وغیرہ کی رضا حاصل کرو اور اہل عیال  
 کی دیکھ بھال کے لئے اور ان کا خرچ اٹھانے کے لئے کسی کو بھیجے چھوڑ جاؤ  
 تاکہ مدت سفر میں انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو یا سب کو اپنے ساتھ ہی  
 سفر اللہ کی کسی عبادت کے لئے ہونا مناسب ہے مثلاً حج کے لئے ہر یاہی  
 صلعم کی زیارت کے لئے یا کسی شیخ و بزرگ کی زیارت کے لئے یا ان  
 مقامات میں سے کسی مقام کی زیارت کے لئے۔ یا مباح سفر ہو جیسے تجارت  
 کے لئے یا علم حاصل کرنے کے لئے جب کہ بیچگانہ عبادتوں کے لئے ضروری  
 اور بنیادی احکام سیکھ لئے ہوں کیونکہ ان کا سیکھنا فرض ہے اور ان کے  
 بعد والا علم مباح ہے اور اس کا سیکھنا موجب نفیلت ہے یا فرض  
 کفایہ ہے۔

رفقائے سفر سے حسن اخلاق سے اور خوش خوئی سے پیش آؤ، کسی کی  
 مخالفت نہ کرو اور تمام باتوں میں سے نہ لڑو جھگڑو اور رفقائے سفر کی  
 خدمت کے لئے ہر وقت کمر بستہ رہو اور سخت ضرورت کے بغیر اپنی خدمت  
 کسی سے نہ کرو اور حالت سفر میں ہمیشہ با وضو رہنے کی کوشش کرو  
 سفر کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی رفیق سفر تنگ جلتے تو اس کے  
 ساتھ ٹھہر جاؤ، اگر کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی پلاؤ، اگر وہ طیش میں ہو  
 تو نرم کلام سے اس کا طیش دور کرو، اگر وہ غصہ میں ہو تو خاطر و  
 مدارت سے پیش آؤ، اگر وہ سو جائے تو اس کی اور اس کے سامان  
 کی حفاظت کرو، اگر اس کے پاس زاد راہ ختم ہو جائے تو کھانے میں  
 اسے تزیین دو اور اس کے ساتھ اس قدر خیر خواہی کرو کہ اس کے لئے



عند الرقعة ولا يعيبه عندهم ولا يشكوه منه  
اليهم ويتجمل منه اذا اذاعه بينهم اذا شاوره  
وليسال عن اسمه وبلده ونسبه وان كان ارفع  
منه منزلة ويطهر للرقعة انه تابع له وان كان  
هو المتبوع ووضح لما تبعه عيوب نفسه على  
طريق النصح له لا على طريق التوبيخ والتعنيف  
وينبغي ان يتعوز من كل شيء يخافه وعتد  
ما جعل بوضع او ينزل بسنزل او يجلس في مكان  
او ينام فيه بان يقول اعوذ بالله ويكلماته  
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباساءة  
الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم  
من شر ما خلق وذرة وبرء ومن شر ما ينزل  
من السماء وما يجرح فيها ومن شر ما ذرع  
في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن فتنة  
الليل والنهار ومن طارق الليل والنهار الا  
طارقا بطرق منك بخير يا ارحم الراحمين ومن  
كل دابة ربي اخذ بناصيتها ان ربي على صراط  
مستقيم ولا يتخذ في الركاب الا جراس لان  
النبي صلى الله عليه وسلم قال انه مع كل  
جرس شيطان وقال صلى الله عليه وسلم ان  
الملئكة لا تصعب رقعة فيها جرس ولا يتعب  
ان يصحبه في سفره عصا ويحتمد ان لا  
يخلو منها لما روى ميمون بن مهران عن ابن  
عباس قال امسك العصا سنة الانبياء و  
علامة المومنين وقال الحسن البصري رحمه الله

کشاہکی ہو جائے اور اسے چھوڑ کر اور علیحدہ ہو کر نہ کھاؤ اور اس کا راز اٹھا  
نہ کرو اور پس غیبت اسے اچھائی ہی سے یاد کرو اور کسی سے اس کی غیبت  
نہ سنو اور دیگر رفقاء کے سامنے اس کا ذکر خیر ہی کرو اور ان کے سامنے اس  
پر کوئی عیب نہ لگاؤ اور ان سے اس کا شکوہ نہ کرو اور اس کی ایذا برداشت  
کر لو اگر وہ اپنے کسی کام میں تم سے مشورہ کرے تو اسے خیر خواہانہ مشورہ  
درو اور اس کا نام اس کے شہر کا نام اور اس کا نسب معلوم کر لو اگرچہ  
وہ تم سے زیادہ عالی مرتبہ ہو اور رفقاء پر ظاہر کرو کہ میں ان کے حکم کا  
تابع ہوں اگرچہ تم متبوع ہی کیوں نہ ہو عقیدت مندوں کو ان کے ذاتی  
عیوب ازراہ خیر خواہی بتا دو ڈانٹنے ڈپٹنے کے طور پر نہیں جس چیز  
ڈر ہو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔

جب تم کسی جگہ اترو یا کسی منزل میں ٹھہرو یا کسی مقام پر بیٹھو یا  
نہیں سونے کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھ لو: میں اللہ کی اور اس کے  
ان مکمل کلموں کی جن سے نیک و بد کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور اللہ  
تعالیٰ کے تمام اسمائے حسنیٰ کی خواہ وہ میرے علم میں ہوں یا نہ ہوں  
ان چیزوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کیں اور انہیں کھیا  
اور جن کو وہ عدم سے وجود میں لایا اور اس چیز کی برائی سے بھی جس  
آسمان سے اترتی ہے اور جو اس پر چڑھ جاتی ہے اور اس کی برائیوں سے  
بھی جو اللہ نے زمین پر پھیلادی ہیں اور ان کی برائیوں سے بھی جو زمین سے  
نکلتی ہیں اور دن رات کے فتنوں سے بھی اور رات میں اردن میں آئینہ لوں کے  
فتنوں سے بھی الایہ کہ وہ تیری طرف سے خیر لیکر آئیں ایسے سب سے زیادہ رحم  
کرنیوالے ان سب سے تو ہی مجھے پناہ دیتا ہے اور ہر حال اور کے شر سے بھی جس کی  
پیشانی کے بال میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہیں بلاشبہ میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔  
سوار یوں کے گلوں میں اور ہاتھ پیروں میں گھنٹیاں نہ باندھو کیونکہ رحمت عالم  
صلعم نے فرمایا: یاد رکھو گھنٹوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے ایک اور حدیث میں  
فرمایا: جن رفقاء میں گھنٹی ہو ان کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے۔



فی العصا ست خصال سنة الا نبیاء  
وزی الصالحین و سلاح علی الاعداء  
یعنی الحیة والکلب وغیر ذلک و عون  
الضعفاء و رغم المنافقین و زیادة فی  
الحسنات و یقال اذا کان مع المؤمن  
العصا هرب الشیطان منه و خشع منه  
المنافق و المفاجیر و یكون قبلته اذا صلی  
و قوته اذا اعی و فیها منافع كثيرة كما  
قال الله فی قصّة موسی علیه السلام  
ھی عصای اُتو کو علیہا و اهش بها علی  
غنی ولی فیها ما رب اُخری۔

**فصل** ولا یجوز اخصاء شی من الحيوان  
والعبید نص علیہ الامام احمد فی روایة  
حرب و ابی طالب و كذلك السمة فی الوجه  
علی ما نقل البوطالب رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم نہی ان یخصی کل ذی نسل من  
البہائم و فی حدیث ابی ہریرة و فی حدیث  
النس بن مالک رضی اللہ عنہما انہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نہی عن الرسم فی الوجه و رخص فیہ الا اذا  
وان کان لا ید من الرسم لا جل العلامة  
لیعرفوا البہائم حین الاختلاط جاز فی  
غیر الوجه کالانفاذ و الاستنہ۔

**فصل** ولا یجوز فعل شی من المستقلات  
فی المساجد و یکرہ العمل فیہا کالخیاطة  
والخرایة و البیع و الشراء و ما اشبه ذلک

سفر میں اپنے ساتھ لاٹھی رکھنا مستحب ہے لہذا طارکھو کہ لاٹھی کے بغیر سفر نہ  
کر و کیونکہ ابن عباس نے فرمایا: لاٹھی رکھنا انبیاء کی سنت ہے اور مومنوں کی نشانی  
حسن بھری: لاٹھی میں چھ خوبیاں ہیں یہ انبیاء کی سنت ہے اصلح کی نسبت  
ہے دشمنوں کے لئے یعنی سانپ اور کتے وغیرہ کے لئے ہتھیار ہے، مکر زردی کا  
سہارا ہے منافقوں کے لئے موجب ذلت ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے  
والی ہے، کہا جاتا ہے جب مومن کے پاس لاٹھی ہوتی ہے تو اس سے شیطان بھا  
جاتا ہے اور منافقین و گنہ گار ڈر جاتے ہیں اور نماز پڑھتے وقت سترہ کا کام  
دیتی ہے اور تھکن کے وقت موجب قوت ہوتی ہے غرضیکہ لاٹھی رکھنے میں  
بہت سے فائدے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے قصہ میں فرمایا کہ حضرت  
موسیٰ نے کہا: یہ میری لاٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں اور اس سے  
اپنی کبریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لئے اس میں دوسرے فوائد ہیں۔  
جانور وغیرہ کو خصی کرنا مکروہ ہے کسی جانور یا غلام کا خصی  
کرنا جائز نہیں حرب و البوطالب کی روایت میں امام احمد نے اس کی صراحت  
فرمادی ہے اسی طرح جانور کے منہ کو داغنا ناجائز ہے جیسا کہ البوطالب نے  
امام احمد سے نقل کیا ہے کیونکہ نبی صلعم نے ہر نسل والے چوپائے کو خصی کرنے سے  
منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث ابو ہریرة اور حدیث حضرت انس میں ہے  
کہ نبی صلعم نے چہرے پر داغ دینے سے منع فرمایا اور کانوں پر داغ دینے کی  
اجازت دی، اگر نشانی کی وجہ سے داغ دینے کے بغیر چارہ نہ ہو تاکہ جانور  
دوسرے جانوروں میں ملنے کی صورت میں پہچان لئے جائیں تو ران اور کوٹ  
وغیرہ میں داغ لگا دئے جائیں اور چہرے کو محفوظ رکھا جائے۔

مسجدوں کی صفائی وغیرہ | مسجدوں میں ذرا سا بھی گٹر اچھیلانا  
جائز نہیں اور ان میں کوئی کام کرنا بھی روا نہیں، جیسے درزی کا  
موجی کا یا کسی اور صنعت کا کام اور خرید و فروخت کرنا یا ان کے عمل  
دیگر کام کرنا مسجدوں میں جائز نہیں۔

مسجدوں میں آواز بلند کرنا بھی ناجائز ہے بل ذکر اللہ کے ساتھ آواز



ویکرة رفع الاصوات الا بذكر الله تعالى  
 والنخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها  
 ويكراه زحرفة المساجد بالتزاويل والخلق  
 ولا باس بتجصيفها وتطيينها ويكراه اتخاذها  
 بيتا ومقاما الا للغريب او المعتكف لان النبي  
 صلى الله عليه وسلم انزل وقد نبى عبد قيس  
 وروى ثقيف في المسجد ولا باس بالثنا  
 الشعر والقصائد فيها الخالية من السخف  
 والهجاء للمسلمين والاولى صيانتها الا ان  
 يكون من الزهديات المرقيات المشوقات  
 المبكيات فيجوز الاكثر منها والاولى من  
 ذلك القرآن والتسبيح لان المساجد وضعت  
 لذكر الله تعالى والصلوة فينبغي ان لا يجعل  
 سوى ذلك ويكراه نقل تراب المسجد واما  
 ما حصل فيه من المزابيل والكناسة فيستحب  
 اخراج ذلك وفيه فضل كثير وقد روى عن  
 النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك مخرج  
 جور العين ويكراه تمكين الصبيان والمجانين  
 من دخوله ولا باس لعبور الجنب فيه وتنعم  
 الحائض لانه لا يؤمن من تلويث المسجد و  
 اذا دعت الضرورة للجنب جاز له ان  
 يتوضا ويلبث في المسجد الى حين يقدر على  
 الغسل والاولى ان يتيمم للجنب مع ذلك  
 ايضا وكذلك اذا لم يجد الماء الا في  
 بئر المسجد يتيمم لجواز الی البئر ثم يغتسل

بندگی جائے تو خیر مسجدوں میں تھو کنا گناہ ہے اور اسے دفن کر دینا  
 اس کا کفارہ ہے مسجدوں کو نقش و نگار اور زعفران وغیرہ سے رنگ  
 کرنا مکروہ ہے اگر چہ نئے یا سینٹ وغیرہ کا پلاستر کر لیا جائے یا مٹی  
 سے لپیپ دی جائے تو کوئی حرج نہیں مسجدوں کو گھر اور راستے کا  
 بنانا مکروہ ہے البتہ مسجدوں میں معتکف یا مسافر ٹھہر سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی  
 نے بنو عبد قیس کے وفد کو مسجد ہی میں ٹھہرایا تھا ایک روایت میں ہے کہ  
 بنو ثقیف کو مسجد میں ٹھہرایا تھا۔

مسجدوں میں اشعار و قصائد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ ان  
 میں بیہودہ اور فحش باتیں نہ ہوں اور مسلمانوں کی سوجھی نہ ہو لیکن پھر بھی  
 ان سے مسجدوں کو محفوظ رکھنا ہی اولیٰ ہے البتہ زہد و پارہ سائی کے متعلق  
 اشعار کو جو سوز و گداز پیدا کرتے ہوں، اسخوت کا شوق دلاتے ہوں  
 اور اللہ کے خوف سے رلاتے ہوں کثرت سے پڑھنا جائز ہے لیکن  
 ان سب سے بہتر مسجدوں میں قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کی کثرت  
 ہے کیونکہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لئے اور نمازوں ہی کے لئے بنائی جاتی  
 ہیں لہذا ان کے سوا ان میں کسی اور چیز کی حلت نامناسب ہے مسجدوں  
 کی مٹی منتقل کرنا مکروہ ہے لیکن مسجدوں سے گندگی اور کوڑا کرکٹ  
 نکالنا مستحب ہے اور اس عمل کی بڑی فضیلت آئی ہے نبی صلی نے  
 فرمایا کہ یہ حسین عوروں کا حرم ہے۔

بچوں اور دیوانوں کو مسجدوں میں جانے دینا مکروہ ہے نہ بپاک  
 لوگوں کے لئے مسجدوں سے گزر جانے میں کوئی حرج نہیں، مخالفہ  
 عورت مسجد میں نہ جائے کیونکہ اس سے مسجد کے گندہ ہو جانے کا  
 ڈر ہے اگر جنبی کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد میں جانا چاہے تو اس  
 لئے وضو کر کے مسجد میں بقدر غسل کی مدت کے ٹھہرنا بھی جائز ہے  
 لیکن اولیٰ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنابت کا تیمم بھی کر لیا جائے اسی  
 طرح اگر پانی مسجد کے کنویں ہی سے دستیاب ہو تو تیمم کر کے کنویں تک



اذا وصل اليها-

**فصل في الاصرات فيما كان منها من اشاد**  
 الاشعار المتعقبة من الملاهي على ضربين مباح  
 ومخطور فالمباح ما لا يخف فيه والمخطور  
 ما كان فيه سخف فاما ما يتضمن الملاهي  
 فمخطور سواء خلا عن السخف او قارن السخف  
 الا انه اذا قارنه سخف حصل الخطر لعلتين  
 ويكره قراءة القرآن بالالحان المشبهة بصوت  
 الاغاني المطربة اعظاما لها وتنزيها اولاد  
 الغالب من ذلك اخراج الكلام عن سنته  
 واسقاط الاطالة والهمز في موضعه واطالة  
 المقصور وقصر الممدود وادغام الحروف ولان  
 ثمرة القرآن خشية الله عز وجل وتحذير  
 عند سماع مواعظهم والاعتبار ببراهينهم و  
 قصصهم وامثالهم والتشويق الى وعد الله وذلك  
 يزول بطيب سماعه قال الله عز وجل انما  
 المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت  
 قلوبهم واذا تلايت عليهم انبتهم زادتهم  
 ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى افلا  
 يتدبرون القرآن وقوله جل وعلا ليتدبروا  
 آياته وقوله تعالى واذا سمعوا ما انزل  
 الى الرسول ترمي اعينهم تفيض من الدمع  
 مما عرفوا من الحق والالحان المطربة تنزل  
 بين ذلك فكرة لا حيل ذلك ولا يسافر  
 بالمصحف الى اهل الحرب حتى لا يبالوا منه

جائے پھر وہاں پہنچ کر غسل کرے۔

**الحان وسمرا**

بیہودہ ہاتھوں اور لغویات سے محفوظ اشعار پر  
 سے جو سخن پیدا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں مباح اور حرام ترنم سے  
 ان اشعار کا پڑھنا مباح ہے جن میں چھپورا پن اور خفت نہ ہو اور  
 ان اشعار کا پڑھنا منع ہے جن میں چھپورا پن ہو لیکن جن اشعار میں  
 لہو و لعب ہو ان کا پڑھنا بھی منع ہے خواہ ان میں چھپورا پن ہو  
 یا نہ ہو اگر اس لہو و لعب والے اشعار میں چھپورا پن بھی ہو تو دو وجہ  
 سے ان کا پڑھنا منع ہے۔

قرآن حکیم کو ترنم کے ساتھ طرب انگیز گیتوں جیسے لہجوں میں پڑھنا  
 مکروہ ہے تاکہ اس کی شان عظمت اور شان تزیید برقرار رہے یا اس لئے  
 بھی کہ عموماً اس طرح پڑھنے سے قرآن پاک کو اس کے نہج سے لگانا  
 بیجا ہے جیسے مد والے ہمزہ کو گرانہ پڑھنا ہے اور مقصور کو محدود اور  
 محدود کو مقصور کرنا پڑتا ہے اور کہیں حرفوں کو مدغم کرنا پڑتا ہے۔  
 علاوہ ازیں قرآن حکیم کا ثمرہ اور اس کی غرض وغایت اللہ کا خوف  
 پیدا کرنا ہے اور اس کے مواعظ سن کر ڈر کر محتاط رہنا ہے اور اسکی  
 دلیلوں، قصوں اور مثالوں سے نصیحت حاصل کرنی اور عبرت پکڑنی  
 ہے اور اللہ کے وعدوں کی طرف شوق و ذوق پیدا کرنا ہے اور یہ  
 تمام مقاصد قرآن کو گیتوں کی طرح پڑھنے سے فوت ہو جاتے ہیں  
 فرمایا، انما المؤمنون الخ مؤمن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر  
 کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں انہیں  
 پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان بڑھادیتی ہیں اور وہ اپنے رب سے  
 بھروسہ رکھتے ہیں (۲) کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے دسہ تاکہ لوگ  
 اس کی آیتوں میں غور و فکر سے کام لیں (۲) اور یہ لوگ جب وہ کلام سنتے  
 ہیں جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو  
 جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور ضلکے طرب انگیز ترنم



ولیس تخفوا بجرمتہ ولا یستمع الی اصوات الاجنبیا  
 من شواہب النساء لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 قال التبیح للرجال والتصفیق للنساء هذا اذا  
 ناب المصلی نائب فی صلوتہ فکیف بالشعر  
 والغزل والامور المہیجۃ لطباع الناس من  
 ذکر صفات العشاق والمعشوقین ودقائق  
 صفات المحبۃ والمیل والصفات الملتہیات  
 التي تشوق النفس الی سماعها فتہیج روحی  
 السماع وتثیر طبعہ الی المحارم فلا یجوز  
 لاحد سماع ذلك وان قال قائل انی اسمعہا  
 علی معان اسلم فیہا عند اللہ تعالیٰ کذباہ  
 لان الشرع لم یفرق بین ذلك ولوجاز لاحد  
 جاز للانبیاء علیہم السلام ولو کان ذلك  
 عذرا لجزا سماع القیان لمن یدعی انہ لا  
 یطربہ وشرب المسکر لمن ادعی انہ ما یشکرہ  
 فلو قال عادی انی متی شربت الخمر انکففت  
 عن الحرام لم یجوز لہ ولو قال انی شہدت المرء  
 والاجنبیات وخلوت بہما اعتبرت فی حسنہم  
 لم یجز لہ ذلك بل لقول ترک ذلك واجب  
 والاعتبار لغير المعمرات اکثر من ذلك و  
 انما ہذا طریقۃ من اراد تناول الحرام بطریق  
 اللہ عزوجل فیرکب ہواہ فلا نسلم لامحابہا  
 ولا نلتفت الیہم قال اللہ عزوجل قل للمؤمنین  
 لیغضوا من البصار ہم ویحفظوا فروجہم ذلك  
 ازکی لہم فمن قال النظر ازکی کان مکذبا للقرآن

اور ترنم مذکورہ بالا تمام مقاصد میں شامل ہیں اس لئے مکروہ ہیں۔

اہل حرب کی طرف قرآن لیکر سفر نہ کرو ایسا نہ ہو کہ وہ کافروں کے ہاتھ میں  
 پڑ جائے اور وہ اس کی بے ادبی کریں، اجنبی نوجوان عورتوں کی آوازوں کی  
 طرف کان نہ لگاؤ کیونکہ رحمت عالم صلعم نے فرمایا مردوں کے لئے تسبیح ہے  
 اور عورتوں کے لئے سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر مارنا ہے یہ اس لئے  
 کہ عورت کی آواز سن کر نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے پھر بھلا اشعار وغریب  
 اور شہوت انگیز امور جیسے عاشق و معشوق کے تذکرے، محبت و شوق  
 کی باریک بیجان انگیز باتیں اور طبیعت کی شوق کی باتیں جن کے سننے کی طرف  
 دل بصد شوق و تمنا مائل رہتا ہے، کیا کچھ خلل نہ ڈالیں گے۔ بالآخر سماع کے  
 محرکات جوش میں آئیں گے اور طبیعت کو حرام کاموں کی طرف کھینچ کر لے  
 جائیں گے لہذا اس طرح کا سماع حرام ہے اور کسی کے لئے بھی جائز نہیں۔  
 اگر کوئی کہے کہ میں قوالی وغیرہ اپنی حقیقی محبت الہی کو بظہانے کے لئے  
 سنتا ہوں اور اس نیت سے سنتا ہوں جس کی رو سے میں اللہ کے علم مذکورہ بالا  
 گناہوں سے بری ہوں تو ہم اسکی بات جھٹلا دیں گے کیونکہ شریعت مطہرہ نے  
 سماع کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں فرمائی اگر کسی کے لئے جائز ہوتا تو  
 انبیائے کرام کے لئے بدرجہ اولیٰ جائز ہوتا اور حکم ظاہر پر لگایا جاتا ہے۔  
 بالفرض اگر ہم یہ عذر مان لیں تو پھر اسکی رو سے گانے سننے بھی جائز ہو جائے  
 ہیں اگر گانے سننے والے یہ عذر کریں کہ ہم ان کے سننے سے وجد و طرب میں  
 نہیں آتے بلکہ ہم انہیں اللہ کی محبت پر محمول کرتے ہیں اور ان کے لئے شراب  
 پینے بھی جو یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں شراب محض نہیں کرتی اگر شرابی کہے کہ میری  
 عادت ہے کہ میں شراب پی کر حرام قول و فعل سے باز رہتا ہوں تو اس کی  
 اس بات سے اس کے لئے شراب جائز نہیں ہوگی، اگر کوئی کہے میں خوبصورت  
 اور نازک اندام بچوں کو اور حسین اجنبی درشیزاؤں کو دیکھ کر اور ان کے  
 حسن و جمال سے عبرت حاصل کرتا ہوں تو اس عبرت کی بنا پر ایسے ایسا کرنا  
 جائز نہیں ہوگا بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس کا چھوڑنا واجب ہے کیونکہ



ویکرة الذئب والنباحه فاما البکاء  
على الميت فغير مکروه۔

نامحرموں کے ساتھ اور حسین بچوں کے ساتھ خلوت کرنا ان کے حسن و جمال  
عبرت حاصل کرنا حرام کاموں سے زیادہ سنگین ہے یہ طریقہ وہی اختیار کیا

کرتا ہے جو دین کو بہانہ بنا کر حرام کاموں کا ارتکاب کیا کرتا ہے اور ٹٹی کی آڑ میں شکار کھیلا کرتا ہے اور من مانی کیا کرتا ہے ہم ان روسیاء کی باتیں نہیں  
مانتے اور نہ ان سے منہ لگاتے ہیں حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا: اے محمد! آپ مومنوں سے فرمادیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت  
کریں یہ نیچی نگاہیں انہیں خوب پاک کرنے والی ہیں پھر اگر کوئی کہے کہ عورتوں کے دیکھنے سے ہمارے اندر عصمت آتی ہے تو وہ جھوٹا ہے اور قرآن  
پاک کی تکذیب کرتا ہے، مردوں پر فریادوں کو نہ کرنا کہ وہ ہے البتہ آنکھوں سے روٹنا مکروہ نہیں۔

فصل فی الإذنی فی قتل الحيوان ما یباح

منه وما لا یباح فمن رأى شیئاً من الحیات  
فی منزله فلیؤذنه ثلاثاً فان بداله فلیقتله و  
اما فی الصحاری فیجوز قتله من غیر ایدان  
و كذلك الا بتره و قصیر الذنب و ذی الطفتین

الذی فی ظہره خط اسود و قبیل له شعرات سوداوات

بین عینیہ فانہ یقتله بلا ایدان و صفة

الایذان ان یقول امض لسلامک لا تؤذینا قد

جاء فی ذلک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

سئل عن حیات البیوت فقال اذا رایتم منہم

شیئاً فی مساکنکم فقولوا انشدکم العهد الذی

اخذ علیکم نوح انشدکم العهد الذی اخذ علیکم

سلیمان ان لا تؤذونا فان عدنا فاقتلوهن

وما روی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اقتلوا الحیات کلہن فمن خاف نارهن فلیس

منی و فی حدیث سالم بن عبد اللہ بن عمرو

قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال

اقتلوا الحیات و ذی الطفتین و الا بتر فانہما

کن جانوروں کا مارنا جائز ہے اور کن کا نہیں | اگر تم اپنے گھروں

کوئی سانپ دیکھو تو اسے تین دن یہ کہہ کر یہاں سے چلا جاؤ: شنبہ کہو پھر

اگر وہ تین دن کے بعد بھی ظاہر ہو تو اسے بلا اطلاع کے مار ڈالو جب تک

میں بلا اطلاع ہی کے مارنا جائز ہے اسی طرح دم کٹے اور چھوٹی دم والے

سانپ کو اور جس کی پشت پر سیاہ خط ہو یا دونوں آنکھوں کے درمیان

چند سیاہ بال ہوں اسے بھی بلا اطلاع کے قتل کر ڈالو۔ اطلاع اس طرح

دی جائے سلامتی سے یہیں ایذا دے لیتر چلا جائی صلعم سے گھروں کے

سانپوں کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں کوئی سانپ

دیکھو تو کہو میں تمہیں حضرت نوح والے عہد کی قسم دیتا ہوں اور حضرت

سلیمان کے عہد کی قسم دیتا ہوں کہ تم نہیں ایذا نہ پہنچاؤ اس کے بعد اگر وہ

پھر آئیں تو انہیں قتل کر دو۔ یہی حضرت ابن مسعود والی حدیث کہ رسول اللہ

صلعم نے فرمایا تمام سانپ مار ڈالو اور جو ان کے انتقام سے ڈرے گا

مجھ سے نہیں، سالم بن ابن عمر والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلعم نے

فرمایا: سانپوں کو اور دو خط یا نقطہ جگہ کے سانپ اور دم بریدہ سانپ کو

مار ڈالو کیونکہ وہ اندھا کر دیتے ہیں اور گل گرد دیتے ہیں سالم کہتے ہیں عبد اللہ

جو سانپ پاتے اسی کو قتل کر ڈالتے تھے ایک دن آپ کو البلبا نے دیکھ لیا کہ

سانپ مارنا چاہتے ہیں تو فرمایا رسول اللہ صلعم نے گھر والے سانپوں کو مارنے سے

منع فرمایا ہے۔ گھر والے سانپوں کو مارنے کی ممانعت کی دلیل البلساب کی

روایت ہے فرماتے ہیں: میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس آیا پھر اس نے



یطسان البصر ویستطان الحبل قال وكان  
عبد الله رضي يقتل كل حيّة وجد هانا بصرا  
الولبانية رضي وهو يطار دحيّة فقال إنه قد نهى  
عن ذوات البيوت والاصل في النهي عن ذوات  
البيوت ما روى عن ابي السائب قال اتيت ابا سعيد  
الخدري رضي فبينما انا جالس عنده سمعت تحت  
سريره تحريك شئ فنظرت فاذا حيّة فقلت  
فقال ابو سعيد ما بالك قلت حيّة ههنا قال  
ماذا تريد قلت قلتها فاشارة لي بيت في داره  
تلقاء بيته فقال ان ابن عملي كان في  
هذا البيت فلما كان يوم الاحزاب استاذن  
الي اهله وكان حديث العهد بعرس فاذن له  
رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر ان يذهب  
بسلاحه فاتي داره فوجد امراته قائمة  
على باب البيت فاشارة اليها بالرمح فقالت  
لا تعجل حتى تنظر ما اخرجني فدخل البيت  
فاذا حيّة منكورة قطعنها بالرمح ثم خرج بها  
في الرحم تضطرب قال فلما ادري ايها كان اسوع  
موتا الرجل او الحيّة فاتي قومه رسول الله صلى  
عليه وسلم فقالوا ادع الله تعالى ان يرحم  
صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
استغفروا لصاحبكم ثم قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم ان نفراً من الجن اسلموا بالمدينة  
فاذا رايتم احداً منهم فخذوا ثلاث مرات  
ثمان بد الكعبان ان تحذروا فاقتلوا

حال میں کہ آپ کے پاس سریر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے تخت کے  
نیچے کسی چیز کی سرسراہٹ محسوس کی نیچے جھانک کر دیکھا تو سانپ تھا  
میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور ابو سعید نے پوچھا: کیا بات ہے؟ میں نے کہا  
یہاں سانپ ہے پوچھا: تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مارنا چاہتا ہوں  
ابو سعید نے اپنے گھر کے سامنے محلہ کے ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا  
کہ اس گھر میں میرا ایک بھتیجا بنا کر تھا اس نے جنگ احزاب کے دن  
اپنے گھر آنے کی اجازت مانگی تھی شادی ہوئی تھی آپ نے اسے اجازت دے  
اور تاکید کر دی کہ اسلحہ ساتھ رکھنا وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دولہن  
دروازے کے باہر کھڑی ہے پیر دیکھ کر (غیرت میں آ کر) اس نے سہری  
کی طرف نیزہ بڑھایا وہ بے چاری بولی: جلدی نہ کرو گھر میں جا کر دیکھو تو  
لو کہ مجھے کس نے گھر سے نکالا ہے چنانچہ وہ گھر میں گیا تو اس نے ایک  
خطرناک سانپ دیکھا بالآخر اس نے سانپ کو نیزہ میں بندھ لیا اور اسے  
نیزہ میں لیکر باہر آیا سانپ پھر پھڑپھڑاتا تھا فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں  
کہ پہلے کون مرا آدمی یا سانپ۔ پھر اس کی قوم نے رسول اللہ صلعم کے  
پاس آ کر کہا آپ اللہ سے دعا فرمادیں کہ حق تعالیٰ ہمارا آدمی زندہ فرما کر واپس  
کر دے فرمایا: اپنے آدمی کے لئے دعائے مغفرت کرو پھر آپ نے فرمایا:  
جنوں کی ایک جماعت مدینہ میں مشرف بہ اسلام ہو گئی ہے اگر تم ان میں سے کسی  
کو دیکھو تو اسے تین بار ڈراؤ لیکن اگر پھر بھی وہ ظاہر ہو تو اسے قتل کر ڈالو۔  
اسی حدیث کے ایک لفظ میں ہے اسے تین بار خبردار کرو اگر پھر بھی وہ ظاہر ہو  
اسے مار دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔

گر گٹ کا مارنا بھی جائز ہے کیونکہ عامر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ  
رسول اللہ صلعم نے گر گٹ مارنے کا حکم فرمایا اور اسے فولیق (چھوٹا نافرمان)  
کہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلعم نے فرمایا: گر گٹ مارنے والے کو  
پہلی ضرب میں ستر نیکیاں ملیں گی یعنی پہلی ضرب میں مارنے والے کے لئے ستر نیکیاں  
ہیں۔ چھوٹیوں کو مارنا بھی مکروہ ہے ہاں اگر سخت ترین تکلیف کا باعث ہو



لجذ الثلث وروی فی بعض الالفاظ فلیؤذنه  
 ثلاث فان بد الہ فلیقتله فانہ شیطان و  
 یجوز قتل الاوزاع لما روی عاصم بن سعید  
 عن امیہ رضا قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم بقتل الوزغ وسماء فولسقا وعن ابی  
 ہریرۃ رضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال  
 ان فی اول ضربۃ سبعین حسنة یعنی من  
 قتلہا باول ضربۃ کان لہ ذلک ویکرہ قتل  
 النملة الا من اذیۃ شدیدۃ لما روی ابو ہریرۃ  
 رضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نملة  
 فرصت نبیا من الانبیاء فامر بخربۃ النمل  
 فاحرقت فاوحی اللہ تعالیٰ الیہ ان قرحتک  
 نملة اهلکت امة من الامة تسع ویکرہ  
 قتل الضفدع لما روی عن عبد الرحمن بن  
 عثمان قال انه سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 من ضفدع یجعلہا فی دواء فنہا النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم عن قتلہا ویکرہ قتل جمیع ما یباح  
 قتله بالنار من القمل والبق والبراغیث والنمل  
 لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعدب بالنار الا  
 رب النار ویجوز قتل کل شیء یوزی من الحیوانات  
 وان لم تکن توجد منہ الاذیۃ لعد ما کان  
 مخلوقا علی صفة لوزی لان من طبعہ الاذیۃ و  
 ذلک کالحیۃ التی ذکرنا صفتہا والعقرب والکلب  
 العقور والفارۃ وغیر ذلک وکذا لک الکلب  
 الاسود البہیم لانہ شیطان وکل حیوان یجد

تذخیر کیونکہ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہما بیان ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: ایک چوٹی  
 نے کسی نبی کے کاٹ کھایا تھا بالآخر آپ کے حکم سے اس کا چھتہ جلادیا گیا۔  
 اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ تم کو ایک چوٹی نے کاٹا تھا لیکن تم نے  
 ایک جماعت کو جو تسبیح خواں تھی جلادالا۔ مینڈک کا مارنا بھی مکروہ ہے  
 کیونکہ عبد الرحمن بن عثمان کا بیان ہے کہ نبی صلعم سے دو امیں ڈالنے کے لئے  
 مینڈک کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے اس کے مارنے سے منع فرمایا۔  
 تمام ان جانوروں کو جن کو مارنا جائز ہے آگ میں جلانا مکروہ ہے جیسے  
 جوں، لیسو، مچھرا، ڈالسن اور چوٹی وغیرہ کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا: آگ  
 سے آگ کا خالق ہی عذاب دینے کا حقدار ہے۔

بہر موزی جانور کا مارنا جائز ہے اگرچہ اس سے اذیت نہ پہنچی ہو کیونکہ  
 اس کی طبیعت کا مقتضی ایذا ہے اور اس کی گھٹی میں نیش زنی ہے جیسے  
 وہ سانپ جن کو ہم نے خطرناک بتایا ہے اور بچھو اور دیوانہ کتا اور چوہا  
 وغیرہ، اسی حکم میں سیاہ فام کتا ہے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

اگر تم کسی جانور کو پیا سا پاؤ اور اسے پانی پلا دو تو تم کو ثواب ملے گا  
 کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر گرم جگر میں اجر ہے۔  
 بشرطیکہ وہ موزی نہ ہو، موزی جانور کو کبھی پانی نہ پلاؤ کیونکہ اس طرح  
 اس کی نشوونما ہوگی اور تم اس کی ایذا میں احنافہ کرو گے۔ اور یہ جائز  
 نہیں۔

کتے کو پالنا اور اسے گھر میں رکھنا روا نہیں، ان کی کھیتی کے لئے یا کھانے  
 کے لئے یا بکریوں وغیرہ کی رکھوالی کے لئے کتے کا پالنا جائز ہے۔  
 کھاٹ کھانے والے کتے کو گھر میں رکھنا یا چھوڑ دینا ایک قول  
 کی رو سے حرام ہے اور ایک قول کی رو سے اس کا قتل واجب  
 ہے تاکہ لوگ اس کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ ایک حدیث میں  
 آتا ہے: جو کتے کو شکار یا جانوروں کی رکھوالی کے علاوہ پالے  
 تو اس کا اجر روزانہ دو قیراط کم ہو جاتا ہے۔



الناس عطشاناً اثیب علی استقائہ الماء لقرولہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم فی کل کبد حراً و اجر هذا اذا لم یکن موزیاً  
 و اما السودی فلا یسقیہ فان ذلک تنمیتہ و تکثیر الاذیۃ  
 و ذلک لا یجوز فلا یجوز اتعاذ الکلب و تربیتہ  
 فی دارہ الا للحرث او الصید او للماشیۃ و ان کان  
 عقوراً حرم ترکہ قولاً واحداً و وجب قتله لیدفع  
 شرہ عن الناس و قد ورد فی بعض الاحادیث من  
 اقتنی کلبا بخر صید او ماشیۃ نقص من اجرہ  
 کل یوم قیر اطان و لا یجوز تکلیف الحيوان البھیۃ  
 فوق طاقتہ فی الحمل و الحرث و السفر و منعم ما یفیدہ  
 من العلف فان فعل ذلک اثم و یکرہ لہ اطعامہ  
 فوق طاقتہ و اکراهہ علی اکل ما اتخذہ الناس  
 عادۃ لاجل التسمین و یکرہ الاکل من کسب الحجام  
 لان فی ذلک دناۃ و قد قال صلی اللہ علیہ وسلم  
 کسب الحجام خبیث و قد حرم بعض اصحابنا لان  
 ذلک مروی عن الامام احمد بن حنبل رحمہ

**فصل** و بر الوالدین واجب قال اللہ عزوجل  
 اما یبلغن عندک الکبر احدہما و کلینہما  
 فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما و قل لہما قولا  
 کریمیا و قال تعالی و صاحبہما فی الدنیا معروفاً  
 و قال جل و علا اشکر لی و لو الدبک الی المصیر  
 و روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال من اصبح  
 مسخط الوالدیہ اصبح ولہ بابان من النار و  
 من امسئ مسخط الوالدیہ امسئ ولہ بابان  
 من النار و ان کان واحداً فواحد و ان

طاقت سے زیادہ چوپایوں کو تکلیف دینا جائز نہیں کہ زیادہ  
 بوجھ لا دیا جائے، کھیتی کے کام میں بہت زیادہ استعمال  
 کیا جائے۔ یا طاقت سے زیادہ نسل کشی کا کام لیا جائے اور  
 جانور کو بقدر کفایت چارہ نہ دیا جائے، اگر کوئی جانور  
 پر اس قسم کا ظلم کرے گا تو گنہ گار ہوگا۔

اسی طرح بہت زیادہ کھلانا بھی مکروہ ہے اور جانور  
 کو موٹا کرنے کے لئے جبریہ کھلانا بھی مکروہ ہے، جیسا کہ  
 لوگوں کی عادت ہے۔

پھینے لگانے کی اجرت سے کھانا مکروہ ہے کیونکہ اس میں  
 کمینگی ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے  
 کہ پھینے لگانے والے کی کمائی گندمی ہے۔ ہمارے بعض علماء  
 نے تو اس پیشہ کو حرام ہی قرار دے دیا ہے۔ کیونکہ امام  
 احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت منقول ہے۔

ماں باپ کی فرماں برداری | ماں باپ کی فرماں برداری واجب  
 ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: اگر تیرے پاس تیرے والدین میں سے  
 کوئی بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں منہ  
 سے اُف نہ کہہ اور نہ انہیں جھڑک اور ان سے شفقت سے  
 بات کہہ، دوسری جگہ فرمایا: اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ  
 کے مطابق رہ، تیسری جگہ فرمایا: میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ  
 کا بھی، لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا  
 جس نے اپنے ماں باپ کے ناراض ہونے کی حالت میں صبح کی تو اس  
 حال میں صبح کی کہ اس کے جہنم کے دو دروازے کھل گئے ہیں اور  
 جس نے ماں باپ کے ناراض ہونے کی حالت میں شام کی تو اس  
 حال میں شام کی کہ اس کے لئے جہنم کے دو دروازے کھل گئے ہیں  
 اور اگر ایک ناراض ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اگرچہ والدین نے



ظلماء وان ظلماء وان ظلماء وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاء الرب في رضاء الوالدین وسخطه في سخط الوالدین وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اريد الجهاد فقال لك الابوان قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيفهما فجاهد وصفت البران تكفيهما ما يحتاجان اليه وتكف عنهما الا ذم وتدريها مداراة الصغير ولا تنضجر منهما ولا من حراجهما وتجعل خدمتهما بدلا من كثير ثوابك من الصلوة والصيام وتستغفر لهما عقيب صلواتك ولا تخرجهما الى التعب وتحمل اذا هما ولا تمل صونك على اصرائهما ولا تخالفهما فيما لا يكون فيه حرف للشرع معناه لا يكون في ذلك ترك الفرائض كحجة الاسلام والصلوة الخمس والزكاة والكفارة والنذر وان لا يكون في ذلك ارتكاب المحرم من الزام المناهي من الزنا وشرب الخمر والقتل والقتل والقتل واخذ المال كالغصب والسرقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله وقد قال تعالى وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فهذا الحديث

ظلم کیا ہو رہیں ہاں یہ جملہ دہرایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والدین کی رضائیں رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا: میرا جہاد کے لئے ارادہ ہے فرمایا: کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا: ہاں ہیں فرمایا: پھر تو انہیں میں جہاد کرنا کی غرض سے کر کے جہاد کا ثواب لوٹ،

والدین کی فرماں برداری کیا ہے؟ ماں باپ کی فرماں برداری یہ ہے کہ تم ان کی ضرورتیں فراہم کرو، ان کی تکلیفیں دور کرنے کی ان تھک کوشش کرو اور بچوں کی طرح ان کی خاطر و مدارات کرو ان سے منہ نہ بناؤ، بیزار نہ ہو اور ان کی ضرورتوں سے دل تنگ نہ ہو اور کثرت لوافل کے بجائے اپنے زیادہ تر اوقات ان کی خدمات میں صرف کرو اور ہر نماز کے بعد ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہو انہیں صدمہ نہ پہنچاؤ، ان کی ایذا برداشت کر لو، ان کی باتوں کا جواب جھنجھلا کر اور سختی سے نہ دو ان کی آواز پر آواز بلند نہ کرو، ادب کا لحاظ رکھو اور شرع کے مطابق باتوں میں ان کے خلاف نہ کرو ہاں شرع کے خلاف ان کی بات نہ مانو مثلاً اگر وہ ترک فرائض، ریح نہ کرو، بیچگانہ نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، کفارہ ادا نہ کرو، منت پوری نہ کرو، کا حکم کہیں یا اگر ان کے حکم سے حرام کاموں کا ارتکاب لازم آتا ہو تو ان کا حکم نہ مانو جیسے زنا، شراب، قتل، الزام اور غضب و چوری وغیرہ کا حکم۔ کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خالق کے گناہوں میں مخلوق کی اطاعت نہیں خود حق تعالیٰ شانہ نے قرآن حکیم میں فرمایا: اگر وہ تجھے اس بات پر آمادہ کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا حکم نہ مان اور دنیا میں دستور کے مطابق ان کا ساتھ دے۔ لہذا یہ حدیث اور یہ آیت ہر اس شخص کی ترک طاعت میں عام ہے جو



والایة عام فی ترک طاعة کل من امر بعبیة  
 اللہ او ترک طاعتہ ومذکور ذلک عن الامام  
 احمد فی روایة ابی طالب فی الرجل الذی  
 بینہما الوالا من الصلوة فی الجماعة فقال  
 لیس لہما طاعة فی ترک الفرض واما النوافل  
 فیجوز ترکہا لاطاعتہما بل الافضل طاعتہما  
 ومن البر لہما ان تصل من وصلہما وتہجر من  
 ہجرہما وتغضب لہما کما تغضب لنفسک فی  
 الموت والحیاة واذ اثار طبعک فی الغضب  
 علیہما فا ذکر تربیتہما وسرہما واشفاقہما  
 وتعبہما وقول اللہ سبحانہ لک وقل لہما قول  
 کریم فان لم تر دعک عن غیظک الرحمة لہما  
 ولا بہما فاعلم انک محروم مسخوط علیک فتب  
 الی اللہ تعالیٰ اذا سکن غضبک ان کنت خالفت  
 امرآ فیہما ولا تسافر سفراً لیس لہما  
 الا بامرہما ولا تفرغ الا ان یتعین علیک باذنہما  
 ولا تفجعہما بنفسک وقد نہی غیرک ان یفجعہما  
 بک فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المفرق  
 بین الوالدۃ والودھا وان طفرت بطعام او شراب  
 فعلیک باثیرہما باطیبہ فطال ما اثارک وجاعا  
 واشبعاک وسہرا و لوماک ترشد بذلک  
 انشاء اللہ تعالیٰ۔

**فصل فیما یستحب من الکنی والاسماء وما  
 یکرہ منها ینع الانسان ان یشی ولدلا و  
 یکتبہ باسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکتبہ**

جو اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی اطاعت چھوڑنے کی کسی کو ترغیب دے  
 ابو طالب کی روایت میں ہے کہ امام احمد سے ایک شخص کے بارے میں  
 پوچھا گیا جسے اس کے ماں باپ جماعت سے نماز پڑھنے کو منع کرتے  
 تھے آپ نے جواب دیا کہ ترک فرض میں ان کی اطاعت نہیں البتہ  
 ترک نوافل میں ماں باپ کی اطاعت جائز ہے بلکہ افضل ہے۔

ماں باپ کی فرماں برداری میں یہ بھی داخل ہے کہ جن سے وہ ملتے ہیں  
 تم بھی ان سے ملو اور جن سے نہیں ملتے تم بھی ان سے نہ ملو اور جیسے اپنے  
 لئے غصہ کا اظہار کرتے ہو ان کے لئے بھی دوسروں پر غصہ کا اظہار کرو  
 اگر ماں باپ پر تم کو غصہ آئے تو اپنے بچپن کو اور ان کی تربیت کو اور تربیت کے  
 سلسلے میں ان کے راتوں کو جاگنے اور ان کی تکلیفوں کو یاد کرو اور حق تعالیٰ سے  
 کہو "فرمان" ان سے نرمی سے بات کرو فوراً دماغ میں لاؤ اگر یہ چیزیں تمہاری  
 غصہ ٹھنڈا نہ کریں اور ان کی نرمی اور لجاجت اور تمہارا ابن کی بیچارگی اور  
 در ماندگی پر ترس تمہیں ان پر غصہ سے باز نہ رکھے تو یقیناً تم پر نصیب  
 ہو اور تم پر اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہے پھر جب تمہارا غصہ جاتا رہے تو  
 فوراً اللہ سے پر خلوص توبہ کرو اگر ماں باپ کے سلسلے میں تم نے اللہ کی مخالفت کی  
 ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی غیر واجب سفر نہ کرو اور سفر کی اسی وقت تیار کی  
 کرو جب ان کی اجازت سے سفر تمہارے لئے متعین ہو جائے خبردار اپنی ذات سے  
 انہیں دکھ نہ پہنچاؤ جبکہ دوسروں کو بھی تمہاری خاطر انہیں دکھ نہ پہنچانے سے روک دیا  
 گیا ہے چنانچہ نبی صلعم نے فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہے جو ماں کے اور اسکی  
 کے درمیان جدائی پیدا کرے اگر تم کو کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں بیسرا آئیں تو  
 ان میں سے بہترین عمدہ چیزوں کے لئے ماں باپ کو ترجیح دو کیونکہ گزشتہ  
 طویل زمانہ تک انہوں نے تمہیں ترجیح دی اور خود بھوکے رہ کر تم کو شکم سیر کیا  
 اور خود جاگ کر تم کو تھپک تھپک کر سلا یا غرضیکہ اگر تم ان تمام باتوں میں  
 میں غور کرو گے تو انشاء اللہ صبح راہ پا لو گے۔

مکروہ و مستحب کتبتیں اور نام لوگوں کو روکا جاتا تھا کہ اپنے بچہ کا



و يجوز افراد احدهما عن الآخر وقد روى  
 عن امام احمد رضا رواية اخرى كراهة في  
 الجملة يعني الجمع والافراد وروى عنه الجواز  
 في الجملة والدليل على جواز التسمية باسم النبي  
 دون كنيته ما روى النس بن مالك والوهري في  
 عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سموا باسمي  
 ولا تكثروا بكنيتي والدليل على جواز الجمع بينهما  
 ما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت رجاءت امرأة  
 الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله  
 اني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته بابي  
 القاسم فذكر لي انك تكره ذلك فقال رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم ما الذي احل اسمي  
 وحرمة كنيتي او ما الذي حرم كنيتي واحل  
 اسمي ويكره من الكنى البرجي والوعيسي و  
 يكره ان يسمي عبدا بافم ونجاح وليسار  
 ونافع ورباح وابي يحيى وبركة وبرة وحزن  
 وعاصية لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان  
 عشت لانهم ان تسمى العبيد ليسارا وبركة  
 ادر باحا و نجاحا و افلم ويكره من الالتقا  
 والاسماء ما يوازي اسماء الله تعالى كملك  
 الملوك وشاهنشاه و ماشاكل ذلك لان  
 ذلك عادة الفرس ويكره التسمي بالاسماء  
 التي لا تليق الا بالله سبحانه وتعالى وتقدس  
 كقدوس واله وخالق ومهيمن قال الله تعالى

نام محمد اور کنیت ابو القاسم نہ رکھو مال دونوں میں سے ایک کا رکھنا جائز  
 ہے اگر محمد نام ہے تو ابو القاسم کنیت نہ ہو اور اگر ابو القاسم کنیت ہے تو  
 محمد نام نہ ہو۔ ایک روایت میں امام احمد سے مطلق کرنا بہت آتی ہے یعنی  
 دونوں کا جمع کرنا بھی منع ہے اور الگ الگ رکھنا بھی منع ہے اور آپ سے  
 مطلق جواز کی بھی ایک روایت ہے کنیت کے بغیر نبی صلعم کے نام رکھنے کی  
 جواز کی دلیل نبی صلعم سے النس و ابو ہریرہ کی روایتیں ہیں کہ نبی صلعم نے  
 فرمایا: میرا نام رکھ لو اور میری کنیت نہ رکھو۔ اور دونوں کے جمع کے  
 جواز کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے فرماتی ہیں: ایک عورت نے  
 نبی صلعم کے پاس آ کر کہا: یا رسول اللہ میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے  
 میں نے اس کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تجویز کی ہے پھر مجھ سے ذکر  
 کیا گیا کہ آپ اسے مکروہ سمجھتے ہیں، فرمایا: وہ کیا چیز ہے جس نے  
 میرا نام حلال کر دیا اور میری کنیت حرام کر دی یا کس نے میری کنیت  
 حرام کر دی اور میرا نام حلال کر دیا۔

الوجی اور ابو عیسیٰ کنیت رکھنا مکروہ ہے، اسی طرح بچوں کے نام افلح،  
 نجاح، ایسار، نافع، رباح، الوجی، برکت، برہ، حزان اور عاصیہ  
 وغیرہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ  
 صلعم نے فرمایا: اگر میں زندہ رہا تو کہہ دوں گا کہ وہ اپنے بچوں کے  
 نام یسار، یا برکت، یا رباح، یا نجاح، یا افلح نہ رکھیں۔

اسی طرح وہ القاب و اسماء مکروہ ہیں جو اللہ کے ناموں کے  
 موافق ہوں جیسے ملک الملوک، شہنشاہ وغیرہ کیونکہ یہ پارسیوں  
 کی عادت ہے۔

اسی طرح وہ نام رکھنے مکروہ ہیں جو حق تعالیٰ ہی کی شان کے لائق  
 ہیں جیسے قدوس، اله، خالق اور مہین۔ حق تعالیٰ نے فرمایا:۔

مشرکوں نے اللہ کے شریک بنائے آپ فرمادیں ان کے نام رکھو  
 بعض مفسرین کہتے ہیں یعنی میرے ناموں پر ان کے نام رکھو اور غور کریں



وجعلوا لله شركاء قل سموهم قال بعض المفسرين قل  
سموهم باسماءى فانظروا ذلك هل تليق بهم  
ويجرم على كل واحد ان يلقب اخاه او  
عبدا بلقب يكره لان الله تعالى نهى عن ذلك  
فقال عز وجل ولا تنازروا باللقاب وسماء  
فسوقا وليستحب ان تدعو اخاك باحب اسمائه  
اليه۔

### فصل في لئيم من غضب ان كان قائما

جلس وان كان جالسا اضجع وان مس  
الماء البار وسكن غضبه لما روى الحسن رض  
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغضب  
جيرة تنزقد في قلب ابن آدم فاذا وجد احدكم  
ذلك فان كان قائما فليقع وان كان قاعدا  
فليتكئ ويكره ان يجلس الرجل بين قوم وهم  
في سر غير اذنهم لان النبي صلى الله عليه وسلم  
نهى عن ذلك ويكره الجلوس بين النمل والشمس  
ويكره الاتكاء على يده اليسرى والاضطجاع  
بين المجلس واذا قام من مجلسه لئيم له  
ان يقول كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك  
لا اله الا انت استغفرك والتوب اليك ويكره  
المشي بالنعل في المقابر وليستحب لمن دخلها  
ان يقول اللهم رب هذه الاجساد البالية  
والعظام النخرة التي خرجت من دار الدنيا هي  
بك مومنة صلى على محمد وعلى آل محمد و  
انزل عليهم روحا منك وسلاما مني وليقول

کہ ایسا یہ نام ان کے لائق ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ نام ان کے لائق نہیں اور  
نہ انسان کو لائق ہے کہ ایسے نام رکھے۔

اسی طرح کسی کا اپنے بھائی کو یا غلام کو کسی ایسے لقب سے پکارنا جو اسے  
برا معلوم ہوتا ہو حرام ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے فرمایا  
اور القامت پھینکو ایمان کے بعد برا نام فاسق ہے یعنی مکروہ القاب  
موجب گناہ ہیں، ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنے بھائی کو کسی اچھے  
اور پیارے نام سے پکارو۔

### غصہ دور کرنے کی ترکیب

غصہ میں بھرا ہوا شخص اگر کھڑا ہے  
تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے اور اگر ٹھنڈے  
پانی سے ہاتھ دھو لے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کیونکہ حسن کا بیان ہے کہ  
نبی صلعم نے فرمایا: غصہ ایک چنگاری ہے جو انسان کے دل میں بھڑک اٹھتی  
ہے لہذا اگر کوئی غصہ پائے تو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹ  
لگائے۔

کسی کا بلا اجازت ان لوگوں میں بیٹھنا جو اپنی راز کی باتیں کر رہے ہوں  
مکروہ ہے کیونکہ نبی صلعم نے اس سے منع فرمایا ہے، اسی طرح دھوپ  
چھاؤں میں بیٹھنا مکروہ ہے اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں لیٹنا بھی۔

دعاء کفارہ مجلس | جب تم کسی مجلس سے اٹھو تو کفارہ مجلس پڑھنا  
مستحب ہے کفارہ مجلس کی دعا یہ ہے اے اللہ تو پاک ہے اور تیری تعریف  
میں تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں میں تجھ سے دعائے مغفرت مانگتا ہوں  
اور توبہ کرتا ہوں۔

قبرستان میں جوتے پہن کر چلنا مکروہ ہے اور قبرستان میں جاتے وقت یہ  
دعا پڑھنا مستحب ہے اے ان گلے والے اور بوسیدہ ہڈیوں کے جو دنیا  
سے نکل گئیں اور تجھ پر ایمان رکھتی تھیں، پروردگار! محمد پر اور آل  
محمد پر اپنی رحمتیں بھیج اور ان پر اپنی راحت اور میرا سلام بھیج اور یہ  
بھی۔ اے مسلمانوں کے گھر! السلام علیکم، ہم بھی انشاء اللہ تم سے



السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا انشاء اللہ  
بکم لاحقون لانه مروی ایضاً و اذا زار  
قبراً لم یضع یدہ علیہ ولا یقبلہ فانہ  
عادة الیہود ولا یقعد علیہ ولا یتکئی الیہ ولا  
یدوسہ الا ان یضطر الی ذلک کلہ بل  
یقف عند موضع وقوفہ ان لو کان حیاً و  
یقرا احدی عشرۃ صرۃ قل هو اللہ احد و  
غیرہا من القرآن ویهدی ثواب ذلک لصاحب  
القبر و ہوان یقول اللہم ان کنت قد اذنتی علی  
قراءة ہذہ السورۃ فانی قد اهدیت  
ثواب ہا لصاحب ہذا القبر ثم لیسال اللہ  
حاجتہ وک یکسر عظامہ ولا یدوسہ فان کان  
الجئی الی ذلک واضطر فلیستغفر لصاحب  
القبر و یکرہ الطیرۃ وک یباس بالتفاول و  
لیستحب التواضع لکل ولیستحب توفیر الشیوخ و  
رحمۃ الاطفال و العفو عنہم وک یتراک  
تادیبہم -

**فصل** و یجوز ان یقول الرجل لغيرہ صلی  
علیک و صلی اللہ علی فلان بن فلان لما روی ان  
علیاً رضی قال لعمر رضی صلی اللہ علیک و النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم صلی علی آل  
ابی اوفی -

**فصل** و یکرہ مصافحۃ اهل الذمۃ لہا  
روی ابو ہریرۃ رضی عنہ انہ قال قال رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم لا تصافحوا اهل الذمۃ

منے والے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک روایت سے ثابت ہے۔

اگر کوئی کسی قبر کی زیارت کو جائے تو اس پر ہاتھ نہ رکھے نہ اسے  
چومے کیونکہ یہ یہودیوں کی عادت ہے انہ اس پر بیٹھے انہ اس سے ٹیک  
لگائے اور نہ اس پر چلے یہ اور بات ہے کہ مجبوراً ایسا ہو جائے بلکہ قبر  
کے سامنے اس طرح ادب و احترام سے کھڑا ہو جس طرح قبر والے کی زیارت  
میں اس کے سامنے ادب و احترام سے کھڑا ہوا کرتا تھا اور گیارہ بار  
سورہ اخلاص اور قرآن پاک کی کوئی اور سورت پڑھ کر اس کا ثواب  
قبر والے کی روح کو بطور تحفہ بخش دے۔ بخشنے کی یہ صورت ہے کہ اسطر  
کے اے اللہ اگر آپ نے ان سورتوں کی تلاوت کا مجھے ثواب عطا فرمایا ہے  
تو میں ان کا ثواب اس قبر والے کو ہدیہ کے طور پر بخش دیا۔ پھر حق تعالیٰ سے  
اپنی حاجت کا سوال کرے۔ کوئی ہڈی جو قبرستان میں مل جائے نہ توڑی  
جائے اور نہ اسے ٹھوکہ مار کر چلا جائے اگر بے خبری اور اضطرار کی حالت  
میں ایسا ہو جائے تو صاحب قبر کے لئے دعائے مغفرت مانگی جائے۔

برسی فال ایسا مکروہ ہے اور اچھی فال میں کوئی حرج نہیں۔

ہر شخص سے تواضع اور انکساری سے مناسبت ہے اسی طرح بزرگوں کی  
عزت کہنا اور بچوں سے محبت کرنا اور چھوٹوں کے قصور معاف کرنا منسبت  
ہے لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت نظر انداز نہ کی جائے۔

نبی صلعم کے علاوہ دوسروں پر بھی درود کا جواز صلی اللہ  
علی فلان بن فلان (یعنی حق تعالیٰ فلان پر درود بھیجے) کہنا جائز ہے  
کیونکہ حضرت علی رضی نے حضرت عمر رضی سے فرمایا تھا: آپ پر حق تعالیٰ  
درود نازل فرمائے اور نبی صلعم نے ابواوفی کے بارے میں کہا تھا: اے  
اللہ آل ابواوفی پر درود بھیج۔

ذمی سے مصافحہ کی کراہت ذمیوں سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے

کیونکہ حضرت ابو ہریرۃ رضی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا:  
ذمیوں سے مصافحہ نہ کرو۔



**فصل** والادب فی الدفء ان یدید یدہ  
ویحمد اللہ تعالیٰ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم ثم لیسال حاجتہ ولا ینظر الی السماء فی  
حال دعائہ واذا فرغ مسہ ید یدہ علی وجہہ  
لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
سلوا اللہ بیطون اکفکم۔

**فصل** والتعوذ بالقران جائز لقولہ عزوجل  
فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولہ عزوجل  
قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس  
وما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان  
اذا اثنکی شیئاً قرأ علی نفسه المعوذتین ولفث  
وکان صلی اللہ علیہ وسلم ليقول اعوذ بوجه  
اللہ الکریم وکلماتہ التامات من شر ما  
خلق وذرو وبراء ومن شر کل دابة ربي اخذ  
بناصيتها وكذلك الرقية بالقران وباسماء  
اللہ الحسنى جائزة لقولہ عزوجل ونزل من  
القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال  
تعالیٰ وهذا کتاب انزلناه مبرک قال النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم استرقوا لها فانه لوسق  
القدر شئ لسبقته العین ویرید بہ صلی اللہ علیہ  
وسلم فی حق الحسن والحسین رضی اللہ عنہما۔  
**فصل** ویکتب للمحرم ویعلق علیہ ما  
روی عن الامام احمد بن حنبل رعا انه قال  
حسب فکتب لی من الحسنى لیسم اللہ الرحمن الرحیم  
وباللہ محمد رسول اللہ یا فارکونی برداً وسلاماً

**آداب دعا** دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھ پھیلا لو اور قبل از دعا اللہ  
کی حمد بیان کرو پھر نبی صلعم پر درود بھیجو پھر اپنی ضرورت کا سوال کرو دعا  
کرتے وقت آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ اور ناروغ ہو کر دونوں  
ہاتھ چہرے پر مل لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-  
اللہ سے اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر دعا  
مانگو۔

**استعاذہ (پناہ مانگنا)** قرآن پاک کی تلاوت سے قبل اعوذ باللہ  
من الشیطان الرجیم پڑھنا جائز ہے کیونکہ قرآن حکیم میں ہے اور  
جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو مرد و شیطان سے اللہ کی  
پناہ مانگ لیا کیجیے اور خود قرآن نے استعاذہ کی تعلیم دی ہے فرمایا:  
کہہ دیجیے میں مخلوق کے شر سے صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، کہہ دیجیے میں  
لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، علاوہ ازیں منقول ہے کہ جب نبی  
صلعم قدرے علیل ہوتے تو معوذتین پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے نیز نبی صلعم  
یہ دعا پڑھا کرتے تھے میں اللہ تعالیٰ کی معزز ذات کی اور اس کے کل کلموں کی  
ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اس نے پیدا کیں، پھیلائیں اور ایجاد کیں  
پناہ مانگتا ہوں اور ہر جانور کی برائی سے بھی جس کی پیشانی کے بال میرا پروردگار  
پکڑے ہوئے ہے اسی طرح قرآن پاک کی آیتوں سے اور اللہ تعالیٰ کے اسمائے  
حسنی سے دم کرنا جائز ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہم قرآن میں ایسی چیزیں  
اتارتے ہیں جو شفا بخش ہیں اور مومنوں کے لئے رحمت ہیں اور یہ کتاب جو ہم نے  
اتاری برکت والی ہے صلعم نے فرمایا اگر نظر لگ جائے تو دم کر دو کیونکہ اگر کوئی چیز  
تقدیر سے سبقت کرتی تو نظر کرتی یہ بات آپ نے حسن و حسین بارے میں فرمائی تھی۔  
**بخار کا تعویذ** مندرجہ ذیل دعا لکھ کر اور تعویذ بنا کر بخار والے کے گلے  
میں لٹکا دو۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں: مجھے بخار آ گیا تو مجھے یہ دعا لکھ کر  
دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللہ محمد رسول اللہ یا ناکونی برداً  
وسلاماً علی ابراہیم وارادواہ کیداً فجعلناہم الاخسین اللهم رب جبرئیل



على ابراهيم وادوا به كيدا فجعلتهم  
الاحسرين اللهم رب جبريل وميكائيل  
واسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب  
بحولك وقوتك وجبروتك يا ارحم  
الراحمين -

**فصل** وقد قال بعض اصحابنا يكتب  
للمعسرة اذا عسر عليها الرزق في جاما او  
انائه نظيفة بسم الله الرحمن الرحيم لا اله  
الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش  
العظيم الحمد لله رب العالمين كانهم يرونها  
لم يلبثوا الا عشية او ضجيجها كانهم يوم  
يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من  
نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفسقون  
ثم يغسل وليسقى منه وينفخ ما بقى على صدرها  
وكذلك يجوز الرقية من النملة وغيرها  
كالعقارب والحيات والبراغيث والبق والذن  
النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية  
من كل ذي حمة وقال صلى الله عليه وسلم  
من قال حين يمسي ثلاث مرات صلى الله على  
نوح وعلى نوح السلام لم تلدغه عقرب تلك  
الليلة وقال صلى الله عليه وسلم من قال  
حين يبسي ثلاث مرات اعوز بكلمات الله  
التامات كلها من شر ما خلق لم تضره حمة  
تلك الليلة ويجوز النغم في الرقية ويكره  
التقل -

وميكائيل واسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك  
يا ارحم الراحمين (اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے  
اور اللہ کے نام کی برکت سے محمد اللہ کے رسول ہیں اسے آگ ابراہیم پر پڑھیں  
اور سلامتی والی بن جائیں گے اور اللہ کو جاننے کی تدریس کی لیکن ہم نے  
انہیں گھائے والا بنا دیا ہے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب اپنی قوت  
وطاقت سے اس تحریر والے کو شفا بخش اسے بچدیم کہ نبی اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے  
وروزہ کا تعویذ ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں اگر کسی عورت کو  
درد روزہ کی شدت ہو اور بچہ نہ پیدا ہو تو مندرجہ ذیل دعا کو کسی چیز  
یا مٹی کے پاک برتن میں لکھ کر اسے گھول کر پلا دو اور کچھ سینہ پر چھڑک  
دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں وہ  
بڑی حکمت و عزت والا ہے پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا پروردگار  
ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے گو پاک  
جس دن قیامت دیکھیں گے تو کہیں گے کہ وہ دنیا یا برزخ میں صرف  
ایک دن کی شام یا صبح کی برابر ٹھہرے، جس دن وہ عذاب دیکھیں  
گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو کہیں گے گو یا وہ دن میں ایک گھنٹہ  
بھر ٹھہرے یہ پہنچا دینا ہے اور کافر ہی ہلاک ہوتے ہیں اسی طرح  
اگر چیونٹی یا وغیرہ کاٹ کھائے تو اس پر بھی دم کرنا جائز ہے اور  
پھوسا سناپ، لیسوا اور مچھر وغیرہ کی ڈسی ہوئی جگہ پر بھی کہہ کر نبی صلعم نے  
ہرزہ ہریے کیڑے کے ڈسے ہوئے مقام پر دم کرنے کی اجازت عطا  
فرمائی، نبی صلعم نے فرمایا اگر کسی نے شام کو تین بار صلی اللہ علی نوح  
وعلی نوح اللہ علیہا سے اس رات میں بچھو نہیں کاٹے گا علاوہ ازیں  
آپ نے فرمایا اگر کوئی شام کو تین بار اعوذ بکلمات اللہ التامات  
کلمتا من شر ما خلق پڑھے تو اس رات پر اس پر کوئی  
زہر اثر نہیں کرے گا۔ دم میں پھونک مارنا جائز ہے اور تھوکانا  
مکروہ ہے۔



**فصل** و یغسل العین وجہہ و ید یہ و مرفقیہ  
 و رکبتيہ و اطراف رجليہ و داخل ازارہ فی اناء  
 ثم یصب الماء علی المریض لما روی ابو امامۃ بن  
 سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کان یغتسل فرأه عامر  
 بن ربیعۃ رضی اللہ عنہما فقال یا لیلۃ ما رأیت کالیوم  
 ولا جلد مخبأة فی خدرها اذ قال جلد فناء ففلم  
 یہ حتی ما کان یرفع رأسه قال فذکر واذ الذک  
 لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل تنہون  
 احدًا قالوا لا یا رسول اللہ الا ان عامر بن ربیعۃ  
 قال له کذا وکذا قد عاد رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم وروی عامر و قال سبحان اللہ لعلی  
 بما یقتل احدکم اذ ارای شیئا یعجبہ فلیدع  
 له بالبرکة قال ثم امره صلی اللہ علیہ وسلم ان  
 یغتسل له فغسل وجہہ وظهر کفیه و مرفقیہ و  
 غسل صدرہ و داخل ازارہ و رکبتيہ و قدمیہ  
 فی الاناء ظاہرہا و باطنہا ثم امر بہ فصب  
 علی رأسہ فکفی الاناء من خلقہ حسبته قال  
 فامرہ فحسامنہ حسوات فراح مع الركب و  
 ان اغتسل غسلا کاملًا ثم صب الماء علی  
 المعین کان اکمل۔

**فصل** و التعلیج فی الامراض جائز بالحمامۃ  
 و الفصد و الکئی و شرب الادویۃ و الاشربۃ  
 و قطع العروق و البط و قطع العضر عند وقوع  
 الأكلة فیہ و خوف التعدی الی لقیة البدن  
 و قطع البراسیر و کل ما فیہ صلاح للجسد لما

**نظر بدنگ جانے کا علاج**

جس پر نظر لگانے کا شبہ ہو اسے چاہیے  
 کہ اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھ، دونوں کہنیاں، دونوں گھٹنے، ہنڈیاں  
 تک دونوں پیر اور پردے کے مقامات ایک برتن میں دھو کر پھر  
 نظر لگی ہے اس پر وہ پانی بہا دیا جائے کیونکہ ابو امامتہ بن سہل بن حنیف  
 سے روایت ہے کہ میں نہا رہا تھا، پھر مجھے نہاتا ہوا عامر بن ربیعہ نے دیکھا  
 اور وہ میری خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے اور بے ساختہ ان کی زبان سے  
 نکل گیا کہ اللہ کی قسم آج جیسا خوبصورت جسم میں نے دیکھا ہے ایسا کبھی  
 پردہ نشین یا جوان خاتون کا ہنڈا بھی نہیں دیکھا۔ پھر ان پر نالہ کی سی  
 کیفیت طاری ہو گئی اور وہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے لوگوں نے اس کا  
 ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا: کیا تمہارا کسی پر نظر کا خیال ہے؟ لوگوں نے  
 کہا: نہیں، یا رسول اللہ! ان عامر بن ربیعہ نے انکے بارے میں ایسا ایسا کہا  
 تھا پھر آپ نے سہل بن حنیف کو اور عامر کو بلا دیا اور فرمایا: سبحان اللہ! تم میں سے  
 کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے اگر اسکی نگاہ کسی سی چیر پڑ جائے جو اسے  
 اچھی معلوم ہوتی ہو تو اسے اس کے لئے برکت کی دعا کرنی چاہیے پھر آپ نے  
 عامر کو سہل کے لئے غسل کرنے کا حکم فرمایا انہوں نے اپنا منہ، دونوں ہاتھ،  
 دونوں کہنیاں، سینہ، تہنڈے، نیچے کے اعضاء، دونوں گھٹنے اور دونوں ہنڈیاں  
 کے ایک برتن میں دھو کر وہ پانی جمع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ پانی سہل کے  
 سر پر ڈالا گیا اور ان کے چہرے سے برتن کو الٹ دیا گیا ہے غالباً آپ کے حکم سے  
 اس میں سے کچھ پانی لیکر سہل کے تمام بدن پر لگایا گیا بالآخر سہل اچھے ہو گئے  
 اور نالہ ہی کے ساتھ چل پڑے اگر متہم کامل غسل کر کے غسل کا پانی ایک برتن  
 میں جمع کر لے پھر جس کو نظر لگی ہے اس پر وہ پانی بہا دیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے  
 بیمار لیوں میں علاج کا جو ان بیمار لیوں میں سینگیوں کو اگر قصد  
 کھلو اگر داغ لگو اگر دوا و شربت پی کر، رگیں کاٹ کر، پھوٹوں اور  
 درم کو چیر کر تندرست حصہ کے بڑھانے کے ڈر سے عضو کاٹ کر، ابو اسیر کے  
 سے ختم کر کے فریبکہ ہر اس تدبیر سے جس سے بدن کی اصلاح ہو علاج



روى ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع وشاء  
الطبيب فقال للطيبين انما راىكم طب فقالوا يا  
رسول الله هل فى الطب خير فقال صلى الله عليه  
وسلم ان الذى انزل الداء انزل الدواء و  
سئل الامام احمد عن الكي فقال الاعراب  
قد فعله قد كرى النبي صلى الله عليه وسلم و  
قد فعله الصحابة رضاً وقال فى موضع آخر قطع  
عمران بن حصين رضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم  
احمد روى رواية اخرى كراهية ذلك واما  
التداوى بمحرمان كالحرد والسم والميتة وشئ  
نجس فغير جائز وكذلك يلين الاثان الاهلية  
لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
ما جعل شفاء امتى فيما حرم عليها والمحنة  
مكروهة الا عند الضرورة ولا يجوز الفرار  
من الطاعون وان كان خارجاً من البلد لا يقيد  
عليه لئلا يكون عوناً على هلاك نفسه۔

**فصل** ولا يخلو بامرأة ليست منه بمحرم  
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك  
قال ان الشيطان يزين لهما المعصية ولا ينظر  
الى امرأة شابة الا بعذر من شهادة او  
علاج فى المرض ويجوز النظر الى المرأة البرزة  
والعجوز لعدم الفتنة بهما ولا يجتمع رجلاً  
ولا امرأتان عربانين فى لحاف واحد او  
ازاران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن  
ذلك ولان ذلك يؤدى الى ان ينظر احد هما

کرانا جائز ہے کیونکہ نبی صلعم سے سینگیان لگوانے کا ثبوت ہے اور اطباء سے  
مشورہ فرمایا اور ان سے کہا تمہاری رائے طب ہے انہوں نے پوچھا یا رسول  
کیا طب میں کوئی خیر ہے فرمایا جس نے بیماری اتاری اسی نے دوا اتاری۔  
امام احمد سے داغ دینے کے بارے میں پوچھا گیا: فرمایا: اس سے عرب  
علاج کرتے ہیں اور نبی صلعم نے بھی داغ دلوایا اور صحابہ نے بھی ایسا کیا۔  
ایک دوسرے مقام پر امام موصوف فرماتے ہیں: حضرت عمران نے اپنی  
ران کی رگ کاٹی۔ ایک روایت میں امام موصوف سے داغ لگوانے کی کراہت  
منقول ہے۔

حرام و ناپاک اشیاء سے علاج ناجائز ہے | حرام چیزوں سے جیسے  
شراب ازہر اور مردار وغیرہ سے اور ناپاک چیزوں سے علاج جائز نہیں  
اسی طرح پالتو گدھی کے دودھ سے علاج ناجائز ہے کیونکہ نبی صلعم نے  
فرمایا: میری امت کی شفا ان چیزوں میں نہیں رکھی گئی جو ان پر حرام  
کر دی گئی ہیں۔ حقنہ کردہ ہے ہاں سخت ضرورت کے وقت روا ہے  
طاعون سے ڈر کر بھاگنا جائز نہیں، اور اگر کوئی دباؤ والے شہر  
سے باہر ہو تو اسے طاعون والے شہر میں جانا نہیں چاہیے تاکہ  
اپنی جان کی ہلاکت میں درگاہ ثابت نہ ہو۔

اجنبی خواتین سے خلوت | غیر محرم کے ساتھ خلوت نہ کر و کیونکہ  
نبی صلعم نے اس سے منع فرمایا ہے اور فرمایا شیطان دونوں کو گناہ  
خوبصورت رنگ میں پیش کر دیتا ہے، جو ان عورت کو نہ دیکھو البتہ شہادت  
کے عذر سے یا بیماری میں علاج کے عذر سے دیکھنا جائز ہے اگر بے پردہ  
عورت پر اور بوڑھی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو خیر ان سے فتنہ میں  
پڑنے کا ڈر نہیں ہے، ایک چادر میں دو رنگے مرد اور دو رنگی عورتیں  
اکٹھی نہ ہوں کیونکہ نبی صلعم نے اس سے منع فرمایا ہے  
ہے، علاوہ ازیں اس سے لازم آتا ہے کہ ایک دوسرے کی  
شہ مگاہ دیکھ لے اور شہ مگاہ کا دیکھنا منع ہے علاوہ



عورة الاخر وذلك منتهى عنه ولا نه لا يومن  
من ارتكاب معصية بتزيين الشيطان بذلك -

**فصل** فان كان له مملوك من ذكرا وانشى  
وجب عليه الرفق به ولا يكلفه من العمل ما  
لا يطيق ويكسوه ويطعمه ويزوجه ان شاء  
ولا يكرهه على ذلك فان قصر في ذلك عمى  
وامر ببيعهم او عتقهم ان شاء او يكاتبه ان طلب  
العبد وقد جاء في الحديث ان اخر وصية  
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة وما  
ملكتم ايما نكم -

**فصل** ويكره المسافرة بالمصحف الى ارض  
العدو لسر تناوله ايدي المشركين لان  
يكون للمسلمين قوة ظاهرة والشركة والغلبة  
فيجزر استصحابه ليقرء فيه لسلا بئس القران -

**فصل** ويستحب اذا نظرتي المرأة ان يقول  
الحمد لله الذي سوي خلقى واحسن صورتي وزا  
عنى ما شان من غيرى لان ذلك مروى عن  
النبي صلى الله عليه وسلم -

**فصل** واذ طنت اذنه ليمتل على النبي  
صلى الله عليه وسلم وليقول ذكر الله من  
ذكرني بخير لانه مروى عن النبي صلى الله  
عليه وسلم -

**فصل** وليقول اذا اشتكى بدنه او اعضاؤه  
باروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
من اشتكى منكم شيئا او اشتكى اخاله فليقل

انيس گناہ کا بھی ڈر ہے کیونکہ شیطان گناہ کو اچھے رنگ میں خوبصورت  
بنا کر دکھایا کرتا ہے۔

**غلاموں کے ساتھ حسن معاشرت** | اگر کسی کے پاس غلام یا لونڈیا  
ہوں تو ان سے نرمی سے پیش آنا واجب ہے لہذا انہیں ان کی طاقت  
سے زیادہ کام نہ دے اور انہیں کھلائے اور پہنائے اور اگر مملوک چاہے تو  
شادی بھی کرادے لیکن شادی پر جبر نہ کرے۔ اگر سید مذکورہ بالا باتوں  
میں کوتاہی کرے تو اللہ کا باغی اور نافرمان ہے اگر غلام کو بیچنا چاہے  
تو بیچ ڈالے یا آزاد کرے یا اس سے کتابت کا معاملہ کرے اگر غلام کتابت  
کرانا چاہے احديث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پھلی وصیت یہ تھی  
کہ نماز کا اور لونڈی غلام کا خیال رکھو۔

**دشمن کے علاقہ میں قرآن پاک لیجانے کا حکم** | دشمن کے علاقہ میں قرآن  
پاک لیجانا مکروہ ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مشرکوں کے ہاتھوں میں چلا جائے  
ہاں اگر مسلمانوں کی قوت کا غلبہ ہو اور ان کا رعب و دبدبہ ہو تو خیر تاکہ  
تلاوت کر سکو اور قرآن حکیم حافظہ سے نکل نہ جائے۔

**آئینہ دیکھنے کی دعا** | اگر آئینہ دیکھنے کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھنا مستحب ہے  
تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے مجھے اچھی صورت بخشی اور میری  
پیدائش اچھی بنائی اور مجھے خوبصورت اعضاء عطا فرمائے جبکہ دوسری  
مخلوق کے اعضاء ایسے نہیں یہ دعا رحمت عالم صلعم سے ثابت ہے۔

**کان بجنی کی دعا** | اگر کسی کا کان بجنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر  
یہ دعا پڑھے : اللہ سے یاد کرے جس نے مجھے اچھائی  
کے ساتھ یاد کیا۔ یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے  
منقول ہے۔

**ورد اعضاء کی دعا** | اگر کسی کے بدن یا کسی عضو میں دکھ درد  
یا کوئی تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھ کر مؤثر ہوگی۔ دم کرے : ہمارا رب  
اللہ ہے جو آسمان میں ہے اے اللہ تیرا نام پاک ہے تیرا حکم آسمان زمین



ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرتك في  
السماء والارض كما رحمتك في السماء والارض  
اغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب الطيبين انزل  
رحمة من رحمتك وشفاء من شفاءك على  
الرجع الذي به فانه يبدا باذن الله تعالى-

**فصل** واذا راى شيئا يتطير منه قال اللهم  
لاياتي بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسنيات  
الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله لانه مروى  
عن النبي صلى الله عليه وسلم-

**فصل** وليستب اذا لاي بيعة كنيسة او  
سمع صوت شبور وصوت ناقوس اوراي جمعا  
من المشركين واليهود والنصرى ان يقول اشهد  
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا  
لا نعبد الا اياك فان ذلك مروى عن النبي صلى  
الله عليه وسلم وقال غفر الله له بعد راهل  
الشرك وليقول اذا سمع صوت الرعد والصواعق  
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك  
وعافنا قبل ذلك وليقول اذا راى الريح اللهم  
انى اسئلك خيرا وخيرا ما ارسلت به واعوذ بك  
من شرها وشر ما ارسلت به-

**فصل** واذا دخل السوق قال ما كان  
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انى  
اسئلك خيرا هذا السوق وخيرا ما فيه و  
اعوذ بك من شره وشر ما فيه اللهم انى  
اعوذ بك ان اصيب فيها نينا فاجرة او صفة

پر ہے جیسے تیری رحمت آسمان و زمین پر ہے اے اللہ ہمارے گناہ اور قصور  
معاف فرما لے پاگوں کے رب اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما۔  
اور میرے دل پر اپنی شفا میں سے شفا بھی، انشاء اللہ شفا ہوگی۔ کیونکہ  
نبی صلعم نے فرمایا اگر تمہارے بدن کے یا تمہارے بھائی کے بدن کے  
کسی حصہ میں تکلیف ہو تو اسے یہ دعا پڑھ کر دم کر دینا چاہیے۔

**برسی شگون کے وہم کو دفع کرنے کی دعا** اگر کسی چیز سے بد  
کا وہم پیدا ہوتا ہو تو اس کے دفاع کے لئے نبی صلعم سے یہ دعا ثابت  
لے اللہ نیکیاں تو ہی لاتا ہے اور برائیاں تو ہی مٹاتا ہے ہر طرح کی توفیق  
و طاقت اللہ ہی کی تو فنیق سے ہے۔

**مکروہات کے دفاع کی دعا** اگر یہودیوں کا عبادت خانہ یا  
عیسائیوں کا گر جانظر آئے یا تھر ہی یا سنگھ کی آواز آئے یا مشرکوں  
کی یا یہودیوں کی یا عیسائیوں کی جماعت آتی دکھائی دے تو اس وقت نبی صلعم  
اس دعا کا پڑھنا ثابت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حق  
عبادت نہیں، وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور کتنا معبود ہے درہم اسکی  
عبادت کرتے ہیں، رحمت عالم صلعم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مشرکوں کی تعداد  
کی برابر اس دعا کو پڑھنے والے کے گناہ بخش دے گا۔

**کوٹک اور بجلی کی دعا** اگر کوٹک اور گرنیوالی بجلی ہو تاک کہ کوٹک سوز تو یہ دعا  
پڑھو اے اللہ ہم اپنے غصہ سے قتل نہ کر اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر  
اور اس سے پہلے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما۔

**آندھی کی دعا** آندھی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو اے اللہ میں اس آندھی  
کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی جن کے ساتھ یہ بھیج گئی ہے تجھ سے  
مانگتا ہوں اور ان دونوں کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

**بازار میں آنے کی دعا** بازار میں آتے وقت نبی صلعم یہ دعا پڑھا  
کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی خیر و برکات کا اور ان تمام  
چیزوں کی خیر و برکات کا سوال کرتا ہوں جو اس بازار میں ہیں اور تجھ سے



خاسرًا لا اله الا الله وحده لا شريك له  
له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو  
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير  
واذا راي المهلأل قال اللهم اهلّم علينا  
باليمن والايمان والسلامة والاسلام  
ربي وربك الله عزوجل۔

**فصل** واذا راي مبتلى قال الحمد لله الذي  
عافني مما ابتليك به وفضلني عليك وهدى كثير  
من خلق تفضيلا فان الله عزوجل يعافيه  
من ذلك كما تامل ما كان ابدًا ما عاش۔  
**فصل** يقول للحاج اذا قدم من سفره  
تقبل الله نسلك واعظم اجره واخلف  
نفتك لما روى عن عمر ابن الخطاب رضي انه  
كان يقول ذلك۔

**فصل** واذا عاد من ليما مسلما واركع منزلا  
به موت فقال ما روى عن النبي صلى الله عليه  
وسلم انه قال الموت فزع فاذا بلغ احدكم  
وفاته صاحبه فيقل ان الله وانا اليه راجعون  
وانا الى ربنا منتقلون اللهم اكتبه عندك  
في المحسنين واجعل كتابه في عليين واخلف  
على عقبه في الآخرين ولا تحرمنا اجره ولا  
تقتلنا بعدة وليتعب ايضا ان يشير عليه بالتوبة  
من الذنوب والخروج من المظالم والوصية  
بثلث ماله للاقارب والفقراء ومنهم الذين  
لا يرثونه وان لم يكونوا لفقراء والمساكين

اس کی برائی سے اور اس کے اندر والی تمام چیزوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہو  
اے اللہ مجھے تیری پناہ کہ میں اس میں کوئی جھوٹی قسم کھاؤں یا کوئی گھٹا  
سودا طے کروں اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں وہ ایک سے اس کا  
کوئی شریک نہیں اسی کا ملک ہے اور اسی کی بڑائیاں ہیں وہی زندگی بخشتا ہے  
اور وہی مارتا ہے اور وہ زندہ ہے جسے کبھی فنا نہیں اور اسی کے ہاتھ میں  
بھلائی ہیں اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔

**ہلال دیکھنے کی دعا** ہلال دیکھ کر یہ دعا پڑھو اے اللہ اسے ہم پر  
برکت ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال اے ہلال! میرا اور میرا  
دونوں کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔

**کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا** کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو  
اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ سے عافیت سے رکھا جس میں آپ کو مبتلا کیا  
اور اس نے مجھے آپ پر اور اپنی بہت سی مخلوق پر بڑی بڑی بخششیں بخشیں  
تھیں اس مصیبت سے خواہ وہ کسی ہی ہو محفوظ فرما لیگا جب تک تمہاری زندگی باقی  
سفر حج سےاپس آئیں والے حاجی کیلئے دعا حاجی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو۔

حق تعالیٰ شانہ آپ کا حج قبول فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور خیر  
کا بدلہ عطا فرمائے کیونکہ حضرت عمرؓ حاجی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔  
**قرب المذگ مسلمان بیمار کو دیکھ کر کہا دعا پڑھی جائے؟** اگر قرب المذگ

مسلمان مریض کو دیکھو تو نبی صلعم نے فرمایا: موت گھبرا دینے والی ہے اگر کسی کو  
اپنے بھائی کی موت کی خبر پہنچے تو اسے یہ کہنا چاہیے اہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور  
اہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانیں اے اللہ اسے اپنے پاس والے بھائیوں میں لکھ  
ئے اور اس کا اعمال نامہ علیتین میں رکھ اور پسندگاہ میں اس کے بعد اس کا جانشین  
مقرر فرما اور آخرت میں اسے ملنے والے اجر سے ہمیں نادم نہ فرما اور اس کے بعد  
نقشہ میں نہ ڈال۔

**توبہ کی تلقین** امیر المومنین کو توبہ کی تلقین کرنا مستحب ہے اور یہ بھی کہ وہ کسی پر  
ظلم نہ کرے اور تھائی مال کی وفرا دے لئے اور ان اتار سکے لئے دست کرے



والساحد والقناطیر ووجوۃ البرو  
الخیر۔

★

**فصل** ویقول حین یضع البیت فی قبرہ  
ماروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه  
قال اذا وضعتہ موتا کم فی القبر فقولوا بسم اللہ  
وعلی ملة رسول اللہ ویقول اذا حثی التراب  
علی البیت ایانا بک وتصدقنا برسولک وایمانا  
ببیتک هذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ و  
رسولہ لان ذلك مروی عن علی رضی اللہ عنہ  
وقال من فعل ذلك کان له بكل ذرۃ من  
تراب حسنة۔

**فصل** فی آداب النکاح من آداب النکاح ان  
یکون فیہ نية المتزوج امتثال امر اللہ عزوجل  
فی قوله وانکحوا الیٰہمی منکم والصلحین  
من عبادکم وامائکم وقوله تعالیٰ فانکحوا  
ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع و  
قوله صلی اللہ علیہ وسلم تناکحوا تناسلا  
فانی مکاتربکم الامم ولو بالسقط فیعتقد وجوب  
النکاح بہاتین الذیتین والخیر عند عدم خوف  
الزنا وعند وجودہ لیخرج من الخلاف فی الجملة  
لان النکاح عند ابی داؤد فی روایۃ الامام احمد  
واجب علی الاطلاق فیکون له تراب المیتل  
لامر اللہ عزوجل ویعتقد مع ذلك احراز  
دینہ وتکبیلہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم

جائے جو وارث بننے والے نہیں اور اگر اس قسم کے اتار ب نہ ہوں تو فقیروں  
اور مسکینوں کے لئے اور مسجدوں، پلوں، رفاہ عام کے کاموں اور خیر و بھلائی کے  
کاموں کے لئے وصیت کر جائے۔

مردوں کو قبر میں اتارنے کی دعا رحمت عالم صلعم نے فرمایا: جب  
تم اپنے مردوں کو قبر میں اتارو تو یہ پڑھو: اللہ کے نام کے ساتھ رسول  
کے مذہب پر میں اسے قبر کو سوئپ رہا ہوں۔

مٹی دیتے وقت کیا دعا پڑھی جائے؟ مٹی دیتے وقت یہ دعا  
پڑھو: اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تیرے رسول کی تصدیق  
کی اور میرا زندگی بعد الموت پر بھی ایمان ہے یہ وہ ہے جس کا اللہ نے اور اس  
کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ فرمایا  
حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والے کے لئے مٹی کے  
تمام ذروں کی برابر نیکیاں ملیں گی۔

**آداب نکاح** نکاح کے وقت نکاح کر نیوالے کی حق تعالیٰ کے حکم کو  
بجالانے کی نیت ہونی چاہیے کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا: اپنے بیواؤں کی  
شادی کرو اور اپنے صالح لونڈی غلام کی بھی بیوی فرمایا اپنی دلپسند دو دو  
تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح کرو۔ رحمت عالم صلعم نے فرمایا  
تحفظ و بقائے نسل کے لئے نکاح کرو کیونکہ میں تم پر اقوام عالم میں فخر کر  
والا ہوں اگرچہ کچا بچہ ہی کیوں نہ ہو لہذا ان دونوں آیتوں کی اور حدیث  
کی رو سے نکاح کے وجوب کا عقیدہ رکھو خواہ زنا کا ڈر ہو یا نہ ہو  
تاکہ علماء کے اختلافات میں تطبیق ہو جائے کیونکہ ابوداؤد کے نزدیک امام احمد  
کی روایت کی رو سے نکاح مطلق واجب ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے  
حکم کی تعمیل کا ثواب ملے گا اور دین کے جمع کرنے کا اور اسے مکمل کرنے کا بھی  
کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا: جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین جمع کر لیا  
میرا آپ نے فرمایا: جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے  
صاحب حسب اجنبی اور کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو ان



من تزوج فقد احرز نصف دينه و قوله صلى الله  
 اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه ويتغير  
 الحسبية الاجنبية البكر وان تكون من نساء  
 يعرفن بكثرة الولادة لان النبي صلى الله عليه وسلم  
 قال لجابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ لما اخبره انه  
 تزوج بالثيب فقال له افلا بكراتلا عيها وتلا عيها  
 وانما شرطنا كثرة الولادة لما تقدم من قوله صلى الله  
 عليه وسلم تناكحوا ناسلوا فاني مكاثر بكم الامم  
 ولو بالسقط وفي بعض الاحاديث قال صلى الله  
 عليه وسلم تزوجوا الولود والودود فاني مكاثر بكم  
 وانما شرطت الاجنبية ولا تكون من اقاربهم  
 لئلا يقع بينهم منافرة وعداوة فتؤدى الى قطع  
 الارحام المأمور بايصالها ولهذا منع الشرع  
 الجمع بين الاختين في عقد النكاح ولا ينبغي ان  
 يتزوج سليطة اللسان ولا مختلعة ولا متوا<sup>شنة</sup>  
 فاذا تزوج فليحسن خلقه معها ولا يوزيها  
 ولا يكرهها على مهرها فتختلع منه ولا يثتم  
 لها اباء ولا اما فان فعل ذلك كان الله ورسوله  
 برئيسين منه قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا  
 بالنساء خيرا فانهم عوان عندكم يعني اسراء  
 وقد جاء في بعض الآثار من تزوج امراة  
 لصداق ولا يريد ان يؤديه اليها جاء يوم  
 القيامة زانبا فان اذنته امرأة بلسانها و  
 كان في ذلك فسار دينه فليشتره هو نفسه  
 منها او يلجأ الى الله عز وجل ويتبغل اليه

عورتوں میں سے ہر جو کثرت اولاد میں مشہور ہوگی کیونکہ جب نبی صلعم کو معلوم ہوا  
 کہ جابر بن عبد اللہ نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا ہے تو آپ نے  
 ان سے فرمایا: تو نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہ تو اس سے  
 کھیل کرنا اور رہ تجھ سے۔

ہم نے کثرت اولاد کی اس لئے شرط مقرر کی کہ نبی صلعم کی ایک حدیث اور پر  
 گزر گئی کہ نسل بڑھانے کے لئے نکاح کرو کیونکہ میں اقوام عالم میں تمہارے  
 ذریعہ فخر کروں گا اگرچہ کچھ بچہ ہی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلعم  
 نے فرمایا: بہت سے بچے پیدا کرنے والیوں اور بہت محبت کرنے والیوں سے  
 نکاح کرو کیونکہ میں تمہارے ذریعہ فخر کروں گا، اجنبی کی شرط اس لئے ہے  
 کہ آپس میں نفرت و عداوت پیدا نہ ہو جس کا انجام قطع رحمی پر ہوا، حالانکہ  
 صلعم رحمی کا حکم ہے اسی بنا پر شریعت مطہرہ نے ایک نکاح میں دو بہنوں کو  
 جمع کرنے سے روک دیا ہے، زبان دراز عورت سے اس عورت سے جس نے  
 خلع حاصل کر لیا ہو اور کو دینے والی عورت سے نکاح کرنا اچھا نہیں۔  
 نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی سے حسن اخلاق سے پیش آؤ، اسے دکھ نہ پہنچا  
 اور اس سے ہر حاصل کرنے کے لئے اس پر جبر نہ کرو کہ بیچاری تنگ آ کر  
 خلع حاصل کرنے پر مجبور ہو جائے اور اس کے ماں باپ کو برا بھلا اور  
 سخت سنت نہ کہو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول  
 اس سے بیزار ہیں، نبی صلعم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا چھائی سے پیش  
 آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں ایک روایت میں ہے جس نے کسی  
 عورت سے مقررہ ہر پر نکاح کیا اور وہ اسے ہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں  
 رکھتا تو وہ قیامت کے دن زنا کار بن کر اٹھے گا۔

اگر عورت اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو ایذا پہنچائے اور اس سے  
 شوہر کو اپنے دین میں فساد کا ڈر ہو تو شوہر کو بیوی سے علیحدہ ہو جانا چاہئے  
 یا اللہ تعالیٰ سے رورو کر اور گڑگڑا کر دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح  
 کر دے اتنا ہی کافی ہے اور اگر اس کی ایذا پر صبر و تحمل سے کام لے تو گویا



بالدعاء فانه يكفي وان صبر على ذلك كان  
 كما لجاهد في سبيل الله عز وجل وان طابت  
 هي له بشئ من مالها من غير اكرامه فليأكله  
 هنيئاً مريئاً وينبغي ان يجتهد في نظر الی وجهها و  
 بدنها من غير ان يخلو بها قبل العقد لئلا يقع  
 بقلبه شئ فيكرهها فيؤدى الی طلاقها ومفارقةها  
 عن قريب وفي ذلك وقوع في المكروه عند الله  
 عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما  
 من مباح البغض الی الله تعالى من الطلاق والاضل  
 في ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه  
 قال اذا قذف الله تعالى في قلب احدكم خطبة  
 امرأة فليتنظر الی وجهها وكفيها فانه احرى  
 ان يورم بينهما وما روى عن جابر بن عبد الله  
 رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان  
 ينظر الی ما بين عروة الی نكاحها فليفعل فخطبت  
 جارية فكننت اتخا لها حتى رايت منها ما  
 دعاني الی نكاحها وتزوجيها ذكره ابو داود في  
 سننه وينبغي ايضا ان تكون من ذوات الدين  
 والعقل لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن  
 النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تنكح المرأة  
 لاربعة لِمَالِهَا وَحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا  
 فاطفر بذات الدين تربت يداك واما نص  
 النبي صلى الله عليه وسلم على ذات الدين لانها  
 تعين الزوج على معيشته وتقعن باليسير والباقيات

شوهر اللہ کی راہ کا مجاہد ہے۔

اگر بیوی اپنی خوشی سے بلا جبر و اکراہ کے اپنے مال میں سے کچھ مال  
 شوہر کو دینے سے تو شوہر اسے دل و جان سے قبول کرے وہ اس کے  
 لئے حلال و طیب ہے۔

نکاح کرنے سے پہلے مرد عورت کے منہ اور جسم کو کسی بہانے سے اچھی طرح  
 دیکھ سے، لیکن اس کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے تاکہ نکاح کے بعد دل  
 میں کوئی ایسی بات نہ آئے جس سے دل کو نفرت پیدا ہو اور جلد ہی ہی طلاق  
 و جدائی تک نوبت آئے اور ایک کر وہ فعل (طلاق) کا مرتکب ہونا پڑے  
 کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا: طلاق سے زیادہ کوئی ہائز نشے اللہ کو مبغوض نہیں  
 قبل از عقد دیکھنے کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: اگر کسی کے دل میں  
 اللہ تعالیٰ کسی عورت کے پیام کا خیال ڈالے تو اسے اس کے چہرے اور  
 دونوں ہاتھوں کو دیکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ دونوں کے درمیان موافقت  
 کا بہترین طریقہ ہے، علاوہ ازیں حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے  
 کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی کسی عورت پر پیام ڈالے تو اگر  
 اس چیز کو جو اسے نکاح کی رغبت دلا رہی ہو دیکھ سکے تو دیکھ لے فرماتے  
 ہیں: میں نے ایک لڑکی پر پیام ڈالا اور میں نے اسے چھپ کر دیکھا جس سے  
 میرے دل میں اس سے نکاح کی خواہش برپا ہو گئی (ابو داؤد در سنن)  
 شادی کے لئے دیندار اور عقلمند عورت کو منتخب کرنا چاہیے کیونکہ ابو ہریرہ  
 رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: عورتوں سے چار سبب سے نکاح  
 کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے اور دین  
 کی وجہ سے لہذا دیندار عورت سے نکاح کر کے کامرانی حاصل کر لیتے  
 دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، اس حدیث میں نبی صلعم نے دیندار خاتون  
 سے نکاح کرنے کی صراحت سے رغبت دلائی کیونکہ وہ ہر گوشہ حیات میں  
 شوہر کی معاون ثابت ہوتی ہے اور حقوڑے پر قناعت کر لیتی ہے  
 اس کے علاوہ باقی عورتیں اسے گناہ و مصائب میں مبتلا کر دیتی ہیں مگر



توقعه فی الوزر والریال الا ان یسلم الله تعالی  
 عن ذلك وقد نسی اکثر المفسرین قوله عز وجل  
 فالان باشر وھن وابتغوا ما كتب الله لکم  
 المباشرة بالجماع والابتغاء بالولد ای اطلبوا  
 الولد بالمباشرة وكذلك ینبغی للمرأة ان تنوی  
 بذلک تحصین فرجھا والولد والثواب الجزیل  
 عند الله بالصبر عند الزوج وعلى الحبل والولاد  
 وتربیة الولد لما روی زیاد بن صیون عن انس  
 بن مالک رضی الله عنه قال ان امرأة کان  
 یقال لها الحولا عطارة من اهل المدینة  
 دخلت علی عائشة رضی الله عنہا فقالت یا ام المؤمنین  
 زوجی فلان اتزین له کل لیلۃ والطیب  
 کانی عروس زفت الیہ فاذا اری الی فراستہ  
 دخلت علیہ فی الحافہ والتمس بذلک رضاع  
 الله تعالی حول وجهہ عنی اراه البغضنی فقالت  
 اجلسی حتی یدخل رسول الله صلی الله علیہ  
 وسلم فقالت فبینما انا کذلک اذ دخل  
 رسول الله صلی الله علیہ وسلم فقال ما  
 هذا الریح الی اجدھا انتکما الحولاء ابتغتم  
 منھا شیئا قالت عائشة رضی الله یرسل  
 الله فقصت الحولاء قصتها فقال صلی الله  
 علیہ وسلم لھا ازھبی واسمعی واطیعی لھا  
 قالت افعل یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم  
 فمالی من الاجر قال صلی الله علیہ وسلم ما  
 من امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا ورضعته

جس کو حق تعالی شانہ بچائے رکھے، اکثر مفسرین نے اس آیت (لہذا  
 اب ان سے مباشرت کرو اور وہ چیز ڈھونڈو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے  
 لئے لکھی ہے) میں مباشرت سے صحبت اور وابتغوا سے طلب اولاد  
 مراد لی ہے یعنی صحبت سے مقصد طلب اولاد ہونا چاہیے۔

اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ اس ارادہ سے نکاح کریں کہ پاکدامنی  
 رہیں اولاد پیدا کریں اور شوہر کے پاس رہ کر حمل کی وضع ولادت کی  
 اور اولاد کی پرورش کی صبر کے ساتھ تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کے  
 پاس اجر جزیل کی امیدوار رہیں کیونکہ زیاد بن صیون حضرت انس بن مالک  
 سے روایت کرتے ہیں کہ حولا نامی مدینہ کی ایک عطر فروش خاتون حضرت  
 عائشہ کے پاس عرض کرتی ہیں: ام المؤمنین! میرے شوہر فلاں شخص  
 ہیں، میں ان کے لئے روزانہ رات بن سنورتی ہوں اور خوشبو لگاتی ہوں  
 گو یا میں اسی شب کی دولہن ہوں اور شوہر کے پاس بھیجی گئی ہوں پھر  
 جب وہ اپنے بستر پر چلے جاتے ہیں تو میں ان کے لحاف میں ان کے  
 پاس جا بیٹھتی ہوں اور اس سے میں اللہ کی رضا ڈھونڈھتی ہوں  
 لیکن اسوس وہ اپنا منہ مجھ سے پھیر لیتے ہیں معلوم ہوتا ہے انہیں مجھ  
 سے نفرت ہے صدیقیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے  
 تک بیٹھ جاؤ۔ حولا کہتی ہیں: میں اسی حال میں بیٹھی تھی اتنے میں رحمت  
 عالم صلعم تشریف لے آئے اور فرمانے لگے: یہ کیسی خوشبو ہے جو مجھے  
 محسوس ہو رہی ہے؟ کیا تمہارے پاس حولا آئی تھیں اور تم نے ان سے  
 کچھ خوشبو خریدی ہے؟ صدیقیہ عرض کرتی ہیں: نہیں یا رسول اللہ صلی  
 اللہ علیہ وسلم ان سے خوشبو ذرا سی بھی نہیں خریدی، پھر حولا آپ سے اپنا قصہ  
 بیان کرتی ہیں آپ فرماتے ہیں: گھر جاؤ، ان کی بات سنو اور ان کی  
 اطاعت کرو، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سرور اکبر  
 پر میں ایسا ہی کروں گی لیکن مجھے اجر کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں: جو عورت  
 اصلاح کی غرض سے اپنے شوہر کے گھر سے کوئی چیز اٹھاتی اور رکھتی ہے



ترید بہ الاصلاح الاکتب اللہ تعالیٰ لہا  
 حسنة ومحی عنہا سیمہ ورفق لہا درجہ وما  
 من امر لا یصل من زوجہا حین تحمل الا  
 کان ہذا من اجر مثل القائمہ یلہ والصائم  
 نذارا واغازی فی سبیل اللہ تعالیٰ وما من امر لا  
 یتبدأ علی الاکان لہا بکل علقۃ عتو لعمۃ  
 ربک رضعة عتق رقبة فان قطعت ولداها  
 فادھا من ذم من الصدق یتبدأ المرأۃ قد کفیت  
 انما فیہ مضمی ذم متاعی العمل فیما بقی قال  
 عائشۃ رضی اللہ عنہا قد اعطی اللہ کثیرا  
 فہ بہ کثرہ معشر رجال فضحت رسول اللہ  
 شرفا ما من رجل اخذ بیہ امر اسمہ یروہا  
 وکتب اللہ تعالیٰ لہ حسنة فان عانتھا  
 فغفر حسناتھا فان شہا کان خیرا من  
 سیدہا وہ فیہا ذم قائم یقتل المریر ما  
 علی شعریۃ من جسده الا کتب اللہ حسنة  
 ومحی عنہ سیمہ ورفق لہ درجہ وما یصحی  
 بغسہ خیر من الدنیا وما فیہا ون اللہ عزوجل  
 یا ہنی بھ سئلکة یقول انشروا لعلکم  
 تہدو فی سیمہ قرۃ یقتل من الجذبة یتیقن  
 بانہ ربہ اشہد وایا فی قد خفرت لہ وعن  
 ابن السیرک بن فضل اللہ عن الحسن بن علی  
 رسول اللہ علی اللہ ضیہ وسلم استرحوا  
 بانسائہ خیر فانہ من عوان عندکم یعنی ما سواد  
 لا یدکر لا نفسہ من شیا واما اخذت من

حق تعالیٰ عتیا اس کے لئے ایک نیکی کو لیتا ہے اور ایک برائی کو مٹاتا ہے اور  
 اس کا اور جو قدر لائق ہے اور جو عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے تو  
 اسے شب بیدار دندہ زاد لیس اللہ کی راہ میں مجاہد کا ثواب ملتا ہے اور جس  
 عورت کے درختہ ہوتا ہے تو واقعی اسے ہر روز کے جو حق ایک غلام آزاد  
 کرنے کا ثواب ملتا ہے اور بچہ کے ہر روز کے ہر عورت پر بھی ایک غلام کے  
 آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے پھر جب وہ اپنے بچہ کا دودھ پینے شروع کرتی ہے  
 تو آسمان سے ایک اعلان کرتا ہے الا اعلان کرتا ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ  
 تو بیٹا کو چاہے اب مستعمل میں اپنے کام کے لئے اور عورت کو چاہے  
 صرف ہر عورت کو ہے اس ضمن عورتوں کو تو بہت کچھ ثواب مل جاتا ہے  
 لے مریدانہ قوم کے لئے ایک ہے یہ میں کو رحمت مادم مسلم جنس پر ہے  
 میں پھر ترہ تے میں جو شخص یہ بی بی کی کا ہاتھ پیرا لے لیتا ہے پھر  
 ہے اور ماما ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نیکی جزو لکھو دیتا ہے اگر کسی  
 کے لئے ہے تو اس میں نیکیاں لکھو دیتا ہے پھر اگر اس سے صحبت کر لیا  
 تو اس کا ثواب دینا اور تمہارے تیار ہوتے ہیں پھر جب نہانے کے لئے  
 کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر کے حیر بال سے بھی پانی گرتا ہے اس کے  
 جو حق ایک نیکی جزو لکھو دیتا ہے اور ایک برائی مٹا دی جاتی ہے  
 اور ایک دہ جرم نہ کو یہ ہوتا ہے اور عورت کے ثواب پر کچھ ملتا ہے  
 دینا اور تمہارے ہر ترے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہر شے میں پھر کرتا ہے  
 اور اگر وہ اسے تم شوہر سے ہر کے کچھ خوشی رات میں اللہ کو نسیا کی  
 کا غسل کر دے اور اسے یقین سے کہیں میں کاری ہوں اور ہر روز اسے  
 اسے بخش دیا۔

بہن میرا کہیں تھا نہ صحبت حسین سے بدایت کرتے ہیں اور اس سے  
 صلواتی فرماتا: ثور تہد کے موات حسن مولا کے پیش آنے کے بلائے یہ  
 میری نصیحت قبول کرو کرو و تمہارے پاس امر میں اللہ و اپنے لئے  
 کسی چیز کا ہاتھ نہیں تھمتے نہیں اللہ کی امانت سے ہر حال کی ہے اور وہ



بإمانة الله تبارك وتعالى واستعملتم فروجهن  
بكلمة الله عز وجل وعن عبادته ابن كثير عن  
عبد الله الحريري عن ميمونة زوج النبي صلى الله  
عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم خيار الرجال من امتي خيارهم لنساءهم  
وخير النساء من امتي خيرهن لآزواجهن يرفع  
لكل امرأة منهن كل يوم وليلة اجر الف شهيد  
قتلوا في سبيل الله صابرين محتسبين وفضل  
احد من على الحور العين كفضل محمد صلى الله  
عليه وسلم على ادنى رجل منكم وخير النساء  
من امتي من تاتي مسرعة زوجها في كل شئ يدهوا  
ما خلا معصية الله تعالى عز وجل وخير الرجال  
من امتي من تطف باهله لطف الوالدة بولدها  
يكتب لكل رجل منهم كل يوم وليلة اجر  
مائة شهيد قتلوا في سبيل الله صابرين  
محتسبين فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه  
وكيف يكون للمرأة اجر الف شهيد وللرجل  
اجر مائة شهيد قال صلى الله عليه وسلم او  
ما علمت ان المرأة اعظم اجرا من الرجل  
وافضل ثوابا فان الله عز وجل يرفع للرجل  
في الجنة درجات فوق درجاته برصاء زوجته  
عنه ودعا له او ما علمت ان اعظم وزرا  
بعد الشرك بالله المرءة اذا غضبت زوجها  
الا فالتقوا الله في الضعيفين فان الله سائلكم  
عنها اليتيم والمرأة فمن احسن اليها فقد

تمارے لئے اللہ کے کلام سے حلال ہوئی ہیں۔

ام المؤمنین حضرت ميمونة فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا میری امت  
کے بہترین افراد وہی ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہیں اور میری امت کی  
بہترین وہی خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کے حق میں بہتر ہیں ان خواتین میں  
سے ہر خاتون کے لئے روزانہ ان ایک ہزار شہداء کا جو اللہ کی راہ میں از  
راہ ثواب صبر کے ساتھ مارے گئے ثواب چڑھایا جاتا ہے اور ہر ایک کی  
خوردن پر ایسی فضیلت ہے جیسے محمد رسول اللہ صلعم کی فضیلت ایک ادنیٰ  
امت پر ہے۔

میری امت میں بہترین وہی خواتین ہیں جو شوہر کی ہر جائز خواہش کو  
آسانی سے پورا کرتی ہیں اور میری امت میں بہترین وہی مرد ہیں جو اپنی  
بیویوں اتنی محبت و پیار سے پیش آتے ہیں جتنی محبت ایک ماں اپنی اولاد  
سے کرتی ہے ایسے ہر فرد کے لئے روزانہ ان سو شہیدوں کا ثواب ہے  
جو اللہ کی راہ میں صبر کے ساتھ از راہ ثواب مارے گئے ہوں، حضرت  
عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کو تو ایک ہزار  
شہیدوں کا ثواب ملے اور مردوں کو سو شہیدوں کا؟ فرمایا: کیا تم کو  
معلوم نہیں کہ اللہ کے پاس عورت کو مرد کے مقابلہ پر زیادہ ثواب ملتا  
اور وہ ثواب میں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ حق تعالیٰ شانہ شوہر کا دیکھ کر مرد  
بند فرماتا چلا جاتا ہے محض اس لئے کہ اس کی بیوی اس سے راضی اور  
خوش ہے اور اپنے شوہر کے لئے دعائیں مانگتی رہتی ہے، کیا تم کو معلوم  
نہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ عورت کا اپنے شوہر پر غصہ ہے  
جس کے نتیجے میں اس سے شوہر کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے کان کھول کر  
سن لو دو کمزوروں (یتیموں اور عورتوں) کے حق میں اللہ تعالیٰ سے  
ڈرتے رہو کیونکہ ان دونوں کے بارے میں حق تعالیٰ تم سے پوچھنے والا  
ہے پھر جس نے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا وہ اللہ تک  
اس کی رضا تک پہنچ جائے گا ورنہ مورد غضب الہی ہوگا۔ شوہر کا حق



بلغ الى الله عز وجل ورمزانه ومن اساء اليهما  
فقد استوجب من الله سخطه وحق الزوج كحقى  
عليكم فمن ضيع حقى فقد ضيع حق الله فقد  
باء لسخط من الله وما واه جهنم وبئس المصير  
وعن ابى جعفر بن محمد بن على عن جابر بن عبد  
الله قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه  
وسلم وهو فى نفر من اصحابه رض اذا قبلت امرأة  
حتى قامت على راسه ثم قالت السلام عليك  
يا رسول الله انا وادفدة النساء اليك ليست  
امرأة يبلغها مسيرى اليك الا عجبها ذلك يا  
رسول الله ان الله تعالى رب الرجال ورب  
النساء وادم البر الرجال والبر النساء وحواء  
امر الرجال وام النساء فالرجال اذا خرجوا  
فى سبيل الله عز وجل فقتلوا فاحياء عند ربهم  
يرزقون واذا جرحوا فلهم من الاجر مثل ما  
علمت ونحن نجلس عليهم ونخذ مهمهم  
لنا من الاجر شئى قال صلى الله عليه وسلم نعم  
اقروى عتى النساء السلام وقولى لهن ان طاعة  
الزوج و اعترافا بحقه تعدل ما هنالك وقليل  
منكن ليفعله وعن ثابت عن النس رض قال  
حين بعثتى النساء الى رسول الله صلى الله عليه  
وسلم فقلت يا رسول الله ذهب الرجال  
بالفضل وبالجهاد فى سبيل الله تعالى فما لنا  
من عمل مذكور ندرى به عمل المجاهدين  
فى سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ایسا ہے جیسا تم پر میرا حق ہے اگر کسی نے میرا حق ضائع کر دیا اس نے اللہ کا  
حق ضائع کر دیا اور اللہ کا غضب لے کر لوٹا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو  
بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ اس حال میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کے پاس تھے اتنے میں ایک عورت آکر آپ کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہے  
پھر عرض کرتی ہے: السلام علیکم یا رسول اللہ! میں خواتین کی طرف سے  
ایک نمائندہ خاتون ہوں کسی عورت کو اتنی لمبی مسافت طے کر کے  
آپ تک پہنچنے کی جرات نہیں ہوئی اور جب میں آپ کی طرف روانہ  
ہوئی تو انہیں آپ تک میرے پہنچنے پر بڑا تعجب تھا، یا رسول اللہ  
حق تعالیٰ مردوں کا بھی رب ہے اور عورتوں کا بھی اور آدم مردوں  
کے بھی باپ ہیں اور عورتوں کے بھی اور حضرت حماد مردوں کی بھی ماں  
ہیں اور عورتوں کی بھی، اگر مرد اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے مارے  
جائیں تو وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی ملتی ہے اور  
اگر زخمی ہو جائیں تو بھی ان کے لئے اجر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لیکن  
ہم مردوں کی ہم پیالہ دہم لوالہ ہیں اور ان کی خدمات بجالاتی ہیں تو کیا  
ہمیں بھی کچھ ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں، خواتین کو میرا سلام کہو  
اور ان کو بتا دو کہ شوہر کی اطاعت اور اس کے حق کا اعتراف اسی ثواب  
کی برابر ہے جو مردوں کو ملتا ہے لیکن تم میں سے شوہر کی اطاعت اور  
اس کے حق کا اعتراف نشاؤ نادر ہی کوئی عورت کرتی ہے، حضرت  
ثابت حضرت انس رض سے بیان کرتے ہیں۔ جب مجھے عورتوں نے پیام  
دے کر سرکار رسالت فداہ ابی وامی کی خدمت میں بھیجا تو میں نے  
آپ سے کہا: یا رسول اللہ! مرد و فضیلت کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کے  
ثواب کو لوٹ کرے گئے ہمارے لئے کونسا قابل ذکر عمل ہے کہ ہم  
اسے انجام دے کر مجاہدوں جیسا ثواب لوٹیں؟ فرمایا گھر کے کام  
کا بھی اللہ کی راہ میں جہاد کا سا ثواب ہے۔



مهنة احدهن في بيتها تدرك عمل المجاهدین  
 فی سبیل اللہ عزوجل وعن عمران بن حصین  
 رضی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 هل علی النساء جہاد فقال صلی اللہ علیہ وسلم  
 نعم جہادهن الغیرة یجهدن انفسهن فان صدق  
 فهن مجاهدات فان رضین فهن مرابطات  
 ولهن اجر ان اتیان فینبغی للزوجین ان یعتقدا  
 هذا الثوب المذكور فی هذا الحدیث وما قبلها  
 عند العقد والجماع جمیعاً واداء الحق الراجب  
 علی کل واحد منهما لا ینقضه عزوجل ولهن  
 مثل الذی علیهن لیكونا مطیعین للہ عزوجل  
 متثلین امره جل ثناؤه لتعتقد المراتاة ان ذلك  
 خیراً لهما من الجہاد والغزولباروی عن النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لیس شیء خیر الامراتاة  
 من زوج او قبری وقال صلی اللہ علیہ وسلم مسکین  
 مسکین مسکین رجل لیست له امراتة قبل  
 یارسول اللہ وان کان غنیاً من المال قال وان  
 کان غنیاً من المال وقال ایضاً مسکینة مسکینة  
 امراتة لیس لهما زوج قبل یارسول اللہ وان کان  
 غنیة من المال قال صلی اللہ علیہ وسلم وان  
 کانت غنیة من المال ولیستحب ان یکون العقد  
 یوم الجمعة او الخمیس والمساء اولی من التبکیر  
 ولیسن ان تكون الخطبة قبل التواجب فان  
 اخرت جاز و هو مخیر بین ان یعقد النکاح  
 بنفسه او لیکل فیہ غیره فاذا العقد العقد

حضرت عمران بن حصین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:  
 کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ فرمایا: ہاں ان کا جہاد غیرت ہے وہ اپنی  
 خواہشات نفسانیہ سے جہاد کرتی ہیں پھر اگر وہ اس جہاد پر جہی رہیں تو  
 وہ مجاہد خواتین ہیں، اگر مردوں کے جہاد پر جانے کے بعد وہ اپنے گھروں  
 میں خوش رہیں تو وہ اللہ کی راہ میں پہرہ دینے والیاں ہیں اور ان کے  
 لئے دودا اجر ہیں، لہذا میاں بیوی کو قبل از نکاح و ہمبستری مذکورہ بالا  
 ثواب پر یقین رکھنا چاہیے تاکہ ہر ایک ایک دوسرے کا واجب حق  
 ادا کر سکے کیونکہ قرآن حکیم میں ہے اور ان کے مردوں پر رہی حقوق ہیں  
 جو مردوں کے ان پر حقوق ہیں تاکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار  
 و فرماں بردار بندے بن کر رہیں، عورت عقیدہ رکھے کہ مجھے اپنے  
 نفس سے جہاد کرنا کافروں سے جہاد کرنے سے افضل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کے لئے شوہر سے یا قبر سے بہتر کوئی چیز نہیں؛ نیز  
 آپ نے فرمایا: مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے (یعنی وہ شخص  
 جس کی بیوی نہیں ہے پوچھا گیا: یا رسول اللہ اگر چہ وہ مال دار ہو؟  
 فرمایا: اگر چہ وہ مالدار ہو۔ پھر فرمایا: احتیاج والی ہے احتیاج والی  
 ہے، احتیاج والی ہے یعنی وہ عورت جس کا شوہر ہو، پوچھا گیا: یا رسول اللہ  
 اگر چہ وہ مالدار ہو؟ فرمایا: اگر چہ وہ مالدار ہو، نکاح جمعہ کے دن  
 یا جمعرات کے دن رکھنا مستحب ہے اور صبح کی بہ نسبت شام اولیٰ ہے  
 اور ایجاب و قبول کرنے کے قبل خطبہ مسنون ہے اگر ایجاب و قبول کے  
 بعد خطبہ پڑھا جائے تو بھی جائز ہے، اور اس میں اختیار ہے  
 کہ نکاح خود کرے یا اپنی طرف سے کسی کو مختار بنا کر نکاح پڑھا  
 کے بعد حاضرین مجلس ان الفاظ میں دوہا دوہا کہہ کر مبارکباد دیں۔  
 حق تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ پر برکتوں کی ریل پیل رہے  
 اور تم دونوں میں خیر و عافیت کے محبت و موافقت پیدا فرمائے  
 اگر لڑکی اور لڑکے کے گھر والے ہمت مانگیں تو انہیں اتنی ہمت



لیستحب للحاضرين ان یقولوا یا بارک اللہ لک وبارک  
علیک وجمع بینکما فی خیر و عافیة ثم ان طلبت  
المرأة واهلها الا مهال استحب له اجابتهم  
الی ذلک قدر ما یعلم التمیئی لا مورہا فیہ  
وقضاء حوائجہا من شراء الجہاز والتزیین  
لہا فاذا زفت الیہ اتبع ماروی عن عبد اللہ بن  
مسعود رضی ذلک انہ جاءہ رجل فقال انی  
تزوجت بجاریة بکر وقد خشیت ان تکوہنی  
او تفرکنی فقال لہ ان الالف من اللہ والفک  
من الشیطان واذا دخلت الیک فمرہا لتصل  
خلفک رکعتین وقل اللہم یا رب لی فی اہلی  
و بارک لاہلی فی اللہم ارزقنی منہم وارزقہم  
منی اللہم اجمع بیننا اذا جمعت فی خیر و  
فرق بیننا اذا فرقت الی خیر فاذا اراد الجماع  
فلیقل بسم اللہ العلی العظیم اللہم اجعل  
ذریة طیبة ان قدرت ان تخرج عن صلی  
اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان  
ما رزقتنی واذا قضی حاجتہ فلیقل بسم اللہ  
الحمد للہ الذی خلق من الماء بشرا فجعله  
نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا یقول ذلک  
فی نفسہ ولا یجری بہ شفیتہ والاصل  
فی ذلک ماروی کرب عن ابن عباس رضی  
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال  
بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب

دینا مستحب ہے جس میں وہ شادی کے ضروری کام انجام دے لیں اور  
چیز کی ضروریات پوری کر لیں اور رخصتی کے لئے ضروری سامان فراہم کر  
لیں پھر جب دلہن نکاح کے بعد بنا سوار کر رخصت کر دی جائے اور  
شب زفاف ہو تو حضرت ابن مسعودؓ والی حدیث پر عمل کرے فرماتے ہیں  
کہ میرے پاس ایک شخص نے آکر کہا: میں نے ایک بدشیزہ سے شادی  
کی ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے نفرت نہ کرے اور مجھے دشمن نہ سمجھے  
فرمایا: محبت حق تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور نفرت و عداوت شیطان کی  
طرف سے ہے جب وہ تیرے پاس خلوت میں آئے تو اسے ہدایت  
کر کہ میرے پیچھے دو گانہ ادا کر دو گانہ سے فارغ ہو کہ یہ دعا مانگ  
اے اللہ مجھے میری بیوی میں اور میری بیوی کو مجھ میں برکت عطا فرما  
اے اللہ ان سے مجھے فائدہ پہنچا اور مجھ سے انہیں اے اللہ اگر تو  
اجتماع فرمائے تو خیر کے ساتھ ہم دونوں میں اجتماع فرما اور اگر  
تفریق کرے تو خیر کے ساتھ تفریق کر۔

ہمبستری کی دعا | ہمبستری سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے: اس  
اللہ کے نام سے جو بلند و عظیم ہے اے اللہ اگر تو نے میری پشت  
سے اولاد مقدر فرمائی ہے تو پاکیزہ اولاد پیدا فرما اے اللہ مجھے  
شیطان سے بچا اور میری اولاد کو بھی جسے تو مجھے نصیب فرمائے گا  
شیطان سے بچا۔

ہمبستری سے فراغت کی دعا | فارغ ہو کر یہ دعا پڑھی جائے  
اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کا شکر ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا  
کیا پھر اسے صاحب نسب اور سسرال والا بنایا اور تیرا پیر و روگار  
بڑی قدرت والا ہے یہ دعا دل ہی دل میں پڑھے ہونٹ اور  
زبان نہ ہلائے اس کی دلیل حدیث ابن عباسؓ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ  
فرمایا: اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے  
تو یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا



الشیطان ما رزقنا ثم ان قدر ان یكون بینہما ولد فی ذلک لم یضر شیطان ابدا و اذا ظهرت امارۃ جبل المرآة فلیصف غذاہا من المحرام والتشبهۃ لیتخلق الولد علی اساس لا یكون الشیطان علیہ سبیل و الاولی ان یكون من حین الزفاف و یدوم علی ذلک لیتخلص ہر اہلہ و ولدہ من الشیطان فی الدنیا و من النار فی العقبی قال اللہ عزوجل یا ایہا الذین امنوا قرا انفسکم و اہلیکم نارا و مع ذلک یدفع الولد صلحا باراً بوالدیہ طائعا لریہ عزوجل کل ذلک ببرکۃ تصفیہ الغذاء فاذا فرغ من الجماع نضح عنہا و غسل ما بہ من الأذی و ترضان اراد العود الیہا و الا اغتسل و لا ینام جنبا فانہ مکروہ و کذا لک روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان لیشق ذلک علیہ لبرد او لجد حمام و ماء او خوف و نحو ذلک فینام الی حین روال ذلک و لا یتقبل القبلة عند الجماعۃ و یعطی راسہ و یتتبع العیون و ان کان عن صبی طفلا لانه مروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا أتى احدکم اہلہ فلیستتر فانہ اذا لم استتبت الملتکک و خرجت و یحصر الشیطان و اذا کان بینہما ولد کان الشیطان فیہ شریکا و کذا لک یروی عن السلف انه اذا لم یستتر عند الجماع التف الشیطان علی اہلیہ یطاکما یطأ و لیتحب لہ الملاعبۃ لہا قبل الجماع و الا یطأ

پھر اگر اس صحبت سے کوئی بچہ مقدر میں ہوگا اسے شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب آثار حمل ظاہر ہوں تو عورت کو حرام و شہ سے پاک غذا استعمال کرانی جائے تاکہ بچہ کی ایسی بنیاد پر پیداؤں ہو جس میں شیطان کے لئے کچھ حصہ نہ ہو اور شیطان بچہ پر کسی راہ سے بھی غالب نہ پاسکے اور اس پر یہ ہے کہ ایسی غذا شب زنا سے شروع کر دی جائے اور اس پر ہمیشگی کی جائے تاکہ خود معہ اہل و عیال کے دنیا میں شیطان اور آخرت میں آگ سے چھٹکارا نصیب ہو فرمایا اسے لوگو اپنی جانوں کو اور گھردلوں کو آگ سے بچاؤ، علاوہ ازیں حلال و طیب غذا سے بچنے لیک، ماں باپ کا فرمانبردار اور رب کا اطاعت گزار بن کر نشوونما پائے گا۔ یہ حلال روزی کی برکت ہوگی، ہمبستری سے فارغ ہو کر بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ اور پیدمی و صہو ڈالو اگر دوبارہ اسی شب میں اس کے پاس جانا چاہو تو بیچ میں وضو کر لو ورنہ نہالو جنابت کی حالت میں سونا مکروہ ہے اسی طرح رسول اللہ صلعم سے روایت آتی ہے ہاں اگر گھٹھ کی وجہ سے یا حمام کے یا پانی کے در ہونے کی وجہ سے یا خوف وغیرہ کی وجہ سے نہانا دشوار ہو تو اس سبب کے بہٹ جانے تک سو جائے صحبت کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ کرو، سر ڈھانپ لو اس طرح پردہ کر لو کہ کسی صورت سے بھی کوئی دیکھنے نہ پائے حتیٰ کہ چھوٹے بچوں اور شیرخوار بچوں سے بھی پردہ کر لو کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اسے پردہ کر لینا چاہیے کیونکہ اگر پردہ نہ کرے گا تو فرشتے شرا کر چلے جائیں گے اور شیطان آجائے گا اور اگر بچہ ہوگا تو شیطان اس میں شریک ہوگا اسی طرح سلف سے روایت ہے کہ اگر صحبت سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تو شیطان آگیا اس میں لپٹ کر جماع میں شریک ہو جائے گا، صحبت سے پہلے عورت سے بوس و کنار کرنا مستحب ہے اسی طرح اپنی قضائے حاجت کے بعد بیوی کی قضائے حاجت کا بھی انتظار کرو کیونکہ ادھر میں چھوڑنا



لہا بعد قضاء حاجتہ حتی تقضى حاجتها فان  
ترك ذلك مضرة عليها ربما افضى الى البغضاء  
والمفارقة وان اراد العزل عنها فلا يفعل  
الا باذنہا ان كانت خرة و باذن سیدھا  
ان كانت امة وان كانت امة جاز لغير اذنھا  
لان الحق له دونھا وقد جاء رجل الى رسول الله  
صلى الله عليه وسلم فقال ان لی جاریة ہی خادمتنا  
اطوف علیھا وانا اکره ان تحمل قال صلى الله  
عليه وسلم اعزل عنها ان شئت فانه سيأتيھا  
ما قدر لھا و یجتنب و طیھا فی حال الحيض  
والنفاس و كذلك بعد القطار الدم حتى تغتسل  
من الحيض قولا واحدا و فی النفاس قبل الاربعة  
استحبابا فان لم تجد الماء و جب التيمم فان  
خالف فرطی فیہ تصدق بدینار او نصف دینار  
على احد الروایتین والاخری لیستغفر الله تعالى  
ویتوب ان یرجع الی مثلہ ولا یکفر و یجتنب  
و طیھا فی الموضع المکروه قال النبی صلی الله  
عليه وسلم ملعون من اتى امرأة فی دبرھا فان  
لم تشق نفسه الی الجماع لا یجوز له ترکہ لان  
لہا حق فی ذلك و علیھا مضرة فی ترکہ لان  
شهرتها اعظم من شهرته وقد روى ابو هريرة  
رض ان النبی صلی الله عليه وسلم قال فضلت  
شهوة النساء علی الرجال بتسعة وتسعين  
الا ان الله تعالى القى علیهن الحیاء وقیل للشهر  
عشرون اجزاء تسعة منها للنساء و واحدة

اس کے لئے مضر ہے اور اس طرح بغض و عداوت تک بلکہ جدائی تک  
ذمت آجاتی ہے اگر بیوی سے عزل کرنا چاہو تو پہلے اس سے اجازت  
لے لو بشرطیکہ وہ آزاد ہو، اگر دوسرے کی لونڈی ہو تو اس کے مالک  
سے اجازت لے لو اور اگر اپنی لونڈی ہو تو اجازت کی ضرورت نہیں  
کیونکہ حق تمہارا ہے لونڈی کا نہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر  
عرض کی کہ میری ایک لونڈی جو ہم گھر والوں کی خدمت کرتی ہے  
میں اس سے صحبت بھی کرتا ہوں لیکن حاملہ کرنا نہیں چاہتا کیا میں اس  
عزل کر سکتا ہوں؟ فرمایا اگر چاہو تو عزل کر لو جو کچھ اس کے مقدر میں  
ہے اس کا ظہور تو ہو کر رہے گا، حالت حیض و نفاس میں اپنی بیوی سے  
بھی ہمبستری سے بچو اسی طرح خون رک جانے کے اور ایام گزار جانے کے  
بعد عورت کے نہانے سے قبل بھی بچو، ایک روایت کی رو سے حالت نفاس  
میں چالیس دن سے پہلے بچنا مستحب ہے، حیض و نفاس سے پاک ہونے  
کے بعد اگر عورت کو پانی نہ مل سکے تو تیمم کر لے، اگر حالت حیض میں صحبت  
کر لی تو ایک روایت کی رو سے ایک دینار یا آدھا دینار خیرات کیا جائے اور  
دوسری روایت کی رو سے حق تعالیٰ سے پرخلوں تو بر کرے اور گناہ کی معافی مانگ  
لے اور آئندہ ایسا نہ کرے کفارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ بیوی کی دبر میں  
صحبت کرنا مکروہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ ملعون ہے جو اپنی عورت کی  
دبر میں آئے۔ اگر بیوی سے ہمبستری کو دل نہ چاہے تو اس سے ہمبستری  
کو چھوڑ دینا جائز نہیں کیونکہ ہمبستری اس کا حق ہے اور ترک صحبت  
اس کے لئے مضر ہے کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ  
ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رض کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں  
کی شہوت مردوں کی شہوت سے ۹۹ درجے زیادہ ہوتی ہے مگر حق تعالیٰ نے  
ان پر شرم غالب فرمادیا ہے، کہا جاتا ہے کہ شہوت کے حصے  
میں ۹۱ حصے عورت کے لئے ہیں اور ایک حصہ مرد کے لئے ہے، چار  
ماہ سے زیادہ بلا صحبت کے عورت کو نہ چھوڑا جائے بل اگر مرد کو



للرجال والقدر الذی لا یجوز ان یؤخر الوطی  
 عنہ اربعة اشهر الا ان یکون له عذر فان  
 جاوز الاربعة الا شهر کان لها فراقه وان  
 سافر عنها صدقة اکثر من ستة اشهر فطلبت  
 منه القدر ومقابی ان یقدم مع القدر لا کان  
 للحاکم ان یفرق بینهما اذا طلبت الزوجة  
 ذلک وهذا هو التاقیت الذی وقتہ عمر ابن  
 الخطاب رضی للناس فی مغازیہم لیسیر وبن  
 شہرہ اذ یقینون اربعة اشهر و لیسیر وبن  
 راجعین الی اہلہم شہراً و اذا ارائی امرأة  
 غیرہ فاعجبتہ جامع امراتہ لیسکن صابہ  
 من الترقان لما روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 انه قال اذا رای احدکم امرأة تعجبه فلیات  
 اہلہ فان الشیطان یقبل فی صورة امرأة ویدبر  
 فی صورة امرأة فمن لم تکن له امرأة یلتجئ  
 الی اللہ عزوجل ویسأله السلامة من المعاصی  
 ولینتعیذ بہ من الشیطان الرجیم ولا یجوز  
 له ان یحدث غیرہ بما جرى بینہ وبين اہلہ  
 من امر الجماع ولا للمراة ان تحدث بذلک  
 للنساء لان ذلک سخیف ودناءة وقبیح فی الشرع  
 والعقل لما روى البرہزیریة رضی فی حدیث فیہ  
 طول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ان قال  
 ثم اقبل علی الرجال فقال هل متکم الرجل  
 اذا اتی اہلہ فاعلق علیہ بابه والقی علیہ  
 سترا واستتر لیستر اللہ قالوا نعم قال ثم

کوئی عذر ہی ہو تو خیر اگر چار ماہ سے زیادہ مدت گزر جائے تو اگر عورت  
 مرد سے علیحدگی چاہے تو علیحدہ ہو سکتی ہے اگر شوہر چھ ماہ سے زیادہ غائب  
 رہا اور بیوی نے اسے بلا یا لیکن شوہر قدرت کے ہاں جو نہیں آیا تو اگر بیوی  
 چاہے تو حاکم دونوں میں تفریق کرادے یہ وہ مدت ہے جسے حضرت عمر  
 نے مجاہدین کے لئے مقرر فرمائی تھی جس میں دو ماہ آمد و رفت کے اور چار  
 ماہ اقامت کے شمار کئے گئے ہیں، اگر اتفاق سے کسی عورت پر نگاہ پڑ  
 جائے اور وہ اچھی معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہمبستری کر لو تاکہ  
 شہوت کو سکون حاصل ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی  
 کسی عورت کو دیکھے جو اسے اچھی معلوم ہوتی ہو تو اسے اپنی بیوی کے  
 پاس چلا جانا چاہیے کیونکہ عورت کی صورت میں شیطان آتا جاتا ہے لیکن  
 اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو حق تعالیٰ جل مجدہ کی پناہ میں آجائے اور اس  
 اپنی عصمت کے تحفظ و بقا کی التجا کرے اور گناہوں سے بچنے کی دعا یہی  
 مانگتا رہے اور مرد و شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے۔

شوہر کو جائز نہیں کہ خلوت کی باتیں کسی پر ظاہر کرے اور نہ بیوی  
 کسی پر اپنی خلوت کا راز کھولے کیونکہ یہ حماقت اور کمینہ پن اور کم ظرفی  
 ہے اور شرع و عقل دونوں کی رو سے برائے۔ کیونکہ ایک طویل حدیث  
 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شروع کر کے اٹھائے حدیث  
 میں ہے، پھر آپ نے مردوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا:-  
 کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو دروازہ بند کر کے اور کپڑا  
 اوڑھ کر اپنی بیوی سے ہمبستر ہو اور اس نے اللہ کی چھپائی  
 ہوئی چیز کو چھپایا ہو؟ لوگوں نے کہا: ہاں ایسے بہت موجود ہیں  
 فرمایا پھر اس کے بعد وہ ایک مجلس میں بیٹھ کر کہتا ہے: میں نے ایسا  
 ایسا کیا رادی کہتا ہے: اب صحابہ خاموش ہو گئے پھر آپ نے عورتوں  
 سے متوجہ ہو کر فرمایا: کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنی خلوت کی



يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا افعلت كذا  
 قال فسكتوا قال فاقبل على النساء فقال هل ممن  
 من تحدث فسكتن فجئت فتاة على احدى كتيها  
 وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها  
 وليسمع كلامها فقالت يا رسول الله انعم لي تحدث  
 وانهم ليتحدثن فقال هل تدرون ما مثل ذلك  
 انما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاني  
 السكة فقضى مثل حاجته والناس ينظرون  
 اليه الا ان طيب الرجال ما ظهر رجليه ولم يظهر  
 لونه الا ان طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر رجليه  
**فصل** واذا دعا امرأة للجماع فابت عليه  
 كانت عاصية لله تعالى وعليها وزر قال النبي  
 صلى الله عليه وسلم في حديث ابى هريرة رض  
 ايا امرأة منعت زوجها حاجته كان عليها  
 قيراطان من الاصر وايا رجل منع زوجته  
 حاجتها كان عليه من الاصر قيراط لعني الا  
 وفي بعض الاحاديث قال صلى الله عليه وسلم اذا  
 دعى احدكم امراته الى فراشه فلتاتم وان كان  
 على التنور وروى ابو هريرة رض عن النبي صلى الله  
 عليه وسلم انه قال اذا دعى احدكم امراته  
 الى فراشه فلتاتم فبات غضبان عليها لعنتها  
 الملائكة حتى تصوم وعن قيس ابن سعد رضى الله  
 عنه قال اتيت الحيرة فرايتهم يسجدون  
 لمزبان لهم فابت النبي صلى الله عليه وسلم  
 فقلت يا رسول الله انت احق ان يسجد لك

باتیں بیان کرتی ہو، عورتیں چپ رہیں لیکن ایک نوجوان خاتون نے اپنے گھٹنے پر اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بلند کر کے دیکھا تاکہ آپ کی باتیں سنے۔ پھر وہ بولی: یا رسول اللہ خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی، فرمایا: جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد سے گلی میں سر راہ مل گئی ہو اور لوگوں کے سامنے اس نے اس سے اپنی حاجت پوری کی ہو۔ دیکھو مردوں کی خوشبو میں بوتیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا۔ اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بوتیز نہیں ہوتی۔

صحبت کے سلسلہ میں عورتوں کی اطاعت اگر شوہر اپنی بیوی کو ہمبستی کے لئے بلائے اور وہ انکار کر دے تو گناہ گار ہوگی اور گناہ گار بال عورت ہی پر ہوگا۔ حدیث ابو ہریرہ رض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس عورت نے اپنے شوہر کو اس کی حاجت سے روکا اس پر دو قیراط گناہ ہے اور جس مرد نے اپنی بیوی کو اس کی حاجت سے روکا اس پر ایک قیراط گناہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی اپنی بیوی کو ہمبستی کے لئے بلائے تو اسے حاضر ہونا چاہیے اگرچہ تنور پر ہو، حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی اپنی بیوی کو ہمبستی کے لئے بلائے اور وہ نہ آئے اور شوہر اس سے ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔

قیس بن سعد کا بیان ہے کہ میں شہر حیرہ گیا۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو اپنے بادشاہ کے آگے سجدہ کرتا ہوا پایا، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا: یا رسول اللہ! آپ کو سجدہ کیا جانا زیادہ لائق ہے، فرمایا: بھلا بتاؤ تو سہی، اگر تمہارا



فقال صلى الله عليه وسلم اريت لومرت بقبري  
اكنت تسجد له قال قلت لا قال صلى الله عليه  
وسلم فلا تفعلوا ذلك اذا وقال صلى الله عليه  
وسلم لو كنت امر احد ان يسجد لاحد  
لامرت النساء ان يسجدن لزوجهن لما  
جعل الله عز وجل لهن عليهن من الحقوق و  
المرزبان هر ملك لهن وعن حكيم بن مغيرة  
القشيري رفا عن ابيه قال قلت يا رسول الله صلى الله  
عليه وسلم ما حق زوجة احدنا عليه قال صلى الله  
عليه وسلم ان تطعمها اذا اطعمت وتكسوها  
اذا اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح  
الوجه ولا تهجر الا في البيت فان امرت  
المرأة على الشر وهو الامتناع عن الاجابة  
لهذا الشأن او تجيبه متكرهه متبرمة  
فليبدء الزوج بعظها وتخفيفها بالله عز وجل  
فان اقامت على ذلك هجرها في المضجع والكل  
فيما دون ثلثة ايام فان ارتدعت والكان  
له من بها سالا يكون مبرحا كالدرء او مخراق  
لان المقصود ارتداعها وطاعتها لا اهلا  
فان لم يتصلح الحال بينهما بعث الحاكم حكيم  
حريين مسلمين عدلين من اهلها وليوكلاهما  
الزوجان فينظران بينهما ما فيه من المصلحة  
من اصلاح او فراق بال وغيره فما يفعلان  
يلزمهما حكمه -

**فصل في وليمة العرس والسنة**

میری قبر کے پاس سے گزر رہو تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ میں نے  
کہا: نہیں، فرمایا: پھر تو اب بھی سجدہ نہ کرو، فرمایا: اگر میں  
کسی کو کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ  
اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ حق تعالیٰ سجدہ نے ان پر  
شوہروں کے حقوق رکھے ہیں۔

حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میرے  
والد فرماتے تھے: میں نے کہا یا رسول اللہ: ہم پر ہماری بیوی  
کا کیا حق ہے؟ فرمایا: جب کھاؤ تو اسے کھلاؤ اور جب پہنو تو  
اسے پہناؤ، چہرے پر مت مارو، چہرے کو نہ بگاڑو، گھر کے علاوہ  
اس سے علیحدہ نہ رہو اگر بیوی اپنی سرکشی اور نافرمانی پر اڑی رہے  
شوہر کی بات نہ مانے، اس سے بیزار رہے اور اس سے متنفر  
ہو تو شوہر کو سپہ اسے محبت و پیار سے وعظ و نصیحت کے ذریعہ  
سمجھانا چاہیے اور اللہ کا ڈر یاد دلانا چاہیے اگر پھر بھی وہ اپنی  
ضد پر قائم رہے تو تین دن تک اس کے پاس سونا اور اس سے  
بات کرنا چھوڑ دے اگر ٹھیک ہو جائے نہا ورنہ شوہر کو حق ہے  
کہ اسے نشانہ ڈالنے والی ضرب سے مارے اور سے اور کوڑے  
دیگرہ سے نہ مارے کیونکہ مارنے سے مقصد یہ ہے کہ وہ سیدھی ہو  
جائے اور حکم ماننے لگے اسے ہلاک کرنا مقصود نہیں ہے اگر اس  
طرح بھی دونوں میں میل نہ ہو تو حاکم دونوں کے عزیزوں میں سے  
دو عادل آزاد مسلمانوں کو کھڑا کرے اور میاں بیوی ان دونوں کو  
پہنچ چن لیں یہ دونوں میاں بیوی میں صلح کرنے کی تدبیر پر غور کریں  
اگر صلح ممکن نہ ہو تو مال وغیرہ کے ذریعہ دونوں میں علیحدگی کر دیں  
غرضیکہ یہ دونوں پہنچ جو بھی فیصلہ کریں میاں بیوی کو اس کا  
ماننا لازم ہے۔

ولیمہ شادی کا ولیمہ مستحب ہے۔ مسنون یہ ہے کہ ایک بکری سے



ان لا ینقص فیہا عن شاة و باقی شئی اولم من  
الطعام جاز و تجب اجابتہ اذا کان مسلماً فی  
الیوم الاول و یتحب فی الیوم الثانی و یباح فی  
الیوم الثالث بل ہی ذناؤة و الاصل فی ذلک ما  
روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
لعبد الرحمن اولم و لربناؤة و قال صلی اللہ  
علیہ وسلم الولیمة فی اول یوم حق و الثانی  
معروف و بعد ذلک ذناؤة و قال صلی اللہ علیہ  
وسلم فی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا  
دعی احدکم الی ولیمة عرس فلیجب فان کان  
مفطراً اکل و ان کان صائماً ترک و الاصل  
وہل یکرہ النار و التقاطہ امر لا علی الروایتین  
علی احدہما یکرہ لما فیہ من السخف و الذناؤة  
للنفس و النهیة و الشلہة فکانت الصیانة  
عن ذلک اولی و ترکہ فی باب الوریح و  
علی الروایة الثانیة لا یکرہ لما روی ان النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم مخرب دنة و خلی بینہما و  
بین المساکین و قال من شاء اقتطع و لا فرق  
بین النار و بین ذلک و اولی من ذلک القسمة  
بین الحاضرین فانه اطیب و احل و ادخل فی  
باب الوریح۔

فصل فی اذا کملت شرائط النکاح و هو  
حصول الولی العدل و الشہور و العتول و الکفاؤة  
و الخلو من المانع من الردة و العدة و غیرہما  
استاذنہا العاقد للنکاح اذا لم تکن مہجورة و

کم کا ولیمہ نہ ہو باقی ولیمہ میں جو کھانا تیسرا ہو جائز ہے۔ اگر مسلمان پہلے  
دن ولیمہ کی دعوت کرے تو اس کا قبول کر لینا واجب ہے دوسرے دن  
مستحب ہے اور تیسرے دن جائز ہے بلکہ ہدکاپن ہے ایک بکری کے  
ولیمہ کا ثبوت یہ ہے کہ نبی صلعم نے عبدالرحمن بن عرف سے فرمایا تھا:  
ولیمہ کر و اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو۔ نبی صلعم نے فرمایا: ولیمہ پہلے  
دن سنت ہے دوسرے دن شہرت اور اس کے بعد ہدکاپن ہے۔  
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر کسی کی  
ولیمہ کی دعوت کی جائے تو وہ دعوت اسے قبول کر لینی چاہیے  
اگر روزہ دار نہیں ہے تو کھانا کھائے ورنہ کھانا نہ کھائے، اور  
واپس چلا آئے، بکیر نے اور لوٹنے کے سلسلہ میں دو روایتیں آتی  
ہیں ایک روایت کی رو سے مکروہ ہے کیونکہ یہ کم ظرفی اور شرافت  
سے گرا ہوا فعل ہے اور لوٹ اور حرص و طمع بھی ہے اس لئے اس  
سے بچنا ہی اولی ہے اور پارسائی کے باب سے ہے اور دوسری روایت  
کی رو سے مکروہ نہیں ہے کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلعم نے  
ایک اونٹ ذبح کیا اور اسے غرباء کے لئے چھوڑ دیا اور فرمایا:  
جو چاہے اس کا گوشت کاٹ کر لے جائے، ظاہر ہے  
کہ یہ حکم بکیر نے ہی کے مترادف ہے۔ لیکن بہتر حاضرین  
میں بانٹنا ہی ہے۔ کیونکہ تقسیم بشریفانہ ہے، اور چیز بھی  
حلال طریقہ سے ہر ایک کے پاس آرام سے پہنچ جاتی ہے  
اور باب وریح میں بھی داخل ہے۔

★

نکاح کے لئے لڑکی کی اجازت | جب نکاح کی تمام شرطیں  
رعادل دلی، عادل گواہان اور کفو کا پایا جانا، پوری ہوں اور  
رکاوٹیں (ارتداد اور عدت وغیرہ) بھی نہ ہوں تو نکاح کرنے  
والا عورت سے نکاح کی اجازت حاصل کر لے بشرطیکہ نکاح کے



اذا كانت ثيبا او بكر الا اب لها وعرفها الزوج  
 مقدار الصداق وصفته ثم يخطب ويستغفر  
 الله عز وجل ويامر بذلك الولي على وجه الاستحباب  
 والاولى ثم ليستنطقه فيقول له قد زوجتك  
 بنتي او اختي فلانة فبسمها على ما اتفق عليه  
 من الصداق ويقول الزوج قد قبلت هذا النكاح  
 ولا ينعقد النكاح الا بالعربية لمن يحسنها فان  
 لم يحسنها فبلسانه ولغته وهل يلزمه تعلم  
 العربية اذا لم يحسنها العقد النكاح امر اهل  
 الوجهين وليستحب ان يخطب بخطبة عبد الله  
 ابن مسعود رضي الله عنه روى ان الامام احمد بن  
 حنبل رضي الله عنه اذا شهد املاكا ولم يسمع خطبة  
 عبد الله بن مسعود ترك الاملاك والنصف  
 وهو ما اخبرنا به الشيخ الامام مهبة الله بن  
 المبارك بن موسى السقطي ببغداد عن القاضي  
 المظفر هناد بن ابراهيم بن محمد بن نصر النسفي  
 عن القاضي ابي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد  
 الهاشمي البصري عن محمد بن احمد اللؤلؤي  
 عن ابي داود وقال حدثنا محمد بن الانباري  
 المفتي قال حدثنا وكيع عن اسرافيل عن ابي  
 اسحق عن ابي الاحوص عن ابي عبيدة عن  
 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمت رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله  
 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من  
 شرور الفسناد من سيئات اعمالنا من يهدي الله

لئے اس پر جبر نہ کیا گیا ہو (جبر کی گئی) بیوہ، مطلقہ یا بلا بائ  
 کے درمیانہ لڑکی کو کہا جاتا ہے اور شوہر ہونے والی بیوی کو بہر  
 کی مقدار اور اس کی ادائیگی کی پوری تفصیل بتا دے تو خطبہ نکاح  
 پڑھا جائے اور گناہوں سے معافی مانگی جائے، مستحب اور اولیٰ یہ ہے  
 کہ خطبہ ولی پڑھے اور خطبہ پڑھ کر شوہر سے کہے: میں نے اپنی بہن  
 فلان بنت فلان یا اپنی بیٹی فلان بنت فلان اتنے (منفقہ) بہر پر  
 آپ کے نکاح میں دی کیا آپ نے قبول کی شوہر کہے میں نے قبول  
 کی، عربی داں کو نکاح عربی ہی میں پڑھانا لائق ہے ورنہ نکاح منعقد  
 نہ ہوگا البتہ جو عربی سے ناواقف ہو وہ اپنی زبان میں نکاح پڑھا  
 نکاح ہو جائے گا۔

نکاح کا خطبہ | اس میں دو روایتیں ہیں کہ نکاح پڑھانے کے لئے  
 کیا عربی کا سیکھنا لازم ہے؟ کوئی لازم بتاتا ہے اور کوئی نہیں۔  
 نکاح میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے  
 کیونکہ اگر امام احمد کسی مجلس نکاح میں عبداللہ بن مسعود کا خطبہ نہیں  
 سنتے تو وہ مجلس چھوڑ کر چلے جاتے تھے، آپ کا خطبہ مندرجہ ذیل ہے  
 ہا خبار شیخ امام بہتہ اللہ بن مبارک بن موسیٰ سقطی در بغداد از  
 قاضی مظفر ہناد بن ابراهیم بن محمد بن نصر نسفی از قاضی ابو عمر قاسم بن  
 جعفر بن عبد الواحد ہاشمی بصری از محمد بن احمد لؤلؤی از ابو داؤد  
 بتحدیث مفتی محمد بن انباری: بتحدیث وکیع از اسرافیل از ابو اسحاق  
 از ابو الاحوص از ابو عبیدة از عبداللہ بن مسعود را ہمیں رسول اللہ  
 صلعم نے خطبہ حاجت سکھایا جو الحمد للہ نحمدہ الخ ہے یعنی تمام  
 تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے  
 ہیں اور اس سے دعائے مغفرت مانگتے ہیں اور اپنے ہم نفسوں کی  
 شرارتوں اور برے عملوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جسے اللہ  
 ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرنے



فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد  
ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده  
ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم  
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث  
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي  
تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم  
رقيبا ط يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا  
قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم  
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا  
عظيما وليستحب ان يضيف اليها قرله عز وجل  
وانكحوا لا يباحي منكم والصلحين من عبادكم  
واما انكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من  
فضله والله واسع عليم يرزق من يشاء بغير  
حساب وان قرء غير هذه الخطبة جاز مثل  
ان يقول الحمد لله المنفرد بالائتم الجواد باعطاء  
الذي تحلى باسمائه المتوحد بكبريائه لا يصف  
الواصفون صفته ولا يبعثه الناعتون حق لفته  
لا اله الا الله الواحد الصمد المعبود ليس كمثل  
شيء وهو السميع البصير تبارك الله العزيز  
الغفار بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق  
نبيا صفييا بريئا من العاهات كلها فبلغ ما ارسل  
به سراجا زاهرا ونورا ساطعا وبرهانا لا معا  
صلى الله عليه وسلم وعلى اله اجمعين ثم ان  
هذه الامور كلها بيد الله ليصرفها في طرائقها  
ويضيئها في حقائقها لا مقدم لما اخروا مؤخر

اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا  
کوئی حقدار عبادت نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے  
اور اس کے رسول ہیں لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک  
جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے  
بے شمار مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام  
سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قطع رحمی سے  
بچو بلاشبہ اللہ تم پر نگہبان ہے اسے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ  
اور صحیح صحیح بات کہو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سنوار دے گا اور تمہارے  
گناہ معاف فرما دے گا اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت  
کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ اس کے ساتھ یہ آیت تلا  
مستحب ہے اپنے بیواؤں کی اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں  
کی شادی کراؤ اگر وہ غریب ہیں تو اللہ اپنے مال سے انہیں مالدار  
بنادے گا اور اللہ بڑی فراخی والا اور بڑے علم والا ہے جسے  
چاہتا ہے اسے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔

اس کے علاوہ کوئی دوسرا خطبہ پڑھنا بھی جائز ہے مثلاً خطبہ  
پڑھ لیا جائے تمام بڑائیاں اللہ کے لئے ہیں جو اپنی نعمتوں میں کیتا  
ہے اور اپنے عطیات میں بے حد سخی ہے جو اپنے ناموں سے جلوہ آراہوں  
اپنی کبریائی میں کیتا ہے بیان کرنے والے اس کی شان عظمت کو بیان  
کرنے سے قاصر ہیں اور حمد کرنے والے اس کی حمد کے حق سے سبکدوش  
نہیں ہوتے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، سب سے  
مستغنی ہے، سچا معبود ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ خوب  
سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے اللہ بڑی عزت والا  
اور سچ بخشنے والا ہے اس نے محمد رسول اللہ صلعم کو حق کے ساتھ  
مبعوث فرمایا اور آپ کو برگزیدہ نبی بنایا جو تمام عیوب و نقائص  
سے بری ہیں آپ نے پیغام رسالت لوگوں کو پہنچا دیا حق تعالیٰ



لما قدم ولا یجتمع اثنان الا بقضائهم وقدرة  
 ولكل قضاء قدر ولكل قدر اجل ولكل اجل  
 كتاب ینحی اللہ مالیشاء وثبت وعنده امر  
 الكتاب وكان من قضاء اللہ وقدرة ان فلان  
 ابن فلان ابن فلان یخطب کریتکم فلانة  
 بنت فلان وقد اتکم راغباً فیکم خاطباً  
 کریتکم وقد بذل لہما من الصداق ما  
 وقع علیہ الاتفاق فزوجوا خاطبکم وانکحوا  
 راغبکم قال اللہ تعالیٰ وانکحوا الا یاہی  
 منکم والصلحین من عبادکم واما کم ان  
 یقولوا فقراء ینتہم اللہ من فضلہ واللہ  
 واسع علیم فاذا فرغ من الخطبة عقد النکاح  
 علی ما قدمنا ذکرہ۔

آپ کو ایک روشن چراغ، درخشندہ نور اور ایک چمکدار برہمان بنا یا حق تعالیٰ  
 کی آپ پر رحمتیں اور سلامتیاں ہوں اور آپ کے تمام خاندان والوں پر بھی  
 یہ تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں جن کو وہ ان کی راہوں میں پھیر دیتا ہے  
 اور انہیں ان کے لائق مقامات میں جاری کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چھے  
 ہٹا دے اسے کوئی آگے بڑھانے والا نہیں اور جسے وہ آگے بڑھا دے  
 اسے کوئی پیچھے ہٹانے والا نہیں ایک جگہ دو کا اجتماع اس کی قضاء  
 قدر ہی سے ہوتا ہے ہر فیصلہ کے لئے ایک اندازہ ہے اور ہر اندازے  
 کی ایک مقررہ مدت ہے اور ہر مدت کی تحریر ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے  
 دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے کمال رہنے دیتا ہے اسی کے پاس ام الكتاب  
 اللہ کے فیصلہ اور تقدیر میں یہ ہے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں نیک و خیر فلاں  
 بنت فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ تمہاری طرف رغبت کر کے آیا  
 ہے تاکہ تمہاری نیک و صالحہ دختر سے شادی کرے اور جس قدر خیر  
 اتفاق ہو گیا ہے وہ خرچ کرنے کو تیار ہے لہذا طالب نکاح کا نکاح

کر د اور اپنی طرف رغبت کرنے والے عقد کرو حق تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے بیواؤں کا اور صالح لڑکیوں کا نکاح کرو اگر وہ نادار ہیں تو  
 اللہ تعالیٰ اپنے مال سے انہیں مال دار بنا دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے خطبہ سے فارغ ہو کر مذکورہ بالا طریقہ سے  
 نکاح پڑھا دیا جائے۔

## سائل و اب

### تبلیغ، وعظ و نصیحت

قد ذکر اللہ عزوجل الامرین بالمعروف والنہی  
 عن المنکر ومدحہم فی کتابہ عزوجل الامرین  
 بالمعروف والنہی عن المنکر والحافظون  
 لحدود اللہ وقال اللہ تعالیٰ کنتم خیر امۃ

حق تعالیٰ اجل عبودتہ وعظ و نصیحت کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے اور  
 قرآن حکیم میں ان کی تعریف بیان کی ہے، فرمایا: وہ اچھی باتوں کا حکم  
 کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت  
 کرتے ہیں، فرمایا: تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے



اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون  
 عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال اللہ تعالیٰ و  
 المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء لبعض یامرون  
 بالمعروف وینہون عن المنکر وروی النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم انه قال تامرون بالمعروف  
 وتنهون عن المنکر اولیٰ سلطان اللہ عزوجل  
 شرارکم علی خیارکم فیدعو خیارکم فلا یتجاب  
 لہم وروی سالم ابن عبد اللہ بن عمر عن امیہ  
 رضا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا  
 افلا یتجاب لکم وقیل ان تستغفروا فلا یغفر  
 لکم الا ان الاصر بالمعروف والنہی عن المنکر  
 لا یدفع رزقا ولا یفوت اجرا الا ان الاخبار من  
 الیہود والرحبان من النظر فی ما ترکوا الامر  
 بالمعروف والنہی عن المنکر لعنہم اللہ علی  
 لسان انبیائہم ثم عمرا بالبلاء والامر بالمعروف  
 والنہی عن المنکر واجبان علی کل مسلم  
 حر مکلف عالم بذلک بشرط القدرۃ علی وجہ  
 لا یؤدی الی فساد عظیم وضرر فی نفسہ و  
 مالہ واہلہ ولا فرق بین ان یکون اماما  
 او عالما او قاضیا او واحدا من الرعیۃ وانما  
 شرطنا العلم بالمنکر والقطع بہ لما فی ذلک  
 من خوف الوقوع فی الاثم لانه لا یؤمن المنکر  
 ان یکون الامر بخلاف ما ظن وقد قال اللہ  
 عزوجل یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من

لئے پیدا کیا گیا ہے تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بُری باتوں سے روکتے  
 ہو اور تمہارا اللہ پر ایمان ہے، فرمایا: مومن مرد اور مومن عورتیں بعض  
 بعض کے دوست ہیں جو اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے  
 ہیں۔ رحمت عالم صلعم نے فرمایا: دیکھو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے  
 روکتے ہو اور نہ اللہ تعالیٰ بُروں کو اچھوں پر مسلط فرمادے گا پھر تمہارے  
 اچھوں کی بھی دعائیں قبول نہ ہوگی۔ فرمایا: اس سے پہلے پہلے اچھی باتیں بتاؤ  
 رہو اور بُری باتوں سے روکتے رہو کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو اور اللہ تمہاری  
 دعائیں قبول نہ فرمائے اور تم بخشش مانگو اور تمہیں بخشا نہ جائے کان کھول کر سن  
 لو اچھائیوں کا حکم اور برائیوں کی روک تھام روزی نہیں رکھتی اور نہ عمر میں کمی  
 کرتی ہے دیکھو جب علمائے یہود و نصاریٰ نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ  
 تعالیٰ نے ان پر انبیائے کرام کی زبانوں پر لعنت فرمائی پھر  
 ان پر سہمہ گیر بلائیں آئیں۔

ہر آزاد، مکلف اور عالم معروف و منکر مسلمان پر بشرط قدرت  
 ایسے طریقہ کے ساتھ جس سے فساد عظیم پیدا نہ ہو اور اس کی جان  
 مال اور خاندان والوں کو نقصان نہ پہنچے، وعظ و نصیحت واجب  
 ہے خواہ امام ہو یا عالم ہو یا قاضی ہو، یا ایک عام آدمی  
 ہو۔

ہم نے عالم کی اس لئے شرط لگائی کہ کہیں گناہ کا ارتکاب نہ  
 ہو جائے، کیونکہ جاہل اس سے بے خوف نہیں کہ وہ جو کچھ تمہارا  
 ہے شریعت کے مطابق ہی ہے، کیونکہ وہ اکل سے تہائے گدلا  
 سے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اے ایمان والو! اللہ  
 بہت گمانوں سے بچو، یقین مانو بعض گمان گناہ ہوتے  
 ہیں۔

وعظ پر کسی کے چھپے ہوئے عیب کو طشت از باہم کرنا اور  
 نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا ہے۔



اور فرمایا ہے کہ کریدو جا سوسی نہ کرو، بس ظاہر کا انکار واجب ہے اور پوشیدہ بات کی کرید راز کو طشت از بام کرنا ہے، جو منع ہے۔

قدرت کی اس لئے شرط لگائی گئی کہ نبی صلعم نے فرمایا: جس قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہو اور قوم اسے گناہوں سے روکنے پر قادر ہو لیکن روکنے نہیں تو یقیناً توبہ کرنے سے قبل اللہ سب کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا اس حدیث میں رسول اللہ صلعم نے تبلیغ و وعظ پر قدرت کی شرط لگائی ہے انسان برے کاموں سے روکنے پر اسی وقت قادر ہوتا ہے جب صلحاء کا غلبہ اور باہ نجر کی معاونت اور سلطان کا عدل قائم ہو لیکن اگر اس میں ہلاکت کا ڈر اور حمان و مال کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو تبلیغ کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا: اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ایک جگہ فرمایا: اپنی جانوں کو قتل نہ کر، نبی صلعم نے فرمایا: مومن کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا لائق نہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ! مومن کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا: ایسے کام کی کوشش نہ کرے جس کی اس میں طاقت نہ ہو علاوہ ازیں آپ نے فرمایا: جب تم ایسا گناہ دیکھو جس کے روکنے پر قادر نہ ہو تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہی اسے مٹائے۔

جب کہ یہ ثابت ہو گیا کہ مذکورہ بالا صورت میں روکنے کا واجب نہیں تو اگر جانی یا مالی نقصان کا غالب گمان ہو تو کیا تبلیغ جائز ہے؟ ہمارے نزدیک بلاشبہ تبلیغ جائز ہے بلکہ افضل ہے اگر مبلغ صبر و عزم والا ہو اور ہنزلہ جہاد کے ہے۔ لقمان کے قصہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا: اچھائی کا حکم کیجئے، برائی سے روکنے اور اس راہ میں تمام اذیتیں برداشت کر لیجئے۔ نبی صلعم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو اس آیت والی مذکورہ بالا ہدایت فرمائی۔ خاص طور سے اگر ظالم بادشاہ کو تبلیغ کی جائے تاکہ کفر کی باتوں غلبے نہ رہیں۔

النظن ان بعض الظن اثم ولا يجب عليه كشف ما ستر عنه لان الله تعالى نهى عن ذلك فقال ولا تجسسوا انما الواجب عليه انكار ما ظهر وما في بطن ما ستر كشف الستور ذلك ممنوع عنه

**فصل** وانما شرطنا القدرة على ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من قوم يكون فيهم رجل يعمل المعاصي ويقدر ان لا يغيروا عليه فلا يغيروا عليه الا ان عمرهم الله بعذاب قبل ان يتولوا فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرة في ذلك وهو اذا كانت الغلبة لاهل الصلاح وعدل السلطان ومعاونة اهل الخير واما اذا كان الانكار تعزيراً بالنفس ولحق ضرره وماله فلا يجب عليه ذلك لقوله عز وجل ولا تقاتلوا بايديكم الى التهلكة وقوله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قيل يا رسول الله كيف يذل نفسه قال صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لما لا يمكنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادايتما امرأ لا تستطيعون تغييره فاصبروا حتى يكون الله تعالى هو الذي يغير فاذا ثبت انه لا يجب عليه الانكار فهل يجوز انكاره اذا غلب على ظنه الخوف على نفسه فعندنا يجوز ذلك وهو الا فضل اذا كان من اهل العزيمة والصبر فهو كالجهاد في سبيل الله مع الكفار وقد قال الله تعالى في قصة لقمان عليه السلام واما امر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك وقال النبي صلى الله عليه وسلم



لابی ہریرۃ یا اباہریرۃ مرہ بالمعروف وانہ عن المنکر  
 واصبر علی ما اصابک ولا سیما اذا کان ذلک عند سلطان  
 جابر اولظہار کلمۃ الایمان عند ظہور کلمۃ الکفر لان  
 الفقہاء الفقرا علی ذلک وانما الخلاف بیننا و بینہم  
 فی غیر ہذین الموضعین۔

**فصل** فاذا ثبت وجوب الانکار فالمنکرون

ثلثۃ اقسام تسمی بکون انکارہم بالید وہم الائمة

والسلاطین والقسم الثانی انکارہم باللسان دون

الید وہم العلماء والقسم الثالث انکارہم بالقلب

وہم العامة وقد جاء فی ہذا المعنی حدیث دھوما

روی البرسعیہ الحدری رضی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

انہ قال اذا رای احد منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان

لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک

اضعف الایمان یعنی اضعف فعل الایمان وقدرہ

عن بعض الصحابة رضی عنہ قال اذا رای احد منکم

منکرا فلا یستطیع التکیر علیہ فلیقل ثلث مرات

اللہم ان ہذا منکرا فاذا قال ذلک کان لہ

ثواب من امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔

**فصل** وان غلب علی ظنہ عدم زوال المنکر

ولبقاءہ علی ذلک فہل یجب علیہ الانکار ام لا

علی روایتین عن الامام احمد رحمہما یجب

لجواز ان یرتد ۶ وینزجر ویرق قلبہ ویلحقہ التوفیق

والهدایۃ ببرکۃ صدقہ فیرجع عما ہو علیہ

انکارہ حتی یغلب علی ظنہ زوالہ لان القصد

بالانکار زوال المنکر فاذا قوی فی الظن بقاءہ

اللہ کے اور ایمان کے کلمہ کا اظہار ہو تو تبلیغ کی فضیلت  
 اور بھی بڑھ جاتی ہے کیوں کہ اس پر علماء کا اجماع ہے۔  
 ان دونوں مقامات کے علاوہ ہم میں اور ان میں اختلاف  
 ہے۔

گناہوں سے روکنے کی تین صورتیں | گناہوں سے روکنے کی

تین صورتیں ہیں ایک تو یہ صورت ہے کہ ہر کام ہاتھ سے مٹا دیا

جائے یہ سلاطین و خلفاء کا کام ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ زبان

سے روکا جائے یہ علماء و ادرا و اعظموں کا کام ہے تیسری صورت یہ ہے کہ

اسے دل سے ہٹانا جائے یہ عوام کا کام ہے اس مفہوم میں ایک حدیث

بھی آتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا جب کوئی بُری بات دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے

اور اگر زبان سے بھی نہ مٹا سکے تو اسے دل سے ہٹا سمجھا اور یہ

انتہائی کمزور ایمان ہے یعنی ایمان کا یہ بے حد کمزور فعل

ہے۔ کسی صحابی کا قول ہے: جب کوئی بُری بات دیکھے تو وہ

اس پر روک ٹوک پر قادر نہ ہو تو تین بار کہے اسے اللہ یہ خلاف

شرع کام ہے۔ ایسے شخص کو وہی ثواب ملے گا جو ایک مبلغ

و داعظ کو ملتا ہے۔

اگر تبلیغ کرنے کے باوجود بُری بات کے قائم | ایسی صورت

رہنے پر غالب گمان ہو تو کیا کیا جائے؟ | میں ایک روایت

کی رو سے امام احمد رحمہما کے نزدیک تبلیغ واجب ہے کیونکہ امر کان ہے

کہ مجرم باز آجائے اور ظعن و تشنیع سے متاثر ہو کر رک جائے اور اس کے

دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور مبلغ کی بے لوثی اور صداقت کی برکت سے

اللہ تعالیٰ اسے توفیق برایت نصیب فرمائے اور وہ اپنی حرکتوں سے

باز آجائے کیونکہ غالب گمان جواز انکار کے خلاف نہیں اور دوسری روایت

کی رو سے رو انکار واجب نہیں کیونکہ تردید سے غرض بُری بات کا ختم کرنے



جان ترکہ اولی۔

فصل ویشترط فی الامر بالمعروف والنہی

عن المنکر خمس شرائط اولها ان یکون عالما

بما یامر وینہی والثانی ان یکون قصدا وجه الله

واعزاز دین الله واعلاء کلمة الله وامرہ دون

الریاء والسمعة والحیة لنفسہ وانما ینصر ولیرفق

ویزول بہ المنکر اذا کان صادقا مخلصا قال الله

تعالی ان تنصرو الله ینصرکم ویثبت اقدامکم

وقال الله تعالی ان الله مع الذین اتقوا والذین

هم محسنون فاذا تقی الشکر وترک نظر الخلق فی

انکارہ واحسن العمل باخلاصہ فی ذلک کان الظفر

لہ وان کان غیر ذلک کان لہ الخذلان والصغار

والذلة والمهانة وبقاء المنکر علی حالہ بل زیادہ

ونفاقم وضرارة اهل المعاصی والفاق شیاطین

الانس والجن علی مخالفة الله تعالی وترک طاعته و

ارتکاب المحرمات والثالث ان یکون امرہ ونہیہ بالبین

والتردد لا بالفظاظۃ والغلظة بل بالرفق والنعم <sup>تشفقة</sup>

علی اخیہ کیف وافق عدوہ الشیطان اللعین الذی قد

استولی علی عقلہ وزین لہ معصیة ربہ ومخالفة امرہ

یرید بذلک اهلاکہ وادخالہ النار کما قال الله تعالی

انما یدعو احزبہ لیکولوا من اصحاب السعیر وقال الله

تعالی لنبیہ صلی الله علیہ وسلم فبما رحمة من الله لنت

لهم ولو کنت نفا غلیظ القلب لا الفقرا من حولک

وقال تعالی لموسی وهارون حین لجنهما الی فرعون

فقولا لہ قولا لینا لعلہ ینذکرا وینحشی وقال النبی صلی

دینا ہے لیکن غالب گمان یہ ہے کہ وہ ختم نہ ہوگی لہذا تری دید کا چھوڑ دینا اولی ہے۔

تبلیغ کے شرائط | تبلیغ کی پانچ شرطیں ہیں (۱) عالم ہونا، (۲) تبلیغ کی نیت

اللہ کی رضا کی ہو کہ اللہ کے دین کو عزت حاصل ہو اسلام سر بلند ہو اور

اللہ کا قانون بالا رہے، (۳) ریا کاری، شہرت اور نام و نمود کی نیت نہ ہو

ایسے شخص کی تبلیغ مؤثر ہوتی ہے اور اسے توفیق دی جاتی ہے اور اس کے

ذریعہ بڑی باتیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ صادق اور مخلص ہوتا ہے

فرمایا: اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا

اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا (فرمایا): اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے

اور مخلصوں کے ساتھ ہے پھر جب وہ شرک سے بچے گا اور وعظ و

نصیحت سے لوگوں کو بڑے کاموں سے روک دے گا اور پر خلوص

عمل کرے گا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی ورنہ رسوائی اور ذلت کے

سوار کھا گیا ہے تبلیغ کے باوجود بھی بڑی بات قائم رہے گی بلکہ اس میں

اور زیادتی ہو جائے گی اور گنہ گار جرائم پیشہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے

اور کتوں کی طرح اس کی طرف لپک کر جائیں گے اور شیطان خراہ

وہ انسان ہوں یا جن اللہ تعالیٰ کی مخالفت، ترک طاعت اور ازکا

معاویٰ پر متحدہ محاذ قائم کر لیں گے۔

تبلیغ کی تیسری شرط محبت و پیار اور مشفقانہ انداز میں سمجھانا ہے

سخت و درشت انداز اختیار نہ کیا جائے بلکہ محبت سے بھرپور خیر

خواہ نہ اور مشفقانہ لہجہ منتخب کیا جائے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ انسان

نے اپنے دشمن شیطان کی کس طرح اطاعت قبول کر لی ہے اور اس کی

عقل پر شیطان لعین کس طرح چھا گیا ہے اور اس نے گناہ کو کیسے

اچھے اچھے رنگوں میں اس کے سامنے رکھ دئے ہیں اور اللہ کی مخالفت

کو کیسے کیسے دل خوش کن و پرفرب روپوں میں پیش کرتا ہے تاکہ

اسے ہلاک کر دے اور جہنم کا کندہ بنا دے (فرمایا): شیطان اپنی جان

کو اسی لئے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں اور اپنے نبی کے بارے میں فرمائے



علیہ وسلم فی حدیث اسامۃ لا یبغی لاحد ان یامر  
 بالمعروف وینہی عن المنکر حتی ینزل فیہ ثلاث  
 خصال عالمہا یا امر عالمہا ینہی زینقا فیما یامر فینقا  
 فینما ینہی الرابع ان ینزل صبر و احلیما حول امتوا  
 زائل الہوی قوی القلب لیل الحجاب طیب ید اوی مرینا  
 حکیمان اوی مجنون اماما ما ہا دیا قال اللہ تعالیٰ  
 وجعلنا منہما ائمة یہدون بامرنا لما صبر و اعلیٰ  
 احتمال الاذی من قومہم علی نصرتہ دین اللہ و  
 اعزازہ و القیامہ معہ فجعلہما ائمة ہدایۃ اطباء  
 الدین قادیۃ المؤمنین و قال اللہ تعالیٰ فی قصۃ لقمان  
 و امر بالمعروف و انہ عن المنکر و اصبر علی ما صابک  
 ان ذلک من عزم الامور و الخامس ان ینزل عاملہ  
 بما یامر من زہا عما ینہی عنہ و غیر متلظ بہ لئلا  
 ینزل لہم تسلی فی کون عند اللہ مذموم ملاما  
 قال اللہ تعالیٰ انا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم  
 و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون و قال النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث النس بن مالک رضی  
 راہت لیلۃ اسوی فی رجالا لقرض شفاہہم بالمقار  
 فقلت من ہر لاء یا جبریل قال علیہ الصلوٰۃ والسلام  
 خطباء امتک الذین یا مرون الناس و ینسون  
 انفسہم و ہم یتلون الکتاب قال الشاعر لانتہ  
 عن خلق و تاتی مثلہ بعار علیک اذا اتیت عظیمہ  
 و قال قتادۃ رضی ذکر لنا ان فی التورۃ مکتوبا ان  
 ابن ادم ینکرنی و ینسانی و یدعوا الی و یقر منی و  
 باطل ما ترہبون و اراد بک عزوجل من یامر

اللہ کی ہر بانی سے آپ ان پر نرم بن گئے اور اگر آپ درشت و سنگدل ہوتے  
 تو لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت  
 موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف  
 بھیجا تو ان سے فرمایا: اس سے نرم لہو میں بات کرنا، تاکہ وہ  
 نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ حدیث اسامہ میں نبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے فرمایا: تبلیغ النسان کو زیب نہیں دیتی جب تک اس  
 میں تین باتیں نہ پائی جائیں، جو باتیں بتا رہے ان کا عالم ہو جن  
 سے روک رہا ہے ان کا عالم ہو اور تبلیغ کا انداز مشفقانہ ہو۔ تبلیغ  
 کی چوتھی شرط یہ ہے کہ مبلغ انتہائی صابر و سنجیدہ ایذا میں برداشت  
 کرنے والا عاجز و انکساری کرنے والا خواہشات سے بھاگنے والا  
 مضبوط دل والا اور نرم طبع ہو، اور میاں روں کا علاج کرنے  
 والا طبیب ہو، دیوانوں کو اچھا کرنے والا حکم ہو اور عوام  
 کا پیشوا اور رہنما ہو، حق تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ان میں سے  
 امام بنائے جو صبر و شکر کے ساتھ ہمارے حکم سے لوگوں کی  
 رہنمائی کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے دین کی عزت و سربلندی کے  
 لئے اپنی قوم کی اذیتیں سہتے ہیں اور دین سے گہرا لگاؤ رکھ کر تبلیغ  
 کرتے ہیں، اللہ نے انہیں پیشوا، رہنما، اطباء ملت اور قائدین  
 امت بنائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا:-  
 اچھی بات کا حکم کیجئے، برسی بات سے روکئے اور اس راہ کی  
 تمام تکلیفیں برداشت کر لیجئے بلا شہرہ کام بڑا پکا ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ  
 مبلغ جو باتیں بتا رہا ہے ان پر عامل ہو اور جن سے روک رہا ہے ان سے  
 خود بھی بچتا ہو ان میں لٹھڑا ہونا نہ ہو تاکہ لوگوں کی سند نہ بنے اور اللہ کی  
 لئے نزدیک قابلِ نذمت و علامت نہ ہو فرمایا: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم  
 کرتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو  
 پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اور حدیث انس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:



بالمعروف وينهى عن المنكر ويترك نفسه وهو  
جل وعلا علم بذلك۔

میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ قینچیوں سے  
کاٹے جا رہے ہیں میں نے پوچھا: جبرئیل! یہ کون ہیں؟ فرمایا: یہ

آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کیا کرتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے تھے حالانکہ قرآن حکیم پڑھتے تھے ایک شاعر  
کتاہے سے لاتنه عن خلق وتأتى بمثلہ عار عليك اذا اتيت عظيم۔ رجو کام تو خود کرتا ہو اس سے لوگوں کو نہ  
رؤک۔ تیرے لئے تو وہ کام کرنا موجب تکبیر عظیم ہے) قتادہ: ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ تورات میں ہے: اے فرزند آدم! تو لوگوں کو  
تو میرا ڈر یاد دلاتا ہے مگر خود مجھے بھول جاتا ہے، لوگوں کو تو میری طرف بلاتا ہے لیکن خود مجھ سے بھاگتا ہے اس طرح تیزا ڈرنا بے کار ہے۔ اس سے  
مبلغ وواعظ حضرات ہی مراد ہیں حق تعالیٰ شانہ مبلغ کو جانتا ہے۔

**فصل** والاولیٰ له ان استطاع ان یامرہ وینہاہ  
فی خلوة لیكون ذلك ابلغ وامکن فی المعوطة والزجر  
والنصيحة له واقرب الى القبول والاقلام وقد قال  
ابو الذر دآء من وعظ اخاه بالعلانية فقد شانه  
ومن وعظ سراً فقد زانه فان فعل ذلك ولم ينفعه  
اظهر جينئذ ذلك واستعان عليه باهل الخيرو ان  
لم ينفع باصحاب السلطان ويلبغى ان لا يترك انكار  
المنكر ابد ان الله تعالى ذم قوما تركوا ذلك  
وتغافروا عنه وقال عز وجل كانوا لا يتناهون  
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال الله  
عز وجل لولا نهيهم الربانيون والاحبار عن قولهم  
الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون  
يعنى هلانها هم علماءهم وفقهائهم وقراءهم  
عن القول الفاحش واكن الحرام وفعل المعاصي  
وقيل ان الله اوحى الى يوشع بن نون انى مهلك  
من قومك اربعين الفا من خيارهم وستين الفا من  
شرارهم قال يارب هزلء الاشرار فما بال الاخير  
قال تعالى انهم لم يغضبوا بغضبى واكلهم وشاربوهم

### تنہائی میں وعظ و نصیحت

اگر کسی بات کے کسی کو روکا جائے تو اولیٰ  
ہے کہ تنہائی میں لے جا کر اسے خوش اسلوبی سے سمجھا دیا جائے کیونکہ ایسی نصیحت  
کارگر اور موثر ثابت ہوتی ہے اور لوگ اسے آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔  
اور بری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، ابو الذر دآء: جس نے اپنے بھائی کو کھلم کھلا  
نصیحت کی تو اسے ذلیل کیا اور جس نے خلوت میں نصیحت کی تو اسے عزت و  
خوبصورتی بخشی۔ لیکن اگر کسی کو خلوت میں نصیحت کی گئی اور وہ اس سے متاثر  
نہیں ہوا تو پھر اسے لوگوں میں نصیحت کی جائے اور اس پر ارباب خیر و صلاح کے  
مدد لی جائے اگر پھر بھی اثر نہ ہو تو حکام سے مدد لی جائے۔

بری باتوں کی تردید کا چھوڑنا کسی زمانہ میں بھی لائق نہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے  
ان کی خدمت کی ہے جنہوں نے بری باتوں پر روک ٹوک چھوڑ دی تھی اور  
اس غفلت برتی تھی فرمایا: یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں سے روکتے  
وہ کیا کرتے تھے منع نہیں کرتے واقعی ان کے افعال بدترین ہیں، فرمایا: انہیں  
اللہ والے در علماء برے کانوں سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟  
بلاشبہ ان کے کہ توت انتہائی بڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے  
حضرت یوشع کے پاس وحی بھیجی کہ میں آپ کی قوم کے چالیس ہزار نیک لوگ  
اور ساٹھ ہزار برے لوگ ہلاک کرنے والا ہوں، عرض کی یا اللہ برے تو برے  
ہیں ہی لیکن نیکوں کا کیا قصور ہے؟ فرمایا: انہوں نے بروں پر غصہ نہیں  
کیا جب کہ میں ان پر غضب ناک تھا اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔



**فصل** وقد ذكرنا ان الشرط الخامس ان يكون  
 عاملا بما امرت بها عما ينهى عنه الا ان شيئا خذا ذكرنا  
 ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفاسق  
 كوجوبه على العدل فاشرفنا الى ذلك لما تقدم من عموم  
 الايات والاخبار من غير فرق وقد حمل بعض السلف  
 قوله تعالى ومن الناس من يثري نفسه ابتغاء مرضات  
 الله على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وروى  
 ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع انسانا  
 يقرأ هذه الآية فقال ان الله وانا اليه راجعون  
 قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل  
 وعن ابي امامة رضي قال ان رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم قال افضل الجهاد كلمة حق عند امام جابر  
 وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 افضل الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب  
 ورجل قام الى امام جابر فامر به ونهاه فقتله و  
 قد ذكر الله تعالى الذي ينهى عن المنكر و تاخذ  
 العزة فلا يستع فقول عز وجل واذا قيل له اتق  
 الله اخذته العزة بالآية وقال ابن مسعود  
 ان من اكبر الذنوب عند الله عز وجل ان يقال  
 للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك وجميع ذلك  
 عام في حق صالح وطالح وروى ابو هريرة رضي ان النبي  
 صلى الله عليه وسلم قال مروا بالمعروف وان  
 لم تعملوا وانها عن المنكر وان لم تنتهوا عنه  
 وانه لا يجلو احد من معصية اما ظاهرا واما  
 باطنا فان قلنا لا ينكر الا المتنزه عنه لعذر الامر

**پانچویں شرط کی وضاحت**

پانچویں شرط کے سلسلے میں ہمارے شیوخ  
 لکھتے ہیں کہ تبلیغ فاسق پر بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح عادل  
 پر واجب ہے لہذا ہم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کیونکہ تبلیغ کے سلسلے  
 میں اور پر جن آیات و احادیث کا ذکر ہے وہ عام ہیں اور عادل و فاسق  
 میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے بعض سلف نے اس آیت کو رد من الناس  
 من یثری نفسه الخ یعنی بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو خود کو اللہ کی رضا کے  
 عوض فروخت کر دیتے ہیں (تبلیغ پر محمول کیا ہے) ایک روایت میں ہے  
 کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے فرمایا انا للہ  
 وانا الیہ راجعون پھر ایک آدمی کھڑا ہوا کہ تبلیغ کرنے لگا اور اسے قتل کر دیا  
 گیا۔ حضرت ابو امامہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے  
 بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے پاس حق بات کا کہنا ہے حضرت جابر کا بیان ہے  
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن افضل شہید حمزہ بن عبد  
 المطلب ہونگے اور وہ شخص بھی جس نے جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اچھی  
 باتوں کا حکم دیا اور بری باتوں سے روکا اور بادشاہ نے اسے قتل کر ڈالا  
 اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا برائی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے جسے بری باتوں سے  
 روکا جاتا ہے اور وہ عار کی وجہ سے ان سے باز نہیں آتا فرمایا: اور جب  
 اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا تو اسے عار سے گناہ کے پگھلتی ہے۔  
 ابن مسعود: اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب اس سے کہا  
 جائے کہ اللہ سے ڈر جا تو وہ یہ جواب دے کہ اپنے گناہوں میں جھانکو الغرض  
 یہ تمام حدیثیں عام ہیں اور نیک و بد ہر ایک کے حق میں ہیں حضرت  
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا بیوں کا حکم  
 اگرچہ خود ان پر عمل پیرا نہ ہو اور برائیوں سے روکا اگرچہ خود ان کے  
 مرتکب ہوتے ہو۔ دنیا میں کوئی شخص بھی گناہ سے باز نہیں خواہ وہ ظالم  
 میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو یا باطن میں۔ اگر ہم یہ شرط لگا دیں کہ تبلیغ  
 معصوم و عادل شخص ہی کرے تو تبلیغ دشوار ہو جائیگی اور مشکل ہی سے کوئی



بالمعروف والنہی عن المنکر فیندرس المنکر  
ویضہل۔

### فصل والذی یؤمر بہ ویمنع علی ضربین فکل

ما وافق الكتاب والسنة والعقل فهو معروف وكل  
ما خالف فهو منکر ثم ذلک ینقسم قسمین احدہما  
ظاهر یعرفہ العوام والخواص وهو کجوب الصلوۃ  
الحنس وصوم رمضان والزکوۃ والحج وغیر ذلک  
ومن المنکر کتحریم الزنا وشرب الخمر والسرقۃ  
وقطع الطریق والربوۃ والغضب وغیر ذلک فهذا  
القسم یمجب النکارۃ علی العوام کما یمجب علی الخواص  
من العلماء والقسم الثانی ما لا یعرفہ الا الخواص  
مثلاً اعتقاد ما یمیز علی الباری وما لا یمیز علیہ  
فہذا یمتص انکارۃ بالعلماء فان اخبار احد من  
العلماء بذلک لواحد من العوام جازلہ ذلک و  
وجب علی العوام انکار عند القدرة علی ما بینا  
ولا یمیز قبل ذلک واما اذا کان الشئ ما اختلف  
الفقہاء فیہ وسانہ فیہ الاجتہاد کتشریب عامی  
النیذ مقلدا لا یمینفۃ و تزوج امرأۃ بلادی  
علی ما عتوق من مذہبہ لم یکن لاحد من  
ہو علی مذہب الامام احمد والثافعی انکار  
علیہ لان الامام احمد قال فی ردایۃ المروزی  
لا ینبغی للفقیہ ان یحمل الناس علی مذہبہ  
ولا یشدد علیہم واذا ثبت ہذا فالانکار  
انما یتبعین فی خرق الاجماع دون المختلف فیہ  
وقد نقل عن الامام احمد ما یدل علی جواز

مبلغ بیس آٹے گا پھر رفتہ رفتہ لوگ بری باتوں پر روک ٹوک ختم کر دیں گے  
اور برائیاں عام ہو جائیں گی اور تبلیغ کو لوگ بھول جائیں گے۔

### اچھے اور برے کاموں میں معیاری فرق | اچھا کام وہی ہے

جو قرآن و حدیث کے اور عقل کے موافق ہو ورنہ ہر اسے اسی کو  
معروف و منکر کہا جاتا ہے، پھر معروف و منکر کی دو قسمیں ہیں، ظاہر  
جسے عوام و خواص سب جانتے ہیں جیسے نماز پنجگانہ کا، رمضان کے  
روزوں کا، حج کا اور زکوٰۃ وغیرہ کا وجوب، اسی طرح زنا، شراب  
خوری، چوری، ڈاکہ، غضب اور سود وغیرہ کی حرمت، ان نیک کاموں  
کا حکم اور ان گناہوں کی اور برے کاموں کی روک ٹوک خواص کی  
طرح عوام پر بھی واجب ہے اور سری قسم کو علماء ہی پہچانتے ہیں،  
مثلاً شان جلالت کے لائق کون کون سے عقائد ہیں اور کون  
کون سے نہیں، خلاف شرع عقائد کا انکار علماء پر واجب  
ہے، اگر کوئی عالم اس سلسلہ میں عوام کو کوئی بات بتائے تو وہ  
اس کا اہل ہے عوام کو بلا عالم کی مدد کے اس باب میں دخل دینا منع  
ہے ہاں عالم سے پوچھ کر گندے عقیدے کی تردید بشرط قدرت واجب  
ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ مختلف فیہ ہو اور اس اجتہاد کی گنجائش ہو اس کا  
انکار جائز نہیں جیسے اگر کوئی امام ابوحنیفہ کا معتقد ہو اور ان کی  
تقلید کرتا ہو اور وہ بنیاد شراب، انگوڑی، پینا ہو یا بلا دی کے  
نکاح کرے تو چونکہ ان کے نزدیک یہ دونوں باتیں جائز ہیں اس لیے  
امام احمد اور امام شافعی کی تقلید کرنے والوں کو ان کی تردید نہیں  
کرنی چاہیے اور اس پر انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ روایت مروزی  
میں امام احمد نے فرمایا: کسی عالم کو لائق نہیں کہ اپنے مذہب  
پر لوگوں کو ابھارے اور ان پر سختی نہ کرے۔ پھر جب یہ بات  
مسلم ہے تو انکار اسی مسئلہ کا متعین ہو اور اجماع کے خلاف ہونہ کہ  
مختلف فیہ ہو، امام احمد نے مختلف فیہ مسئلہ پر بھی انکار جائز قرار دیا



الانکار فی المصنف فیہ وهو ما قال فی روایۃ السیوطی فی  
رجل یمر بالقوم وهم یلعنون بالشریح ینہا ہمدو  
یعظہم ومعلوم ان ذلک جائز عند اصحاب الشافعی  
رحمہ اللہ۔

**فصل** وینیغی لكل مومن ان یعمل بہذہ الادب  
فی سائر احوالہ ولا یتترك العمل بہا وقد روی عن  
امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال تادبوا ثم  
تعلموا وقال ابو عبد اللہ البلیغی ادب العلم اکثر من  
العلم وقال عبد اللہ بن مبارک اذا وصف لرجل له علم الاولین بالآخرین  
لا تأسف علی قوت لقائمہ واذا سمعت رجلاً له ادب النفس اتتی لقاءہ  
وا تأسف علی قوت نفاثہ و لقال مثله كمثل بلدة لها خمسة  
من الحصون الاول من ذهب والثاني من فضة والثالث  
من حديد والرابع من اجر والخاص من لبن فما  
دام اهل الحصن متعاهدين الذي هو من لبن لا يطعم  
العدو فی الثاني فاذا اهلوا ذلك طعموا فی الحصن  
الثاني ثم فی الثالث حتى تخرب الحصون كلها فكذاك  
الایمان فی خمسة من الحصون اولها اليقين ثم  
الاخلاص ثم اداء الفرائض ثم اتمام السنن ثم  
حفظ الآداب فما دام العبد یحفظ الآداب یتعاهدھا  
فالشیطان لا یطعم فیہ فاذا ترك الآداب طعم  
الشیطان فی السنن ثم فی الفرائض ثم فی الاخلاص  
ثم فی اليقين فینیغی للسان ان یحفظ الآداب فی جميع  
امورہ من الوضوء والصلوٰۃ والبیع والشراء وغير  
ذلک هذا احرما اخترنا وارونا ونخصنا من آداب  
الشریعة فبامثال الامر فی العبادات الخمس المقدم

دیا ہے، چنانچہ روایت میمون بن یسیر ہے کہ ایک شخص کچھ لوگوں کو  
شطح کھیلتا ہوا پاتا ہے اور انہیں اس سے منع کرتا ہے،  
اور نصیحت کرتا ہے حالانکہ شطح کھیلتا اصحاب شافعی کے  
نزدیک جائز ہے۔

**تادیب و ترمیمت** مذکورہ بالا اصول و آداب پر عمل کرنا زندگی کے  
ہر گوشہ میں ہر مسلمان کو لائق ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس  
پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ ابو عبد اللہ بلخی، علم سے زیادہ اہم ادب  
علم ہے۔ ابن مبارک: اگر میرے سامنے کسی ایسے شخص کا ذکر آجائے جسے  
تمام اگلوں اور پچھلوں کا علم ہو تو مجھے اس سے ملاقات نہ کرنے پر افسوس  
نہ ہو اور اگر ایسے شخص کا ذکر کیا جائے جسے ادب نفس معلوم ہے تو مجھے اس  
سے ملاقات کی تمنا ہو اور اس سے نہ ملنے پر افسوس ہو۔ کہا جاتا ہے کہ  
ایسے شخص کی مثال اس کی سی ہے جس کے پاس سونے، چاندی، لہو،  
اور پکی اینٹوں اور کچی اینٹوں کے پانچ قلعے ہیں پھر جب تک نگران  
کچی اینٹوں اور اینٹوں کے قلعے سے غافل رہے خبر نہیں ہوتا اس وقت  
تک دشمن دوسرے قلعہ کو تاکتا نہیں البتہ غفلت کی حالت میں دشمن کو  
دوسرے قلعے کا لالچ ہو گا پھر تیسرے کا پھر چوتھے اور پانچویں کا بھی لالچ  
ہو گا حتیٰ کہ دشمن سب پر قابض ہو جائے گا یا در کھو ایمان کے بھی پانچ قلعے  
ہیں یقین، اخلاص، اداۓ فرائض، تکمیل سنن اور پابندی آداب۔  
لہذا جب تک انسان آداب کی حفاظت کرتا رہے گا اور ان کا پابند رہے گا  
شیطان اس کی طرف لالچ بھری نگاہوں سے دیکھے گا بھی نہیں ہاں اگر وہ  
آداب ترک کر دے گا تو شیطان کے منہ میں پیدے سنتوں کو تباہ کرنے کے لئے  
پانی بھرے گا پھر فرائض کو پھر اخلاص کو پھر یقین کو نتیجہ صاف ہے کہ انسان  
اپنے تمام کاموں میں آداب کا پابند رہے خواہ عبادتیں ہوں یا معاملات  
یا اعتقادات۔ ہم نے جو کچھ اوپر بیان کیا ہے شریعت مطہرہ نے آداب کا  
مخلاصہ بیان کیا ہے لہذا انسان بیگانہ عبادتوں کے احکام کی تعمیل کر کے



ذکرها یصیر مسلما وبالآداب یفذل الأذاب  
 یكون تابعاً للسنة ومقتضياً للآثار ویحصل معرفة  
 ما ویبقی علیہ حقیقة معرفة الصالح وهی من اعمال  
 القلب فاخرناها لیسهل علیہ الدخول فی دیننا  
 فاذا تقمص بنور الاسلام مظاهراً قلنا له تقمص  
 بنور الایمان باطنا۔  
 لیجے کہ یہ زیادہ اہم ہے۔

مسلمان بننا ہے اور ان حسین آداب سے آراستہ ہو کر سنت کا تابعدار ہو کر  
 سلف کے نقش قدم پر چل پڑتا ہے اور اسے ایسا گونہ حق تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل  
 ہو جاتی ہے اب اس کا فرض ہے کہ صانع عالم کی معرفت کی حقیقت پہچانے۔  
 معرفت کا تعلق دل سے ہے ہم اسے بعد میں لائے ہیں تاکہ غیر مسلم طالب کو  
 مذہب میں داخل ہونے وقت آسانی ہو پھر جب کوئی بظاہر اسلام کے نور کا  
 کرتہ پہن لے گا تو اب ہم اس سے عرض کریں گے کہ باطن نور ایمان بھی اپنا دل درخشاں کر

## اٹھواں باب

### حق تعالیٰ جل مجدہ کی معرفت

فنقول فاما معرفة الصانع عز وجل بالآیات والدلائل  
 علی وجه الاختصار فمهی ان یعرف یتیقن  
 انه واحد احد فرد صمد لم یلد ولم یولد ولم  
 یکن له کفراً احد لیس کثرتہ شیء وهو السميع البصیر  
 لا شیه له ولا نظیر ولا عون ولا شریک ولا ظہیر  
 ولا وزیر ولا تشد ولا مشیر لہ لیس بجسم فیفس  
 ولا جہر فیفس ولا عرض فیقفی ولا ذی ترکیب  
 اوالہ وتالیف وماہیة وتحدید وهو اللہ للساء  
 رافع وللارض واضع لا طبیعة من الطباع ولا طالع  
 من الطوالع ولا ظلمة تظہر ولا نور تظہر حاضری  
 الاشیاء علیا شاهد لہا من غیر ممانسة عزیز قاهر  
 حاکم قادر راحم غافر سا تر معز ناصر رؤف  
 خالق فاطر اول اخر ظاہر باطن فرد معبود حی

اس مقام پر پہنچ کر ہم اختصار کے ساتھ صانع عالم کی معرفت کو آپتیں اور بعض عرض  
 کرتے ہیں، ملاحظہ کیجئے انسان کو خوب اچھی طرح سے جاننا اور یقین کر لینا چاہیے  
 کہ حق تعالیٰ شانہ کی تائید ہے، ایک ہے، انتہا ہے کوئی اور اس کا ساتھی نہیں۔  
 سب سے مستغنی اور بے نیاز ہے، صاحب اولاد نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں اور  
 نہ اس کا کوئی کفو ہے۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، یعنی کسی کی ذات یا کسی کی  
 کوئی صفت یا کسی کا کوئی فعل اللہ کی ذات کے یا اس کی کسی صفت کے یا کسی  
 فعل کے مشابہ نہیں، حالانکہ وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے اور  
 مسح و بصر والا ہے۔ کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس  
 کا مددگار نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں،  
 کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کے مقابل کا نہیں، کوئی اسے مشورہ دینے  
 والا نہیں، وہ نہ جسم ہے کہ چھوا جائے، نہ جوہر ہے کہ دیکھا جائے اور  
 محسوس کیا جائے، نہ عرض ہے کہ ختم ہو، نہ مرکب ہے، نہ آلہ والا ہے،  
 نہ مجموعہ اجزاء ہے، نہ اس کی ماہیت ہے، نہ خدا ہے، وہ اللہ ہے



لا یبوت اذلی لا یفوت ایدی الملکوت سرمدی  
 الجبروت قیوم لا ینام عزیز لا یضام منیع لا یرام  
 فله الاسماء العظام واطراہب الکرام قفی بالفناء  
 علی جمیع الانام قال کل من علیہا فان ویبقی وجہ  
 ربک ذوالجلال والاکرام وھو بجمہۃ العلوم مستو  
 علی العرش محتو علی الملک محیط علمہ بالاشیاء  
 الیہ لیغد الطیب والطیب والعمل الصالح یرفغۃ یدبر  
 الامر من السماء الی الارض ثم یخرج الیہ فی یوم کان  
 مقداره الف سنۃ مما لقدون ولعنقد ان للہ عزوجل  
 تسعة وتسعین اسماء من احصاھا دخل الجنة وذلك  
 مروی عن ابی ہریرۃ رض عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 قال للہ تسعة وتسعون اسما وواحدة الا واحد من  
 احصاھا دخل الجنة وجمیعھا فی القرآن فی سور  
 متفرقة منها خمسة اسماء فی الفاتحة وھی یا اللہ  
 یا رب یا رحمن یا رحیم یا ملک و فی سورۃ البقرۃ  
 ستة وعشرون اسما یا محیط یا قدیر یا علیم یا  
 حلیم یا تواب یا بصیر یا واسع یا بدیع یا رؤف یا  
 شاکر یا اللہ یا واحد یا غفور یا حکیم یا قابض  
 یا باسط یا الہ الاھو یا حی یا قیوم یا علی یا عظیم  
 یا ولی یا غنی یا جمید و فی ال عمران اربعة اسماء  
 یا قائم یا رھاب یا سلیع یا خیر و فی سورۃ النساء  
 ستة اسماء یا رقیب یا حبیب یا شہید یا غفور  
 یا مقیت یا وکیل و فی الانعام خمسة اسماء  
 یا قاطر یا قاهر یا قادر یا لطیف یا خیر و فی الاعراف  
 اسماں یا محیی یا ممیت و فی الانفال اسماں یا نعم

۱۶۶  
 ہے اسی نے بلند آسمان بنائے، اسی نے زمین بچھائی، نہ وہ طبیعت ہے،  
 نہ طالع ہے، نہ وہ تاریکی ہے، اور نہ وہ چھکا ہوا نور ہے، اس کے علم میں تمام  
 چیزیں ہیں اور وہ ان کے پاس ہے اور کوئی چیز اسے چھوتی نہیں، وہ بڑی  
 عزت والا ہے، سب پر غالب ہے، سب پر حاکم ہے، سب پر قادر ہے  
 رحم کرنے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، عیب چھپانے والا ہے، عزت  
 دینے والا ہے، مددگار ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، خالق ہے،  
 موجود ہے، سب سے پہلے ہے، سب سے پیچھے ہے، سب پر غالب ہے  
 سب سے قریب ہے، تنہا ہے، انجما موجود ہے، زندہ ہے،  
 جسے فنا نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا ملک دائمی ہے،  
 کائنات کو سنبھالنے والا ہے، سزا نہیں، ایسے غلبہ والا ہے کہ کوئی اس  
 پر ظلم نہیں کر سکتا، ایسا محفوظ و بلند ہے کہ کوئی اس کا قصد نہیں کر  
 سکتا، اس کے بڑے بڑے اسماء ہیں، اور بزرگ عطیات ہیں، اس  
 نے تمام مخلوق پر فنا کا فیصلہ صادر فرما دیا ہے، فرمایا، تمام چیزیں فنا ہونے  
 والی ہیں اور آپ کے معزز و مکرم پر دروگار کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ  
 تعالیٰ اور ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، تمام عالم پر قابض ہے، اس  
 علم کے دائرہ میں تمام چیزیں گھری ہوئی ہیں، اسی کی طرف پاکیزہ باتیں  
 چڑھتی ہیں، اور وہی نیک عمل بلند فرماتا ہے، زمین سے لیکر آسمان تک  
 ہر چیز کا وہی انتظام فرماتا ہے پھر فرشتے اس کی طرف ایک ہزار سالوں کے  
 برابر والے دن میں تعمیل احکام کے لئے چڑھ جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے  
 کہ حق تعالیٰ کے ۹۹ نام ہیں اور جو ان کا درورکھے گا وہ جنت میں جائے گا  
 حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ۹۹ نام ہیں  
 سونام ہیں جو ان کا درورکھے گا وہ جنت میں ہے، یہ تمام اسماء متفرق سورتوں  
 میں قرآن حکیم میں موجود ہیں پانچ اسماء اللہ رب الرحمن الرحیم  
 یا ملک، سورہ فاتحہ میں ہیں اور ۲۶ محیط، قدیر، علیم، علیم، تواب  
 بصیر، واسع، جلیل، رؤف، شاکر، اللہ، واحد، غفور، حکیم، قابض، باسط



المولیٰ یا نعم النصیر و فی ہود سبعة اسماء یا حفیظ  
یا رقیب یا مجید یا قوی یا مجیب یا وود یا فعال  
و فی الرعد اسمان یا کبیر یا متعال و فی ابراہیم  
اسم واحد و ہو یا متان و فی الحجر اسم واحد و  
ہو یا خلاق و فی النحل اسم یا باعث و فی مریم  
اسمان یا صادق یا وارث و فی المؤمنون اسم یا  
کریم و فی النور ثلثة اسماء یا حق یا متین یا نور  
و فی الفرقان یا ہادی و فی سبا یا قحاح و فی المؤمن  
اربعۃ اسماء یا عافی یا قابل یا شدید یا ذا الطول  
و فی الذاریت ثلثۃ اسماء یا رزاق یا ذا القوۃ  
یا متین و فی الطور یا متان و فی اقتربت الساعۃ  
یا مقتدر و الترجمن یا باقی یا ذا الجلال یا ذا الکرام  
و فی الحديد اربعة یا اول یا آخر یا ظاہر  
یا باطن و فی الحشر عشرۃ اسماء یا قدوس یا سلام  
یا صمد یا مہین یا عزیز یا جبار یا متکبر یا  
خالق یا باری یا مصور و فی البروج یا مبداء یا  
معید و فی قل هو اللہ احد یا احد یا صمد هكذا  
ذکر سفیان بن عیینۃ و ذکر عبد اللہ بن احمد  
اسماء زوائد علی ہذا و ہو یا مجیب یا قاہر یا  
فاضل یا فائق یا رقیب یا ماجد یا جواد یا حکم  
الحاکمین و ذکر البرکۃ النقاش فی کتاب تفسیر  
الاسماء والصفات عن جعفر بن محمد یعنی الصادق  
رضی اللہ عنہ قال ان للہ ثلاثاۃ و ستین اسماء و  
دری ایض عن غیرہ مائۃ و اربعۃ عشر اسماء  
و کل ذلک محمول علی انہم وجدوا فی القرآن

لا الہ الا ہو حتی اقیوم علی عظیم اولیٰ یعنی حمید) سورہ بقرہ میں ہیں  
اور چار (قائم، دہاب، سریح، جبر) آل عمران میں ہیں اور چھ (رقیب  
حسب، شہید، غفور، مقیت، دکیل) سورہ نساء میں ہیں اور پانچ  
(ناظر، قاہر، قادر، لطیف، خیر) سورہ انعام میں ہیں اور دو (رحی  
میت) سورہ اعراف میں ہیں اور دو (نعم المولیٰ، نعم النصیر) سورہ  
انفال میں ہیں اور سات (حفیظ، رقیب، مجید، قوی، مجیب، وود  
فعال، لما یرید) سورہ ہود میں ہیں اور دو (کبیر، متعال) سورہ رعد میں  
ہیں اور ایک (متان) سورہ ابراہیم میں ہے اور ایک (خلاق) سورہ  
حجر میں ہے اور ایک (باعث) سورہ نحل میں ہے اور دو (صادق، وارث)  
سورہ مریم میں ہیں اور ایک (کریم) سورہ مؤمنوں میں ہے اور تین  
(حق، متین، نور) سورہ نور میں ہیں اور ایک (ہادی) سورہ فرقان  
میں ہے اور ایک (مناج) سورہ سہا میں ہے اور چار (عافی، قابل  
شدید اور ذو الطول) سورہ مومن میں ہیں اور تین (رزاق، ذو القوۃ  
متین) سورہ ذاریات میں ہیں۔ اور ایک (متان) سورہ طور میں ہے  
اور ایک (مقتدر) سورہ اقتربت الساعۃ میں ہے اور تین (باقی، ذو الجلال  
ذوالاکرام) سورہ رحمن میں ہیں اور چار (اول، آخر، ظاہر، باطن)  
سورہ حمد میں ہیں اور دس (قدوس، سلام، مومن، مہین، عزیز، جبار  
شہید، خالق، باری، مصور) سورہ حشر میں ہیں اور دو (شہید، معید)  
سورہ بروج میں ہیں اور دو (احد، صمد) سورہ اخلاص میں ہیں سفیان  
بن عیینۃ نے اسی طرح بیان فرمایا ہے لیکن عبد اللہ بن احمد نے  
آٹھ مزید اسماء بھی ذکر فرمائے ہیں یعنی مجیب، قاہر، فاضل،  
فائق، رقیب، ماجد، جواد، حکم الحاکمین۔

جعفر بن محمد صادق نے جو تعالیٰ کے ۳۶ اسماء بتائے ہیں،  
(البرکۃ نقاش) در کتاب تفسیر الاسماء والصفات) اور کسی نے  
۱۱ اسماء بتائے ہیں، یہ اختلاف قرآن حکیم کے کمر اسماء



اسماء مکررہ بعد وہا اسماء والصحیح فیما ذکر  
عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

**فصل:** ونعتقد ان الایمان قول باللسان و  
معرفة بالجنان وعمل بالارکان یزید بالطاعة  
ونقص بالعصیان ولقوی بالعلم ویضعف بالجہل  
وبالتوفیق یقع كما قال اللہ عزوجل فاما الذین امنوا  
فزا دتہم ایمانا وہم یشہرون وما جاز علیہ الزیادۃ  
جاز علیہ التقصان وقال اللہ تعالیٰ واذ تلیت علیہم  
ایتہ زادتہم ایمانا وقولہ عزوجل لیستیقن الذین  
أتوا الکتاب ویزداد الذین امنوا ایمانا وما روی  
عن ابن عباس دابی ہریرنا وابی درداء ایتہم قالوا  
الایمان یزید ونقص وغیر ذلک مما یطول شرحہ  
وقد انکرت الاشعریۃ زیادۃ الایمان ولقصانہ  
وہو فی اللغۃ تصدیق القلب المتضمن للعلم بالمصدق  
بہ وہو فی الشریعۃ التصدیق وہو العلم باللہ و  
صفاۃہ مع جمیع الطاعات الواجبات منها والنوافل  
واجتناب الزلات والمعاصی ویجز ان یقال ہو الذین  
والشریعۃ والملة لان الذین ہو ما یدان بہ من  
الطاعات مع اجتناب المخطورات والمحرمات و  
ذلک ہو صفة الایمان واما الاسلام فقہو من  
جملة الایمان وکل ایمان اسلام ولیس کل اسلام  
ایمان لان الاسلام ہو بمعنی الاستسلام والانقیاد  
وکل مومن مستسلم متقاد اللہ تعالیٰ ولیس کل  
مسلم مومنا باللہ لانه قد یشلم مخافة السیف  
قال لیمان اسم یتناول مسیبات کثیرة افعالا واقوالا

کے شمار کرنے پر محمول ہے، صحیح بات وہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے  
بیان فرمائی ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان زبان سے قرار کرنا، دل سے پہچاننا اور  
اعضاء سے عمل کرنا ان تینوں کے مجموعہ کا نام ہے اور گھٹا بڑھتا ہے  
یعنی نیک عملوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے، اسی طرح علم  
مستحکم ہوتا ہے اور جہل سے کمزور رہتا ہے اور ایمان کا بیش بہا خزانہ اللہ  
تعالیٰ کی توفیق ہی سے نصیب ہوتا ہے فرمایا: ایمان والوں کے دلوں  
میں اللہ کی آیتیں ایمان بڑھاتی ہیں اور وہ ان سے کھل جاتے ہیں ظاہر  
ہے جس شے میں زیادتی جائز ہو اس میں کمی بھی جائز ہے، فرمایا: اور جب  
انہیں اللہ کی آیتیں بڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان میں ایمان  
بڑھاتی ہیں فرمایا: تاکہ اہل کتاب کو یقین آجائے اور ایمان والوں  
کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، علاوہ ازیں ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ  
اور ابو درداءؓ وغیرہ سے روایتیں آتی ہیں کہ ایمان گھٹا بڑھتا رہتا  
ہم نے طوالت کے ڈر سے یہ روایتیں چھوڑ دی ہیں۔ اشاعرۃ ایمان کی  
کمی بیشی کو نہیں مانتے اور سلف کے خلاف گامزن ہیں نخت میں ایمان  
دلی تصدیق کا نام ہے جو تصدیق کی جانوائی شے کو یقین کے ساتھ جاننے کو  
شامل ہے اور شریعت میں ایمان تصدیق کو یعنی اللہ کی ذات اور اس کی صفات  
پر یقین لانے کو تمام واجبات و نوافل و نوافل کے بجالانے کے اور تمام لغزشوں  
اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے اسے دین، شریعت اور  
مذہب بھی کہنا جائز ہے۔ کیونکہ دین وہ اطاعتیں ہیں جن کے بجالانے کے لئے  
تسلیم خم کر دیا جاتا ہے اور خطرناک و حرام کاموں سے برضا و رغبت بچا جاتا  
ہے یہی ایمان کی تعریف ہے۔

اسلام ایمان کی ایک خاص نوع ہے کیونکہ ہر ایمان اسلام ہے اور ہر اسلام  
ایمان نہیں کیونکہ اسلام اطاعت و انقیاد کے معنی میں ہے اور ہر مومن اللہ  
میلے و متقاد ہوتا ہے لیکن ہر میلے و متقاد کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا کیونکہ



فیعمد جمیع الطاعات والاسلام عبادۃ عن الشہادتین  
مع طمانیۃ القلب والعبادات الخمس وقد اطلق  
الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان الایمان  
غیر الاسلام فذهب الی الحدیث المروی عن عبد اللہ  
بن عمر رضی اللہ عنہما قال حدثنی عمر بن الخطاب انہ قال  
بینما انا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات  
یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثوب شدید  
سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا  
احد حتی جلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
فاستند رکبتيہ الی رکبتيہ ووضع کفیدہ علی  
فخذیہ ثم قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام فقال  
صلی اللہ علیہ وسلم ان تشهد ان لا اله الا اللہ  
وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلوۃ وتؤتی  
الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحم البيت ان استطعت  
الیہ سبیلا قال صدقت قال فتعجبنا منه لیسألہ  
ویصدقہ ثم قال اخبرنی عن الایمان قال صلی اللہ  
علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملتکة وکتابہ ورسولہ  
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ قال صدقت قال  
اخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کانک  
ترا لا فان لم تکن ترا لا فانه یراک قال فاخبرنی  
عن الساعۃ قال ما افسر ل عنہا با علم من الناس  
قال فاخبرنی عن امارتہ قال ان تلد الامۃ ربیبہا  
وان تری الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاة یتطاولون  
فی البیان قال عمر فلیت ہنیۃ ثم قال لی رسول  
اللہ هل تدری من السائل قال قلت اللہ ورسولہ

کبھی ایک شخص تو اس کے ڈر سے بھی مطیع و مستقام مسلمان ہو جاتا ہے لہذا  
ایمان ایسا جامع لفظ ہے جس میں انفعال و اقوال کے اعتبار سے بہت  
سی چیزیں داخل ہیں اور تمام طاعات و عبادات کو سمیٹے ہوئے ہے اور  
اسلام پورے وثوق کے ساتھ توجید و رسالت کی شہادتوں کا اور نیکانہ  
عبادتوں کا نام ہے۔ امام احمد نے فرمایا ہے کہ ایمان و اسلام میں فرق  
ہے اور دلیل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث لائے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر  
نے بیان فرمایا کہ ایک دن میں سرکار رسالت کی خدمت میں حاضر تھا اتنے میں  
ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے جس کے کپڑے بچھر سفید ہیں اور بال  
سخت سیاہ ہیں اس پر سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی اور نہ ہی اسے ہم میں  
سے کوئی شخص پہچانتا ہے حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر اپنے دونوں  
گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی  
رانوں پر رکھ لیتا ہے اور عرض کرتا ہے: محمد! مجھے اسلام کے بارے میں  
خبر دیجئے، آپ فرماتے ہیں: اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ  
اللہ کے سوا کوئی حق و ارعبادت نہیں اور اس کی بھی کہ محمد اللہ کے رسول  
ہیں، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ  
کا حج کرو اگر تمہیں اس تک پہنچنے کی طاقت ہو، وہ کہتا ہے: آپ سچ فرماتے  
ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں: ہمیں اس پر حیرت ہوتی ہے کہ پوچھ بھی رہا  
ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے پھر کہتا ہے: ایمان کے بارے میں بتائیے  
آپ فرماتے ہیں: ایمان یہ ہے کہ تم کو اللہ پر اس کے فرشتوں پر  
اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر  
پر یقین ہو کہتا ہے آپ سچ فرماتے ہیں، کہتا ہے: احسان کے بارے  
میں اطلاع دیجئے آپ فرماتے ہیں: احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح  
عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تمہارا یہ تصور قائم نہیں  
ہو تا تو اس پر یقین ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے: قیامت کے  
بارے میں فرمائیے، آپ فرماتے ہیں: سوال کئے جانے والے سوال کرتے



اعلم قال صلى الله عليه وسلم فانه جبريل اتاكم  
 يعلمكم دينكم وفي لفظ اخر قال ذلك جبريل  
 اتاكم ليعلمكم امر دينكم وما اتاني قط في سورة  
 الاعراف الا في صورته هذم فقد فرق جبرئيل  
 عليه السلام بين الاسلام والايان لسؤالين فاجاب  
 النبي صلى الله عليه وسلم بجوابين مختلفين فذا  
 الامام احمد روى البيضاوي حديث الاعرابي حيث  
 قال يا رسول الله اعطيت فلانا ومنعتني فقال  
 النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مر من فقال  
 له النبي صلى الله عليه وسلم مسلم انت وذهب  
 ايضا الى قول الله تعالى قالت الاعراب انا قل  
 لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل اليمان  
 في قلوبكم واعلم ان زيادة الايانات انا يكون  
 بعد التحقيق لعداء الادمي وانتهاء النواهي  
 بالتسليم في القدر وترك الاعتراض على الله  
 عز وجل في فعله في جميع خلقه وترك الشك  
 في وعدة في الاقسام والرزق وفي الثقة به و  
 التوكل عليه والخروج من الحول والقوة والصبر  
 على البلاء والشكر على النعماء والتنزيه للحق  
 وترك التهمة له في سائر الاحوال واما بنجر  
 الصلوة والصيام فلا وسئل الامام احمد عن  
 الايانات امخلاق هو ام غير مخلوق فقال من  
 قال ان الايانات مخلوق فقد كفر لان في ذلك  
 ايها ما وتعريفها بالقران ومن قال غير مخلوق  
 فقد ابتدع لان في ذلك ايها ما ان امانة الادي

والے سے زیادہ نہیں جانتا کہتا ہے قیامت کی نشانیوں بتائیے فرماتے ہیں خواتین  
 کے افزائش اولاد پیدا ہوگی اور تم دیکھو گے کہ بچے پیروں والے برہمنہ جسم والے  
 بکریوں کے چرواہے مخلوق میں نظر کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: پھر  
 قدرے توقف کے بعد مجھ سے رسول اللہ صلعم پوچھتے ہیں: جانتے ہو یہ کیا  
 کون تھا؟ میں عرض کرتا ہوں اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، انہوں نے فرمایا  
 میں یہ جبرئیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے ایک لفظ  
 میں یہ زیادہ ہے، آپ میرے پاس جب کبھی کسی شکل میں آئے ہیں میں نے آپ کو  
 نہیں پہچانا۔ اس حدیث میں حضرت جبرئیل نے دو مختلف سوال کر کے  
 آپ نے دو مختلف جواب دے کر ایمان و اسلام میں فرق ظاہر فرمایا۔  
 علامہ ازیں امام موصوف نے دیہاتی والی حدیث سے بھی استدلال کیا  
 کہ اس نے کہا تھا، یا رسول اللہ! آپ نے فلاں کو تو مال دیا مگر مجھے نہیں  
 دیا، فرمایا وہ تو مومن ہے، اعرابی بولا، میں بھی تو مومن ہوں،  
 فرمایا تم مسلمان ہو اور آپ نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے:-  
 دیہاتیوں نے کہا ہم مومن ہیں، آپ فرمادیں تم مومن نہیں ہو لیوں کہ ہم  
 مسلمان ہیں مہوز تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔

دیکھئے اللہ پر یقین کرنے سے ادا کر کے بجالانے سے، نواہی سے بچ کر  
 رہنے سے، تقدیر کو تسلیم کرنے سے، تمام مخلوق کے سلسلہ میں اللہ کے فعل  
 پر اعتراض سے بچ کر رہنے سے، تقسیم و رزق کے بارے میں اس کے وجود  
 پر شک و تردید سے علیحدہ رہنے سے، اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرنے سے  
 اپنی ذاتی قوت و طاقت سے دست برداری ظاہر کرنے سے، مصائب  
 پر صبر و نعتوں پر شکر کرنے سے، اللہ کو منزه اور پاک سمجھنے سے اور اس  
 پر ہر حال میں الزام نہ لگانے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے بعض  
 نماز و روزے سے نہیں، امام احمد سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا  
 کہ وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ فرمایا جس نے ایمان کو مخلوق کہا وہ کافر  
 ہوا کیونکہ اس عقیدے سے قرآن کے مخلوق ہونے کی طرف اشارہ ہے



عن الطریق و افعال الارکان غیر مخلوقہ فقد  
انکر علی الطائفین و ذکر الحدیث ان النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم قال الایمان بضع و سبعون خصلة  
افضلها قول لا اله الا اللہ و ادناها اطاعة الادی  
عن الطریق و انما کفر القائل بخلق القرآن و بعد ۶  
الاخر لان مذہبہ رحمہ اللہ مبنی علی ان القرآن  
اذالم ینطق بشئ ولا یروی فی السنۃ عن رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم شیئ و القرض عصر الصحابة  
ولم ینقل احد منهم قولا قال کلام فیہ بدعة  
وحدث ولا یجوز للمومن ان یقول انا مؤمن حقا  
بل یجب ان یقول انا مؤمن انشاء اللہ خلاف ما  
قالت المعتزلة انه یجوز ان یقول انا مؤمن حقا  
وانما قلنا ذلک لما روی عن عمر بن الخطاب رض  
انه قال من زعم انه مؤمن فهو کافر و عن  
الحسن رض قال ان رجلا قال عند عبد اللہ بن  
مسعود انی مؤمن فقیل لا بن مسعود ان هذا  
یزعم انه مؤمن قال فاسئلوا فی الجنة هو ام  
هو فی النار فسألوہ فقال اللہ اعلم فقال عبد اللہ  
فملا و کلت الاخری کما و کلت الاولی و  
لان المؤمن حقا من هو عند اللہ تعالی مؤمن  
و هو الذی یکون من اهل الجنة ولا یکون  
کذلک الا بعد موافقاتہ بالایمان و یختتم  
له بذلک ولا یعلم احد بما یختتم له فینبغی  
ان یکون خالفا راجیا مصلحا حذرا مترقبا حتی  
یاتیہ الموت و هو علی خیر عمل و ان الناس یموتون

اور یہی خیال پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایمان میں قرآن پر ایمان لانا بھی شامل  
ہے اور جس نے غیر مخلوق کہا وہ بدعتی ہے کیونکہ اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے  
کہ راہ سے تکلیف دہ چیزوں کا دور کرنا اور بندوں کے افعال غیر مخلوق ہیں  
لہذا امام موصوف نے دونوں صورتوں کی تردید فرمائی ہے اور دونوں  
گروہوں پر طعن فرمایا ہے اور یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلعم نے فرمایا ایمان  
کی ستر سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل توحید کی شہادت  
ہے اور سب سے کمتر راہ سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا ہے۔

آپ نے قرآن کو مخلوق کہنے والوں کو کافر اور غیر مخلوق کہنے والوں کو  
بدعتی اسی لئے فرمایا کہ آپ کا مذہب اس اصل پر موقوف ہے کہ اگر  
کسی مسئلہ پر قرآن خاموش رہے اور نہ اس میں رسول اللہ صلعم سے کوئی  
حدیث ثابت ہو اور عہد صحابہ میں بھی کسی صحابی سے کوئی اثر ثابت  
نہ ہو تو اس میں گفتگو کرنا بدعت ہے اور دین میں ایک نئی بات پیدا  
کرنا ہے مومن کو یہ کہنا کہ میں یقیناً صاحب ایمان ہوں لائق نہیں  
البتہ معتزلہ کے نزدیک جائز ہے بل یہ کہہ سکتا ہے انشاء اللہ میں  
مومن ہوں کیونکہ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ جس نے یہ گمان کیا کہ میں  
مومن ہوں وہ کافر ہے۔

حسن بصری: ایک شخص نے حضرت ابن مسعودؓ کے پاس کہا: میں مومن ہوں  
ابن مسعودؓ سے کہا گیا کہ یہ شخص گمان کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، فرمایا:  
اس سے پوچھو کیا تو جنتی ہے یا جہنمی؟ لوگوں نے اس سے پوچھا  
بوللا اللہ جانتا ہے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: تو تو نے ایمان کا  
معاہدہ اللہ کے سپرد کیوں نہیں کیا جس طرح یہ معاہدہ اللہ کے سپرد کرنا  
حالانکہ پکا سچا اور یقیناً مومن وہ ہے جو اللہ کے نزدیک مومن ہے  
اور وہی جنتی ہے مگر اس کا علم دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہوتا ہے  
جب ایمان پر خاتمہ بخیر و خوبی ہوتا ہے آج یہ کس کو معلوم ہے کہ  
اس کا خاتمہ کس عمل پر ہوگا اس لئے مومن کی شان یہی ہے کہ خوف زدہ



علی ما عاشوا علیہ ویکشرون علی ما ماتوا علیہ  
 كما جاء فی الحدیث قال علیہ السلام كما تعیشون  
 تموتون وکما تموتون تبعثون ویتقد ان افعال العباد  
 خلق الله وکسب لهم خیرها وشرها حسنہا  
 وقتبها ما کان منها طاعة و معصية لا علی معنی  
 انه امر بالمعصية لکن قضی بہا و قد رها وجعلها  
 علی حسب قصد لا واپہ قسم الذر ذاق و قدرها  
 فلا یبدها ما در ولا ینعها مانع لا زائد ہا  
 ینقص ولا ناقصہا یزید ولا فاعسہا یخشن ولا  
 خشنہا ینعم و رزق غد لا یؤکل الیوم و قسم  
 زید لا ینقل الی عمر و ذانہ تعالی یرزق الحرام  
 كما یرزق الحلال علی معنی انه یجعله غداً لا لایدان  
 و قرأ ما لا یحسد ولا علی معنی انه اباحہ الحرام و  
 كذلك القاتل لم یقطع اجل المقتول المقدر له  
 بل یبوت باجلہ و كذلك الغریق و من ہدم علیہ  
 الحائط و القی من شاطئ و من اكله سبع و كذلك  
 هدایة المسلمین و الیومنین و ضلالة الکفرین  
 الیہ عز و جل جمیع ذلك فعلہ و صنعہ لا شریک  
 له فی مدکہ و انما اثبتنا للعباد کسباً لموضع توجه  
 الامر و النهی و الخطاب الیہم ثم استحقاق  
 الثواب و العقاب لیدیہم كما وعد و منن قال الله  
 تعالی جزاء بما کانوا یعملون و قال عز و جل یا صبرتم  
 و قال جل و علا و ما سلکم فی سقر قالوا لم  
 نک من المصلین و لم نک تطعم المسکین و قال  
 تبارک و تعالی هذه النار التي کنتم بہا تکذبون

امیدوار رحمت، اپنی اصلاح کرنے والا، محتاط و چوکنا اور اچھی موت  
 کا منتظر رہے حتیٰ کہ اچھے عمل پر اسے موت آجائے لوگ جیسے کاموں میں  
 غرق ہو کر زندگی گزارتے ہیں انہیں پر انہیں موت آتی ہے اور جن کاموں  
 پر موت آتی ہے انہیں پر ان کا حشر ہوگا جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو اسی حال میں تم  
 کو موت آجائے گی اور جس حال پر تم مر گئے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے  
 بہارا عقیدہ ہے کہ بندوں کے افعال اللہ نے پیدا کئے ہیں اور بندوں  
 کے کمائے ہوئے ہیں یعنی افعال کا اللہ خالق ہے اور بندے کا سبب ہیں  
 خواہ نیک ہوں یا بد اور اچھے ہوں یا برے اور طاعت والے ہوں یا  
 گناہ گار ہوں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ نے گناہ کا حکم دیا بلکہ یہ معنی ہے کہ  
 وہ اللہ کے فیصلہ اور علم میں ہیں اور اللہ نے انہیں اپنے قصد و ارادے  
 سے پیدا کیا ہے حق تعالیٰ نے مخلوق میں رزق بانٹا اور ہر ایک کے  
 رزق کی مقدار مقرر فرمادی، لہذا مقدر کی روزی میں کوئی حائل نہیں  
 ہو سکتا اور نہ کوئی اسے روک سکتا ہے، نہ زیادہ روزی کو کوئی گھٹا  
 سکتا ہے اور نہ کم کو کوئی بڑھا سکتا ہے نہ فراخ روزی کو کوئی تنگ کر  
 سکتا ہے اور نہ تنگ کو فراخ کر سکتا ہے، انیوالی کل روزی آج نہیں کھائی جاتی  
 اور زید کا حصہ عمر کو نہیں پہنچ سکتا، ہر طرح کی روزی خواہ حرام ہو یا حلال  
 حق تعالیٰ ہی دیتا ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ حرام مباح ہے بلکہ یہ معنی ہے کہ  
 حلال کی طرح حرام سے بھی جسم کی پرورش کرتا ہے اور غذا کو جزو بدن  
 بناتا ہے، اسی طرح قاتل مقتول کی مقررہ مدت سے پہلے اسے قتل نہیں کرتا  
 بلکہ وہ اپنی مقررہ مدت ہی پر فوت ہوتا ہے اسی طرح ڈربے والا  
 دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مرنے والا اور  
 وہ جسے کوئی درندہ کھا جائے سب اپنی مقررہ مدت ہی پر مرتے ہیں  
 اسی طرح مسلمانوں کو ہدایت اور کافروں کو ضلالت دینا حق تعالیٰ  
 ہی کا کام ہے اور اسی کی طرف ہے اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں



وقال جلت عظمتہ ذلک بما قدمت یدک و غیر ذلک من الایات فخلق سبحانہ الجزاء علی افعالہم فان ثبت لہم کسباً خلاف ما قامت الجہیمۃ من انہ لا کسب للعباد وانہم کالباب یردو یفتح و الشجرۃ تحرک و تنہز و ہم الجاحدون للخلق البرادون للکتاب و السنۃ و الدلیل علی ان کون ذلک خلق اللہ عزوجل و کسب للعباد خلقاً للقدریۃ فی قولہم ان جمیع ذلک خلق للعباد دون اللہ عزوجل تبارکوا لہم و ہم مجردون ہذہ الامۃ جعلوا اللہ شریکاً و نسبوہ الی العجز و ان یجری فی ملککم ما لا یدخل فی قدرتہ و ارادتہ تعالی اللہ عن ذلک علواً کبیراً قولہ عزوجل و اللہ خلقکم و ما تعملون و کما قال تعالی جزاء بما کنتم تعملون فلما کان الجزاء واقفا علی افعالہم کان الخلق واقفا علی افعالہم ولا جائز ان یقال المراد بذلک ما یعلمون من الحجارة من الامنام لان الحجارة اجسام و العباد لا یعلمونہا و انما الاعمال التي یقع فیہا ما یعملون العباد فوجیب ان یرجع الخلق الی افعالہم من الحركات و السکات و قال تعالی و لا یرألون مختلفین الا من رحم ربک و لذلک خلقہم و المعنی للخلاف خلقہم و قال اللہ تعالی امد جعلوا اللہ شریکاً و خلقوا کخلقہ فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء و قال جل و علا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء و الارض و قال تعالی اخباراً من المشرکین ان تصبہم حسنة یقولوا ہذہ

ہم نے یہ جو کہا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے اور بندے کا سبب ہیں حق تعالیٰ کے وعدے اور ضمانت سے کہا ہے اور ثواب و عذاب کے اسحقاق کو دیکھتے ہوئے بھی فرمایا کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کے عملوں کے لئے کیا کیا دل غرض کن نعمتیں ان کے لئے چھپا کر رکھ چھوڑی ہیں فرمایا جنت تمہارے صبر کرنے کا عوض ہے، فرمایا کس چیز نے تمہیں دوزخ میں داخل کیا؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، فرمایا یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے فرمایا یہ ان عملوں کے سبب ہے جن کو تیرے دونوں ہاتھوں نے پہلے پھینچ دئے تھے اس سلسلہ میں اور بھی آیتیں ہیں ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے جزا بندوں کے افعال پر معلق فرمائی ہے اور ان کے لئے کسب ثابت کیا ہے لیکن جہیمتہ کہتے ہیں بندوں کے لئے کسب نہیں وہ تو بمنزلہ دروازے کے ہیں کہ بند کر دیا جاتا اور کھول دیا جاتا ہے اور بمنزلہ درخت کے ہیں کہ ہوا اسے حرکت دیتی ہے ورنہ پر سکون رہتا ہے یہ لوگ حق کے منکر ہیں اور قرآن و حدیث کو ٹھکرا رہے ہیں، قدر یہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خالق بھی ہیں اور کسب بھی حق تعالیٰ ان سے سمجھے یہ تو اس امت کے مجوسی (مشرک) ہیں انہوں نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ کو عاجز قرار دیدیا اور یہ بھی الزام لگایا کہ اس کے ملک میں اس کے ارادہ و قدرت کے بغیر بھی کام جاری ہیں اس الزام سے حق تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے۔

اس کی دلیل کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے اور بندے کا سبب ہیں یہ آیت ہے: اللہ نے تم کو اور تمہارے سارے عملوں کو پیدا کیا، فرمایا! یہ تمہارے ان عملوں کا بدلہ ہے جن کو تم کیا کرتے تھے پھر جب جزا عملوں پر مرتب ہوئی تو تخلیق بھی عملوں پر مرتب ہونی لازم ہے اگر کوئی کہے کہ عملوں سے مراد پتھر وغیرہ کی صورتیں اور بت ہیں جن کو وہ تراشا کرتے تھے تو اس کا یہ جواب ہے کہ پتھر وغیرہ اجسام ہیں اور بندے پتھر وغیرہ نہیں بنایا کرتے تھے اعمال وہی ہیں جن میں لوگوں کے عمل واقع



من عند الله وان تصبهم سيئة ليقولوا هذا من عندك قل كل من عند الله فما لولا القوم لا يكادون يعفون حديثا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى خلق كل صانع ومنعته حتى خلق الحزاز وجزورا وعن ابن عباس رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قال انا خلقت الخير والشر وطوبى لمن قدرت على يديه الخير وويل لمن قدرت على يديه الشر وسئل الامام احمد عن اعمال العباد التي يتوجرون بها من الله المنطق والرضى اشئ من الله ام شئ من العباد فقال هي لله خلقا ومن العباد عملا ولتعقد ان المؤمن وان اذنب ذلوبا كثيرة من الكبائر والصغائر لا يكفر بها وان خرج من الدنيا بغير توبة اذامات على التوحيد والاخلاص بل يرد امره الى الله عز وجل ان شاء عفى عنه وادخله الجنة وان شاء عذبه وادخله النار فلا تدخل بين الله تعالى وبين خلقه ما لم يجز الله بمصير.

وہ اللہ کی رضا و عدم رضا کے مستحق ہوتے ہیں، پوچھا گیا کہ آیا یہ اعمال اللہ کی طرف سے ہیں یا بندوں کی طرف سے؟ فرمایا: خلق کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے ہیں اور کسب کے اعتبار سے بندوں کی طرف سے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن اگرچہ بڑے چھوٹے کثیر گناہوں میں لٹھرا ہوا ہو کافر نہیں ہوتا اگرچہ بلا توبہ کے مر جائے بشرطیکہ توحید و اخلاص پر فوت ہو بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما کر جنت عطا فرما دے اور اگر چاہے تو عذاب کے لئے جہنم میں جھونک دے اس لئے کوئی اللہ کے اور اس کی مخلوق کے درمیان دخل نہ دے جب تک اللہ تعالیٰ مخلوق میں فیصلہ نہ فرمادے۔

**فصل** ولتعقد ان من ادخله الله النار بكبيرته مع الايمان فانه لا يدخل فيها بل يخرج منها لان النار في حقهم كالسجين في الدنيا فيستوفى

ہوتے ہیں اس لئے واجب ہے کہ مخلوق اپنے عملوں و حرکات و سکنات کی طرف سے ہوئے، فرمایا: لوگ برابر اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر آپ کا پروردگار رحم فرمائے اس نے اسی کے لئے انہیں پیدا فرمایا ہے یعنی اختلاف کے لئے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور اختلاف ان کا فضل ہے لہذا اللہ اختلاف کا بھی خالق ہے، فرمایا بلکہ انہوں نے اللہ کے شرکاء ٹھہرائے ہیں کیا اللہ کی طرح وہ خالق ہیں کہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی آپ فرمادیں ہر چیز کا خالق اللہ ہے فرمایا کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روز دیتا ہے؟ مشرکوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرمایا: اگر انہیں نیکی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے آپ فرمادیں ہر نیکی اور بری اللہ کی طرف سے ہے انہیں کیا ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ بات سمجھتے ہی نہیں، حدیث حذیفہ میں رحمت عالم صلعم نے فرمایا: یقین مانو حق تعالیٰ نے ہر کار بگڑ کو اور اس کی کار بگڑی کو پیدا کیا ہے کہ اس نے قصائی کو اور اونٹ کی بوٹیاں کرنے کے فعل کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلعم نے فرمایا: حق تعالیٰ نے فرمایا: میں نے خیر و شر پیدا کیا اسے مبارک ہو جس کے ہاتھوں پر میں نے خیر مقدر فرمایا اور اس کے لئے ہلاکت ہو جس کے ہاتھوں پر میں نے شر مقدر کیا۔ امام احمد سے بندوں کے اعمال کے بارے میں جن سے

گنہ گار مومن دائمی جہنمی نہیں | ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مومن کو بڑے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل فرمائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نکال لے گا کیونکہ اس کے حق میں

گنہ گار مومن دائمی جہنمی نہیں | ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مومن کو بڑے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل فرمائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نکال لے گا کیونکہ اس کے حق میں



منہ بقدر کبیرتہ و جزینتہ ثم ینجز برحمۃ اللہ تعالیٰ  
 ولا یخلد فیہا ولا تلثم وجہہ النار ولا تحرق اعضاء  
 السجود منہ لان ذلک محرّم علی النار ولا ینقطع  
 طعمہ من اللہ عزوجل فی کل حال مادام فی النار  
 حتی ینجز منها فیدخل الجنة ویعطى الدرجات علی  
 قدر طاعته التی کانت لہ فی الدنیا خلاف ما قالہ  
 القدریۃ ان الکبیرۃ تحبط الطاعات فلا یتاب  
 علیہا وکذا لک قول الخوارزمی وینبغی ان  
 یؤمن بخیر القدر وشرہ وحلو القضاء وصرہ وان  
 ما اصابہ لم یکن لیمظینہ بالحدیث وما اخطا من  
 الاسباب لم یکن لیصیبہ بالطلب وان جمیع ما  
 کان فی سالف الدهور والازمان وما یکون الی  
 یوم البعث والنشور بقضاء اللہ وقدرہ المقدر  
 وانہ لا محیی من المخلوق من القدر المقدر الذی  
 خط فی اللوح المسطور وان الخلائق لوجہد وان  
 ینفعا المرء بما لم یقضہ اللہ تعالیٰ لم یقدر و  
 علیہ ولوجہد وان لیسر وہ بما لم یقضہ اللہ  
 لم یتطیعوا کما ورد فی خبر ابن عباس رضی قال  
 قال اللہ تعالیٰ وان یمسک اللہ بصر فلا کاشف  
 لہ الا هو وان یردک بخیر فلا داء لفضلہ یصیب  
 بہ من یشاء من عبادہ وروی عن زید بن  
 عبد اللہ بن مسعود رضی قال تحدثنی رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم هو الصادق المصدوق  
 ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ اربعین یوما  
 نطفۃ و فی لفظ اربعین لیلۃ ثم یکون علقۃ

آگ بمزاج دنیوی تیدخانہ کے ہے لہذا وہ اس میں بقدر جرم و گناہ کے مدت  
 پوری کر کے اللہ کی مہربانی سے اس سے نکل آئے گا اور اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا اور  
 آگ اس کا چہرہ نہیں جلائے گی اور نہ اس کے اعضائے سجود جلائیگی کیونکہ اعضائے  
 سجود کا جلانا آگ پر حرام ہے اور وہ ہر حال میں حق تعالیٰ جل مجدہ اسید وارر  
 رہتا ہے اور اللہ سے اس کی امیدیں منقطع نہیں ہوتیں جب تک وہ جہنم میں  
 رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے نکل کر جنت میں چلا جائے اور بقدر دنیوی عملوں  
 کے اسے درجات عطا فرمائے جائیں، اس کے برعکس قدر یہ کہتے ہیں کہ بڑے  
 گناہ تمام عمل غارت کر دیتے ہیں اور ان پر مرتب اجر منسوخ کر دیا جاتا ہے  
 خارجیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے اللہ ان سے سمجھے۔ اچھی بڑی، میٹھی اور کڑی  
 تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس پر بھی کہ کسی پر جو مصیبت آگئی وہ  
 احتیاط کے باوجود اس سے چوکنے والی نہ تھی اور عیش و راحت کے جو اسباب  
 اس سے چوک گئے وہ طلب کے باوجود بھی اسے حاصل ہونے والے نہ تھے اور  
 اور اس پر بھی کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اور مستقبل میں زندگی بعد الموت تک جو کچھ  
 ہوگا سب اللہ کے فیصلہ و تقدیر سے ہوا اور ہوتا رہے گا کوئی تقدیر سے  
 جو لوح محفوظ میں درج ہے چھوٹنے والا نہیں اور اس پر بھی کہ اگر تمام دنیا  
 مل کر کسی شخص کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے مگر وہ اس کے مقدر میں نہ ہو تو وہ ہرگز  
 اس پر تاؤ نہ ہوگی اور اگر سب لوگ اسے فرزند پہنچانا چاہیں اور اس کے  
 مقدر میں نہ ہو تو کبھی فرزند پہنچا سکیں گے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی  
 حدیث میں ہے حق تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اسے  
 وہی ہٹا سکتا ہے کوئی اور نہیں اور اگر وہ تجھے بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کا  
 فضل کوئی ٹوٹانے والا نہیں وہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے اپنے فضل سے  
 نواز دیتا ہے حضرت ابن مسعود رضی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا تم میں سے کسی کی پیدائش کے لئے ۴۰ دن تک رحم میں نطفہ قائم رہتا ہے  
 ہے پھر وہ اتنی ہی مدت میں جاہرا خون بن جاتا ہے پھر وہ اتنی ہی مدت  
 تک گوشت کا ٹکڑا بنا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو چار چیزوں سے



مثل ذلك ثم يكون مضغاً مثل ذلك ثم يبعث  
الله ملكاً يرفع كلمات خلقه ورزقه وعمله و  
شقى امر سعيد وان الرجل يعمل بعمل اهل النار  
حتى لا يكون بينها وبينه الا باع فيسبق عليه  
الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها وان الرجل يعمل  
بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينها الا باع فيسبق عليه الكتاب  
فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها عن هشام بن عروة عن  
ابيه عن عائشة رضى عن رسول الله صلى الله عليه  
وسلم انه قال ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة  
وانه لم يكتب في الكتاب انه من اهل النار فاذا  
كان عند موته تحول فيعمل بعمل اهل النار فما  
دخل النار وان الرجل يعمل بعمل اهل النار  
وانه لم يكتب في الكتاب انه من اهل الجنة  
فاذا كان قبل موته عمل بعمل اهل الجنة فمات  
فدخل الجنة وعن عبد الرحمن السلمي عن علي  
ابن ابي طالب رضى قال بينا نحن عند رسول الله  
صلى الله عليه وسلم وهو يكت في الارض اذ  
رفع راسه فقال ما من احد الا وقد علم  
مقعداً في النار ومقعداً في الجنة فقالوا افلا  
نتكل قال صلى الله عليه وسلم اعلموا فكل ميت  
لما خلق له وعن سالم بن عبد الله عن ابيه رضى  
قال ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله ارايت  
ما فعل فيه اشي قد فرغ منه او شئ مبتدع  
مبتدع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد  
فرغ منه قال افلا نتكل قال عليه السلام اعلم يا

روزی عمل شقاوت یا سعادت کے ساتھ بھیجتا ہے۔ ایک انسان جنہوں کے  
سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم کے اور اس کے درمیان ایک لہر کا ناصبرہ جاتا  
ہے پھر اس پر تحریر تقدیر پہل کرتی ہے اور وہ جنت والوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے  
اور جنت میں چلا جاتا ہے اور ایک شخص جنت والوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ  
جنت کے اور اس کے درمیان ایک لہر کا ناصبرہ جاتا ہے پھر اس پر تحریر تقدیر  
پہل کرتی ہے اور جنہوں کے سے عمل کرنے لگتا ہے بالآخر جہنم میں چلا جاتا ہے۔  
حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص جنت والوں  
جیسے عمل کرتا رہتا ہے لیکن لوح محفوظ میں وہ جہنمی لکھا ہوا ہوتا ہے پھر وہ موت  
کے وقت پھر جاتا ہے اور جنہوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے اور انہیں پر اسے موت  
آجاتی ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک شخص جنہوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے  
لیکن لوح میں وہ جنتی لکھا ہوا ہوتا ہے پھر وہ موت سے پہلے جنت والوں  
جیسے عمل کرنے لگتا ہے اور انہیں پر اس کی وفات ہو جاتی ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔  
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس حال میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے  
اور آپ ایک تنکے سے زمین کو پیر رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا  
تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم کا یا جنت کا ٹھکانا مقرر نہ ہو چکا ہو لوگوں  
نے کہا: پھر ہم تقدیر پر پھر دوسرے کیوں نہ کریں؟ فرمایا عمل کرتے رہو ہر ایک  
کے لئے وہی عمل آسان ہیں جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ  
عنہما نے کہا: یا رسول اللہ تمہاری ہم جو یہ عمل کرتے ہیں کیا یہ عمل مکھے جا چکے ہیں یا  
کرنے کے بعد مکھے جاتے ہیں؟ فرمایا: انہیں مکھے کر لکھنے والا فارغ ہو چکا  
ہوے پھر ہم بھروسہ کیوں نہ کریں؟ فرمایا: اسے ابن خطاب عمل کر کیونکہ  
ہر ایک کو وہی عمل آسان ہوتے ہیں جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے سعادت مند  
کے لئے سعادت کے عمل آسان ہوتے ہیں اور شقی کے لئے شقاوت کے عمل۔  
ہمارا عقیدہ ہے کہ شب معراج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کو سجدہ  
میں خواب میں نہیں سہ والی آنکھوں سے (دل سے نہیں) دیکھا کیونکہ  
حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر آہ نزلت اور



ابن الخطاب فكل ميسر لما خلق له فمن كان من  
 اهل السعادة فيعمل للسعادة ومن كان من اهل  
 الشقاوة فيعمل للشقاوة ولو من بان النبي صلى الله  
 عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة الاسراء يعني  
 براسه لا يفتراده ولا في المنام لما روى جابر بن  
 عبد الله رضي قال قال رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم في قوله تعالى لقد راه نزلة اخرى رايته  
 ربي جل اسمه مشافهة لا شك فيه وفي قوله  
 تعالى عند سدرة المنتهى قال رايته عند سدرة  
 المنتهى حتى تبين لي نور وجهه قال ابن عباس  
 رضي في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريتك  
 الا فتنة للناس هي رؤيا عين ارها النبي ليلة  
 الاسراء به وقال ابن عباس رضي كانت الخلة  
 لابراهيم عليه السلام والكلام لنبي عليه  
 السلام والروية لمحمد صلى الله عليه وسلم  
 وقال ابن عباس رضي رأى محمد صلى الله عليه وسلم  
 ربه بعينه مرتين ولا يعارض هذا ما روى عن  
 عائشة رضي من انكار ذلك لانه نفى وهذا البيان  
 اثبات فقدم عند الاجتماع لان النبي صلى الله  
 عليه وسلم اثبت لنفسه الروية وقال ابو بكر  
 بن سليمان رأى محمد صلى الله عليه وسلم  
 ربه احد عشر مرة منها بالسنة تسع مرات  
 في ليلة المعراج حين كان يتردد بين موسى  
 عليه السلام وربه عز وجل يسأله ان يخفف  
 عن امته الصلوة فنقص حسا واربعين صلوة

کے تفسیر میں فرمایا: میں نے اپنے پروردگار کو بلا شک و شبہ کے رو برو دیکھا  
 آپ نے عند سدرة المنتهى کی تفسیر میں فرمایا: میں نے اسے سدرة المنتهى  
 کے پاس دیکھا حتیٰ کہ میرے لئے اس کے چہرے کا نور ظاہر ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت اور ہم نے وہ خواب جو ہم نے آپ کو  
 دکھایا لوگوں کے لئے آزمائش ہی بنایا کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں روایت  
 سے آنکھوں کی رویت مراد ہے خواب نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ رویت  
 نبی صلعم کو شب معراج کرائی تھی، حضرت ابن عباس: خلعة (روستی)  
 حضرت ابراہیم کے لئے، کلام حضرت موسیٰ کے لئے اور رویت محمد رسول  
 اللہ صلعم کے لئے مخصوص ہے۔ حضرت ابن عباس: نبی صلعم نے اپنے  
 رب کو اپنی آنکھوں سے دو بار دیکھا۔

حضرت ابن عباس کا یہ بیان حضرت عائشہ کے انکار سے نہیں ٹکراتا  
 کیونکہ وہ نفی ہے اور یہ اثبات ہے اور اجتماع کے وقت نفی پر اثبات  
 مقدم ہوتا ہے کیونکہ نبی صلعم نے اپنے لئے رویت ثابت فرمائی۔

ابو بکر بن سلیمان: ہمارے محبوب پیغمبر نے پروردگار عالم کو گیارہ بار  
 دیکھا، نو بار شب معراج میں دیکھا یہ سنت سے ثابت ہے کیونکہ آپ نماز  
 میں تخفیف کرنے کے لئے حضرت موسیٰ کے اور حق تعالیٰ مجدہ کے پاس آتے  
 جاتے رہے اور نو بار کے آنے جانے سے ۴ نمازیں معاف کر دی گئیں  
 کیونکہ ہر بار پانچ کم ہوتی تھیں اور دو بار قرآن حکیم سے رویت ثابت ہے  
 فرمایا لقد راه نزلة اخرى یعنی آپ نے اللہ کو دوسری بار دیکھا  
 ہمارا ایمان ہے کہ منکر نکیر قبر میں ہر ایک کے پاس آتے ہیں اور اسے  
 آزماتے ہیں کہ اس کا کیا دین تھا۔ منکر نکیر قبر میں آتے ہیں اور ان کے  
 لئے مردے میں روح ڈالی جاتی ہے پھر اسے بٹھایا جاتا ہے پھر سوال سے  
 فارغ ہونے کے بعد بلا تکلیف کے اس کے جسم سے اس کی روح ہٹالی  
 جاتی ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ میت اپنے زیارت کرنے والوں کو پہچانتا ہے جب



فی تسع مقامات ومرتين بالكتاب ولو من بان منكر اذ  
 نكيرا الى كل احد ينزلان سوى النبيين فيسألانهم  
 ويبتئنانهم ما يعتقدون من الاديان وهما ياتيان  
 القبر فيرسل في ذلك الميت الروح ثم يقعد فاذا سئل  
 سئلت روحه بلا الم ولو من بان الميت يعرف من  
 يزوره اذا اتاه واكده يوم الجمعة بعد طلوع  
 الفجر قبل طلوع الشمس والايام لعذاب القبر  
 ضغطته واجب لاهل المعاصي والكفر وكذلك  
 النعيم فيه لاهل الطاعة والايام خلاف ما  
 قالت المعتزلة من انكارهم ذلك وانكارهم  
 مسألة منكر ونكبر ودليل اهل السنة على اثبات  
 ذلك قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول  
 الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قيل في التفسير  
 في الحياة الدنيا عند خروج الروح وفي الآخرة  
 عند مسألة تكبير ومنكر وما روى عن ابي هريرة  
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر  
 احدكم او الانسان اتاه ملكان اسودان از  
 دقان يقال لاحدهما التكبير وللآخر المنكر  
 فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل يعني  
 محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو  
 قائل ما كان يقول فان كان موثقا قال لهما عبد الله  
 ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان  
 محمدا رسول الله فيقولان انا كنا نعلم انك  
 تقول مثل ذلك ثم في قبره يفتن له سبعون ذراعا  
 في سبعين ذراعا وينزله في قبره ثم يقال له فيقول

وہ اس کے پاس آتے ہیں خصوصاً جمعہ کے دن طلوع فجر سے لے کر سورج  
 کے نکلنے تک۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ گنہ گاروں کے اور کافروں کے لئے عذاب  
 نذر اور اس کا بھینچنا واجب ہے اسی طرح اہل طاعت و ایمان کے لئے ثواب  
 قبر واجب ہے لیکن معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں اور منکر نکیر کا بھی انکار کرتے  
 ہیں اس سلسلہ میں اہل سنت کی دلیل نبیوں اللہ الذین الخ ہے یعنی اللہ ایمان  
 والوں کو توحید پر دنیا اور آخرت میں ثابت تادم رکھتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں سکرات کے وقت اور آخرت میں  
 منکر نکیر کے سوال کے وقت مومن توحید پر قائم رہتا ہے حضرت ابو ہریرہ  
 کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی یا کوئی شخص  
 دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سپاہ نام اور کنجی آئیں انہوں والے فرشتے  
 منکر نکیر آتے ہیں جن میں سے ایک کو نکیر اور دوسرے کو منکر کہتے ہیں۔  
 کیونکہ ان کی شکلیں خوفناک و ڈراؤنی ہوتی ہیں ایسے دونوں فرشتے  
 اس سے پوچھتے ہیں: اس شخص (محمد رسول اللہ صلعم) کے بارے میں  
 آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی جواب دے گا جس عقیدے پر دنیا میں قائم  
 تھا اگر مومن تھا تو جواب دے گا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے  
 رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت  
 نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، فرشتے کہیں گے ہمیں تو پہلے ہی سے  
 معلوم تھا کہ آپ یہی جواب دیں گے پھر اس کی قبر ستر گز چوڑی اور ستر  
 گز لمبی کر دی جاتی ہے اور اسے روشنی سے منور کر دیا جاتا ہے اور اس سے  
 کہا جاتا ہے آپ سو جائیے، کہا ہے مجھے گھر جانے دو تا کہ میں انہیں بھی  
 خبر کروں، کہا جاتا ہے کہ آپ دلہن کی طرح سو جائیے جسے اس کا  
 سب سے زیادہ محب ہی جگاتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ  
 سے اٹھائے اور اگر منافق تھا تو جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں،  
 میں لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ کہا کرتے تھے  
 اور میں بھی آپ کے خلاف کچھ کہا کرتا تھا، فرشتے کہتے ہیں: ہمیں تو پہلے ہی



دعوتی ارجع الی اہلی فاخبرہم فیقال لم کنومۃ  
العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ حتی بیعثہ  
اللہ من مضاجعہ ذلک وان کان منافقا قال لا  
ادری کنت اسمع الناس یقولون شیئا وکتت  
اقولہ فیقولان انا کنا نعلم انک تقول ذلک  
ثم یقال للارض التمی علیہ فتلئم حتی تختلف  
فیہا اضلاعہ فلا یزال فیہا معدن باحتی بیعثہ  
اللہ من مضاجعہ ذلک وتعلقوا ایضا ہاروی  
عطاء بن لیسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم لعمر ابن الخطاب رضی یا عنہ کیف انت اذا  
اتخذتک من الارض ثلثۃ اذرع وشبر فی عرض  
ذراع وشبر ثم مال الیک اہلک فغسلوک و  
کفونک وحنطوک ثم حملوک حتی یغیبوک فیہ  
ثم ینہیلو علیک التراب ثم انصرفوا عنک و  
اتاک سائل القبر منکرون کبیرا صواتہما مثل  
الرعد القاصف والصارہما مثل البرق الخاطف  
قد سدا شعورہما وتلتلاک وتوہلاک وقال  
من ربک وما دینک قال یا نبی اللہ یکون معی قلبی  
الذی ہو معی الیوم قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم  
قال اذا کفیرہما وھذا دلیل ونص علی ان ذلک  
بعد اعادۃ الروح لان عمر رضی عنہ قال ومعی قلبی  
نقال النبی علیہ السلام نعم وعن المنہال بن  
عمرو عن البراء بن عازب رضی عنہما قال خرجنا مع رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من  
الانصار واتھینا الی القبر ولما یلحد فجلس

ہیں سے معلوم تھا کہ تو یہ جواب دے گا پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اسے  
لے پھر زمین اسے بچھینے کی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی  
ادھر آجائیں گی اور اس پر قبر میں برابر عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ  
اسے اس کی خواب گاہ سے اٹھالے۔ عطاء بن لیسار کا بیان ہے کہ رسول اللہ  
صلعم نے حضرت عمر رضی عنہ سے فرمایا: عمر! اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا  
جب تمہارے لئے تین ہاتھ اور ایک ہالشت طول میں اور ایک ہاتھ  
اور ایک ہالشت عرض میں جگہ مخصوص کر دی جائے گی پھر تمہیں تمہارے  
گھر والے نہلائیں گے اور کفنائیں گے اور خوشبو لگائیں گے پھر اٹھا کر  
لے جائیں گے اور اس میں چھپا آئیں گے اور تم پر مٹی ڈال کر چھپائیں  
گے اور تمہارے پاس قبر والے شکر نیکر تم سے سوال کرنے آئیں گے جن  
کی آواز کان پھوٹنے والی کرٹک کی طرح اور آنکھیں بنیانی سلب کرنے  
والی بچی کی طرح ہوں گی دونوں کے ہالٹکے ہوئے ہوں گے اور وہ دونوں  
تمہیں ڈرائیں گے اور لو چھپیں گے: نیز ارب کرنا ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟  
حضرت عمر رضی عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا اس وقت میرا وہی دل ہوگا جو  
آج میرے پاس ہے؟ فرمایا: ہاں! بولے تب تو میں ان دونوں کو  
کافی ہو جاؤں گا یعنی آج میں توحید پر قائم ہوں اور اس دن بھی قائم  
رہوں گا، اس حدیث میں صراحت ہے کہ یہ سب کچھ روح کو جانے  
کے بعد ہو گا کیونکہ حضرت عمر رضی عنہ نے فرمایا کیا آج کی طرح اس دن بھی  
میرے پاس میرا دل ہوگا؟ اور نبی صلعم نے اثبات میں جواب دیا۔  
منہال بن عمرو اور براء بن عازب کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلعم کے  
ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں جا رہے تھے حتیٰ کہ قبرستان پہنچ گئے  
مگر سنوڑ لحد تیار نہیں ہوئی تھی بالآخر رحمت عالم صلعم بیٹھ گئے اور ہم بھی  
آپ کے آس پاس بیٹھ گئے آپ کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ہم بالکل چپ  
چاپ بیٹھے ہوئے تھے گو یا ہمارے سروں پر پندے بیٹھے ہوئے ہیں  
اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو بید



النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله فكان على رؤسنا  
الطير من هيبته وفي يده عود يتكث به الارض  
فيرفع راسه وقال استعين بالله من عذاب القبر  
مرتين او ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم ان العبد  
اذا كان في اقبال من الاخرة والقطاع من الدنيا  
نزلت عليه ملكة بيض الوجهة كان وجههم  
الشمس ومعهم كفن من اكفان الجنة وحنوط من  
حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر ثم يحيى ملك  
الموت حتى يجلس عند راسه فيقول اتيتها النفس  
المطمئنة الطيبة اخرجني الى مغفرة من الله ورضوانه  
قال فتخرج تسيل كما تسيل القطر من الاناء فيأخذها  
ولا يدعونها طرفه عين حتى ياخذوها فيجعلونها في  
ذلك الكفن والحنوط فيخرج منها نفحة اطيب من ريح المسك  
وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يبرون بها على  
من الملكة الا قالوا ما هذا الريح الطيبة فيقولون  
هذا فلان ابن فلان باحسن اسمائه ثم ينشهرت  
بها الى سماء الدنيا فيستفتحون لها فيفتح لهم فيستقبلوها  
وتشيعونها من كل سماء الى السماء التي تليها حتى  
ينتهوا الى السماء السابعة فيقول الله عز وجل  
اكتبوا كتابه في عليين واعيدوه الى الارض  
منها خلقتهم وفيها لعيدهم ومنها نخرجهم تارة  
اخرى فيعاد الروح الى جسده وياتيه ملكان  
فيقولان له من ربك وما دينك فيقول ربى الله و  
دينى الاسلام فيقولان له ما تقول في هذا الرجل  
الذى بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله

تھے پھر آپ سر اٹھاتے ہیں اور دو یا تین بار فرماتے ہیں میں عذاب قبر سے  
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر آپ فرماتے ہیں : دیکھو جب بندہ آخرت میں  
قدم رکھنے اور دنیا سے کٹ جائیو الاموت ہے تو اس پر سفید چہروں والے فرشتے  
اترتے ہیں گویا ان کے چہرے سورج کی طرح چمک دار ہوتے ہیں ان کے پاس  
جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے پاس آکر منتہائے نگاہ  
تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے  
سر اٹھائے آکر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے  
سر اٹھائے آکر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں : اے اطمینان والی پاکیزہ روح  
اللہ کی بخشش و رضا کی طرف نکل افرماتے ہیں : پھر روح آرام سے اس طرح  
نکل آتی ہے جیسے کسی برتن سے پانی کے قطرے آرام سے نکل آتے ہیں پھر نر  
لیپک کر اسے لے لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک سیکنڈ کے لئے  
بھی نہیں رہنے دیتے تھے کہ اسے جنت کے کفن میں لپیٹ کر جنت کی خوشبو میں  
لسا دیتے ہیں اور اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو جو روئے  
زمین پر پانی چھاتی ہے پھوٹ پڑتی ہے پھر فرشتے اسے لے کر آسمان پر  
چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں ہی  
پوچھتی ہے کہ یہ پاکیزہ خوشبو کیا ہے ؟ لانے والے فرشتے اس کے بہترین  
نام سے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے پھر اسے دیوی آسمان تک لیکر  
پہنچتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آسمان کے  
فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور ایک آسمان سے دوسرے سطح آسمان  
تک اسے رخصت کرتے ہیں حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں پھر حق  
تعالیٰ مجدہ فرماتے ہیں اس کا اسمائے علیین میں لکھ لو اور اسے پھر زمین  
پر لے جاؤ ہم نے زمین ہی سے لوگوں کو پیدا کیا اور ہم انہیں اسی میں  
لوٹا دیں گے اور دوسری بار اسی سے پیدا کریں گے پھر روح جسم میں  
لوٹا دی جاتی ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آکر پوچھتے ہیں : تیرا رب  
کون ہے ؟ اور تیرا دین کیا ہے ؟ وہ جواب دیتا ہے : میرا رب اللہ ہے اور



علیہ وسلم وجاء نایا الحق فیقول ان له ما عملک بذک  
فیقول قرأت القرآن کتاب اللہ تعالی و امنت به و  
مد قته فینادی مناد من السماء صدق عبدی  
فانرشواله من الجنة والبسوة من الجنة وافتحوا  
له بابا الی الجنة فیاتیہ ریحها وطیبها ویقسم له  
فی قبره مد بصرة ویاتیہ رجل حسن الوجه طیب  
الریح فیقول له البشر بالذی لیسرک هذا یومک  
الذی کنت توعد فیقول من انت قال انا عمالک  
الصالح فیقول رب اقم الساعة قال صلی اللہ علیہ  
وسلم وان العبد الکافر اذا کان فی اقبال من  
الآخرة والنقطاع من الدنیا انزل اللہ علیہ  
ملئکة سور الرجوع معهم المسوح فیجلسون  
منه مد البصر ثم یجئی ملک الموت یجلس  
عند راسه فیقول اتیها النفس الخبیثة اخرجی  
الی سخط اللہ وغضبه فیترقی فی اعضائه کلها  
فینزعها کما ینزع السفود من الصوف المبلول  
فینقطع منه العروق والعصب فیأخذونها فیجعلونها  
فی تلك المسوح ویخرج منها کنتن حیفة فیصعد  
بها فلا یرون بها علی ملاء من الملئکة الا قالوا  
ما هذه الریح الخبیثة فیقولون هذا فلان بن فلان  
باقم اسمائه حتی ینتھوا بها الی السماء الدنیا  
فیستفتحون فلا یفتح لهم ثم قرء رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم هذه الایة لا تفتح لهم الابواب  
السماء فیقول اللہ سبحانه اکثیرا کتابه فی  
سجین ثم تنظر روحه طر حاتم قرء رسول اللہ

میرا دین اسلام ہے پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں  
کیا کتاب ہے جو تم لوگوں میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے: آپ اللہ کے رسول  
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ ہمارے پاس سچا دین لے کر تشریف لائے تھے  
فرشتے پوچھتے ہیں تجھے ان باتوں کا کس طرح علم ہوا وہ جواب دیتا ہے کہ  
میں نے قرآن پاک (جو اللہ کی ایک مقدس کتاب ہے) پڑھا اور اس میں  
ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی پھر ایک اعلان کرنے والا آسمان سے  
اعلان کرتا ہے میرے بند سے نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا لہذا اس کے  
نیچے جنت کا فرش بچھا دو اور اسے جنت ہی کا لباس پہنا دو اور اس کے  
لئے جنت کا دروازہ کھول دو پھر اس کے پاس جنت کی پاکیزہ خوشبو آنے  
لگتی ہے اور حدنگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے پاس  
ایک حسین و خوب و شخص خوشبو میں لبا ہوا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے  
دل خوش کن نعمتوں سے خوش ہو جاؤ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے  
وہرہ تھا یہ کتاب ہے: آپ کرن ہیں وہ جواب دیتا ہے میں آپ کا  
نیک عمل ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے: اے رب قیامت قائم فرما۔ نبی صلی  
فرمایا اور جب کافر آخرت میں قدم رکھے والا اور دنیا سے کٹ جائیگا  
ہوتا ہے تو اللہ اس پر سیاہ چروں والے فرشتے اتارتا ہے جن کے پاس  
ٹاٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کی حدنگاہ تک پیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر  
ملک الموت آکر اس کے سر پر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے  
گندی روح اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف نکل پھر روح  
اس کے تمام اعضا میں منتشر ہو جاتی ہے پھر ملک الموت اسے اس طرح  
کھینچتے ہیں جیسے تیرا دن سے لوہے کی سلاخ کھینچی جاتی ہے جس سے اس  
کے رگ پیٹھے سب ٹوٹ جاتے ہیں پھر فرشتے اسے لے کر اپنے پاس الی  
ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے مڑی ہوئی لاش جیسی بدبو  
پھوٹ پڑتی ہے پھر فرشتے اسے لیکر اوپر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی  
جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہی پوچھتی ہے: یہ گند کا



صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر  
 من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في  
 مكان سحيق یعنی تردد فتعاد اليه روحه في جسده  
 فياتيہ ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول  
 ها اها لا ادرى فيقولان له ما دينك فيقول  
 ها اها لا ادرى فيقولان له ما تقول في هذا الرجل  
 الذي بعث فيكم فيقول ها اها لا ادرى فينادي  
 المنادي كذب عبدى فافرشوا له فراشاً من النار  
 والبسوا من النار وافتحوا باباً من النار فيدخل  
 عليه من حرها وسهرها وليضيئ عليه قبره حتى  
 يختلف فيه اضلاعہ وياتيه رجل قبيح الثياب  
 وقبيح الوجه تن الریح فيقول البشر بالذى ليسوك  
 هذا يومك الذى كنت توعده فيقول من انت  
 فيقول انا عمك السوء فيقول رب لا تقم الساعة  
 وعن عبد الله بن عمر رضي قال ان المؤمن اذا وضع  
 في قبره يرسع عليه في قبره سبعون ذراعاً عرضة  
 وسبعون ذراعاً طوله وتنثر عليه الرياحين  
 وليستر بالحري من الجنة فان كان معه شيء من  
 القرآن كفاة نوره فان لم يكن معه شيء من  
 القرآن جعل له نور مثل نور الشمس في قبره  
 يكون مثله كمثل العروس تمام ولا يوقفها  
 الا احب اهلها فتقوم من النوم كأنها لم تشبع  
 منها وان الكافر اذا وضع في قبره يضيئ عليه  
 حتى يدخل اضلاعه في جوفه ويرسل عليه حيات  
 كالمثال الجثت فياكلن لحمه حتى لا يذرن على

بدل کیا ہے؟ فرشتے اس کا بدترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے  
 حتیٰ کہ اسے لیکر دنیوی آسمان تک پہنچے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں لیکن دروازہ  
 نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: ان کے لئے آسمان کے  
 دروازے نہیں کھولے جائیں گے حق تعالیٰ فرمائے گا اس کی کتاب سبجین میں  
 کھلے پھر اس کی روح وہیں سے پٹخ دی جاتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 یہ آیت پڑھی: جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا  
 پھر اسے پرندے اچک لیں یا اسے ہوا کہیں دور لے جا کر پٹخ دے یعنی اس  
 کی روح مردود کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی  
 جاتی ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور  
 اس سے پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اٹھے اٹھے  
 مجھے معلوم نہیں، پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے اٹھے اٹھے!  
 مجھے معلوم نہیں، پوچھتے ہیں: اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم  
 لوگوں میں بھیجے گئے تھے؟ کہتا ہے: اٹھے اٹھے! مجھے معلوم نہیں، پھر ایک  
 منادی اعلان کرتا ہے: میرا بندہ جھوٹا ہے اس کے نیچے آگ کا بھجوا بھجوا  
 دو اسے آگ کے پٹرے پھنادو اور اس کی قبر میں آگ کا دروازہ کھول دو پھر  
 آگ کی آگ مٹی اور لپٹیں آنے لگتی ہیں اور اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ  
 اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر آ جاتی ہیں اور اس کے  
 پاس برسے کپڑوں میں سڑا ہوا ایک بد صورت آدمی آتا ہے اور کہتا ہے  
 تجھے ظم انگیز عذابوں کی بشارت ہو سی تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ  
 کیا جاتا تھا۔ کہتا ہے: تو کون ہے؟ جواب دیتا ہے: میں تیرا برائے  
 کہتا ہے: ابے رب قیامت قائم نہ فرما۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب مومن قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو  
 اس کی قبر سترگ چوڑی اور سترگ لمبی کر دی جاتی ہے اور اس پر خوشبو بکھری جاتی  
 ہے اور جنت کا زینین لباس پہنا دیا جاتا ہے اگر اسے کچھ قرآن یاد ہے تو اسی  
 کا نور کافی ہے اور اگر کچھ بھی قرآن یاد نہیں تو اس کی قبر میں سورج کی



عظمتہ لهما ویرسل علیہ شیاطین منہ یكتمہی  
 ویقال ہوا الشیطان الرحیمو معہم فطاطیس  
 من حدید فیضی لونه برہا حتی لا یسعون صوتہ  
 ولا یظرون فیہ حیرنہ ویعرض علیہ النار  
 بکثرة وعشیاء فہذہ الاخبار دالۃ علی اثبات  
 عذاب القبر ولعینہ فان اعتراضہ علیہ فقالوا  
 کیف القول فی المصلوب والمحترق والغرق  
 ومن اکلته السباع فتفرقت بلحمہ والطیر معہا  
 فحصل اجزاء متعددۃ فیقال لہم ان النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عن اب القبر والمتساءلۃ  
 علی ما ہو معہم و عادیۃ فی الخلق انہم یدفنون  
 فی القبور وان وجد میت علی ہذہ الصنفۃ البعیدۃ  
 النادرۃ لا ینتفع ان یقال ان اللہ یغیر روحہ  
 الی الارض ثم یضعہ و لیتال ویعذب او ینعم  
 کما ان ارواح الکفار تغذب کل یوم مرتین  
 غدوۃ وعشیاء حتی تقوم الساعة ثم تدخل  
 النار مع الاجساد حیث کما قال اللہ تعالیٰ النار  
 یغمرن علیہا ظنوا وعشیاء ولیوم تقوم الساعة  
 ادخلوا ال فرعون اشتد العذاب وان ارواح  
 الشہداء والمؤمنین فی خواصل طیر و خضر  
 تسرح فی الجنة وقادی الی قنادیل من نور تحت  
 العرش ثم تاتی الاجساد عند النفخۃ الثانیۃ  
 الی الارض للعرض والحساب لیوم القیامۃ کما  
 روی عن ابن عباس رضی قال قال رسول اللہ صلی  
 اللہ علیہ وسلم لما اصیب اخوانکم باحد

طرح کے لڑکا انتظام کر دیا جاتا ہے اور اس کی مثال دامن جیسی ہے جو سوجاتی ہے  
 اور اسے اس کا سب سے پیارا ہی جگاتا ہے پھر وہ نیند سے اٹھتی ہے تو گویا وہ  
 نیند سے بیدار نہیں ہوئی اور ہنوز اس کی نیند بھری نہیں اور جب کا فر قبر میں  
 دیا جاتا ہے تو قبر اس پر سکتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیں  
 اکٹھا کر پیٹ میں آجاتی ہیں اور اس پر پختی ادٹ جیسے بڑے بڑے سانپ  
 چھوڑ دئے جاتے ہیں جو اس کا گوشت لورچ لورچ کر کھاتے ہیں اور بڑیوں  
 پر ذرا سا گوشت بھی نہیں چھوڑتے اور ان پر ہر سے گونگے اور اندھے شیطان  
 چھوڑ دئے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ راندہ گیا شیطان ہے ان کے  
 میں لوہے کے کوڑے ہوتے ہیں جن سے وہ اسے مارتے رہتے ہیں پھر لطف  
 یہ ہے کہ وہ نہ اس کی آواز سنتے ہیں اور نہ اسے دیکھتے ہیں کہ اس پر رحم کریں  
 اور اس پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔

مذکورہ بالا حدیثیں عذاب و ثواب قبر پر دلالت کرتی ہیں اگر کہا جائے کہ  
 جسے پھانس دیدی جائے اور جو ڈوب جائے اور جو آگ میں جل جائے اور  
 اور جسے درندے مع پرندوں کے کھا جائیں اور اس کا گوشت پرانگڑہ ہو  
 جائے اس پر عذاب قبر کیوں کر ممکن ہے؟ تو عرض ہے کہ نبی صلعم نے عذاب  
 و ثواب قبر کو اور شکر بیکر کے سوالات کو اکثر دنیا والوں کی عادت و روا  
 کے مطابق بیان فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد مومنا لوگ قبر میں دفن کیے جاتے  
 ہیں اگر کوئی مردہ مذکورہ بالا نادر صفت پر پایا جائے تو پھر بھی ہم کہہ  
 سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روح کو زمین پر بھیجتا ہے پھر زمین اسے  
 بھیجتی ہے اور اس سے شکر بیکر سوال کرتے ہیں اور اس پر عذاب یا ثواب  
 ہوتا ہے جیسے کافروں کی روحوں پر روزانہ صبح و شام دو بار عذاب  
 ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا پھر اس دن روحیں مع جسموں  
 کے جہنم میں جائیں گی فرمایا: آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے اور  
 جس دن قیامت آئے گی تو ہم حکم کریں گے کہ فرشتوں کو فرعون کو سخت  
 ترین عذاب میں داخل کر دو اور اصل عالم برزخ کی باتیں عقل قیامت



جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر تروح في الجنة وتاوي الى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب ما كلهم وشربوا بهم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخرنا انا احياء في الجنة نرزق فلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكروا عن الحرب فقال الله عز وجل وهو اصدق القائلين انا ابلغهم فانزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فيجزان يقع المسألة والعذاب والتعليم ببعض جسد المؤمن والكافر دون بقية اجزائه ويكون ما فعل بالبعض فعل بالكل وقد قيل ان الله لجمع تلك الاجزاء المتفرقة للفضلة والمسألة كما يفعل ذلك للحشر والمحاسبة ثم الاثبات بالبعث من القبر والنشر عنها واجب كما قال الله عز وجل وان الساعة اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور كما قال عز وجل كما بدءكم تعدون وقال جل وعلا منها خلقكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى فيحشرهم ويجمعهم جل وعلا لتجزى كل نفس بما تسعى وليجزى الذين اساوا باعمالهم ويجزى الذين احسنوا بالحسنى وقال جل جلاله الذي خلقكم ثم عبثكم ثم يجيئكم الذي قدر على الشاء الخلق قادر على اعادتهم وقد انكرت المعطلة تبالهم والايان بان الله يقبل شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر والاوزار

اور وہم سے بالاتر ہیں اور شارح علیہ السلام جو بات جس طرح بتائی ہے برحق ہے وحی سے بڑھ کر علم کا اور کوئی ذریعہ نہیں

ہمارا عقیدہ ہے کہ شہداء کی اور مومنوں کی روہیں سبز پرندوں کے قالب میں رہتی ہیں اور جنت میں چرتی پھرتی ہیں اور عرش کے نیچے نورانی تندلیوں میں لیرا کرتی ہیں جب دوسرا صور بھونکا جائے گا تو اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی تاکہ اللہ کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب ہو جیسا کہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلعم نے فرمایا: جب تمہارے بھائی جنگ احد میں درجہ شہادت پر فائز المرام ہوئے تو اللہ نے انکی روہیں سبز پرندوں کے پیڑوں میں رکھ دیں جو جنت میں چرتی ہیں اور عرش کے سایہ کے نیچے سونے کی تندلیوں میں لیرا کرتی ہیں جب جب انہوں نے اپنا طعام و شراب اور آرامگاہ عمدہ سے عمدہ پائے تو بولے: ہمارے بھائیوں کو ہمارا یہ پیغام کوئی پہنچائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے اعراض نہ کریں اور لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں، پھر حق تعالیٰ جل مجدہ نے جو سب سے زیادہ سچا ہے فرمایا: میں انہیں تمہارا پیغام پہنچاؤں گا اور یہ آیت آماری: جبر اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس روزی دی جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فضل پر مگن اور خوش ہیں۔ لہذا جائز ہے کہ سوال منکر کی اور عذاب و ثواب قبروں میں اور کافر کے جسم کے کچھ حصہ پر واقع ہو سب پر نہ ہو اور جب بعض پر واقع ہوا تو کل پر واقع ہوا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ پر لگندہ اجزاء کو قبر کے پھینچنے کے لئے اور منکر کے سوال کے لئے اور عذاب و ثواب کے لئے جمع فرمادیتا ہے جیسے قیامت دن پر لگندہ اجزاء حساب و کتاب کے لئے اور ثواب و عذاب کے لئے جمع کر دیے جائیں گے پھر قبر سے اٹھنے پر اور زندگی بعد الموت پر ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: یقین مانو بلاشبہ قیامت آنے والی ہے اور اللہ قبر والوں کو اٹھائے گا اور ہے فرمایا جس طرح اللہ نے تم کو شرع میں پیدا کیا اسی طرح تم کو کئے گا یعنی



واجب وقبل دخول النار عما للحساب لجميع امم  
المؤمنين وبعد دخولها لامته خاصة فيخرجون  
منها لشفاعته عليه السلام وغيره من المؤمنين  
حتى لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من  
الايمان ومن قال لا اله الا الله مرة واحدة في  
عمرك مخلصا لله عز وجل خلاف ما زعمت القدرية  
من انكار ذلك وفي كتاب الله تكذيبهم قال الله  
عز وجل نمانا من شافعين ولا صدق حليم وقوله  
عز وجل فقل لنا من شفعا فيشفعنا وقال الله  
جل جلاله فما تنفعهم شفاعاة الشافعين فقد  
اثبت الله تعالى في الاخرة شفاعاة وكذلك في السنة  
وهو ما روى عن ابي هريرة رضي ان النبي صلى الله عليه  
وسلم قال ان اول من ينشق الارض عند يوم القيا  
انا ولا فخر انا سيد ولد ادم ولا فخر وانا صاحب  
لراء الحمد ولا فخر وانا اول من يدخل الجنة ولا فخر  
وانا اخذ بملقة باب الجنة فيوزن لي فيستقبلني  
وجه الجبار فاخر له ساجدا فيقول تعالى يا محمد  
ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعط فارفع راسي  
فاقول يا رب امتي امتي فلا ازال ارجع الى ربي  
فيقول اذهب فانظر فمن وجدت في قلبه مثقال  
حبة من الايمان فاخرجه  
من النار قال صلى الله  
وسلم فاخرج من امتي امثال الجبال ثم يقول  
لي النبيون ارجع الى ربك فاساله فاقول قد رجعت  
الى ربي حتى استجيبت منه وقال صلى الله عليه وسلم

پھر پیدا کئے جاؤ گے، فرمایا: ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں  
لوٹا دیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری بار پیدا کر دیں گے حق تعالیٰ دوبارہ زندہ  
فرما کر سب کو جمع فرمائے گا تاکہ ہر شخص کو اس کے عملوں کا بدلہ دیا جائے اور  
تاکہ بروں کو ان کے برے عملوں کا برابر بدلہ اور اچھوں کو ان کے اچھے عملوں  
کا اچھا بدلہ دیا جائے، فرمایا: اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا پھر  
وہ تمہیں مار دینگا پھر وہ تمہیں زندہ کر دینگا جو مخلوق کے ایجاد کرنے پر قادر  
ہے وہ ان کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، معطلہ فرقتہ حشر کا  
منکر ہے اللہ ان سے سمجھے۔

### شفاعت

شفاعت پر ایمان لانا واجب ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے نبی کی  
گنہگار موحدر کے حق میں شفاعت قبول فرمائے اور عام مومنوں کے حق میں  
کتاب کھولنے کے لئے آپ کی شفاعت کبریٰ قبول فرمائے گا اور جہنم میں جانے کے بعد  
آپ خاص طور سے اپنی امت کے موحدر باب کہاں کی شفاعت فرمائیں گے چاہے  
وہ آپ کی اور دیگر مومنوں کی شفاعت سے جہنم سے نکل آئیں گے حتیٰ کہ جہنم میں  
وہ موجد بھی نہیں رہے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانہ کے وزن کی  
برابرا ایمان ہوگا اور وہ بھی جس نے اپنی عمر میں خلوص کے ساتھ ایک بار  
لا اله الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا لیکن تدریہ فرقتہ شفاعت کا سکر ہے حالانکہ قرآن  
پاک میں اسکی تردید و تکذیب ہے فرمایا: آج ہماری کوئی شفاعت کرنا نہیں  
اور نہ کوئی گناہ درست، فرمایا: کیا ہمارے لئے کوئی شفیع ہے کہ ہماری شفاعت  
کرے فرمایا: شفاعت کرنا نبیوں کی شفاعت نہیں مفید ثابت نہیں ہوگی ان  
آیتوں میں حق تعالیٰ نے آخرت میں شفاعت ثابت فرمائی ہے حدیث سے بھی شفاعت  
ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء  
کے دن سب سے پہلے جس سے زمین پھٹے گی وہ میں ہوں میں فخر نہیں کرتا  
میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں فخر نہیں کرتا، اسے تمہیں حمد کا  
ہوگا اور میں فخر نہیں کرتا، میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میں فخر  
نہیں کرتا، میں جنت کے دروازے کا کڑا پکڑ کر بلاؤں گا پھر مجھے اجازت ملے گی



فی حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما  
 شفاعتی لاہل الکباثر من امتی وعن ابی ہریرۃ  
 رض انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 لکل نبی دعوتہ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وانا  
 اختیبات دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامۃ فہی نائلۃ  
 ان شاء اللہ تعالیٰ من امتی لمن مات لا یشترک باللہ  
 شیئا وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث النس  
 الانصاری رض انی لا شفیع یوم القیامۃ لا کثرمتما  
 علی وجہ الارض من حجر ومد رولہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم شفاعۃ فی القیامۃ عند المیزان و  
 عند الصراط وکلک ما من نبی الا ولہ شفاعۃ  
 وعن حدیثہ رض عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 انہ قال لبقول ابراہیم علیہ السلام یوم القیامۃ  
 یاربنا ۛ فیقول اللہ عزوجل یا لیبیکا ۛ فیقول یارب  
 احرقت نبی ادم فیقول جل وعلا اخرجوا من النار  
 من کان فی قلبہ مثقال برۃ او شعیرۃ من الایمان  
 وکذا لک للصدیقین والصلحین من کل امۃ شفاعۃ  
 قال صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابی سعید الخدری  
 رضی اللہ عنہ لکل نبی عطیۃ وانی اختیبات عطیتی  
 شفاعۃ لامتی وان الرجل من امتی یشفع للقبیلۃ  
 فیدخلہم اللہ تعالیٰ الجنۃ لشفاعتہ وان الرجل  
 لقیام من الناس فیدخلہم اللہ الجنۃ لشفاعتہ  
 وان الرجل یشفع لثنتہ نفر وان الرجل یشفع لاثنتین  
 وان الرجل یشفع للرجل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 فی حدیث ابن مسعود رض لیدخل الجنۃ قوم من

جائیگی پھر میرے سامنے حضرت جبار کا چہرہ ہوگا میں اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا  
 پھر حق تعالیٰ فرمائے گا: اے محمد! اپنا سر اٹھائیے شفاعت کیجئے آپکی شفاعت قبول کی جائیگی  
 جائیگی مانگئے آپکی مراد پوری کی جائیگی بالآخر میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں  
 گا میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کو بخش دیجئے پھر میں برابر اپنے رب کی طرف  
 رجوع کرتا ہوں گا حق تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور دیکھو اگر کسی کے دل میں رائی کڑے  
 کے برابر ایمان پاؤ اسے نکال لو پھر میں جنم سے اس قدر لوگوں کو نکالوں گا کہ اگر ان کا  
 اوپر سے ڈھیر لگایا جائے تو پہاڑوں کی بندھی تک پہنچ جائیں پھر مجھ سے انبیاء کے آگے  
 فرمائیں گے: آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور پھر اس سے سوال  
 کیجئے میں عرض کروں گا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس بار بار گیا حتیٰ کہ اب مجھے جان  
 ہوئے شرم آتی ہے حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ سرور عالم صلعم نے فرمایا  
 میری شفاعت میری امت کے ارباب کبار کے لئے ہے حضرت ابو ہریرہ کا بیان  
 ہے کہ سرکار رسالت صلعم نے فرمایا: ہر نبی کی ایک دعا یعنی طور پر مقبول ہے  
 اور وہ دعا ہر نبی دنیا ہی میں مانگ چکا لیکن میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے  
 دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھپا رکھی ہے لہذا انشاء اللہ میری شفاعت میری  
 امت کے ان لوگوں کو پہنچنے والی ہے جو اس حال میں فوت ہوئے کہ اللہ کے سامنے  
 کسی چیز کو شریک نہیں کیا کرتے تھے۔

حضرت انس بن مالک انصاری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا:  
 میں قیامت کے دن ڈھیلوں اور پتھروں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی شفاعت  
 فرمایا: میزان کے پاس اور پل صراط کے پاس قیامت کے دن شفاعت ہوگی۔  
 اسی طرح ہر پیغمبر شفاعت فرمائے گا، حضرت حذیفہ رض کا بیان ہے کہ نبی صلعم نے  
 فرمایا: قیامت کے دن حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور کہیں گے اے میرے  
 پروردگار! حق تعالیٰ فرمائے گا میں موجود ہوں کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض  
 کریں گے اے رب آپ نے اولاد آدم کو جلا دیا، حق تعالیٰ فرمائے گا آگ سے  
 ان سب کو نکال لو جن کے دلوں میں ایک گہیوں یا ایک جو کے دانہ کے وزن  
 برابر ایمان ہے، اسی طرح ہر امت کے صدیق و صالح حضرات کی شفاعت ثابت ہے



المسلمین قد عدوا بالنار برحمة الله تعالى وشفاعة  
 الشافعیین والیضانی حدیث اولیس القرنی رض المعرف  
 والله تفضل وتكرم ورحمة ومنة علی من یشاء من  
 اهل النار فی اخیر اجہم منها بعد ما احترقوا وماروا  
 فحما وعن الحسن عن انس رض عن النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم انه قال ما زلت اشفع الی ربی فیشفعنی حتی  
 اقول یارب شفعی فیمن قال لا اله الا الله فیقول  
 جل وعلا ہذا لیس لک یا محمد ولا احد ہذا  
 لی وعزتی وجلالی ورحمتی لا ادع فی النار احد اقال  
 لا اله الا الله والایمان بالصلوات علی جہنم واجب  
 وهو جسر ممدود علی متن جہنم یاخذ من یشاء  
 اللہ الی النار ویجوز من یشاء ولینقط فی جہنم من  
 یشاء الی النار ولہم فی تلك الاحوال نور بحسب  
 اعمالہم فہم بین ماش و سراع ویا کب و  
 زحف و سحب وقد وصفہ النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم بانہ ذو کلاب فی خبر فیہ طول الی  
 الی ان قال صلی اللہ علیہ وسلم ذو کلاب مثل  
 شوك السعدان هل تعرفون شوك السعدان  
 قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 قال فانہا مثل شوك السعدان غیر انہ لا یعلم  
 عظمہا الا اللہ تعالی جل اسدہ فتخطف الناس  
 فینہم مریق بعلہ و منہم المخرول والمخرول للک  
 المصروع و منہم من یخرول ثم ینجو وقیل ذلک  
 لقطع ایضاً وقال صلی اللہ علیہ وسلم استجیدوا  
 صحا یا کم فانہا مطایا کم علی الصراط و جاہ فی

حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ محبوب و در عالم صلعم نے فرمایا: ہر نبی کے لئے  
 ایک بخشش ہے میں نے اپنی بخشش کو اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھپا رکھا ہے میرا  
 ایک امتی پورے ایک قبیلہ کی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ پورے  
 قبیلہ کو جنت عطا فرمادے گا اور ایک امتی لوگوں کی ایک جماعت کی شفاعت کرے گا  
 اور حق تعالیٰ اسکی شفاعت سے انہیں جنت میں لیجائے گا اور ایک امتی تین آدمیوں  
 کی شفاعت کرے گا اور ایک دو آدمیوں کی اور ایک ایک آدمی کی۔  
 حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ ساتی کو تشریف روز محشر صلعم نے فرمایا: جنت میں  
 مسلمانوں کی ایک جماعت جو آگ کے عذاب میں مبتلا تھی اللہ کی رحمت سے اور شفا  
 کرنے والوں کی شفاعت سے داخل ہوگی ساسی طرح اور تین والی مشہور حدیث  
 میں ہے حق تعالیٰ کی مہربانی اعنایت افضل و کرم اور احسان ہے کہ وہ جس جہنمی کو  
 چاہے اس کے جلنے اور کوئلہ ہو جانے کے بعد جہنم سے نکال دے۔  
 حسن انس سے روایت ہے صلعم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں برابر اپنے  
 رب سے شفاعت کی درخواست کرتا رہوں گا پھر اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول  
 فرمائیں گے حتیٰ کہ میں درخواست کروں گا کہ میرے پروردگار ان کے لئے میں  
 میری شفاعت قبول فرمائیجئے جو لا اله الا اللہ کے قائل تھے حق تعالیٰ فرمائے گا محمد  
 یہ مقام آپ کا نہیں اور نہ کسی اور کا ہے یہ مقام میرا ہے مجھے اپنی عزت و جلال  
 اور رحمت کی قسم میں جہنم میں لا اله الا اللہ کہنے والے نہیں رہنے دوں گا۔  
 پل صراط [پل صراط پر جو جہنم کے اوپر ہے ایمان لانا واجب ہے۔ صراط جہنم  
 کے اوپر ایک لمبا پل ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ پل اسے پکڑ کر جہنم میں گرا  
 دے گا اور جسے چاہے گا پار فرمادے گا اس سے گزرتے وقت لوگوں کو بقدر ان کے  
 اعمال کے نوریہ گا۔ کوئی چل کر پار ہوگا، کوئی دوڑ کر، کوئی مثل سوار کے  
 کوئی چرتڑوں کے بل گھسٹتا ہوا اور کوئی کھسکتا ہوا، نبی صلعم نے اس کے بارے  
 ایک طویل حدیث میں فرمایا ہے کہ وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح آکر ٹروں گے  
 والا ہوگا فرمایا لوگو سعدان کے کانٹوں کو سپانتے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہاں  
 ہاں یا رسول اللہ! فرمایا: تو وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح آکر ٹروں والا



وصف الصراط عند صلى الله عليه وسلم انه  
 ادق من الشعرة واحرم من الجحرة واحدم  
 السيف طوله ثلاث مائة سنة من سنى الاخرة  
 بجوزة الابرار وتزل عنه الفجار وقيل ثلاثة  
 الاف سنة من سنى الاخرة واهل السنة يعتقدون  
 ان لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا في القيامة  
 يسقى منه المؤمنون دون الكافرين ويكون ذلك  
 بعد حواد الصراط قبل دخول الجنة من شرب منه  
 شربة لم تطما بعد ها ابد اعرضه مسيرة شهر  
 ماء اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل حوله  
 اباريق على عدد نجوم السماء فيه ميزابان يصبان من  
 الكثر امله في الجنة وفرعه في الموقف وقد  
 ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان  
 رضى انا عند حوضي يوم القيامة فسئل النبي صلى الله  
 عليه وسلم من سعة الحوض فقال صلى الله عليه  
 وسلم ما بين مقامي هذا الى عمان شرابه اشد بياضا  
 من اللبن واحلى من العسل فيه ميزابان من  
 الجنة احد هما من درق والاخر من ذهب من  
 شرب منه شربة لم يطما بعد ها ابد اوقال  
 صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر  
 رضى موعدهم حوضى عرضة مثل طولم وهو  
 البعد ما بين ايلة الى مكة وذلك مسيرة شهر  
 فيه اباريق امثال الكراكب ماء اشد بياضا  
 من الفضة من ورودا شرب منه لم يطما  
 بعد ها ابد اوكذلك لكل نبى من الانبياء

ہوگا گز ان کاٹوں کی بڑائی اللہ ہی کو معلوم ہے وہ آنکھ سے لوگوں کو دیکھ لیں گے پھر کوئی تو اپنے عملوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا کوئی رائی رائی کے ان کی طرح چور چور ہو کر جہنم میں گر کر پھیر جائے گا کوئی ریزہ ریزہ ہو کر نجات پا جائیگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ آنکھ سے کاٹنے ہی کے لئے ہیں فرمایا: **ترابا** عمدہ جانوروں کی گرد کیونکہ یہ جانور پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے آپ نے پل صراط کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک انگارے سے زیادہ گم اور نوا سے زیادہ تیز ہے اس کا طول آخرت کے سالوں سے تین سو سال کی مسافت کا ہے نیک حضرات اس سے عبور کر جائیگے اور یہ کاروان ہنجار اس سے پھسل جائیں گے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا طول آخرت کے سالوں سے تین ہزار سال کی مسافت کا ہے۔

**حوض کوثر** | اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلعم کے لئے قیامت میں ایک حوض ہے جس کا پانی مومن پل صراط کو عبور کر کے جنت میں جانے پہلے پیش گے اور اس سے کافر محروم رہیں گے جو شخص ایک دفعہ وہ پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اس حوض کا عرض ایک ماہ کی مسافت ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے اس کے ساحل پر آسمان کے تاروں کی طرح بیٹھا رڈ لگے ہیں اس میں دو پر تالے کوثر سے گرتے ہیں اس کا منبع بہشت میں ہے اور شاخیں میدان میں ہیں حضرت ثوبان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے حوض کے پاس موجود رہوں گا پھر آپ سے حوض کی وسعت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: میرے اس مقام سے بیکر عمان تک وسیع ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ بیٹھا ہے اس میں بہشت سے دو پر تالے گرتے ہیں جو ایک چاندی کا ہے اور ایک سونے کا کوئی ایک بار اس کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس محسوس نہ ہوگی۔

حضرت عبد اللہ بن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا تمہارے وعدہ کی جگہ میرا حوض ہے یعنی حوض پرتم سے ملاقات ہوگی اس کا عرض و طول



حوض الاصالح النبی فان حوضه ضرع ناقته لیسقی  
من ذلك مومنوكل امة منهم دون الكافرين  
وفي حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه  
قال حوضي ما بين عدن وعبان حافتاه خيام  
الدر المحجوف وانبته عدد نجوم السماء طينته  
المسك الاذفر ماؤا ابيض من اللبن وابر من  
الثلج احلى من العسل من شرب منه شربة لم  
يظمأ بعد ها ابد افيذ ادعني ليوم القيامة رجال  
كما تذاذ الغريبة من الابل فاقول الالهلم الالهلم  
فيقال انك لاتدري ما احد ثوابك فاقول ما  
احد ثوابي قال انهم غير وابد لو اقول الاسعفا  
ولجدا وقد انكرت ذلك المعترلة فلا يسقون  
منه ويدخلون النار وردا عطاشا ان لم يتولوا  
عن مقالتهم وجودهم الحق ورد الايات والاحباب  
والاثار وروى عن انس بن مالك رفعه الى  
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب  
بالشفاعة لم يكن له فيها نصيب ومن كذب  
بالحوض لم يكن له فيه نصيب واهل السنة  
يعتقدون ان الله يجلس رسوله ونبيه المختار  
على سائر رسله وانبيائه معه على العرش يوم القيا  
ما روى عن عبد الله بن عمر رضي عن النبي صلى الله  
عليه وسلم في قوله عز وجل عسى ان يبعثك ربك  
مقاما محورا قال يجلسه معه على السرير وعن  
هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها  
انها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

برابر ہے اور وہ ایتھ سے کونک کے فاصلہ سے بھی بڑا ہے ایتھ سے کونک کا  
فاصلہ ایک مہینہ کا ہے اس کے ساحل پر تاروں کی طرح بے شمار ڈنگے ہیں  
اور اس کا پانی چاندی سے بھی زیادہ سفید ہے جو شخص اس پر آکر اس کا پانی  
پئے گا اسے پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی اسی طرح ہرنی کا ایک حوض ہے  
البتہ حضرت صالح کا حوض ان کی ارضی کا باکھ ہے جس سے ہر قوم کے مسلمانوں  
کو رو دھ پلا یا جائے گا، کافروں کو نہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: میرا حوض عدن سے عمان تک فاصلہ کا  
ہے اس کے دونوں ساحلوں پر ایک ایک جوف دار موتی کے خیمے ہیں اس کے  
جام آسمان کے تاروں کے برابر ہیں اس کی تہ کی مٹی خالص مشک ہے اس کا  
پانی دو دھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے  
زیادہ میٹھا ہے جو شخص اس سے ایک دفعہ پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس  
محسوس نہ ہوگی پھر قیامت کے دن بعض لوگ مجھ سے اس طرح ہٹا  
دئے جائیں گے جس طرح اجنبی اونٹ ذاتی اونٹوں سے ہٹا دئے جاتے  
ہیں میں کہوں گا سنو! چلے آؤ لیکن مجھ سے کہا جائے گا: آپ کو معلوم نہیں  
کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں گھڑی تھیں میں پوچھوں گا: کیا  
بدعتیں ایجاد کی تھیں؟ تو کہا جائیگا کہ انہوں نے دین میں تغیر پیدا کر دیا  
تھا اور اسے بدل ڈالا تھا۔ بالآخر میں کہوں گا کہ مجھ سے بہت پرے  
اور دور ہٹ جاؤ۔

معتزلہ اس حوض کے منکر ہیں لہذا اس کا پانی انہیں نہیں پلایا جائیگا  
اور وہ جہنم میں پیاسے ہی جھونک دئے جائیں گے اگر وہ اس بدعتیہ  
اور انکار حق سے توبہ نہ کریں گے اور حق کو ٹھکرانے سے اور آیات و احادیث  
کی تردید سے باز نہیں آئیں گے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  
صلعم نے فرمایا: جس نے شفاعت کو جھٹلایا اسے شفاعت نصیب نہ ہوگی  
اور جس نے حوض کو ٹھکرایا اسے اس کا پانی نصیب نہ ہوگا۔  
السنن کا عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اپنے پسندیدہ



محبوب پیغمبر کو رسولوں اور نبیوں سے اوپر اپنے پاس عرش پر بٹھائے گا کیونکہ  
حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلعم صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتک ربک مقاما محمودا یعنی  
امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں بھیجے گا کی تفسیر میں فرماتے ہیں  
یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس تخت پر بٹھائے گا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلعم سے مقام محمود کے  
بارے میں پوچھا، فرمایا: مجھ سے میرے رب نے عرش پر بیٹھنے کا وعدہ  
فرمایا ہے اسی طرح حضرت عمر بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن  
سلام کا بیان ہے کہ قیامت کے دن تمہارے نبی کو لایا جائے گا اور آپ کو  
حق تعالیٰ کے سامنے اس کی کرسی پر بٹھایا جائے گا آپ سے کہا گیا: اے ابو مسعود  
جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر ہو گا تو کیا نبی صلعم اللہ کے پاس نہ ہوں گے؟ فرمایا  
تمہارے لئے خرابی ہو یہ حدیث تو دنیا میں میری آنکھوں کے لئے انتہائی ٹھنڈک  
والی ہے۔ حجاج اپنی حدیث میں فرماتے ہیں قیامت کے دن جبار اپنے عرش  
پر تشریف فرما ہو گا اور اس کے پیر کرسی پر ہوں گے اور تمہارے نبی صلعم  
جائیں گے اور رب کے سامنے کرسی پر آپ کو بٹھا دیا جائے گا۔

لوگوں نے حمیدی سے پوچھا جب آپ کرسی پر ہوں گے تو آپ اللہ کے  
ساتھ ہوں گے نا؟ فرمایا ہاں تمہارے لئے خرابی ہو آپ اللہ کے ساتھ ہوں  
گے۔ آہستہ کا عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں  
حساب لینے کے لئے اسے اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھے گا حتیٰ کہ  
اسے لوگوں سے چھپالے گا کیونکہ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے  
رسول اللہ صلعم سے سنا آپ فرماتے تھے: قیامت کے دن مومن کو لایا جائے گا  
پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اسے لوگوں سے چھپانے کے لئے  
اپنا ہاتھ رکھے گا اور وہاں فرمائے گا: اے میرے بندے! کیا تو فلاں گناہ چھپاتا  
ہے؟ کیا تجھے فلاں فلاں گناہ معلوم ہے؟ بندہ عرض کرے گا: ہاں اے میرے  
پروردگار یہ میرے ہی گناہ ہیں حتیٰ کہ حق تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں  
کا اقرار کر دے گا اور وہ سمجھ لے گا کہ اب میں ہلاک ہوا پھر حق تعالیٰ اس سے

عن المقام المحمود فقال صلی اللہ علیہ وسلم وعدنی  
ربی القعود علی العرش وکذا لک عن عمر بن الخطاب  
رض و عن عبد اللہ بن سلام رض قال اذا کان یوم القیامۃ  
جئ بنییکم فاقعد بین یدی اللہ علی کرسیہ اقلیل  
لہ یا ایا مسعود اذا کان علی کرسیہ الحق الیس  
ہو معہ قال ویلکم ہذا قرحدیث فی الدنیا  
لعینی وقال الحجاج فی حدیثہ اذا کان یوم القیامۃ  
نزل الجبار علی عرشہ وقد ماہ علی الكرسي دیوثی  
بنییکم صلی اللہ علیہ وسلم فیقعد بین یدیہ  
علی الكرسي فقالوا للحمیدی اذا کان علی الكرسي  
فہو معہ قال نعم ویلکم ہو معہ ویعتقد  
اہل السنۃ ان اللہ تعالیٰ یجاسب عبدہ المؤمن  
یوم القیامۃ ویدنیہ منہ فیضع کفہ علیہ  
حتی لیسترا من الناس لما روی عن عبد اللہ بن  
عمر رض انه سمع رسول اللہ یقول یوتی بالہومن  
یوم القیامۃ فیدنیہ اللہ تعالیٰ منہ فیضع کفہ  
علیہ حتی لیسترا من الناس فیقول عبدی العرف  
ذنبکذا العرف ذنبکذا وکذا مرتین  
فیقول نعم رب حتی اذا قرأ بذلک کلہا  
فراى نفسه انه قد هلك فیقول لہ الحق  
عز وجل عبدی ذلک ہذا فانی قد سترتہا  
علیک فی الدنیا وانا اغفر ہا لک الیوم ومعنی  
المحاسبة تعریف اللہ عبدہ بقادیر ثواب  
الاعمال وعذابہ بقراءۃ سلیاتہ وحسناتہ  
ومالہ وما علیہ وقد انکرت المعطلۃ المحاسبۃ



وقد كذبهم الله تعالى بقوله ان الينا اياهم ثم  
ان علينا حسابهم وليتقد اهل السنة ان الله تعالى  
مبازنا ميزان فيه الحسنات والسيئات يوم القيامة  
له كفتان ولسان وقد انكرت المعتزلة مع المرجية  
والخارج ذلك فقالت ان معنى الميزان العدل  
دون موازنة الاعمال وفي كتاب الله وسنة  
رسوله تكذبهم قال الله تعالى وفضل الميزان  
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان  
مقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين  
وقال تعالى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة  
راضية واما من خفت موازينه فاتمها وبيته  
الاية والعدل لا يوصف بالخفة والثقل وانما  
هو بيد الرحمن جل جلاله لانه هو الذي يتولى  
حسابهم لما روى الثوراس بن سمان الكلبي  
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  
الميزان بيد الرحمن عز وجل يرفع اقواما ويضع  
اخرين ليوم القيامة وقيل انه بيد جبرائيل عليه  
السلام لما روى عن حذيفة بن اليمان رضي قال  
ان جبرائيل صاحب الميزان فيقول له ربه زن  
يا جبرائيل بينهم فيرجع بعضهم على بعض وروي  
عبد الله بن عمر رضي قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فيرتى بالرجل  
فيوضع في كفة الميزان ويوضع ما احمى من  
عمله في كفة فيميل به الميزان فيبعث الله به  
الى النار فاذا ادبر به اذا ما تم يصيغ من عند الرحمن

فرمائے گا تیرے گناہ یہ ہیں، میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈال دیا تھا اور  
آج بھی میں تیرے یہ گناہ معاف کرتا ہوں حساب لینے کا یہ مطلب ہے کہ  
حق تعالیٰ جل مجدہ بندے کو اس کے عملوں کے ثواب و عذاب کی مقدار اس کی  
نیکیاں اور برائیاں بتا کر آگاہ فرما دے گا اور نفع نقصان پہنچا دے گا۔ معتزلہ  
حساب و کتاب کو نہیں مانتے حق تعالیٰ نے ان کی تردید میں فرمایا: یقین بانو  
ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے پھر ہمیں پران کا حساب ہے۔

**میزان** | اہلسنت کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی ایک میزان رتازد  
ہے جس میں قیامت کے دن نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی اس کے دو پے ہیں  
اور ایک ڈنڈی ہے، معتزلہ، مرجیہ اور خارجی میزان کو نہیں مانتے اور یہ  
تادل کرتے ہیں کہ میزان عدل کے معنی میں ہے عملوں کے تولنے کے معنی میں  
نہیں لیکن قرآن و حدیث میں ان گمراہ فرقوں کی تردید ہے فرمایا: ہم قیامت  
کے دن انصاف کے لئے میزان نصب کریں گے اور کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہو  
اور اگر رائی کے وانہ کے وزن کی برابر بھی نیکی ہوگی تو ہم اسے بھی آٹے میں  
گے اور ہم حساب لینے والوں میں کافی ہیں فرمایا اور جس کی تولیں بھاری ہوئیں  
وہ پسندیدہ عیش میں موج اڑائے گا اور جس کی تولیں ہلکی ہوئیں اس کا ٹھکانہ  
لاویہ ہے جو تپتی ہوئی آگ ہے ظاہر ہے کہ عدل کو ہلکا اور بھاری نہیں  
جاتا ہے، میزان اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوگی کیونکہ اللہ ہی اس دن  
براہ راست لوگوں کا حساب لے گا کیونکہ نواس بن سمعان کلابی کا بیان ہے  
کہ میں نے رسول اللہ صلیم سے سنا آپ فرماتے تھے، میزان حق تعالیٰ  
عز وجل ہی کے ہاتھ میں ہوگی وہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو مر بلند فرمائے  
گا اور کچھ لوگوں کو گرا دے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ میزان حضرت جبرئیل  
کے ہاتھ میں ہوگی کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ترازو والے حضرت  
جبرئیل ہیں آپ سے آپ کا ہر دو گرا فرمائے گا، جبرئیل! لوگوں کے گھونٹ  
کا وزن کر پھر آپ بعض پر بعض کا پلہ جھکا دیں گے اور حضرت عبد اللہ  
بن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلیم نے فرمایا: قیامت کے دن ترازو



لا تعجلوا لا تعجلوا فانه قد لقي له فيوتى لبتى فيه  
لا اله الا الله فيوضع موضع الرجل في كفة حسنة  
حتى يبيل به الميزان فيومر به الى الجنة وفي حديث  
اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لوقى  
بالرجل يوم القيمة الى الميزان ثم لوقى بتسعة  
وتسعين سجلا كل سجل مد البصر فيها كلها  
سياته وحسناته فترجح سياته على حسناته  
فيومر به الى النار فاذا ادبر به اذا صاح يصيح  
من عند الرحمن لا تعجلوا لا تعجلوا فقد لقي له  
فيوتى بثلث راس الابهام وامسك على النصف  
منها فيه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول  
الله فيوضع في كفة حسنة فتثقل حسنة على  
سياته فيومر به الى الجنة وفي لفظ اخر فيخرج  
له بقرطاس مثل هذا وامسك على ابهام  
فيه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول  
الله الى اخر الحديث وقيل ان الصنيع يومئذ  
مقابل الذر والخردل تكون الحسنات وفي صورة  
حسنة تطرح في كفة النور فيثقل بها الميزان برحمة  
الله وتكون السيئات في صورة سيئة تطرح في  
كفة الظلمة فيخفف بها الميزان ارتفاعها  
وعلامته انخطاطها خفتها بخلاف موازين  
الدنيا وقيل هو مثل موازين الدنيا وسبب  
ثقلها الايمان وقول الشهادتين وسبب خفتها  
المشرك بالله عز وجل واذا ارتفعت ادخل  
صاحبها الجنة واذا خفت ادخل صاحبها النار

کی جائیگی پھر ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے نیک عمل ایک پتہ میں رکھے جائیں گے اور برے عمل دوسرے پتہ میں پھر برے عملوں کا پتہ جھک جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں کھینچے گا حکم فرمادے گا پھر جب اسے جہنم کی طرف لیجانے لگیں گے تو اچانک ایک اعلان کر نیوالا رحمن کے پاس سے بلند آواز سے اعلان کرے گا کہ اسے جہنم کی طرف لے جانے میں جلدی نہ کرو ابھی اس کی ایک نیکی باقی ہے جو تنے سے رہ گئی ہے پھر ایک پرچی لائی جائیگی جس میں لا اله الا اللہ درج ہوگا اور وہ نیکیوں کے پتہ میں رکھ دی جائیگی حتیٰ کہ وہ پتہ جھک جائیگا پھر اسے جنت میں لے جانے کا حکم صادر فرما دیا جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلعم نے فرمایا اقیامت کے دن ایک شخص کو ترازو کے پاس لایا جائیگا پھر اس کے ۹۹ دنز لائے جائیں گے اور ہر دنتر حدنگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا ان میں اسکی تمام نیکیاں اور برائیاں ہوں گی اور نیکیوں پر برائیاں جھک جائیں گی بالآخر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم صادر فرما دیا جائیگا پھر جب اسے لیجا یا جائے گا تو اچانک ایک اعلان کر نیوالا بلند آواز سے رحمن کے پاس سے اعلان کرے گا کہ جلدی نہ کرو اور محبت سے کام نہ لو ابھی اس کا ایک عمل باقی ہے پھر انگوٹھے کے بالائی پورے کے آدھے پورے کی برابر ایک پرچی لائی جائے گی جس میں لا اله الا اللہ و محمد رسول اللہ کی شہادت درج ہوگی یہ پرچی اس کے نیکیوں کے پتہ میں رکھ دی جائیگی بالآخر نیکیاں برائیوں پر جھک جائیں گی پھر اسے جنت میں لے جانے کا حکم صادر فرما دیا جائے گا ایک لفظ میں ہے کہ آپ نے انگوٹھے پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ اتنا سا کاغذ کا لاجائے گا جس میں توحید و رسالت کا اقرار درج ہوگا آگے باقی حدیث ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس دن نیکیاں چوٹیوں اور رائی کے دانوں کی برابر اچھی اچھی شکلوں میں ہوں گی اور نوز کے پتہ میں رکھ دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان سے پتہ جھک جائے گا اور بدیاں برسی شکلوں میں ہوں گی اور ظلمت کے پتہ میں ڈال دی جائیں گی اور اللہ کے عدل سے وہ پتہ ہلکا ہو جائے گا ترازو کے بھاری ہونے کی نشانی پتہ کا بلند ہونا اور ہلکی ہونے کی نشانی پتہ کا گھٹنا



الغداویۃ لانھا فی النور اسفل السافلین كما قال  
اللہ عزوجل فاما من ثقلت موازینہ فہو فی  
عیثۃ راضیۃ ای فی جنتہ عالیۃ واما من خفت  
موازینہ قائمۃ ہاویۃ ای اصلہ وما والاہ وجرعہ  
فادحامیۃ وہی ہاویۃ و الناس فی موازینۃ الاعمال  
علی ثلاثۃ اضرب منهم من ترجح حسناتہ علی  
سیئاتہ فیوربہ الی الجنتہ ومنہم من ترجح سیئاتہ  
علی حسناتہ فیوربہ الی النار ومنہم من لا  
ترجح احدہما علی الاخری فہم اصحاب الاعراف  
ثم لا ینالہم اللہ برحمۃ اذا شاء فیدخلہم  
الجنتہ فہو قولہ عزوجل وعلی الاعراف رجال  
الایۃ والذی یوزن معکلف اعمالہم علی ما  
ذکرنا من تسعۃ وتسعین سجلا و طریق ذلک  
التقل والسمع واما المقربون فیدخلون الجنتۃ  
بغیر حساب كما جاء فی الحدیث انہ یدخل الجنتۃ  
سبعون الفا بغیر حساب ومع کل واحد منہم  
سبعون الف علی نص الحدیث المشہور واما  
الکافرون فیدخلون النار بغیر حساب ومن  
المؤمنین من یناسب حسابا لیسیرا ثم یوربہ  
الی الجنتۃ علی ما تقدم ومنہم من یناقش ثم یرا  
الی اللہ ان شاء امر بہ الی الجنتۃ والی النار قال  
عزوجل فاما من اوتی کتابہ بیمنہ فسوف یمسک  
حسابا لیسیرا الایۃ وقال جل وعلا وکل انسان  
الزمنہ دائرۃ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ  
کتابا یلقہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم

ہے لیکن دنیا میں اس کے برعکس ہے کہ بھاری جھک جاتا ہے اور ہلکا اٹھ جاتا ہے  
یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذیوی ترازو کی طرح بھاری اور ہلکا ہوگا اور بھاری ہونے  
ہونے کا سبب ایمان اور اقرار توحید و رسالت ہے اور ہلکا ہونے کا سبب  
شرک ہے بلند ہوگا تو نیکیوں والے کو جنت میں لے جائیگا اور ہلکا ہوگا تو جہنم  
والے کو جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جائے گا۔ کیونکہ اوپر زمین کی سب سے  
نیچے والی تہ میں واقع ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی تو لیں بھاری ہوگی وہ  
پسندیدہ عیش میں یعنی بلند جنت میں ہوگا اور جس کی تو لیں ہلکی ہوں گی اسکی  
اصل اور اس کا ٹھکانہ اور اس کے لوٹنے کی جگہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جسے  
لاویہ کہا جاتا ہے۔

وزن اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے اقسام | وزن اعمال کے اعتبار

سے دو تین قسموں پر بٹ جائیں گے بعض کی نیکیاں برائیوں پر جھکتی ہیں  
گی لہذا وہ جنتی ہیں اور بعض کی برائیاں نیکیوں پر جھک جائیں گی لہذا وہ  
جہنمی ہیں اور بعض کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی لہذا یہ اصحاب الاعراف  
ہیں جن کو اللہ جب تک چاہے گا اپنی رحمت میں نہ ڈھانپے گا، بالآخر  
انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا فرمایا اور اعراف پر کچھ لوگ ہونگے (آخر تک)  
اعمال نامہ کی ۹۹ فردوں کی تول کا ثبوت یہ ہے کہ رحمت عالم نے اس کا بیان  
فرمایا اور صحابہ کرام نے اسے آپ سے سنا، مقرب حضرات جنت میں بلا حساب  
و کتاب جائیں گے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ستر ہزار اور ان میں سے  
ایک کے ساتھ ستر ہزار بلا حساب کے جنت میں جائیں گے اور کافر جہنم میں  
بلا حساب کے جائیں گے، بعض مومنوں سے تان حساب لیا جائیگا پھر ان  
کو جنت میں داخل کرنے کا حکم صادر فرمایا جائے گا جیسا کہ اوپر گزر چکا اور  
بعض سے کہیدگی جائیگی ایسے مومنوں کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے خواہ  
ان کے لئے جنت کا حکم فرما دے یا جہنم کا، فرمایا جس کے سیدھے ہاتھ میں  
اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس سے حساب آسان لیا جائے گا فرمایا ہم  
نے ہر شخص کی گردن میں اس کا اعمال نامہ چھپا دیا ہے اور ہم قیامت کے دن



عَلَيْكَ حَسِيبًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
حَدِيثٍ عَلَى رِضَاَنِ اللَّهِ بِمَا سَبَّ كُلَّ الْخَلْقِ إِلَّا  
مَنْ اشْرَكَ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَجَازِبُ وَيُؤْمَرُ  
بِهِ النَّارَ.

**فصل** ولتتقد اهل السنة ان الجنة والنار  
مخلوقتان وهما الداران اعدهما الله تعالى  
احد هما للنعيم والثواب لاهل الطاعة والايما  
والاخرى للعقاب والتكال لاهل المعاصي والطغيان  
هما منذ خلقهما الله تعالى باقيتان لا يفتيان ابدا  
وهي الجنة التي كان فيها ادم وحواء عليهما السلام  
والليس اللعين ثم اخرجها منها القصة المشهورة  
وقد انكرت المعتزلة ذلك فاما الجنة فلا يدخلونها  
واما النار فلغمرى هم فيها خالدون مخلدون  
لانكارهم ولعكهم بذلك لله من المودع المطيع  
لله عز وجل سبعين سنة بكبيرة واحدة وفي  
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه  
وسلم تكذيبهم قال الله عز وجل الجنة  
عرضها السموات والارض اعدت للتقين و  
وقال عز وجل اتقوا النار التي اعدت للكافرين  
وما كان معدا كان موجودا يعلمه كل عاقل  
فعلم انهما مخلوقتان وقال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم في حديث النبي بن مالك رضي دخلت  
الجنة فاذا انا بنهر يجري حافاه خيام اللؤلؤ فترت  
بيدي الى ماء يجري فاذا امسك اذ فرقت يا جبريل  
ما هذا قال هذا الكوثر الذي اعطاك الله تعالى

اس کا انا نہ کھول کر اسے دیدیں گے اور اس سے کہا جائیگا اے پناہ ماننا  
پڑھ لے آج تو آپ ہی اس کے سمجھنے کے لئے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہما  
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق تعالیٰ تمام مخلوق سے بجز مشرکوں کے  
حساب لے گا اور مشرک بلا حساب کے جہنم میں جھونک دئے جائیں گے  
جنت و جہنم کا وجود اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ آج بھی جنت و  
جہنم موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے یہ دو گھر ہیں جن کو  
اللہ تعالیٰ نے فرما کر داروں اور نافرمانوں کے لئے اور ثواب عذاب کے لئے  
تیار فرمایا ہے اور جب سے انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس وقت سے  
یکسر ہمیشہ ہمیش کے لئے باقی رہیں گے کبھی فنا نہ ہوں گے یہی وہ جنت ہے جس  
میں حضرت آدم و حوا دونوں رہتے تھے اور ابلیس لعین بھی پھر دونوں اس سے  
نکال دئے گئے یہ فقہ مشہور ہے اور سب سے جانتے ہیں۔ معتزلہ جنت کو نہیں  
اس لئے وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور اللہ کی قسم یہ لوگ دائمی جہنمی ہیں کیونکہ  
یہ لوگ جنت کو تو مانتے ہی نہیں اور یہ عقیدہ جمائے پیٹھے ہیں کہ ستر سال تک  
جس اطاعت گزار مومن نے اللہ کی عبادت کی ہو اور اس سے ایک بڑا  
گناہ سرزد ہو گیا ہو وہ دائمی جہنمی ہے۔ ان گناہوں کی تردید قرآن و حدیث  
سے ثابت ہے فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی برابر ہے  
اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی جا چکی ہے فرمایا: اس آگ سے  
ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی جا چکی ہے ہر ذی فہم شخص جانتا ہے کہ تیار کردہ  
چیز موجود ہوتی ہے لہذا معلوم ہوا کہ جنت و جہنم دونوں مخلوق موجود ہیں  
حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب  
میں رشب معراج اجنت میں گیا تو اچانک ایک نہر سے پہنچ گیا جس کے  
دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے نصب تھے پھر میں نے اس کے پانی کو چھوا  
تو اس میں خالص مشک کی خوشبو تھی میں نے پوچھا: جبریل یہ کیا ہے؟  
فرمایا: یہ کوثر ہے اور وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے  
حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ



وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي  
 حين قيل له يا رسول الله اخبرنا عن الجنة ما بناؤها  
 ها قال عليه السلام لبنه من ذهب ولبنه من  
 فضة وملاطها مسك اذ فروعها الياقوت و  
 اللؤلؤ وترابها الورس والزعفران من دخلها  
 بجلد ولا بيوت وبيعم ولا بياس ولا يخرق ثيابهم  
 ولا يبلى ثيابهم فهذا دليل على كونها مخلوقة من  
 وان نعيم الجنة دائم لا يفنى كما قال الله تعالى  
 اكملها دائم وظلها وقال عز وجل لا مقطوعة ولا  
 ممنوعة ومن نعيمها الحور العين خلقهن الله تعالى  
 في الجنة للبقاء لا يفنين ولا يتن كما قال عز وجل  
 فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن احد قبلكم  
 ولا جان وقوله تبارك وتعالى حور مقصورات في  
 الخيام ووروث ام سلمة زوجة النبي صلى الله  
 عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اخبرني عن  
 قول الله عز وجل كما مثال اللؤلؤ المكنون قال  
 صفاء هن كصفاء الدر في الاقصاد الى ان  
 قال يقطنن نحن الخالدات فلا نموت ابد ونحن  
 الناعمات فلا نباس ونحن المقيمات ولا نطعن  
 ابد ونحن الراضيات فلا نخط ابد او هن  
 في دار حق فلا يقطنن الا حقا والنبي صلى الله عليه  
 وسلم صادق ولا يقول الا حقا فاخبرنا عن  
 خالدات لا يتن وروى معاذ بن جبل رضي  
 النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا لؤلؤ في  
 امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من

پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ فرمایا: ایک اینٹ سونے  
 کی ہے اور ایک چاندی کی، اس کا گارا خالص شک ہے اور اس کے ٹکڑے سے یاقوت  
 اور موتی ہیں اور اس کی زمین درس (خوشبودار گھاس) و زعفران کی طرح خوشبودار ہے  
 جو اس میں داخل ہو جائے گا تو ہمیشہ اسی میں رہے گا اور اسے کبھی موت آنیوال نہیں  
 اور عیش کرے گا اور دکھ نہیں اٹھائے گا جنت والوں کے کپڑے نہ پھٹیں گے اور  
 نہ پرانے ہوں گے۔

مذکورہ بالا حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جنت و جہنم دونوں چیزیں پیدا ہو  
 چکیں اور اس کی بھی جنت کی نعمتیں دائمی ہیں جو فنا نہیں ہوتیں جیسا کہ حق تعالیٰ  
 نے فرمایا: جنت کے پھل اور اس کے درختوں کا سایہ دائمی ہے فرمایا جنت کے پھل  
 نہ کاٹے گئے ہیں اور نہ روکے گئے ہیں۔

**حوریں** جنت کی نعمتوں میں گوری گوری اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت حور  
 بھی ہیں جن تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کے لئے پیدا فرمایا ہے نہ وہ فنا ہوگی  
 اور نہ انہیں موت آئے گی فرمایا: ان میں نہی ننگا ہوں والیاں اچھوتی حوریں ہیں  
 جن کو جنت والوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھرا اور نہ کسی جن نے، فرمایا:  
 حوریں ہیں جو خمیوں میں محفوظ ہیں۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ صلعم  
 کا مثال اللؤلؤ المکنون وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں اکا مطلب بتائیے  
 فرمایا: ان پر ایسی رونق ہے جیسی سپی کے اندر موتی میں رونق اور آب ہوتی ہے  
 آپ نے اثنائے حدیث میں حوروں کا کلام بیان فرمایا کہ وہ یہ کہتی ہیں  
 ہم زندہ جاوید ہیں اور کبھی مرنے والی نہیں، ہم نازک اندام و نازد نعمت  
 میں رہنے والیاں ہیں کبھی ہم کو دکھ پہنچنے والا نہیں ہم مقیم و ساکن ہیں یہاں  
 سے سفر کر کے کبھی جانورالی نہیں اور ہم خوش اور راضی رہنے والیاں ہیں اور  
 کبھی ناراض ہونے والی نہیں (چونکہ وہ صداقت والے گھر میں ہیں اس  
 لئے انہیں صداقت ہی سے سروکار ہے اور سچی بات ہی منہ سے نکالتی ہیں  
 اور یہ صلعم بھی سچے ہیں اور سچ ہی فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ



المحرور العين لا تؤذیه قاتلك الله فانما هو عندك خلیل  
 یوشك ان یقاتک الینا فاذا ثبت انهما لا یفنیان  
 وما فیہما ابد ا فلا یخرج الله تعالیٰ من الجنة احدا  
 ولا یسلط علی اهلها الموت فیہا ولا یزول عنہم  
 نعیمہا فہم فی کل یوم فی مزید نعیم ابد الا با  
 وتام نعیمہم ان الله یامر بالموت فیذبح علی  
 سوربین الجنة والنار وینادی المنادی یا اهل  
 الجنة خلود ولا موت یا اهل النار خلود ولا موت  
 علی ما رددہ الخبر الضحیم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
**فصل** ولیعتقد اهل الاسلام قاطبة ان محمد  
 بن عبد الله بن عبد المطلب بن ہاشم رسول الله  
 وسید المرسلین وخاتم النبیین وانہ مبعوث  
 الی الناس كافة والی الجن عامة كما قال الله  
 عزوجل وما ارسلنک الا كافة للناس وما ارسلنک  
 الا رحمة للعلیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 فی حدیث ابن امامة رضا ان الله فضلنی علی الانبیاء  
 باربع ارسلنی الی الناس كافة وذكر الحدیث و  
 انه صلی اللہ علیہ وسلم اعطی من المعجزات ما  
 اعطی غیرہ وقد عدها بعض اهل العلم الف معجز  
 منها القرآن المنظوم علی وجه مخصوص مفارق  
 لجمیع اوزان کلام العرب ونظمه وترتیبه وبل  
 ونصاحتہ علی وجه جاوز فصاحتہ کل فصیح و  
 بلاغۃ کل بلیغ وعجزت العرب ان تاتی بمثلم  
 ولا بسورة منه كما قال الله تعالیٰ فاتوا بسورة  
 من مثلم ولا بسورة منه كما قال الله تعالیٰ

حوریں ہمیشہ رہیں گی اور کبھی فنا نہ ہونگی۔

حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو عورت دنیا میں اپنے شوہر کو

ایذا دیتی ہے اس سے شوہر کی حور بہ ضرور کہتی ہے کہ اسے ایذا مت دے اللہ تجھ پر لعنت

فرمائے یہ تو تیرے پاس مہمان ہے عنقریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئیگا

اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ دونوں اور ان کی تمام چیزیں کبھی فنا ہونے والی

نہیں تو اللہ تعالیٰ جنت سے کبھی کسی کو نہیں نکلے گا اور جنت میں اہل جنت پر موت

مسلط نہیں فرمائے گا اور جنت کی نعمتیں ان سے کبھی نہیں ہٹیں گی اور دن بدن بڑھتی

ہی رہیں گی اور نعمتوں کا تہرہ ہو گا کہ اللہ کے حکم سے جنت و جہنم کے درمیان ایک دیوار

پر موت فوج کر دی جائیگی اور ایک اعلان کرنیوالا اعلان کرے گا کہ جنت والو دائمی

زندگی ہے اور موت نہیں اور جہنم والو اب دوام ہے اور موت میں جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں

ختم نبوت اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب

بن ہاشم اللہ کے رسول ہیں تمام رسولوں کے سردار ہیں آپ پر رسالت ختم ہو گئی

اس لئے آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ تمام جنوں اور تمام انسانوں کے نبی ہیں

جیسا کہ فرمایا: ہم نے آپ کو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا، حضرت ابن امامہ کا بیان

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق تعالیٰ نے مجھے انبیاء پر چار چیزوں سے بزرگی

عطا فرمائی، مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، آگے پوری حدیث ہے

اور آپ کو اتنے معجزے دئے گئے جتنے کسی اور نبی کو نہیں ملے بعض علماء نے آپ کے

ایک ہزار معجزے گنوائے ہیں جن میں ایک قرآن حکیم بھی ہے جس کے الفاظ سورتوں

کی طرح منظم و مرتب ہیں اور اس کا ایک مخصوص انداز ہے جو عربوں کے کلام کی

ہر نوع سے جداگانہ ہے، قرآن پاک کی نظم و ترتیب اور فصاحت و بلاغت کا

یہ عالم ہے کہ ہر فصیح و بلیغ کی فصاحت و بلاغت سے بلند پایہ ہے اور اس

جیسی عبارت لانے سے تمام عرب عاجز و بے بس ہیں اور اس جیسی ایک سورت

بھی لانے پر قادر نہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: اس جیسی ایک سورت ہی لے

آؤ، فرمایا: تم بھی اس جیسی دس سورتیں گھر کر لے آؤ، لیکن دس تو دس

ایک سورت بھی نہ لائے اور ایک سورت تو بڑی بات ہے ایک آیت بھی نہ



فَاترَابَعَشْرٍ سُوْرٍ مِثْلِهِ مَفْتَرِيَاتٍ فَلَمَّ يَا تَوْهَمًا قَالَ  
 تَعَالَى فَاترَابَعَشْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ فَعَجَزَ وَاعْنِ ذَالِكِ  
 مَعِ زِيَادَةِ بِلَاغَتِهِمْ وَفَصَاحَتِهِمْ عَلَيَّ اَهْلِي  
 زَمَانِهِمْ وَانْقِطَعُوا فَظَهَرَ فَضْلُهُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا لَدَى  
 مَا رَأَى الْقُرْآنَ مَعْجَزًا لَهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْعَصَا  
 فِي حَقِّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَانِ مُوسَى بُعِثَ فِي  
 زَمَانِ السَّحْرَةِ الْحَذَاقِ فِي صَنْعَتِهِمْ فَتَلَقَّتْ  
 عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا سَحَرُوا بِهِ اَعْيُنَ  
 النَّاسِ وَخَيَلُوا اِلَيْهِمْ فَغَلَبُوا هَذَا لِكِ وَالْقَلْبِ  
 مَغْرِبِيْنَ وَالْقِيَّ السَّحْرَةَ سَجْدِيْنَ وَكَاحْيَاءَ عِيْسَى  
 عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَوْتَى وَابْرَاهِيْمَ الْاَكْبَهٗ وَالْاَبْرَصِ  
 لَانَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثَ فِي زَمَنِ النَّاسِ فِيْهِ  
 اطْبَاءٌ حَذَاقٌ بِهِمْ لِيُقْفُونَ الْاَعْلَالَ وَالْاَسْقَامَ التِّي  
 لَا تَبْرَأُ بِرِاعْتِهِمْ فِيْ مَدَقِ الصَّنْعَةِ فَالْقَادُوا  
 اِلَيْهِ وَامْتَرَا بِهِ لِمَجَاوَزَتَهُ فِي الصَّنْعَةِ عَلَيْهِمْ  
 بِرَافِعَتِهِمْ فِي الْمَعْجَزَةِ فَيَمَاتُوا طَوِيًّا مِنْهُ فَفَصَاحَةُ  
 الْقُرْآنِ وَاعْجَاظُ مَعْجَزَتِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 كَالْعَصَا وَاحْيَاءَ الْمَوْتَى فِي حَقِّ مُوسَى وَعِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 وَمِنْ مَعْجَزَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبْعُ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ  
 اَصَابِعِهِ وَاطْعَامُ الزَّادِ الْقَلِيلِ لِلخَلْقِ الْكَثِيْرِ  
 وَكَلَامُ الذَّرَاعِ الْمَسْمُومِ وَقَوْلُهُ لَا تَأْكُلْ مِنْيْ  
 فَاَنِيْ مَسْمُومٌ وَاشْتِقَاقُ الْقَمَرِ وَحَنِيْنُ الْحِزْبِ وَكَلَامُ  
 الْبَعِيْرِ وَحَيِّءُ الشَّجَرَةِ اِلَيْهِ وَغَيْرُ ذَالِكِ مَا يَبْلُغُ  
 الْاَلْفَ مَعْجَزَةٍ عَلَيَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ اَمْرِيَّاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ عَصَا مُوسَى وَبِيَدِهِ الْبِيضَاءُ

لا کے حالاً کہ وہ فصاحت و بلاغت میں اپنے معجزوں پر گئے سبقت سے جا چکے  
 تھے مگر پھر بھی عاجز آگئے بالآخر ان پر نبی صلعم کی فضیلت ثابت ہوئی اسی لئے  
 قرآن حکیم آپ کے لئے معجزہ ہے جیسے حضرت موسیٰ کے لئے عصا معجزہ تھا کیونکہ  
 حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جادو کا زور شور تھا اور ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر  
 پائے جاتے تھے پھر حضرت موسیٰ کا عصا اس سحر کو نکل گیا جس سے جادو گروں نے  
 لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا تھا اور ان کے خیال میں رسیوں اور کڑیوں کو بانہ  
 بنا کر دکھا دیا تھا نتیجہ ظاہر تھا کہ جادو گر ہار گئے اور مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو گئے  
 اور سجدے میں گر کر انہیں بے ساختہ یہی کہنا پڑا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے  
 آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اور جیسے حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں طب  
 اطباء کا زور شور تھا تو آپ کو اسی نوع کے معجزے ملے تھے جیسے مردوں کو  
 زندہ کرنا اور مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دینا کیونکہ آپ کے  
 زمانہ میں ایسے ایسے حاذق طبیب تھے جو سیلی بیماریوں کو بڑے سے اکھاڑ پھینک  
 دیا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی صنعت میں کمال مہارت رکھتے تھے آخر لوگ حضرت  
 عیسیٰ کے مطیع ہو گئے اور آپ پر ایمان لے آئے کیونکہ آپ اپنے معجزوں کی وجہ سے  
 اطہار سے بھی بڑھ گئے تھے لہذا جیسے عصا حضرت موسیٰ کا مردوں کا زندہ کرنا  
 حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے اسی طرح قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کا  
 اعجاز ہمارے محبوب پیغمبر کا معجزہ ہے۔

نبی صلعم کے معجزے | قرآن پاک آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے آپ کی  
 انگلیوں سے پانی اُبلتا آپ نے تھوڑے سے کھانے سے بہت سے لوگوں  
 کو سیر کیا آپ سے زہر بڑے ہوئے بکری کے ہارونے کہا کہ مجھے نہ کھائیے  
 میں زہرا لود ہوں آپ کے اشارے سے چاند کے دھڑکے ہوئے جب  
 آپ نے مبرینوا کر اس پر خطبہ دیا تو کھجور کا تنہ جس پر آپ اس سے قبل خطبہ  
 دیا کرتے تھے رونے لگا آپ سے اونٹ نے گفتگو کی آپ کے پاس رخت  
 چل کر آیا، غرضیکہ علماء نے آپ کے ایک ہزار معجزے گنوائے ہیں۔

یہی بات کہ آپ کو عصا نے موسیٰ پر بیٹھا، مردوں کا زندہ کرنا،



واحیاء البرقی و ابراء الکمه والابرس ومثل  
 ناقه صالح والمعجزات التي كانت للانبياء  
 لا امرين احد هائل لا يكذب لها امة فيهلكوا  
 كما هلكت الامم قبلهم كما قال الله تعالى  
 وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها  
 الاولون والثاني لوجاء بمثل ما جاء به الاولون  
 لقالوا له ما جئت لغريب وقد نفلت من موسى  
 وعيسى فانك من اتباعهم لا نو من لك حتى تاتينا  
 بالميات به الاولون ولهذا الميرت الله سبحانه  
 نبيا من انبيائه معجزة غير بل خص كل نبى  
 بمعجزة غير معجزة من كان قبله۔

**فصل** ويعتقد اهل السنة ان امة محمد عليه  
 السلام خير الامم اجمعين و افضلهم اهل  
 القرن الذين شاهدوا و امنوا به و صدقوا  
 و بالعبادة و تابعوا و قاتلوا بين يديه و قد و لا  
 بانفسهم و اموالهم و عز و ذل و نصر و لا و لا  
 اهل القرن اهل الحديث الذين بالعبادة ببيعة  
 الرضوان فهم الف و اربع مائة رجل و افضلهم  
 اهل بدر و هم ثلث مائة و ثلثة عشر رجلا  
 عدد اصحاب طلوت و افضلهم الاربعون  
 اهل دار الخيزران الذين كملوا بعمر بن الخطاب  
 و افضلهم العشرة الذين شهد لهم النبي  
 صلى الله عليه وسلم بالجنة و هم ابو بكر و عمر  
 و عثمان و علي و طلحة و الزبير و عبد الرحمن  
 ابن عوف و سعد و سعيد و ابو عبيدة بن الجراح

مادر زاد اور اندھوں کو اور کوڑھیوں کو اچھا کر دینا جیسے معجزے اور حضرت  
 صالح کی اونٹنی جیسا معجزے اور تمام انبیائے کرام کے جیسے معجزے کیوں نہیں  
 ملے؟ اس میں دو گھرے سبب کار فرما ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ کہیں آپ کا امت  
 انہیں جھٹلا نہ دے اور پہلی قوموں کی طرح ہلاک ہو جائے جیسا کہ حق تعالیٰ نے  
 فرمایا: اور ہمیں معجزے بھیجنے سے یہ چیز مانع آئی کہ انہیں پہلے لوگوں نے  
 جھٹلا دیا تھا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر آپ سے اگلے پیغمبروں کی نوع کے  
 معجزے سرزد ہوتے تو لوگ یہی کہتے آپ کو نبی بنا معجزہ تو لائے نہیں بلکہ  
 موسیٰ اور عیسیٰ وغیرہ سے معجزے نقل کرتے ہیں جس سے صاف معلوم ہو  
 رہا ہے کہ ان کے پیروکاروں میں سے ہیں اس لئے ہم آپ پر ایمان لائیں گے  
 نہیں جب تک آپ ہم کو نئے معجزے نہ دکھائیں جن کو پہلے پیغمبر لائے تھے اسی  
 حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کسی پیغمبر کو دوسری کا کوئی معجزہ نہیں دیا بلکہ ہر نبی کو مخصوص جدا گانہ معجزہ  
**امت محمدیہ کی فضیلت** | اسنت کا عقیدہ ہے کہ نبی صلعم کی امت

تمام اقوام عالم میں بہتر ہے اور اس میں صحابہ کرام افضل ہیں جو آپ کے نام  
 میں تھے جنہوں نے آپ کو دیکھا آپ پر ایمان لائے آپ کی تقدیر کی آپ  
 سے بیعت کی آپ کی پیروی کی آپ کے ساتھ کافروں سے جنگ کی اور آپ پر  
 اپنا مال اور جانیں چھڑک دیں آپ کا احترام کیا اور آپ کی ہر طرح مدد کی۔  
 صحابہ کرام میں افضل حدیبیہ والے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ سے بیعت رضوان  
 کی اور جو تقریباً ۱۱ سو تھے ان میں افضل بدری ہیں جو ۳۱ تھے یہی تعداد  
 اصحاب طلوت کی تھی ان میں افضل محلہ خیزران والے ہیں جو حضرت عمر کے  
 ساتھ مشرف بہ اسلام ہوئے تھے اور ان میں افضل عشرہ مبشرہ روضہ صحابہ  
 جن کو نبی صلعم نے جنت کی بشارت دی، ہیں یعنی حضرت ابو بکرؓ، حضرت  
 عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبد اللہؓ  
 بن عوفؓ، حضرت سعیدؓ، حضرت سعیدؓ، اور حضرت ابو عبیدہؓ بن جراحؓ  
 ہیں اور ان میں افضل خلفائے راشدین حضرت ابو بکرؓ، حضرت عثمانؓ اور علیؓ  
 ہیں اور ان چاروں میں افضل حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں پھر حضرت عمر فاروقؓ



ہیں پھر حضرت عثمان ہیں پھر حضرت علی ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد انہیں چاروں کے پاس تیس سال تک خلافت رہی، حضرت ابو بکرؓ کی مدت خلافت سوا دو سال حضرت عمرؓ کی دس سال، حضرت عثمانؓ کی بارہ سال اور حضرت علیؓ کی ۶ سال ہے پھر ۱۹ سال خلافت پر معاویہؓ قابض رہے اس سے پہلے آپ کو حضرت عمرؓ نے بیس سال تک ملک شام پر امیر بنا کر رکھا۔

خلفائے راشدین کی خلافت تمام صحابہ کے اختیار سے اور سب کی مرضی اور اتفاق سے تھی۔ خلفائے راشدین میں ہر ایک خلیفہ اپنے اپنے زمانہ میں دوسرے صحابہ پر برتری حاصل تھی۔ خلافت کا تقرر تلوار کے زور سے یا بالجبر یا اتداء کے بل پر نہیں ہوتا تھا اور نہ اس اعتبار سے خلیفہ چنا جاتا تھا کہ فلاں سے افضل ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت مہاجرین و انصار کے اتفاق سے

پائی تھی کیونکہ جب رحمت عالم صلعم دنیا سے سدھا گئے تو انصار کے خطباء نے کھڑے ہو کر کہا: ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے اور ایک تم میں سے اس پر حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا: اسے انصار: کیا تم کو معلوم نہیں کہ نبی صلعم نے لوگوں کی امامت کے لئے ابو بکرؓ کو.....

چنا تھا۔ انصار نے جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے پھر آپ نے فرمایا:

تم میں سے کس کا نفس خوشی سے یہ بات گوارا کرے گا کہ وہ حضرت ابو بکرؓ

کے آگے امام بنے انہوں نے کہا اللہ کی پناہ جو ہم حضرت ابو بکرؓ کے ام نہیں

ایک لفظ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: تم میں سے کس کو گوارا ہوگا کہ

ابو بکرؓ کو ان کے اس مقام سے ہٹا دے جس مقام پر آپ کو رسول اللہ صلعم

متین فرمائے تھے، سب نے کہا ہم میں سے کوئی بھی یہ بات گوارا کرنے والا

نہیں ہم اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں آخر کار تمام انصار و مہاجرین نے

بالاتفاق حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کر لی جن میں حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ

بھی تھے اسی لئے ایک صحیح روایت میں ہے جب لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ

سے بیعت کر لی تو آپ تین دن تک کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے رہے لوگوں

و افضل هؤلاء العشرة الابرار الخلفاء الراشدون  
الاربعة الاخيار و افضل الاربعة البرکة ثم عمر  
ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم و لقول  
الاربعة الخلفاء بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
ثلثون سنة ولی منها البرکة رض سنتین و شیباً  
و عمر رض عشراً و عثمان رض اثنی عشر و علی رض  
سناثم و لیہا معاویة تسع عشر سنة و کان  
قبل ذلك و لا ک عمر الامارة علی اهل الشام  
عشرین سنة و خلافة الائمة الاربعة کانت  
باختیار الصحابة و اتفاقهم و رضاهم و لفضل  
کل واحد منهم فی عصره و زمانه علی من  
سواه من الصحابة و لم تکن بالسيف و القهر  
و الغلبة و الاخذ ممن هو افضل منه و اما خلافة  
ابی بکر الصديق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و سلو  
و برکاته فبا اتفاق المهاجرین و الانصار کانت  
و ذلك لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
قامت خطباء الانصار فقالوا ما امیر و منکم  
فقام عمر بن الخطاب رض فقال یا معشر الانصار  
الستم تعلمون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
امر ابا بکر ان یومر بالناس قالوا بلی قال  
فایکم تطیب نفسه ان یتقدم ابا بکر قالوا  
معاذ اللہ ان نتقدم ابا بکر و فی لفظ قال  
عمر رض فایکم تطیب نفسه ان یریله عن مقام  
اقامه فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
فقالوا کلهم کلنا لا تطیب النفسنا نستغفر اللہ



فانفقوا مع المهاجرين فبايعوا باجمعهم وفيهم  
 علي والزبير ولهن اقبل في النقل الضعيف لما روي  
 ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت لابي بكر  
 يا ايها الناس اقلتم بي عنى هل من كاره فيقوم  
 علي رضي في اوائل الناس فيقول لا تقيلك ولا تستقيلك  
 ابد اقدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن  
 يوخرك وبلغنا عن الثقات ان عليا رضي كان اشد  
 الصعابة قولا في امامة ابي بكر رضي وروي ان  
 عبد الله بن الكواء دخل على علي بعد قتال الجمل  
 وسأله هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم في هذا الامر شيئا فقال نظرونا في امرنا  
 فاذا الصلوة عند الاسلام فرسينا الدنيا نايما  
 رضى الله ورسوله لدينا فرلينا الامر ابا بكر وذلك  
 ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابا بكر الصديق  
 رضي في امامة الصلوة المفروضة ايام مرضه فكان  
 ياتيه بلال وقت كل صلوة فيؤذنه بالصلوة فيقول  
 عليه السلام مروا ابا بكر رضي فليصل بالناس و  
 كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في شان ابي بكر  
 رضي في حال حياته بما يتبين للصعابة انه احق  
 الناس بالخلافة بعده وكان في حق عمر  
 وعثمان وعلي ان كل واحد منهم احق بالامر  
 في عصره وزمانه من ذلك ما روي ابن بطنة  
 باسناده عن علي رضي انه قال قيل يا رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم من تو امر لجدك قال  
 صلى الله عليه وسلم ان تو صر و ابا بكر تجد و

اگر تم میں سے کسی کو میری بیعت ناپسند ہو تو میں اسے توڑنے کو تیار ہوں۔  
 اس پر سب سے پہلے حضرت علی نے کھڑے ہو کر فرمایا: ہم آپ کی بیعت کبھی  
 بھی فتح نہیں کریں گے اور نہ کراہیں گے آپ کو رسول اللہ صلعم نے آگے  
 بڑھایا پھر کون آپ کو پیچھے بٹھا سکتا ہے ہمیں معتد حضرات نے خبر دی ہے کہ  
 کہ حضرت علی حضرت ابو بکر کی خلافت کے پر زور حامی تھے اور سب آگے آگے  
 تھے۔ منقول ہے کہ جنگ جمل کے بعد عبد اللہ بن کواء نے حضرت علی کے پاس  
 آکر آپ سے پوچھا کیا خلافت کے بارے میں رسول اللہ صلعم نے آپ سے  
 کچھ عہد کیا تھا؟ فرمایا: ہم نے اپنے معاملہ میں غور کیا ہم نے دیکھا کہ نماز اسلام  
 کا ہاڑو ہے لہذا ہم اپنی دنیا کے لئے اس سے راضی ہو گئے جس سے ہمارے  
 دین کے لئے اللہ اور اس کا رسول راضی تھا اور میں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ  
 جی لیا کیونکہ نبی صلعم نے حضرت ابو بکر کو مرض الموت میں نماز پڑھانے کے  
 لئے اپنا جانشین مقرر فرمادیا تھا چنانچہ بلال شہر نماز کے وقت آپ کے  
 پاس آکر آپ کو نماز کی اطلاع دیا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے ابو بکر  
 سے کہو کہ انہیں لوگوں کو نماز پڑھانی چاہیے اور نبی صلعم اپنی زندگی میں  
 حضرت ابو بکر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے جن سے صحابہ  
 کرام پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر ہی خلافت کے حقدار  
 ہیں اسی طرح حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں بھی  
 گفتگو سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ حضرات بھی اپنے اپنے زمانہ میں خلافت کے  
 حقدار ہیں مثلاً حضرت علی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم سے پوچھا گیا  
 یا رسول اللہ! آپ کے بعد ہم کس کو امیر بنائیں؟ فرمایا اگر تم ابو بکر کو  
 بناؤ گے تو انہیں امین دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا دلدادہ پاؤ گے  
 اور اگر عمر کو بناؤ گے تو انہیں قوی امین اور اللہ کی راہ میں لامنت  
 کہ نبیوں کی لامنت سے ڈرنے والا نہ پاؤ گے اور اگر علی کو بناؤ گے  
 تو انہیں رہنما اور راہ یافتہ پاؤ گے اسی لئے مسلمانوں کا حضرت  
 ابو بکر کی خلافت پر اجماع ہو گیا تھا۔ حضرت امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل



امینا زاهدانی الدینار غبانی الاخرة وان تو صرنا  
 عمر تجدد ولا قویا امینا لا یخاف فی اللہ لومة  
 لا تم وان تولوا علیا تجدد ولا هادیامهد یا فلذک  
 اجمعوا علی خلافة ابی بکر وقد روی عن امامنا  
 ابی عبد اللہ احمد بن حنبل روایة اخرى ان خلافة  
 ابی بکر رضی ثبنت بالنص الجلی والاشارة وهو  
 مذهب الحس البصری وجماعة من اصحاب  
 الحدیث رضی وجه هذه الروایة ما روی ابو هریرة  
 رضی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال طاعرج  
 بی الی السماء سألت ربی عزوجل ان يجعل الخلیفة  
 من بعدی علی ابن ابی طالب فقالت الملائكة یا محمد  
 ان اللہ یفعل ما یشاء الخلیفة من بعدک ابو بکر  
 وقال علیہ السلام فی حدیث ابن عمر رضی الذی  
 بعدی ابو بکر لا یلبث بعدی الا قلیلا وعن  
 مجاهد رضی قال قال علی ابن ابی طالب رضی ما خرج  
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دار الدینیا حتی عهد  
 الی ان ابی بکر ینبی من بعدی ثم عمر ثم عثمان  
 من بعدہ ثم علی من بعدہ واما خلافة عمر ابن  
 الخطاب رضی فانها كانت باستخلاف ابی بکر رضی  
 فانقادت الصحابة الی بیعتہ وسموا امیر المؤمنین  
 فقال عبد اللہ ابن عباس رضی قالوا لابی بکر رضی ما  
 تقول لربک عند اذا لقیتہ وقد استخلفت علینا  
 عمر رضی وقد عرفت فظانته قال اقول استخلفت  
 علیهم خیر اهلك واما خلافة عثمان بن عفان  
 رضی فكانت ایضا عن اتفاق الصحابة رضی وذلك

کافران ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت عبارتہ النص اور اشارۃ النص سے ثابت  
 ہے حسن بصری کا اور محدثین کرام کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے اس روایت  
 کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: میں نے معراج  
 کی شب حق تعالیٰ جل مجدہ سے درخواست کی کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بنا دیا جائے  
 فرشتوں نے کہا: محمد! حق تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر  
 ہوں گے۔ حضرت ابن عمر دالی حدیث میں ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: میرے بعد  
 خلیفہ ابو بکر ہوں گے، حضرت ابن عمر دالی حدیث میں ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا  
 میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے لیکن میرے بعد آپ تھوڑے ہی دنوں زندہ رہیں  
 گے، مجاہد: مجھ سے علی رضی نے کہا: نبی صلعم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے مجھ  
 سے عہد کیا کہ میرے بعد ابو بکر رضی امام ہوں گے پھر ان کے بعد عمر رضی پھر ان کے بعد  
 عثمان رضی پھر ان کے بعد علی رضی ہوں گے حضرت عمر رضی کو خود حضرت ابو بکر نے  
 خلیفہ مقرر فرمادیا تھا صحابہ کرام نے آپ کے تقرر کو سراہا، حضرت عمر رضی  
 کی اور ان سے بیعت کی اور انہیں امیر المؤمنین کے نام سے پکارا، حضرت ابن عباس  
 فرماتے ہیں لوگوں نے ابو بکر رضی سے کہا: آپ جب اللہ سے ملاقات کریں گے  
 تو اسے کیا جواب دیں گے؟ آپ نے ہم پر عمر رضی کو خلیفہ بنا دیا حالانکہ ان کی سخی  
 طبع آپ کو معلوم ہی ہے فرمایا: میں اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ! میں نے نبی  
 بہترین بندے کو لوگوں پر خلیفہ بنا دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی کی خلافت بھی  
 صحابہ کے اتفاق سے طے پائی کیونکہ حضرت عمر رضی نے اپنی اولاد کو خلافت سے  
 برطرف رکھا اور چچا اکابر صحابہ رضی زبیر رضی، سعد رضی، عثمان رضی، علی رضی  
 اور عبد الرحمن رضی کی ایک مجلس شوریٰ مقرر فرمادی، پھر یہ مجلس علی رضی، عثمان  
 اور عبد الرحمن پر مختصر کر دی گئی اور عبد الرحمن نے علی رضی اور عثمان رضی سے کہا:  
 میں تم سے ایک کو اللہ کے اور اس کے رسول کے کاموں کے لئے منتخب کرنا  
 چاہتا ہوں اور اسے مسلمانوں پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور حضرت علی رضی کا  
 ہاتھ میں ہاتھ لے کر فرمایا اگر ہم آپ کو خلیفہ بنا دیں تو آپ کو اللہ کا عہد  
 و میثاق پورا کرنا ہے اور اللہ کی ذمہ داری کو اور اس کے رسول کی ذمہ داری



ان عمر رضی اخرج اولادہ عن الخلاقہ وجعلہا شورى  
 بین ستہ نفر وہم طلحة و زبیر و سعد بن ابی وقاص  
 و عثمان و علی و عبد الرحمن بن عوف فاخرج طلحة  
 و الزبیر و السعد انفسہم منها فبقیت بین علی و  
 عثمان و عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن لعلی  
 و عثمان انا اختار احدکما لله و رسولہ و للمؤمنین  
 فاخذ بید علی فقال یا علی علیک عهد اللہ و ميثاقہ  
 و ذمته و ذمۃ رسولہ و اذا انا بالیغتك لتنصحن  
 لله و لرسولہ و للمؤمنین و لتسیرن بسیرۃ رسولہ  
 و ابی بکر رضی و عمر رضی فحاف علی ان لا یقوی ما قروا  
 علیہ فلم یجیبہ ثم اخذ بید عثمان فقال له مثل  
 ما قال لعلی رضی فا جا به عثمان رضی علی ذلك فسم  
 ید عثمان نبا یبعہ و یا یبع علی رضی اللہ عنہ ثم  
 با یبع الناس اجمع فصار عثمان ابن عفان خلیفۃ  
 بین الناس بالتفاق الكل فکان اما ما حقا الی ان  
 مات و لم یوجد فیہ امر لیرجب الطعن فیہ و لا  
 فسقہ و لا قتله خلاف ما قالت الروافض تبالہم۔  
 و اما خلافتہ علی رضی فکان عن اتفاق الجماعۃ  
 و اجماع الصحابة لہاروی البوعید اللہ ابن بطة  
 عن محمد بن الحنیفۃ رضی قال کنت مع علی بن  
 ابی طالب رضی و عثمان ابن عفان رضی محصورا فانا  
 رجل فقال ان امیر المؤمنین مقتول الساعة قال  
 فقام علی رضی فاخذت بوسطہ تخوفا علیہ فقال  
 خل لا ام لک قال فاتی علی الدار و قد قتل عثمان  
 فاتی دارہ و دخلها و اخلق بأبہ فاتاہ الناس

کو بھی اور جب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو آپ کو اللہ کی اس کے رسول  
 کی اور تمام مسلمانوں کی غیر خواہی کہنی ہے اور رسول اللہ صلعم کی اور ابو بکر  
 کی سیرت اختیار کرنی ہے، حضرت علی رضی کو ڈر ہوا کہ شاید ان مسائل کے حل  
 کرنے میں قدرت حاصل نہ کر سکوں جن پر وہ قادر تھے اس لئے آپ نے انہیں  
 کوئی جواب نہیں دیا پھر عبد الرحمن نے حضرت عثمان رضی کا ہاتھ پکڑ کر ان  
 سے بھی یہی کہا آپ نے اقرار کر لیا اور عبد الرحمن نے عثمان سے بیعت کر لی  
 اور علی رضی نے بھی پورے تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس طرح حضرت عثمان  
 بالاتفاق خلیفہ چن لئے گئے اور مرتے دم تک ہر حق امام رہے اور آپ میں  
 کوئی ایسی بات نہیں پائی گئی جو موجب طعن ہو یا باعث قتل و فسق ہو،  
 ہاں رافضی اس کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سمجھے۔

حضرت علی رضی کی خلافت بھی بالاتفاق طے کی گئی کیونکہ محمد بن حنیفہ کا بیان  
 ہے کہ حضرت عثمان کے محصور ہونے کے زمانہ میں ایک دن میں علی رضی کے پاس  
 پاس تھا کہ اتنے میں ایک شخص آپ سے آکر کہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ  
 امیر المؤمنین کو ابھی قتل کر دیا جائے گا یہ سن کر حضرت علی رضی کھڑے ہو  
 گئے، یہیں ہلاکت کے ڈر سے آپ کی کمر کو پٹ گیا فرمایا: تیری ماں نہ  
 رہے، مجھے چھوڑ دے فرماتے ہیں پھر حضرت علی رضی حضرت عثمان کے  
 گھر پہنچے تو حضرت عثمان رضی قتل کئے جا چکے تھے۔ بالآخر آپ گھر واپس آئے  
 اور گھر میں داخل ہو کر اندر سے کٹڑی لگالی لوگ آپ سے ملنے آئے اور  
 دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے دروازہ کھلوا دیا لوگ اندر آئے اور کہنے  
 لگے کہ حضرت عثمان رضی تو قتل کر دئے گئے اور لوگوں پر خلیفہ کا ہونا انتہائی  
 ضروری ہے اور ہم آپ سے زیادہ کسی کو حقدار خلافت نہیں پاتے  
 فرمایا: مجھے خلیفہ بنانے کا ارادہ مت کر دو میں تمہارے لئے بہ نسبت  
 امیر کے وزیر ہی بہتر ہوں بولے: اللہ کی قسم ہم آپ سے زیادہ کسی  
 کو حقدار خلافت نہیں پاتے فرمایا اگر تمہارا اصرار ہی ہے تو پھر میری  
 بیعت چھپ کر نہیں ہوگی جب میں مسجد میں جاؤں تو جسے مجھ سے



فقر لواعليه الباب فدخلوا عليه فقالوا ان عثمان  
قد قتل و لا بد للناس من خليفة و لا نعلم احدا  
احق بهامناك فقال لهم علي لا تريدوني فاني  
لكم وزير خير من امير قالوا والله لا نعلم احدا  
احق بهامناك قال رضی اللہ فان ابیتم علی  
فان بیعتی لا یکون سراً و لکن اخرج الی المسجد  
فمن شاء ان یتبعنی بالیعنی قال فخرج رضی الی  
المسجد فبایعه الناس فكان اما ما حقا الی  
ان قتل خلاف ما قالت الخوارج انه لم یکن  
اما ما قبط بالهم و ما قتاله رضی بطلحة  
و الزبیر و عائشة و معاویة فقد لخص الامام  
احمد رحمه اللہ علی الامساک عن ذلك و جمیع  
ما شجر بینهم من منازعة و منافرة و خصومة  
لان اللہ تعالی یزیل ذلک من بینهم یوم القیامۃ  
كما قال عزوجل و نزعنا ما فی صدورهم من غل  
اخوانا علی سرر متقلبین و لان علیا کان علی  
الحق فی قتالهم لانه کان یعتقد صحة امامته  
علی ما بینا من اتفاق اهل الحل و العقد من  
الصحابۃ علی امامته و خلافتہ فمن خرج  
عن ذلک بعد و ناصبه حربا کان باغیا خارجا  
عن الامام فجاز قتاله و من قاتله من مغویة  
و طلحة و الزبیر طلبوا ثار عثمان خلیفة حق  
المقتول ظلما و الذین قتلوا کالوا فی عسکر  
علی رضی فکل ذهاب الی تاویل صحیح فاحسن  
احوالنا الامساک فی ذلک و ردہم الی اللہ

بیعت کرنی ہے کھلم کھلا بیعت کرنے اور کار آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور  
لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی آپ بھی مرتے دم تک امام برحق رہے، ان  
خارجی کہتے ہیں کہ آپ امام نہ تھے اللہ کی عمارتوں پر لعنت ہو۔  
حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ طلحہ رضی، زبیر رضی، عائشہ رضی، اور معاویہ رضی سے  
حضرت علی رضی کے لڑنے کے اور ان کی باہمی نفرت و عداوت کے بارے میں  
ہمیں اپنی زبانیں رک لینی چاہئیں اور اس سلسلہ میں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے  
کیونکہ اللہ تعالی قیامت کے دن یہ بغض و عداوت ان سے دور فرما دے گا جیسا  
جیسا کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا: اور ہم ان کے دلوں کا کینہ نکال ڈالیں گے اور  
وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے اور آسنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، علاوہ  
ان سے ان سے جنگ کرنے میں حضرت علی رضی پر تھے کیونکہ آپ برحق خلیفہ  
تھے اور آپ کی خلافت پر تمام ارباب حل و عقد صحیحہ کرام کا اتفاق تھا جیسا کہ  
ہم اوپر بیان کر آئے ہیں پھر اس کے بعد جو بھی ان سے علیحدہ ہوا اور ان کے  
مقابلہ پر سینہ تان کر کھڑا ہوا وہ باغی ہوا اور امام کی اطاعت سے نکل گیا  
اس لئے اس سے جنگ کرنا جائز ہوا اور معاویہ رضی، طلحہ رضی اور زبیر رضی آپ سے  
اس لئے جنگ کی کہ یہ حضرات سچے مقتول خلیفہ کا باغیوں سے انتقام لینا چاہتے  
تھے جن کو ظلم سے قتل کیا گیا اور جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی کو قتل کیا تھا  
وہ حضرت علی رضی کی فوج میں شامل تھے اس لئے ہرگز وہ کے پاس جنگ کی  
مقتول دلیل تھی ہمیں اس سے منع ہے زبان نہ کھولنا ہی بہتر ہے اور ہمارے  
لئے یہی ادلی ہے کہ اسے حق تعالیٰ کی طرف لوٹا دیں وہ تمام حاکموں کا حاکم  
ہے اور بہترین فیصلہ کہ یہ والا ہے ہمیں تو اپنے عیبوں پر غور کرنا اور بڑے  
بڑے گناہوں سے اپنے دل پاک کرنے چاہئیں اور ہلاک کر دینے والے  
جرائم سے پر خلوص توبہ کرنی لازمی ہے۔

حضرت علی رضی کی وفات کے بعد اور خلافت سے امام حسن کی دستبرداری  
کے بعد اور عام مصدق کے ماتحت خونریزی سے بچنے کے لئے خلافت کو  
حضرت معاویہ رضی کو سپرد کرنے کے بعد حضرت معاویہ رضی کی خلافت ثابت و برحق



عز وجل وهو احکم الحاکمین وخیر الفاضلین  
والاشتغال بعبود الفسنا وتطہیر قلوبنا من  
امہات الذنوب وطواہرنا من مویقات  
الامور واما خلافة معاویۃ بن سفیان  
قائمتہ صحیحۃ بعد موت علی رضی و بعد خلع  
الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نفسہ عن  
الخلافة وتسلیبہا الی معاویۃ لراى راا  
الحسن وفضلہ عامۃ تحقق لہ وہی حقن  
دماء المسلمین وتحقیق قول النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم فی الحسن رضی ابی ہذا سید یصلح اللہ تعالیٰ  
بہ بین فئتين عظیمتین فوجبت امامتہ لعقد  
الحسن لہ فسمی عامہ عام الجماعة لا ارتفاع  
المخلاف بین الجبیع واتباع الكل لمعاویۃ رضی  
لانہ لم یکن هناك منازع ثالث فی الخلافة و  
خلافتہ مذکورۃ فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
وہو ما روئی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ  
قال تدور رحى الاسلام خمساً وثلثین سنة  
اوستا وثلثین اوسبعا وثلثین والمراد بالرحی فی  
هذا الحدیث القوتۃ فی الدین والخمس السنین  
الفاصلة عن الثلثین فہی من جملة خلافة  
معاویۃ الی تمام تسعة عشر سنة وشہور  
لان الثلثین کملت بعلی رضی كما بینا ونحسن الظن  
بنساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین و یعتقد  
انہن امہات المؤمنین وان عائشۃ رضی اللہ  
عنہا افضل نسائ العلیین وبرء ہا اللہ تعالیٰ

ہے اسی طرح رسول اللہ صلعم کی امام حسن کے بارے میں یہ پیشینگوئی بھی  
صحیح ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور حق تعالیٰ اس کے ذریعہ دو بڑی جماعتوں  
میں صلح فرمادے گا لہذا امام حسن کے سپرد کرنے کی وجہ سے حضرت معاویہ کی  
خلافت ملی اور جس سال حضرت معاویہ کو خلافت دی گئی اس سال کا نام  
ہی عام الجماعة (جماعت والا سال) پڑ گیا کیونکہ اس سال تمام صحابہ کے  
اختلافات ختم ہو گئے اور سب نے حضرت معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور  
آپ کے پیرو کار بن گئے کیونکہ اس زمانہ میں ان دور امام حسن و معاویہ کی  
کے علاوہ خلافت کا کوئی تیسرا دعویٰ نہ تھا ہی نہیں اور حضرت معاویہ کی  
خلافت کا ذکر نبی صلعم کی حدیث میں بھی ہے کہ اسلام کی چکی ۵۳ یا ۵۴  
سال تک چلے گی، اس حدیث میں چکی سے مراد اسلامی قوت ہے جس  
سال تک خلفائے اربعہ اور امام حسن کی خلافت رہی اور تیس سے اوپر  
جو پانچ سال ہیں وہ حضرت معاویہ رضی کی خلافت کے ہیں حضرت معاویہ  
کی خلافت کا زمانہ ۱۹ سال اور کچھ ماہ ہے اور تیس سال جو اسلام کی  
چکی کے گھومنے کے تھے وہ حضرت علی رضی کی خلافت کے آخری زمانہ تک  
ختم ہو چکے تھے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔

ہمارا تمام امہات المؤمنین کے بارے میں حسن ظن ہے اور ہمارا عقیدہ  
ہے کہ تمام ازواج مطہرات ام المؤمنین ہیں اور حضرت عائشہ تمام دنیا  
کی خواتین سے افضل ہیں حق تعالیٰ نے اہتمام پسندوں کے اہتمام سے  
آپ کو آیات کے ذریعہ بری فرمایا جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی اس  
طرح حضرت فاطمہ رضی حق تعالیٰ ان سے، ان کے شوہر سے اور ان کی اولاد  
سے راضی ہو، دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں جیسے نبی صلعم کی عزت  
و محبت واجب ہے اسی طرح حضرت فاطمہ کی عزت و محبت لازم ہے  
رحمت عالم صلعم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کی بوٹی ہیں جو چیزیں انہیں  
بے چین کر نیوالی ہیں وہ مجھے بھی بے چین کرنے والی ہیں یعنی انہیں ایذا  
پہنچانے والے مجھے ایذا پہنچاتے ہیں۔



من قول الملحدین فیہا بما یقرء وتبلی الی یوم الدین  
 وکذا لک فاطمة بنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ  
 وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعن لعلہا واولادہا  
 افضل نساء العالمین ویمجب موالاتہا ومجتہا  
 کما یمجب ذلک فی حق ابیہا صلی اللہ علیہ وسلم  
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة بضعة  
 منی یریبنی ما یریبہا فہو لآء اهل القبرات  
 ہم الذین ذکرہم اللہ فی کتابہ واثقی علیہم  
 وہم المهاجرون الاولون والانصار الذین  
 ملوا الی القبلتین قال اللہ تعالیٰ فیہم لا یتوی  
 منکم من الفق من قبل الفتم وقائل اولئک  
 اعظم درجۃ من الذین الفقرا من بعد وقائلہ  
 وکلا وعد اللہ الحسنی وقال جل وعلا وعد اللہ  
 الذین امنوا وعلوا الصلحت لیستخلفنہم  
 فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم  
 ولیمکن لہم دینیہم الذی ارتضی لہم و  
 لیبذلہم من بعد خوقہم امنا وقال اللہ  
 تعالیٰ والذین معہ اشداء علی الکفار رجاء  
 بینہم ترہم رکعاسجد الی قولہ یعجب  
 الزراع لیغیظ بہم الکفار روی جعفر بن محمد  
 عن ابیہ فی قولہ عزوجل محمد رسول اللہ  
 والذین امنوا فی العسر والیسر والغار والعرض  
 البر بکرا شداء علی الکفار عبر بن الخطاب رجاء  
 بینہم عثمان ابن عفان ترہم رکعاسجد ا  
 علی ابن ابی طالب یتبعون فضلا من اللہ ورضوانا

لہذا یہ لوگ اہل قرآن ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا  
 کیا ہے اور ان کی تعریف فرمائی ہے اور یہ پہلے مہاجرین و انصار ہیں جنہوں  
 نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے حق تعالیٰ شانہ نے ان کے بارے  
 میں فرمایا: فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر نیوالے اور جہاد کر نیوالے  
 اور فتح مکہ کے بعد خرچ و جہاد کرنے والے برابر نہیں اول الذکر حضرات کا  
 مرتبہ بہت بڑا ہے اور اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے فرمایا:  
 اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے  
 کہ وہ یقیناً انہیں دنیا میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے اس نے ان سے  
 پہلے مسلمانوں کو خلیفہ بنایا تھا اور اللہ یقیناً ان کے لئے ان کا دین جہاد  
 کا جو اللہ نے ان کے لئے چن لیا ہے اور جس سے وہ راضی ہے اور یقیناً  
 حق تعالیٰ خوف کے بعد انہیں امن عطا فرمائے گا فرمایا: اور جو محمد رسول اللہ  
 صلعم کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں مشفق  
 و مہربان ہیں آپ انہیں حالت رکوع و سجود میں دیکھیں گے (آخر آیت  
 تک) محمد رسول اللہ الخ کی تفسیر میں جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے  
 ہیں کہ جو مسلمان آپ کے ساتھ ہیں وہ تنگی اور فراموشی میں سختی اور آسانی میں  
 اور غار و خمیوں میں آپ کے ساتھ ہیں اس سے اشارہ حضرت ابو بکر کی  
 طرف ہے اور کافروں پر سخت ہیں اس سے مراد حضرت عمر رضہ ہیں اور  
 آپس میں مشفق و مہربان سے مراد حضرت عثمان رضہ ہیں اور رکوع اور  
 سجدہ کر نیوالوں سے مراد حضرت علی رضہ ہیں اور اللہ کے فضل و رضوان  
 متلاشی سے مراد طلحہ رضہ اور زبیر رضہ ہیں جو رسول اللہ صلعم کے حواری  
 ہیں اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں  
 اس سے سعد، سعید، عبدالرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضہ  
 ہیں اس طرح اس آیت میں دسوں عشرہ میثرہ کا ذکر ہے پھر فرمایا:  
 یہی صفت ان کی ثورات میں ہے اور یہی انجیل میں ہے جیسے کھیتی نے  
 اپنا گاہا بنایا اس سے محمد صلعم مراد ہیں پھر اسے اس نے تری کیا یعنی



طلحة وزبير حواري رسول الله صلى الله عليه  
وسلم سبباً هم في وجوههم من اثر السجود  
سعد وسعيد وعبد الرحمن بن عرف والبر عبيدة بن  
الجراح هؤلاء العشرة ذلك مثلهم في التورية  
ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه يعني  
محمد صلى الله عليه وسلم فان رة باي بكر  
فاستغلط لعمر فاستوى على سوقه بعثمان يعجب  
الزراع لعلي ابن ابي طالب ليغيظ بهم بالنبي صلى الله  
عليه وسلم واصحابه الكفار والتفق اهل  
السنة على وجوب الكف عما شجر بينهم  
والامساك عن مساويهم واطهار فضائلهم  
ومعاسنهم وتسليم امرهم الى الله عز وجل  
على ما كان وجري من اختلاف على وطلحة  
والزبير وعائشة ومعاوية رضی اللہ تعالیٰ عنہم  
على ما قدمنا بيانه واعطاء كل ذي فضل فضله  
كما قال الله عز وجل والذين جاؤا من بعدهم  
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايما  
ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف  
رحيم وقال تعالى تلك امة قد خلت  
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم  
ولا تسئلون عتاكوا يعملون قال صلى الله  
عليه وسلم اذا ذكرنا محابي فامسكوا وفي  
لفظ واياكم وما شجر بين اصحابي فلو ائفق  
احدكم مثل احد ذهباً ما بلغ مد احدهم  
ولا نصيفه قال صلى الله عليه وسلم في حديث

ابو بكر سے پھر وہ موٹا ہوا یعنی عمرؓ سے پھر اپنے تئیں پر کھڑا ہو گیا یعنی  
عثمانؓ سے اور کھیتی والوں کو اچھا معلوم ہونے لگا اس سے حضرت علیؓ مراد  
ہیں تاکہ ان سے یعنی آپؐ سے اور آپ کے صحابہؓ سے (کافروں کو غصہ دلائے  
اس پر اہلسنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کے باہمی اختلافات کا ذکر نہ کیا جائے  
ان کے اختلافات سے زبان کو روکنا ان کی برائیوں سے روکنا اور ان کے فضائل و  
محاسن کا اظہار کرنا واجب ہے ان میں جو واقعات پیش آئے اور جس قدر  
اختلافات رونما ہوئے ان سب کو حق تعالیٰ شانہ کے سپرد کر دیا جائے اور  
ہر اہل فضل کو اس کی فضیلت کا حق دیا جائے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:  
اور ان کے بعد میں آنے والے کہتے ہیں: اے پروردگار! ہمیں بخش دے  
اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے اور ہمارے  
دلوں میں مومنوں کی طرف سے کینہ نہ پیدا کرے ہمارے رب بلاشبہ تو  
انتہائی شفیق و مہربان ہے ایک جگہ فرمایا: یہ ایک قوم تھی جو گزر گئی اس  
کے لئے وہ ہے جو وہ کما گئی اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کما یا تم  
سے ان کے عملوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔

رحمت عالم صلعم نے فرمایا: جب میرے صحابیوں کا ذکر کیا جائے تو  
تم اپنی زبانیں بند رکھو ایک لفظ میں ہے میرے صحابہ کے باہمی اختلافات  
میں پڑنے سے اپنے کو بچاؤ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کی برابر سونا  
خرچ کرے تو ان کے ایک مد بکے آدھے مد کی برابر بھی نہیں ہوگا حضرت  
انس رضا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: انہیں مبارک ہو جنہوں  
نے مجھے دیکھا اور انہیں بھی جنہوں نے انہیں دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا  
نہا۔ فرمایا: میرے صحابیوں کو برا نہ کہو جو انہیں گالی دے (یا برا کہے)  
اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرمایا: حق تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لئے میرے  
صحابہ کو چنا اور انہیں میرا معاون بنا یا اور ان میں میرے رشتے قائم کئے  
اخیر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان میں نقص نکالیں گے کان کھول  
کر سن لو ان کے ساتھ مت کھاؤ ان کے ساتھ بیو نہ ان میں شادی بیاہ



بن مالک رضی اللہ عنہما عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی من رآنی  
وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فمن  
سبہم قطعہ لعنة اللہ وقال صلی اللہ علیہ  
وسلم فی روایۃ النسائی ان اللہ عزوجل  
اختارنی واختار لی اصحابی فجعلہم انصاری  
وجعلہم اصہاری وانہ سیرجی فی اخر الزمان  
فوم ینقصونہم الا فلا تؤاکلوہم الا فلا  
تشاربوہم الا فلا تناکحوہم الا فلا تصلوا  
معہم الا فلا تصلوا علیہم علیہم حلت اللعنة  
وروی جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل النار احد من  
بایع تحت الشجرة وروی ابو ہریرۃ رضی اللہ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطع اللہ علی  
اہل بدر فقال یا اہل بدر اعملوا ما شئتم  
فقد غفرت لکم وروی ابن عمر رضی اللہ عنہما  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہما اصحابی  
مثل النجوم فایبہم اخذتم بقولہ اہتدیتم  
وعن ابی ہریرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم قال من مات من اصحابی بارض  
جعل شفیعاً لہل تلك الارض وقال سفیان  
ابن غیینۃ رضی اللہ عنہما من نطق فی اصحاب رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بکلمۃ فہو صاحب  
ہوی و اہل السنۃ اجتمعوا علی السمع والطاعة  
لرؤیۃ المسلمین واتباعہم والصلوۃ خلف  
کل بر وفاجر والعاذل منہم والمجاثر ومن

کردن ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو اور نہ ان کے جنازوں کی نماز پڑھو  
انہیں پر اللہ کی لعنت اتنے آئی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا جنہوں نے  
درخت کے نیچے بیعت (رضوان) کی تھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تعالیٰ  
اہل بدر پر جھانکا اور فرمایا: اے اہل بدر تم جو چاہو عمل کرو میں نے تم کو  
بخش دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے  
صحابہ تاروں کی طرح ہیں لہذا تم جس کا قول سے لو گے راہ پا جاؤ گے۔  
حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میرا کوئی صحابی کسی  
میں فوت ہو گیا تو وہ اس علاقہ والوں کا شفیع بنا دیا جائے گا۔ سفیان  
بن عیینۃ: جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخانہ کلمہ نکالے وہ ہوئی پرست  
اہانت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ خلفائے اسلام کی اطاعت و اتباع  
واجب ہے اور ہر نیک و بد اور عادل و ظالم امام کے پیچھے نماز جائز ہے  
اور اس کی بھی پیروی واجب ہے جسے امام اپنا جانشین بنا دے۔  
اہانت کا اس پر بھی اجماع ہے کہ کسی اہل قبلہ کے لئے جنت یا جہنم کا  
قطع فیصلہ نہ کیا جائے خواہ وہ متقی ہو یا فاسق، راہ بانٹتے ہو یا راہ  
بھٹکا ہوا ہو اور خاکسار ہو یا سرکش الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کی  
بدعت و گمراہی پر یا جنتی ہونے پر اطلاع ملی ہو۔

علماء کا اس پر بھی اجماع ہے کہ حق تعالیٰ نے انبیائے کرام کو معجزے سے  
اولیاء کو کرامتیں عطا فرمائیں معجزات و کرامات کو تسلیم کر لینا چاہیے  
اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ گرانی اور ارزانی حق تعالیٰ کی طرف  
سے ہے کسی انسان کی طرف سے نہیں خواہ وہ بادشاہ ہو یا حاکم یا تاجر  
وغیرہ ہوں جیسا کہ قدیر اور منجموں کا زعم ہے کیونکہ حضرت انس بن مالک  
کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گرانی اور ارزانی اللہ کے شکروں  
میں سے دو شکر ہیں جن میں سے ایک کو رغبت اور دوسرے کو رہبت



ولوہ و نصیوہ و استنبوہ و ان لا یقطعوا الحد  
 من اهل القبلة بحیۃ و لا فار مطیعان و عامیہ  
 رشیدان کان او غادیا او عاتیا الا ان یطلع منہ علی  
 بدعۃ و ضلالۃ و اجتمعوا علی تسلیم المعجزات  
 للانبیاء و الکرامات للادویاء ان الغلاء و الرخص  
 من قبل اللہ لا من احد من خلقہ من السلاطین  
 و الملوک و لا من الکواکب کما زعمت القدریۃ  
 و المنجمون لما روی عن النبی بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الغلاء و الرخص  
 جند ان من جنود اللہ اسم احدہما الرغبۃ  
 و الاخر الرہبۃ فاذا اراد اللہ ان یغلبہ قذف  
 الرغبۃ فی قلوب التجار فحسبوا و اذا اراد ان  
 یرخصہ قذف الرہبۃ فی صدور التجار فاخرجوا  
 من ایدیہم و الادلی للعاقل المؤمن الکیس  
 ان یتبع و لا یتبدع و لا یغالی و لیسکلف  
 لئلا یضل و یزل فیہلک قال عبد اللہ بن  
 مسعود اتبعوا و لا یتبدعوا فقد کفیتہم و  
 قال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ و مغضات الامور  
 و ان تقول للشی ما ہذا فقال عجاہد حین بلغہ  
 ہذا من معاذ قد کنا نقول للشی ما ہذا فاما  
 الان فلا فعلی المؤمن اتباع السنۃ و الجماعۃ  
 فالسنۃ ما سنہ رسول اللہ و الجماعۃ ما اتفق  
 علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی  
 خلافتہ الائمة الاربعۃ الخلفاء الراشدین  
 المراد بین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین و ان لا یکاثر

رغف) کہا جاتا ہے پھر جب ہی تعالیٰ گراں چاہتا ہے تو تاجروں کے دلوں میں غمت پیدا کر دیتا ہے اور وہ ضرورت کی چیزیں چھپا کر رکھ لیتے ہیں منڈیوں میں نہیں لاتے اور جب اللہ تعالیٰ ارزانی چاہتا ہے تو تاجروں کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیتا ہے اور وہ چیزیں بازاروں میں لے آتے ہیں۔

ہر ذی ہوش و ہوشیار مومن کے لئے اولیٰ یہ ہے کہ سنت کا پیرو کار رہے اور بدعتوں سے محتاط رہے اور دین میں غلو تکلف اور گرائی میں جانے سے بچے یعنی ظاہر پر عمل کرے اور کرید نہ کرے تاکہ گمراہ نہ ہو اور ڈر و لگائے نہ پائے ورنہ ہلاک ہو جائے گا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اتباع کرو بدعتی نہ بنو تمہاری کفایت کی جائے گی یعنی اتباع تمہارے لئے کافی ہے آگے گمراہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما: مبہم چیزوں کی کرید نہ کرو اور کسی چیز کے بارے میں یہ کہنے سے بچو کہ یہ کیا ہے؟ بس مجاہد کو معاذ رضی اللہ عنہما کی اس بات کی خبر ہو گئی تو فرمایا: پیسے تو میں کرید کیا کرتا تھا ماں اب نہیں کروں گا۔ لہذا مومن کے لئے اتباع سنت اور اتباع جماعت ضروری ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ طریقہ ہے اور جماعت خلفائے اربعہ کا زمانہ خلافت میں متفقہ مسئلہ ہے کیونکہ وہ صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے اور راہ راست پر تھے۔

بدعتیوں سے بہت زیادہ بحث مباحثہ نہ کرو اور ان کے منہ نہ لگو اور گھٹنا ملنا تو رہا درکنار ان کے پاس بھی نہ جاؤ اور نہ انہیں سلام کرو کیونکہ ہمارے امام صاحب (احمد بن حنبل) نے فرمایا: جس نے بدعتی کو سلام کیا اس نے اس سے محبت کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپس میں سلام عام کرو اس سے اب دوسرے میں محبت پیدا ہوگی اور نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور نہ ان سے ملو جلوا اور عید و تقریبات مسرت کے موقعوں پر انہیں مبارک باد نہ دو اور نہ ان کے جنازوں کی نماز پڑھو اور نہ ان کا ذکر کرنے پر اظہار ترحم کرو ورنہ بلکہ ان سے دور دور رہو اور اللہ کی رضا کی خاطر ان کو اپنا دشمن ہی تصور کرو اور بدعتیوں کے مذاہب کے باطل ہونے پر یقین رکھو اور یہ نیت کر لو کہ



اهل البدع ولا یبدئہم ولا یسلم علیہم لان امامنا احد بن حنبل رحمہ اللہ قال من سلم علی صاحب البدعة فقد اجنہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم تحابوا ولا یجاالسہم ولا یقرب منہم ولا یرہبہم فی الاعیاد و اوقات السور ولا یصلی علیہم اذا ماتوا ولا یترحم علیہم اذا ذکروا بل یأثمہم ویعادیہم فی اللہ عزوجل معتقد ابطلان مذہب اہل بدعة محتسبا بذلک الثواب الجزیل والاجر الكثير وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من نظر الی صاحب بدعة لخصاله فی اللہ ملائکة قلبہ اصنادا وایمانا ومن انتہر صاحب بدعة لخصاله فی اللہ امنہ اللہ یوم القیامة ومن استحقق لصاحب بدعة دفعہ اللہ تعالیٰ فی الجنة مائة درجة ومن لقیہ بالبشر او بالیرة فقد استخف بما انزل اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی المغیرة عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجی اللہ عزوجل ان یقبل علی صاحب بدعة حتی یدع بدعته وقال فضیل بن عیاض من احب صاحب بدعة احبط اللہ عملہ واخرج نور الایمان من قلبہ واذا علم اللہ عزوجل من رجل انه مبغض لصاحب بدعة رجوت اللہ تعالیٰ ان یغفر ذنوبہ وان قل عملہ واذا

کہ اس پر عظیم ثواب اور بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے والا ہے۔ نبی صلعم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص بدعتی کو اللہ کے لئے اپنا دشمن تصور کرے اللہ اس کا دل امن و امان سے بھر دے گا اور جو بدعتی کو اس سے بغض رکھ کر ڈانٹے حق تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن و سلامتی عطا فرمائے گا، اور جو بدعتی کو حقیر سمجھے اللہ جنت میں اس کے سو درجے بلند فرمائے گا اور جو اس سے خندہ پیشانی یا اس طرح ملے کہ وہ خوش ہو جائے تو اس نے وہ کلام پاک حقیر سمجھا جو حق تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا حق تعالیٰ بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ دے۔

فضیل بن عیاض: جو کسی بدعتی سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کے عمل غارت فرمادیتا ہے اور اس کے دل سے نور ایمان نکال دیتا ہے، لہذا جب اللہ کے علم میں کوئی شخص بدعتی سے بغض رکھنے والا ہوتا ہے تو مجھے اُمید ہے کہ حق تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادے گا۔ گو اس کے عمل تھوڑے ہوں اگر تم راہ میں بدعتی کو دیکھو تو دوسری راہ اختیار کرو۔

فضیل بن عیاض بسماع ابن عیینہ: اگر کوئی بدعتی کے جنازے کے ساتھ گیا تو جب تک واپس نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کے قہر و عقوبت میں رہے گا۔

نبی صلعم نے بدعتی پر لعنت فرمائی ہے فرمایا: جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرائض و نوافل قبول نہیں فرماتا۔

ابو ایوب سجستانی: اگر تم سے کوئی حدیث بیان کرے اور سننے



روایت مبتدعانی طریق فخذ طریقاً آخر و قال فضیل بن  
عیاض سمعت سفیان بن عیینة یقول من تبع جنازة  
مبتدع لم یزل فی سخط اللہ تعالیٰ حتی یرجع وقد لعن  
النبی صلی اللہ علیہ وسلم المبتدع فقال صلی اللہ علیہ وسلم  
من احدث حدثاً او اوی محدثاً فعلیہ لعنة اللہ و  
الملائكة والناس اجمعین ولا یقبل اللہ منه العرف  
والعدل یعنی بالصرف للفریضة وبالعدل النافلة و  
عن ابی الیوب السجستانی انه قال اذا حدثت الرجل  
بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا بما فی القرات  
فاعلم انه ضال۔

**فصل** واعلم ان لاهل البدع علامات یعرفون  
بها فعلامۃ اهل البدعة الوقیعة فی اهل الاثر  
وعلامۃ الزنادقة تسیتهم اهل الاثر الحشریة  
ویریدون البطل الاثار وعلامۃ القدریة  
تسیتهم اهل الاثر مجیرة وعلامۃ الجهلیة  
تسیتهم اهل السنة مشبها وعلامۃ الرافضیة  
تسیتهم اهل الاثر ناصبیة وکل ذلك عصبۃ  
وغیاظ لاهل السنة ولا اسم لهم الا اسم  
واحد وهو اصحاب الحدیث ولا یتصق بهم  
ما لقبرهم اهل البدع کما لم یتصق بالنبی  
صلی اللہ علیہ وسلم تسیة کفار مکة ساحرا  
وشاعرا ومجنونا ومفتونا وکاهنا ولم یکن  
اسمہ عند اللہ وعند ملائکتہ وعند السم  
وجنہ وسمی خلقہ الارسل نبیا بریاً من العاشا  
کلها قال اللہ تعالیٰ انظر کیف فی لوالک الاثمال

والا کے حدیث چھوڑیے اور قرآن بیان کیجئے تو یقین مانو کہ وہ  
گمراہ ہے۔

**بدعتیوں کی علامتیں** | دیکھیے بدعتیوں کی چند نشانیاں ہیں جن سے  
وہ پہچان لئے جاتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ بدعتی محدثین کرام کی ذاتی روایت  
پر عمل کیا کرتے ہیں اور بے دین انہیں حشر یہ کہا کرتے ہیں تاکہ احادیث  
کو باطل قرار دیا جائے اور قدر یہ انہیں بچہ کہتے ہیں، جہیمۃ اہل سنت  
کو مشتبہ کہتے ہیں اور رافضی اصحاب حدیث کو ناسبی کہا کرتے ہیں یہ  
سب القاب انہیں اس لئے دئے جاتے ہیں کہ ان بدعتیوں کو ان کے  
تعصب اور دشمنی ہے حالانکہ ان کا صرف ایک لقب راہب الحدیث  
محدثین یا اہل حدیث ہے ان کے القاب اہل سنت پر چسپاں نہیں ہوتے  
جیسے مکہ کے مشرکوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں القاب (شاعر،  
ساحر، مجنون، مفتون اور کابن وغیرہ) آپ پر صادق نہیں آتے،  
آپ کا لقب اللہ کے نزدیک، اس کے فرشتوں کے نزدیک، اس کے  
انسانوں اور جنوں کے نزدیک اور تمام مخلوق کے نزدیک ایک ہی  
ہے یعنی رسول اور نبی، اور آپ دشمنوں کے دئے ہوئے دیگر تمام  
القاب سے بری ہیں حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا: دیکھیے تو مشرک  
کس طرح آپ کی شان میں مثالیں بیان کرتے ہیں اور راہ سے  
بھٹک جاتے ہیں اور ان میں سیدھی راہ پر آنے کی صلاحیت ہی  
نہیں۔ یہ ہیں وہ مخقر عقائد اور معرفت صانع عالم کے سلسلہ میں  
اعتقادات جو ہم نے اہلسنت والجماعت کے مذہب کے مطابق  
حتیٰ الوسیع اس کتاب میں اس مقام پر جمع کر دئے ہیں اور ہم عقائد  
کے سلسلہ میں دو عنوان اور قائم کرنے والے ہیں جن سے کسی ذی ہوش  
مومن کو بے خبر رہنے کی گنجائش نہیں بشرطیکہ وہ دلیل و برہان کی  
راہ پر چلنا چاہے ایک عنوان یہ ہے کہ انسانی اخلاق و صفات کا اور  
عیوب و نقائص کا اطلاق باری تعالیٰ پر جائز نہیں اور کن صفات

فذلوا فلا يستطيعون سبيلا هذا اخر ما الفتا  
 في باب معرفة الصانع والاعتقاد على مذهب  
 اهل السنة والجماعة على الاختصار والقدرة ثم  
 تردف هذه الجملة بفصلين آخرين لا يسع للعاقل  
 المؤمن جعلهما اذا اراد سلوك الحجّة احد  
 الفصلين فيما لا يجوز اطلاقه على الباري من  
 الصفات واخلق العباد والنقائص وما يجوز  
 من ذلك والفصل الثاني بيان مقالة الفرق  
 الضالة من طريقي الهدى المداخنة الحجّة  
 في يوم الدين والمعاسبة واما الفصل الاول  
 فيما لا يجوز اطلاقه على الباري عز وجل من الصفات  
 وليتجمل اضافته اليه من الاخلاق وما يجوز  
 من ذلك لا يجوز ان يوصف الباري تعالى بالجهد  
 والشك والظن وغلبة الظن والسهو والسيان  
 والسنة والنرم وغلبة والغفلة والعجز والوقت  
 والجرس والصم والعمى والشهوة والنفور والميل  
 والحرد والغيب والحزن والتاسف والكد والحسرة  
 والتلهف والالام واللذة والنفع والمضرة  
 والتمني والعزم والكذب ولا يجوز ان يسبح  
 ايانا خلاف قالت السامية وتعلقهم لقوله  
 عز وجل ومن يكفر بالايان فقد حبط عمله  
 محمول على اية من يكفر بوجوب الايمان  
 كان كمن كفر بالرسول وما جاء به صلى الله  
 عليه وسلم من الله عز وجل من الاوامر والنواهي  
 ولا يجوز ان يوصف عز وجل بانه مطيع ولا مجل

کا اطلاق جائز ہے اور دوسرا عنوان گمراہ فرقوں کا رحمن کی جتنی  
 جزاء و حساب کے دن باطل ہوں گی) معہ ان کے عقائد کے  
 بیان ہے۔

کن کن صفات و اخلاق کا اطلاق باری تعالیٰ پر | باری تعالیٰ  
 جائز ہے اور کن کن کا محال ہے ؟

ظن، غلبہ ظن، سہو، بھول، اذگھ، نیند بے جینی، غفلت، عجز،  
 موت، گونگا، یا بہرہ یا اندھا ہونا، شہوت، لذت، جنسی میلان،  
 غیظ و غضب، غم و افسوس، سوز و حسرت، اندوہ، تاسف،  
 لذت، نفع و ضرر، آرزو، عزم اور جھوٹ کا اطلاق جائز نہیں  
 اور حق تعالیٰ شانہ کا نام ایمان تجویز کرنا بھی جائز نہیں لیکن  
 سالمیۃ اللہ تعالیٰ کو ایمان کے نام سے پکارتے ہیں اور قرآن  
 حکیم کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، فرمایا اور جو ایمان  
 کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل گر گئے اس آیت میں ان کے زعم  
 میں ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ ہے حالانکہ یہاں ایمان سے مراد  
 وجوب علامات ایمان مراد ہیں حق تعالیٰ نہیں، یعنی جو وجوب  
 ایمان کا انکار کرے وہ بمنزلہ اس کے ہے جو رسول کا اور اللہ کے  
 اتار سے ہوئے اور نواہی کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو  
 مطیع یا مجل (حاملہ کرنے والا) کہنا جائز نہیں، نہ اللہ پر حرور  
 کا اطلاق اور نہ نمانیت کا اطلاق جائز ہے۔ وہ چھ سمکڑوں سے اور  
 اور کیف و کم سے متصف نہیں۔ شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ کی  
 یہ صفیتیں ثابت نہیں۔

لاں ہماری شریعت میں یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ  
 عرش پر قائم ہے جیسا کہ قرآن و احادیث سے ثابت ہوتا ہے  
 بلکہ حق تعالیٰ تمام سمتوں اور جہات کو پیدا کرنے والا ہے اس  
 میں اختلاف ہے کہ حق تعالیٰ کو شخص کہا جائے یا نہیں بعض کہنے



لنشاء العالم ولا يجوز عليه الحدود ولا النهاية  
 ولا القبل ولا البعد ولا تحت ولا فوق ولا خلف  
 ولا كيف لان جميع ذلك ماورد به الشرع الا ما  
 ذكرنا من انه على العرش استوى على ماورد به  
 القرآن والاختبار بل هو عز وجل خالق لجميع الوجودات  
 ولا يجوز عليه الكمية واختلاف في جواز تسميته  
 بالشخص فمن جرد ذلك فلفظ قول النبي صلى الله  
 عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبه رفا لا شخص  
 اغير من الله ولا شخص احب اليه المعاذيرة من الله ومن  
 منع ذلك فلان لفظ الخیر ليس بصريح في الشخص لا جمال ان يكون  
 معنا لا احد اغير من الله وقد ورد في بعض  
 الفاظ لا احد اغير من الله ولا يجوز ان ليحيى فاضلا  
 وعتيقا وفتيها ولا فهيما ولا فطنا ولا محققا وعا  
 وموقرا ولا طيبا وقيل يجوز ولا عاديا لان ذلك  
 منسوب الى زمن عاد وهو محدث ولا مطيقا  
 لانه خالق كل طائفة وهي متناهية ولا محفوظا  
 لانه هو الحافظ ولا يجوز وصفه بالمباشرة ولا يجوز  
 وصفه بانه مكتسب لان ذلك محدث بقدرته  
 محدثة والله تعالى سبحانه عن ذلك ولا يجوز  
 عليه العدم وهو قد يم لا لقدم ولا اول  
 لوجوده خلاف ما قال ابن كلاب من انه قد يم  
 لقدم وهو باق لا يفنى وهو عز وجل عالم بعلومات  
 غير متناهية وقادر بمقدورات غير متناهية  
 خلاف ما قالت الاشعرية من قولها باق ببقاء  
 خلاف ما ادعت المعتزلة من ان كل ذلك

کے حق میں ہیں کیونکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ والی حدیث میں ہے کہ کوئی شخص  
 اللہ سے زیادہ غیور نہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی شخص کو  
 عذر محبوب نہیں یعنی اسے عذر قبول کرنا بہت محبوب ہے۔

لیکن جو ناجائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں شخص بھی احد ہے یعنی  
 کوئی اللہ سے زیادہ غیور نہیں چنانچہ حدیث کے بعض لفظ میں  
 احد ہی آتا ہے۔

حق تعالیٰ کو فاضل، عتیق، فقیہ، نہیم، فطن، محقق، عاقل  
 موقر اور طیب بھی کہنا جائز نہیں بعض کے نزدیک طیب کہنا جائز ہے  
 اور نہ عادی کہا جائے کیونکہ یہ لفظ عادیوں کے زمانہ کی طرف منسوب ہے  
 جو جدید نام ہے اور نہ اسے مطیق (طاقت والا) کہنا جائز ہے کیونکہ  
 وہ تمام طاقتوں کا خالق ہے اور طاقتوں کی غایت و انتہا ہے اور نہ  
 اسے محفوظ کہا جاسکتا ہے کیونکہ وہ حافظ ہے اللہ تعالیٰ مباشر  
 بھی نہیں اور نہ مکتسب و کمائی کرنے والا ہے کیونکہ کسب اس کی  
 قدرت سے پیدا ہوا ہے، تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔

اللہ پر عدم کا اطلاق جائز نہیں کیونکہ وہ قدیم ہے جو قدامت سے  
 نہیں (بلکہ اس معنی سے کہ اس کی ابتدا نہیں) لیکن ابن کلاب کہتا ہے  
 کہ معاذ اللہ اس کے وجود کی ابتداء ہے۔ اور حق تعالیٰ باقی ہے  
 اسے فنا نہیں۔ وہ البیاعالم ہے جس کے معلومات کی انتہا نہیں اور  
 اور البیادار ہے جس کے مقدرات لا محدود ہیں لیکن اشعر یہ کہتے  
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ بقاء کے ساتھ باقی ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ  
 تعالیٰ کے معلومات و مقدرات دونوں متناہی ہیں۔

جن صفات سے حق تعالیٰ جل مجدہ متصف ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں اللہ  
 تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے،  
 راضی ہوتا ہے ہم ان صفات کا آغاز باب میں ذکر کر آئے ہیں۔

حق تعالیٰ موجود ہے، فرمایا، اور اس نے اللہ کو اپنے پاس موجود پایا۔

متناہیۃ واما الصفات التي يجوز وصفه عز وجل  
 بها الفرح والضحك والغضب والسخط والرضاء  
 وقد قد ما ذلک فی اول الباب ويجوز وصفه  
 بانہ موجود لقوله ووجد الله عنده ويجوز وصفه  
 بانہ شیء لقوله تعالیٰ قل ای شیء اکبر شہادۃ  
 قل الله ويجوز ان یوصف بانہ نفس وذات  
 وعین من غیر تشبیہ بآرختۃ اللسان علی ما  
 تقدم بیانہ ويجوز وصفه بانہ کائن من غیر  
 حد لقوله عز وجل وكان الله بكل شیء علیما وكان  
 الله علی کل شیء رقیبا ويجوز وصفه بانہ قدیم  
 وباق وبانہ مستطیع لان معنی الاستطاعة  
 القدرة وهو موصوف بالقدرة ويجوز وصفه  
 بانہ عارف ومتین وواثق ودری وداری لان  
 جمیع ذلک راجع الی معنی العالم ولم یرد الشرع  
 بمح ذلک ولا اللغۃ بل قال الشاعر اللهم لا  
 ادري وانت الداری ويجوز وصفه بانہ راءى  
 ويرجع الی معنی العالم ويجوز وصفه بانہ  
 مطلع علی خلقہ وعبادہ بمعنی عالم بهم وکن ذلک واجد  
 بمعنی عالم وصفه بانہ جلیل وجمل یعنی فی الصنع الی  
 خلقہ ويجوز وصفه بانہ دقین علی معنی انه  
 مجازی لعبادہ علی افعالهم الذین الحساب  
 كما تدین تدا انما ذلک یوم الذین ای یوم الحساب  
 او علی معنی الشارح لعبادہ عبادۃ وشریعة دعا  
 الیها وفرض ذلک علیہم ثم یجازیہم علی ما  
 فعلوا فیہا ويجوز وصفه بانہ مقدر علی معنی

حق تعالیٰ پر شیء کا اطلاق جائز ہے فرمایا: آپ پوچھیں شہادت کے  
 اعتبار سے کون سی شے سب سے بڑی ہے؟ آپ فرمادیں اللہ  
 اللہ تعالیٰ پر نفس، ذات اور عین کا اطلاق بھی جائز ہے لیکن  
 الثانی اعضاء پر قیاس کرنے اور ان سے تشبیہ دینے سے بالاتر ہو کر  
 جیسا کہ بیان اوپر گزر چکا، یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا حد کے  
 موجود ہے فرمایا: اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ ہر  
 چیز پر نگہبان ہے، حق تعالیٰ بلا ابتداء کے قدیم اور بلا انتہاء کے  
 باقی ہے، وہ مستطیع (صاحب استطاعت) ہے یعنی قدرت والا ہے  
 عارف ہے متین ہے، واثق ہے، دری (عالم) ہے اور داری (عالم)  
 ہے کیونکہ ان تمام کامر جمع عالم ہے اور شرع و لغت کی رو سے منع نہیں  
 بلکہ شاعر کہتا ہے: لے اللہ میں نہیں جانتا اور تو جاننے والا ہے  
 اللہ تعالیٰ پر راءى دیکھنے والا، کا اطلاق بھی جائز ہے جس کے  
 معنی عالم کے ہیں اور مطلع کا بھی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور  
 تمام مخلوق سے آگاہ ہے، اور واجد عالم کا بھی اور جمیل کا بھی  
 اور مجمل کا (خوبصورت بنانے والا) بھی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری  
 میں خوبصورت ہے اور دقین کا (بدلہ دینے والا) بھی یعنی وہ بندوں  
 کو ان کے افعال پر بدلہ دینے والا ہے اور دین بمعنی حساب ہے کہا  
 جاتا ہے: کما تدین تدا یعنی جیسا کہ وگے ویسا بھرو گے وہ دین والے  
 دن کا مالک ہے یعنی حساب والے دن کا یا بمعنی اس کے کہ اس نے اپنے  
 بندوں کے لئے عبادت و شریعت مقرر فرمائی اور انہیں ان دنوں کی  
 دعوت دی اور یہ دنوں چیزیں ان پر فرض کیں پھر وہ انہیں ان کے  
 عملوں کا بدلہ عطا فرمائے گا اور تقدیر کے معنی پر مقدر کا اندازہ کرنے  
 والا بھی فرمایا: ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی فرمایا  
 جس نے اندازہ مقرر فرمایا پھر اسے فرمائی اور معنی اور خبر دینے  
 کے معنی پر بھی فرمایا: ہم ان کے گھر والوں کو پالیں گے علاوہ ان کی



التقدير قال انا كل شئ خلقته بقدر وقال قدر  
فهدى وعلى معنى الخبر قال الامراته قدرنا انها  
من الغابرين اى اخبرنا لوطا عليه السلام بان امراته  
من الباقيين فى العذاب من دون اهلهم ولا يجوز  
ان يكون معناها الظن والشك تعالى الله عن ذلك  
ويجوز وصفه بانها ناظر على معنى انه راءى مدرك  
للاشياء لا على معنى انه صراءى مفكر تعالى عن  
ذلك ويجوز وصفه بانها شفيق على معنى الرحمة  
بخلقها والرافة لا على معنى الخوف والحزن وكذلك  
يجوز وصفه بانها رفيق على معنى الرحمة والتعطف  
لخلقها لا على معنى التثبيت فى الامور والاجمال فى  
اصلاحها والسلامة من عواقبها ويجوز وصفه  
بانها سخي كما يجوز وصفه بانها كريم وجواد لان  
معنى الكل التفضل والاحسان الى خلقه ولا يقصد  
بذلك الرخاوة واللين على ما هو فى اللغة مستعمل  
ارض سخية وقرطاس سخي اذا كانا لينين ويجوز  
وصفه باله امر وناي ومبيح وحاضر ومعلل ومجزم  
وفارض وملزم وموجب ونايب ومرشد وقاض  
وحاكم على ما ذكرنا لا وكذلك يجوز وصفه  
بانها وعد ومتراعد ومخوف ومعدرو ذامر  
مادح ومخاطب ومتكلم وقائل كل ذلك راجع  
الى معنى انه موصوف بالكلام ويجوز وصفه بانها  
معدم على معنى انه لم يوجد ولم يفعل وعلى  
معنى انه معدم لما اوجده لجد ايجاد لقطع  
البقاء عنه فيبعد بذلك ويجوز وصفه بانها فاعل

يوسى کے اسم نے انہیں (لوط) خبر دی کہ وہ پچھے رہ جانے والوں میں سے ہے یہاں تقدیر بمعنی شک و شبہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے اور اس پر ناظر کا اطلاق بھی جائز ہے یعنی اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے یہ نہیں کہ وہ غور و فکر کرنے والا ہے اور سوچنے والا ہے۔ اور شفیق کا اطلاق بھی جائز ہے یعنی اللہ اپنی مخلوق پر انتہائی مہربان و نرم ہے یہ معنی نہیں کہ وہ خوف زدہ اور غمگین ہے اسی طرح وہ رفیق ہے یعنی لوگوں پر عنایت و کرم فرماتا ہے یہ معنی نہیں کہ وہ کاموں کی اصلاح و درستگی کے لئے ان کے نتائج سوچتا ہے اور وہ سخی کریم اور جواد ہے یہ تینوں بمعنی احسان و کرم میں بمعنی سستی و نرمی نہیں جیسا کہ لغت میں مذکور ہیں اگر یہ الفاظ زمین اور کاغذ کی صفت ہوں ہوں تو بمعنی نرم آتے ہیں جیسا کہ نرم زمین کو اور نرم کاغذ کو ارض سخية و قرطاس سخي کہا جاتا ہے اور وہ امر (حکم کرنے والا) نایہ اور والام بیع (جائز و مباح کرنے والا) محلل و محرم (حلال و حرام کرنے والا) فارض (فرض کرنے والا) ملزم (چمٹانے والا) موجب (واجب کرنے والا) نایب (جائز کرنے والا) مرشد (راہ دکھانے والا) قاض (فیصلہ کرنے والا) اور حاکم (حکومت کرنے والا) ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اسی طرح وہ وعد، متواعد، ذامر، مدح، مخوف و مخدّر و ذام (ڈرانے والا) مادح (تعریف کرنے والا) مخاطب و خطاب کرنے والا اور متکلم (کلام کرنے والا) اور قائل (کہنے والا) ہے ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے اللہ تعالیٰ معدوم ہے یعنی ہست سے نیست کرنے والا ہے یا پیدا نہیں کرنے والا اور وہ فاعل ہے یعنی افعال کا موجب ہے اور اپنی قدرت سے خالق و جاعل ہے اس لئے اس صفت کا مستحق ہے چیزوں سے والبتہ ہو کہ نہیں کیونکہ مباشرتہ کی حقیقت اجسام سے والبتہ ہوتی ہے اور ان کا چھونا ہے اور حق تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے اور بری ہے۔

بمعنی انه مخترع لذات ما فعله وخالق له و  
 جاعل بقدرته فاستحق لذلك هذا الوصف لا  
 علی معنی المباشرة للاشیاء لان حقيقة ذلك تلاقی  
 الاجسام وما استنهاو الله سبحانه تعالی متعال  
 عن ذلك وكذلك يجوز وصفه بانه جاعل علی  
 معنی انه فاعل وفعله مفعول كقوله تعالی و  
 جعلنا الليل والنهار آیتین ويجوز ان يكون الجعل  
 بمعنی الحكم قال عز وجل وجعلناه قرآنا عربیا  
 ويجوز وصفه بانه تارك فی الحقيقة كما وصف بانه  
 فاعل علی معنی انه فاعل ضد فعله الاخرید لان  
 الاول بقدرته العامة الشاملة لا علی معنی كف  
 النفس ومنعها عما یدعو الی فعله ويجوز وصفه  
 بانه لیرجد علی معنی انه یخلق وكذلك يجوز وصفه  
 بانه مكن علی معنی انه موجد ويجوز وصفه بانه  
 مثبت علی معنی انه لیرجد فی الشئ البقاء والثبات كما  
 قال الله عز وجل یتبث الله الذین امنوا بالقول  
 الثابت وقوله عز وجل یرح الله ما یشاء ویتبث و  
 عنده ام الكتاب ويجوز وصفه بانه عامل و  
 صانع بمعنی خالق ويجوز وصفه بانه مصیب علی  
 معنی ان افعاله واقعة علی ما قصد الا و اراد  
 من غیر تفاوت وتزاید وتناقص لانه تعالی عالم  
 بها وبتفاتها وکیفیاتها لا علی معنی ان ذلك صافق  
 لامر امره بفعالها تعالی عن ذلك ويجوز اطلاق  
 هذه الصفة علی عبد من عبیدة فیقال انه مصیب  
 بمعنی انه مطیع لربه متبع لامره منتهی لنهیہ و

اسی طرح حق تعالی شانہ اس معنی سے جاعل ہے کہ وہ فاعل ہے اور اس  
 کا فعل مفعول ہے یعنی وہ چیزوں کو جو دیکھتا ہے فرمایا ہم نے رات  
 اور دن کو اپنی قدرت کی، دو نشانیوں بنائیں اور حکم کے معنی سے بھی  
 جاعل ہونا جائز ہے فرمایا اور ہم نے اسے عربی قرآن (بننے کا) حکم فرمایا  
 فاعل کی طرح اللہ کی ایک صفت تارک (چھوڑنے والا) بھی ہے یعنی  
 اگر چاہے تو اپنی ہمہ گیر و عام قدرت سے پہلے فعل کے عوض اس کی  
 ضد کر دیتا ہے اس معنی سے نہیں کہ خواہشات کا ترک کرنے والا  
 ہے اس کا ایک وصف موجد بمعنی خالق بھی ہے اور مکن بمعنی موجد  
 بھی ہے، اور مثبت بمعنی تحفظ بقاء و ثبات بھی ہے فرمایا: اللہ  
 ایمان والوں کو ثابت قول دتوحید پر قائم رکھتا ہے، فرمایا  
 جو چاہے مٹا دے اور جسے چاہے برقرار رہنے دے اور اسی  
 کے سامنے ام الكتاب (اصل کتاب) ہے اور اللہ عامل و صانع بمعنی  
 خالق بھی ہے اور اس معنی کے اعتبار سے مصیب (ٹھیک کرنے  
 والا) ہے کہ اس کے افعال اس کے قصد و ارادہ کے مطابق واقع  
 ہوتے ہیں اور ان میں کسی بیشی کا فرق نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ  
 انہیں ان کے حقائق کو اور ان کی کیفیات کو جانتا ہے اور ہر  
 فعل کے حال کے مناسب کسی اس کی حکمت پر مبنی ہے اس اعتبار  
 سے نہیں کہ وہ فعل کسی حکم کرنے والے کے حکم کے مطابق ہے اللہ  
 تعالیٰ اس سے بالا ہے۔ مصیب بندے کو بھی کہا جاتا ہے مگر اس  
 اعتبار سے کہ بندہ اپنے رب کا اطاعت گزار، اس کے حکم کا پیر و  
 اور اس کی نہی سے ترک جانے والا ہوتا ہے اور اپنے سے اونچے  
 شخص کے اور اپنے رئیس کے اطاعت گزار ہونے کے اعتبار سے بھی  
 حق تعالیٰ شانہ کے افعال کو صواب کسار و اسے یعنی وہ حقیقت  
 کے مطابق اور صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مثبت بھی کہا جاتا ہے اور  
 مستم بھی یعنی ثواب دے جانے والے کو صاحب النعم و عظمت بنانا



كذلك اذا كان مطيعا لمن هو فوقه و رئيسه  
 ويجوز وصف افعاله عز وجل بانته صواب على  
 معنى انها حق و ثابت و يجوز وصفه بانته مثيب  
 و منحمر على معنى انه يجعل المثاب منعا معظما و  
 كذلك يجوز وصفه بانته معاقب و معاز على معنى  
 انه يهين العاصي و يولم على معصية و يجوز وصفه  
 بانته قديم الاحسان على معنى انه موصوف بالخلق  
 و الرزق في القدم قال عز وجل ان الذين سبقت  
 لهم منا الحسنى و يجوز وصفه بانته دليل و قد نص  
 الامام احمد عليه في حق رجل قال له زودني دعوة  
 فاني اريد الخروج الى طرطوس فقال له قل يا دليل  
 الخائرين و لني على طريق الصادقين و اجعلني من  
 عبادك الصالحين و يجوز وصفه بانته طيب لما روي  
 عن ابي رزمة التميمي انه قال كنت مع ابي عند  
 النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت و على كتف النبي  
 صلى الله عليه وسلم مثل التفاحة فقال له ابي  
 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني طيب  
 فلتها لك قال صلى الله عليه وسلم طيبها الذي  
 خلقها و روي عن ابي السفر انه قال مرض ابو بكر  
 رض فعاد لا جماعة فقالوا له الا قد عولك الطبيب  
 فقال فقد رأني قالوا فالتيت قال لك فقال قال لي  
 اني فعال لما اريد و كذلك يروى ان ابا الدرداء  
 مرض فعاد و لا فقالوا له اليس تشتكي قال ذلوني فقالوا  
 اليس تشتهي فقال الجنة في اول الفصل و انما  
 يجوز ان يدعى بها ليني به من الاسماء التي يجوز

ہے۔ اور معاقب و معاز بھی یعنی وہ نافرمانوں کو ذلیل و خوار  
 کرتا ہے اور گناہوں پر انہیں ایذا پہنچاتا ہے۔ اور قدیم  
 الاحسان بھی کیونکہ وہ خلق و رزق میں قدیم ہے فرمایا: جن لوگوں  
 کے لئے ہماری طرف سے نیکی سبقت کر گئی ہے اور دلیل بھی  
 اس کی امام احمد نے صراحت فرمائی ہے آپ سے ایک  
 شخص آکر عرض کرتا ہے کہ میرا ارادہ طرطوس جانے کا ہے  
 آپ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، فرمایا: یہ پڑھا کر دو: اے خیر الوں  
 کو راہ دکھانے والے مجھے اپنے سچے بندوں کی راہ کی رہنمائی  
 فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمالے، اور طیب  
 بھی، کیونکہ ابو رزمة تمیمی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے والد  
 کے ساتھ رحمت عالم مسلم کے پاس تھا میں نے آپ کے  
 دوش مبارک پر سیب کی برابر ابھار دیکھا میرے والد نے  
 کہا: یا رسول اللہ! میں طیب ہوں کیا میں آپ کی اس  
 رسولی کا علاج کر دوں؟ فرمایا: اس کا طیب وہ ہے جس نے  
 اسے پیدا فرمایا، ابو السفر کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر بیمار ہوئے  
 اور لوگوں کی ایک جماعت نے آپ کی عیادت کی اور آپ سے  
 کہا: کیا ہم آپ کے لئے کوئی طیب نہ بلا لائیں؟ فرمایا طیب نے  
 مجھے دیکھ لیا ہے۔ بولے: پھر اس نے آپ سے کیا کہا؟ فرمایا: اس  
 نے مجھ سے یہ کہا کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ اسی طرح  
 نقل ہے کہ حضرت ابو الدرداء بیمار ہو گئے لوگوں نے آپ کی  
 عیادت کی اور پوچھا: کیا شکایت ہے؟ فرمایا: اپنے گناہوں کی  
 پوچھا: کیا خواہش ہے؟ فرمایا دنیا سے جدا ہو کر پہلے قدم پر  
 جنت کی۔ اسمائے حسنی میں سے کسی بھی اسم کے ساتھ دعا کرنا جائز  
 ہے اور ان اسمائے حسنی میں سے اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا جائز  
 ہے ہم اوپر اللہ تعالیٰ کے ۹۹ اسم بیان کر آئے ہیں دعاؤں میں

ان کا استعمال بہت اچھا ہے۔ دعاؤں میں مندرجہ ذیل اسماء بہرگز استعمال نہ کیے جائیں ساحر (جادوگر) مستہزی (دل لگی کرنے والا) ماکر (مکار) خادع (دھوکہ دینے والا) مبغض (بغض رکھنے والا) غضبان (غصہ کرنے والا) منتقم (بدلہ لینے والا) معادی (دشمنی کرنے والا) معدم (نیست) دنا بود کرنے والا اور ملک (ہلاک کرنے والا) اگرچہ ازراہ جزاء و مقابلہ ان سے اللہ کا تعاقب جائز ہے ازراہ استحقاق نہیں۔

★

**گمراہ فرقے** | اس سلسلہ میں اصل دو دلیل حدیث عمر بن عون سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلی قوموں کی راہوں پر قدم بہ قدم چلو گے اور جس راستہ سے کبھی انہوں نے اختیار کیا تھی اسی قدر تم اختیار کرو گے اگر وہ ایک بائٹ بٹے تھے تو تم بھی ایک بائٹ بٹ جاؤ گے، اگر وہ ایک ہاتھ بٹے تھے تو تم بھی ایک ہاتھ بٹ جاؤ گے اور اگر وہ ایک بون بٹے تھے تو تم بھی ایک بون بٹ جاؤ گے حتیٰ کہ اگر وہ بالفرض گور کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی دیکھا دیکھی اس میں گھس جاؤ گے کان کھول کر سن لو، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے علیحدہ ہو کر، فرقوں میں بٹ گئے وہ تمام فرقے گمراہ ہیں بس ایک فرقہ اسلام پر قائم تھا یعنی اہلسنت والجماعت اسلام پر قائم رہے اور عیسائی حضرت عیسیٰ سے جدا ہو کر ۷۲ فرقوں میں بٹ گئے جو سب گمراہی راہ ہیں بس اہلسنت والجماعت صحیح راہ پر ہیں اور تم ۷۳ فرقوں میں بٹ جاؤ گے جو سب گمراہ ہوں گے بس اہلسنت والجماعت صحیح راہ پر ہوں گے۔ عوف بن مالک اشجعی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت ۷۳ فرقوں میں بٹ جائے گی اور میری امت پر عظیم فتنہ لانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی راہوں سے قیاس کر کے مسائل تباہیں گے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کریں گے۔ (ابو یوسف - دارقطنی)

وصفہ بہا وقد ذکرنا تسعة وتسعين اسما في ما تقدم  
نهى الله في الدعاء وان اراد ان يصفه ويدعوه بما  
ذكرنا في هذا الفصل جازلك الا انه يجنب في دعاء  
من ان يدعوه عزوجل بقوله يا ساحر يا مستهزي  
يا مكار يا خادع ومبغض وغضبان ومنتقم ومعادي  
ومعدوم ومهلك فلا يدعوه بها وان كان مباحوز  
وصفہ بہا علی وجہ الجزاء والمقابلہ لاهل  
الاجرام علی وجہ الاستحقاق۔

**الفصل الثانی فی بیان الفرق الضالۃ**  
عن طریق الہدی والاصل فی ذلك ما روی عن  
کثیر بن عبد اللہ بن عمرو ابن عوف عن ابيه  
عن جدہ رضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم لتسلکن سنن من قبلکم حد والنعل  
بالنعل ولتاخذن مثل اخذہم ان شبرا فشبرا  
وان ذرا عاقد راعا وان باعا فباعا حتی لو دخلوا  
حجر فنب لدخلتم فیہ معهم الا ان بنی اسرائیل  
افترت علی موسیٰ باحدی وسبعین فرقة کلها  
ضالة الا فرقة واحدة الاسلام وجماعتهم ثم  
انها افترت علی عیسیٰ بن مریم باثنتین وسبعین  
فرقة کلها ضالة الا واحدة الاسلام وجماعتهم  
ثم انکم تکتون علی ثلاثہ وسبعین فرقة  
کلها ضالة الا فرقة واحدة الاسلام وجماعتهم  
وعن عبد الرحمن بن جبیر بن لفيہ عن ابيه عن  
عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم تفترق امتی علی ثلاثہ



وسبعین فرقة اعظمها فتنة على امتي الذين  
 يقبسون الامور برأيهم يحرمون الحلال ويحلون  
 المحرام وعن عبد بن زيد عن عبد الله بن عمر  
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بنى  
 اسرائيل اختلفوا على احدى وسبعين فرقة كلها  
 في النار الا واحدة وستفتق امتي على ثلثة و  
 سبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا و  
 ماتك الواحدة قال رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم من كان على مثل ما انا عليه واصحابي  
 وهذا الا فتراق الذي ذكره النبي صلى الله عليه  
 وسلم لم يكن في زمانه ولا في زمان ابى بكر و  
 عمر وعثمان وعلى رضوانا كان ذلك بعد تقادم  
 السنين والاعوام وفوت الصحابة والتابعين و  
 الفقهاء السبعة فقهاء المدينة وعلماء الامصار  
 وفقهاء هافرنا بعد قرن وقبض العلم بموتهم  
 الا شذمة قليلة وهم الفرقة الناجية فحفظ الله  
 الدين بهم كما رو عن عروة عن عبد الله بن  
 عمر رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان  
 الله تعالى لا ينزع العلم من صدور الرجال بعد  
 ان يعطيهم ولكن يذهب بالعلماء فكلما  
 ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم  
 فيضلون ويضلون وفي لفظ اخر عن عروة عن  
 ابيه عن عبد الله بن عمر رض قال سمعت رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم  
 انتزاعا ينزعه من الناس ولكن يقبض العلم

حضرت ابن عمر رض کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: بنی اسرائیل  
 ۱۷ فرقوں میں بٹ گئے وہ بجز ایک فرقہ کے سب کے سب جہنمی ہیں۔  
 اور عنقریب میری امت ۳۷ فرقوں میں بٹ جائے گی جو بجز ایک  
 فرقہ کے سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا: وہ  
 ایک جنتی فرقہ کونسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 نے فرمایا: جو میرے جیسے اور میرے صحابہ کے جیسے طریقہ پر قائم  
 رہیں گے (وہ جنتی ہیں)

جس فرقہ بندی کا رحمت عالم صلعم نے ذکر فرمایا ہے وہ آپ کے  
 عہد مسعود میں نہ تھی اور نہ عہد خلفائے راشدین میں بلکہ سالہا سال  
 گزرنے کے بعد جب کہ صحابہ تابعین، مدینہ کے ساتوں فقہاء اور  
 دنیا کے اسلام کے علماء اور فقہاء ختم ہو گئے اور ان کے ختم ہونے  
 سے علم اٹھ گیا اور صدیاں بیت گئیں تو یہ بلا مسلمانوں میں پھیلی  
 البتہ ان میں سے چند لوگ باقی رہ گئے یہی نجات والا فرقہ ہے حق تعالیٰ  
 نے انہیں اپنے دین کی حفاظت کے لئے باقی رکھا، جیسا کہ حضرت ابن  
 کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: حق تعالیٰ علم عطا فرمانے  
 کے بعد لوگوں کے دلوں سے علم ختم نہیں فرماتا ہاں علم علماء کے ساتھ  
 چلا جاتا ہے جب کبھی کوئی عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے  
 ساتھ اس کا علم بھی فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے حتیٰ کہ لوگ بلا علم کے  
 رہ جاتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دخلط مسٹے بنا کر  
 دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ایک لفظ میں ابن عمر رض فرماتے ہیں کہ  
 میں نے رسول اللہ صلعم سے سنا کہ حق تعالیٰ علم کو لوگوں کے دلوں میں  
 سے سلب کر کے نہیں سمیٹتا ہاں علماء کو اٹھا کر سمیٹ لیتا ہے حتیٰ کہ  
 جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں  
 اور انہیں سے مسائل پوچھے جاتے ہیں پھر وہ بلا علم کے فتویٰ دیتے  
 ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

لقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالم اتخذ الناس  
رؤسهم حبالا فاستلوا فافتوا بغير علم فیضلوا  
واضلوا وعن کثیر بن عبد اللہ ابن عرف عن  
ابیہ عن جدہ رضی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم انه قال ان الدین لیارز الی الحجاز کما  
تأرز الحیة الی حجرها و یعقلن الدین من الحجاب  
مقل الا رویة من راس الجبل ان الدین ابدء  
غربیا و سبغ و غربیا فطوبی للغرباء قیل و من  
الغرباء قال صلی اللہ علیہ وسلم الذین یصلحون  
ما افسد الناس من سنتی من بعدی وعن عکرمہ  
عن ابن عباس رضی قال لا یاتی علی الناس زمان  
الا ما تراه سنة و احیوا بدعة و عن الحارث  
عن علی ابن ابی طالب رضی قال ذکر رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم الفتن فقلنا ما المخرج منها یا  
رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ هو  
الذکر الحکیم و هو الصراط المستقیم هو الذی  
لا یلتبس به الالسن هو الذی لم تنته الجن اذا  
سمعتہ ان قالوا اناسمنا قرانا عجبا من قال به  
صدق و من حکم به عدل و عن عبد الرحمن  
بن عمر العرباض بن ساریة رضی قال صلی بنا رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات الصبر فوعظنا  
موعظة بلیغة ذرفت منها العیون و وجلت  
منها القلوب و رمضت منها الجلود فقلنا یا  
رسول اللہ کانتها موعظة مودع فقال صلی اللہ  
علیہ وسلم اوصیکم بتقوی اللہ و السمع و الطاعة

ابن عرف رضی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  
فرمایا: دین حجاز میں اس طرح گھس جائے گا جس طرح سانپ  
اپنے بل میں گھس جاتا ہے۔ اور دیکھو دین حجاز میں اس طرح پناہ  
پکڑے گا جیسے بکری پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پناہ پکڑتی ہے۔ دین کا  
آغاز بکری کی حالت میں ہوا اور اخیر میں بھی بکری ہو جائے گا لہذا غرباء  
کو مبارک ہو، پوچھا گیا، غرباء کون ہیں؟ فرمایا: میرے بعد لوگوں نے  
میری جن سنتوں کو بگاڑ دیا ہے غرباء ان کی اصلاح کرنے والے  
مسلمان ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے  
فرمایا: لوگوں پر جو زمانہ بھی آئے گا اسی میں وہ سنتوں کو ختم کر کے  
بدعتوں کو رواج دیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک  
دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگاموں کا ذکر کیا، ہم نے  
کہا: یا رسول اللہ! ان سے محفوظ رہنے کی کیا صورت ہے؟  
فرمایا: اللہ کی کتاب ہے یہی حکمت والا ذکر ہے (جس پر عمل  
کر کے دین و دنیا کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں) اور  
یہ سیدھی راہ ہے، یہی وہ ہے جس کی موجودگی میں گمراہ کرنے  
والوں کی دال نہیں گنتی یہی وہ ہے جب جنوں نے اسے سنا تو  
انہیں یہی کہتے بن پڑا کہ ہم نے آج ایک حیرت انگیز قرآن سنا ہے جو  
اس کی روشنی میں بات کرتا ہے سچ کہتا ہے اور جو اس سے فیصلہ کرتا  
ہے انصاف کا دامن پکڑ لیتا ہے، حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے  
ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھانی پھر آپ نے  
ایک موثر وعظ فرمایا جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے  
اور دل کانپ اٹھے اور بدن کا رنگ گھٹا کھڑا ہو گیا، ہم نے کہا  
یا رسول اللہ! اگر یہ وعظ رخصت کرنے والے کا سا ہے فرمایا: میں  
تمہیں اللہ کے تقویٰ کی اور امام کی باتیں سن کر اس کی اطاعت کی  
نصیحت کرتا ہوں اگرچہ وہ حبشی غلام ہو دیکھو میرے بعد جو زندہ



وان كان عبد اجنسيا فانه من يعيش من لعدي  
يرى اخلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء  
الراشدين من لعدي تسكوا بها وعصوا عليها  
بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل  
محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وعن ابى هريرة  
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايباد ايم  
دعني الى الهدى فاتبع قلبه مثل اجر من اتبعه لا  
ينقص من اجرهم شئ وايباد ايم دعني الى الضلالة  
فاتبع فعليه مثل اوزار من اتبعه لا ينقص من  
وزارهم شئ۔

**فصل** فاصل ثلاث وسبعين فرقة عشرة  
اهل السنة والخارج والشيعة والمعتزلة و  
المرجبية والمشبهة والجهمية والضرارية  
والنجارية والكلابية فاهل السنة طائفة  
واحدة والخارج خمس عشرة فرقة والمعتزلة  
ست فرقة والمرجبية اثني عشر فرقة والشيعة  
اثنا وثلثون فرقة والجهمية والنجارية والضرارية  
والكلابية كل واحدة فرقة واحدة والمشبهة  
ثلاث فرقة فجميع ذلك ثلاث وسبعون فرقة على  
ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واما الفرقة  
الناجبية فهي اهل السنة والجماعة وقد بينا  
مذهبهم واعتقادهم على ما قدمنا ذكره  
وتسمى هذه الفرقة الناجبية القدريية والمعتزلة  
مجبرة لقولها ان جميع المخلوقات بمشيئة الله  
تعالى وقد رتبهم وارادتهم وخلقهم وتسميها المرجبية

رہے گا وہ بہت کچھ اختلافات دیکھے گا لہذا تم میرے بعد میری سنت  
کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کر لینا اسے مضبوط نظام لینا اور کھلیوں  
سے پکڑے رہنا اور نئے کاموں سے اپنے کو بچائے رکھنا کیونکہ ہر  
نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان  
بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس بلا نے والے نے لوگوں  
کو ہدایت کی طرف بلایا اور اس کی بات مان لی گئی تو اس کے لئے اتنا  
ہی ثواب ہے جتنا ثواب اس پر عمل کرنے والوں کے لئے ہے عمل کرنے  
والوں کے اجر نہیں گھٹائے جائیں گے اور جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف  
بلایا اور اس کی پیروی کی گئی تو اس پر پیروی کرنے والوں کے وبال کی برابر  
وبال ہے پیروی کرنے والوں کے عذاب ہیں کسی نہیں کی جائے گی۔

**تتمت فرقوں کی تفصیل** | تتمت فرقوں میں بنیادی فرقے دس ہیں،  
اہل سنت، خارج، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبہ، جہمیہ، ضراریہ، نجاریہ  
اور کلابیہ۔ اہل سنت کا ایک ہی فرقہ ہے، خارجوں کے پندرہ فرقے ہیں  
معتزلہ کے ۶ فرقے ہیں، مرجیہ کے ۱۲ فرقے ہیں، شیعہ کے ۳۶ فرقے ہیں  
جہمیہ کا ایک فرقہ ہے، نجاریہ کا ایک فرقہ ہے، ضراریہ کا ایک فرقہ ہے،  
کلابیہ کا ایک فرقہ ہے اور مشبہ کے تین فرقے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کل فرقے ۳۷ ہیں اور نجات پانے والا فرقہ اہل سنت  
والجماعت کا ہے۔ ہم ان کا مذہب اور ان کے عقائد اور پر بیان کر آئے ہیں  
قدریہ اور معتزلہ فرقہ، ناجیہ کو مجبرہ کہتے ہیں کیونکہ اس فرقہ کا یہ  
عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ کی مشیت و قدرت اور ارادہ خلق کے  
کے ساتھ ہے اور مرجیہ اسے شاکیتہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایمان میں استثناء  
کرتے ہیں اور کہتے ہیں انشاء اللہ ہم مومن ہیں جیسا کہ ہم اوپر روشنی ڈال  
آئے ہیں اور رافضی اسے ناصبیتہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فرقہ امام و خلیفہ کو  
جمہور کی رائے سے قائم و مقرر کرتا ہے اور جہمیہ اور نجاریہ اسے مشبہ  
کہتے ہیں کیونکہ یہ باری تعالیٰ کی صفات و علم، قدرت اور حیوۃ وغیرہ

کا قائل ہے اور باطنیہ اسے حشریہ کہتے ہیں کیونکہ احادیث و آثار پر عمل پیرا ہے حالانکہ ان کا نام بجز اصحاب حدیث اور اہل سنت کے کچھ بھی نہیں۔

خارجیوں کے کچھ نام ہیں انہیں خادجی تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور ان کے دشمن بن گئے انہیں تکمیتہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے جو دو بیچ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہم کو مقرر کئے تھے خارجیوں نے انہیں نہیں مانا اور اس لئے بھی کہ جب ان دو بیچوں نے فیصلہ کیا تو انہوں نے ان کا فیصلہ ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ حکم اللہ ہی کا ہے، انہیں ضرورتاً یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مقام حروراء میں مقیم تھے اور شراۃ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا زعم تھا کہ ہم نے اپنی جائیں اللہ کی راہ میں ثواب و رضا کے لئے فرخت کر ڈالی ہیں اور شراۃ، شاری کی جمع ہے جس کے معنی سچینے والے کے ہیں اور انہیں مارۃ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے صاف نکل جاتا ہے اور پھر دین میں داخل نہیں آئیں گے لہذا یہ وہ فرقہ ہے جو دین و اسلام سے قطعاً خارج ہے اور ملت و جماعت سے ہٹا ہوا اور بھگا ہوا ہے اور ہدایت و صیغہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور امام و امت سے منحرف ہے اور ائمہ پر تلواریں سونت رہا ہے اور ان کے نفسوں اور مالوں کو حلال سمجھتا ہے یہ لوگ اپنے مخالفین کو کافر کہتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ کے خسران کو برا کہتے ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ان پر کفر کا اور بڑے بڑے گناہوں کا الزام لگاتے ہیں اور ان کے خلاف کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں، ان کا ایمان عذاب قبر پر نہیں اور نہ جہنم پر ہے اور نہ کسی کو جہنم سے نکالے گا۔

شکایۃ لا تستثنائہا فی الایمان یقول احدہما ان مؤمن ان شاء اللہ تعالیٰ علی ما قدمنا بیانہ و تسمیہا الرافضۃ ناصبیۃ لقلوبہا باختیار الامام و نصبہ بالعقد و تسمیہا الجہمیۃ و النجاریۃ مشبہۃ لاثباتہا صفات الباری عزوجل من العلم و القدرۃ و الحیوۃ و غیرہا من الصفات و تسمیہا الباطنیۃ حشریۃ لقلوبہا بالآخبار و تعلقہا بالآثار و ما اسسہم الا طلب الحدیث و اهل السنۃ علی ما بینا و اما الخوارج فلہم اسامی و القاب سوا الخوارج الخ و جہم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ و سوا حکمیۃ لانکارہم المحکمین اباموسى اشعری و عمرو بن العاص و لقلوبہم لا حکم الا للہ لہما حکم المحکمین و سوا الیفر حروریۃ لانہم نزلوا بحروراء و ہو موضع و سوا شراۃ لقلوبہم شربنا النفسا فی اللہ ای بعنا ہا بثواب اللہ و رضا و سوا مارۃ لمروقہم من الدین وقد وصفہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بانہم یرقون من الدین کما یرق السہم من الرمیۃ ثم لا یعودون فیہ فہم الذین مرقوا من الدین و الاسلام و قارقوا الملة و شرروا عنہا و عن الجماعۃ و ضلوا عن سوا الہدی و السبیل و خرجوا عن السلطان و سلوا السیف علی الائمۃ و استحلوا دماءہم و امر الہم و کفروا من خالفہم و یشتہون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الصادق



وَيَبْرُونَ مِنْهُمْ وَيُرْمُونَهم بِالْكَفْرِ وَالْعِظَامِ  
 وَيُرُونَ خَلْفَهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ لِعِزَابِ الْقَبْرِ وَلَا  
 وَلَا الْحَوْضِ وَلَا الشَّفَاعَةَ وَلَا يَخْرُجُونَ أَحَدًا مِنَ  
 النَّارِ وَيَقُولُونَ مَنْ كَذَّبَ كَذِبًا أَوْ اتَى صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً  
 مِنَ الذُّنُوبِ فَمَاتَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ فَهُوَ كَأَنَّ فِي  
 النَّارِ مَخْلُودٌ وَلَا يَبْرُونَ الْجَمَاعَةَ إِلَّا خَلْفَ أَمَامِهِمْ  
 وَيُرُونَ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا وَالصُّومِ قَبْلَ  
 رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَالنَّظَرَ وَالنِّكَاحَ  
 بِغَيْرِ رِوَالِي وَيُرُونَ الْمَتْعَةَ وَالِدْرَهْمَ بِالِدْرَهْمِينَ  
 يَدِ ابْنِ حَلَالٍ وَلَا يُرُونَ الصَّلَاةَ فِي الْخِطَابِ  
 وَلَا الْمَسْحَ عَلَيْهَا وَلَا طَاعَةَ السُّلْطَانِ وَلَا خِلَافَةَ  
 قُرَيْشٍ وَكَثْرًا مِمَّا يَكُونُ الْخَوَارِجُ بِالْجَزِيرَةِ وَعُمَانَ  
 وَالْمَوْصِلَ وَحَضْرَمَوْتَ وَنَوَاحِيَ الْعَرَبِ وَالَّذِي  
 وَضَعَهُ لَهُمُ الْكِتَابَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ  
 بْنُ حَرْبٍ وَبِحَبِيبِ بْنِ كَامِلٍ وَسَعِيدِ بْنِ هَارُونَ  
 فَهَمَّ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرَقَةً فَهَمَّ النُّجْدَاتُ لِنَسَبِهَا إِلَى  
 نَجْدَةَ بْنِ حَامِرِ الْخَنْفِيِّ مِنَ الْيَمَامَةِ وَهَمَّ أَحْمَدُ  
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاصِرٍ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مِنْ كَذِبِ كَذِبَةٍ  
 أَوْ اتَى صَغِيرَةً وَأَصْرَ عَلَيْهَا فَهُوَ مُشْرِكٌ وَأَنَّ  
 زَنَى وَسَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصْرَ  
 عَلَيْهَا فَهُوَ مُسْلِمٌ وَأَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ إِلَى أَمَامٍ  
 إِنَّمَا الرَّاجِبُ الْعِلْمَ بِكِتَابِ اللَّهِ نَجَبٌ وَ  
 مِنْهُمْ الْأَزْرَقَةُ وَهَمَّ أَحْمَدُ بْنُ نَافِعِ بْنِ  
 الْأَزْرَقِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ كُلَّ كَبِيرَةٍ كَفْرٌ وَ  
 أَنَّ الدَّارَ دَارَ كُفْرٍ وَأَنَّ أَبَا مَرْسِيٍّ وَعَسْرُ بْنُ

جانے کے قائل ہیں ان کا زعم ہے کہ جس نے صرف ایک بار جھوٹ  
 بولا یا چھوٹا یا بڑا گناہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا وہ کافر اور دائمی  
 جہنمی ہے ان کے زعم میں نماز اپنی جماعت کے امام ہی کے پیچھے  
 ہوتی ہے اور کہتے ہیں اذقات نماز میں تاخیر جائز ہے اور ہلال دیکھنے  
 سے قبل روزہ جائز ہے اور عید کا چاند دیکھنے سے پہلے عید منانی روزہ  
 ہے اور اجنبی عورت کو دیکھنا اور بلا دلی کے نکاح کرنا جائز ہے  
 متعہ کو اور ایک درہم کے عوض دو درہم لینے کو حلال سمجھتے ہیں  
 بشرطیکہ نقد نقد ہوں کہتے ہیں موزوں میں نماز اور ان پر مسخ ناجائز  
 ہے ان کے زعم میں امام وقت کی اطاعت نہیں اور یہ نہیں مانتے کہ  
 خلافت قریش ہی میں ہے اکثر خارجی جزیرہ عمان، موصل، حضرموت  
 اور عرب کے نواحی میں رہائش پذیر ہیں اور ان کے عقائد کی کتابیں  
 تصنیف کرنے والے عبداللہ بن زید، محمد بن حرب، یحییٰ بن کامل اور  
 سعید بن ہارون ہیں۔

خارجیوں کے پندرہ فرقے ہیں۔ نجدات یہ فرقہ نجدہ بن حامر  
 حنفی پیامی کی طرف منسوب ہے نجدات عبداللہ بن ناصر کے شاگرد  
 ہیں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے ایک بار جھوٹ بولا یا کوئی  
 چھوٹا گناہ کیا اور اس پر اڑا رہا اور اسے چھوڑا نہیں تو وہ مشرک  
 ہے اور اگر زنا کیا یا چوری کی یا شراب پی اور ان پر اڑا نہیں تو وہ  
 مسلمان ہے ان کا زعم ہے کہ مسلمانوں کو امام کی ضرورت نہیں  
 واجب صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس کا علم ہے دوسرے فرقے  
 ازرقہ کہلاتا ہے یہ نافع بن ازرق کہ ماننے والے ہیں، ان کا خیال  
 ہے کہ ہر کبیرہ گناہ کفر ہے اور یہ دنیا دار الکفر (کفر کا گھر) ہے اور  
 جب علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اور حضرت معاویہ کے سلسلہ میں حضرت ابو موسیٰ  
 اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ دونوں غور  
 کریں کہ عوام کے لئے کس بات میں بہتری ہے اور کس کو خلیفہ چننا

العاص کفرا باللہ حین حکمہما علی رض بینہ و  
 بین معاویۃ رض فی النظر فی الاصل المرعیۃ و  
 یرون ایضا قتل الاطفال یعنی اولاد المشرکین و  
 یجرمون الرجم ولا یجدون قاذف المحصین  
 و یجدون قاذف المحصنات و منهم الفرزکیۃ  
 منسربۃ الی ابن فرنک و منهم العطویۃ منسربۃ  
 الی العظیۃ بن الاسود و منهم العجاردۃ منسربۃ  
 لعبد الرحمن بن عجرد و ہم فریق کثیرۃ و ہم  
 البیرونیۃ جمیعاً یجزون بنات البنین و بنات  
 البنات و بنات الاخوة و بنات الاخوات و یقولون  
 ان سورۃ یوسف لیست من القران و منهم  
 الحازمیۃ تفردت بان الولاية و العدا و لا  
 صفتان فی ذاته تعالی و تشعبت من الحازمیۃ  
 العلمیۃ فذهب الی ان من لم یعلم اللہ باسماً  
 فهو جاهل و لقوا ان تكون الافعال خلقاً للہ تعالی  
 و ان یکن الاستطاعة مع الفعل و من اصل  
 الخمس عشرۃ المجهولیۃ و ہی تقول ان من  
 علم اللہ ببعض اسمائہ فهو عالم بہ غیر  
 جاهل و منهم الصلتیۃ و ہی منسربۃ الی  
 عثمان بن الصلت و ادعت ان من استجاب  
 لنا و اسلم و له طفل فلیس له اسلام حتی یدرک  
 و ندعوه فیتقبلہ و منهم الاخنسیۃ منسربۃ  
 الی رجل یقال له الاخنس فذهبوا الی ان  
 السید یاخذ من زکوٰۃ عبدک و یعطیہ من  
 زکوٰتہ اذا احتاج و افتقر و منهم الظفریۃ

جائے) تو ابو موسیٰ رضا اور عمر بن العاص رض کافر ہو گئے اور ان کے  
 زعم میں مشرکوں کے بچوں کا قتل کرنا جائز ہے اور رجم کرنا حرام ہے  
 اور یہ بری اور معصوم حضرات پر الزام لگانے والے پر تہمت کی حد جا کر  
 نہیں کرتے ہاں خواتین پر الزام لگانے والوں کے کوڑے مارتے ہیں۔  
 تیسرا فرقہ فرکیہ ہے جو ابن فرنک کی طرف منسوب ہے جو تھا فرقہ  
 عطویہ ہے جو عطیہ بن اسود کی طرف منسوب ہے۔ پانچواں فرقہ  
 عجارڈہ کہلاتا ہے جو عبدالرحمان بن عجزڈہ کی طرف منسوب ہے ان میں  
 ذیلی بہت سے فرقے ہیں اور سب میمونہ میں اور لڑکیوں لڑائیوں  
 بھتیجیوں اور بھانجیوں کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں سورہ یوسف  
 قرآن کی سورت نہیں ہے اور انہیں میں ایک فرقہ حازمیہ ہے یہ  
 اس مسئلہ میں منفرد ہیں کہ دستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کی ذاتی منتزعات  
 ہیں اور حازمیہ میں ایک فرقہ معلومیہ کہلاتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے  
 اسماء سے اللہ کو نہ جانے وہ جاہل ہے مومن نہیں اور جس نے اسے  
 اسمائے حسنی سے پہچان لیا وہ مومن ہے یہ بندوں کے افعال کو مخلوق  
 باری نہیں کہتے یعنی ان کا خیال ہے اللہ نہیں ہے اور اس کی بھی نفی کرتے  
 ہیں کہ نعل کی استطاعت فعل کے ساتھ ہو بلکہ اسے مقدم مانتے ہیں  
 چھٹا فرقہ مجہولیہ ہے ان کا زعم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس کے  
 بعض اسماء سے پہچان لے وہ اللہ کا علم رکھتا ہے اور مومن ہے  
 جاہل نہیں۔ ساتواں فرقہ صلتیہ ہے جو عثمان بن صلت کی طرف منسوب  
 ہے ان کے زعم میں نو مسلموں کے بچے مسلمان نہیں ہوتے جب تک وہ  
 بالغ نہ ہوں اور وہ ان کو اسلام کی دعوت نہ دیں پھر وہ اسلام کو  
 قبول نہ کر لیں، آٹھواں فرقہ اخنسیہ ہے جو اخنس کی طرف منسوب ہے  
 یہ کہتے ہیں مالک کے لئے اپنے غلام کی زکوٰۃ حلال ہے احتیاج و فقر  
 کے زمانہ میں غلام مالک کو زکوٰۃ دے سکتا ہے انواں فرقہ ظفریہ ہے  
 اور ظفریہ سے حنفیۃ فرقہ کہلاتا ہے اس کا زعم ہے کہ جس نے اللہ کی



والخفصیة طائفة منها متشعبة منها يزعمون  
ان من عرف الله وكفربا سواه من رسول و  
جنة و نار و فعل سائر الجنایات من قتل النفس  
واستحلال الزنا فهو بري من الشرك وانما  
يشرك من جعل الله وانكراه فحسب ويزعمون  
ان الحيران الذي ذكره الله تعالى في القران  
هو علي و حزبه و اصحابه يدعون الى الهدى  
اتنا وهم اهل النهر وان ومنهم الا يا ضیة  
زعموا ان جميع ما افترض الله تعالى على خلقه  
ايمان وان كل كبيرة فهو كفر نعمة لا كفر شرك  
ومتهم البهسية فهو منسوبة الى ابي بنهس  
تفردوا فزعموا ان الرجل لا يكون مسلما حتى  
يعلم جميع ما احل الله عليه و حرم عليه بعينه  
ونفسه و من البهسية من يقول كل من  
واقع ذنبا حراما عليه ليس بكفر حتى يرفع الى  
السلطان فيجده عليه ثم يمجس بالكفر و منهم  
الشواخية منسوبة الى عبد الله بن شواخ  
فزعموا ان قتل الابرين حلال و كان حين ادعى  
ذلك في دار التقية قنبرات منه الخوارج بذلك  
ومنهم البدعية قولها كقول الازارقة و  
تفردت بان الصلوة ركعتان بالغداة و ركعتان  
بالعشى لقول الله عز و جل اقم الصلوة طرفي  
النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهب  
السيات و اتفقت مع الازارقة على جواز  
سبا النساء و قتل الاطفال من الكفار و مقاتل

معرفت حاصل کر لی اور دیگر تمام باتیں نہیں مانتیں اور رسول کا اور  
جنت و جہنم کا انکار کیا اور تمام حرام کام کئے لوگوں کو قتل کیا اور  
زنا کو حلال سمجھا وہ شرک سے بری ہے بس مشرک وہی ہے جو اللہ کو  
نہ پہچانے اور اس کا منکر ہو اور حیران سے جس کا ذکر قرآن میں ہے  
حضرت علی رضا اور آپ کی جماعت ہے۔ آپ کے اصحاب آپ کو  
ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، وہ اہل نردوان  
ہیں۔ دسواں فرقہ ایاختیہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں  
اپنے بندوں پر فرض فرمائی ہیں وہ ایمان ہیں اور ہر سبب گناہ کفر  
نعمت (ناشکری) ہے شرک والا کفر نہیں، گیا رھواں فرقہ  
بنہسیتہ ہے جو ابو بنہس کی طرف منسوب ہے یہ اس میں منفرد ہیں  
کہ انسان مسلمان نہیں ہوتا جب تک یہ علم حاصل نہ کر لے کہ اللہ  
تعالیٰ نے مجھ پر کیا حلال فرمایا ہے اور کیا حرام فرمایا ہے اسکی  
اسی فرقہ میں سے ایک گروہ نکلا ہے جو یہ کہتا ہے اگر کسی نے کسی  
ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جو حرام ہے کفر نہیں تو وہ کافر نہیں ہوتا،  
جب تک اسے پکڑ کر حاکم کے پاس نہ لایا جائے اور وہ اس پر حد  
جاری نہ کرے اس وقت اس پر کفر کا حکم لگایا جا سکتا ہے بارہواں  
فرقہ شمر اخیثہ ہے جو عبد اللہ بن شمر کی طرف منسوب ہے اس کا زعم ہے  
کہ والدین کا قتل حلال ہے جب عبد اللہ نے یہ دعویٰ کیا تو وہ دار تقیہ میں  
نھا اس مسئلہ سے خارج اس سے بیزار ہو گئے تیرھواں فرقہ بدعیہ ہے یہ  
ازارقة کا ہم خیال ہے اور اس میں منفرد ہے کہ نماز صبح و شام دو رکعتیں  
ہیں یعنی دو وقت (عشاء اور فجر) کی نماز ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا  
دن کے دو کناروں میں نماز قائم کر دو اور رات کے حصوں میں بلاشبہ  
تینیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ اور ازارقة اس پر متفق ہیں کہ  
کافروں کی عورتوں کو قید کر لینا اور کافروں کے بچوں کو قتل  
کرنا روا ہے جب کہ وہ جنگ میں ہوں یا تھم آئے ہوں کیونکہ حق تعالیٰ

لَقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَذَر عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفْرِيِّينَ  
دِيَارًا وَاتَّفَقَتْ جَمِيعُ الْخَوَارِجِ عَلَى كُفْرِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ لِأَجْلِ التَّحْكِيمِ وَعَلَى كُفْرِ مَرْتَكَبِ  
الْكَبِيرَةِ إِلَّا النَّجْدَاتِ فَانْهَالَمَ لِوَأَقْلَهُمْ  
عَلَى ذَلِكَ -

**فصل** واما الشيعة فلهما اسامی منها  
الشيعة والرافضة ومنهم الغالية ومنهم  
الطيارة واما قيل لها الشيعة لانها شيعت عليا  
رضي الله عنه وفضلوه على سائر الصحابة وقيل لها  
الرافضة لرفضهم اكثر الصحابة وامامة ابي بكر  
وعمر رضي الله عنهما وقيل سوا الروافض لرفضهم  
زيد بن علي لما تولى ابا بكر وعمر رضي الله عنهما و  
قال بامامتهما وقال زيد رفضوني فسوا رافضة  
وقيل ان الشيعي من لا يفضل عثمان رضي الله  
عنهما والرافضي من فضل عليا علي عثمان رضي الله  
عنهما لقطعهم على موت موسى بن جعفر ومنهم  
الغالية لغلوهم في علي رضي الله عنه وقولهم فيه  
بما لا يليق من صفات الربوبية والنبوة والذين صنفا  
كتبهم هشام بن الحكم وعلي بن المنصور والبر  
الاحوص والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان  
والرعيني الوراق وابن الراوندي واكثر ما  
يكونون فيه ومن بلاد قم وقاشان وبلاد ادریس  
والكوفة -

**فصل** واما الرافضة فهم ثلاث اصناف  
الغالية والزيدية والرافضة اما الغالية

نے فرمایا حضرت نوح بدعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رٹے زمین پر  
لے لے والا کوئی کافر نہ چھوڑ۔ تمام خا رجیوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کفر پر  
اتفاق ہے کیونکہ آپ نے اللہ کو بیچ بنانے کے بجائے ابو موسیٰ اور عمر بن العاص  
کو بیچ مقرر فرمایا تھا معاذ اللہ، معاذ اللہ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ  
صاحب کبیرہ کافر ہے لیکن اس مسئلہ میں نجدات ان کے ہم خیال نہیں۔

**شیعوں کے نام** | شیعہ کو رافضی، غالیہ اور طیارہ بھی کہتے ہیں  
شیعہ کو شیعہ اسلئے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جانیں چھڑکتے ہیں اور  
انہیں تمام صحابہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ اور انہیں رافضی اس لئے کہا  
جاتا ہے کہ یہ اکثر صحابہ کرام کو چھوڑے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر و  
حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو نہیں مانتے یا اس لئے کہ انہوں نے زید بن علی کو  
چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے حضرت ابو بکر و عمر کو خلیفہ مانا اور ان کی امامت  
کے قائل ہوئے اور انہوں نے کہا خا رجیوں نے مجھے چھوڑ دیا اس کے بعد  
ان کا لقب رافضی ہی پڑ گیا۔

کہا جاتا ہے کہ شیعہ وہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت  
نہ دے اور رافضی وہ ہے جو علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ پر فضیلت دے چھوڑے  
فرقہ قطعیہ ہے کیونکہ یہ لوگ موسیٰ بن جعفر کی موت کے بعد شیعوں سے  
جدا ہو گئے تھے اور پندرہواں فرقہ غالیہ ہے یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ  
کی صفات میں غلو کرتا ہے اور صفات ربوبیت و نبوت سے انہیں  
منتصف قرار دیتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے لائق نہیں اس  
فرقہ کی کتابیں لکھنے والے ہشام بن حکم، علی بن منصور، ابوالاحوص  
حسین بن سعید، فضل بن شاذان، ابوالعباس دراق، اور ابن راوندی  
یہ فرقہ کثرت سے قم، قاشان، کوفہ اور بلاد ادریس میں  
رہائش پذیر ہیں۔

**رافضی** | رافضی تین فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں غالیہ، زید یہ اور  
رافضیہ، پھر غالیہ کے بارہ فرقے ہیں بیانیہ، طیاریہ، منصوریت



والزیدية والرافضة اما الغالية فيتفرق منها  
اثني عشرة فرقة منها البياضية والطيادية والمنصورية  
والغيرية والخطابية والمعبرية والبزيعية والمفضلية  
والمتناسخة والشرعية والسبائية والمفوضة و  
واما الزيدية لتشتت ست شعب منها الجارودية  
والسليمانية والتبرية والنعمية واليعقوبية و  
السادسة لا تنكر الرجعة وتبرون من ابي بكر  
وعمر رض واما الرافضة فتفرقت اربع عشر فرقة  
القطعية والكيسانية والكربية والمغيرية  
والمحمدية والحسينية والنادسية والاسماعيلية  
والقراضية والباركية والشميطية والعمارية  
والمحطورية والموسوية والامامية والذي  
اتفقت عليه طوائف الرافضة وفرقها اثبات  
الامامة عقلا وان الامامة نص وان الائمة  
معصومون من الافات من الغلط والسهو و  
الخطاء ومن ذلك انكارهم امامة المفضل  
والاختيار الذي قد منا في ذكر الائمة و  
من ذلك تفضيلهم عليا على جميع الصحابة  
وتنصيبهم على امامته بعد النبي صلى الله  
عليه وسلم وتبريهم من ابي بكر وعمر وغير  
هما من الصحابة الاقرانهم سوى ما حكى  
عن الزيدية فانهم خالفوهم في ذلك ومن  
ذلك ايضا دعاءهم ان الامة ارتدت  
بتركهم امامة علي رضا الائمة لقرههم علي  
وعمار والمقداد بن الاسود وسلمان الفارسي

غیرتہ، خطابیہ، معمریہ، بزلیعیہ، مفصلیہ، متناسخہ، شرعیہ،  
سبائیہ اور مفوضہ اور زیدیت کے چھ فرقے ہیں جارودیت، سلیمانیت،  
تبریت، نعیمیہ، یعقوبیت، اور چھٹا فرقہ دنیا میں لوٹنے کا منکر نہیں اور  
حضرت ابو بکر رض و عمر رض سے بیزار ہیں اور رافضہ کے چودہ فرقے  
ہیں قطعیہ، کیسانیت، کربیت، مغیرتہ، محمدیہ، حسینیت، نادسیہ،  
اسماعیلیہ، قراضیہ، مبارکیہ، شمیطیہ، عماریہ، محطوریہ، موسویہ،  
انامیہ۔ رافضیوں کی تمام جماعتیں اور تمام فرقے اس پر متفق ہیں کہ  
کہ امامت عقل و نص دونوں سے ثابت ہے اور امام تمام آفتوں  
(غلطی، سہو اور بھول چوک) سے محفوظ و معصوم ہیں اور اس پر بھی  
کہ اعلیٰ کی موجودگی میں ادنیٰ کی امامت نہیں مانی جائے گی جیسا کہ  
ہم اوپر ائمہ کے ذکر میں روشنی ڈال آئے ہیں اور اس پر بھی کہ  
حضرت علی رض تمام صحابہ سے افضل ہیں اور نبی صلعم کے بعد آپ  
کی امامت پر نبی صلعم سے نص لاتے ہیں اور زیدیت فرقہ کے علاوہ  
تمام رافضی ابو بکر و عمر اور تمام صحابہ سے بیزار ہیں بل بعض  
صحابہ کہہ مانتے ہیں اور ان کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت علی کی  
امامت کو ترک کر کے چھ اشخاص رض علی، عمار، مقداد بن اسود،  
سلمان فارسی اور دوسرے اشخاص کے علاوہ ساری امت  
مرد ہو گئی، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ خوف کے زمانہ میں تقیہ  
کے طور پر امام کہہ دے کہ میں امام نہیں اور وجود میں آنے سے پہلے  
اللہ تعالیٰ وجود میں آنے والی چیزوں کو نہیں جانتا اور قبل از  
حساب مردے دنیا میں لوٹ کر آئیں گے مگر فرقہ غالبہ حساب کتاب  
اور حسد و نشر کا منکر ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ امام ہیں  
و دنیا کے ماضی اور مستقبل کے تمام امور جانتا ہے حتیٰ کہ سگری  
کی بارش کے قطرات کی اور درختوں کے پتوں کی تعداد بھی اسے  
معلوم ہے اور انبیائے کرام کی طرح ائمہ سے بھی معجزے سرزد ہوتے ہیں

ورجلان آخران ومن ذلک قولہما ان الامام  
ان یقول لست بامام فی حال التقیة وان اللہ لا  
یعلم ما یکون قبل ان یکون وان الاموات یرجعون  
الی الدنیا قبل یوم الحساب الا الغالیة منهم فانہا  
زعمت بان لاحساب ولا حشر ومن ذلک ان الامام  
یعلم کل شیء ما کان وما یکون من امر الدنیا و  
الدین حتی عدد الحصى وقطر المطار وورق الثجاء  
وان الائمة تطہر علی ایدیہما المعجزات کالانبیاء  
علیہم السلام وقال اکثر من منهم ان من  
حارب علیا رضی اللہ عنہ کافر باللہ عزوجل واشیاء  
ذکر وھا غیر ذلک واما الذی الفردت فیہ عن  
کل فرقة فنتہم الغالیة وقد ادعت ان علیا  
افضل من الانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین  
وادعت انه لیس بمذفون فی التراب کبقیة الصحابة  
رضی اللہ تعالیٰ عنہم بل ہونی السحاب یقاتل  
اعدائہ تعالیٰ من فوق السحاب وانه کرم اللہ  
وجہہ یرجع فی اخر الزمان یقتل مبغضہ واعدائہ  
وان علیا و سائر الائمة لم یوتوا بل ہم باقون الی  
ان تقوم الساعة ولا یطرق علیہم الموت وادعت  
ایضا ان علیا رضی اللہ عنہ و ان جبرئیل علیہ السلام  
غلط فی نزول الوحی علیہ وادعت ایضا ان علیا  
کان الہا علیہم لعنہم اللہ و ملک کتہ رسائل  
خلقه الی یوم الدین وقلع آثارہم و ابا د خضراء  
ہم ولا جعل منہم فی الارض دیارا لانہم بالغوا  
فی غلوہم و مردوا علی الکفر و ترکوا الاسلام

ان میں سے اکثر کا قول ہے کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی  
وہ حق تعالیٰ سے جل مجدہ کا منکر ہوا اور کافر ہو گیا۔ علاوہ ازیں اور  
بھی ان کے مخصوص مسائل ہیں۔

ان میں فرقہ غالبہ تمام فرقوں سے علیحدہ ہے اس کا دعویٰ ہے کہ  
حضرت علی رضی اللہ عنہ انبیائے کرام سے بھی (معاذ اللہ، معاذ اللہ) افضل  
ہیں اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ دیگر صحابہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ  
میں مدفون نہیں بلکہ بادل میں تشریف فرما ہیں اور بادل کے  
اوپر سے اپنے دشمنوں سے لڑتے رہتے ہیں اور آخری زمانہ  
میں دنیا میں لوٹ کر آئیں گے اور اپنے مخالفین و اعداء کو تیغ  
فرمائیں گے۔

صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ بلکہ دیگر تمام ائمہ فوت نہیں ہوئے بلکہ سب  
قیامت تک زندہ رہیں گے ان پر موت کے لئے کوئی راہ نہیں ان  
کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور جبرئیل ان پر وحی لائے ہیں  
ان سے چوک گئے اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ (نعوذ باللہ) حضرت علی  
معبود ہیں۔ اللہ کے سے ان پر اللہ کی اس کے تمام فرشتوں کی اور  
اور اللہ کی تمام مخلوق کی قیامت تک لعنت برستی رہے حق تعالیٰ  
ان کے آثار کا استیصال کر دے اور ان کی بہار سلب فرما دے  
اور ان میں سے کوئی زمین پر لے لے والا نہ چھوڑے کیونکہ یہ غلو میں  
سے آگے بڑھ گئے، کفر پر اڑ گئے، اسلام چھوڑ بیٹھے، ایمان کو خیر  
باد کہہ دیا اور اللہ کا، اس کے رسولوں کا اور آسمان کی کتابوں کا  
انکار کر بیٹھے ان میں سے اللہ کی پناہ جو اس خرافات کے قائل  
ہیں۔

غالبہ فرقہ سے بنانیہ فرقہ نکلا ہے جو بنیان بن سمان کی طرف منسوب  
ہے ان کی کہو اس و زیلیات میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ  
شانہ (معاذ اللہ) انسانی شکل و صورت پر ہے بے ثمرم اللہ پر



وقادقوا الايمان وحجدا والاله والرسول والنزول  
 نعوذ بالله من ذهب الى هذه المقالة ويتفرع  
 من الغالية البنانية وهم ينسبون الى بنان بن  
 سعان ومن جملة فرقتهم وابطيلهم ان الله  
 على صورة الانسان كذبا على الله تعالى الله  
 عن ذلك علوا كبيرا قال عز وجل ليس كمثله  
 شئ وهو السميع البصير واما الطيارية من الغالية  
 وهي منسوبة الى عبد الله بن معاوية بن عبد الله  
 بن جعفر الطيار لقولون بالناسخ وان روح ادم  
 عليه السلام روح الله فنسخت فيه والمتعمقون  
 من الغالية القائلون بالناسخ يزعمون ان الروح  
 المنقولة الى هذه الدار لجد ان خرجت من الدنيا  
 بالموت اول ما يتسخ في حمل ثم انتقل الى ما  
 دون هيكله ابد احوالا لجد حال الى ان تنقل  
 الى دور العذرة وما شاكل ذلك وهو اخر  
 ما يتسخ فيه حتى قال بعضهم ان ارواح العصاة  
 تنسخ في الحديد والطين والفخار وتكون معدبة  
 بالتار والطين والضرث والسبك والابتذال  
 والامتهان عقابا على اجرامهم واما المغيرية  
 فنسوبة الى مغيرة بن سعد ادعى النبوة وزعم  
 ان الله نور على صورة رجل وادعى احياء الموتى  
 وغير ذلك واما المنصورية فنسوبة الى  
 ابي منصور كان يزعم انه سعد الى السماء و  
 مسح الرب رأسه وزعم ان عيسى اول خلق الله  
 ثم على رضى الله عنه ورسول الله لا يقطع وان

جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان کی بگو اس سے بلند وبالا ہے اور اس کی شان  
 بے مثل والے ہے خود اس نے فرمایا کہ اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے  
 وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔

فرقہ طیاریتہ بھی غالبہ ہی کی ایک شاخ ہے یہ عبد اللہ بن معاویہ  
 بن عبد اللہ بن جعفر طیار کی طرف منسوب ہے یہ لوگ تناسخ کے قائل  
 ہیں کہتے ہیں حضرت آدم کی روح اللہ کی روح ہے جو منتقل ہو کر  
 آدم میں آگئی اور کٹر غالبہ جو تناسخ کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ دنیا میں  
 آنے والی روح موت سے دنیا سے نکل کر سب سے پہلے بکری کے بچہ  
 میں جاتی ہے پھر اس سے نکل کر ادنیٰ قالب میں جاتی ہے اسی طرح  
 منتقل ہوتے ہوتے گندگی کے کپڑوں میں اور ان کے مشابہ کپڑوں میں  
 چلی جاتی ہے۔ یہ روح کا سب سے پچھلا جون (قالب) ہے حتیٰ کہ  
 بعض کا کہنا ہے کہ نافرمانوں کی روحیں لہے، کچھڑ اور ٹھیکریوں میں  
 منتقل ہوتی ہیں اور ان شکلوں میں آگ کے عذاب میں مبتلا رہتی ہیں  
 لہذا آگ میں گرم کر کے کوٹا جاتا ہے، مٹی کے برتنوں کو آگ میں رکھ  
 کر کھانا پکا یا جاتا ہے دیگر دھاتوں کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے اور ان  
 تمام چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور کچھڑ کی حقارت سب کو معلوم  
 ہے غرضیکہ روحیں اس طرح اپنے گناہوں کی سزا پاتی ہیں (ہندو  
 بھی تناسخ کے قائل ہیں پھر ان میں اور ہندوؤں میں کیا فرق رہا؟)  
 مغیریہ، مغیرہ بن سعد کی طرف منسوب ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ  
 کیا تھا کہتا تھا اللہ انسانی شکل میں نور ہے اس کا دعویٰ تھا کہ میں  
 مرد سے زندہ کر دینے پر قادر ہوں اور اسی قسم کی بگو اس کا کہتا تھا  
 منصوریتہ، ابو منصور کی طرف منسوب ہیں اس کا زعم تھا کہ میں آسمانوں  
 پر چڑھ کر رب کے پاس پہنچا اللہ نے میرے سر پر تاج بھرا۔ کہتا  
 کہ حضرت عیسیٰ سب سے پہلی مخلوق ہیں اور دوسرے درجہ پر حضرت  
 علی ہیں، انبیاء کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور نہ جنت کا وجود ہے اور نہ

لاجنة ولا نار وترجم هذا الطائفة ان من قتل  
 اربعين نفسا من خالفهم دخل الجنة وليتخلون  
 اموال الناس وان جبرءيل عليه السلام اخطا  
 بالرسالة وهو الكفر الذي لا يشوبه شيء واما  
 الخطابية فنسوبة الى الخطاب يزعمون ان  
 الائمة انبياء اماناء وفي كل وقت رسول  
 ناطق وصامت محمد ناطق وعلي صامت واما  
 المعمرية فكذلك تقول فانفردت عن الخطابية  
 بالزيادة في ترك الصلوة واما البريعية المنسوبة  
 الى بزيع زعموا ان جعفر هو الله فلا يرى ولكن  
 شبه هذه الصورة تبالهم وانهم ياتيهم  
 الرحي ويرفعون الى الملكوت تبالهم ما اعظم  
 فرينتهم وكذبهم وابطالهم بل يحطون الى  
 اسفل السافلين الى الهاوية والدرك الاسفل  
 من النار بقالتهم سوء ودعواهم الزور  
 اما المفضلية فنسوبة الى المفضل الصيرفي  
 يتخلون الرسالة والنبوة وقولهم في الائمة  
 كقول التمازي في المسيح واما الشرعية فنسوبة  
 الى شريح زعموا ان الله تعالى في خمسة اشخاص  
 النبي واله يعني في النبي واله وهم العباس وعلي  
 وجعفر وعقيل واما السبائية فنسوبة الى عبد  
 بن سبأ من دعواهم ان عليا لم يموت وانه يرجع  
 قبل يوم القيامة والسيد الحميري منهم واما  
 المفوضية فهما القائلون ان الله فرض تدبير  
 الخلق الى الائمة وان الله تعالى قد اقدر النبي

جہنم کا، اگر ہمارا کوئی آدمی اپنے چالیس مخالف قتل کر دے وہ جنتی ہے  
 لوگوں کے مالوں کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں رسالت کے بارے میں  
 جبرئیل چوک گئے، یہ کلمہ خالص کفر ہے۔

خطابیتہ، خطاب کی طرف منسوب ہیں یہ لوگ ائمہ کو امین و انبیاء  
 سمجھتے ہیں کہتے ہیں ہر زمانہ میں دو قسم کے رسول رہنے والے رسول  
 اور خاموش رسول، ہوتے ہیں محمد صلعم ناطق رسول ہیں اور علی رضی  
 خاموش رسول ہیں۔

معمریہ بھی خطابیتہ کا ہم خیال ہے لیکن ترک نماز کی وجہ سے اس سے علیحدہ ہے  
 بزعیۃ، بزعیج کی طرف منسوب ہے یہ جعفر کو اللہ مانتے ہیں کہتے ہیں

اللہ مشاہدہ میں نہیں آتا مگر شکل و صورت ایسی ہی رکھتا ہے (اللہ  
 انہیں خارت کر سے) کہتے ہیں ہمارے پاس وحی آتی ہے اور ہم فرشتوں  
 کے پاس عالم نکوت میں چلے جاتے ہیں اللہ انہیں بر با ذکر سے کنا بڑا  
 بہتان اور جھوٹ ہے اور کیسی بڑی بڑی زطلیات ہیں بلکہ یہ اپنی بہتر

باتوں کی اور کذب دروغ گوئی کی وجہ سے کہہ کر اسفل السافلین میں  
 ڈوبیں جائیں گے اور جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جہنم رسید  
 ہوں گے (اعاذنا اللہ من جہنم) مفضلیۃ، مفضل صرف کی طرف

منسوب ہیں یہ رسالت و نبوت کو حلال سمجھتے ہیں یعنی ان کا زعم ہے کہ ہم  
 بھی رسول اور نبی بن سکتے ہیں اور جبرئیل کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں یعنی  
 وہی ائمہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ شریعیۃ، شریح کی طرف منسوب

ان کا زعم ہے کہ اللہ مندرجہ ذیل پانچ اشخاص میں اترا ہے یعنی نبی میں  
 اور آل نبی (عباس، علی، جعفر، عقیل) میں۔ سبائیۃ، عبد الرحمن  
 بن سبأ کی طرف منسوب ہے ان کا قول ہے کہ حضرت علی رضی عنہ فوت نہیں

ہوئے اور قیامت سے قبل تشریف لائیں گے سید حمیری اس فرقہ کے  
 مفوضیۃ فرقہ کا زعم ہے کہ حق تعالیٰ تانہ نے مخلوق کی تدبیر ائمہ کے  
 حوالہ کر دی ہے اور حق تعالیٰ نے نبی اکرم صلعم کو عالم کے پیدا کرنے پر



صلى الله عليه وسلم على خلق العالم وتدبيره وان  
كان ما خلق الله من ذلك شيئا وكذا قالوا في  
حق علي رضي ومنهم من اذا راى السحاب سلم عليه  
بزعمان عليا رضي فيه على ما بينا من قبل واما  
الزيدية فانها سوا ابدالك لميلهم الى قول  
زيد بن علي في تولية ابي بكر وعمر رضي واما الجارية  
فنسوبة الى ابي جارد زعموا ان عليا وصي رسول الله  
صلى الله عليه وسلم وهو الامام وقالوا ان النبي  
صلى الله عليه وسلم نص عليا بصفتهم لا باسمه  
وليسوقن الامامة الى الحسين ثم هي شوري بينهم  
فبين خرج متهم واما السليمانية فنسوبة الى  
سليمان بن كثير قال زرقان زعموا ان عليا  
كرم الله وجهه كان الامام وان بيعة ابي بكر  
وعمر خطأ لا يستحقان اسم السبق وان الامامة  
تركت الاصل واما البترية فنسوبة الى  
الابتر وهو النواء وكان يلقب به وزعموا  
ان بيعة ابي بكر وعمر ليست بخطا لان عليا  
ترك الامارة وهم واقفون في عثمان ويقولون  
علي امام حين لوليع واما النعيمية فنسوبة  
الى نعيم بن اليسان وهي تقول بقول البترية  
الا انها تبرات من عثمان بن عفان رضي عنه  
وكفرت به واما يعقوبية فيقولون بابي  
بكر وعمر رضي وينكرون الرجعة فهي تسب  
الى رجل يقال له يعقوب ومنهم من تبرامن  
ابي بكر وعمر رضي ويقول بالرجعة -

اور اس کے انتظام پر قدرت عطا فرمائی تھی اور کائنات میں کوئی چیز  
اللہ کی پیدا کی ہوئی نہیں ایسی بات حضرت علی رضی کے بارے میں کہتے  
ہیں کہ مخلوق کی تدبیر ان کے حوالہ کر دی گئی ہے ان میں سے بعض لوگ  
ابو بکر و دیگر کو اسے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں حضرت علی رضی نہیں  
جیسا کہ ہم اور پر بیان کر آئے ہیں۔ زید یہ کہ زید یہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ  
ان کا میلان زید بن علی کے اس قول کی طرف ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی  
کی خلافت برحق ہے۔ جاردیہ، ابو جارد کی طرف منسوب ہیں ان  
کا زعم ہے کہ حضرت علی رضی صلعم کے وصی اور برحق امام ہیں ان کا  
قول ہے کہ نبی صلعم نے حضرت علی رضی پر ان کی صفات کے ذریعہ اطلاق  
دی ہے نام سے نہیں۔ اور امامت امام حسین پر آ کر ختم ہو جاتی ہے  
باسمی مشورے سے امام چنا جاتا ہے۔

سليمانیہ، سليمان بن كثير کی طرف منسوب ہیں۔

زرقان :- ان کا زعم ہے کہ حضرت علی رضی اصلی امام تھے اور حضرت  
ابو بکر و عمر رضی سے بیعت غلطی پر مبنی تھی اور وہ امامت پر حضرت علی رضی  
سے پہلے بیعت کا استحقاق نہیں رکھتے تھے لیکن امت نے حقدار کو چھوڑ  
دیا اور جو حقدار نہ تھے ان سے بیعت کر لی۔ بتریہ، ابتر نواء کی طرف  
منسوب ہیں نواء کا ابتر لقب تھا ان کا زعم ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر کی  
بیعت غلطی نہیں کیوں کہ حضرت علی رضی نے امارت چھوڑ کر خود ان سے بیعت  
کی یہ لوگ حضرت عثمان رضی کی امامت میں توقف کرتے ہیں کہتے ہیں  
جب حضرت علی رضی سے بیعت کی گئی تو وہ امام ہو گئے۔ نعیمیہ، نعيم  
بن اليسان کی طرف منسوب ہے یہ لوگ فرقة البتریہ کے ہم خیال ہیں مگر  
حضرت عثمان سے بیزار ہیں اور انہیں کافر کہتے ہیں۔ یعقوبیہ، حضرت  
ابو بکر و عمر کی خلافت کے قائل ہیں اور دنیا میں دوبارہ آنے کے منکر ہیں  
یہ یعقوب کی طرف منسوب ہیں ان میں بعض حضرت ابو بکر و عمر رضی سے  
بیزار ہیں اور دنیا میں دوبارہ آنے کے قائل ہیں۔

**فصل** واما الرافضة فالاربعة عشر فرقة  
التي تفرعت عنها فاولها القطعية سبوا بن لك  
لقطعهم على موت موسى ابن جعفر ساقوا الامامة  
الى محمد بن الحنفية وهو القائم المنتظر والثانية  
الكيسانية وهي منسوبة الى الكيسان ليقولون  
بامامة محمد بن الحنفية لانه دفع اليه الراية  
بالبصرة والثالثة الكريسية وهما اصحاب بن  
كريب الضري والرابعة المغيرية وهما اصحاب  
المغيرة وهما امامهم الى خروج المهدي والخامسة  
المعدنية وقد زعمت ان القائم محمد بن  
عبد الله بن الحسن بن الحسين وانه اوصى الى ابي  
منصور دون بني هاشم كما اوصى موسى عليه  
السلام الى يوشع بن نون وولد له وولد هارون  
واما السادسة فالحسينية زعمت ان ابا منصور  
اوصى الى ولد الحسين بن منصور وهو الامام  
بعده واما النواسية لقبابه لانهم نسبوا الى  
ناوس البصرى الذي هو رئيسهم ويقولون بامامة  
جعفر وانه حتى لا يبت بعد وانه قائم وهو المهدي  
واما السماعيلية فقد قالوا ان جعفر ميت  
والامام بعدة اسماعيل وقالوا انه يملك  
وهو المنتظر واما القرامضية فهم يسوقون  
الامامة الى جعفر وان جعفر انص على دراية  
محمد بن اسماعيل ومحمد لم يمت وهو حي  
وهو المهدي واما المباركية فمنسوبة الى  
رئيسهم المبارك زعموا ان محمد بن اسماعيل

### رافضیوں کے اقسام

رافضیوں سے چودہ فرقے نکلے۔

قطعیہ انہیں قطعیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ بن جعفر کی موت

پر یقین رکھتے ہیں اور امامت کا سلسلہ محمد بن حنفیہ تک لے جاتے ہیں

اور انہیں قائم اور امام منتظر سمجھتے ہیں۔ کیسانیت یہ کیسان کی طرف

منسوب ہیں اور محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں کیونکہ انہیں بصرہ میں

جھنڈا دیا گیا تھا۔ کریسیہ یہ ابن کریب نابینا کے معتقد ہیں۔ مغیریہ

یہ مغیرہ کے معتقد ہیں اور ہمدی کے آنے تک مغیرہ ہی کو امام مانتے

ہیں، محمدیہ ان کا گمان ہے کہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسین امامت

کے مستحق ہیں اور انہوں نے بنو ہاشم کو چھوڑ کر امامت کی وصیت

ابو منصور کے لئے کی جیسے حضرت موسیٰ نے اپنی اولاد کو اور حضرت

ہارون کی اولاد کو چھوڑ کر یوشع بن نون کو خلافت کی وصیت کی۔

حسینیہ ان کا گمان ہے کہ ابو منصور نے اپنے بیٹے حسین بن منصور کو

وصیت کی اس لئے ان کے بعد خلافت کے وہ حقدار ہیں۔ نواسیہ

یہ فرقہ نواس بصری کی طرف منسوب ہے جو ان کا سب سے بڑا

یہ لوگ جعفر کی امامت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اب

تک فوت نہیں ہوئے اور آخر زمانے میں وہی ہمدی ہو کر برآمد

ہوں گے۔ اسماعیلیہ فرقہ کہتا ہے کہ جعفر فوت ہو گئے اور ان کے بعد

امام اسماعیل ہیں اور وہی ملک کے مالک اور ہمدی موعود ہیں۔

قرامضیہ جعفر تک امامت کا سلسلہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام

جعفر نے صراحت سے فرمایا ہے کہ محمد بن اسماعیل امام ہوں گے

اور محمد زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے اور وہی ہمدی موعود ہیں۔

مبارکیہ یہ اپنے رئیس مبارک کی طرف منسوب ہیں ان کا زعم ہے کہ

محمد بن اسماعیل فوت ہو گئے اور آپ کی اولاد میں امامت باقی ہے

شمیطیہ اپنے سردار شیخ بن شمیط کی طرف منسوب ہیں ان کا زعم ہے

کہ امام جعفر امام ہیں اور امامت انہیں کی لسل میں جاری ہے۔



مات وان الامامة في ولدك واما الشيطانية فنسوة  
 الى رئيسهم يقال له يحيى بن شبيب زعموا ان الاما  
 جعفر ثم محمد بن جعفر ثم في ولدك واما العبارة  
 يقال لهم الافطحية لان عبد الله بن جعفر كان  
 افطم الرجلين يقولون ان الامام بعد جعفر ابنه  
 عبد الله وهم عدد كثير واما المبطورية سموا  
 بذلك لانهم ناظروا اليونس بن عبد الرحمن وهو  
 من القطعية الذين يقطعون على موت موسى بن  
 جعفر فقال لهم يونس انتم اهلون من الكلاب  
 المبطورية فلزمهم هذا اللقب وليستون الا  
 لو قوفهم على موسى بن جعفر وقولهم هرحي لمبيت  
 ولا ببيت وهو المهدي عندهم واما الموسوية  
 فسما بذلك لو قوفهم في موسى وقولهم لان  
 اميت هرا محي وقالوا ان محبت امامت صغيرة  
 انفذوها واما الامامية فيسوقون الامامة الى  
 محمد بن الحسن وانه القائم المنتظر الذي يظهر  
 في بلاد الارض عدلا كما ملئت جورا واما الزارية  
 فهم اصحاب زيارته ادعى ما ادعت العمارية  
 وقيل انه ترك مقاتلتها وانه سال عبد الله بن  
 جعفر عن مسائل ولم يعلمه فصار الى موسى بن  
 جعفر فقد شبهت مذاهب الروافض باليهودية  
 قال الشعبي محبة الروافض محبة اليهود وقالت  
 اليهود لا تصلم الامامة الا لرجل من آل داود  
 وقالت الروافضة لا تصلم الامامة الا لرجل من  
 ولد علي بن ابي طالب وقالت اليهود لا جهاد

عمارتیہ جن کو افطحیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عبد اللہ بن جعفر کے پیر موٹے  
 اور لمبے تھے ان کا عقیدہ ہے کہ جعفر کے بعد امام ان کے فرزند عبد اللہ  
 ہیں ان کی تعداد بہت ہے۔ مبطوریہ انہیں مبطوریہ اس لئے کہا  
 جاتا ہے کہ انھوں نے یونس بن عبد الرحمن سے (جس کا تعلق قطعیہ  
 فرقہ سے ہے جن کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ بن جعفر یقیناً فوت ہو گئے)  
 مناظرہ کیا تو ان سے یونس نے کہا: تم تو بیچکے ہوئے کتوں سے  
 بھی زیادہ حقیر ہو (مبطورہ یعنی بھیدگا ہوا) پھر ان کا یہی لقب پڑ گیا  
 انہیں واقف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ موسیٰ بن جعفر تک امامت کے  
 قائل ہیں اور موسیٰ پر آکر ٹھہرتے ہیں ان کے بعد کسی کو امام نہیں  
 مانتے اور اس لئے بھی کہ موسیٰ زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے اور نہ فوت  
 ہوں گے ان کے نزدیک موسیٰ ہی ہمدی ہیں۔ موسویہ انہیں موسویہ  
 اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ بن جعفر کی حیات و موت میں توقف  
 کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ فوت ہو گئے یا زندہ  
 ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی اور کی امامت صحیح ہوگی تو وہ اسے نافذ کر دیں  
 گے، امامیہ امامت کا سلسلہ محمد بن حسن عسکری تک لے جاتے ہیں کہتے  
 ہیں وہ قائم ہیں اور وہی ہمدی موعود ہیں جو ظاہر ہوں گے اور دنیا  
 کو عدل سے بھر دیں گے جب کہ وہ ظلم سے بھر پور تھی۔ زاریہ  
 زرارہ کے عقیدت مند ہیں جو عمارت کا ہم خیال تھا کہتے ہیں زرارہ  
 نے ان کا قول چھوڑ دیا تھا زرارہ نے عبد اللہ بن جعفر سے چند مسائل  
 پوچھے لیکن عبد اللہ نے اسے ان کا جواب نہیں دیا آخر کار وہ موسیٰ  
 کا عقیدت مند ہو گیا۔ روافض کے خیالات و عقائد یہودیوں سے  
 ملتے جلتے ہیں۔

شعبی: روافض کی محبت یہودیوں جیسی محبت ہے یہودی

کہتے ہیں: امامت آل داؤد ہی میں ہے:

رافضی کہتے ہیں: امامت اولاد علی ہی میں ہے، یہودی کہتے ہیں:

سبیل اللہ حتی ینزل المسیح الدجال وینزل عیسیٰ  
 بسبب من السماء وقالت الروافضة لاجہاد فی  
 سبیل اللہ حتی ینزل المہدی وینادی مناد من  
 السماء وتوخر الیہود صلوة المغرب حتی تشتبک  
 النجوم وكذلك الروافض یوخر ونہا والیہود  
 نزول عن القبلة شیئا وكذلك الروافضة والیہود  
 تنود فی الصلوة وكذلك الروافضة والیہود تسدل  
 الثرابہا فی الصلوة وكذلك الروافض والیہود  
 تستحل دم کل مسلم وكذلك الروافض والیہود  
 لا تری علی النساء عداة وكذلك الروافضة والیہود لا تری  
 فی الطلاق اثلت شیئا وكذلك الروافضة والیہود حرقت  
 التوراة وكذلك الروافضة حرقت القرآن تناولوا القرآن فیرو  
 بدل وخلف بین نظمہ وترتیبہ واجیل عما نزل  
 علیہ وقری علی وجہ غیر ثابتة عن الرسول و  
 انه قد نقص منه وزید فیہ والیہود بیغضون  
 جبریل علیہ السلام ویقولون هو عدو نامن  
 الملائكة وكذلك صنف من الروافضة یقولون  
 غلط جبریل علیہ السلام بالوحی الی محمد صلی اللہ  
 علیہ وسلم وانما بعثت وعلو کذبوا بتالہم  
 الی اخر الدھر۔

**فصل** واما المرجیة ففرقتها اثنی عشر  
 فرقة الجہمیة والصالحیة والشمریة والیوسیة  
 والیونانیة والنجاریة والغیلانیة والشیبیة و  
 الخنفیة والمعاذیة والمریسیة والکرامیة وانما  
 سوا المرجیة لانہا زعمت ان الواحد من المكلفین

جب تک مسیح و جہال کا ظہور نہ ہو اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے  
 نہ اتریں اس وقت اللہ کی راہ میں جہاد نہیں۔ رافضی کہتے ہیں  
 جب تک مہدی موعود کا ظہور نہ ہو اور بائف غیبی ان کی صداقت  
 کا اعلان نہ کرے اس وقت تک جہاد نہیں، یہودی مغرب  
 کی نماز تاروں میں روشنی آنے کے بعد پڑھتے ہیں، رافضی بھی  
 ایسا ہی کرتے ہیں یہودی قبلہ سے قدرے منحرف ہو کر نماز  
 پڑھتے ہیں، رافضی بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہودی نماز میں ہتے  
 دہتے ہیں اور رافضی بھی۔ یہودی نماز میں کندھوں پر کپڑا لٹکا  
 لیتے ہیں اور رافضی بھی، یہودی ہر مسلمان کا خون حلال سمجھتے ہیں  
 یہودیوں کے نزدیک عورتوں پر عدت نہیں اور  
 رافضیوں کے نزدیک بھی نہیں یہودی تین طلاقوں میں کچھ ہرج نہیں  
 سمجھتے اور رافضی بھی، یہودیوں نے تورات میں تحریف کی اور رافضیوں نے  
 قرآن میں کی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں ردو بدل کر دیا گیا  
 ہے اور اس کی نظم و ترتیب میں گڑبڑ کر دی گئی ہے اور جس ترتیب سے  
 قرآن اترا تھا اس سے اسے پھیر دیا گیا ہے اور ایسے طریقوں پر پڑھا  
 جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور اس میں کمی بیشی کر دی گئی ہے  
 یہودی حضرت جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اسی طرح رافضیوں کا  
 ایک فرقہ کہتا ہے کہ جبریل نے غلطی کی اور سجائے علی رض کے محمد پر وحی  
 لے آئے، یہ کذاب و گستاخ ہیں اور پرے درجہ کے مجرّم ہیں  
 اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے۔

**مرجیہ** | مرجیہ کے فرقے بارہ ہیں جمہیہ، صلابیہ، سمیریہ، یوسیہ،  
 یونانیہ، نجاریہ، غیلانیہ، شیبیہ، خنفیہ، معاذیہ، مریشیہ اور کرامیہ۔

**وجہ تسمیہ** | مرجیہ کو مرجیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر  
 انسان ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ جنتی ہے  
 جہنم میں کہیں نہیں جائے گا اگرچہ بڑے بڑے گناہوں میں



اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله وفعل بعد  
ذلك سائر المعاصي لم يدخل النار اصلا وان  
الايان قول بلا عمل والاعمال الشرائع والايان  
قول مجرد والناس لا يتفاضلون في الايمان وان  
ايانهم وايان الملكة والانبياء واحد كما  
يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه فمن اقرب لسانه  
ولم يعمل فهو مؤمن

فصل واما الجهية فنسوبة الى جهنم بن  
صفوان وكان يقول الايمان هو المعرفة بالله و  
رسوله وجميع ما جاء من عنده فقط ويزعمون  
ان القرآن مخلوق وان الله تعالى لم يكلم موسى  
وانه تعالى لم يتكلم ولا يري ولا يعرف له مكان  
وليس له عرش ولا كرسي ولا هو على العرش وانكر  
الموازين وعذاب القبر وكون الجنة والنار  
مخلوقتين وادعوا انهما اذا خلقتا لتفنيان والله  
عز وجل لا يكلم خلقه ولا ينظر اليهم يوم القيامة  
ولا ينظر اهل الجنة الى الله تعالى ولا يرونه فيها  
وان الايمان معرفة القلب دون اقرار اللسان  
وانكروا جميع صفات الحق عز وجل تعالى الله  
عن ذلك علوا كبيرا واما الصالحية فانها سببت  
بن لك لقولها بن ذهاب الى الحسين الصالح و  
كان يقول الايمان هو المعرفة والكفر هو  
الجهل وان قول من قال ثالث ثلاثة ليس بكفر  
وان كانت لا يطهر الا من كان كافرا وان لا  
عبادة الا الايمان واما اليونسية فنسوبة الى

متبلا ہے اور یہ بھی کہ ایمان بلا عمل کے اور شرعی احکام کے اقرار  
کا نام ہے یعنی جو صرف توحید و رسالت کا قائل ہو جائے وہ مؤمن  
ہے اور یہ بھی کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی اور ان کا ایمان اور  
انبیائے کرام اور فرشتوں کا ایمان برابر ہے جس میں کمی بیشی  
نہیں اور ایمان میں استثناء نہیں لہذا جو زبان سے توحید کا  
اقرار کر لے اور عمل نہ کرے وہ مؤمن ہے۔

\*

جمیہ جمیہ بن صفوان کی طرف منسوب ہے اس کا قول  
کہ ایمان فقط اللہ کی معرفت کا رسول کو پہچاننے کا اور جو کچھ اللہ کے  
پاس سے اترا ہے اسے پہچاننے کا نام ہے قرآن مخلوق ہے اللہ  
تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کلام نہیں کیا کرتا  
نہ دیکھا جاتا ہے نہ اس کی کوئی مخصوص جگہ ہے نہ اس کا عرش ہے  
اور نہ کسی سے اور نہ وہ عرش پر ہے یہ لوگ میزان کے عذاب قبر کے  
اور جنت و جہنم کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں یعنی یہ دلوں جہنم  
ابھی پیدا نہیں ہوئیں جب پیدا ہوں گی تو خاص وقت آنے پر  
ختم و فنا ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا اور  
نہ قیامت کے دن کسی کو دیکھے گا نہ جنتی اللہ تعالیٰ کو جنت میں  
دیکھیں گے کہتے ہیں ایمان صرف دل کی معرفت کا نام ہے زبان کے  
اقرار کو اس میں دخل نہیں یہ لوگ حق تعالیٰ شانہ کی تمام صفات  
کا انکار کرتے ہیں بلکہ اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں حق تعالیٰ  
جل مجدہ ان کی بگو اس سے بلند و برتر ہے۔

صالحیہ کہ صالحیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ حسین صالحی کے پیروں کا  
ہیں یہ کہا کرتا تھا کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے اور کفر محض  
جہالت کا نام ہے اور تین معبود ماننے والوں کا خیال کفر نہیں ہے  
اس کے قائل کافر ہی ہیں اور عبادت بس ایمان ہے کوئی اور عبادت نہیں

یونس البری وزعمان الایمان هو المعرفة والخضوع  
 والمحبة لله عزوجل وان من ترك خصلة منها فهدر  
 کافروا ما الشریة فمنسوبة الی ابی شمر زعمان  
 الایمان هو المعرفة والخضوع والمحبة والایمان به  
 واحد لیس کتله شیء وذلك باجتماعه ایمان و  
 قال البوشمر لا اسعی من ركب الکبیر ولا فاسقا علی  
 الاطلاق دون ان اقول فاسق فی کذا وکذا واما  
 الیونانیة فمنسوبة الی یونان زعموا ان الایمان  
 هو المعرفة والایمان بالله ورسوله وما لا یجوز فی  
 الفعل لا یفعله واما النجاریة فمنسوبة الی محمد  
 حسین ابن محمد النجاری یقولون ان الایمان  
 هو المعرفة بالله وبرسوله وفرائضه المجمع علیها  
 والخضوع له والایمان باللسان فمتی جهل منه  
 شیئا وقامت علیه الحجة ولم یقر به کان کافرا  
 واما الغیلانیة فمنسوبة الی غیلان واقضوا  
 الشریة وزعموا ان العلم بحدوث الاشیاء  
 ضروری والعلم بالترحید هو العلم باللسان  
 وفی حکایة زرغان ان غیلان کان یقول بان الایمان  
 هو الاقرار باللسان وهو التصدیق واما الشیبیة  
 فهما اصحاب محمد بن شیبب زعموا ان الایمان  
 هو الاقرار بالله والمعرفة بوحده انیته ونفی  
 التشبیه عنه وزعم محمد ان الایمان کان  
 فی ابلیس وانا کفرا لا استکبارا واما الحنفیة  
 فهم لبعض اصحاب ابی حنیفة النعمان بن ثابت  
 زعموا ان الایمان هو المعرفة والایمان بالله

یونس البری کی طرف منسوب ہے اس کا زعم ہے کہ ایمان  
 معرفت، خضوع اور اللہ کی محبت کا نام ہے اگر کسی نے ان میں  
 سے ایک بات بھی چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ شمر بن البوشمر کی طرف  
 منسوب ہیں اس کا زعم ہے کہ ایمان، معرفت، خضوع، محبت اور  
 اس اقرار کا نام ہے اور اس کے مثل کوئی چیز نہیں یعنی ان چار چیزوں  
 کے مجموعہ کو ایمان کہتے ہیں۔ ابو شمر کہتا ہے میں بڑے گناہ کرنے والوں  
 کو مطلق فاسق نہیں کہتا ہوں کہ وہ فلاں فلاں گناہ میں  
 فاسق ہیں۔ یونانیہ یونان کے پیروکار ہیں اس کا زعم ہے کہ  
 ایمان اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا اور ناجائز افعال کو  
 نہ کرنے کا نام ہے۔ نجاریہ محمد حسین بن محمد نجاری کی طرف منسوب  
 ہیں ان کے زعم میں ایمان اللہ کی اور اس کے رسول کی معرفت کا  
 اور متفق علیہ فرائض کی معرفت کا اور اللہ کے آگے عاجزی کا اور  
 زبان سے اقرار کا نام ہے اگر کوئی ان باتوں میں سے کسی بات سے  
 جاہل رہا اور اس پر حجت قائم ہو گئی لیکن اس کی معرفت حاصل  
 نہیں کی وہ کافر ہے۔ غیلانیہ غیلان کی طرف منسوب ہیں یہ لوگ شمر بن  
 کے ہم خیال ہیں کہتے ہیں حدوث کائنات کا علم ضروری ہے اور توحید بانی  
 اقرار کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ زرغان غیلان سے نقل کرتا ہوا لکھتا  
 ہے کہ غیلان کہا کرتا تھا کہ ایمان محض زبانوں سے قرار ہے درہمی تصدیق  
 ہے۔ شیبیہ محمد بن شیبب کے معتقد ہیں ان کا زعم ہے کہ ایمان اللہ کا  
 اقرار اس کی یگانگت کی معرفت اور اس سے تشبہ کی نفی کہتے ہیں  
 محمد بن شیبب کا زعم تھا ابلیس میں بھی ایمان تھا لیکن اپنے غرور کرنے  
 کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ حنیفہ امام ابو حنیفہ النعمان بن ثابت کے بعض  
 اصحاب ہیں ان کا زعم ہے کہ ایمان اللہ کو، اس کے رسول کو اور اللہ کے  
 پاس سے اترتی ہوئی تمام چیزوں کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار  
 کرنا ہے جیسا کہ برہوقی نے کتاب الشجرہ میں لکھا ہے، معاذیہ معاذ بن



ورسوله و بما جاء من عنده جملة على ما ذكره البرهقي  
 في كتاب الشجرة واما المعاذية فنسوبة الى معاذ  
 الموصي كان يقول من ترك طاعة الله ليقال له انه فسق ولا  
 يقال فاسق و الفاسق ليس بعد و الله و لا ولي الله و اما  
 المرليية فنسوبة الى بشر المرليي يزعمون ان الايمان  
 هو التصديق و ان التصديق يكون بالقلب و اللسان و الى  
 هذا كان يذهب ابن الراوندي و زعم ايضا ان السجود  
 للشمس ليس بكفر و لكنه اماراة الكفر -

**فصل** واما الكرامية فنسوبة الى ابي  
 عبد الله بن كرام زعموا ان الايمان هو الاقرار  
 باللسان دون القلب و ان المنافقين كانوا مومنين  
 في الحقيقة و من قولهم ان الاستطاعة  
 تتقدم الفعل مع وجود كونها مقارنته له  
 بخلاف ما قال اهل السنة من انها مع الفعل لا  
 يجوز ان يتقدمه من غير شرط و مولفو كتبهم  
 ابو الحسين الصالح و ابن الراوندي و محمد بن  
 شبيب و الحسين بن محمد النجار و اكثر ما  
 يكون مذاهبهم بالمشرق و لواحي خراسان -

**فصل** في ذكر مقالة المعتزلة و القدرية  
 و انما سموا المعتزلة لاعتزالهم الحق و قيل  
 لاعتزالهم اقاويل المسلمين لان الناس كانوا  
 مختلفين في مرتكب الكبيرة فقال بعضهم  
 هم مومنون بما معهم من الايمان و قال بعضهم  
 هم كافرون فاحدث واصل بن عطاء قولاً ثالثاً  
 و فارق المسلمين و اعتزل المومنين فقال ما هم

کی طرف منسوب ہیں کہ اللہ کی اطاعت چھوڑنے والے کو  
 ماضی میں فاسق کہا جاتا ہے مستقبل میں نہیں اور فاسق نہ  
 اللہ کا دشمن ہے اور نہ دوست ہے۔

مریسیہ بشر مرلیسی کی طرف منسوب ہیں ان کا زعم ہے کہ ایمان  
 تصدیق ہے اور تصدیق دل و زبان سے ہوتی ہے، یہی ابن  
 داوندی کی رائے تھی اس کا یہ زعم بھی ہے کہ سورج کو  
 سجدہ کہنا کفر نہیں بل کفر کی علامت ہے۔

★

**کرامیہ** یہ فرقة ابو عبد اللہ بن کرام کی طرف منسوب ہے ان کا  
 زعم ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کو کہتے ہیں دلی تصدیق کو نہیں  
 اور حقیقت میں منافق مومن ہیں اور استطاعة فعل سے  
 مقدم ہے باوجودیکہ فعل کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے لیکن السنن  
 کہتے ہیں کہ استطاعت بلا کسی شرط کے فعل کے ساتھ ساتھ ہے  
 فعل سے مقدم نہیں یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ لوگوں کو فعل سے  
 پہلے فعل کی طاقت ہے۔ اس فرقہ کی کتابیں لکھنے والے  
 ابو الحسن صالحی، ابن راوندی، محمد بن شبيب اور حسین بن  
 محمد نجار ہیں یہ مذہب زیادہ تر مشرق اور لواحي خراسان میں  
 پایا جاتا ہے۔

**معتزلہ اور قدریہ** معتزلہ کو معتزلہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ  
 یہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں یا مسلمانوں کے خیالات سے کنارہ کش  
 ہیں کیونکہ لوگ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث حضرات پر مختلف حکم  
 لگاتے ہیں بعض کے نزدیک وہ مومن ہیں کیونکہ ان کے نزدیک  
 اعمال ایمان ہیں داخل نہیں اور بعض کے نزدیک کافر ہیں کیونکہ ان  
 کے نزدیک اعمال جزا ایمان ہیں لیکن واصل بن عطاء نے ان کے  
 بارے میں ایک تیسرا نیا قول ایجاد کیا اور اس قول کی رو سے وہ

تمام مسلمانوں سے علیحدہ ہو گیا اور کہتا ہے بڑے گناہ کرنے والے  
 نہ مسلمان ہیں اور نہ کافر، اسی بناء پر ان کا نام معتزلہ رکھنا  
 ہو جانے والے پر پڑ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں معتزلہ اس  
 لئے کہا جاتا ہے کہ یہ حسن بصریؒ نے فرمایا یہ لوگ ہٹ جانے والے ہیں  
 لہذا ان کا یہ لقب پڑ گیا یہ لوگ عمرو بن عبید کے پیروکار ہیں۔  
 جب حسن بصریؒ عمرو بن عبید پر ناراض ہوئے تو حسن بصریؒ پر  
 اس سلسلہ میں اعتراض کیا گیا، آپ نے فرمایا تم مجھ پر اس شخص کی  
 حمایت میں عتاب کرتے ہو جسے میں نے خواب میں اللہ کو چھو کر  
 سورج کو سجدہ کرتا ہوا دیکھا، اور انہیں تدریہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ  
 یہ تقدیر کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ گناہوں کے لوگ خود خالق ہیں اللہ  
 خالق نہیں۔ معتزلہ، جہیمہ اور تدریہ سب صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں  
 ہم عقائد میں ان میں سے بعض کے عقائد کا ذکر اور پر کرتے ہیں ان لوگوں  
 کی کتابیں لکھنے والے ابو النزیل، جعفر بن حرب، خیاط، کعبی، ابو ہاشم  
 ابو عبد اللہ بصری اور عبد الجبار بن احمد سہدانی ہیں یہ فرقہ زیادہ  
 تر عسکر، اہواز اور جہزم میں پایا جاتا ہے یہ چھ فرقے ہیں، ہذلیہ  
 نظامیہ، لعمریہ، جبائیہ، کعبیہ، اور ہشیمیہ، معتزلہ کے تمام  
 فرقوں کا انکار صفات پر اجماع ہے یہ لوگ اللہ کے علم، قدرت،  
 حیات اور سننے دیکھنے کا انکار کرتے ہیں اسی طرح حدیث و قرآن  
 سے اللہ کی جو صفات ثابت ہیں انہیں بھی نہیں مانتے کہتے ہیں اللہ  
 عرش پر نہیں اور اللہ روزانہ پہلے آسمان پر نہیں اترتا بلکہ اترتا  
 اس کی شان کے لائق ہی نہیں ان سب کا اس پر بھی اجماع ہے کہ  
 اللہ کا کلام مخلوق و حادث ہے اور ارادہ بھی حادث ہے اور اس  
 نے ایسا کلام فرمایا ہے جو اس نے اپنے غیر میں پیدا فرمایا ہے  
 اور وہ ایسے حادث ارادہ سے ارادہ فرماتا ہے جو عمل میں نہیں آتا  
 اور اپنے معلوم کے خلاف ارادہ فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے

بہومنین ولا کافرین فسوا بذلک المعتزلة و  
 قيل انما سوا بذلک لا عنزلهم مجلس الحسن  
 البصری رحمة الله عليه فمن الحسن بهم وقال  
 هولاء معتزلة فلقبوا بذلک وهم لقيتدون  
 بعمر بن عبید ولما غضب الحسن البصری علی  
 عمرو بن عبید عوتب فی ذلک فقال القاتبونی  
 فی رجل رایتہ لیجد للشمس من دون الله فی  
 المنام وسوا قدریة لردهم قضاء الله عز و  
 جل و قدره فی معاصی العباد و اثباتهم لها  
 بانفسهم و مذهب المعتزلة و الجهمیة و  
 القدریة فی نفی الصفات و احد وقد ذکرنا  
 بعض مذاہبهم فی الاعتقاد و مولف کتابهم  
 البر الہذیل و جعفر بن حرب الخياط و الکعبی  
 و ابو ہاشم و ابو عبد الله البصری و عبد الجبار  
 بن احمد الہمدانی و اکثر ما یكون مذهبهم  
 بالعسکر و الہواز و جہزم و ہمست فرق  
 الہذلیة و النظامیة و المعمریة و الجبائیة  
 و الکعبیة و البہشیمیة و الذی اجتمعت علیہ  
 فرق المعتزلة نفی الصفات باجمعها فنفت  
 ان یكون له عز و جل علم و قدر و حیوة  
 و سمع و بصر و کذا لکی الصفات المثبتة بالسمع  
 من الاستواء و النزول و غیر ذلک و اجتمعت  
 ایضا علی ان کلام الله محدث و ارادته  
 محدث و انه تکلم بکلام خلقه فی غیره  
 و یرید بارادته محدث لا فی محل و انه تعلق



یرید خلاف معلومہ و یرید من عبادہ ما لا یكون  
ویكون ما لا یرید و انه تعالی لا یقدر علی مقدور  
غیرہ بل یرید ذلک و انه لم یخلق  
افعال عبیدہ بل هم الخالقون لها دون ربهم  
وان کثیرا ما یتغذا الا الانسان لم یرزقه الله  
اذا کان حراما و انما الذی یرزق الله الحلال  
دون الحرام و ان الانسان قد یقتل دون اجله  
و القاتل یقطع اجله قبل حینہ و ان من ارتكب  
کبیرة من المرحدین و ان لم یکن کفرا فانه  
یخرج بها من ایمانہ و یخلد فی النار ابد الابد  
و تبطل جمیع حسناتہ و الطلواشفاعة النبی  
صلی الله علیہ وسلم لا هل الکبائر و اکثر  
هم نفوا عذاب القبر و المیزان و راوا الخرج  
علی السلطان و ترک طاعتہ و انکروا انتقام  
المیت بدعاء الحق له و الصدقة عنہ و وصول  
ثوابها الیہ و زعمت ایضا ان الله سبحانه لم  
یکلم آدم و نوحا و ابراهیم و موسی و عیسی و  
محمد صلوات الله علیہم اجمعین و لا  
جبرئیل و لا میکائیل و لا اسرافیل و لا حملة  
العرش و لا ینظر الیہم مثل ما یکلم ابلیس  
و الیہود و النصری و اما الذی انفردت بہ  
کل فرقة منها اما الہذلیة فقد انفرد  
شیخہم ابو الہذیل بان لله علما و قدرة  
و سعا و بصرا و ان کلام الله لبعضہ مخلوق  
و بعضہ غیر مخلوق و هو قوله تعالی کن

چیزیں چاہتا ہے جو ہونے والی نہیں اور جو نہیں چاہتا وہ ہوتی ہیں۔  
اور حق تعالی اپنے غیر کے مقدورات پر قادر نہیں بلکہ یہ بات محال ہے  
اور اس نے اپنے بندوں کے افعال پیدا نہیں فرمائے بلکہ ان کے  
وہ خود خالق ہیں اور حرام روزی جسے لوگ کثرت سے استعمال کرتے  
ہیں حق تعالی نہیں دیتا بلکہ حلال عطا فرماتا ہے اور انسان کبھی قبل از  
وقت مار دیا جاتا ہے اور قاتل قبل از وقت اس کی مقررہ مدت سے  
پہلے اسے مار دیتا ہے۔ اور بڑے گناہوں کا مرکب جو سوحد ہے  
کافر نہیں ہوتا مگر اس کی وجہ سے خارج از ایمان ہو جاتا ہے اور  
ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنمی ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں باطل ہو  
جاتی ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلعم کی شفاعت ارباب کبائر کے لئے نہیں ہے  
اکثر معتزلہ عذاب قبر کو اور میزان کو نہیں مانتے اور سلطان وقت  
کی بغاوت و ترک اطاعت کو جائز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں زندوں کی  
دعاؤں اور صدقوں سے مردوں کو ثواب نہیں ملتا۔

ان کا زعم ہے کہ حق تعالی سبحانہ نے حضرت آدم، نوح، ابراہیم  
موسیٰ، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ سے کلام نہیں فرمایا، نہ جبرئیل،  
میکائیل اور اسرافیل سے اور نہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے  
نہ ان کی طرف دیکھتا ہے جیسے وہ ابلیس اور یہودیوں اور عیسائیوں  
سے کلام نہیں فرماتا۔ ان جماعی مسائل کے علاوہ ہر فرقہ کے افراد کا  
مسائل ہیں۔ ہر فرقہ کا سرغنہ ابو الہذیل اس میں منفرد ہے کہ علم  
قدرت، استنا اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ  
کا کلام بعض مخلوق ہے اور بعض مخلوق نہیں یعنی لفظ کن مخلوق نہیں  
اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے خلاف نہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقدورات  
مشابہ ہیں غیر متناہی نہیں اس لئے اہل جنت بلا حس و حرکت کے  
باقی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں حرکت دینے پر قادر نہ ہو گا اور  
نہ وہ خود ہی حرکت کرنے پر قادر ہوں گے ان کے زعم میں مردہ

وقال ان الله تعالى ليس بخلاف خلقه وان مقدّر  
الله متناهي فيبقى اهل الجنة لا حركة لهم والله  
تعالى لا يقدر على تحريكهم ولا هم يقدرون  
على ذلك وجوز ان يكون الميت والمعدوم  
والعاجز يفعل الافعال واي ان يكون الله تعالى  
لميزل سبيعا واما النظامية كان شيئهما النظام  
يقول ان الجمادات تفعل بايجاب الخلقه وكان  
ينفي الاعراض الا الحركة الاعتمادية ويقول  
ان الانسان هو الروح وان احد المرير النبي  
صلى الله عليه وسلم وان اراى طرفه لعينى  
جسه وخرق الاجماع فقال من ترك الصلوة  
عامدا ذاكر فلا اعادة عليه وكان ينفي اجبا  
الامة ويجوز اجتماعها على باطل ويقول ان  
الايان مثل الكفر والطاعة كالمعصية و  
فعل النبي صلى الله عليه وسلم كفعل ابليس  
اللعين وان سيرة عمر وعلی كسيرة الحجاج وانا  
الترم ذلك وركبه لانه كان يقول الحيوان  
كله جنس واحد وزعم ان القران ليس بمعجز  
في نظم وان الله تعالى ليس بقادر على تحريك  
الطفل ولو كان على شفيع جهنم ولا على طرحه  
فيها وهو اول من قال بالكفر من اهل القبلة  
وكان يقول ان الجسم تجزى الى ما لا غاية له  
وكان يقول ان الحيات والعقارب والخناس في  
الجنة وكذلك الكلاب والخنازير في الجنة  
واما المعرية فكان شيئهما المعر ليقول يقول

معدوم اور عاجز افعال کر سکتا ہے کہتے ہیں حق تعالیٰ ہمیشہ سننے  
والا نہیں رہے گا۔

نظامیہ فرقہ کا سرغنہ نظام ہے کتابے جمادات ايجاب پیدائش کو  
بتاتے ہیں یہ اعراض کا منکر ہے ہاں اعتمادی حرکت کا قائل ہے  
(جیسے آنکھ کی روشنی متحرک ہے)

اس کا زعم ہے کہ انسان ہی روح ہے اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام  
کو کسی نے نہیں دیکھا بس آپ کا ظرف (جسم) ہی دیکھا ہے۔ یہ شخص  
اجماع کے خلاف کرتا ہے اور کتابے اگر کسی نے جان بوجھ کر یاد  
ہوتے ہوئے نماز چھوڑ دی اس پر نماز کا لوٹانا نہیں، اجماع امت  
کا قائل نہیں اور باطل پر جو اجماع کا قائل ہے اور کتابے ایمان کفر  
کے اور طاعت گناہ کے ہم مثل ہے اور نبی صلعم کا فعل ابليس لعین کے  
فعل کے ہم مثل ہے اور سیرت عمر وعلی رض سیرت حجاج کے ہم مثل ہے  
اس کا یہ خیال اور یہ نظریہ محض اس لئے ہے کہ اس کے زعم میں  
تمام حیوان ہم جنس ہیں، کتابے: قرآن کی نظم میں اعجاز نہیں اور  
اللہ تعالیٰ بچوں کے جلانے پر قادر نہیں اگرچہ وہ جہنم کے کنارے  
پر کھڑے ہوں اور نہ انہیں جہنم میں جھونکنے پر قادر ہے۔ یہ لوگ  
مسلمانوں میں کفر کے ارتکاب میں سب سے آگے ہیں۔ نظام کتابے  
کہ جسم لا محدود ڈکڑوں میں بٹ سکتا ہے، کتابے: سانپ، بچھو،  
کن کھجور سے سب بہشت میں جائیں گے اسی طرح کہتے اور خنزیر  
بھی جنت میں جائیں گے۔

معمریہ کا شیخ معمر ہے کتابے افعال طبیعت سے سرزد ہوتے  
ہیں بلکہ اہل طبائع سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اس کا زعم ہے کہ اللہ  
تعالیٰ نے رنگ، ذائقہ، بو، سوت اور زندگی نہیں پیدا کی بلکہ یہ  
بالطبع جسم کے افعال ہیں اور قرآن اجسام کا طبیعی فعل ہے اللہ کا  
فعل (کلام) نہیں یہ اللہ کے قدیم ہونے کا منکر ہے اللہ تعالیٰ



اهل الطباع ویتجاوزو یزعمان اللہ تعالیٰ لم یخلق  
لونا ولا طعنا ولا راحة ولا موتا ولا حیوۃ وانا  
ذالك كله فعل الجسم بطبعه وكان يقول ان  
القران فعل الاجسام وليس هو بفعل الله وانكر  
ان يكون الله تعالیٰ قد یاتباله والعدا الله تعالیٰ  
من هذا الامة فاما الجبائیة فكان شیخهم  
الجبائی خرق الاجماع وشدّ عنده فی اشیاء منها  
انه كان يقول ان العباد خالقون لا فعالم لهم  
لسبقه الی هذه احد وكان يقول ان الله تعالیٰ  
احبل لساء العالمین یخلقهم الحبل فیهن وكان  
يقول ان الله تعالیٰ مطیع لعباده اذا فعل ما ارادوا  
وقال ومن حلف ان یعطى غریبه حقه غدا  
واستثنى فی ذلك بقوله ان شاء الله لم ینفعه  
الاستثناء فاذا لم یعط حنت وكان يقول ان من  
سرق خمسة دراهم كان فاسقا وان نقت منه  
حبة لم یفسق واما البهشمیة فمسنویة الی ابی  
هاشم بن الجبائی وكان ابو هاشم یحوز ان یكون  
المكلف قادرا وهولا یكون فاعلا ولا تاركا  
فیعاقبة الله تعالیٰ علی فعله وكان یقول من  
تاب من سائر الذنوب الا ذنبا واحدا لم تقم  
توبته فیما تاب منه واما الكعبیة فمسنویة  
الی ابی القاسم الكعبی وكان بغدادی المذهب  
فانكر ان یكون الله سبعا بصیرا وان یكون  
مریدا بالحقیقة وان ارادة الله تعالیٰ من  
فعل عباده هو الامر به وارانته من فعل

اس فرقة کو موت کے گھاٹ اتارے اور امت محمدیہ سے بہت  
دور فرمادے۔

جبائیہ فرقة کا مرشد جبائی ہے جو اجماع کے خلاف کرتا ہے  
اور چند مسائل میں اجماع سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ مثلاً یہ کہتا ہے  
کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں اللہ خالق نہیں اس سے  
پہلے کسی نے یہ شرکیہ مسئلہ ایجاد نہیں کیا تھا اور یہ بھی کہ اللہ  
نے دنیا تمام عورتوں کو ان میں حمل پیدا کر کے حاملہ کیا۔  
اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا مطیع و منقاد ہے جو بندے  
چاہتے ہیں وہی کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اگر کوئی قسم کھالے کہ میں  
کل قرض ادا کروں گا۔ اور انشاء اللہ بھی کہ لے اور کل  
قرض ادا نہ کرے تو انشاء اللہ سے اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور  
اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی پانچ  
درہم چرائے تو فاسق ہوگا اور اگر پانچ درہم سے کم چرائے خواہ  
ایک ہی کم ہو وہ فاسق نہیں۔

بشمیۃ ابو ہاشم بن جبائی کی طرف منسوب ہے ابو ہاشم کے  
تذریک یہ بات جائز تھی کہ اگر مکلف فعل پر قادر ہونے کے  
باوجود ترک فعل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے فعل پر اسے  
عذاب دے گا اور کہتا تھا اگر کسی نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی  
مگر کسی ایک گناہ سے نہیں تو اس کی توبہ صحیح نہیں۔

کعبیۃ ابو القاسم کعبی کی طرف منسوب ہیں یہ شخص بغدادی معتزلی  
کے مذہب پر تھا لہذا یہ اللہ کو سننے والا اور دیکھنے والا نہیں بتاتا  
اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی ارادے کو بھی تسلیم نہیں کرتا کہتا ہے کہ  
بندوں کے افعال سے اللہ کے ارادے کا تعلق صرف اتنا ہے کہ  
وہ اس فعل کا حکم فرماتا ہے اور اللہ کے ذاتی فعل کا ارادہ اس  
کا علم اور عدم جبر ہے، اس کا زعم ہے کہ دنیا بھری ہوئی ہے

کوئی جگہ خالی نہیں اور صرف اجسام کا پہلا صفحہ متحرک ہے  
باقی اجزاء اپنی اپنی جگہ پر ہیں اگر انسان تیل لگائے اور چلنے  
لگے تو وہ متحرک نہیں بلکہ تیل متحرک ہے کتنا تھا: قرآن حادث  
ہے اور قرآن کو مخلوق نہیں کہتا تھا۔

\*

**مشہم** | یہ تین فرتے ہیں ہشامیہ، مقالیہ اور اسمیہ ان تینوں  
فرقوں کے نزدیک بالاتفاق اللہ تعالیٰ جسم ہے کیونکہ کوئی موجود جسے  
بلا جسم کے نہیں یہ لوگ زیادہ تر رافضیوں اور کرامیہ سے ملتے جلتے  
ہیں اور ان کی کتابیں لکھنے والے ہشام بن حکم ہیں ہشام کی اثبات جسم  
کے موضوع پر ایک کتاب ہے۔

ہشامیہ، ہشام بن حکم کی طرف منسوب ہیں اس کا زعم ہے کہ  
اللہ طول، عرض اور عمق والا ایک جسم ہے اور ایک درخشندہ نور  
ہے اور صاف و شفاف چاندی کے ایک ٹکڑے کی طرح ایک معین انداز  
پر ہے اور حرکت و سکون سے متصف ہے اور کھڑے ہونے اور  
بیٹھنے سے بھی۔ اس سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ کتنا تھا: بہترین  
سات بالشت کا ہوتا ہے گویا اللہ کا قد سات بالشت کا ہے  
اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا پروردگار بڑا ہے یا اُحد پہاڑ؟ تو  
بولاً: میرا پروردگار عظیم ہے۔

مقالیہ، مقاتل بن سلیمان کی طرف منسوب ہے اس کا بھی زعم تھا  
کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے اور اس کا جثہ انسانی شکل و صورت پر  
ہے اس کے جسم میں گوشت، خون اور تمام اعضاء جیسے سر،  
زبان اور گردن وغیرہ ہیں لیکن اس کی ہر شے کسی شے کے مشابہ  
نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے مشابہ ہے۔

**جمہیہ فرقہ کی وضاحت** | جمہ کے عقیدت مندوں کا نام جمہیہ  
ہے۔ جمہ بن صفوان اس میں منفرد ہے کہ انسان کے افعال اس کی

نفسم ہو علیہ وعدم الاکراه وزعم ان العالم  
عکله ملاء وان المتحرك انما هو الصفحة الاولى  
من الاجسام وان الانسان لو تد هن بد هن و  
مشی لم یکن هو المتحرك لکن الدهن متحرك  
وکان یقول ان القران محدث ولا یقول مخلوق۔

**فصل** | واما ذکر مقالة المشبهة وهم  
ثلاثة فوثة الهشامیة والمقاتلیة والواسیة  
والذی اتفقت علیہ الفرق الثلاثة ان اللہ  
جسم وانہ لا یجوز ان یعقل الموجود الاجسام  
والذی غلب علیہم التشبیہ فرق الروافضة  
والکرامیة الذی الف کتبہم ہشام بن حکم  
ولہ کتاب فی اثبات الجسم واما الهشامیة  
فنسوبة الی ہشام بن حکم فزعم ان اللہ  
تعالیٰ جسم طویل عریض عمیق نور ساطع لہ قدر من  
القدر کالسبیکة الصافیة یتحرك ویسکن و  
لیقوم ویقع وحکی عنہ انه قال احسن الاقدام  
ان یكون سبعة اشبار وقیل لہ ربک اعظم  
ام احد فقال ربی اعظم واما المقاتلیة فنسوبة  
الی مقاتل بن سلیمان حکى عنہ انه قال ان اللہ  
تعالیٰ جسم وانہ جثة علی صورة الانسان  
لحم ودم وله جوارح واعضاء من راس و  
لسان وعتق وانہ فی جمیع ذلک لا یشبہ الاشیاء  
ولا تشبہة۔

**فصل** | فی ذکر مقالة الجہمیة تفردهم  
بن صفوان بان الانسان انما ینسب الیہ ما



یظہر منه علی المجاز لا علی الحقیقۃ کما یقال  
 طالت النخلة واد رکت الشجرة وکان یابی ان  
 یقول ان الله شیء ویقول مجدوث علم الله ویتنعم  
 ان یقول ان الله کان عالما بالاشیاء قبل كونها  
 ویقول ان الجنة والنار تفنیان وینفی الصفات  
 کان مذهب جهم بترمذ وهو بلد وقیل بمر  
 وله تالیف فی نفی الصفات قتله مسلم بن احور  
 الباروانی واما الصراریة فمنسوبة الی صرار  
 بن عمرو کان یقول صرار ان الاجسام اعراض  
 مجتمعۃ وجوز ان تنقلب الاعراض اجساما  
 وان الاستطاعة لبعض المستطیع وهی قبل  
 الفعل وانکر قراءۃ ابن مسعود وابی بن کعب  
 واما التجاریة فمطی منسوبة الی الحسین بن  
 محمد النجار کان یتبیت فعل الفاعلین بالحقیقۃ  
 لله تعالی وللعبد وکان یقول بنفی الصفات  
 وقال یقول المعتزلة فی نفی الصفات الی فی  
 الارادة فانه اثبت ان القديم مرید لنفسه  
 وکان یقول یخلق القران ویقول ان الله مرید  
 علی معنی انه لیس بتقهور ولا مغلوب وان  
 الله متکلم بمعنی انه لیس لجاجز عن الکلام  
 وانه لم یزل جوادا بمعنی نفی البخل عنده و  
 مذهبیه موافق لمذهب ابن عون وابی یوسف  
 الرازی واکثر ما یکون مذهبیه بقاشان و  
 اما الکلابیة فمنسوبة الی ابی عبد الله بن  
 کلاب وکان یقول لا اقول صفات الله لیست

طرف مجاز کے طور پر منسوب ہیں حقیقت میں اس کے نہیں جیسے ہم  
 کہتے ہیں کھجور لمبی ہو گئی اور پھل پک گئے اس کا زعم ہے کہ اللہ شے  
 نہیں اور اللہ کا علم حادث ہے اور اللہ کو چیزوں کے وجود سے  
 قبل ان کا علم نہ تھا اور جنت و جہنم دونوں فنا ہو جائیں گے اور  
 اللہ کی تمام صفات کا منکر ہے اس کے گندے عقائد ترمذیامرو  
 میں پھیل گئے تھے اس نے انکار صفات کے موضوع پر ایک کتاب  
 بھی لکھی ہے جہم کو مسلم بن احور ماروانی نے قتل کیا۔

ضرار یہ، ضرار یہ بن عمرو کی طرف منسوب ہیں اس کا زعم ہے کہ جسم  
 اعراض کا مجموعہ ہے کہ اعراض اجسام کی شکل اختیار کر  
 سکتے ہیں اور استطاعت انسان کا ایک جزو ہے اور قبل از فعل  
 ہے اور ابن مسعود رضا اور ابی بن کعب کی قرأت کو نہیں مانتا۔

نجاریہ، حسین بن محمد نجار کی طرف منسوب ہیں اس کا زعم  
 ہے کہ افعال حقیقی طور پر اللہ کی اور بندوں کی طرف  
 منسوب ہیں یہ بھی صفات باری تعالیٰ کا منکر ہے اور صفات  
 کے بارے میں مجذبات ارادے کے معتزلہ کا ہم خیال ہے کیونکہ  
 اس نے ثابت کیا ہے کہ قدیم کا ذاتی اور قدیم ارادہ ہوتا  
 ہے یہ بھی قرآن کو مخلوق کہتا تھا اور کہتا تھا اللہ صاحب  
 ارادہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ میں ذاتی ارادہ ہے، کسی کی  
 تحریک یا جبر و قہر سے نہیں اور اللہ تعالیٰ متکلم ہے یعنی  
 وہ کلام سے عاجز نہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جواد  
 ہے یعنی اللہ تعالیٰ بخیل نہیں یہ ابو عون اور ابو یوسف رازی  
 کا ہم خیال ہے اس کا مذہب زیادہ تر قاشان میں پایا  
 جاتا ہے۔

کلابیہ، عبد اللہ بن مبارک کلاب کی طرف منسوب ہیں۔  
 اس کا زعم ہے کہ صفات باری تعالیٰ قدیم نہیں، اور نہ

بقديمة ولا محدثة وكان يقول لا اقول صفاته  
هي هو ولا هي غيره وان معنى الاستواء نفى  
الاعوجاج في قوله الرحمن على العرش استوى  
وان الله لم يزل على ما كان عليه من قبل  
ان لا مكان ونفى ان يكون للقران حروفا-  
فصل في ذكر مقالة السالمية وهي منسوبة  
الى ابن سالم من قولهم ان الله سبحانه يري  
يوم القيامة في صورة ادمي محمدي وانه عزو  
جل يتجلى لسائر الخلق يوم القيامة من الجن  
والانس والملئكة والحيوان اجمع لكل واحد  
في معناه وفي كتاب الله تكذيبهم وهو  
في قوله عز وجل ليس كمثل شئ وهو السميع  
البصير ومن قولهم ان الله تعالى ستر الواظهرة  
لبطل التنبيرو للانباء سرا الواظهرة لبطلت  
النبوة وللعلماء سرا الواظهرة لبطل العلم  
وهذا فاسدان الله تعالى حكيم و  
تدبيره محكم لا يتطرق نحو البطلان و  
الفساد وما نكروه يؤدي الى البطلان حكته  
تعالى وهذا كفر ومن قولهم ان الكفار  
يرون الله تعالى في الاخرة ويجاسبهم ومن  
قولهم ان ابليس سجد آدم في الثانية  
وفي القران تكذيبهم وهو قول الله عزو  
جل الا ابليس ابى واستكبر وكان من  
الكافرين وقوله تعالى الا ابليس لم يكن من  
الساجدين ومن قولهم ان ابليس ما دخل

حادث ہیں اور نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات اور الرحمن علی العرش  
استوی (یعنی رحمن عرش پر قائم ہے) میں استواء کا یہ  
معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منحرف نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ  
ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے اور اس کے کھرنے کی کوئی جگہ نہیں  
اور قرآن پاک کے حروفوں کا منکر ہے۔

مسالمیہ | یہ فرقہ ابن سالم کی طرف منسوب ہے ان کا زعم ہے کہ  
قیامت کے دن حق تعالیٰ امت محمدیہ کے ایک شخص کی شکل میں کھان  
دے گا اور قیامت کے دن حق تعالیٰ کی تجسلی عام ہوگی اور  
اسے جن، انسان، فرشتے اور تمام جاندار اپنے اپنے حال کے  
مناسب دیکھیں گے، لیکن کتاب اللہ میں ان لوگوں کی تردید ہے  
نہ پایا: اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا اور  
خوب دیکھنے والا ہے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ کا  
ایک راز ہے اگر وہ اس کو ظاہر فرمادے تو کائنات عالم کی  
تدبیر باطل ہو جائے، اسی طرح ہر نبی کے لئے ایک راز ہے اگر  
وہ اسے ظاہر کر دے تو اس کی نبوت ختم ہو جائے اسی طرح ہر  
عالم کے لئے ایک راز ہے اگر وہ اسے ظاہر کر دے تو اس کا علم  
جاتا رہے لیکن یہ عقیدہ باطل ہے کیونکہ حق تعالیٰ حکمت والا  
ہے اور اس کی تدبیر انتہائی مستحکم ہے جس میں فساد راہ نہیں  
پاسکتا، اور ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی  
حکمت و تدبیر میں فساد راہ پاسکتا ہے اور یہ کفر ہے۔

یہ کہتے ہیں کہ کافر بھی آخرت میں حق تعالیٰ کو دیکھیں گے اور وہ  
ان سے حساب لے گا، ان کا زعم ہے کہ ابلیس نے دوسری بار آدم  
کو سجدہ کہ لیا تھا حالانکہ قرآن پاک میں ان کی تکذیب ہے فرمایا سب  
نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے انکار کر دیا  
اور غرور کیا اور وہ کافر تھا۔ فرمایا: مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں



المجنۃ وفي القرآن تكذبونهم وهو قوله تعالى  
 اخرج منها فانك رجيم ومن قولهم ان جبرئیل  
 كان یحیی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یرج  
 من مکانہ ومن قولہم ان اللہ تعالیٰ لما کلم موسیٰ  
 علیہ السلام اعجب موسیٰ بنفسہ فاوحی اللہ الیہ  
 یا موسیٰ اتعجبک نفسک مدعینیک فمد موسیٰ  
 عینیہ فنظر واذاق آتہ مائتہ طور علی کل طور  
 موسیٰ وھذا منکر عند اهل النقل واصلح  
 الحدیث فلو حدیث باطل وقد اوعد النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علیہ فقال من  
 کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعدہ من النار  
 من قولہم ان اللہ تعالیٰ یرید من العباد الطاعات  
 ولا یرید منهم المعاصی واندہ عزوجل ارادھا  
 بہم لا منهم وھذا باطل لان اللہ تعالیٰ قال  
 ومن یرد اللہ فتنۃ فلن تمسک لہ من اللہ شیئاً  
 یعنی کسرہ وقال اللہ تعالیٰ ولو شاء ربک ما فعلوا  
 وقال تعالیٰ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ومن قولہم  
 ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحفظ القرآن  
 قبل النبوت وقیل ان یاتہ جبرئیل علیہ السلام  
 وفي القرآن تکذبونہم وهو قوله تعالیٰ ما  
 کنت تشری ما الکتاب ولا الایمان وقوله  
 تعالیٰ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب  
 ولا تحطہ بیمنک ومن قولہم ان اللہ تعالیٰ  
 یقرء علی لسان کل قاری وانہم اذا سمعوا  
 القرآن من قاری فانما یسمعونہ من اللہ وھذا

میں سے نہ تھا۔ ان کا گمان ہے کہ ابلیس جنت میں نہیں داخل ہوا  
 حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے: جنت سے نکل جا کیونکہ تو ملعون  
 ہے یہ کہتے ہیں کہ جبرئیل بلاٹے چلے اور اپنی جگہ سے ہٹے بغیر  
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح آیا کرتے تھے؟ کہتے  
 ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا  
 تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نفس اچھا معلوم ہوا حق تعالیٰ نے  
 آپ کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ کیا تو اپنے کو اچھا سمجھتا  
 ہے؟ آپ کھین کھول کر دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے  
 دیکھا تو آپ کی حدنگاہ تک آپ کو سو کوہ طور نظر آئے اور ہر طور  
 پر موسیٰ دکھائی دئے۔ اہل نقل و محدثین کے نزدیک ان کا یہ  
 قول باطل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مجھ پر  
 جھوٹ بولے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے یہ کہتے ہیں  
 کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے عبادتیں چاہتا ہے گناہ گناہ  
 نہیں چاہتا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے گناہوں کے سبب کا  
 ارادہ کیا ان سے گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا حالانکہ یہ باطل ہے  
 کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: اور جس سے اللہ فتنہ چاہتا ہے  
 تو آپ اللہ کے فتنے سے کسی شے پر بھی قادر نہیں یہاں فتنہ سے  
 کفر مراد ہے فرمایا: اگر آپ کا رب چاہتا تو کافر کفر نہ کرتے  
 فرمایا: اگر اللہ چاہتا تو وہ جنگ نہ کرتے۔ کہتے ہیں قرآن پاک  
 کے قبل از نبوت اور جبرئیل علیہ السلام کی آمد سے پہلے نبی صلعم  
 حافظ تھے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے: آپ کو خبر نہ تھی کہ کتاب کیا  
 ہے اور ایمان کیا ہے فرمایا: آپ اس سے پہلے کتاب نہیں  
 پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھتے تھے کہتے  
 ہیں حق تعالیٰ ہر پڑھنے والے کی زبان پر پڑھتا ہے لوگ جب  
 کسی پڑھنے والے سے قرآن سنتے ہیں یہ قول و معاذ اللہ حلول

القول ليفضي الى الخلو نعوذ بالله من ذلك ويؤدي الى ان الله تعالى يلحن ويلفظ وهذا كفر ومن قولهم ان الله تعالى في كل مكان ولا فرق بين العرش وغيره من الامكنة وفي القرآن تكذيبهم قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ولا يقال على الارض استوى ولا على بطون الجبال والجبال وغير ذلك من الامكنة وهذا اخر ما يتعلق بالاغتناد والاصول على وجه الاشارة والاختصار وانما لشر الى ابطال كل مذهب من مذاهب هذه الفرق الصالحة خوفا من اطالة الكتاب وانا اوردا ذكر مقالتهم مجردة للتحدير منها اغاذنا الله واياكم من شر هذا المذاهب واهلها واما تنا على الاسلام والسنة في الفرقة الناجية برحمته -

کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی حق تعالیٰ بندے میں اتر آتا ہے اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ سے خدایاں سرزد ہوں اور الفاظ کا تلفظ فرمائے اور یہ کفر ہے، ان کا ایک گندہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ ہر جگہ ہے اور عرش میں اور دوسرے مقامات میں کوئی فرق نہیں حالانکہ قرآن حکیم میں ان کی تکذیب موجود ہے فرمایا: رحمن عرش پر جلوہ افروز ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ زمین پر بیٹھا ہے اور نہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحموں میں اور پہاڑوں وغیرہ پر بیٹھا ہے۔ الغرض ان گمراہ فرقوں کے عقائد کی طرف ہم نے اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے اور کتاب کے طویل ہوجانے کے ڈر سے ہم نے ان کے اقوال کی تردید کی طرف اشارے نہیں کئے بلکہ محض اقوال نقل کر دئے ہیں تاکہ قارئین کرام ان سے محتاط رہیں حق تعالیٰ شانہ ہم کو اور قارئین کرام کو ان اقوال کی اور اہل اقوال کی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت و نوازش سے اسلام و توحید پر ادرست پر نجات پانے والے فرقہ میں شامل فرما کر ہمیں اپنے پاس بلائے آمین۔

## توال باب

### قرآن و حدیث سے وعظ و نصیحت کی مجلسیں

پہلی مجلس تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا | حق تعالیٰ جل مجدہ نے فرمایا، جب آپ قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ فرمائیں تو راندے گئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے۔ غور کیجئے یہ آیت سورہ نمل کی ہے سورہ نمل کہ میں اتر ہی البتہ اس کی آخری تین آیتیں مدینہ میں اتریں۔ اس میں ۱۲۸ آیتیں ہیں اور ۱۸ کلمے

واما الاتعاظ بمواعظ القرآن والالفاظ النبویة فی مجالس تذکرہا فالاول من ذلك مجلس فی قوله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطن الرجیم اعلم ان هذه الآية فی سورة النمل وهي مکية الثلاث آیات من



ہیں اور ۷۷۰۹ حرف ہیں۔

مفسرین اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ میں صبح کی نماز میں نبی صلعم نے سورہ نجم اور الیل پڑھی اور آپ نے ان دونوں سورتوں کو زور سے پڑھا پھر جب آپ افراتیم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الاخریٰ پر پہنچے وہ آپ پر اونگھ طاری ہو گئی اور آپ کی آواز میں آواز ملا کہ شیطان نے یہ کلمے پڑھا دئے یہ بلند شان والے غرائق (بت) ہیں اور ان سے شفاعت کی توقع ہے یہ کلمے سن کر مشرکوں کو مسرت ہوئی کیونکہ وہ بتوں کی شفاعت کے قائل تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ بت اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوادیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ جل مجدہ نے فرمایا: (وہ کہتے ہیں) ہم ان کی محض اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں حق تعالیٰ سے قریب کر دیں گے۔

مشرک کہا کرتے تھے کہ بت معصوم و پاک اجسام ہیں اور ہر طرح کے گناہ سے برہمی ہیں اس لئے بہ نسبت سلاطین و ملائکہ کے یہ عبادت کئے جانے کے زیادہ لائق ہیں کیونکہ وہ گنہ گار و جاندار ہیں اس لئے انہوں نے بتوں کو غرائق سے تشبیہ دی غرائق غرلوق اور غرنیق کی جمع ہے غرلوق نر پرندے کو کہتے ہیں کیونکہ پرندے اور پر چڑھتے ہیں اور فضا میں بلند ہو کر اڑتے ہیں بعض کے نزدیک غرلوق بانی کا ایک سفید پرندہ ہے بعض کے نزدیک کلنگ کو کہتے ہیں اور نازک اندام لوزجوان کو بھی غرلوق کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: گویا میں ایک قرشی غرلوق و نازک اندام لوزجوان کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے خون میں لت پت ہے۔ مقال کے نزدیک غرائق سے فرشتے مراد ہیں مشرکوں کو امید تھی کہ فرشتے ان کی شفاعت کر کے بخشوادیں گے کیونکہ کافروں کی ایک جماعت فرشتوں کو پوجتی تھی پھر جب رسول اللہ صلعم نے سورہ نجم ختم فرمادی تو آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ تمام

اخرها انزلت بالمدينة وعداياتها مائة و عشرون آية وثمان ايات وعدد كلماتها الف وثمان مائة و احدى واربعون كلمة و حروفها سبعة الاف و سبعمائة و تسعة ا حروف قال اهل التفسير كان سبب نزول هذه الآية ان النبي صلى الله عليه وسلم قرء سورة النجم و قرء و الليل اذا يغشى يحيى صلوة الفجر بمكة فاعلن قراءتهما فلما بلغ الى قوله افراتيم اللات والعزي ومناة الثالثة الاخرى لعس النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى الشيطان في قراءته تلك الغرائق العلى عندها الشفاعة ترجى ليعنى الاصنام ففرح المشركون بذلك لانهم اثبتوا لها الشفاعة و يقولون هولاء شفعاؤنا عند الله كما قال الله عز وجل ما نعبد هم الا ليقربونا الى الله زلفى وكانوا يقولون انها اجسام طاهرة ليس لها ذنوب فهى اولى بالعبادة لها من غيرها من الملوك و الملكة لان لهم ذنوب و ادهم ذوارواح فشبهاوا الاصنام بالغرائق و هى الذكور من الطيور و احدثها غرلوق و غرنيق لكونها تعلق و ترتفع فى السماء و قيل هو طائر ابيض من طير الماء و قيل هو الكركسى و يسمى ايضا للشاب الناعم غرلوق و منه حديث على رضى فكا فى النظر الى غرلوق من قرئش يتشخط فى دمى اى شاب و قال مقاتل ليعنى الملائكة رجوا ان تكون للملائكة شفاعاة لان طائفة

من الكفار كانت تعبد الملائكة فلما بلغ الرسول  
بمخاتمة النجم سجد وسجد كل من حضر من مسلم  
ومشرك غير ان الزبير بن المغيرة كان رجلا  
شبيها كبير فرغ ملاكفه من التراب الى جبهته  
فسجد عليه فقال محنتي كما تحتي اما بين و صواجا  
وكان امين خادم النبي صلى الله عليه  
وسلم تقتل يوم حنين فوفعت هاتان الكلمتان  
في قلب كل مشرك هما من سجع الشيطان وقتنته  
القاهما في قرائة النبي صلى الله عليه وسلم عند  
اخر ذكر الطواغيت والاصنام فجب الفرقان  
كلاهما من سجود الاعميين واتباعهم للنبي  
صلى الله عليه وسلم في ذلك فاما المسلمون  
فعجبوا من سجود المشركين على غير ايمان و  
يقين واما المشركون فطابت انفسهم الى النبي  
صلى الله عليه وسلم واما محابه واستبشروا و  
قالوا ان محمدا قد رجع الى دينه الاول ودين  
قومه فسجدوا وتعظيما لالهتهم ففشت  
الكلمات في الناس باظهار الشيطان حتى بلغت  
الكلمات الحبشة فكبر ذلك على النبي صلى الله  
عليه وسلم فلما امسى اتا جبرئيل عليه السلام  
وقال معاذ الله من هاتين الكلمتين ما انزلها ربي  
عز وجل ولا امرني بهما ربك فلما زام ذلك  
رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليه و  
قال اطعت للشيطان وتكلمت بكلامه و  
اشركته في امر الله عز وجل نسخ الله ما لقي

حاضرین نے بھی، مسلمانوں نے بھی اور مشرکوں نے بھی، البتہ ولید  
بن مغیرہ چونکہ بوڑھا پھولس تھا اور جھک نہیں سکتا تھا اس لئے  
اس نے مٹھی بھر مٹی لے کر اور اسے پیشانی کے پاس لے جا کر اس  
پر سجدہ کر لیا اور بولا: ہم ام امین اور اس کی تسبیح کی طرح  
سجدہ کرتے ہیں اور جھکے جاتے ہیں ام امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم نے فرمایا: ان دونوں شرکیہ  
کلمے ہر مشرک کے دل میں جا گھسے جو حقیقت میں شیطان کی مسجع  
عبادت تھی تاکہ لوگ فتنہ میں پڑ جائیں شیطان نے دنوۃ الناس  
الآخری کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آواز ملا کر یہ دونوں کلمے  
بڑھائے تھے تمام حاضرین کے سجدہ کرنے پر مسلمانوں کو بھی اور  
تعجب تھا اور مشرکوں کو بھی کیونکہ یہ کلمے مسلمانوں نے نہیں سنے تھے  
محض مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آواز میں سنے تھے مسلمانوں کو اس  
لئے تعجب تھا کہ مشرکوں نے ایمان و یقین لائے بغیر کیسے سجدہ کر لیا اور  
مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے خوش ہوئے جب آپ سے وہ کلمے سنے  
جو شیطان نے آپ کی اثنائے قرائت میں آپ کی آواز میں آواز  
ملا کر ان کے دلوں میں ڈال دئے تھے انہیں اس لئے مرت ہوئی  
کہ انہوں نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آباؤ اور قومی دین کی طرف  
لوٹ آئے، لہذا انہوں نے بھی اپنے معبودوں کی تعظیم کے لئے  
سجدہ کیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں جملوں کو لوگوں میں  
پھیلا دیا اور یہ اسی قدر عام ہوئے کہ حبشہ میں رہنے والے  
مسلمانوں میں بھی پھیل گئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افواہ سنی تو  
آپ کو سخت صدمہ ہوا، آپ دن بھر طویل رہے شام کو حضرت  
جبرئیل وحی لے کر آئے اور فرمایا: ان دونوں کلموں سے اللہ کی  
پناہ میرے پروردگار نے یہ دونوں کلمے نہیں اتارے اور نہ  
آپ کے پروردگار نے مجھے ان کا حکم فرمایا، غرضیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم



الشیطان وانزل علیہ وما ارسلنا من قبک من رسول ولا نبی الا اذا همّتی القی الشیطان فی امنیتہ یعنی فی تلاوتہ وقرآنتہ فینسخ اللہ ما یلقى الشیطان ثم یحکم اللہ ایتہ واللہ علیم حکیم فلما بر اللہ عزوجل نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم من سجع الشیطان وقتنتہ القلب المشرکون بفضلا لتهم وعداوتهم ثم امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاستعاذۃ فانزل اللہ عزوجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم قال عبد اللہ بن عباس معناه اذا اردت ان تقرأ القرآن فقل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی احتزبا لله من الشیطن الرجیم ای ابلیس اللعین یعنی المرجوم باللعنة فقال لیس شیء قط اغلظ علی ابلیس اللعین من التعوذ باللہ منه انه لیس له سلطان یعنی ملکا علی الذین امنوا فی علم اللہ فی الشک فیضلہم عن الہدی وعلی ربہم یتوکلون یعنی باللہ یتقون انما سلطانہ یعنی ملکہ علی الذین یتولونہ یعنی ابلیس اللعین یعنی یتبعونہ علی امرہ فیضلہم عن دینہم الاسلام والذین ہم بہ یعنی باللہ مشرکون ای من اجلہ مشرکون -

کہنے میں آکر اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شیطانی فتنوں سے بچائے آمین۔

آپ کی آواز میں ان کلموں کے پڑھے جانے سے بڑے دلگیر تھے اور فرماتے تھے بظاہر میں نے ہی شیطان کی اطاعت کی اور اس کے کلمے پڑھے اور اللہ کی عبادت میں اسے شریک کیا آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کلموں کے شیطانی کلمے ہونے کی تصدیق فرمادی اور یہ آیت اتاری: ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی اور جو نبی بھی بھیجا اور اس نے قرأت کی تو شیطان نے اسی کی قرأت میں دخل دیا پھر اللہ شیطانی کلموں کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو محکم بنا دیتا ہے اور اللہ بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شیطان کی سبوح سے اور اس کے فتنے سے بری قرار دیدیا تو مشرک پھر اپنی گمراہی اور عداوت پر اتر آئے پھر نبی صلعم کو عذاب اللہ پڑھنے کا حکم فرمایا گیا اور یہ آیت اتری: جب آپ قرآن کی تلاوت کا ارادہ کریں تو اللہ کی ارادے کے شیطان سے اپنا ہانگ لیا کیجئے۔ ابن عباس: یعنی جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ فرمائیں تو اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھ لیا کیجئے یعنی شیطان سے اللہ کی مدد سے اپنا ڈھونڈیں۔ رجم بمعنی مرجوم دراندہ گیا لعنت زدہ سے فرمایا: شیطان پر اعوذ باللہ سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں شیطان کا غلبہ ایمان والوں پر نہیں ہوتا کہ شیطان انہیں راہ ہدایت سے بہکا دے اور وہ اپنے اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں شیطان کا غلبہ انہیں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی گانتھتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر وہ انہیں ان کے دین اسلام کی سیدھی راہ سے بہکا دیتا ہے اور ان پر دانو چلتا ہے جو شیطان کے

# سوال باب



استعاذہ کی لغوی تحقیق لغت میں اعوذ کے یہ معنی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ ڈھونڈ پھتا ہوں اور اس کی حفاظت و حرمت کا خواستگار ہوں، معاذ یعنی پناہ گاہ، اعوذ کا مصدر عیاذ اور عوذ ہے، معاذ اللہ یعنی نکتوں سے بچنے کے لئے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہذا عوذ لی مما اخاف یعنی خطرات سے یہ مجھے پناہ دینے والا اور بچانے والا ہے اور مجھ سے فتنے پھٹانے والا ہے۔ بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے تاکہ اللہ اسے شیطانی اثر سے محفوظ فرمائے، تعوذ بالقرآن یعنی قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ بعض کے نزدیک استعاذہ بمعنی تعویذ اور قلعہ ہے، حق تعالیٰ حضرت مریم کی والدہ سے نقل کرتا ہوا فرماتا ہے اے میرے پروردگار میں اسے (مریم کو) اور اس کی اولاد کو (عیسے کو) راندے گئے شیطان سے محفوظ رکھنے کے لئے تیری حفاظت کے قلعہ میں محفوظ کرتی ہوں۔

شیطان کی لغوی تحقیق یہ لفظ شطن (رستی) سے بنا ہے، شطن لمبی اور منترک رسی کو کہتے ہیں اور شطن کے معنی روری کے ہیں گو یا شیطان خیر سے بہت دور ہے اور شر میں ہر وقت درگاہ دھوپ کرنے والا اور غیر معمولی لمبا ہے کبھی انسان کو بھی شیطان کہہ دیا جاتا ہے یعنی وہ اپنے بڑے افعال میں شیطان کی طرح ہے اسی طرح ہر بری چیز کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی ہے کہا جاتا ہے اس کا چہرہ یا سر گو یا شیطان کا چہرہ یا سر ہے فرمایا اور اس کی شاخیں گو یا شیطان کے سر ہیں یعنی بے ڈھنگے پن میں اور بدنالی میں۔

ومعنی اعوذ الاستعاذۃ والاستجارۃ والالتجاء والمعاذ الملجأ یقال عاذ بہ یعوذ بہ عیاذاً و اعوذ عوذاً ومعنی معاذ اللہ ای الملجأ الیہ واعوذ باللہ یقال ہذا عوذ لی مما اخاف ای مجیری والدافع عنی فان العبد یعوذ باللہ لیقیہ من شر الشیطان والتعوذ بالقرآن هو التثقی بہ و قیل معنی الاستعاذۃ الاحتراز باللہ عزوجل قال اللہ تعالیٰ حاکبیا عن ام مریم رب انی اعیدھا بک و ذرتیہا یعنی مریم و عیسیٰ من الشیطن الرجیم یعنی احتراز باللہ فی حقہما من الشیطن الرجیم واشتقاق الشیطن ما خوذ من الشطن وهو الجبل الطویل المضطرب والشطن البعد فکانہ بتاعد من الخیر و طال فی الشر واضطرب فیہ ثم قیل للسان شیطان ای کالشیطان فی فعلہ و کل شی مستقیح فهو مشبہة بالشیطان ینقال کان وحبہ وجہ الشیطان وکان راسہ راس الشیطان ومنہ قولہ تعالیٰ عزوجل طلحہا کانہ رؤس الشیاطین فهو راس الشیطان المعروف وقد قیل ہوجیات لہا رؤس منکرۃ واعراف و قیل رؤس الشیاطین بنت معروف و امسا



الرجیم فہو المرجوم باللعن ای رماہ باللعن و  
العداۃ من الحضرة بعصیانہ فی ترک السجود لادم علیہ  
السلام ورجنتہ الملئکة بالرماح وطرقتہ بہا  
من السماء الی الارض ثم جعلت لہ الکواکب  
رجوما فیرجمہو و زریۃ الی ان تقوم الساعة  
یا لکواکب ویا للعن کما قال اللہ عزوجل وجعلنا  
رجوما للشیطین۔

**فصل** ان الشیطان لعید من اللہ ولعید من  
کل خیر ولعید من الجنة وقرب الی النار فامر  
النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامتة الکرام بالتعود  
من الشیطان الرجیم البعید من الرحمن لیبعث  
من النیران ویقر لہ الی الجنان وینظر الی  
ملک الدیان فکان اللہ عزوجل یقول یا عبدی  
الشیطان منی لعید وانت منی قریب فاحسن  
الادب فی حفظ الحال حتی لا یكون للشیطان  
علیک سبیل ولیبب من الاسباب وحسن الادب  
فی اداء الاوامر وانتهاء النہی والرضا و  
بجزیان المقذور فی النفس واملال والاهل  
والوالد والخلائق اجمعین فاذا دام العبد  
علی ذلک والازمہ واطب علیہ وعالقتہ  
کانت لہ النجاة من فتن الشیطان وکما سہ  
وهو احسن النفس وغرائثها وعذاب القبر  
ومغطتہ وهول القیامة وشدتها والم  
النار وزفرتها وکان فی جوار اللہ فی حنة  
الماوی مع النیین والصدیقین والشہداء

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان سانپ ہیں اور انکے سر بے ڈھنگے اور خونناک ہوتے  
ہیں اور انکے پیر گھوڑوں کے پیروں کی طرح ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول  
الشیاطین ایک مشہور بوٹی ہے۔

رجیم کی لغوی تحقیق | رجیم بمعنی مرحوم ہے یعنی جسے لعنت کے پتھروں سے  
سنگسار کر دیا گیا ہو اور جسے درگاہ قدس سے اس کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے  
دور کر دیا گیا ہو، فرشتوں کو اللہ کا حکم تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں سب نے  
حکم ربانی کی تعمیل کی مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ کا حکم ٹھکرا دیا۔  
بالآخر فرشتوں نے شیطان کی اس بغاوت پر اس کے جسم میں نیزے گھونپے اور  
اسے آسمان سے زمین کی طرف مار بھگایا پھر اسے اور اس کی اولاد کو آتش تپھروں  
(شہاب ثاقب) سے تیا مت کر دیا سنگسار کیا جاتا رہیگا اور لعنتوں کے پتھروں سے  
بھی، فرمایا: اور ہم نے ان تاروں کو شیطانوں کو سنگسار کرنے کے لئے بنایا۔

**شیطان کی شرعی تحقیق** | چونکہ شیطان اللہ سے دور ہے، ہر خیر و  
بھلائی سے دور ہے اور جنت سے دور ہے ہاں جہنم کے قریب ہے اس لئے  
اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلعم کو اور آپ کی امت مرحومہ کو حکم فرمایا کہ وہ راند کے  
گئے شیطان سے جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں تاکہ  
جہنم سے دور اور جنت کے قریب ہو جائیں اور جزا دینے والے بادشاہ (حق  
تعالیٰ) شانہ پر اعتماد کریں کہ باحق تعالیٰ جل مجدہ فرماتا ہے اے میرے بندے  
شیطان مجھ سے دور ہے اور تو مجھ سے قریب ہے لہذا بہترین ادب ملحوظ  
خاطر رہے تاکہ شیطان تجھ پر کوئی راہ نہ پاسکے اور تجھ پر کسی جیلہ سے بھی  
اس کا داؤ نہ چل سکے۔ حسن ادب یہ ہے کہ میرے احکام بعد شوق و  
بجالات اور جن چیزوں سے میں نے روک دیا ہے ان سے خوشی خوشی رک جائے  
اور اپنے جان میں مال و اولاد میں اور اہل و عیال میں اور تمام کاموں میں  
تقدیر کے آگے تسلیم درضا جھکا۔ پھر جب انسان ان تمام باتوں پر حکم  
جائے گا اور انہیں ہمیشہ چھڑا رہے گا اور ان پر اڑ جائے گا اور انہیں سینے کی  
سے لگائے رکھے گا تو اسے شیطان فرشتوں اور وسوسوں سے اور نفس کے

وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا مُنْقَلِبًا فِي نِعْمَةِ اللَّهِ  
 فِي كُلِّ حَالٍ دَائِمًا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ  
 عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَإِذَا كَانَ  
 عَلَى الْعَبْدِ سِمَةٌ الْعِبُودِيَّةِ لِلْمَلِكِ الْإِهْلِيِّ لَمْ  
 يَكُنْ لِشَيْطَانِ الضَّعِيفِ الْخَسِيسِ الْإِدْنِي عَلَيْهِ  
 تَسَلُّقٌ وَابْتِلَاءٌ فِي الْجَلُوتِ وَلَا إِذَا خَلَا عَلَى  
 الْقَلْبِ بِالْمَعْصِيَةِ إِذَا نَوَى وَلَا عَلَى الْجَوَارِحِ إِذَا  
 كَادَتْ بِهَا أَنْ تَهْوِيَ وَتُرْدَى فَجَيِّدٌ لَيْسَ  
 النَّوْءُ أَهْكَذَ أَفْعَلْنَا بِنِ تَرْكِ الْهَوِيِّ وَاتَّبَعِ  
 الْحَقُّ وَبِهِ اهْتَدَى وَفِيهِ يَجْتَمِعُ الْمَلَاءُ وَالْإِهْلِيُّ  
 وَبِهِ يَبَاهِي الْمَلِكُ الْإِعْلَى عَلَى الْعَرْشِ إِذْ هُوَ عَلَيْهِ  
 اسْتَوَى بِكَلَامِ الْقَدِيمِ الْمَصُونِ مِنْ سَجْمِ الشَّيْطَانِ  
 وَالْبِاطِلِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقَارِي إِذَا قُرِئَ كَذَلِكَ  
 لَنْصَرَفَ عَنْهُ السَّرُّ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا  
 الْمَخْلِصِينَ إِذْ هُوَ فِي السَّرِّ وَالْعِلَانِيَةِ الْتَقَى فَالْفَوَارِ  
 مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَرَهَائِهِ أَحْرَى وَادْنَى  
 وَإِذَا حَذَرَ وَاقَعَ مِنَ الْعَلِيِّ الْإِعْلَى جِيَتْ قَالُ إِنَّ الشَّيْطَانَ  
 لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا عَدُوَّكُمْ أَنْبَاءً عُوا حَزْبَهُ لِيَكُونُوا  
 مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا  
 أَقْلَمَ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ فَاتَّبِعِ الشَّيْطَانَ أَصْلَ كُلِّ  
 شَقَاوَةٍ وَعِنَاءٌ فِي الْمَخَالَفَةِ سَعَادَةٌ وَلِعْمَاءُ وَرَأْحَةٌ  
 وَهَدَى وَالْخُلُودُ فِي دَارِ الْبَقَاءِ -

فصل في استيفيد العبد بالاستعاذة لخصته  
 أشياء أحدها الثبات على الدين والهدى و  
 والثاني السلامة من شر العين والعنا والثالث

بڑے بڑے اور ہولناک خیالات سے اور تیرے عذاب اور اس کے دباؤ سے  
 اور قیامت کی ہولوں اور شدتوں سے اور جہنم کے دکھوں اور عذابوں سے بچا  
 مل جائے گی اور اسے اللہ کے پڑوس میں اجنۃ المادنی میں انبیاء و صدیق  
 شہداء اور صلحاء کی رفاقت جو بہترین رفاقت ہے نصیب ہو جائیگی اور ہر حال  
 میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اللہ کی نعمتوں میں گروٹیں لیتا رہے گا حق تعالیٰ نے فرمایا  
 دے شیطان! اچھے میرے بندوں پر قابو حاصل نہیں اور ان پر تیرا دائرہ  
 نہیں چل سکتا۔ پھر جب بندہ پر بارگاہِ قدس سے بلا ہوا تمغہ ہو گا تو کمزور  
 خسیس اور حقیر شیطان اس پر جلوت و خلوت میں چڑھائی نہ کر سکے گا اور  
 نہ اپنے دام فریب میں مبتلا کر سکے گا اور اس کے پاس آنے کی شیطان کو نہ  
 ظاہر میں جرات ہوگی کہ اس سے گناہ سرزد کر سکے اور نہ باطن میں کہ اس کا  
 دل گناہوں کے دوسوسوں سے داغدار بنا سکے اگر شیطان بندے کو گمراہ کرنے  
 کے لئے ایڑی چوٹی کا بھی زور لگائے اور اللہ کے بندے کے پاس آ بھی جائے  
 تو اسے آواز نہ ہوگی ہم اسے جو خواہش نفسانی کو چھوڑ کر حق کی ترویج کرتا  
 ہے اور اس پر چل پڑتا ہے اور صحیح راہ پاماتا ہے ہی بندہ مقام عطا  
 فرماتے ہیں ایسے ہی بندے کی روح کے بارے میں فرشتے جھگڑتے ہیں  
 اور بارگاہِ قدس میں اس کی روح کو لے جانے کے لئے ہر فرشتہ کی دلی خواہش  
 ہوتی ہے اور آسمانوں پر فرشتوں میں اسے عظیم کے لقب سے پکارا جاتا ہے  
 اور ایسے ہی بندے پر عرش کے اوپر شمشاہ جل مجدہ جو عرش پر جلوہ افروز  
 ہے اور وہ اپنے قدیم کلام سے جو شیطان بسمع سے اور باطل سے محفوظ  
 ہے اور بندے نے قرأت سے قبل اعوذ پڑھ لی ہے اپنے بندے پر فخر  
 کرتا ہے فرمایا: بات اسی طرح ہے تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی بٹا  
 دیں کیونکہ وہ ہمارا منحص بندہ ہے کیونکہ اس کے دل میں خلوت و جلوت  
 میں اللہ کا ڈر ہے اور اس کے پاس تقویٰ کا ہتھیار ہے لہذا شیطان ہم  
 سے اس کی دعوتوں کو پس پشت پھینک کر بھاگتا مومن کی شان الہیہ  
 کے عین لائق و مناسب ہے اور انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کی طرف سے



الدخول فی الحصن الحصین والزلفی والمراجع  
الوصول الی المقام الامین مع التیین والتیقین  
والشہداء والصالحین والخاصین بیل معونة  
رب الارض والسماء كما ذکر فی بعض الکتب  
المتقدمة لما قال ابلیس اللعین فی مخاطبته  
لله عزوجل لا یتیمهم من بین ایدیہم ومن  
خلفہم وعن ایسائہم وعن شائئہم قال اللہ  
تعالی وعزتی وجلالی لا امرنہم بالاستعاذۃ فاذا  
استعاذوا بی حفظتہم عن الیبس بالہدایۃ  
وعن الشیال بالعنایۃ وعن الخلف بالعصمۃ  
وعن القدام بالنصرۃ حتی لا تضرہم وسوستک  
یا ملعون ورد فی بعض الحدیث عن رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من استعاذ  
باللہ مرتۃ حفظہ اللہ تعالی فی یومہ ذلک  
وقال ایضاً علیہ السلام اغلقوا البواب المعاصی  
بالاستعاذۃ وافتحوا البواب الطاعۃ بالتسمیۃ۔  
قیل ان ابلیس بیعت کل یوم ثلاثۃ  
وستین عسکر الا ضلال المؤمن فاذا استعاذ  
باللہ نظر اللہ الی قلبہ ثلاثۃ وستین  
نظرۃ ففی کل نظرۃ من نظراتہ تہلک عسکر  
من عساکر الشیطان لعنہ اللہ۔

چونکہ رہنے کا اور کمال احتیاط برتنے کا اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے  
کا حکم خود حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فرمایا دیکھو! شیطان تمہارا دشمن ہے  
لہذا اسے دشمن سمجھو وہ اپنی جماعت کو اس لئے بلاتا ہے کہ وہ سب  
جنمی بن جائیں۔ فرمایا شیطان تمہارے بہت لوگوں کو گمراہ کر چکا  
کیا اب بھی تمہیں ہوش نہیں؟ پیغمبر صاف ہے کہ شیطان کی پیروی ہر  
شقاوت مزید سختی اور ہر تکلیف و مشقت کی جڑ ہے اور اس کی مخالفت  
ہر خیر و سعادت کی، ہر نعمت و راحت کی، ہر رشد و ہدایت کی اور  
دار البقاء میں دائمی حیات کی بنیادی شے ہے۔

### فوائد استعاذہ

۱۔ استعاذہ پانچ فوائد کی ضمانت دیتا ہے استقامت  
و ہدایت کی، اس ملعون کی شرارتوں اور فتنوں سے حفظ و سلامتی کی ایک  
مضبوط قلعہ میں داخل ہونے کی نشارت کی اور اللہ کے تقرب کی، پر اس  
مقام پر پہنچنے کی جہاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کی رفاقت  
نصیب ہوگی اور پروردگار کی اعانت حاصل کیگی جو آسمان و زمین کا رب  
جیسا کہ پہلی کتابوں میں درج ہے کہ جب ملعون ابلیس نے گفتگو میں اللہ تعالیٰ  
سے کہا کہ میں لوگوں کو ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں  
آکر گمراہ کر کے چھوڑوں گا تو حق تعالیٰ نے جواب دیا: مجھے اپنی عزت  
و دبدبہ کی قسم میں انہیں استعاذہ کا حکم کروں گا اگر وہ اعوذ پڑھ لیں گے  
تو میں انہیں تیری گمراہی سے بچا کر رہوں گا دائیں طرف سے، ہدایت عطا  
کرے محفوظ کروں گا اور بائیں طرف سے اپنی مہربانی اور نوازش سے  
نواز کرے اور پیچھے سے ان کی حفاظت کرے اور آگے سے ان کی مدد کرے  
حتیٰ کہ اسے ملعون تیرا دوسرا نہیں نقصان دے ثابت نہ ہوگا۔ ایک حدیث  
میں ہے کہ رحمت عالم صلعم نے فرمایا: جس نے (روزانہ) ایک دفعہ اللہ سے (اعوذ پڑھ کر) پناہ مانگی لی اللہ تعالیٰ اس دن اسے شیطان کے  
شر سے محفوظ فرما دے گا علاوہ ازیں آپ نے فرمایا: اعوذ پڑھ کر گناہوں کا دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کر اطاعتوں کا دروازہ کھول لو  
کہا جاتا ہے روزانہ ابلیس ۳۶۰ شکر مومنوں کو گمراہ کرنے کے لئے بھیجتا ہے اور حق تعالیٰ اعوذ پڑھنے والوں کے دلوں پر ۳۶۰ بار نظر  
ڈالتا ہے پھر اللہ کی ہر نگاہ سے شیطان کا ایک کر تباہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے ۳۶۰ شکر فنا ہو کر رہ جاتے ہیں۔

**فصل** والذی یخاف الشیطان منه و یجذره الاستعاذۃ و شعاع نور معرفۃ قلوب العارفين فان لم تکن من العارفين فعلیک باستعاذۃ الملتقین الی ان ترقی الی درجۃ العارفين فحینئذ شعاع نور قلبک یکسر شوکتہ و یتھرم جندہ و یتبید خضراء لا یقلع شافتہ فی خاصتک و ربما جعلت شحنة لاخوانک و اتباعک كما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حق عمر بن الخطاب رض ان الشیطان لیفز من ظلمک یا عمر و قوله ما سلك عمر و اذیا الا و الشیطان سلك غیر ذلک الوادی و قیل ان الشیطان کان یفرع اذا رای عمر رض قال فاذا علم الشیطان من العبد الصدق فی عداوتہ و مخالفتہ لندعوتہ ائس منه و ترکہ و اشتغل بغيره و انما یاتیه کعنا حیانا علی علی وجه الاختفاء و التلصص فلیکن العبد ملازما للصدق مستیقظا مرتقیا لمجیء الشیطان و کیدا فان مثقبہ دقیق و عداوتہ قدیمۃ اصلیہ و انه یجری فی الجلود و اللحم کجری الدم فی العروق و قد روی عن ابی ہریرۃ رض انه یقول بعد کبرۃ اللہم انی اعوذ بک من ان اذنی او اقل فیقیل لہ تخاف من ذالک فقال کیف لا اخاف و ابلیس حتی۔

**فصل** واولی ما یتعان بہ علی محاربتہ

شیطان کن چیزوں سے ڈرتا ہے؟ شیطان اعوز سے اور عرفا کے دلوں کی معرفت کی نورانی کرنوں سے کانپتا ہے اگر آپ کا نام عرفا کی فہرست میں نہیں تو پارساؤں کے استعاذہ کو لازم کر لیں حتیٰ کہ آپ بتدریج ترقی کرتے کرتے عرفاء کے درجہ تک پہنچ جائیں پھر تو آپ کے دل کی نورانی شعاع شیطان کی مکر توڑ دیگی۔ اس کی فوج کو ہرا دیگی، اس کی بہار تاراج کر دیگی اور خاص طور سے آپ پر جو شیطانی حمد ہو رہے ہیں ان کا قلع قمع کر ڈالے گا اور لبا ارتات آپ اپنے بھائیوں اور پیروکاروں کے حق میں کو تو ال ثابت ہوں گے اور انہیں بھی شیطانی حملوں سے بچالیں گے جیسا کہ سرکار رسالت صلعم فداہ ابی وامی نے فاروق عمر رض کے حق میں فرمایا: عمر! شیطان تمہارے سایہ سے بھاگتا ہے ایک جگہ فرمایا: اللہ کی قسم عمر رض جس وادی سے گزرتے ہیں شیطان اس وادی کو چھوڑ کر دوسری وادی سے گزر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان حضرت عمر رض کو دیکھ کر دیوانہ ہو جاتا تھا اور مرگی والوں کی طرح بیہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا جب شیطان کسی کو اپنا سچا دشمن پاتا ہے اور اپنی دعوت کا پکا مخالف دیکھتا ہے تو اس سے مایوس ہو کر اسے چھوڑ دیتا ہے ورنہ کسی دوسرے کو کبھی لگ جاتا ہے لیکن تاک میں برابر رہتا ہے اور کبھی کبھی چوری چھپے سے اس کے پاس آدھکتا ہے اس لئے انسان حق و صداقت کا دامن مضبوط رکھے رہے شیطان سے جو کما اور محتاط رہے اور شیطان کے آنے کا اور اس کی مکاری کا خطرہ ہمہ وقت پیش نظر رکھے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھائے کیونکہ شیطان کے سوراخ بہت ہی باریک باریک ہیں اور اس کی عداوت پرانی چلی آ رہی ہے اور اصلی ہے اگر اسے ذرا سا بھی راسخ ملتا ہے تو یہ گھس کر انسان کے گوشت پوست میں اس طرح ورڈنے لگتا ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا رہتا ہے حتمی اور ہرگز بڑھاپے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ زنا کرنے سے باقتل کرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں آپ سے کہا گیا کہ اس عمر میں زنا اور قتل سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا: کیسے نہ ڈروں؟ ابلیس تو زندہ ہے۔

شیطان سے بچنے کی تدبیر شیطان سے جنگ کرنے کا ارادے نہ



الشیطان ردفعہ کلمۃ الاخلاص و ذکر المرء  
 ربہ عزوجل کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 حاکیا عن ربہ عزوجل انه قال لا اله الا الله  
 حصنی فمن قالها دخل حصنی فمن دخل حصنی  
 فقد امن عذابی وقوله علیہ الصلوٰۃ والسلام  
 من قال لا اله الا الله خالصا مخلصا دخل الجنة  
 فالشیطان سبب الخصال فاذا قال العبد کلمۃ  
 و تقص بموجباتها من اداء الاوامر و ترک النواهی  
 فراا الشیطان متلبسا بک لتباعد منه ولم  
 یقدم علیہ فنج العبد من قنتہ کما یجوز بجنۃ  
 القتال من سلاح عدوہ و کذا لك التسمیة یكثر  
 ذکرها فانه روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه  
 سمع رجلا یقول تعس الشیطان فقال له علیہ  
 الصلوٰۃ والسلام لا تقول هکذا فانه یتعاطم  
 الشیطان للعين و یقول بعزتی غلبتک و لکن قل  
 بسم الله فانه یتصاعق الشیطان حتی یمیر مثل  
 الذرۃ و کذا لك یتعان علیہ یتبرک الطمع فیما  
 سوی فضل الله عزوجل من ابتاع الدنیا و امرالهم  
 و حمدهم و ثناءهم و جعلهم و التکثر بھم  
 و هدایاھم فان الدنیا و ابتاءھا مال الشیطان  
 و جنودہ و حزبیہ و المرء مع ماله و الملك مع  
 جنده فعلى العبد الیاس من ذلك کل و  
 الاستغناء باللہ عزوجل و الثقة بہ و التوکل  
 علیہ و الرجوع الیہ فی جمیع امورہ و احوالہ  
 و استعمال الورع من الحرام و الشبهۃ و

کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار کلمہ توحید و اخلاص اور ذکر اللہ ہے جیسا  
 کہ نبی صلعم نے اپنے پروردگار سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ رب العالمین  
 نے فرمایا لا اله الا الله میرا قلعہ ہے جس نے لا اله الا الله کہہ لیا وہ میرے  
 قلعہ میں داخل ہو گیا اور جو میرے قلعہ میں آ گیا وہ میرے عذاب سے نڈر  
 ہو گیا علاوہ ازیں آپ نے فرمایا: جس نے خالص لا اله الا الله خلوص سے  
 کہ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

شیطان سبب عذاب ہے پھر جب کوئی کلمہ اخلاص کو سینہ سے لگالے  
 اور اس کے تقاضے پورے کرنے لگے کہ احکام پر سرگرم عمل رہے اور  
 حرام و ممنوعات ترک کر دے تو شیطان اسے ان خوبصورت احوال میں  
 دیکھ کر اس سے دور دور رہتا ہے اور اسے اس سے آنکھیں ملانے کی  
 جرات نہیں ہوتی اور اس کے سامنے آنے سے گھبراتا ہے بالآخر انسان  
 اس کے فتنہ سے نجات پا جاتا ہے جیسے جنگی جران اپنی ڈھال سے دشمنوں  
 اسلحہ سے بچ جاتا ہے اسی طرح کثرت سے بسم اللہ کے پڑھنے سے بھی شیطان  
 سے حفاظت ہوتی ہے نبی صلعم سے منقول ہے کہ آپ نے ایک شخص سے سنا  
 کہ وہ کہہ رہا ہے: شیطان ہلاک ہو فرمایا: اس طرح بددعا نہ کہو کہ اس  
 سے شیطان لعین موتا ہوتا ہے اور پھول کہہ کیا بن جاتا ہے اور کتاب ہے میری  
 عزت کی قسم! میں تجھ پر غالب آ گیا ہوں بسم اللہ پڑھ لیا کہ کیونکہ اس  
 شیطان ذلیل ہوتے ہوتے چیونٹی جیسا بن جاتا ہے۔

اسی طرح شیطان کے دفع کرنے پر ترک طمع سے بھی مدد ملی جاتی ہے  
 کہ حق تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ اپنا فضل عطا فرمایا ہے اس پر قناعت  
 کر لے اور مزید مال و اولاد کا لالچ نہ رکھے اور مال و اولاد کی تعریف  
 و توصیف میں وقت ضائع نہ کرے اور زیادہ مال و ہدایا جمع کرنے کی  
 طرف راغب نہ ہو کیونکہ دنیا اور دنیا والے شیطان کا مال اس کے لشکر  
 اور اس کی جماعت میں اور انسان اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے اور بادشاہ  
 اپنے لشکر کے ساتھ رہتا ہے لہذا ان تمام چیزوں سے ایک مومن کو ناامید

ترك منة الخلق والتقليل من مباح الدنيا وحلالها  
والاكل بشهوة وشرد كحاطب الليل من غير  
تفتيش وتنقيرو من لم يبال من اين مطعمه ومشربه  
لم يبال الله تعالى من اى ابواب النار يدخله  
فيلزم العبد ذلك حتى يأس الشيطان منه  
فيسلم برحمة الله وعونه فان لم يفعل ذلك  
فالشيطان قرينه في قلبه وصدرة قال الله  
عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له  
شيطانا فهو له قرين فادارة يوسف في الصلوة و  
اخري بينيه الاماني الباطلة من شهوات النفس  
المحرمة منها والمباحة وقارة يثبطه عن  
المسارعة في الخيرات والالتفات بالنسب والواجبات  
والعبادات والقربات فيحسر الدنيا والاخرة  
فيحشر معه وربما سلب الايمان في اخر عمره  
فيخلد معه في النار يوم القيامة مع فرعون وهامان  
وقارون ليعوذ بالله من سلب الايمان  
ومتابعة الشيطان في السر والاعلان-

**فصل** دروی مقاتل عن الزهري  
عن عروثة عن عائشة رضي الله عنها  
انها قالت را ح اصحاب رسول الله صلى الله  
عليه وسلم ذات عشية يريدون رسول الله  
صلى الله عليه وسلم فيهم البر بكر وعمر و  
عثمان وعلي وسلمان وعمار بن ياسر رضي الله  
تعالى عنهم اجمعين فخرج رسول الله صلى الله  
عليه وسلم وقد اخذته الرخصاء يعني

ہو جانا چاہیے اور اپنے تمام امور و احوال میں اللہ سے لو لگا کر مستغنی رہے  
اسی پر بھروسہ رکھے اور اسی پر توکل کرے اور اسی کی طرف رجوع کرے اور  
حرام اور مشتبہ چیزوں سے احتیاط برتے اور کنارہ کش رہے اور لوگوں میں  
کسی کا احسان نہ اٹھائے اور دنیوی مباح و حلال چیزیں کم سے کم استعمال  
کرے اور حرص و ہوس کو پاس بھی نہ آنے دے اور پوری پوری تحقیق و کربد کے  
بغیر ذات میں لکڑیاں جمع کر نیوالے کی مانند نہ بنے کہ اچھا برا سب سمیٹ لے  
جو اس بات کی پروا نہ کرے کہ اس کا طعام و شراب کہاں سے آیا ہے تو اس کے  
باپے میں اللہ تعالیٰ کو بھی پروا نہ ہوگی کہ اسے جہنم کے کسی دروازے سے جہنم میں  
جھونکے لہذا انسان کو پارسا اور متقی بن کر رہنا چاہیے تاکہ اس سے شیطان نا  
ہر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد و مرہبانی سے شیطان سے محفوظ رہے ورنہ  
شیطان اس کے دل اور سینہ میں دھونی دھما کر بیٹھ جائیگا اور اس کا ساتھی بن  
جائیگا حق تعالیٰ نے فرمایا اور جو مہربان اللہ کے ذکر سے اندھا بنا رہتا ہے ہم اس  
پر ایک شیطان مسلط کرتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے اور یہ خبیث  
کبھی تو نماز میں دوسرے ڈالتا ہے کبھی باطل اور نہ بر آئینوالی امیدیں دلاتا ہے اور  
نفسانی اور مباح اور حرام شہوتوں کو ابھارتا ہے کبھی نیک کاموں میں دوڑ دھوڑ  
سے روکتا ہے اور سنن و فرائض ادا کرنے سے اور عبادتوں اور طاعتوں سے لفر  
دلاتا ہے بالآخر انسان اس ملعون کے کہنے میں آکر دنیا میں بھی گھٹا اٹھاتا ہے  
اور آخرت میں بھی اور شیطان ہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا کبھی کبھی شیطان  
انسان کی آخری عمر میں اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے اور وہ قیامت کے دن ہمیشہ  
ہمیشہ کے لئے فرعون الامان اور قارون کے ساتھ جہنمی بن جاتا ہے اللہ کی پناہ کہ  
شیطان ہم سے بہار ایمان چھیننے اور ہم خلوت و جلوت میں شیطان کے مطیع متقاویں  
شیطان کے اندر سے بچے | حضرت عائشہ صدیقہ رضی کا بیان ہے کہ ایک  
شام کو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے ان میں ابو بکر  
عمر عثمان علی سلمان اور عمار بن یاسر بھی تھے پھر آپ پسینہ میں شراب اور  
باہر آئے جیسے کسی کو شدت بخا دھیں خوب پسینہ آیا کرتا ہے آپ کے چہرے



عرق الحی یجد منه مثل الجمان یعنی اللؤلؤ  
ثم مسح الجبهة وقال لعن الله الملعون  
ثلاثا ثم اطرق فقال له علی رضی باپی و احمی  
من لعنت ألقا فقال صلی الله علیه وسلم  
ابليس الخبیث عدو الله ادخل ذنبه فی دبره  
فباض سبع بیضات فہما اولادہ الموکلون  
بنی آدم احدہم اسمہ المدحش و کل  
بالعلماء یردہم الی الہواء المختلفہ والثانی  
اسمہ حدیث و ہو صاحب الصلوٰۃ فیتسیہم  
الذکر و یعیثہم باللحظ و یطرح علیہم الثاویب  
و النعاس حتی ینام احدہم فیقال له قد نمت  
فیقول لمانم فیدخل فی الصلوٰۃ بخیر  
وضوء و الذی نفس محمد بیدہ لا یخرج احدہم  
من صلوٰتہ ما لہ شطرہا و الاربعہا و الا عشرہا  
ووزرہا اکثر من اجرہا و الثالث اسمہ الزلیون  
و ہو صاحب الاسواق یا مرہم بالتطقیف  
و الکذب فی الشری و البیع و التجلی لسلعة  
و المدح لہا اذا باعہا حتی ینفقہا عن  
نفسہ و الرابع اسمہ بثر و ہو صاحب  
قد الجیوب و نحش الوجوہ و الدعاء  
بالویل و الثبور عند نزول المصیبة حتی  
یحبط اجر صاحبہا و الخامس اسمہ منشوط  
و ہو صاحب اخبار الکذب و النمیمۃ و الہمز  
و الغر حتی لیرء ثم العباد و السادس اسمہ و اسم  
و ہو صاحب الدیر الذی ینفخ فی الاحلیل

موتوں کی طرح پسینہ کے قطرے ٹپک رہے تھے پھر آپ نے شیانی اندر لپٹی  
اور تین بار فرمایا: اس ملعون پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آپ سر جھکا کر خاموش  
ہو گئے حضرت علی رضی نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے  
اس وقت کسی پر لعنت فرمائی؟ فرمایا اللہ کے دشمن خبیث ابلیس پر اس  
نے اپنی دم اپنی مفعد میں گھسیڑ کر سات انڈے دئے اور ان سے سات بچے پیدا  
ہوئے جو اولاد آدم پر مستط ہیں۔ ایک کا نام مدحش ہے جو علماء پر مستط ہے  
اور انہیں طرح طرح کی مختلف خواہشات پر ابھارتا رہتا ہے دوسرے کا  
نام حدیث ہے جو نمازیوں پر مستط ہے اور نماز میں بھول پیدا کرتا ہے  
اور ان کا منہ ادھر ادھر پھیر کر ان سے کھیلتا ہے اور ان پر جہائی اور گھوڑ  
طاری کر دیتا ہے حتیٰ کہ نمازی سو جاتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ  
آپ تو سو گئے تھے تو کہتا ہے نہیں تو میں تو نہیں سویا اور وہ بلا وضو کے  
نماز پڑھ لیتا ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم میں سے  
بعض شخص اس حال میں نماز سے فارغ ہوتے ہیں کہ انہیں نماز کا آدھا  
ثواب بھی نہیں ملتا ہے اور نہ دسواں حصہ ثواب ملتا ہے بلکہ ان پر  
گناہ ثواب سے زیادہ ہوتا ہے۔

تیسرے کا نام زلیون ہے یہ بازاروں میں تاجروں پر مستط ہوتا ہے  
اور انہیں کم کرنے اور کم ہانپنے پر ابھارتا رہتا ہے اور خرید و فروخت میں  
جھوٹ بولنے پر بھی اور سووے کو خوبصورت بنانے پر اور اس کی  
خواہ مخواہ تعریف کرنے پر بھی حتیٰ کہ وہ اسے فروخت کر ڈالتا ہے۔  
چوتھے کا نام بثر ہے یہ نوحہ والوں پر مستط ہے اور انہیں مصیبت کے  
وقت گریبان پھاڑنے پر منہ زور چنے پر اور اپنے آپ کو طرح طرح کے  
کوسنوں پر اور آہ و وادلا پر ابھارتا ہے حتیٰ کہ انہیں ملنے والے  
ثواب کو غارت کر دیتا ہے۔ پانچویں کا نام منشوط ہے یہ لوگوں کو جھوٹ  
چغلی انکتہ چینی اور طعن و تشنیع پر ابھارتا رہتا ہے تاکہ انہیں گناہوں  
میں لتھیر کر داغدار بنا دے۔ چھٹے کا نام واسم ہے یہ مردوں کے عضو

وعجز المرأة حتى يزني كل واحد منهما  
بصاحبه والسابع اسمه الاعور وهو صاحب  
السرقۃ يقول للسارق تسد بها فافتك و  
تقضي بها دينك وتستر بها عورتك ثم  
تتوب فيبغى لكل مومن ان لا يفعل عن  
الشیطان فی سائر احواله ولا يأمنه فی  
جیب امورہ وقد جاء فی الحدیث عن النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان للوضوء  
شیطانا یقال له الولہان فاستعیدوا باللہ  
منہ وجاء فی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم انه قال تراصوا فی الصفوف لئلا  
یتخللکم الشیطان کانتہا بنات حذف  
قال ابو حذیفۃ قال ابو عبیدۃ تھی ہذا  
الغنم الصغار المجازیۃ واحدتها حذفۃ  
ویقال لقد ایضاً ویقال لیس بها اذ ناب  
ولا اذان یجاء بها من جرش بلدۃ  
بالیمن وقد روی عن عثمان بن العاص  
انه قال قلت یارسول اللہ کیف حال  
الشیطان بینی و بین صلوتی و قراءتی  
فقال صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان  
یقال له خنزب اذا اجمستہ فتعوز باللہ  
منہ و اتقل عن لیسارک قلت ا قال ففعلت  
ذک فاذہبہ اللہ عنی وقال النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم فی الحدیث المشہور ما منکم من  
احد الا وله شیطان قالوا و لا انت یارسول اللہ

مخصوص میں اور عورتوں کے سرینوں میں پھونک مارتا ہے تاکہ آپس میں  
ایک دوسرے کے ساتھ مل کر منہ کالا کریں۔ ساتویں کا نام اغور ہے یہ  
چوروں پر مسلط ہے چوروں سے کہتا ہے کہ چوری نیک عمل ہے اس سے  
تیرا فائدہ ٹوٹے گا اور تو اپنا فرض بھی اتا دیکھا اور ستر لپٹشی بھی ہو جائے گی  
پھر اللہ سے توبہ کر لینا۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ شیطان سے کسی حال میں بھی  
غافل نہ رہے اور اپنے کسی کام میں بھی اس سے بے خوف ہو کر نہ بیٹھے  
ایک حدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلعم نے فرمایا: وضو پر ایک شیطان  
مسلط ہے جس کا نام ذکمان ہے لہذا اس سے اللہ کی پناہ مانگو ایک  
حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: صفوں میں اچھی طرح سے مل کر کھڑے  
ہو تاکہ شیطان تمہارے درمیان داخل نہ ہو گویا وہ بکری کے بچے ہیں  
ابو عبیدۃ: حذف حجاز کی چھوٹی چھوٹی بکریاں ہیں یہ حذفۃ کی جمع ہے  
ان کو نقد بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی دمیں اور کان نہیں  
ہوتے اور یریمین کے ایک شہر جرش سے لائی جاتی ہیں عثمان بن عاص  
کہتے ہیں میں نے کہا: یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری نماز و  
قرآن میں کیسے حائل ہوا؟ فرمایا: اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے  
جب اس کی آہٹ پاؤ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور تین بار باریں  
جانب تھمتھکا رو پھر میں نے ایسا ہی کیا اور حق تعالیٰ نے اسے  
مجھ سے ہٹا دیا ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: تم میں سے  
ہر ایک کے پاس ایک شیطان ضرور رہتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا  
کیا آپ بھی بلا شیطان کے نہیں؟ فرمایا: ہاں، میرے ساتھ بھی ایک  
شیطان رہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر میری اعانت فرمائی ہے۔  
میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا:  
تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس پر اس کا ساتھی ایک جن مسلط نہ ہو۔  
آگے حسب سابق حدیث ہے اور یہ مزید ہے اور وہ مجھے خیر ہی کا حکم  
کرتا ہے۔ کہتے ہیں: جب اللہ نے ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس کی



ہائیں پسلی سے اس کی عورت شیطان ہی پیدا فرمائی جیسے حواء کو حضرت آدم سے پیدا فرمایا تھا پھر شیطان نے اس سے محبت کی اور وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے ۳۱ انڈے دئے انہیں انڈوں کے بچے ابلیس کی اولاد کی اصل ہیں انہیں سے اولاد اس قدر کثرت سے پھیلی کہ ان سے خشکی اور تری بھر گئی حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ ہر انڈے سے دس دس ہزار شیطان اور شیطانیاں پیدا ہوئیں یعنی ان سے ابلیس کی نسل اس قدر پھیلی کہ تمام پہاڑ، جزیرے، کھنڈرات و دیوانے میدان، سمندر، زنگستان، درختوں کی کھوپڑیاں، بن چشے، دریا، سرراہے، چوراہے، حمام، پاخانے، کھڈیاں، غار، لڑائیوں کے میدان، عیاشیوں کے قبرستان، محلے، گھر، محل، دیہاتیوں کے خیمے اور تمام مقامات بھر گئے۔

حق تعالیٰ مجبورہ نے فرمایا، کیا تم مجھے چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی اولاد کو درست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں یہ بدل رکھ سچا معبود چھوڑ کر شیطان کو پوجا جاتا ہے، مشرکوں کے لئے بدترین بدل ہے۔ ان کے لئے دیل ہے جنہوں نے اللہ عزوجل کی عبادت سے شیطان اور اس کی اولاد کی عبادت کا تباہ کر لیا۔ لامحالہ ایسے لوگ انہیں کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم میں رہیں گے اگر وہ عمر بھر ہوش میں نہیں آئے اور بلا توبہ کے شرک ہی پر رہ گئے۔ لہذا ہر شخص کو اپنی ذات کے لئے بیدار ہو جانا چاہیے اور اس کا اپنے آپ کو شیطان کے پنجوں سے چھڑالینا اور رہا کر لینا سب سے پہلا فرض ہے اس لئے برے ساتھیوں سے، گندے علموں سے، اگر اسی کی دعوت دینے والوں سے اور شیطان نیکوں سے، کنارہ کش رہے اور ان سے بہت دور رہے اور اپنے سچے معبود اللہ کی طرف لوٹ آئے، اس کی عبادت و طاعت کو لینے سے چھٹالے اور اللہ کے نیک بندوں، علماء، صلحاء اور عرفاء کے

قال صلی اللہ علیہ وسلم ولا انا الا ان اللہ تبارک و تعالیٰ قد اعاننی علیہ فاسلم منہ و فی حدیث اخر عنہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما منکم من احد الا وقد وکل بھ قرینہ من الجن قیل و لا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا انا الا ان اللہ قد اعاننی علیہ فاسلم و لا یا مر فی الانجیر و قیل ان اللہ لما لعن ابلیس خلق منہ زوجتہ الشیطانۃ من ضلعہ الا لیسر کما خلقت حوا من آدم علیہ السلام فغشیہا فحملت منہ احدی و ثلاثین بیضہ فصارت اصلا لذریتہ فتفرعت الذریۃ عنہا فطیقت البر و البحر حتی قیل بقضت کل بیضۃ عشرة الاف ذکراً و انثی یعنی تفرعت منها فکسفر الجبال و الجزائر و الخرابات و الفلوات و البحار و الرمال و الادغال و الاجام و العیون و مجامع الطرف و الحمامات و الکنف و المزابیل و الهوائع و معازک الحروب و النواولیس و القبور و الدور و القصور و خیام الاعراب و جمیع البقاع قال اللہ افتخذ منہ و ذریۃ اولیاء من دونی و ہم لکم عدو و بئس للظلمین بدلا فویل لمن استبدل لعبادۃ اللہ عزوجل طاعة الشیطان و ذریۃ لاجرم انہ معہم فی النار خالد فیہا ان لم یتب و لم



تیتذکر فیتبہ لنفسہ ویسعی فی ذکاکہا و  
 خلاصہا فیفارق قرناء السوء والاعمال  
 الخبیثۃ ودعاۃ الضلال و جنود الشیطان  
 فیرجع الی اللہ ویلزم طاعتہ و یجالس  
 العلماء من عبادہ والعارفین بہ  
 العاملین لہ الداعین الیہ الراغبین  
 فیہ والراحمین بفضلہ الخائفین لسطوتہ  
 الراہبین من اخذہ الزاہدین فی الدنیا  
 الراغبین فی العقبی القائمین فی الدلیل  
 والصائمین فی النہار الباکین علی ما فات  
 من ایام البطالات العازمین علی الخیرات  
 فیما یاتی من العاعات التائبین من جمیع  
 الذنوب والخطیات المتوجکین علی خالق  
 الارض والسوات الواقین برب الخلیقۃ  
 والبریات فی اللحظات والساعات القانتین  
 فی اناء الیل واطراف النہار اولئک امنون  
 من السلاسل والاعلال وافات الدنیا  
 واهوال النیران لانہم خالفوا طاعة  
 الشیطان واطاعوا الرحمن فی السر و  
 الاعلات فقابلہم الدیان وجازالہم  
 المنان بما خبر فی قولہ البیان فوقرہم  
 اللہ شرذک الیوم ولقہم نصیرا وسورا  
 وجزاہم بما صبروا حینہ وحریرا وبقولہ  
 تعالیٰ ان المتقین فی جنت و نہر فی مقعد صدق  
 عند ملیک مقتدر وقال اللہ تعالیٰ ولن خا

پاس اٹھے بیٹھے جو اللہ کی رضا کے لئے ہمہ وقت سرگرم عمل رہتے ہیں اس کی طرف لوگوں کو محبت و پیار سے بلائے ہیں اس کی توجیہ کی پر خلوص تڑپ رکھتے ہیں اس کی نوازش و مہربانی کے امیدوار رہتے ہیں اس کی ہیبت و سطوت سے کانپتے رہتے ہیں اس کی پکڑ سے خوفزدہ رہتے ہیں دنیا کو خیر باد کہہ چکے ہیں اور آخرت کی سچی تڑپ رکھتے ہیں ہاں جو راتوں کو شب بیدار اور دنوں میں روزہ دار رہتے ہیں دن رات عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں لہو و لعب کے بیٹے ہوئے ایام کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتے رہتے ہیں کہ آہ کیسا بیش قیمت وقت ضائع ہو گیا اور ہم عبادتوں کے کتنے عظیم ثواب سے محروم رہ گئے مستقبل میں نیکیاں کرنے کا عزم بالجزم کر چکے ہیں تمام گناہوں سے رو رو کر اور بلک بلک کر توبہ کرتے رہتے ہیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے پر توکل رکھتے ہیں ہر لمحہ اور ہر وقت کائنات عالم کے پروردگار پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں اور دن رات کے اطراف و اوقات میں نماز پڑھتے رہتے ہیں یہی لوگ زنجیروں اور طوقوں سے امن والے ہیں اور دنیاوی آفتوں سے اور جہنم کے ہولوں اور دشتوں سے محفوظ ہیں کیونکہ انہوں نے شیطان کی پورے زور شور سے مخالفت کی اور رحمن کی خلوت و جلوت میں ہزار شوق و تمنا اطاعت کی بالآخر حق تعالیٰ نے ان کے عملوں کے مطابق انہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمایا جیسا کہ قرآن پاک میں ان سے وعدہ فرمایا تھا فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا اور انہیں ثناداتی اور مسرت عطا فرمائے گا اور انہیں ان کے صبر کی وجہ سے بدلہ میں جنت اور ریشم سے نوازے گا فرمایا بلاشبہ پارسی جنتوں میں اور نمرود میں ہوں گے اور صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس سچی کہ سبوں پر بیٹھے ہوں گے فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو درجے جنتیں ہیں۔



مقام ربہ جنتن وقد ذکر اللہ عزوجل فی  
کتابہ ہذا العبد المفتون بعد لقوا لا بقولہ  
تعالی ان الذین القوا اذا مسہم طئف  
من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون  
فاخبر عزوجل ان جلاء القلوب بذكر اللہ  
وبہ یزول عنها الغطاء والظلمة والرب  
والعقلة وبہ ینکشف الكرب  
فالذکر مفتاح التقوی والورع والتقوی  
باب الآخرة کما ان الهوائ باب الدنيا  
قال اللہ تعالی واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون  
فاخبر تبارک وتعالی ان الانسان بالذکر  
یتقی۔

**فصل** فی القلب لمتان لمة الملك وهی  
العباد بالخیر والتصدیق بالحق و لمة من العدو  
وهی العباد بالشکر وتکنیب بالحق ونهی عن  
الخیر وهو مروی عن عبد اللہ ابن مسعود  
رض وقال الحسن البصری رحمة اللہ علیہ  
وانما هما هتان یجزلان فی القلب هم من اللہ  
وهم من العدو فرحم اللہ عبد اوقف عند  
هم فما کان من اللہ امنا لا وما کان من  
عدوہ جاهدک وقال جاهد فی قول اللہ تعالی  
من شر الوساوس الخناس قال هو ینسبط علی  
قلب الانسان فاذا ذکر اللہ خنس والقبض  
واذا غفل انسبط علی قلبہ وقال مقاتل  
هو الشیطان فی صورة الخنزیر معلق فی القلب

حق تعالی شانہ قرآن حکیم میں ان اہل تقوی کے بارے میں جن کو شیطان  
نفس میں ڈالنا چاہتا ہے، فرماتا ہے، اور بیکھو! جو تقوی والے ہیں جب  
انہیں کوئی شیطان وسوسہ چھوٹاتا ہے تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے پھر  
وہ صحیح وغلط میں تمیز کر لیتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ سے  
دل کی صفائی ہوتی ہے اور اس کا رنگ دھل جاتا ہے اور غفلت کے  
پر دے بہٹ جاتے ہیں اور تاریکی چھٹ جاتی ہے اور رنگ  
بہٹ جاتا ہے اور غفلت نام کو نہیں رہتی اور محض ذکر اللہ سے  
تمام بے چینیوں اور کلفتیں دور ہو جاتی ہیں لہذا ذکر اللہ ورع و  
تقوی کی کنجی ہے اور تقویٰ آخرت کا دروازہ ہے جیسے ہوتی  
رخو اہش نفسانی، دنیا کا دروازہ ہے فرمایا: جو کچھ قرآن میں ہے  
اس کا ذکر کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، معلوم ہوا کہ  
انسان ذکر اللہ سے متقی بنتا ہے۔

**انسان کے موکل جن اور فرشتے** | انسان کے دل میں دو قسم کے

خیالات پیدا ہوتے ہیں فرشتہ کی طرف سے (نیک) خیالات اور  
شیطان کی طرف سے (برے خیالات) فرشتے نیک خیالات کو اور حق  
کو قبول کرنے کا رجحان پیدا کرتے ہیں اور دشمن یعنی ابلیس برے خیالات  
کی اور حق نہ قبول کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور نیک اقوال و اعمال سے  
نفرت دلاتا ہے یہ بات حضرت عبد اللہ بن مسعود رض سے منقول ہے  
حسن بصریؒ: یہ دو طرح کے خطرات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے  
ہیں ایک خطرہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک ابلیس کی طرف سے  
حق تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو دلی خطرات پر غور کرتا ہے  
اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اسے جاری کر دیتا ہے اور اگر ابلیس کی  
طرف سے ہے تو اسے مجاہدہ کے ذریعہ دل سے نکال کر پٹخ دیتا ہے  
مجاہد ر من شر الوساوس الخناس یعنی وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ  
جانے والے کی برائی سے، کی تفسیر میں، شیطان انسان کے دل پر چھپ

فی جسد ابن آدم یجری منہ مجری الدم سلطہ  
 اللہ عزوجل علی ذلک من اللسان قد لک  
 قولہ الذی یوسوس فی صدور الناس فاذا سمعی  
 ابن آدم وسوس فی قلبہ حتی یتلح قلبہ الخناس  
 الذی اذا ذکر اللہ عزوجل ابن آدم خنس عن  
 قلبہ فذهب عنہ وخرج من جسدہ وقال  
 عکرمة الویسوس محلہ من الرجل فی ثوادہ  
 وعینیہ ومحلہ فی المرأة فی عینیہا اذا اقبلت  
 وفی عجزتہا اذا ادبرت۔

**فصل** فی القلب خواطر ستہ احدھا  
 خاطر النفس والثانی خاطر الشیطان والثالث  
 خاطر الروح والرابع خاطر الملك والخامس  
 خاطر العقل والسادس خاطر الیقین فغاطر  
 النفس یا صرینا ول الشہوات ومتابعة الهوی  
 المباح منہ والمخرج وخاطر الشیطان یا صرینا  
 الاصل بالکفر والشک والشکری والتمہة  
 للہ عزوجل فی وعدہ وفی الفرع بالمعاصی  
 والتسویف بالتوبة وما فیہ هلاک النفس  
 فی الدنیا والآخرۃ فالخاطر ان من مومنان  
 معکوم لہما بالسوء وھما الصوم المومنین  
 خاطر الروح وخاطر الملك یردان بالحق  
 والطاعة للہ عزوجل وما یکون عاقبتہ  
 سلامة الدنیا والآخرۃ وما یوافق العلم  
 فہما محسودان لا یعد مہما خصوم الناس  
 واما خاطر العقل فتارة یا صریباتا مریدہ

جانا ہے پھر جب بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو شیطان سکر کر غائب ہو  
 جاتا ہے اور اگر ذکر اللہ سے غافل رہتا ہے تو دل پر چھایا رہتا ہے  
 مقاتل یہ خنزیر کی شکل میں شیطان ہے جو انسان کے دل میں ٹسک  
 جاتا ہے اور خون کی طرح انسان کے جسم میں دوڑتا رہتا ہے حق  
 تعالیٰ نے اسے یہ طاقت دی ہے فرمایا: وہ جو لوگوں کے دلوں میں دوڑے  
 و التارہتا ہے جب کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے  
 دل میں وسوسہ ڈالتا ہے حتیٰ کہ خناس اس کا دل نکل جاتا ہے اور اگر اللہ کا ذکر  
 کرتا ہے تو اس کے دل سے ہٹ کر کسی جگہ جا چھپتا ہے اور اس کے جسم سے نکل جاتا ہے  
 عکرمة: وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا محل مرد کا دل اور آنکھیں ہیں اور انہی والی  
 عورت کی آنکھیں اور جانے والی کے سر میں ہیں۔

### خطرات قلب

انسان کے دل میں چھ قسم کے خیالات پیدا  
 ہوتے ہیں نفسانی، شیطانی، روحانی، ملکی، عقلی اور لقیبی۔

نفسانی خیالات نفسانی خواہشات پر اور ہوس کی پیروی پر خواہ  
 مباح ہو یا حرام، ابھارتے ہیں، شیطانی خیالات کفر و شرک پر شکوہ  
 و شکایت پر اللہ کے وعدوں کے بارے میں تہمت پر گندے افعال  
 کرنے پر اور توبہ کو کل کے چھوڑنے پر اور ایسے امور پر آمادہ کرتے  
 ہیں جن سے دین و دنیا میں ہلاکت و تباہی آتی ہے لہذا یہ دونوں  
 قسم کے خیالات لائق مذمت و ملامت ہیں اور بلاشبہ بدترین ہیں  
 اور عام مومنوں میں پائے جاتے ہیں اور روحانی اور ملکی خیالات  
 حق پر، اطاعت باری تعالیٰ پر اور ایسے امور پر جن میں دین و دنیا  
 کی سعادتیں اور سلامتیاں منہم ہیں اور علم کے موافق ہیں اساتے ہیں  
 یہ دونوں قسمیں تعریف و توصیف کے لائق ہیں انہیں اللہ والے  
 اور خاص حضرات اپنے دلوں سے جدا نہیں ہونے دیتے عقلی خیالات  
 کبھی شیطانی اور نفسانی خیالات کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کبھی  
 روحانی اور ملکی خیالات کی طرف توجہ مبذول کر دیتے ہیں عقلی



النفس والشیطان وتارة بما یامر به الروح والملك  
وذلك حکمة من الله واتقان لصنعتہ لیس یخل  
العبد فی الخیر والشر یوجد معقول وصحة شہود  
وتیز فیکون عاقبة ذلك من الجزاء والعقاب  
عائد الہ وعلیہ لان الله تعالی جعل الجسم  
مکانا لجریان احکامہ ومحلًا لتفاد مشیتہ  
فی مابقی حکمتہ کذلک جعل العقل مطیة  
الخیر والشر یجری معہما فی خزائنة الجسم  
اذا کانا مکانا للتکلیف وموضعًا للتصریف و  
سببًا للتعریف العائد الی لذلة النعمیم او  
عذاب الیم واما خاطر الیقین وهو روح الیقین  
ومورد العلم یرد من الله تعالی ولیمد رعتہ  
ومخصوص بخواص من الاولیاء الموقنین  
الصدیقین والشہداء والابدال کا یرد الی  
الاجتی وان خفی ورودہ ودق مجیئہ وکا  
یتقدح الی بعلم لدنی و اخبار الغیوب  
واسرار الامور فهو للمحبوبین والمرادین و  
المختارین القائلین لله الغائبین عن ظواهر  
ہنم الذین تقلبت عیاداتهم الظاہرة الی  
المیطنۃ ما خلا الفرائض والسنن المورکات  
فہولاء ابدانی مراقبۃ لراطنہم والله  
تعالی یتولی تربیۃ ظواہرہم کما قال عزوجل  
وعلا فی کتابہ العزیز ان ولی اللہ الذی  
نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین لولاہم و  
کفاہم واشغل قلوبہم بطلعة اسرار

خیالات حق تعالی شانہ کی حکمت اور اس کی کارگیری کے کمال کی نشانی  
ہیں تاکہ انسان خیر و شر میں تیز کر کے معقول و مشاہدہ پر مبنی دلائل کے ساتھ  
قدم بڑھائے تاکہ اس کے عملوں کے نتائج ثواب و عذاب پر مرتب ہوں  
کیونکہ حق تعالی نے انسان کا جسم اپنی حکمت سے اپنے احکام جاری کرنے  
کے لئے ان کا اور اپنی مشیت کا محل بنایا ہے اور عقل و شرک کی سواری بنا دیا ہے  
عقل خزانہ جسم میں خیر و شر دونوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اگر یہ دونوں  
تکالیف و تصرفات کے محل ہوں اور گونا گوں نعمتوں کی لذتوں اور  
دردناک و پرہوں عذابوں میں تیز کرنے کا ایک سبب ہے۔

یقینی خیالات جو ایمان کی روح اس کا جوہر اور علم و یقین کے محل ہیں  
حق تعالی جل مجدہ کی طرف سے آتے جاتے ہیں یہ خیالات خاص اولیاء اللہ  
کے لئے مخصوص ہیں جن کو کامل یقین حاصل ہے اور صدیقین، شہداء اور  
ابدال کے لئے بھی جن سے حق ہی سرزد ہوتا ہے اگرچہ اس کا ظہور  
پوشیدہ اور لطیف ترین ہوتا ہے اور اس کی چنگاریاں علم لدنی غیب  
کی خبروں اور چیزوں کے اسرار و حقائق ہی سے جھڑتی ہیں لہذا یہ اللہ کے  
پیاروں اس کے مطلوب بندوں اس کے برگزیدہ محبوبوں ہی کے لئے ہے  
جو اللہ ہی کے لئے لب کشائی کرتے ہیں اور اپنے ظاہری امور سے غائب  
رہتے ہیں جن کی فرائض و سنن سوکدہ کے علاوہ ظاہری عبادتیں باطنی  
عبادتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں یہ اللہ کے مقرب و خواص بندے ہیں  
اپنی باطنی عبادتوں کی اصلاح کی فکر میں گئے رہتے ہیں اور حق تعالی  
شانہ نے ان کی ظاہری عبادتوں کی ذمہ داری لے لی ہے اور وہی انہیں  
تعلیم و تربیت دیتا ہے فرمایا میرا ولی (دوست) اللہ ہے جس نے  
یہ کتاب اتاری وہی صلحاء کا متولی ہوتا ہے یعنی اللہ ان کا متولی ہے  
اور ان کے لئے کافی ہے اور اللہ نے ان کے دل اسرار غیب کے  
مطالعہ میں مشغول فرمادئے ہیں اور اپنی معرفت کی تجلیات سے انہیں  
جگمگا دیا ہے لہذا اس نے اپنے کلام کے لئے انہیں چن لیا ہے اور



الغیوب ونورها بالتجلی فی کل قریب فامسقطهم  
لمحادثته واختصهم بالانس بید والسکون  
الیہ والطمانیۃ لبدیہ فہم فی کل یوم فی  
مزید علم ونومعرفة وتوفیر نور وقرب  
من محبوبہم ومعبودہم وہم فی نعیم  
لا نقاد لہ والاع لا انقطاع لہا وسرور لایغایۃ  
لہ ولا منتهی فاذا بلغ الکتاب اجلہ وانتهی  
ماقدولہم من البقاء فی دارالقناء ثقلہم  
منہا باحسن الانتقال کما یثقل العروس من  
حجرۃ الی دار من الی الاعلی قال دنیا فی  
حقہم حینۃ و فی الاخرۃ لا عینہم قرۃ دہو  
النظر الی وجہ الکریم من غیر حجاب ولا  
باب ولا حاجب ولا بواب ولا مانع ولا حداد  
ولا من ولا امتنان ولا ضیم ولا ضرب ولا انقطاع  
ولا نقاد کما قال عز من قائل ان المتقین فی جنات  
ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر کما قال  
للذین احسنوا الحسنی و زیادۃ احسنوا فی الدنیا  
لہ بالطاعة فجاز یہم فی العقبی بالجنة والكرامة  
واعطاهم النعمة والسلامة و زادوا لہ بتطہیر  
القلوب وترك العمل لہا سواک فجاز یہم  
سبحانہ وتعالی بالزیادۃ فی دار البقاء والمنۃ  
وہودوام النظر الی وجہ الکریم کما اخبر  
فی کتاب المبین لعبادۃ اولی الالباب و  
العقول۔

اپنے سے مانوس بنانے کے لئے انہیں مخصوص فرمایا ہے انہیں اللہ ہی  
کے پاس سکون نصیب ہوتا اور اسی کے ذکر و فکر سے اطمینان ملتا ہے  
اور ان کا روز بروز علم بڑھتا ہی جاتا ہے اور لمحہ بہ لمحہ معرفت میں اضافہ  
ہی ہوتا رہتا ہے اور سکند بہ سکند نور کی اور اپنے معبود و محبوب سے قرب  
کی زیادتی ہی ہوتی رہتی ہے اور یہ ایسی ایسی نعمتوں سے لذت اندوز ہو  
رہے ہیں جن کو کبھی فنا نہیں اور ایسے ایسے نعمات سے نوازے جا رہے  
ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں اور انہیں ایسا سرور حاصل ہے جس کی  
غایت دانتہا نہیں پھر جب ان کی عمر کی مقررہ مدت ختم ہو جاتی ہے اور  
دنیا میں ان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے  
سبزیں طریقہ سے منتقل فرمادیتا ہے جیسے دلہن ایک تنگ دتار ایک  
کمرے سے فراخ درویش اور اعلیٰ اور مزین کمرے کی طرف منتقل کی جاتی ہے  
لہذا ان حضرات کے حق میں دنیا بھی بمنزلہ جنت کے ہے اور آخرت  
میں تو ان کی آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے کیونکہ وہ بلا حجاب  
د آڑ کے بلا پاس بان و دربان کے بلا کسی رکاوٹ و حد بندی کے  
بلا منت و احسان کے بلا ظلم و ضرر کے اور بلا انقطاع و اختتام کے  
اپنے معبود محبوب کا رخ الورد دیکھیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: بلاشبہ  
اللہ سے ڈرنے والے نہروں والی جنتوں میں پاکیزہ کرسیوں پر اپنے حساب  
انتدار بادشاہ کے پاس ہوں گے فرمایا جو پر خلوص عملوں میں سرگرم  
رہتے ہیں ان کے لئے جنت ہے اور مزید نعمت دیدار باری تعالیٰ ہے  
انہوں نے دنیا میں حسن عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیا تھا اللہ تعالیٰ  
نے انہیں آخرت میں عبادتوں کا بدلہ جنت و بزرگی عطا فرما کر دیا اور  
انہیں نعمت و سلامتی بخش اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے اپنے  
دل پاک کر لئے تھے اور صرف اللہ کی عبادت کی تھی اللہ نے انہیں دار البقاء  
میں دیدار کی مزید نعمت سے نواز دیا کہ ہمیشہ اپنے محبوب و معبود کے  
انہوں

کو دیکھتے رہیں اور اپنی آنکھوں میں نور اور دلوں میں سرور پیدا کرتے رہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روشن کتاب میں عقلاء کو خبر دی ہے۔



**فصل** وللنفس والروح مكانان لا لقاء الملك والشيطان فالملك يلقى التقوى الى القلب والشيطان يلقى الفجور الى النفس فيطالب النفس القلب باستعمال الجوارح بالفجور وفي مكانين في البنية العقل والهوى يتصرفان بمشيئة حاكم وهو التوفيق والاعواء وفي القلب نوران ساطعان وهما العلم والايمان فجميع ذلك ادوات القلب وتواسده والاته والقلب في وسط هذه الاكوات كالملك هذه جنود لا يردون اليه كالمراة المجلوة وهذه الاكوات حولها تنظر غير اها وليقدم فيها فيجد ها-

**فصل** اعوذ برب العرش والكرسى من الشيطان الغوى وخواطر السوء وهو احب النفس ومن فتنه كل جنى والنسى ومن رياء ولفاق و عجب وكبر وشرك وخلال السوء الناشئة في القلب ومن كل شهوة ولسن لا مؤدية الى المهالك للنفس ومن اليد والضللال والاهوية المتسلطة للنيران على الجسم ومن كل قول وفعل وهم تجب من القلوب العرشية قلبى ومن اتباع الاهوية المضلة والطباع النفسية والاخلاق الردية واعوذ بالملك الحميد المجيد من الشيطان الخبيث المرين اعوذ بالرب الودود ونقمتهم اذا غفلت عن طاعتهم اذ هو اقرب الي من جبل الوديد اعوذ بالله من سطوتهم اذا غضب على اهل المعصية

**نفس وروح کے دو خانے** | نفس وروح میں سے ہر ایک کے دو خانے

خانے ہیں ایک خانہ ملک خیالات کے لئے ہے اور ایک شیطانی خیالات کے لئے، فرشتہ دل میں تقویٰ ڈالتا ہے اور شیطان نفس میں فسق و فجور کی باتیں ڈالتا ہے اور نفس دل سے مطالبہ کرتا ہے کہ اعضا سے فسق و فجور کا کام لیا جائے انسان کے جسم کے اندر دو مکان ہیں ایک عقل کا مکان اور ایک ہوشی کا، یہ دونوں ایک حکمران (دل) کے اشاروں پر کام کرتے ہیں دل یا تو نیک کام کی رغبت دیتا ہے یا گمراہی کی طرف اشارہ کرتا ہے دل میں دو قسم کے روشن ہیں یعنی علم اور ایمان یہ تمام دل کے لئے ہیں اور دل ان آلات کے درمیان بمنزلہ بادشاہ کے ہیں اور اسکی فوج میں جو اسکے پاس آتے رہتے ہیں جیسے ایک مجلس آئینہ میں صورتیں چھپتی رہتی ہیں چونکہ یہ دل کے آس پاس ہوتے ہیں اس لئے جب دل انہیں دیکھتا ہے تو یہ دل میں منعکس ہو جاتے ہیں۔

**اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا** | میں عرش

و کرسی کے پروردگار کی گمراہ شیطان سے، برے خیالات سے نفسانی خطرات سے، اہرجن اور انسان کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور ریا، لفاق، غرور، اپنی بڑائی، شرک اور برے اخلاق سے بھی جو دل میں بھرتے رہتے ہیں اور ہر اس شہوت و لذت سے بھی جو نفس کو تباہ کر نیوالی ہے اور بدعتوں، اگرچیوں اور خواہشات سے بھی اور جسم پر آگوں کے لئے مسلط ہیں اور ہر اس قول، فعل اور نکر سے بھی جو عرشى دلوں کی طرف سے میرے دل کے لئے حجاب بن جائے اور گمراہ کن خواہشات کی پیردی سے نفسانی رجحانات سے اور ردی اخلاق سے بھی اور میں خبیث و سرکش شیطان سے ایسے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں جو محمود و تعریفوں والا و بزرگ ہے اور میں محبت کرنے والے پروردگار کی اس کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں جب کہ میں اس کی اطاعت سے غافل ہو جاؤں کیونکہ وہ مجھ سے میری شاہ و گویا سے بھی زیادہ قریب ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ، جب وہ گناہوں سے عفت فرمائے قیامت کے دن اللہ کی سخت پکڑ کے وقت جب کہ وہ

اعوذ بہ من ہیبتہ عند شدۃ بطشہ فی  
یوم القیامۃ للطاعین من یرتہ و اعوذ بہ من  
کشف الغطاء والستر والیہان فی معصیتہ  
فی البر والبحر و نسیان الاصل والفرع والمیل  
الی الرفع والرعونۃ والخیلاء والکبر و  
ترک الطاعة والقربة والبر والتأتی علیہ  
والایمان الکاذبۃ والحنث دون البر و  
خاتمة السوء والافلاس من کل خیر و  
الموافاة عند حضور المنیۃ بالشر۔

**فصل** د مجاہدۃ الشیطان باطنۃ وھی  
بالقلب والجنان والایمان فاذا جاہدته  
کان مدرك الرحمن ومعتمدك المملک  
الدیان ورجاءك رویۃ وجه الجلیل المنان  
وجہاد الکفار جہاد الظاہر بالسیف و  
الرماح ومددك فیہ المملک والاعوان و  
رجاءك فیہ دخول الجنان فان قتلت فی  
مجاہدۃ الکفار کان جزاؤك الخلود فی  
دار البقاء وان قتلت فی مجاہدۃ الشیطان  
ومخالفتك ایاہ لبقاء اجلك واخترام منیتك  
کان جزاؤك وجه رب العالمین عند اللقاء  
فان قتلت الکافر کنت شهیداً وان قتلت  
الشیطان بتنابتك ایاہ والانقیاد لامرہ  
کنت من قرب المملک الجبار طریدا  
فجہاد الکفار لہ نہایۃ وفتاء وجہاد  
الشیطان والنفس لا غائیۃ لہ ولا منتهی

اپنی سرکش مخلوق کو پکڑے گا اللہ کی ہیبت سے اللہ کی پناہ مجھے اللہ  
کی پناہ کر میرے گناہوں کی پردہ دری ہو اور خشکی اور تیزی میں گناہوں  
سے اللہ کی پناہ اور اپنی اصل و فرع کو بھولنے سے اللہ کی پناہ  
اور بڑائی، رعونت، کبر، غرور، ترک عبادت و اطاعت، ترک  
یکگی، یگی میں سستی اور تاخیر، جھوٹی قسم، قسم کو توڑنے سے،  
بڑے خاتمہ سے اور ہر خیر میں خالی ہاتھ رہ جانے سے اور  
موت کے وقت بڑے خیالات سے اللہ کی پناہ۔

★

### شیطان سے مجاہدہ

شیطان سے ظاہر جہاد نہیں بلکہ باطنی ہے جو  
دل اور ایمان کے اسلحہ سے ہوتا ہے اگر آپ

شیطان سے جہاد کریں گے تو آپ کی پشت پر رحمن ہو گا اور آپ کو انصاف  
پسند شہنشاہ سہارا دے گا اور آپ دیدار باری تعالیٰ کے امیدواروں میں  
سے ہوں گے، کافروں سے ظاہری جہاد ہے جو تلوار اور نیزے وغیرہ سے  
کیا جاتا ہے اس میں بھی آپ کی مدد شہنشاہ عرش بریں ہی فرماتا ہے اور  
اس سے آپ جنت میں جانے کی امید دار بنتے ہیں اگر آپ کافروں کے جہاد  
میں کامیاب آگئے تو اس کی جزا میں آپ کو دار البقاء میں دائمی جنت ملے گی  
اور اگر آپ شیطان سے جہاد میں اور نادام واپس اس کی مخالفت  
کرتے کرتے مارے گئے یعنی اپنی موت سے مر گئے تو آپ کو اس کی جزا  
میں قیامت کے دن پروردگار عالم کا دیدار نصیب ہو گا اگر آپ کو  
کافر قتل کرے گا تو آپ شہید ہوں گے اور اگر آپ کو شیطان قتل کرے گا  
و شیطان کا قتل کرنا یہ ہے کہ آپ اس کے مطیع و منقاد بن جائیں  
تو آپ کو شہنشاہ جبار کے قرب سے دھکا دیا جائے گا لہذا کافروں  
سے جہاد کی تو غایت و انتہا ہے لیکن شیطان و نفس سے جہاد کی غایت  
و انتہا نہیں فرمایا: موت کے وقت تک اپنے پروردگار کی عبادت  
رہ، رب کی عبادت شیطان و نفس کی مخالفت کے ساتھ ہوتی ہے



قال الله عز وجل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك  
اليتقين يعني الموت واللقاء فالعبادة بمخالفة  
الشیطان والهوى قال الله عز وجل فكبيروا  
فيها هم والغاوت و جنود ابليس اجمعون و  
قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من  
غزوة تبوك رجعتنا من الجهاد الا صغر الى الجهاد  
الاكبر عنى به صلى الله عليه وسلم مجاهدته  
الشیطان والنفس والهوى لمد اومتها و  
طول ممارستها وخطرها والخوف من سوء خاتمتها

فرمایا: پھر وہ اور گمراہ اوندھے منہ جہنم میں جھوٹے جائیں  
گئے اور ابلیس کا تمام لشکر بھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم  
نے غزوة تبوک سے واپس آکر فرمایا: ہم چھوٹے جہاد سے  
بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے، اس سے آپ کی مراد  
شیطان و نفس سے اور حرص و ہوا سے جہاد کی تھی  
کیونکہ یہ جہاد ہمیشہ رہتا ہے اور اس کی مدت مرتے دم تک  
ہے اور اس کے خطرات سکران تک ہیں، حق تعالیٰ بڑے  
خاتمہ سے محفوظ فرمائے اور اسلام و توحید پر اپنے پاس  
بلائے آمین۔

## وعظ کی دوسری مجلس

فی قولہ عز وجل انہ من سلیمان و انہ  
بسم الله الرحمن الرحيم اعلم ان هذه  
الآية الشريفة في سورة النمل وهي مكية  
وعدداياتها ثلاث وتسعون آية وكلماتها  
الف ومائة وتسع واربعون كلمة وحروفها  
اربعة الاف وسبعائة وتسعة وتسعون  
حروفا واذ لك ان سليمان بن داود النبي  
عليه السلام و صلى الله على نبينا المصطفى  
وعلى سائر الانبياء والمؤمنين وعباد الله  
الصالحين وملككم المقربين لما خرج من واد  
النمل في مسيرة من بيت المقدس الى اليمن  
اخذ بالناس في مفادتهم فعطش الناس

بلقیس کے غلام حضرت سلیمان کا ایک خط اس خط کا متن  
یہ ہے: یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے جو بڑا  
عمران اور انتہائی رحم والا ہے شروع کیا جاتا ہے کہ میرے خلاف بنا  
نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ دیکھئے یہ آیت کہ یہ سورہ  
نمل میں ہے جو کہ میں اتری۔ اس میں ۹۳ آیتیں ۱۱۴۹ کلمے اور ۶۹۴۴  
حرف ہیں۔

حضرت سلیمان بیت المقدس دشام سے یمن جا رہے تھے جب  
آپ چیونٹیوں کی وادی سے گزرے تو اس میدان میں آپ کے  
لشکر کو پیاس محسوس ہوئی اور انہوں نے آپ سے پانی مانگا اس  
وقت آپ نے ہر دے کو ڈھونڈھا تاکہ وہ پانی کا سراغ لگائے  
آپ نے ہر دے بارے میں تحقیق و کردید کی اور کلنگ سے جو  
پرنڈوں کا امیر تھا دریافت کیا کہ ہر دے کہاں ہے اس کے ساتھ اس سفر



فَسَأَلُوا الْمَاءَ فَتَفَقَدَ الْهَدْدُ هَدْدًا عِنْدَ ذَلِكَ فَسَأَلَ  
عَنْهُ وَدَعَا امِيرَ الطَّيُورِ وَهُوَ الْكُرْكِيُّ فَسَأَلَهُ عَنْهُ  
وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْاَهْدُ هَدًّا وَاحِدًا فَقَالَ الْكُرْكِيُّ  
لَا اَدْرِي اَيْنَ ذَهَبَ وَلَا اسْتَأْمَرَنِي وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
يُرِيدُ الْهَدْدَ هَدًّا لِيَضَعَ مَنَاقِرَهُ فِي الْاَرْضِ فَيَخْبِرُهُ  
كَمَا بَعْدَ الْمَاءِ وَتَقْرِبُهُ وَكَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ  
مَنْ قَامَ اَوْ فَرَسَخَ وَكَانَ الْهَدْدُ هَدًّا مَخْصُوصًا  
بِذَلِكَ مِنْ دُونَ لَقِيَّةِ الطَّيُورِ وَكَانَ اِذَا  
اُرِيدَ عَنْهُ ذَلِكَ اِرْتَفَعَ فِي طَيْرِ اَنْدِهَ الْجُرْنِيَّةِ نَظَرَ  
ذَلِكَ ثُمَّ يَتَقَضَّى اِلَى تِلْكَ الْبَقْعَةِ الَّتِي فِيهَا  
الْمَاءُ فَيَضَعُ مَنَاقِرَهُ فِيهَا فَيَعْرِفُ ذَلِكَ قِتَابًا  
الشَّيَاطِينِ فَتَحْفَرُ تِلْكَ الْبَقْعَةُ فَيَخْرُجُ الْمَاءُ  
تِيخُذُ وَالْاَحْوَاضَ وَالْبُرُكَ وَالرُّكَايَا وَتَمَلَأُ  
الرُّوَايَا وَالْقُرُبَ وَالظَّرُوفَ وَتَشْرَبُ الدَّوَابَّ  
وَالنَّاسَ وَالْحَيَّاتَ ثُمَّ يَرْتَحِلُونَ فَلَمَّا فَتَقَدَّ الْهَدْدُ  
فِي تِلْكَ السَّاعَةِ غَضِبَ سَلِيمَانُ عِنْدَ ذَلِكَ  
غَضَبًا شَدِيدًا وَجَعَلَ يَقُولُ لَأَعَذَّبَنَّ عَذَابًا  
شَدِيدًا لِعَنِي لَأَتَقَنَّ رِيشَهُ فَلَا يَطِيرُ مَعَ الطَّيُورِ  
حَوْلًا كَامِلًا اَوْ لَا ذِمَّةَ ثُمَّ اسْتَشْنَى وَقَالَ اَوْلِيَا  
يَتَنِي لِسُلْطَانِ مَبِينٍ يَقُولُ اَوْلِيَا يَتَنِي لِعَذْرُوحِ حَجَّةِ  
بَيْتَةِ وَكَانَ اَشَدَّ عَذَابَهُ الَّذِي يَعْذِبُ بِهِ  
الطَّيْرَ لَمَّا يَرِيدُ عَذَابَهُ اِنَّ تَفَارِيشَهُ حَتَّى  
يَتْرَكُهُ اَقْرَعًا لَيْسَ عَلَيْهِ رِيشٌ قَالَتْ فَسَكَتَ غَيْرَ  
لِعَبِيدِ اِي لَيْتَ غَيْرَ طَرِيلٍ ثُمَّ اَقْبَلَ الْهَدْدَ هَدًّا  
فَقَبِلَ لَهُ اِنَّ سَلِيمَانَ قَدَّ اَوْ عَدَكَ فَقَالَ هَلْ

میں ایک ہی ہد تھا کلنگ نے کہا: مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے اور نہ مجھ سے اجازت لے کر گیا ہے۔ حضرت سلیمان ہد سے پانی کی جگہ معلوم کیا کرتے تھے جس جگہ پانی ہوتا تھا ہد ہدوں اپنی چونچ رکھ دیا کرتا تھا اور بتا دیا کرتا تھا کہ زمین میں پانی کتنا گرا ہے انسان کی قدم برابر گرا ہے یا ایک فرسخ گرا ہے تمام پرندوں میں اس علم کا ماہر و مخصوص ہد ہی تھا۔ جب اس سے پانی کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ فضا میں اڑ کر پانی کی جگہ معلوم کرتا پھر اس جگہ اتر کر اپنی چونچ رکھ دیا کرتا تھا اور لوگوں کو پانی کی جگہ معلوم ہو جاتی تھی پھر حضرت سلیمان کے حکم سے شیطان فوراً اس جگہ کنواں کھود دیتے تھے اور پانی نکال لیتے تھے اور حوض، گڑھے، پھالیں، شیکڑے اور تمام برتن بھر دیتے تھے اور جن انسان اور جانور سب سیراب ہو کر پانی پی لیا کرتے تھے پھر سفر پر روانہ ہو جایا کرتے تھے الغرض اس وقت جب حضرت سلیمان نے ہد کو غائب پایا تو آپ کو بڑا غصہ اور طیش آیا اور فرمانے لگے بلا میں اسے انتہائی سنگین سزا دوں گا یعنی اس کے پر نوچ دوں گا تاکہ پرندوں کے ساتھ پورے ایک سال تک اڑنے کے قابل نہ رہے یا اسے ذبح کر ڈالوں گا پھر آپ نے استثناء کیا اور فرمایا پھر وہ کوئی معقول و روشن دلیل میرے سامنے پیش کرے۔

حضرت سلیمان کا پرندوں کے لئے انتہائی سنگین عذاب یہ تھا کہ اس کے پر نوچ کر اس کا ننگا جثہ زمین پر ڈال دیا جاتا تھا۔ ابھی تھوڑی سی دیر ہی ہوئی تھی کہ ہد آگیا اس سے کہا گیا کہ حضرت سلیمان نے تجھے دھمکی دی ہے اور تیرے لئے سنگین عذاب تجویز فرمایا ہے اس نے پوچھا: استثناء بھی کیا ہے یا نہیں؟ کہا گیا کہ ہاں استثناء تو کیا ہے، آخر کار ہد حضرت سلیمان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا پھر آپ کو سجدہ کیا اور یہ دعا دی کہ آپ کا ملک مدت دراز تک قائم رہے اور آپ کی عمر دراز ہو پھر اپنی چونچ لے کر



استثنى قيل نعم قال فاقبل حتى قام بين يديه  
ثم سجد فقال دام ملكك طويلا المدهر  
وعشت الى الابد فجعل ينكت بهنقار  
ويوحى براسه الى سليمان فقال له احطت  
بما لم تحط به ليقول بلغت وعلمت بما لم  
تبلغ ولا تعلم لعني جنتك يا امر لم يخبرك به  
الجن ولم ينصرك فيده ولم تعلم به الانس  
وجنتك من سباء يعني من ارض سباء تبنيا  
يقين لعني بخبر عجيب لا شك فيه فقال له  
سليمان ما هو فقال اني وجدت امرأتا  
تملكهما يقال لهما بلقيس بنت ابي  
السرح الحميرية و اوتيت من كل شئ لعني  
اعطيت من كل شئ في بلادها اليمن وما  
والاها من العلم والسلطان والمال والجنود  
والزواجر الخيل ولها عرش عظيم لعني سرير  
حسن وكان طول عرشها في السماء ثلاثين  
ذراعا وقيل ثمانون ذراعا وفي العرض ثمانون  
ذراعا مكللا بالزواجر الجواهر والدر واللؤلؤ  
وجدتها وقومها ليرجدون للشمس من  
دون الله يعني يملون للشمس من دون الله  
وذلك دين المجوس وزين لهم الشيطان  
اعمالهم لعني حسنها اللهم فصد هم عن  
السبيل لعني ان الشيطان صدها و جنودها  
عن طريق الاسلام والهدى وهم لا يهتدون  
لعني لا يعرفون الاسلام الا يسجد والله لعني

زمین کریدنے لگا اور اپنے سر سے حضرت سلیمان کی طرف اشارہ کر کے  
بولایا: میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی اور نہ آپ کو  
اس کا علم ہے یعنی میں آپ کے پاس ایک ایسی بات کی خبر لایا ہوں  
جس کی خبر آپ کو جنوں نے نہیں دی اور اس سلسلہ میں آپ کے  
ساتھ خیر خواہی نہیں کی اور نہ اس کی آپ کو کسی بشر نے خبر دی  
میں آپ کے پاس سب سے ایک یقینی اور عجیب خبر لایا ہوں۔  
حضرت سلیمان نے کہا: یہ کیا خبر ہے؟ بولا: میں نے ایک عورت  
جو لوگوں کی ننگہ ہے اور جسے بلقیس دختر ابوالسرح (حمیرتہ) کہا  
جاتا ہے، اور اسے بہت چیز دی گئی ہے یعنی اس کے شہر میں اور زمین  
کے نواحی میں علم، اقتدار، مال، فوج اور ہر طرح کے گھوڑے وغیرہ  
دئے گئے اور اسے اللہ تعالیٰ نے تمام شاہی ساز و سامان و پیرایا  
ہے اور اس کا ایک حسین و عظیم تخت بھی ہے جو تیس گز یا دو گز  
بلند ہے اور ۸۰ گز چوڑا ہے اور اس میں قسم قسم کے جواہرات اور  
موتی قرینہ سے جڑے ہوئے ہیں میں نے اسے اور اس کی قوم کو  
سورج پرست پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور  
شیطان نے ان کے عمل انہیں خوبصورت بنا کر دکھائے ہیں اور  
انہیں سیدھی راہ (اسلام) سے روک دیا ہے اور وہ اسلام کو  
نہیں پہچانتے۔ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو چھپی ہوئی  
چیزوں کا ظاہر کرنے والا ہے اور آسمان و زمین کے سردار کو بھی  
اور تمہارے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور  
انہیں بھی جن کا تم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو، اللہ کے سوا  
کوئی حقدار عبادت نہیں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے یہ سن کر  
حضرت سلیمان نے ہر دہرے سے فرمایا کہ اب تو تو ہمارے لئے پانی کا  
سراغ لگا تم تیری بات پر غور کریں گے آیا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے  
پھر جب اس نے پانی بنا دیا اور لوگ سیراب ہو کر تازہ دم ہو گئے

ہلا یسجد واللہ الذی یشرف الخب یعنی  
 الغیب والسرفی السنوت والارض ویعلم  
 ماتحفون وما تعلقون بالنسنتہم اللہ لا الہ  
 الا ہورب العرش العظیم یعنی بالعظیم العرش  
 فقال سلیمان للہد ہد لنا علی الماء سنظر  
 فیما نقول اصدقت فی مقالک امرکت من  
 الکذبین فلما دآہم علی الماء وشرلوا  
 واستکفوا فدعا سلیمان الہد ہد وکتب  
 معہ کتابا وختمہ بجاتہ ودفعہ الیہ ثم  
 قال اذہب بکتابی ہذا فالقہ الیہم یعنی  
 اہل سبا ثم تول عنہم یعنی ارجع الی فانظر  
 ما ذایرجعون یعنی ما ذایردون علیک من  
 الجواب والذی کتب فی الکتاب بسم اللہ  
 الرحمن الرحیم انہ من سلیمان بن داؤد  
 الا تعلوا علی یعنی ان لا تعظموانی طاعتی والونی  
 مسلمین یعنی مصالحین فان کنتم من الجن  
 فقد عبدتم لی وان کنتم من الانس فعلیکم  
 السمع والطاعة قال فانطلق الہد ہد بالکتاب  
 حتی انتہی الیہا ظہیرتہ وہی قائمۃ فی قصر  
 قد غلقت علیہا الابواب فلا یصل الیہا  
 شیء والحرس حول قصرہا وکان لہا من  
 قومہا اثنا عشر الف مقاتل کلواحد  
 منہم امیر علی مائة الف مقاتل سوی  
 لساتم وذراریہم وکانت تخرج الی  
 قومہا تقضی بینہم فی امورہم وحوادثہم

اور پانی کی طرف سے بے فکر ہو گئے تو حضرت سلیمان نے ہد ہد کو بلایا اور  
 ایک خط لکھ کر اس پر اپنی ہر لگا کر اسے دے کر فرمایا: میرا یہ خط لیجا  
 اور اہل سبا پر ڈال دے پھر میرے پاس آ جا اور ان کے جواب کا  
 انتظار کر کہ کیا جواب دیتے ہیں اور خط میں یہ درج تھا: یہ سلیمان کی  
 طرف سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حکم سے سرتابی نہ کرو  
 اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جا یعنی میں اللہ کا نبی ہوں اور تم  
 سب سے برتر ہوں اس لئے میری اطاعت میں اپنی کسر نشان نہ سمجھو  
 اور مجھ سے آ کر صلح کر لو اگر تم جن ہو تو تم میرے غلام ہو اور اگر انسان  
 ہو تو تم پر میرا یہ خط پڑھ کر میری اطاعت فرض ہے۔  
 ہد ہد یہ خط لے کر روانہ ہوا اور سبا میں عین دو پہر کو پہنچا، ملک سبا  
 اپنے محل میں آرام کر رہی تھی اور دروازے بند تھے اس تک کسی  
 چیز کی رسائی نہ تھی اور اس کے محل کے چاروں طرف پریدار پہرہ  
 دے رہے تھے اس کی فوج میں اسی کی قوم کے بارہ ہزار جنگجو جوان  
 تھے اور ہر ایک کے ماتحت ایک ایک لاکھ فوج تھی اور عورتیں اور  
 بچے اس کے علاوہ تھے۔ ملک ہر ہفتہ میں ایک دن لوگوں کے جھگڑنے  
 چکانے کے لئے اجلاس بلایا کرتی تھی۔ اور خود فیصلے کیا کرتی تھی اور  
 ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتی تھی بلکہ کا تخت سونے کے  
 چار ستونوں پر ایک ایسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ اس پر بیٹھ کر  
 لوگوں کو دیکھ سکے اور لوگ اسے نہ دیکھ سکیں جب کوئی شخص ملک کے  
 سامنے اپنی ضرورت یا کوئی کام پیش کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کے  
 سامنے کھڑا ہو کر سر جھکا لیتا تھا اور اس کی طرف دیکھتا نہ تھا۔  
 پھر اس کی تعظیم کے لئے اس کے آگے سجدہ میں گر پڑتا تھا اور جب  
 تک ملک سر اٹھانے کی اجازت نہ دیتی تھی وہ سر نہیں اٹھاتا تھا۔  
 پھر جب ملک لوگوں کے کاموں سے اور اپنے احکامات سے فارغ ہو  
 جاتی تو اپنے قصر شاہی میں چلی جاتی اور کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔



في كل جمعة يوما قد جعلت عرشها على اربعة  
 اعمدة من ذهب ثم تجلس هي فيه وهي تراهم  
 ولا يرونها فاذا اراد الرجل منها الحاجة  
 والامر فسألها فقام بين يديها فينكس  
 راسه ولا ينظر نحوها ثم يسجد فلا يرفع  
 راسه حتى تاذن له اعظاما لها فاذا اقتضت  
 حوائجهم وامرت بامرها دخلت قصرها ولم  
 يروها الى مثل ذلك اليوم مديها ملك  
 عظيم فلما اتى الهدى بالكتاب ووجد  
 الابواب قد غلقت دونها والحرس حول القصر  
 دار حوله فطلب السبيل اليها حتى وصل اليها  
 من كوة في القصر فدخل فيها من بيت الى  
 بيت حتى انتهى الى اقصى سبعة ابيات على  
 عرشها في السماء ثلاثون ذراعا فراها  
 مستلقية على عرشها فائمة ليس عليها الا  
 خرقة على عورتها وكن لك كانت تصنع  
 اذا نامت قال فوضع الكتاب الى جنبها على  
 السرير ثم طار فوق في كوة ينتظرها حتى  
 تستيقظ عن غفلتها وتقرأ الكتاب فبعث  
 طويلا وهي لا تستيقظ فلما اطاع عليه ذلك  
 انحط فنقرها لقررة فاستيقظت فنظرت فاذا  
 هي بالكتاب الى جنبها على السرير فاخذته  
 فزكت عينها فجعلت تنظر ما حال الكتاب  
 وكيف وصل الكتاب اليها والابواب  
 مغلقة فخرجت فاذا الحرس حول القصر

ملکہ کا ملک بہت بڑا تھا اور سلطنت کافی وسیع تھی جب ہر خط لیکر  
 پہنچتا ہے تو قصر شاہی کے دروازے بند پاتا ہے اور چاروں طرف  
 پرے دار دیکھتا ہے پھر قصر کے چاروں طرف گھوم کر اندر جانے کا  
 راستہ ڈھونڈتا ہے آخر کار روشندان سے قصر ملکہ سبائیس داخل  
 ہو جاتا ہے اور ایک ایک گھر کو دیکھتا بھالتا سات گھروں سے گزر  
 کر آکھٹوں میں کرے میں جو سب سے اخیر میں تھا پہنچ جاتا ہے اور ملکہ سبائیس  
 کو اپنے تخت پر جو تیس گز اونچا تھا لٹایا ہوا دیکھتا ہے ملکہ سبائیس خرم  
 سو رہی ہے بالکل برہنہ ہے بس ایک کپڑا اس کے ستر پر پڑا ہوا ہے  
 سوتے وقت ملکہ کپڑے اتار دیا کرتی تھی اور ستر کو ڈھانپے رکھتی تھی  
 ہر خط کو ملکہ کے پاس تخت پر رکھ دیتا ہے پھر اڑ کر روشندان  
 میں آ بیٹھتا ہے اور اس کے جاگنے کا اور خط کے پڑھنے کا انتظار کرتا  
 ہے ہر دیر تک ٹھہرا رہتا ہے مگر ملکہ کی آنکھ نہیں کھلتی آخر کار پھر  
 اڑ کر نیچے تخت پر پہنچتا ہے اور اپنی چونچ مار کر اسے جگانے ملکہ بیدار  
 ہو کر ادھر ادھر دیکھتی ہے اور اپنے پاس پڑا ہوا ایک خط پاتی  
 ہے خط اٹھا لیتی ہے اور آنکھیں ل کر خط کھول کر پڑھتی ہے اور سوچتی  
 ہے کہ یہ خط مجھ تک کیسے پہنچا حالانکہ دروازے بند ہیں باہر آ کر  
 دیکھتی ہے تو پھر بیدار بھی قصر کے چاروں طرف پرہ دے رہے ہیں  
 پوچھتی ہیں کیا کسی نے کسی کو دروازہ کھول کر اندر جانا ہوا دیکھا  
 ہے؟ پرے دار عرض کرتے ہیں دروازے جوں کی توں بند ہیں اور  
 ہم برابر پرہ دے رہے ہیں بھلا کوئی اندر کیسے جا سکتا ہے؟ ملکہ  
 لکھنا پڑھنا جانتی تھی پھر خط کھول کر پڑھنے لگتی ہے اس کا نام  
 مکتوب الیہ دونوں کا نام دیکھتی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ  
 کر مضمون خط پڑھتی ہے اور پڑھ کر دربار کے ارباب حل و عقد  
 کو بلوا لیتی ہے جب تمام درباری جمع ہو جاتے ہیں تو ان سے  
 کہتی ہے: میری طرف ایک معزز و مرشدہ خط ڈالا گیا ہے جسے

فقلت هل رأيتما احدا دخل على وفتنم يا با قالوا  
لا ما ذالت الابواب مغلقة كما هي ونحن حول  
القصر نعرض ففتحت الكتاب وقرأته وكانت  
كاتبة وقارية فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم  
فلما قرأته ارسلت الى قومها فاجتمعوا  
اليها وقالت لهم اني اتى القى الي كتب كريم  
يعني مختوما وحسنا انه من سليمان والله  
بسم الله الرحمن الرحيم الالعلوا على  
واتوا مسلمين يعني مصالحين فقالت  
يا ايها الملك افتوني في امري يعني اخبروني بما  
اريد ان اصنع في امري ما كنت قاطعة امرا  
يعني عاملة حتى تشهدون يعني تسعون و  
تحضرون المشورة فقالوا نحن اولو قوة يعني  
منعة واولوا باس شديد لم نغلبنا عدو قط  
بالقتال والمنعة والكثرة ولم نغلب احد المقاد  
وانت اعلم يا امرئ فامرنا يا امرئ بتبعه فالبرا  
الاعظيما الحقها فهو قوله عز وجل والامر  
اليك فانظري ماذا امرين فيه تتبع امرئ  
فانظرت بعلم وحكم وقالت ان الملوك  
فاذا دخلوا قرية افسدوها يعني خربوها  
وجعلوا اعززة اهلها اذلة يعني منعة  
اهلها اذلة صغيرة وكذا لك يفعلون  
الملوك المحاربون ياخذون اموالهم و  
يقتلون مقاتليهم ويسبون ذراريهم  
ثم قالت اني مرسلت اليهم بهدية يعني

سليمان نے بھیجا ہے اور بسم اللہ سے شروع کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ  
مجھ پر سرکشی نہ کرو اور صلح و صفائی کے لئے میرے پاس آ جاؤ۔  
پھر کہتی ہے اے سردار و مجھے اس اسم کام کے سلسلہ میں مشورہ دو  
کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی  
جب تک اس میں تم سے مشورہ نہیں کر لیتی سردار جواب دیتے ہیں  
کہ ہمارے پاس فوجی طاقت کافی ہے اور ویسے بھی ہم سخت جنگجو ہیں  
جنگ، فوج اور اکثریت کے اعتبار سے غنیم کبھی ہم پر غالب نہیں آیا  
اور مقابلہ پر کبھی عمدہ برآ نہیں ہوا باقی اپنے کام کے نشیب و فراز  
سے آپ خوب آگاہ ہیں جیسا آپ حکم فرمائیں گی اسے ہم بسر و چشم  
بجالائیں گے سرداروں نے ملکہ کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے  
یہ جواب دیا چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: اور اختیار آپ کا ہے  
آپ غور کر کے کوئی قطعی رائے قائم کر لیجئے ہم بسر و چشم آپ کے  
حکم کی تعمیل کریں گے آخر کار ملکہ نے پورے غور و خوض کے بعد  
بڑی ہوشیاری سے یہ حکم صادر فرمایا کہ بادشاہوں کی عادت ہے  
کہ جب وہ کسی بستی میں آتے ہیں تو اسے دیران کر کے اور معززین  
شہر کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ فاتح سلاطین لوگوں کا مال  
لوٹ لیتے ہیں، ان کے جوان قتل کر ڈالتے ہیں اور ان کی اولاد  
قید کر لیتے ہیں پھر ملکہ کہتی ہے، میں سلیمان کی خدمت میں تحائف  
بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ تحائف لیجانے والے ان کے پاس  
سے کیا جواب لاتے ہیں؟ اور کیا خبر آ کر دیتے ہیں؟ رادی کہتا ہے  
بالآخر ملکہ نے بھیجنے کے لئے بارہ غلام چنے جن میں النوبت زنا  
ہیں، غالب تھی ہاتھوں میں ہندی لگی ہوئی تھی انہیں عورتوں کا  
حسین لباس پہنا دیا گیا تھا اور گنگھی چوٹی سے آراستہ اور پر کالہ  
آتش بنا دیا گیا تھا ملکہ نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ جب تم سے سلیمان  
کچھ بات کریں اور کچھ لو چھین تو زنا نہ گفتگو میں نرم آواز سے



الی سلیمان فناظرۃ بمیرجع المرسلون یعنی  
 فانظر ماذا یردون علی رسلی وماذا ینخبرونی  
 عنہ قال فاھدت الیہ اثنا عشر غلاما فیہم  
 تانیت مخضبة اید یہم قد مشطرتھم والبستھم  
 لباس الجوارى و تقدمت الیہم داو صرتھم  
 اذا سئلوا عند سلیمان و کلمھم فلیردوا  
 جوابا بکلام فیہ تانیت و اھدت الیہ  
 اثنا عشر جاریۃ فیہن غلط فاستا صلت  
 رؤسھن و ازرتھن و البستھن النعال و  
 قالت لھن اذا کلن کن سلیمان فردون لہ  
 جوابا صحیحا و ارسلت الیہ لعود ینلجوج و  
 بالمسک و العنبر و الحریر فی الاطباق علی  
 ایدی الوصائف و ارسلت باثنی عشرۃ  
 بختیۃ تخب کذا و کذا من اللبن و ارسلت  
 الیہ بخرزین احدھما مشروبۃ و تفتتھا  
 ملتویۃ و الثانیۃ غیر مشروبۃ و ارسلت الیہ  
 لقدح فارغ و ارسلت مع ہذہ الھدیۃ  
 امرأۃ و اوصتھا بان تحفظ جیبہ ما یمکون  
 من امر سلیمان و کلامہ حتی تخبرھا بہ  
 و قالت لھم قرموا بین ید یدہ قیامہ و  
 لا تجلسوا حتی یا مرکم فانہ ان کان  
 جبارا المر یا مرکم بالجلوس فارضیہ  
 بالمال فیسکت عنہ و ان کان جلیما  
 علیما عالما مرکم بالجلوس و امرت  
 الامراتہ ان تقول لہ بان یدخل فی الخردۃ

جواب دینا۔ اور بارہ لونڈیاں منتخب کیں جن کی آواز مردوں کی طرح بھاری  
 اور موٹی تھی اور مردوں ہی کی طرح اعضاء تھے ان کے سر منڈائے گئے  
 اور مردانہ لباس پہنا دیا گیا اور مردانہ تہ بند اور جو تے پہنا دئے گئے اور  
 انہیں ہدایت کر دی گئی کہ سلیمان سے درانہ اور بلا جھجک کے باتیں کرنا  
 اور ان کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دینا۔ اور عود، مشک، عنبر اور  
 ریشم کی سینیاں خدام کے ہاتھ روانہ کیں، بارہ دودھیل اونٹنیاں جو  
 کافی مقدار میں دودھ دیتی تھیں بھیجیں۔ دو گڑیاں بھیجیں ایک میں بھجیا  
 سوراخ تھا اور دوسری بے سوراخ کے تھی اور ایک خالی پیالہ بھیجا اور  
 ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک عورت بھیجی اسے تاکید کر دی کہ سلیمان کی تاکل  
 گفتگو اور ان کے سارے معاملات اور اخلاق وغیرہ محفوظ کرے اور پوچھ  
 پیش کرے اور سب جانوروں کو سمجھا دیا کہ آپ کے سامنے ادب سے  
 کھڑے رہنا اور آپ کے حکم کے بغیر مت بیٹھنا کیونکہ اگر آپ جبار و  
 سخت گیر ہوں گے تو بیٹھنے کا حکم نہیں فرمائیں گے اور مال سے دلا کر  
 ان کو راضی کر لیا جائے گا پھر وہ ہمیں نہ چھیریں گے اور اگر آپ  
 سنجیدہ، دانشمند اور عالم ہوں گے تو تم کو بیٹھ جانے کی اجازت دے  
 دیں گے اور رپورٹ دینے والی خاتون سے کہہ دیا گیا کہ سلیمان سے  
 درخواست کرے کہ بلا کسی آئے کے اور جن اور انسان کی مدد کے کوڑی  
 میں دھاگا پر و دیں اور خالی پیالہ کو ایسے جھاگ دار پانی سے بھر دیں  
 جو نہ زمین کا ہو اور نہ آسمان کا اور لونڈی غلاموں کو علیحدہ علیحدہ  
 کر دیں اور ملکہ نے ایک ہزار علمی سوالات لکھ کر بھیجے کہ براہ کرم ان کے  
 جوابات لکھ دئے جائیں، غرضیکہ ملکہ کے آدمی ان تحائف کو لے کر حضرت  
 سلیمان کی خدمت میں پہنچے اور تحفے آپ کے سامنے جا رکھے اور کھڑے  
 ہو گئے بیٹھے نہیں، حضرت سلیمان نے انہیں دیکھا اور تحفے پر نگاہ ڈالی  
 اور ذرا جنش نہیں فرمائی اور تھوڑی دیر تک آپ نے اپنے ہاتھ  
 کو یا پیر کو ہلایا تک نہیں اور نہ مسرت کا اظہار کیا کہ ہشاش بشاش

المتقوبۃ خیطا بغیر علاج النس ولا جان و  
 امرتھا ان تقول لہ ان یتقب الاخری بغیر  
 حدید ولا علاج النس ولا جان وان یمیز  
 بین الغلمان والجواری وامرتھا ان تقول  
 لہ ان یملا القدح ماء مزید ا رو یا لیس من  
 الارض ولا من السماء وکتبت الیہ مسئلة  
 عن الف باب من العلم فانطلق رسلھا بھدیتھا  
 حتی اتوا بھا الی سلیمان فوضعوا المھدیۃ بین  
 یدیه وقاموا علی ارجلھم ولا یجلسوا فنظر  
 الیھم سلیمان ولم یتحرك لحظة ید اولاد جلا  
 ولا تھتثن لھا ولم یفرح ولم یعرف الرسل  
 ذلک فیہ ولا من مقابلہ ثم رفع راسہ و  
 نظر الی رسلھا وقال ان الارض لله والسماء  
 لله رفعھا ووضع الارض فمن شاء وقف ومن  
 شاء جلس فاذن لھم بالجلوس قال فتقدمت  
 الرسولۃ الی سلیمان وقد مت الیہ الخزرتین  
 وقالت لہ ان بلقیس تقول لك بان تدخل فی  
 ہذہ الخزرتۃ المتقوبۃ خیطا ینفذ الی الجانب  
 الاخر من غیر علاج النس ولا جان وان  
 تثقب الخزرتۃ الثانیۃ ثقیبا ینفذ الی الجانب  
 الاخر بغیر حدید ولا علاج النس ولا جان  
 ثم قرئت الیہ القدح وقالت لہ انھا تقول  
 لك بان تملأ ہذا القدح ماء مزید ا رو یا  
 لیس من الارض ولا من السماء ثم قدمت  
 الوصف والوصائف وقالت ان بلقیس تقول

اور خوش ہو جائے اور تحفے لانے والوں نے بھی آپ کے چہرے پر  
 کھلاوٹ نہیں دیکھی اور نہ قبولیت ہی کے آثار دیکھے پھر آپ نے  
 سراٹھا کر تحائف لائیوں کو دیکھا اور فرمایا زمین و آسمان اللہ کے  
 ہیں اللہ نے آسمان بلند فرمائے اور زمین بچھا دی لہذا چرچا ہے کھڑا  
 رہے اور جو چاہے پیٹھ جائے اور آپ نے انہیں بیٹھنے کی اجازت  
 مرحمت فرمادی پھر رپورٹ دینے والی عورت حضرت سلیمان کے  
 سامنے آئی اور دونوں خمر سے پیش کئے اور درخواست کی کہ ہماری  
 عکھ صاحب آپ سے توقع رکھتی ہیں کہ سوراخ والے خمر سے میں کسی  
 انسان کی یا جن کی مدد کے بغیر دھاگا پرو دیں اور دھاگا آر پار ہو  
 جائے اور دوسرے خمر سے میں لوہے کی اور انسان و جن کی مدد کے  
 بغیر آر پار سوراخ کر دیں پھر آپ کے سامنے خالی پیارہ پیش کر کے  
 عرض کرتی ہے کہ عکھ سہا کی درخواست ہے کہ یہ پیارہ جھاگوں والے  
 پانی سے جو نہ آسمان کا ہو اور نہ زمین کا، لبالب بھر دیجئے پھر لڑتے  
 غلام پیش کر کے کہتی ہے کہ عکھ فرماتی ہیں کہ ان میں لونڈیوں کو غلاموں سے  
 علیحدہ کر دیجئے فوراً حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت کے ارباب محل و مقدر  
 جمع فرمائے اور دونوں کوڑیاں نکالیں اور فرمایا: ہے کوئی جو اس سوراخ  
 کوڑی میں آر پار دھاگا پرو دے؟ ایک سرخ کپڑے نے جو تازہ  
 کھجور میں پایا جاتا ہے جواب دیا جہاں پناہ! یہ خدمت میں انجام دوں  
 گا مگر شرط یہ ہے کہ میری روزی کھجور میں رکھی جائے، فرمایا: بچھا  
 آخر کار اس کپڑے کے سر پر دھاگا لپیٹ دیا گیا وہ خمرہ میں گھسا  
 اور اسے کہہ دیتا ہوا دو نہوی جانب نکل آیا حضرت سلیمان نے اس کی  
 روزی کھجور میں رکھ دی پھر آپ نے دوسری کوڑی لے کر فرمایا:-  
 ہے کوئی جو اس میں لوہے کی اور کسی کی مدد کے بغیر آر پار سوراخ کرے  
 ویک بولی، بادشاہ سلامت! یہ خدمت میں انجام دوں گا بڑھاپیکہ  
 میری روزی کھجور میں مقرر کر دی جائے، فرمایا: مجھے منظور ہے چنانچہ



لك انك تمیز بین الغلمان و الجوارى فعند  
 ذ لك جمع سليمان اهل مملكته فاجتمعوا  
 علیه ثم اخرج الخزرتین فقال من لی برهنا  
 الخزرة یدخل فیها خیطا یخرج الی الجانب  
 الاخر فتكلمت دودة تكون فی القمصنة یعنی  
 فی الرطبة وهی دودة حمراء وقالت ایها الملك  
 اناك بهاء علی ان تجعل رزقی فی الرطبة فقال  
 نعم قال فعلق فی رأس الدودة خیطا فدخلت  
 فی الخزرة تحكها حتی خرجت من الجانب الاخر  
 فجعل رزقها فی الرطبة ثم قرب الخزرة الثانية  
 وقال من لی یتقب هذه الخزرة لغير حدید  
 فتكلمت دودة اخرى بین یدیه وهی  
 ارضة فقالت ایها الملك اناك بهاء  
 علی ان تجعل رزقی فی الخشب فقال ذ لك لك  
 فوقفت علی الخزرة فتقبها الی الجانب الاخر  
 فجعل رزقها فی الخشب ثم قدم القدر  
 و امر باحضار الخیل العرب فحضروا فاجرت  
 حتی اذا جهدت و اتعبت و سال عرقها فحینئذ  
 ملا القدر من العرق وهو الماء المزید الروقی  
 لیس هو من الارض ولا من السماء ثم اضرباء  
 فوضع بین یدیه فقال للوصفاء لوضوء الیتمیز  
 الغلمان من الجوارى قال فجعلت الجوارى  
 لیمن الماء علی اكفهن فجعلت احداهن  
 تاخذ الماء بكفها الیسری و تفرغه علی  
 ذراعها الایسر ثم تتبعها بكفها الیمنی

دیلت نے بیچ کوڑی کے چڑھ کر اس میں آ رہا سو راج کر دیا پھر آپ  
 نے حسب وعدہ اس کی روزی کوڑی میں رکھ دی پھر آپ نے پیالہ  
 نکالا اور عربی گھوڑوں کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا جب وہ آگئے تو انہیں  
 دوڑایا گیا جب وہ تھک کر چور ہو گئے اور پسینہ میں نثرالور ہو گئے اور  
 پسینہ پینے لگا تو ان کے پسینہ سے وہ پیالہ لبالب بھر دیا گیا اور فرمایا یہ  
 جھاگ دار پانی ہے جو نہ زمین کا ہے اور نہ آسمان کا پھر حضرت  
 سلیمان نے پانی لانے کا حکم فرمایا فوراً پانی حاضر کیا گیا اور غلاموں سے  
 اور لونڈیوں سے رضو کرنے کے لئے کہا گیا تاکہ لونڈی غلام میں تمیز  
 ہو جائے چنانچہ لونڈیوں نے پہلے بائیں ہاتھ میں پانی لے کر اپنے بائیں  
 بازو دھوئے پھر سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر سیدھے بازو دھوئے  
 اور غلاموں نے اس کے برعکس کیا کہ پہلے سیدھے ہاتھ دھوئے پھر  
 بائیں ہاتھ دھوئے اس طرح لونڈیوں اور غلاموں میں تمیز ہو گئی اور  
 بارہ غلام علیحدہ کر ڈئے گئے پھر تمام سوالات کے جو ایک ہزار  
 تھے جو ایات تحریر فرمائے پھر آپ نے ملکہ سبا کی طرف معہ قاصدوں  
 کے تحائف لوٹا دئے اور اس عورت سے جو امیر و نذر تھی فرمایا کیا تم  
 مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو مجھے جو کچھ حق تعالیٰ نے (نبوت اور  
 سلطنت) عطا فرمائی ہے وہ اس مال سے بہتر ہے جو تم کو دیا ہے  
 ہاں تم اپنے ہدیہ پر اتر رہے ہو، پھر آپ نے ایک اور خط لکھا اور  
 ہدیہ کو دیا اور اس سے کہا: یہ خط ملکہ سبا کے پاس لے جا ہم الی  
 جماعتیں لے کر چڑھائی کرنے والے ہیں جن کے مقابلہ کی ان میں طاقت  
 نہیں یقیناً ہم سبا سے انہیں ذلیل کر کے نکال باہر کریں گے اور  
 وہ ذلیل بھی رہیں گے پھر جب دوسری بار ہدیہ ملکہ سبا کے پاس  
 خط لے کر پہنچا اور ملکہ نے اسے پڑھا اور تحائف لے جانے والے  
 تحائف واپس لے آئے اور انہوں نے ملکہ کو حضرت سلیمان کی باتیں  
 اور آگھوں دیکھے واقعات بتائے تو ملکہ نے اپنی قوم سے کہا: یہ

فتغسلها فتعرف عند ذلک انها جاریة فیعز  
لها حتی عزل اثنی عشر جاریة وصیفة واما  
العلمان فجعل الوصیف یاخذ الماء بکفه الیمین  
فیغسل به ذراعیه الیمنی ثم یتبع به الیسار  
فیعرف انہ غلام حتی عزل اثنا عشر غلاما ثم نظر  
الی المسائل فاجابها علیہم بالف جواب مع  
رسولہا ثم رد علیہا ہدیتہا وقال لرسولتہا  
انتم دنین بئال فما اثنی اللہ من النبوة والملك  
خیر ما اکتکم من المال بل انتم بہد یتکم  
تفرحون یعنی تعجبون ثم کتب الیہا کتابا و  
دفعہ الی الہد ہد وقال لہ ارجع الیہم فلما  
تیتہم یجنود لا قبل لہم بہا یعنی یجموع لا  
قبل لہم بہا ولنخرجہم منها اذلة یعنی من  
تربیدہ سببا اذلة صغرة وہم صاعرون اذلاء  
فلما اتی الہد ہد بالکتاب مرتة اخری فقراتہ  
ورجعت رسولہا فقست علیہا قصۃ سلیمان  
وما فعل فی جمیع ما فعلت بہ الیہ وما رد  
الیہا من الجواب فقالت لقرمہا ہذا امر نزل  
علینا من السماء لا ینبغی منا بذتہ ولا نطیقہ  
ثم عمدت الی عرشہا فجعلتہ فی اخر سبجۃ  
ابیات ثم اقامت علیہ الحرس ثم اقبلت الی  
سلیمان قال فرجع الہد ہد الی سلیمان فاخبر  
انہا قد اقبلت الیہ فجمع اهل مملکتہ الیہ  
ثم قال یا ایہا الملؤا ایکم یا تینی لعرشہا یعنی  
سویرہا قبل ان یاتونی مسلمین یعنی مصالحین

مسئلہ ہم پر آسمان سے اترا ہے اسے قبول نہ کرنا مناسب نہیں علاوہ  
ازیں ہمارے اندران کے مقابلہ کی طاقت بھی نہیں پھر لکھتے اپنا تخت  
ساتھیں گھر میں بحفاظت رکھو ادیا اور اس کی حفاظت کے لئے  
پہرے دار مقرر کر دئے اور سات تالوں میں بند کر کے حضرت سلیمان کی  
طرف روانہ ہو گئی اہد ہد نے حضرت سلیمان کو خبر کر دی کہ مکہ سب آپ سے  
ملنے کے لئے تشریف لارہی ہیں آپ نے فوراً اہل مملکت کو جمع کر کے  
فرمایا اے سردارو تم میں سے کون صلح کے لئے اس کے آنے سے قبل  
میرے پاس اس کا تخت لاسکتا ہے؟ کیونکہ صلح کے بعد تخت پر  
قبضہ جلال نہ ہوگا۔ ایک دیوانے جس کا نام عمر و تھا اور انتہائی قوی  
اور درشت خوتھا، کہا: میں اسے قبل اس کے کہ آپ اس مجلس قضا  
سے اٹھیں لے آؤں گا یعنی آدھے دن سے پہلے حاضر کر دوں گا  
میں اس قدر قوی ہوں کہ اس کو لا کر لاسکتا ہوں اور میں امین ہوں  
کہ اس میں جو کچھ سوتی جو اہرات زبردست سونا چاندی ہے اس میں خیانت  
کرنے والا نہیں۔ اس دیوانے میں اس قدر طاقت تھی کہ اس کا ایک ایک  
قدم منہائے نگاہ تک پڑتا تھا اسی لئے اس نے حضرت سلیمان سے  
کہا تھا کہ میری منہائے نگاہ تک لمبی لمبی و گیس ہیں میں اسے آدھے  
دن میں حاضر کر دوں گا لیکن حضرت سلیمان نے جواب دیا کہ میں تو  
بہت جلدی چاہتا ہوں، پھر وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا یعنی  
وہ اسم اعظم (یا حی یا قیوم) کا عامل تھا عرض کرتا ہے میں اپنے رب سے دعا  
کرتا ہوں، اپنے ارادے کی طرف لوٹتا ہوں اور اپنے رب کی کتاب میں  
دیکھتا ہوں اور پک چھپکنے سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا  
یہ تھے آصف بن برخیا بن شعیب آپ کی والدہ کا نام ہا طوراً تھا آپ  
اسرائیلی تھے اور اسم اعظم جانتے تھے حضرت سلیمان نے فرمایا آپ  
غالب و کامیاب ہیں خواہ آپ لائیں یا نہ لائیں لیکن خدا رکھے سوا  
نہ کرنا کیونکہ میں انسان و جن کا سردار ہوں آخر کار آصف وضو کر کے



فلا یجیل لنا بعد الصلح اخذنا قال له عفريت من  
الجن یقال له عمرو وهو العفريت المشدید  
الغلیظ من الجن انا ایتک به قبل ان تقوم  
من مقامک یعنی من مجلسک للقضاء وهو  
الی نصف النهار وانی علیہ لقوی ای علی  
حمله امین علی ما فیہ من اللؤلؤ والجواهر  
والزبرجد والذیھب والفضة وكان قولا  
العفريت انه یضع قدمه حیث ینال طرفه  
یعنی یتسلی بعضه فقال لسلیمان انا اضع قدمی  
حیث یرتد بصری فایتک به فقال سلیمان ارید  
اعجل منک فقال الذی عنده علم من الكتاب  
یعنی اسم الله الاعظم وهو یاحی یا قیوم انا  
ادعوربى فارجع هنی وانظر فی کتاب ربی وایتک  
به قبل ان یرتد الیک طرفک وهو اصف بن  
برخیابن شعیا واسم امه باطورا وهو من  
نبی اسرئیل وكان یعلم اسم الله الاعظم  
انا ایتک به قبل ان یرتد الیک طرفک یعنی  
قبل ان یجئ الیک الشئ الذی یرتد طرفک ای  
نظرتک فقال له سلیمان غلبت ان فعلت  
اولم تفعل ولكن لا تفنحنی بالحق وانا سید  
الانس وقام اصف فترونا ثم سجد الله عزو  
جل یدعوا لله باسمه الاعظم وهو یقول  
یا حی یا قیوم وروی عن علی رضی الله عنه انه  
قال هو الاسم الذی اذا دعی به اجاب واذا  
سئل به اعطی وهو یا ذا الجلال والاکرام

سجے میں چلے گئے اور اسم اعظم کے ذریعہ اللہ سے دعا مانگنے لگے  
اور یاحی یا قیوم پڑھنے لگے۔ حضرت علیؑ اللہ کا ایک ایسا اسم ہے  
کہ جب اس کے ذریعہ دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے اور جب اس کے  
ذریعہ کوئی مراد مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ مراد بر لاتا ہے اور وہ اسم  
یا ذا الجلال والاکرام ہے رادی کہتا ہے پھر مکہ سبا کا تخت  
زمین میں سما گیا تھے کہ حضرت سلیمان کی کرسی کے پاس ظاہر ہوا  
کہتے ہیں اس کرسی کے پاس نمودار ہوا جس پر حضرت سلیمان بیٹھے  
کی حالت میں اپنے پیر رکھا کرتے تھے پھر جب آپ نے دیکھا کہ تخت  
ظاہر ہو گیا تو جنوں نے آپ سے کہا، آصف تخت لانے پر تو قادر ہیں  
لیکن بلقیس کو لانے پر قادر نہیں اس پر آصف نے کہا میں آپ کے  
پاس بلقیس کو بھی لا سکتا ہوں پھر حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ پانی پر  
تیشوں کا ایک چکنا عمل تیار کیا جائے اور پانی میں مچھلیاں ڈال دی  
جائیں تاکہ تیشوں کی شفا بیت کی وجہ سے ایسا معلوم ہو کہ مچھلیاں چل  
پھر رہی ہیں پھر آپ کے حکم سے آپ کی کرسی اس محل کے عین بیچ میں  
رکھ دی گئی اور روضا اور امراء کی کرسیاں بھی ارد گرد رکھ دی گئیں  
چنانچہ آپ معہ درباریوں کے کرسیوں پر بیٹھ گئے آپ سے متصل  
کرسیوں والے انسان تھے پھر جن تھے پھر شیطان تھے حضرت سلیمان  
کایسی دستور تھا تھے کہ جب آپ شہروں کی سیر و سیاحت کو نکلنے کا  
ارادہ فرماتے تو اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے اور دیگر درباری اپنی اپنی  
کرسیوں پر تشریف فرما ہو جاتے پھر ہوا کو حکم دیتے ہوا آپ کو  
فضا میں اٹھا کہ جدھر آپ چاہتے لے جاتی، اور جب آپ زمین  
پر اترنا چاہتے ہو تو ہوا آپ کو زمین پر لے آتی حضرت سلیمان  
علیہ السلام کا دربار منعقد ہوا کرتا تھا جیسا کہ آج کل بادشاہوں  
کا دربار ہوتا ہے، جب دربار میں تمام حاضرین جمع ہو گئے تو آپ  
نے آصف کو حکم دیا آصف نے سجدے میں جا کر یاحی یا قیوم اسم اعظم



قال فغاب عرشها تحت الارض حتى تبغ عند  
 كرسى سليمان وقيل انه نبغ تحت كرسى كان  
 ينع سليمان قدميه عليه اذا جلس على  
 كرسيد الكبير فلما راي العرش قد نبغ  
 قالت الجن لسليمان لقد راى اصف ان يحيى بالسير  
 ولا يحيى ببلقيس فقال اصف لسليمان انا اتيك  
 بها قال فامر سليمان <sup>فبقوله</sup> موح املس من قوارير ثم اجري تحتها للاء  
 والقى فيه السلك يرمى من فوق الصرح من  
 صفائه ثم امر سليمان بكرسيه فوضع في  
 وسط الصرح وامر بتركها لاصحابه فوضعت  
 فجلس عليها وجلس اصحابه وكان الذين  
 يلونه عليه السلام من اهل الكراسى  
 الالسن ثم الجن ثم الشياطين وكان هذا  
 دابة عليه السلام حتى اذا اراد ان يسير  
 في البلاد يجلس هو على كرسيد واولئك على  
 كراسيهم ثم يامر بالريح فتحملهم بين  
 السماء والارض واذا اراد ان يسير على  
 الارض امر بالريح فتسكن فيسير على وجه الارض وكان سليمان  
 عليه السلام مجلس كما هو للولك اليوم فلما استقر بهم  
 المجلس امر اصف فعاد وسجد ودعى الله عز وجل  
 باسمه الاعظم وهو يا حي يا قيوم فاذا  
 هو ببلقيس مستقرة عند كرسى ان الذى  
 عنده علم من الكتاب هو ضيق بن ادركان  
 هو على جبل سليمان وقيل ان الذى عنده  
 علم من الكتاب هو الخضر عليه السلام و

پرٹھ کر دعا مانگی کہ اچھا تک بقیس آپ کے سامنے تھیں۔ بعض  
 علماء اصف کے بجائے اصف بن عاد کو بتاتے ہیں یہ شخص حضرت  
 سلیمان کے گھوڑوں کا نگران تھا اور بعض خضر کو بتاتے ہیں جب  
 حضرت سلیمان نے اپنے سامنے بقیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو  
 فرمایا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے  
 کہ میں نعمت ملک پر جس سے مجھے نوازا گیا ہے حق تقائے کا شکر  
 ادا کرتا ہوں یا ناشکر کی کہتا ہوں جب میں ایک معمولی شخص کو اپنے  
 سے علم میں افضل دیکھوں حالانکہ رتبہ میں وہ مجھ سے کمتر ہے۔  
 پھر آپ نے حق تقائے کا شکر بجالانے پر عزم کر لیا اور شکر بجا  
 لائے اور فرمایا: جو اللہ کا شکر بجالاتا ہے شکر بجالانے کا اسی کو  
 نادرہ پہنچتا ہے اور جو ناشکر کی کرتا ہے تو میرا رب بے نیاز  
 و بزرگ ہے اور سزا دینے میں جلدی نہیں نہرمانا۔ الغرض  
 جب جنوں نے یہ صورت حال دیکھی تو حضرت سلیمان کے  
 سامنے بقیس کے بارے میں نکتہ چینی کی تاکہ بقیس سے آپ کو  
 نفرت ہو جائے جنوں کو ڈر نہوا کہ کہیں آپ بقیس سے  
 شادی نہ کر لیں اور بقیس آپ کو جنوں کے حالات سے آگاہ  
 کر دیں۔ کیونکہ بقیس جنوں کے حالات کو جانتی تھیں کیونکہ  
 ان کی والدہ جناتنی تھیں جن کا نام عمیرہ بنت عمرو یا رواحہ  
 جنوں کے بادشاہ کی دختر تھیں۔ بالآخر جنوں نے حضرت  
 سلیمان علیہ السلام سے کہا: اللہ تقائے بادشاہ سلامت  
 کی اصلاح فرمائے۔ بقیس ناقص العقل ہیں اور ان کے پیگڑھے  
 کے سموں کی طرح ہیں، بقیس کے پیروں میں کچی تھی اور بالوں  
 بھی تھے۔ یہ سن کر آپ نے بقیس کی عقل کو آزمانا چاہا اور ان  
 کے پیروں کو بھی دیکھنا چاہا اسی لئے آپ نے شیشوں کا  
 فرش بنوایا اور اس کے نیچے پانی کا حوض رکھا جس میں مینڈکیں



قال سليمان لما داهما مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليعني ليختبرني واشكر على ما اعطيت من الملك اما كفر بالنعمة اذا رايت من هو دني افضل مني علما فعزم الله عز وجل على الشكر ومن شكر فانا نكفر لنفسه ومن كفر بالنعمة فان ربي غني كريم لا يعجل بالعقوبة فلما سمعت الجن بذ لك وفعواني بلقيس عند سليمان ليكرهوها اليه خافوا ان يتزوجها فظهره على امورهم وكان تعلم بذ لك لان امها كانت جنيّة وكان اسمها عميرة بنت عمرو وقيل ان اسمها راحة بنت السكن ملك الجن فقالوا اصلم الله الملك ان في عقلها شيئاً ورجلاها كخاف الحمار وكانت بلقيس هلباء شعراء فلما قيل له ذلك اراد ان يروى عقلها ويرى قدميها فاجلذ لك اجري الماء وجعل فيه الصفا دمع السمك وامر بعشرتها ان يغير فيزداد فيه وينقص منه ليروز عقلها فذ لك قوله تعالى نكروا لها عرشها يعني غيروا لها سريرها ننظر ان تهدي يعني تعرفه ام تكون من الذين لا يهتدون يعني الذين لا يعرفون فاقبلت حتى انتهت الى الصرح فقيل لها ادخلي الصرح يعني القصر وقيل الصرح هو البيت بلغة حمير فلما راته خست به لجة يعني ماء غير آء فقالت في نفسها انما اراد ان يغرقني كان غير هذا احسن من ذاك فشت من ساقبها فاذا ساقان شعراء وانما هي من احسن الناس والعدل مما قيل له فيها فقيل لها ان

اور پھلیاں چھڑوا دیں اور تخت بلقیس میں قدر سے رو بدل کا حکم فرمایا کہ اس میں کچھ گھٹا دیا جائے اور کچھ بڑھا دیا جائے تاکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ ہو فرمایا، اسے آزمانے کے لئے اس کے تخت کو بدل دو تاکہ ہم دیکھیں آیا وہ اپنا تخت پہچان لیتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ پھر بلقیس شریف لائیں۔ اور اس محل کے قریب پہنچیں جس کا صحن شیشوں کا تھا اور اس کے نیچے پانی تھا آپ سے کہا گیا کہ اس محل میں شریف لے آئیں بعض کے نزدیک صرح حمیر والوں کی زبان میں گھر کو بھی کہتے ہیں جب آپ نے قصر کا صحن دیکھا تو سمجھیں کہ یہ گرا پانی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں حالانکہ تخت سلیمان تک پہنچنا پانی میں گھسے بغیر بھی ممکن تھا اور بہتر صورت تھی پھر انہوں نے ہمت کر کے اپنے پانچے پڑھائے معلوم ہوا کہ آپ کی پنڈلیوں پر بال ہیں اور آپ انتہائی خوبصورت ہیں اور جنوں کے الزام سے بری ہیں پھر آپ سے کہا کہ یہ تو شیشوں سے بنایا ہوا فرش ہے پانی نہیں آپ بلا کھینچے شریف لائیں اور یہ امر کی طرح ایک چکنا اور گردنبا سے پاک و صاف فرش ہے جیسے امر کا چہرہ بلا بالوں کے چکنا ہوتا ہے اور اس میں شیشوں کے ٹائل لگے ہوئے ہیں آخر کار آپ حضرت سلیمان تک پہنچ گئیں آپ نے بلقیس کی ٹانگیں دیکھ لیں اور یہ بھی کہ ان پر بال ہیں اور قرینہ سے ہیں آپ کو اس کی ٹانگیں بڑی خوبصورت محسوس ہوئیں پھر جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں تو آپ سے پوچھا گیا کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح ہے؟ آپ نے تخت کو دیکھا تھا بعض چیزوں سے آپ ہی کا تخت معلوم ہوتا تھا اور بعض سے نہیں، اور اپنے دل میں سوچنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام اس

صوح مسرد یعنی قصر املس لاشعث افیدہ کالاد  
الذی لاشعری وجہہ کاندہ ملزق لعضہ بعض  
اتخذ بلاطہ من القواریر قال فمضت نحو سلیمان  
وقد البصر قد میہا والبصر الشعر الذی علی  
ساقیہا مہذبا قال فاعجبہ ذلک عجبا شدیدا  
فلما انتہت الی سلیمان فقیل لہا العکنا  
عرشک فنظرت الیہ فجعلت ذلک تعرف وتکر  
فقلت فی نفسہا من این یصل الی ذلک المریر  
الذی ہو داخل سبعة ایات والحرس حوله  
فلم تعرف ولم تنکر فقلت کاندہ فقال سلیمان  
واوتینا العلم من قبلہا یعنی من قبل بلقیس  
وكانت مجوسیة وکنا مسلمین من قبلہا فقالت  
انی ظلمت نفسی یعنی فی الظن الذی ظننت  
لسلیمان انه اراد ان یعرفنی وقیل ظلمت نفسی  
یعنی خبرت نفسی بعبادۃ الشمس واسلمت مع  
سلیمان یعنی واطعت اللہ مع سلیمان ویقال  
اخلمت مع سلیمان للہ رب العالمین فی العبادۃ  
فاسلمت وصدھا یعنی ان سلیمان صدھا ما  
کانت تعبد من دون اللہ انہا کانت من قوم  
کفرین فنزوج بہا سلیمان فاصری بالنور فاخذت  
فتنور سلیمان وبلقیس وھو اول من اتخذ النور  
قال فسألہا سلیمان عن اشیاء وھی سالتہ و  
دخل بہا سلیمان فولدت لہ غلاما فسمیہ  
داؤد ومات فی حیاتہ ثم مات سلیمان و  
ماتت بلقیس بعدہ بشہر وقیل ان سلیمان

تحت تک جو سات تالوں میں بند ہے اور اس کی حفاظت  
پر پرے دار تعینات ہیں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لہذا نہ یہ  
جواب دیا کہ میرا ہی تخت ہے اور نہ انکا ہی کیا بلکہ یہ فرمایا:  
گو یا یہ وہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہمیں تو اس  
سے پہلے ہی یہ بات معلوم تھی یعنی بلقیس کے آنے سے پہلے ہی  
معلوم تھی کہ بلقیس مجوسی خیالات کی ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔  
پھر بلقیس نے کہا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ حضرت سلیمان کے  
بارے میں یہ بدگمانی کی کہ آپ مجھے ڈبونا چاہتے ہیں یا سورج کو  
پوچ کر میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ  
کا دین سینہ سے لگا لیا اور خلوص سے اللہ رب العالمین کی عبادت  
اختیار کر لی اور میں مشرف بہ اسلام ہو گئی اور حضرت  
سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو سورج کی پرستش سے روک  
دیا واقعی وہ کافروں میں سے تھیں لیکن اب اسلام کی  
دولت سے مالا مال ہو گئیں، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے  
آپ سے نکاح کر لیا اور چونا منگوایا اور بال اڑانے والا طلا  
بنایا گیا اور دونوں سلیمان و بلقیس نے اسے استعمال کیا۔  
سب سے پہلے آپ ہی نے چونے والا بال صفا طلا استعمال  
کیا ہے پھر دونوں نے آپس میں تبادلہ خیالات کیا اور  
دونوں کی خلوت ہوئی اور بلقیس حاملہ ہو گئیں پھر ان کے  
بچہ پیدا ہوا جس کا نام داؤد رکھا گیا، داؤد حضرت  
سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے، پھر  
حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے اور آپ کی وفات کے  
ایک ماہ بعد بلقیس بھی چل بسیں، کہا جاتا ہے کہ حضرت  
سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو شام میں ایک علاقہ دے  
دیا تھا اسی کی انہیں آمدنی تھی اور وہ علاقہ حین حیات انہیں کے



اعطاها قریۃ بالشام فكانت تاخذ خراجها حتی ماتت  
وقیل ان سلیمان لما دخل بها سرحها فی جنودہ و  
ردھا الی ملکھا وکان یاتیھا فی کل شہر مرۃ  
فیرکب من بیت المقدس الی البین علی ما تقدم ذکرہ۔  
فصل وانا استوفیت ہذا القصة فی  
ہذا المجلس لما فیہا من العبرة لكل عاقل  
مؤمن ناظر فی العواقب معتبر فی سیر السلف  
الصالح والطالح وقد رآہ اللہ عزوجل النافذہ  
فی الامم الماضیۃ الخالیۃ وکرامتہ لاهل  
الطاعة وتسخیرہ اهل معصیۃ لہم واعطاء  
مقادرتہم واذلالہم وتسلکہ الخلق لاهل  
ولایتہ وصحبۃ لما اطاع سلیمان ربہ عزو  
جل کیف ملکہ بلقیس وملكھا وقد کان فی  
اہل مملکتھا اثنا عشر الف مقاتل کل واحد  
منہم امیر علی مائۃ الف منہم وحبید سلیمان  
یحتمی علی اربع مائۃ الف مائۃ الف من الانس  
ومائۃ الف من الجن والتفاوت ما بین الجنین  
ظاہر فہذا ملک بطاعتہ وھذا ملک  
لکفرھا ومعصیتھا فاعلم ایھا الانسان ان  
الاسلام لعلو ولا یعلو علیہ ولن یجعل اللہ  
للكفرین علی المؤمنین سبیلا وکن لک انت  
یا مرفیق اذا امت امت من اعدائک فی  
الدنیا ومن فاد اللہ الموقدۃ التي فی العقبی  
تخدم النار وتطرق بین یدیک وترشدک  
الطریق مکرمۃ لک ومعظۃ وطاعة لامر

پاس رہا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خلوت کے بعد حضرت  
سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو سب اہی بھیج دیا تھا اور  
آپ ہرمینہ ان سے ملاقات کرنے ہو اور سوار ہو کر بیت المقدس  
سے یمن آیا کرتے تھے۔

حضرت سلیمان کا قصہ عبرت کیلئے بیان کیا گیا اس نے

اس مجلس میں حضرت سلیمان کا قصہ تفصیل سے اس لئے بیان کیا  
ہے کہ اس میں ایک ہوشیار و ذمی عقل مومن کے لئے بڑی عبرت  
ہے جس کی انجام پر نگاہ رہتی ہے اور اچھے اور برے حضرات کے  
واقعات سے نتائج اخذ کر کے ہوشیاری سے زندگی گزارنا چاہتا  
ہے اور گزشتہ اقوام عالم میں اللہ کی قدرت کو نافذ جاری دیکھتا  
ہے اور یہ بھی کہ حق تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں کو عزت  
عطا فرماتا ہے اور نافرمانوں کو ان کے قبضہ میں دے دیتا ہے  
اور ان کا مطیع و منقاد بنا دیتا ہے اور بد کرداروں کو ذلیل و  
خوار کرتا ہے اور ان کی تکمیل اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں دے  
دیتا ہے دیکھیے جب حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت  
اختیار کی تو حق تعالیٰ نے ملک سب کو اور اس کے ملک کو آپ  
کا مطیع بنا دیا جب کہ بلقیس کا لشکر ۱۲ لاکھ جو انوں پر مشتمل تھا  
اور حضرت سلیمان کی فوج صرف چار لاکھ تھی جن میں دو لاکھ انسان  
تھے اور دو لاکھ جن تھے دونوں فوجوں کا تفاوت ظاہر ہے  
ملکہ سب کی قوت سلیمان علیہ السلام کی قوت سے مگنی تھی مگر حضرت  
سلیمان ملک سب کے اپنی اطاعت کی وجہ سے مالک بن گئے اور  
وہ کفر و عدم اطاعت کی وجہ سے مملوک ہو گئے لہذا لوگو! یقین  
رکھو اسلام غالب ہو کر رہتا ہے مغلوب نہیں ہوا کرتا  
اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا۔ اسی طرح  
تو اے اللہ کی طرف سے توفیق دئے جانے والے اگر مومن ہے تو



مولاها ومنتثلة له فتقول لك جزيا مو من  
 فقد اطفأ نورك لهي عبارة لطيفة اى اهلك  
 مكرم منور خلعة الملك عليك علامة الوفا عليك  
 فطى الحواشى والعبيد تعظيمك  
 وتوتيرك وخدمتك واما الكافر والعاصي فيتعيط  
 النار عليه وتنتقم منه انتقام الجبار من عدو لا عند  
 ظفيرة به كما قال الله عز وجل اذا راى اثمهم  
 من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا فان  
 اردت العزة فى الدنيا والاخرة فعليك بطاعة  
 الله والصبر عن معصية الله تجدها برحمة الله  
 تعالى قال الله عز وجل من كان يريد العزة  
 فلله العزة جميعا وقال الله تعالى والله العزة  
 ولسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون  
 فنفاك يا مدعى الايمان وشريك يا مدعى  
 الاخلاص حجابك عن روية عزة الجبار ونبيه  
 المختار والمؤمنين الاخيار فلو كنت عاملا بموجب  
 الايمان موقنا بشرائط الاخلاص لامننت فى  
 الدنيا من كل موزى وكل شيطان من الانس  
 والجان وفى الاخرة من عذاب النيران وكانك  
 النصرى لك ولا عداؤك الهوان قال الله  
 عز وجل ان تنصروا الله ينصركم ويثبت  
 اقدامكم وقال تعالى ولا تنهوا وتدعوا  
 الى السلم وانتم الاعلون والله معكم  
 ولكن العقلة قد تكاثفت على قلبك وتراكم  
 الرين عليه وترادت السواد والظلمة لذيها

دنیا میں اپنے دشمنوں سے مامون رہے گا اور آخرت میں اللہ کی بھڑکانی  
 آگ سے بھی بلکہ آگ تیری خدمت کار بن جائے گی اور تیرا اس قدر  
 احترام و اکرام کرے گی کہ تیرے آگے آگے چل کر تجھے سیدھا راستہ  
 بتا دے گی اور اپنے مولیٰ کے حکم کی مطیع ہوگی اور آقا کے حکم کی تعمیل  
 کرے گی اور انتہائی لطیف و دل خوش کن انداز میں کہے گی کہ اے  
 اللہ کے مومن بندے گزر جا تیرے نور ایمان نے میرا شعلہ ٹھنڈا  
 کر دیا یعنی آپ معزز و محترم اور منور و درخشاں ہیں آپ پر شاہی  
 خلعت ہے اور عزت و وقار کی نشانیوں میں لہذا ہم جیسے خداموں  
 اور غلاموں کے لئے آپ کی خاطر و مدارت، عزت و عظمت اور ہر طرح  
 کی خدمت باعث صداقت و عزت ہے لیکن آگ کافروں اور  
 نافرمانوں پر جوش و خروش کے ساتھ جھنجھولائے گی اور اس طرح  
 انتقام لے گی جس طرح ایک سخت گیر سرکش انسان اپنے دشمن سے  
 انتقام لیتا ہے جب کہ اس پر قابو پاتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے  
 فرمایا جب آگ انہیں ڈر سے دیکھے گی تو وہ غصہ میں اس کے  
 جوش و خروش کو نہیں گے نتیجہ ظاہر ہے اگر آپ دین و دنیا کی  
 عزت و سرخ روئی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم  
 عمل رہئے اور گناہوں سے بچتے رہئے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی  
 سے دین و دنیا کی سعادتیں نصیب ہو جائیں گی حق تعالیٰ جل مجدہ  
 نے فرمایا جو عزت کا متلاشی ہے تو وہ یاد رکھے کہ ہر طرح کی عزت  
 اللہ والوں ہی کے لئے ہے فرمایا اور عزت اللہ ہی کے لئے ہے اور  
 اس کے رسول کے لئے اور مومنوں کے لئے ہے لیکن منافق سمجھتے  
 نہیں۔ اسے دعویٰ داران ایمان و اخلاص! تمہارا شرک و انفاق  
 ایک دیپر پردہ ہے جس کی وجہ سے تم کو حق تعالیٰ مجدہ کی اور اس  
 کے نبی مختار کی اور مومنوں کی عزت نظر نہیں آتی اگر آپ ایمان کے  
 تقاضوں پر عمل پیرا ہوں اور شرائط اخلاص مکمل کر لیں تو دنیا میں



من حسرة وندامة يوم تبنى السراكر في يوم القيامة  
يوم الحاقة يوم الطامة الكبرى يوم القارعة  
يوم الصاخة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم  
خافية يومئذ يصدر الناس اشتاتا لسير  
اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره  
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره  
الذرة هي قشر الهباء الذي يظهر في  
شعاع الشمس مثل رؤس الابر وقيل اربع  
ذرات مثقال خردلة وقيل هي النملة الحمراء  
الصغيرة التي لا تكاد ترى اذا دبت وقيل  
ان الذرة جزء من الف جزء من شعيرة  
وقال عبد الله بن عباس اذا وضعت  
كفك على التراب ثم رفعتها وكل شيء  
يلقى بها من التراب فهو ذرة فابن انت  
من يوم توزن فيه الاعمال بهذه الزنة  
تثقل وتخف بهذه الحقة ويوم يقول الله  
تعالى فيه يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا  
ونسوق المجرمين الى جهنم وردا اي عطايا  
وحينئذ ينكشف الغطاء ويظهر الخياء  
بيننا المؤمن من الكافر والصديق ومن المنافق واليهود  
من المشرك والولي من العدو والمحق من المدعي فاحذ  
يامسكين من هول ذلك اليوم وانظر من اسي الخزيين تكون  
فان علمت الله العظيم والتفت في عمك عن الخبير  
وصفيته عما ليسوع للناقد البصير فانت في  
حزب المتقين الواحد من على الرحمن في يوم

ہر ذری سے اور ہر شیطان سے خواہ وہ انسان ہو یا جن پچ جائیں اور  
آخرت میں آگ کے عذابوں سے اور کامیابی و نصرت آپ کے قدم  
چومنے لگے۔ اور آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہو جائیں حتیٰ تعالیٰ جل مجدہ  
نے فرمایا: اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا  
اور تمہیں دین و قوانین دین پر جمائے رکھے گا۔ فرمایا: اور سست  
نہ بنو اور نہ صلح کی عورت دو کیونکہ تم بند ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے  
ساتھ ہے لیکن آپ کے دل پر غفلت کی گھٹا ٹوپ ظلمت چھا گئی ہے  
اور رنگ تہ بہ تہ چڑھ گیا ہے اور سیاہی پر سیاہی طاری ہو گئی ہے  
لہذا ہوش میں آ جاؤ اور قیامت کے دن کی جس دن راز کھلیں گے  
حسرت و ندامت سے ڈ جاؤ یہ آہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یہ حق و جزا کا  
دن ہے بڑے سنگم و الادون ہے کھٹکھٹانے والا دن ہے بہرہ کرینے والا  
دن ہے جس دن تم رب کے سامنے پیش کئے جاؤ گے اور کوئی بات تم سے  
چھپی نہ رہے گی جن دن لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے اور پھیل جائیں  
گے تاکہ انہیں ان کے عمل دکھائے جائیں پھر جس نے رانی بھرنکی کی ہوگی  
اسے بھی دیکھ لے گا اور رانی بھرنکی کی ہو تو اسے بھی دیکھ لے گا جاتا ہے  
ذرات سولی کے ناکہ کی برابر ان چیزوں کو کہتے ہیں جو اس دھوپ میں  
اڑتی ہوئی نظر آتا کرتی ہیں جو درخشندہ ان سے کرے میں آتی ہو کہتے  
ہیں چار ذرے ایک رانی کے دانہ کے برابر ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے  
ہے کہ ذرہ اس سرخ چھوٹی جیونیٹی کو کہتے ہیں جو چلتی ہوئی مشکل سے  
نظر آتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذرہ ایک جو ایک ہزارواں حصہ ہے  
حضرت ابن عباس: مٹی پر ہاتھ رکھ کر ہٹاؤ اور ہاتھ کو دیکھو تو  
جتنی مٹی آپ کے ہاتھ کو لگتی ہے وہی ذرات ہیں اس دن تمہارا کیسا برابر  
حال ہو گا جس دن اعمال تو لے جائیں گے اور ایک ذرے کے وزن کے  
پہر جھک جائے گا اور اٹھ جائیگا وہ دن یاد کرو جس دن حق تعالیٰ  
فرمائے گا: جس دن ہم پارساؤں کو رحمن کے پاس وند کی صورت میں

النشرفلك الكرامة يا كريم و لك  
السلامة و البشري يا حكيم و ان  
كان غير ذ لك فاعلم انك يا حزب  
الخير لاحق و هالك مع من هو هالك  
في النار مع فرعون و هامان و قارون  
متلاحق قال الله عز و جل فمن كان  
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا  
ولا يشرك بعبادة ربه احدا فلا ينحيك  
في ذ لك اليوم من غير العمل الصالح -

**فصل** في فضل بسم الله الرحمن الرحيم  
عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال لما نزل  
بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم  
الى الشرق و سكنت الرياح و هاج  
البحر و اصغت البهائم باذانها و رجعت  
الشياطين من السماء و حلف الله عز و جل  
بعزته لا يئمن اسم على سقم الا شفا لا ولا يئمن  
اسم على شئ الا بارك فيه و من قرء بسم الله  
الرحمن الرحيم و دخل الجنة و عن ابى وائل  
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال  
من اراد ان ينجيه الله من الزانية التسعة  
عشر فليقل بسم الله الرحمن الرحيم فانها  
تسعة عشر حرفا يجعل الله تعالى كل حرف  
منها جنة من واحد منهم و عن طاووس عن  
ابن عباس ان عثمان بن عفان رضى الله عنه  
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله

جمع کرینگے اور مشرکوں کو کہ پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لانگ کر لیجائیں گے  
اس دن پردے اٹھ جائیں گے، امرا کھل جائیں گے اور مومن کافر سے  
مخلص ہونے سے، موجد مشرک سے، دوست دشمن سے اور سچا جھوٹے سے  
ممتاز ہو جائے گا لہذا اسے قابل رحم انسانو! اس دن کے ہولوں سے ڈر  
جاؤ اور آج ہی غور کر لو کہ تم کس گروہ میں ہو گے اگر تم نے عظیم اللہ کے لئے  
عمل کئے اور اپنے اعمال میں حاضر و ناظر اللہ سے ڈرتے رہے اور اعمال کو  
ہمیشہ تنقید کر نیوالے کی نکتہ چینیوں سے محفوظ کر لیا تو تم پارساؤں کی  
جماعت میں شامل ہو گے جو قیامت کے دن دوزخ میں اپنے مرہبان اللہ کے پاس  
جائیں گے۔ پھر تمہارے معزین تمہارے لئے عزت ہی عزت ہے اور اسے حکما  
تمہارے لئے بشارت و سلامتی ہے ورنہ تم پھیلے گروہوں میں ہو گے  
جو جہنم کی طرف لانگ کر لیا جائیگا اور ہلاک ہو نیوالوں کے ساتھ ہلاک ہو گا  
اور فرعون، هامان اور قارون کے ساتھ ہو گا حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں  
جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے نیک عمل کرنے چاہئیں  
اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یا درکھو اس دن عمل  
صالح کے علاوہ کوئی شے نجات دینے والی نہیں۔

**بسم اللہ کی فضیلت** عطاء از جابر بن عبد اللہ: جب بسم اللہ  
انری تو بادل مشرق کی طرف بھاگ گئے، سمعت ہو ایسے ٹھہر گئیں  
سمندروں میں جوش پیدا ہو گیا، چوپایوں نے اپنے کان لگا لئے۔  
شیطانوں پر آسمان سے انگارے برس گئے اور حق تعالیٰ جل شانہ  
نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس بیمار پر میرا نام لیا جائے گا میں اسے  
ضرور شفا دوں گا اور جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور  
برکت عطا فرماؤں گا اور جو بسم اللہ پڑھے گا وہ جنتی ہے۔ ابو داؤد  
از عبد اللہ بن مسعود: اگر کوئی شخص جہنم پر ۱۹ سوکل فرشتوں سے نجات  
حاصل کرنا چاہے تو اسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے بسم اللہ میں ۱۹ حرف  
ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر حرف کو ایک فرشتہ سے ڈھال بنا دے گا۔



الرحمن الرحیم قال فقال هو اسم من اسماء  
 اللہ عزوجل وما بینہ و بین اسم اللہ الاعظم  
 الیکتابین سواد العین و بیاضہا من القرب  
 وعن النس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم من رفع قرطاسا من الارض فیہ  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم اجلا لا للہ ان ید اس  
 کتب عندہ من الصکات یقین و خفف عن والدیہ  
 وان کان مشرکین یعنی العذاب و قبل لم یرت  
 ابلیس اللعین مثل ثلاث رنات قط رنۃ حین  
 لعن و اخرج من ملکوت السماء و رنۃ حین  
 ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رنۃ حین انزلت  
 فاتحۃ الکتاب لکن بسم اللہ الرحمن الرحیم  
 فیہا و عن سالم بن ابی الجعد ان علیا رضی اللہ  
 عنہ قال لما انزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم  
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما انزلت  
 ہذی الآیۃ علی ادم فقال امن ذریتی من العذاب  
 ماداموا علی قرأتہا ثم رفعت فانزلت علی ابراہیم  
 الخلیل فتلاھا و هو فی کفۃ المنجیق فجعل اللہ  
 علیہ النازیر و اوسلا ما ثم رفعت بعدہ فما  
 انزلت الی علی سلیمان و عندھا قالت الملائکۃ  
 الان تم و اللہ ملکک ثم رفعت فانزلھا اللہ  
 عزوجل علی ثم باقی امتی یوم القیامۃ و ہم  
 یقولون لبسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا  
 وضعت اعمالکم فی المیزان رجعت حسنتکم  
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوھا

طاؤس از ابن عباس رضی اللہ عنہما: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سرور  
 عالم صلعم سے بسم اللہ کے بارے میں پوچھا: فرمایا: اللہ تعالیٰ کے  
 اسماء میں سے بسم اللہ بھی ایک اسم ہے اور اس اسم میں اور اللہ کے  
 اسم اعظم میں اتنا قرب ہے جتنا قرب آسمان کی سیاہی اور سفیدی میں ہے  
 انس بن مالک از رسول اللہ صلعم: اگر کوئی زمین سے اس کاغذ کو  
 جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اللہ کے اسم کے احترام و عظمت کی خاطر  
 اٹھائے تاکہ یہ پیروں کے نیچے نہ آئے تو وہ اللہ کے پاس صدیقین میں  
 لکھ دیا جائیگا اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جائیگی  
 خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ تین جگر سوز نالوں کی  
 طرح ابلیس نے کبھی کوئی اور جانکاہ نالہ نہیں کیا ایک نالہ اس وقت  
 جب اس پر لعنت کی گئی اور آسمانوں سے نکالا گیا۔ اور ایک نالہ  
 نبی صلعم کی پیدائش کے وقت کیا اور ایک نالہ نزول فاتحہ کے وقت  
 کیا کیونکہ اس میں بسم اللہ ہے۔ سالم بن ابی الجعد از علی رضی اللہ  
 عنہ: بسم اللہ اتھی تو رسول اللہ صلعم نے فرمایا: سب سے پہلے آیت  
 حضرت آدم پر اتھی تو آپ نے فرمایا: میری اولاد و عذاب سے  
 مامون رہے گی۔ جب تک وہ اسے پڑھتی رہے گی پھر بسم اللہ  
 اٹھالی گئی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر اتھی آپ نے اسے  
 اس وقت پڑھا جب آپ کو بچپہ میں آگ میں پھینکے جانے کے لئے  
 بٹھا دئے گئے تھے حق تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ پر آگ  
 ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی پھر آپ کے بعد اٹھالی گئی اور  
 حضرت سلیمان پر اتھی اس وقت فرشتوں نے کہا: اب آپ کا  
 ملک تکمیل مراحل تک پہنچ جائے گا پھر اٹھالی گئی اور اللہ تعالیٰ نے  
 مجھ پر اتاری پھر میری امت قیامت کے دن بسم اللہ پڑھتی ہوئی  
 آئے گی پھر جب ان کے اعمال میزان میں رکھے جائیں گے تو ان کی نیکیاں  
 جھک جائیں گی اور رسول اللہ صلعم نے فرمایا: اپنی کتابوں میں بسم اللہ لکھو



فی کتیبکم فاذا اکتبتتموها فتکلموا بها۔

**فصل** آخر فی فصل بسم اللہ الرحمن الرحیم  
 عن عکرمۃ رجمۃ اللہ علیہ انہ قال اول ما  
 خلق اللہ اللوح والقلم امر اللہ القلم فجری  
 علی اللوح بما ہو کائن الی یوم القیامۃ فاول ما  
 کتب علی اللوح بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعل  
 اللہ ہذا الایۃ امانا لخلقہ ما داموا علی  
 قرائتہا وہی قراءۃ اهل سبع سموات واهل  
 الصفح الاعلی واہل سرادقات المجد والکریمین  
 والصابین والمسجین فاول ما انزلت علی ادم  
 علیہ السلام فقال قد امن ذریعتی من العذاب  
 ما داموا علی قراءتہا ثم رفعت بعدہ فانزلت  
 علی ابراہیم الخلیل علیہ السلام فی سورۃ  
 الحمد فتلاہا وهو فی کفۃ المنجینی فجعل اللہ  
 النار علیہ بردا و سلاما ثم رفعت بعدہ فانزلت  
 علی موسی فی الصحف فیہا قہر فرعون وسحرہ  
 وھامان وجنودہ وقارون واتباعہ ثم رفعت  
 بعدہ فانزلت علی سلیمان بن داؤد فعندھا  
 قالت الملئکۃ الیوم واللہ تم ملکک یا ابن  
 داؤد  
 فلم یقرءھا سلیمان علی شیء الا خضع لہ وامرہ  
 اللہ یوم اتر لہا علیہ ان ینادی فی اسباط بنی  
 اسرائیل الامن احب منکم ان یسبح آیۃ  
 امان اللہ فلیحضر الی سلیمان فی محراب داؤد  
 فانہ یرید ان یقرم خطیبا قلم یتق محبوس  
 نفسہ فی العبادۃ ولا سآح الہرول الیہ

اور جب بسم اللہ دیکھو تو اسے پڑھ لیا کرو۔

دوسرے اعتبار سے بسم اللہ کی فضیلت | عکرمہ: سب سے

پہلے اللہ نے لوح و قلم پیدا کئے اور قلم کو حکم دیا اس نے لوح پر  
 قیامت تک وجود میں آنے والی اشیا لکھ لیں سب سے پہلے قلم  
 نے لوح پر بسم اللہ لکھی حق تعالیٰ شانہ نے یہ آیت اپنی مخلوق کی  
 امن و سلامتی کے لئے ضامن بنائی جب تک وہ اسے پڑھتی رہے گی  
 یہی بسم اللہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کا، اربچے مرتبہ کے فرشتوں  
 کا، مجد و شرف کی قنائوں والے فرشتوں کا، اگر وہیوں کا، طاعت الہی  
 میں صف بستہ رہنے والے فرشتوں کا اور ہمیشہ تسبیح میں مشغول رہنے  
 والے فرشتوں کا اور وہی بسم اللہ سب سے پہلے حضرت آدم پر  
 اتری آپ نے فرمایا۔ جب تک میری اولاد اسے پڑھتی رہے گی  
 عذاب سے محفوظ رہے گی پھر آپ کے بعد اٹھالی گئی اور خلیل اللہ  
 پر معہ فاتحہ کے اس وقت اتری جب کہ آپ کو گو پھٹے کے پلہ میں  
 ڈال کر آگ میں پھینکا جانے والا تھا آپ نے بسم اللہ پڑھی اور  
 اس کی برکت سے آگ گل و گلزار بن گئی پھر آپ کے بعد اٹھالی  
 گئی اور حضرت موسیٰ پر صحیفوں میں اتاری گئی آپ اسی کی  
 برکت سے فرعون پر اس کے جادو گروں پر الامان پڑا اس  
 کے لشکروں پر اور قارون پر اور اس کے پیروکاروں پر غالب آئے  
 پھر آپ کے بعد اٹھالی گئی اور حضرت سلیمان پر اتری اس وقت  
 فرشتوں نے کہا: اے ابن داؤد آج اللہ کی قسم آپ کا ملک  
 تکمیل مرحلہ میں داخل ہو گیا پھر حضرت سلیمان نے جس چیز پر  
 بسم اللہ پڑھی وہی آپ کی مطیع و منقاد ہو گئی۔ جس دن بسم اللہ  
 اتری اللہ نے حضرت سلیمان کو حکم دیا کہ اسباط بنی اسرائیل میں  
 یہ اعلان کرادیں کہ جو امن والی آیت سننا پسند کرے وہ محراب  
 داؤد میں حضرت سلیمان کے پاس آجائے کیونکہ آپ کا خطبہ



حتی اجتمعت الاحبار والعباد والزهاد  
 الاسباط کلہا عندہ فقام یرقی بمنہ الخلیل  
 ابراہیم وتلا علیہم ایتہ الامان بسم اللہ  
 الرحمن الرحیم فلم یسعھا احد الا امتلاً  
 فرحاً وقالوا اشهد انک لرسول اللہ حقاً  
 فبھا قهر سلیمان ملک الارض وبعھا افتتم  
 اللہ نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکة  
 ثم رفعت بعد سلیمان فانزلت علی المسیح  
 عیسیٰ بن مریم ففرح بها واستبشر بها  
 الحواریون فاوحی اللہ تعالی الیہ یا ابن العذراء  
 اتدری ای ایتہ انزلت علیک انھا ایتہ الامان  
 قوله بسم اللہ الرحمن الرحیم فاكثر  
 تلاوتھا فی قیامک وقعودک ومضجعک  
 ومجیک وذھابک وصعودک وهبوطک فانہ  
 من وافایوم القیامة فی صحیفته بسم اللہ  
 الرحمن الرحیم ثمان مائة مرة وكان مؤمناً  
 بی وبرلویتی اعتقته من النار وادخلته الجنة  
 فلتنکن افتاح قرأتک وصلاتک فان جعلھا  
 فی افتاح قرأتہ وصلاتہ اذامات علی ذلک  
 لم یرعه منکرون کیر وھون علیہ سكرات  
 الموت وضغطة القبر وکانت رحمتی علیہ و  
 افسح لہ فی قبرہ والنور لہ فیہ مد بصرہ واخر  
 من قبرہ ابیض البسم والنور الوجه تیلکاع  
 نوراً واحاسبہ حساباً لیسیراً واثقل موازینہ  
 واعطیہ النور التام علی الصراط حتی یدخل

دینے کے لئے کھڑا ہونے کا ارادہ ہے یہ اعلان سن کر گوشہ نشین عابد  
 و زاہد اور روزے دار سب دوڑ کر آگئے حتی کہ علماء و درویش و عابد  
 زاہد اور اولاد یعقوب کے تمام قبیلے حضرت سلیمان کے پاس جمع ہو گئے  
 حضرت موسے کھڑے ہوئے اور خلیل اللہ کے ممبر پر چڑھ گئے اور سب  
 کو امن والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی جس نے سنی  
 خوشی سے بھولا نہ سما یا اور سب نے کہا ہمیں اعتراف ہے کہ آپ  
 اللہ کے سچے رسول ہیں اسی کی برکت سے حضرت سلیمان نے سلاطین  
 عالم کو اپنا باجگزار بنایا اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری  
 نبی حضرت محمد صلعم کے لئے مکہ فتح فرمایا پھر حضرت سلیمان کے بعد بسم اللہ  
 اٹھالی گئی اور حضرت یسح پر اتری آپ کو اس سے مسرت ہوئی اور آپ کے  
 حواری بھی بہت خوش ہوئے پھر حق تعالیٰ شانہ نے آپ پر وحی بھیجی  
 اور فرمایا اے کنواری کے بیٹے! معلوم ہے تجھ پر کونسی آیت اتری ہے  
 دیکھ یہ امن والی آیت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں کو  
 اللہ کا امن حاصل ہو جاتا ہے اس لئے اُٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے  
 آتے جاتے اور چڑھتے اترتے کثرت سے اسے پڑھنا رہ کیونکہ جو  
 قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے اعمال نامہ میں بسم اللہ  
 کی تلاوت آٹھ سو بار لکھی ہوگی اور اس کا مجھ پر اور میری ربوبیت پر  
 ایمان بھی ہوگا تو میں اسے آگ سے آزاد کر دوں گا اور جنت میں  
 داخل کر دوں گا لہذا بسم اللہ تیری قرأت کے اور نماز کے آغاز میں  
 ہونی چاہیے۔ اور جو قرأت و نماز کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لے  
 اور اسی پر فوت ہو جائے تو اسے منکر و کبیر نہیں ڈرائیں گے اور اس  
 پر سکران موت اور قبر کا دبوچنا آسان ہوگا اور اس پر میری  
 رحمت برسے گی اور میں اس کی قبر فراخ کر دوں گا اور حدنگاہ  
 تک اسے نور سے بھر دوں گا اور جب اسے قبر سے اٹھاؤں گا تو گورانی  
 جسم ہوگا اور نورانی چہرہ ہوگا جس سے نور جھلانا ہوگا، اس سے

الجنة و امر انادي ان ينادي به في عرسات  
القيامة بالسعادة والمغفرة قال عيسى عليه  
السلام اللهم يارب هذا في خاصة  
فقال لك خاصة ولمن تبعك واخذ اخذك  
وقال لقولك وهو احمد وامته من بعدك  
واخبر عيسى عليه السلام ذلك لا تباعد  
فقال وميثم ابر رسول ياتي من بعدى اسمه احمد  
من صفته ولغته وفضلته كيت وكيت و  
اخذ ميثاقهم بالايان به وجدد شانه  
عند ما رفته الله تعالى الى السماء لاصحابه  
فلما انقض الحواريون ومن اتبعه وجاء  
الآخرون فضلوا واصلوا وابدلوا واستبدلوا  
بالدين دنياهم فرفعت عندها آية الامان  
من صدر النصرى ولقيت في صدر مسلمي  
اهل الانجيل مثل بجيراء الراهب وامثاله  
حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فانت  
عليه في سورة الحمد بمكة قام رسول الله  
صلى الله عليه وسلم فكنت تلك على رؤس السور  
وصدور الوسائل وكان نزول هذه الآية على رسول  
صلى الله عليه وسلم فتعاغلبوا وحلف رب العزة بعزته  
ان لا يسي مؤمن موقن على شئ الا بركت له فيه ولا يقرها  
مومن الا قالت الجنة له بيبك وسعديك اللهم ادخل عبدك  
هذا في بسم الله الرحمن الرحيم فاذا ادعت الجنة لعبد فقد استو  
له دخولها وقد قال صلى الله عليه وسلم  
لا يرد دعاء اوله بسم الله

آسان حساب لوں گا، اس کی تو لیں بھاری کر دوں گا اور اسے پھر  
پر کھل نور عطا فرماؤں گا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے حتیٰ تعالیٰ  
ایک فرشتہ کو حکم فرمائے گا کہ محشر کے میدان میں اس کی سعادت و  
مغفرت کا اعلان کر دے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ اور اے  
میرے پروردگار! کیا یہ خاص طور سے میرے ہی لئے ہے اور تیرے  
تالبعداروں ہی کے لئے ہے جو تیرے دین کو اپنائے اور تیری ہدایات  
پر عمل کرے اور تیرے بعد پیر احمد کے لئے اور ان کی امت کے لئے  
ہے پھر حضرت عیسیٰ نے اس کی اپنے پیروکاروں کو خبر دی اور فرمایا  
میں تم کو ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیگا اور جس کا  
نام احمد ہوگا اور اس کی صفت، تعریف اور فضیلت فلاں فلاں  
ہوگی اور ان سے آپ پر ایمان لانے کا پکا عہد لیا اور جب آپ  
آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے اس وقت آپ نے اپنے پیروکاروں  
سے اس عہد کی تجدید کی پھر جب حواری اور آپ کے پیروکار  
ختم ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے آگے آگے تو گمراہ ہو گئے اور انہوں  
نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور دین میں رد و بدل کر ڈالا اور  
سچے دین کے بدلہ باطل دین اختیار کر لیا اور دین کے بجائے دنیا  
چن لی بالآخر عیسائیوں کے دلوں سے امن والی آیت اٹھالی گئی،  
اور مسلمان عیسائیوں (جیسے بجیراء راہب وغیرہ) کے دلوں میں  
باقی رہی حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کو مبعوث فرمایا اور آپ پر  
سورہ فاتحہ کے آغاز میں کہ میں یہ آیت اناری پھر نبی صلیم کے حکم سے  
یہ آیت ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی اور خطوط و دفاتر کے  
شروع میں بھی لکھی جانے لگی لہذا آپ اس آیت کا ازنا فتح عظیم  
دفع کر، کی بشارت ہے اور رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا  
فرمایا کہ جو مومن یقین سے کسی چیز پر بسم اللہ پڑھے گا میں اس  
میں ضرور برکت دوں گا جب اسے مومن پڑھتا ہے تو جنت اس کے



الرحمن الرحيم قال وان امتي ياتون  
القيامة وهم يقولون بسم الله الرحمن  
الرحيم فتثقل حسناتهم في الميزان فتقول  
الامة ما ارجح موازين امة محمد  
صلى الله عليه وسلم فيقول الانبياء لهم  
كان امة محمد صلى الله عليه وسلم  
مبتداء كلامهم ثلاثة اسماء من اسماء  
الله تعالى الكرام لو وضعت في كفة  
الميزان ووضعت سيئات الخلق جميعا  
في الكفة الاخرى لرجحت حسناتهم قال  
وجعل الله تعالى هذه الآية شفاء من كل  
داء وعونا لكل داء وغناء من كل فقر  
وسترا من النار واما من الخسف والمسخ  
والقذف ماداموا على قراءتها-

**فصل في تفسير قوله بسم الله الرحمن**  
الرحيم قوله عز وجل بسم الله روى عن  
عطية العوفى عن ابى سعيد الخدرى قال قال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى  
عليه السلام ارسلته امه رضى الله عنها  
الى الكتاب ليتعلم فقال له المعلم  
قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال عيسى وما  
بسم الله قال لا ادري فقال الباء بهاء الله  
والسين سناء الله والميم مملكته وقال  
الوبكر الوراق بسم الله روضة من رياض  
الجنة لكل حرف منها تفسير على حد لا

کھتی ہے اے بندہ مومن بیک و سعید اے اللہ بسم اللہ کی برکت  
سے اپنے اس بندے کو جنت میں داخل فرما اور جب جنت  
کسی بندے کے لئے دعا مانگتی ہے تو اس کے لئے جنت میں جانا  
واجب ہو جاتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ  
دعا رد نہیں کی جاتی جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو  
فرمایا میری امت قیامت کے دن بسم اللہ پڑھتی ہوئی آئیں گی پھر ان کی  
نیکیاں میزان میں بھاری ہو جائیں گی دیگر امتیں کہیں گی امت محمدیہ کی  
تولیں کتنی بھاری ہیں تو ان کے نبی انہیں جواب دیں گے کہ امت محمدیہ  
کے کلام کی ابتدا دین ایسے بزرگ اسماء سے ہوتی تھی کہ اگر وہ تینوں  
ترازو کے ایک پل میں ہوں اور دوسرے پل میں تمام مخلوق کی برائیاں ہوں تو  
ان اسماء کے ساتھ ان کی نیکیاں ہی جھک جائیں گی اللہ تعالیٰ نے اس  
آیت کو ہر بیماری سے شفا اور دوا کا معاون اور فقر سے نونگری لایزالی  
آگ سے حجاب اور خسف، مسخ اور قذف سے پناہ دینے والی بنایا  
ہے جب تک لوگ اسے پڑھتے رہیں گے۔

**بسم اللہ کی تفسیر** عطیہ عوفی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت  
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو ان کی والدہ نے پڑھانے  
والوں کے پاس بھیجا تا کہ آپ تعلیم حاصل کریں آپ سے پڑھانے والے استاد  
نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: بسم اللہ  
کیا ہے؟ استاد نے کہا: مجھے معلوم نہیں، فرمایا: یا اللہ کی روشنی  
ہے۔ س۔ اللہ تعالیٰ کی بندی ہے اور مہیم۔ حق تعالیٰ کی مملکت ہے۔  
الوبکر وراق فرماتے ہیں: بسم اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک  
باغ ہے اس کے ہر حرف کی ایک جدا گانہ تفسیر ہے غور کیجئے۔ با کے  
چھ معنی ہیں (ا) با سے باری مراد ہے یعنی عرش سے لیکر فرش تک حق  
تمام کائنات کا باری پھیلانے والا ہے فرمایا: ہو اللہ الخالق البارئ  
یعنی اللہ کائنات کا عرش سے لیکر تخت الشریٰ تک خالق ہے اور اس کا

فالباء علی ستہ اوجہ باری خلقہ من  
العرش الی الثری بیانہ ہو اللہ الخالق  
الہاری من العرش الی الثری بصیر بخلقہ من  
العرش الی الثری بیانہ واللہ بصیر بما تعملون  
باسط رزق خلقہ من العرش الی الثری بیانہ  
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر باق بعد  
فناء خلقہ من العرش الی الثری بیانہ کل من  
علیہا فان یمیق وجہ ربک ذوالجلال  
والاکرام باعث الخلق بعد الموت من  
العرش الی الثری للثواب والعقاب بیانہ  
ان اللہ یمیت من فی القبور بار بالمؤمنین  
من العرش الی الثری بیانہ هو البر الرحیم  
والسین علی خستہ اوجہ سمیع لاموات خلقہ  
من العرش الی الثری بیانہ امر یحسبون  
اننا لنسمع سرہم ونجواہم سید قد  
انتہی سورۃ من العرش الی الثری بیانہ  
اللہ الصمد سریع الحساب مع خلقہ من  
العرش الی الثری بیانہ واللہ سریع الحساب  
سلام سلم خلقہ من الظلمۃ من العرش  
الی الثری بیانہ السلام المؤمن ساتر  
ذنوب عبادہ من العرش الی الثری بیانہ  
غافر الذنب وقابل التوب وامیم علی  
اشناعشر وجہا ملک الخلق من العرش  
الی الثری بیانہ الملک القدوس مالک خلقہ  
من العرش الی الثری بیانہ قل اللہم

پھیلانے والا ہے (۲) با سے بصیر کی طرف اشارہ ہے یعنی حق تعالیٰ  
عرش سے لیکر تخت الثری تک اپنی مخلوق دیکھتا ہے فرمایا اور اللہ تعالیٰ  
عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے (۳) یا بمعنی باسط ہے یعنی اللہ تعالیٰ عرش سے  
لیکر تخت الثری تک اپنی مخلوق کی روزی فراخ فرماتا ہے فرمایا اللہ جس  
کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے  
(۴) یا بمعنی باقی ہے یعنی سب فنا ہو جائیں گے بس اللہ ہی باقی رہے گا  
فرمایا جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا اور آپ کے عزت و جلال  
والے رب ہی کی ذات باقی رہیگی (۵) یا بمعنی باعث ہے یعنی اللہ تعالیٰ  
اپنی تمام مخلوق کو ثواب و عذاب کے لئے دوبارہ زندہ فرمائے گا فرمایا  
اور اللہ تعالیٰ تمام قبور والوں کو اٹھا دے گا (۶) یا بمعنی بار  
احسان کہ نبی والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مومنوں پر احسان  
کرنے والا ہے یعنی انتہائی مہربان ہے فرمایا اللہ ہی انتہائی احسان  
دالا اور مہربان ہے۔ اسی طرح اس کے پانچ معنی ہیں (۱) اس معنی سمیع  
دخوب سننے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی آوازیں سن  
رہا ہے فرمایا کیا ان کا گمان ہے کہ ہم ان کے راز اور سرگوشیوں کو نہیں  
سننے (۲) یا اس معنی سید (سرदार) ہے یعنی ایسا سردار جس کی سرداری  
عرش سے تخت الثری تک ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہے فرمایا اللہ ہی  
ہے (۳) یا سین بمعنی سریع الحساب ہے یعنی وہ مخلوق سے بہت جلد  
حساب لے گا فرمایا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے (۴) یا سین بمعنی  
سلام ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو ظلمت سے محفوظ فرمایا ہے، فرمایا  
وہ بادشاہ ہے اور قدوس ہے اور سلام ہے یعنی سلامتی و امن عطا  
فرماتے والا ہے (۵) یا سین بمعنی ساتر (پرہ) والے والا ہے  
یعنی وہ اپنے تمام بندوں کے گناہوں پر پرہ والے والا ہے فرمایا  
وہ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میم کے  
بارہ معنی ہیں، تم بمعنی ملک یعنی تمام کائنات کا بادشاہ فرمایا وہ



ملك الملك منان على خلقه من العرش الى  
 الثرى بيانه بل الله يمن عليكم مجيد على  
 خلقه من العرش الى الثرى بيانه ذو العرش  
 المجيد مؤمن امن خلقه من العرش  
 الى الثرى بيانه وامنهم من خوف  
 مهين اطلع على خلقه من العرش الى الثرى  
 بيانه المؤمن المهين مقتدر على خلقه  
 من العرش الى الثرى بيانه في مقعد صدق  
 عند مليك مقتدر مقيت على خلقه من  
 العرش الى الثرى بيانه وكان الله على كل  
 شئ مقيتا مكرما ولياءة من العرش الى الثرى  
 بيانه ولقد كرنا بنى ادم منع على خلقه  
 من العرش الى الثرى بيانه واسبع عليكم  
 نعمه ظاهرة وباطنة مفضل على خلقه  
 من العرش الى الثرى بيانه ان الله لذو  
 فضل على الناس مصور خلقه من العرش  
 الى الثرى بيانه الخالق البارئ المصور وقال  
 اهل الحقائق وانما المعنى فى لیسما الله  
 الرحمن الرحيم التيمم والتبرك وحث  
 الناس على الابتداء فى اقوالهم وفعالهم  
 ببسم الله كما افتتح الله سبحانه وتعالى  
 كتابه العزيز

فصل اعلم ان الناس اختلفوا فى هذا  
 الاسم فقال خليل بن احمد وجماعة من  
 اهل العربية انه اسم موصوع لله عز وجل

بادشاہ ہے اور پاک ہے تم بمعنی مالک فرمایا: آپ فرمادیں کہ اللہ  
 ملک کا مالک ہے تم بمعنی منان یعنی وہ کائنات کا محسن ہے فرمایا:  
 بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے تم بمعنی مجید یعنی اللہ بزرگ ہے  
 فرمایا: وہ عرش والا ہے اور بزرگ ہے تم بمعنی مؤمن یعنی اللہ  
 تمام کائنات کو امن دینے والا ہے فرمایا: اور اس نے تم کو خون سے  
 مامون فرمایا تم بمعنی مہین یعنی اللہ پاسبان و نگران ہے اور اپنی  
 تمام کائنات کے احوال سے خبردار ہے فرمایا: وہ امن دینے والا  
 اور نگران ہے تم بمعنی مقتدر یعنی صاحب اقتدار فرمایا: پرہیزگار  
 اپنے صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس عزت و مرتبہ والی کر سہی پر بیٹھے  
 ہوئے ہیں تم بمعنی مقیت یعنی تمام کائنات کو روزی دینے والا  
 فرمایا: اور اللہ ہر چیز کو روزی دینے والا ہے تم بمعنی مکرّم یعنی  
 اپنے دوستوں کو عزت دینے والا فرمایا ہم نے انسان کو عزت عطا  
 فرمائی تم بمعنی منعم یعنی انعامات سے نوازنے والا فرمایا: اور  
 اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر مکمل فرمائیں۔  
 تم بمعنی مفضل یعنی اپنی تمام مخلوق پر فضل کرنے والا فرمایا:  
 دیکھو اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے تم بمعنی مصور یعنی  
 صورتیں بنانے والا فرمایا: وہ خالق، باری اور  
 مصور ہے۔

ادباً حقائق فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم سعد و برکت  
 کے لئے ہر کام کے شروع میں پڑھی جاتی ہے جیسے حق تعالیٰ  
 شانہ نے اپنی عزت والی کتاب بسم اللہ سے شروع  
 کی ہے۔

**لفظ اللہ کے اشتقاق و معنی میں اختلاف**

لغویوں کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ اللہ اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے  
 اور اللہ ہی کے لئے وضع کیا گیا ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں

لا يشاركه فيه احد قال الله تعالى هل تعلم  
 له شيئا يعني ان كل اسم الله تعالى مشترك  
 بينه وبين غيره له على الحقيقة ولغيره على  
 المجاز الا هذا الاسم فانه مختص به لان  
 فيه معنى الربوبية والمعاني كلها تحتها الا ترى  
 انك اذا سقطت منه الالف بقي لله واذا  
 سقطت من الله اللام الاولى بقي له واذا  
 سقطت من له اللام بقي هو واختلفوا في  
 اشتقاقه فقال النضر بن شميل هو من  
 التاله وهو التمسك والتعبد ويقال اله  
 الهة اي عبد عبادا وقال اخرون  
 هو من الاله وهو الاعتماد ويقال الهت  
 الى فلان اله الهة اي فرغت اليه واعتقدت  
 عليه معناه ان الخلق يفرعون ويتضرعون  
 اليه في الحوادث والحوادث فهو بالهه ما  
 يجيرهم فسمى الها كما يقال امام للذي يؤتم  
 به فالعباد مولعون اليه اي مضطرون  
 اليه في المنافع والمضار كالواله المضطر  
 المغلوب وقال ابو عمرو وابن العلاء هو من الهت  
 في الشئ اذا تحيرت فيه فلم تهتدي اليه  
 ومعناه ان العقول تتحير في كنه صفته و  
 عظمتة والاحاطة بكيفيته فهو اله كما يقال  
 للمكتوب كتابا والمحسوب حسابا وقال المبرد  
 هو من قول العرب الهت الى فلان اي سكنت  
 اليه فكان الخلق يسكنون ويطمئنون بذكره

فرمایا کیا آپ کو اللہ کا کوئی مہنام معلوم ہے؟ یعنی اللہ کے اسم کے معنی  
 میں سے ہر اسم اللہ میں اور دوسروں میں مشترک ہے یعنی ازراہ حقیقت  
 اللہ کے لئے ہے اور ازراہ مجاز دوسروں کے لئے لیکن لفظ اللہ اللہ ہی  
 کے لئے مخصوص ہے کیونکہ اس میں الوہیت و ربوبیت کے معنی پائے  
 جاتے ہیں اور تمام معانی اس لفظ کے ماتحت ہیں دیکھیے جب آپ اس  
 سے الف ہٹادیں گے اللہ رہ جائے گا اور پہلا لام ہٹانے سے لاہ رہ  
 جائے گا اور جب لام ہٹا دیا جائے گا تو لا رہ جائے گا۔

لفظ اللہ کے اشتقاق میں اختلاف ہے نضر بن شميل کی رائے ہے کہ  
 تالہ یعنی تمسک (عبادت کرنا) سے بنا ہے اور آلہ مصدر ہے اور  
 بعضی نالوہ یعنی معبود کے ہے کسی کے نزدیک یہ آلہ سے بنا ہے جو  
 بمعنی اعتماد ہے یعنی بھروسہ کرنے کے معنی میں ہے اللہ کو اللہ اس لئے  
 کہتے ہیں کہ لوگ حوادث و مصائب میں گھبرا کر اللہ کی طرف رخ کرتے  
 ہیں اور گڑگڑا کر اسی سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور اللہ ان کی  
 مرادیں بر لاتا ہے جیسے اسے امام کہا جاتا ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے  
 لہذا لوگ نفع و نقصان میں اللہ کی طرف ایک والہ اور مضطرب و  
 مغلوب کی طرح مضطرب ہیں۔

ابو عمرو بن علاء کے نزدیک آلہت فی الشئ سے بنا ہے یہ جملہ اس  
 وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز میں تم حیران رہ جاؤ اور اس کی حقیقت  
 تک نہ پہنچ سکو اس کا معنی یہ ہے کہ انسانی عقولیں اللہ کی صفات کو نہ  
 تک نہیں پہنچ سکتیں اور حیران ہو کر ہتھیار ڈال دیتی ہیں اور انسان  
 اس کی عظمت و کیفیت کا احاطہ نہیں کر سکتا اس لئے اللہ الہ ہے  
 یعنی نالوہ ہے جیسے مکتوب کو کتاب اور محسوب کو حساب کہا جاتا ہے  
 مبرد کے نزدیک یہ لفظ آلہت الی فلان سے نکلا ہے یعنی مجھے  
 فلاں کے پاس جا کر سکون مل گیا اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے  
 سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے فرمایا: دیکھو اللہ کے ذکر سے



قال الله عز وجل لا بذكر الله تطمئن القلوب  
 وقيل اصله من الوله وهو ذهاب العقل  
 لفقدان من يعز عليه فكانه ليعز بك  
 لان القلوب توله بحبته وتضطرب وتشتاق  
 عند ذكره وقيل معناه المحتجب لان العز  
 اذا عرفت شيئا ثم حجب عن البصارها استند  
 لاهل يقال لاهت العروس تلوه لوها اذا  
 احتجبت فالتة تعالي هو الظاهر بالرؤية  
 بالدلائل والاعلام والمحتجب من  
 جهة الكيفية عن الالهام وقيل معناه  
 المتعالي يقال لا اى ارفع ومنه قيل للشمس  
 الهمته وقيل معناه القادر على الاحتراع  
 وقيل معناه السيد الرحمن الرحيم قد قال  
 قومها بمعنى واحد وهو ذو الرحمة  
 وهما من صفات الذات وقيل هما بمعنى ترك  
 عقوبة من يستحق العقوبة واسداء الخير  
 الى من لا يستحقه وهما من صفات الفعل  
 وفرق الآخرون بينهما فقالوا الرحمن  
 لسبب لجة فمعنا الذي وسعت رحمته  
 كل شئ والرحيم دون ذلك في الرتبة  
 وقال بعضهم الرحمن العاطف على جميع  
 خلقه مو منهم وكافرهم وبرهم و  
 فاجرهم بان خلقهم ورزقهم قال الله  
 ورحمتي وسعت كل شئ والرحيم بالمؤمنين  
 خاصة بالهداية والتوفيق في الدنيا والجنة

دلوں کو چین ملتا ہے بعض کے نزدیک اللہ و لطف (عقل کا جانا) سے بنا ہے  
 یعنی اللہ کی محبت میں لوگ عقلیں کھو بیٹھتے ہیں جیسے عاشق اپنے  
 معشوق کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور جب اس کا ذکر آتا ہے  
 تو دل اس کے مشتاق بن جاتے ہیں اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔  
 بعض کے نزدیک لفظ اللہ بمعنی محبوب ہے کیونکہ عرب جب کسی  
 کو پہچان لیتے ہیں اور وہ ان کی آنکھوں سے محجوب ہو جاتی ہے تو  
 لاء (محبوب) کہتے ہیں جب دلہن پردہ میں ہو جائے تو کہتے ہیں  
 لاهت العروس یعنی دلہن محجوب ہو گئی، حق تعالیٰ شانہ دلائل  
 و آثار سے ربوبیت کے اعتبار سے ظاہر ہے اور کیفیت کی راہ  
 سے عقول و ادہام سے محجوب ہے۔

بعض کے نزدیک اللہ کا معنی متعالی (بلند) ہے لاء یعنی  
 بلند ہوا اس معنی کی رو سے سورج کو الہتہ کہا جاتا ہے بعض کے  
 نزدیک اللہ سے کہا جاتا ہے جو ایجا د پر قادر ہو اور بعض کے نزدیک  
 سید کو کہا جاتا ہے اور الرحمن الرحیم بعض کے نزدیک یہ دونوں  
 لفظ مترادف ہیں اور دونوں بمعنی صاحب رحمت ہیں اور یہ دونوں  
 اللہ کی ذاتی صفتیں ہیں بعض کے نزدیک دونوں کے یہ معنی ہیں کہ  
 جو سزا کا استحقاق رکھتے ہیں انہیں چھوڑ دینا اور جو سزا کے مستحق  
 نہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس معنی کی رو سے یہ دونوں  
 فعلی صفتیں ہیں، بعض علماء نے ان دونوں اسموں میں فرق بتایا ہے اور کہا  
 ہے کہ الرحمن میں مبالغہ ہے یعنی رحمن اسے کہتے ہیں جسکی رحمت کے  
 دائرے میں ہر چیز سما گئی ہو اور رحیم مرتبہ میں اس سے کم ہے بعض  
 کے نزدیک رحمن اپنی تمام مخلوق پر مہربان کو کہتے ہیں خواہ  
 مومن ہو یا کافر اور نیک ہوں یا بد اور اللہ سب پر اس اعتبار  
 سے مہربان ہے کہ اس نے سب کو پیدا اور سب ہی کو روزی پہنچایا ہے  
 ہے فرمایا: اور میری رحمت میں ہر چیز کی گنجائش ہے اور اللہ

والروية في الآخرة قال الله تعالى وكان  
 بالمرمين رحيمًا فالرحمن خاص اللفظ عام  
 المعنى والرحيم عام اللفظ خاص المعنى  
 فالرحمن خاص من حيث أنه لا يجوز أن يسمى  
 به أحد غير الله عام من حيث أنه يشمل  
 جميع الموجودات من طريق الخلق والرزق  
 والنفع والدفع والرحيم عام من حيث اشتراك  
 المخلوقين في المسعى به خاص من طريق المعنى  
 لأنه يرجع إلى اللطف والتوفيق وقال ابن عباس  
 رضي الله عنهما هما اسمان دقيقان أحدهما  
 أدق من الآخر وقال مجاهد الرحمن باهل الدنيا  
 الرحيم باهل الآخرة وفي الدعاء يا رحمن  
 الدنيا يا رحيم الآخرة وقال الضحاك الرحمن  
 باهل السماء حين أسكنهم السموات وطوقهم  
 الطاعات وجنبهم الآفات وقطع عنهم  
 المطاعم والذات والرحيم باهل الأرض  
 حين أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم  
 الكتب وقال عكرمة الرحمن برحمة  
 واحدة والرحيم بمائة رحمة وروى  
 البرهيري رضي الله تعالى عنه عن النبي  
 صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله  
 عز وجل مائة رحمة وإنه أنزل منها  
 رحمة واحدة إلى الأرض فقسها بين  
 خلقه فيها يتعاطفون ويهايتراحمون  
 وآخر تسعة وتسعين لنفسه يرحم بها

خاص طور سے مومنوں کے حق میں رحیم ہے کہ اس نے دنیا میں انہیں  
 نیکیوں کی ہدایت و توفیق عطا فرمائی اور آخرت میں جنت و دیدار  
 سے نوازا، فرمایا: اور اللہ مومنوں پر رحیم ہے الغرض الرحمن کا  
 لفظ خاص اور معنی عام ہے اور رحیم کا لفظ عام اور معنی خاص  
 ہے اور الرحمن اس اعتبار سے بھی خاص ہے کہ غیر اللہ کو رحمن  
 نہیں کہا جاتا اور اس اعتبار سے عام ہے کہ ازراہ خلق و رزق  
 اور نفع و ضرر تمام موجودات کو شامل ہے اور رحیم اللہ کے  
 علاوہ غیر اللہ کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس اعتبار سے  
 عام ہے اور ازراہ معنی خاص ہے کیونکہ اس کا مرجع خاص  
 لوگوں پر نوازش و کرم اور لطف و توفیق ہے۔ حضرت ابن  
 عباسؓ ان دونوں کے معنی باریک و لطیف ہیں اور ایک دوسرے  
 زیادہ باریک و دقیق ہے، مجاہدؒ: حق تعالیٰ شانہ دنیا والوں  
 کے اعتبار سے رحمن ہے اور آخرت والوں کے اعتبار سے رحیم  
 ہے ایک دعائیں ہے اے دنیا کے رحمن اور اے آخرت کے رحیم  
 ضحاکؒ: اللہ تعالیٰ آسمان والوں کا رحمن ہے کہ اس نے انہیں  
 آسمانوں پر لپایا اور ان کے گلوں میں عبادت کا طوق ڈالا  
 انہیں آفتوں سے بچایا اور انہیں کھانے پینے اور لذتوں سے  
 محفوظ فرمایا اور رحیم زمین والوں کا ہے کہ ان کے پاس رسول  
 بھیجے اور ان پر کتابیں اتریں۔ حکمرمہؒ: اللہ ایک رحمت سے  
 رحمن ہے اور رحمتوں سے رحیم ہے حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے  
 کہ نبی صلعم نے فرمایا: حق تعالیٰ شانہ کی سورحمتیں ہیں اس نے ان  
 میں سے دنیا میں ایک رحمت اتاری ہے اور اسے اپنی تمام  
 مخلوق میں بانٹ دیا ہے اسی ایک رحمت سے ساری مخلوق  
 آپس میں ایک دوسرے سے محبت و پیار سے پیش آتا ہے اور  
 رحمتیں اپنے لئے روک لی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے



عبادة يوم القيامة وفي لفظ آخر وان الله ما م  
 هذا الى تلك فيكملها مائة ويرحم بها عباده  
 يوم القيامة الرحمن الذي اذا سئل اعطى  
 والرحيم الذي اذا الميسال غضب وقال  
 النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابى هريرة  
 رضى الله عنه من لا يسال الله يغضب عليه وقال الشاعر:  
 الله يغضب ان تركت سوره: وبنى ادم حين يسال يغضب: الر  
 بالنعماء وهى ما اعطى وحى الرحيم بالالاء  
 وهى ما صرف وزوى الرحمن بالالقاء من النيران  
 كما قال جل من قائل وكنتم على شفا  
 حفرة من النار فالتقد كمر منها والرحيم  
 بادخال الجنان كما قال ادخلوها بسلام امنين  
 الرحمن برحمة النفوس والرحيم برحمة القلوب  
 الرحمن بكشف الكرب والرحيم لغفران  
 الذنوب بتبيين الطريق والرحيم بالعصمة  
 والتوفيق الرحمن لغفران السيئات وان من  
 عظيما والرحيم لقبول الطاعات وان من  
 غير صافيات الرحمن بمصالح معاشهم  
 الرحيم بمصالح معادهم الرحمن الذى  
 يرحم وليقدر على كشف الضر ودفع الشر  
 الرحيم يرزق ويطعم ولا يطعم ولا يطعم  
 ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الرحمن  
 بن محمد والرحيم بن وحده الرحمن  
 بن كفرة والرحيم بن شكر الرحمن  
 بن قال له ندا والرحيم بن قال فرد -

بندوں پر رحم فرمائے گا، دوسرے لفظ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس  
 رحمت کو بھی ۹۹ میں بلا کر پوری سو کرے گا اور ان سے قیامت  
 کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ رحمن وہ ہے کہ جب  
 اس سے مانگا جائے اور رحیم وہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا  
 جائے تو ناراض ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلعم نے  
 فرمایا: جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے ایک شاعر  
 کہتا ہے: اگر تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو تو وہ ناراض ہوتا ہے  
 اور جب انسان سے مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ رحمن  
 عطیات دہرایا کے اعتبار سے ہے اور رحیم دفع مصائب و آفات  
 کے اعتبار سے ہے رحمن آگوں سے بچانے کی راہ سے ہے جیسا کہ  
 حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا: اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے  
 تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچالیا اور رحیم جنتوں میں داخل  
 کرنے کی راہ سے ہے فرمایا اس میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ  
 رحمن نفوس پر رحم فرماتا ہے اور رحیم دلوں پر، رحمن بے قراریاں  
 دور فرماتا ہے اور رحیم صحیح راہ بتا کر گناہ معاف فرماتا ہے اور ان  
 سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر ان سے محفوظ رکھتا ہے رحمن برائیوں  
 بخش دیتا ہے اگرچہ بڑی بڑی ہوں اور رحیم طاعتیں قبول فرماتا ہے  
 اگرچہ لوٹ والی ہوں، رحمن کے پیش نظر مصالح معاش ہوتے  
 ہیں اور رحیم کے پیش نظر مصالح معاد ہوتے ہیں، رحمن وہ ہے جو  
 رحم فرماتا ہے اور نقصانات و ضرر و شردفع کرتے پر قادر ہے اور  
 رحیم روزی دیتا ہے اور کھلاتا پلاتا ہے اور خود کھلایا نہیں جانا فرمایا  
 و یجود اللہ ہی رزق دینے والا اور مضبوط قوت والا ہے۔ رحمن  
 منکروں کے اعتبار سے ہے اور رحیم موحدوں کے اعتبار سے۔  
 رحمن ناسکروں کے اعتبار سے اور رحیم شکر گزاروں کے اعتبار سے اور  
 رحمن مشرکوں کے اعتبار سے ہے اور رحیم توحید پرستوں کے اعتبار سے ہے۔

**فصل** قل بسم الله تجد عفو الله هذا  
 سماعك من القاري فكيف سماعك من البار  
 فهذه اسماك والضم باق فكيف سماعك الز  
 ساق فهذه اسماك بواسطة فكيف سماعك  
 بلا واسطة فهذه اسماك في دار الغرور فكيف  
 سماعك في دار السرور فهذه اسماك في دار  
 الشيطان فكيف سماعك في جوار الرحمن فهذه  
 سماعك من عبد ذليل فكيف سماعك من  
 الملك الجليل هذه لذة الخبير فكيف لذة  
 النظر هذه لذة المجاهد لا فكيف لذة  
 المشاهد لا هذه لذة البيان فكيف  
 لذة العيان هذه لذة المعاينة فكيف  
 لذة المعاينة

**فصل** قل بسم الله الذي تعالى عن  
 الاضداد بسم الله الذي تنزه عن الازداد  
 بسم الله الذي تقديس عن اتخاذ الاولاد  
 بسم الله الذي نور الانوار بسم الله الذي  
 اكرم الابرار بسم الله الذي قدر الاقدار  
 ونور القلوب والابصار بسم الله الذي  
 تجلي لقلوب الابرار في اوقات الاسرار بسم الله  
 الذي علم الاحياء الاسرار فغمرها بالانوار  
 واستودعها الاسرار واذا ح عنها الاخطار  
 حفظها من رق الاغيار وحط عنها الاثقال  
 والاعلال والاصار والاوزار اذ كان موصفا  
 في الازل بالاحسان والافعال وغفران

**فوائد بسم الله** | بسم الله يطهر لحيجته اللدكي معاني بل جائے گی یہ  
 فائدہ تو پڑھنے والے کی زبان سے سن کر حاصل ہوتا ہے پھر باری تعالیٰ  
 سے سن کر کیا کچھ حاصل نہ ہوگا یہ سماع تو دنیا کے تفکرات کی موجودگی  
 میں ہے لیکن اس سماع کا کیا حال ہوگا جب رب ساقی ہوگا یہ سماع  
 بواسطہ ہے پھر اس سماع کا کیا حال ہوگا جو براہ راست ہوگا یہ  
 سماع تو دار الغرور میں ہے تو دار السرور کے سماع کے کیا کئے ہوں  
 گے، یہ سماع تو شیطان کے گھر میں ہے لیکن رحمن کے پڑوس میں  
 سماع کا کیا حال ہوگا، یہ سماع تو ذلیل بندے سے ہے پھر شہنشاہ  
 صاحب جلال سے سماع کا کیا حال ہوگا یہ تو خبر سے پیدا ہونے والی  
 لذت ہے لیکن دیدار سے پیدا ہونے والی لذت کے تو کئے ہی کیا  
 ہیں، یہ لذت تو مجاہد سے کی ہے مشاہدہ کی لذت کا تو حال ہی نہ پوچھو  
 یہ لذت بیان کی ہے آمنے سامنے والی لذت کا کیا حال ہوگا اور  
 یہ لذت تو غائبانہ ہے اور جب محبوب سامنے ہوگا تو کیا کچھ لذت نہ ہوگی  
**بسم اللہ کے معانی** | فرماتے کہ میں اس اللہ کے نام کی برکت سے  
 اپنا کام شروع کرتا ہوں جو شریکوں سے پاک ہے اس اللہ کے  
 نام سے جو اولاد سے بے نیاز ہے اس اللہ کے نام سے جس نے  
 مختلف قسم کی روشنیوں سے عالم کو جگمگا رکھا ہے اس اللہ کے  
 نام سے جو پارساؤں کو عزت عطا فرماتا ہے اس اللہ کے نام سے  
 جس نے کائنات کی تقدیریں لکھ رکھی ہیں اور جس نے دلوں اور  
 آنکھوں کو نور بخشا، اس اللہ کے نام سے جو اوقات سحر میں اپنے  
 دوستوں کے دلوں میں تجلی فرماتا ہے اس اللہ کے نام سے جس  
 نے اپنے دوستوں کو اسرار کی تعلیم دی اور انہیں الزار سے گھیر  
 لیا اور ان کے دلوں میں اسرار و رموز ودیعت فرمائے اور  
 ان سے خطرات ہٹائے اور اغیار کی غلامی سے انہیں محفوظ  
 فرمایا اور ان سے بوجھ بچھانسیاں اور ناقابل برداشت بار



الذئوب لاهل الاستغفار قل بسم الله اسم  
الذئ اجرى الانهار وانبت الاشجار اسم  
من عبر البلاد باهل الطاعة من العباد فجعلهم  
لها اوتادا كالجبال فصارت الارض بهم لمن  
عليها كالمهاد فمما الاربعون الاخيار من  
الابدال المنزهون الرب عن الشركاء  
والانداد وملوك في الدنيا وشعفاء الاقام  
يوم التناد اذ خلقتم ربى مصلحة للعالم  
ورحمة للعباد۔

**فصل** بسم الله للذاكرين ذخرا ولاقويہ  
عزوا للضعفاء حرز وللحبين نور وللشاقين  
سرور بسم الله راحة الارواح  
بسم الله نجات الاشباح بسم الله نور  
الصندور بسم الله نظام الامور بسم الله  
تاج الواثقين بسم الله سراج الواصلين  
بسم الله مفتی العاشقين بسم الله اسم  
من اعز عبادا واذل عبادا بسم الله اسم  
من جعل النار لاعدائهم مرصادا وجعل  
الرفیة لاحبابهم ميعادا بسم الله اسم الوا  
بلاعد بسم الله اسم الباقي بلاعد بسم الله  
اسم القائم بلاعد بسم الله افتتاح كل  
سورة اسم من طابت به الخلوات اسم  
من به تمت الصلوة اسم من به حسنت  
الطنون اسم من سهرت له العيون اسم  
من قال للشيء كن فيكون اسم من تنزه

اٹھا پھینکا کیونکہ وہ ازل میں غنایت، اکرم، امر بانی اور نوازش سے  
متصف ہے اور دعائے مغفرت مانگنے والوں کے گناہوں کو معاف  
کرنے سے بھی، فرمائیے بسم اللہ اس کا نام نامی اور اسم گرامی ہے  
جس نے نہریں جاری کیں اور وزحت آگائے، جس نے اپنے عبادت  
بندوں سے شہر آباد کئے اور انہیں پہاڑوں کی طرح شہروں کی بنیادیں  
بنایا اور ان کی وجہ سے زمین والوں کے لئے زمین مثل فرش کے ہو گئی  
یہ چالیس پسندیدہ اشخاص (ابدال) ہیں جو پروردگار کی پاکیزگی بیان  
کرتے ہیں اور اسے شریکوں اور بتوں سے پاک صاف سمجھتے ہیں یہی دنیا میں حاکم ہے اور  
قیامت کے دن دنیا کی مفاہیش فرمائیں گے کیونکہ انہیں میرے رب نے عالم  
کی مصلحت کے لئے لوگوں کے لئے رحمت بنا کر پیدا فرمایا ہے۔  
**برکات بسم اللہ** | بسم اللہ ذکر میں مستغرق رہنے والوں کے لئے ایلی  
بیش بہا ذخیرہ، طاقت وروں کے لئے عزت اور کمزوروں کے لئے  
داردئے طاقت و تعویذ ہے، دوستوں کے لئے نور اور مشاققوں کے  
لئے سرور ہے بسم اللہ روحوں کی راحت اور اجسام کی نجات ہے  
بسم اللہ دلوں کا نور اور نظام امور ہے بسم اللہ بھروسہ کرنے والوں کا  
تاج اور عرفاء کا سراج ہے بسم اللہ عشاق کو دوسروں سے بے نیاز  
کرنے والی ہے بسم اللہ اس کا مبارک نام ہے جو بندوں کو عزت  
و ذلت دیتا ہے، بسم اللہ اس کا مقدس نام ہے جس نے آگ پیدا  
کی جو اس کے دشمنوں کی تاکید میں ہے اور جس نے اپنے دوستوں کے لئے  
اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا بسم اللہ اس کا نام ہے جو واحد ہے اور  
جس میں عدد کو دخل نہیں بسم اللہ اس کا نام ہے جو بلا قید مدت باقی  
ہے بسم اللہ اس کا نام ہے جو بلا ستون کے قائم ہے بسم اللہ سرور  
کا آغاز ہے بسم اللہ سے خلوتیں مہک آٹھتی ہیں بسم اللہ سے عبادتوں  
کو شروع کیا جاتا ہے اور وہ تکمیل مراحل طے کرتی ہیں یہ اس کا نام  
ہے جس سے دنیا کو حسن ظن ہے اس کا نام ہے جس کے لئے شب بیدار

عن المساس اسم من استغنى عن الناس  
اسم من جيل عن القياس قل بسم الله حرفا  
حرفا فاخذ الاجر الفا الفا و تحط عنك الاوزار  
جر فا جرفا من قالها بلسانه شهد الدنيا و  
من قالها بقلبه شهد العقبي و من قالها بسره  
شهد المولى بسم الله كلمة طاب بها القم  
بسم الله كلمة لا يبقى معها الغم كلمة  
تنت بها النعمة كلمة كشفت بها النعمة كلمة  
خصت بها هذه الامة كلمة جمعت بين  
جلال و جمال ف قوله بسم الله جلال في جلال  
وقوله الرحمن الرحيم جمال في جمال فمن  
شهد جلاله طاش و من شهد جماله عاش  
كلمة جمعت بين قدرة و رحمة فالقدرة  
جمعت طاعة المطيعين و الرحمة محقت  
ذنوب المذنبين۔

فصل في قل بسم الله فانه يقول بي وصل  
من وصل الى الطاعات ثم ينور الطاعات  
وصل الى العيان ثم استغنى بالعيان عن  
البيان فصار قلبه وعاء للاسرار و  
علوم الاديان و من وصل الى الحبيب  
نجا من النجيب و من وصل الى النظر استغنى  
عن الخيرو من وصل الى الصمد نجا من  
الكمد و من وصل الى المراق نجا من  
الفراق و من وصل الى ذي العجد سلم من  
الوجد و من وصل الى اللقاء امن من الشقاء

رہا جاتا ہے اس کا نام ہے جس کے حکم کن سے چیزیں عالم وجود میں آ  
جاتی ہیں اس کا نام ہے جو چھوٹے جانے سے پاک ہے اور لوگوں سے بے نیاز  
ہے اس کا نام ہے جو وہم و قیاس سے بالا ہے اور سب کا خالق اور سب سے  
اعلیٰ ہے حرف بہ حرف بسم اللہ پڑھے اور ہزار ہزار نیکیاں لوٹے اسکے ایک  
ایک حرف سے تمہارے سب بوجھ کا فور ہو جاتے ہیں جو زبان  
بسم اللہ پڑھے دنیا اس کی گواہ بن جائے اور جو دل سے پڑھے  
آخرت اس کی گواہ بن جائے اور جو اسے پوشیدہ پڑھے اللہ اس کا  
گواہ بن جائے بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے منہ میں خوشبو پیدا ہو  
جائے بسم اللہ ایک ایسا پیارا بول ہے جس کی موجودگی میں کوئی غم باقی  
نہیں رہتا یہی کلمہ تمام نعمتوں کا تتمہ ہے اس سے آفات و مصائب دور  
ہوتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے یہ کلمہ خاص  
اسی امت کو دیا گیا یہ کلمہ جامع جلال و جمال ہے چنانچہ بسم اللہ جلال  
اندر جلال ہے اور الرحمن الرحیم جمال اندر جمال ہے جلال کا مشاہدہ کہے  
و الابلک ہو جاتا ہے اور جمال کا معائنہ کرنا لازمی پاتا ہے اس  
کلمہ میں قدرت و رحمت دونوں جمع ہیں قدرت نے فرماں برداری کی  
اطاعت کو جمع کیا اور رحمت نے گنہگاروں کے گناہ مٹا ڈالے۔  
دوسرے اعتبار سے برکات بسم اللہ بسم اللہ پڑھے گویا  
حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے جو اطاعتوں تک پہنچ گیا اس کو رسائی مجتہد تک  
ہو گئی پھر وہ انوار اطاعت کی بدولت مقام معائنہ تک پہنچ گیا اسے  
بیان کی حاجت نہیں رہی اور اس کا دل اسرار و علوم ادیان کا مخزن  
بن گیا اور جو حبیب تک پہنچ گیا اس نے آہ جگر سوز و نالہ جاگداز  
سے نجات پالی اور جس نے اپنی آنکھوں سے جمال حبیب دیکھ لیا  
اسے خبر کی ضرورت نہیں رہی اور جو صمد ربیہ نیاز معبود تک پہنچ  
گیا اس نے دل و جگر کو مسنے والے غم سے نجات پالی اور جو بارگاہ  
معنی تک پہنچ گیا اسے فراق سے بھٹی مل گئی اور جو صاحب عز و مجد



**فصل** قل بسم الله فالبراء باری البرایا  
والسنین ستار الخطایا والمیم المنان بالعطایا  
وقیل ان الباء برئی من الاولاد والسیین  
سبع الاصوات والمیم مجیب الدعوات  
وقیل اطعموا فانی مطعمکم واسقوا فانی  
ساقیکم وانظروا الی فانی باقیکم وقیل  
الباء بکاء التائبین والسیین سجود العابدین  
والمیم معذرتة المستنبین وقیل الله کاشف  
البایا الرحمن معطى العظایا الرحیم  
فاقر الخطایا الله للعارفین الرحمن للعابدین  
الرحیم للمذنبین الله الذی خلقکم  
وهو احسن الخالقین الرحمن الذی  
رزقکم وهو خیر الرازقین الرحیم  
الذی یغفرکم وهو خیر الغافرین  
وقیل الله باسباغ النعم الرحمن الرحیم  
بالجود والمکرمة الله باخراجنا من البطون  
الرحمن باخراجنا من القبور  
الرحیم باخراجنا من الظلمت  
الی النور۔

**فصل** رحم الله من خالف الشیطان  
وجانب العصیان و اتقى النیران و اکثر  
الحسان و ادا م ذکر الرحمن فقال بسم الله  
رحم الله من اعتصم بالله و اتاب الی الله  
و ترک علی الله و اشتغل بذكر الله فقال  
بسم الله رحم الله من زهد فی الدنیا

تک پہنچ گیا وہ غم و اندوہ سے چھوٹ گیا اور جسے دیدار نصیب ہو گیا  
اس کا نصیب جاگ اٹھا یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔  
**صفات بسم اللہ** | بسم اللہ کا در کیجئے یا سے (باری) موجود کائنات  
دو عالم کی طرف اشارہ ہے اور اس سے (شار) گناہوں پر پردہ ڈالنے  
والے کی طرف اشارہ ہے اور م سے (منان) عطیات دینے والے کی طرف  
اشارہ ہے یا با سے بری کی طرف اشارہ ہے یعنی اس ذات اقدس کی طرف  
جو اولاد سے بری ہے۔ اور س سے سبع الاصوات (آوازیں سننے والے) کی  
طرف اشارہ ہے اور م سے مجیب الدعوات (دعائیں قبول کرنے والے) کی  
طرف اشارہ ہے یا با سے باقی اس سے ساقی اور م سے مطعم در کھانا  
کھلانے والے کی طرف اشارہ ہے یعنی میری طرف دیکھو کیونکہ میں تم کو  
باقی رکھتا ہوں اور پیاسوں کو پانی پلاؤ کیونکہ میں تمہیں باران رحمت  
سے سیراب کرتا ہوں اور تمہارا ساتھی ہوں اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ کیونکہ  
میں تمہارا مطیع ہوں اور تمہیں کھلانا پلاتا ہوں یا با سے توبہ کرنے والوں  
کی بکاء (رگڑ و زاری) اور س سے عبادت گزاروں کا سجدہ اور م سے  
گنہگاروں کی معذرت مراد ہے کہتے ہیں اللہ بلاؤں کو دور کرے نوالا، رحمن  
عطیات بخشے والا اور رحیم گناہ معاف کرنے والا ہے اللہ عارفوں کے لئے ہے  
رحمن عابدوں کے لئے ہے اور رحیم گنہگاروں کے لئے ہے، اللہ تمہارا خالق  
ہے جو بہترین خالق ہے رحمن تمہارا رازق ہے جو بہترین روزی رساں ہے اور رحیم  
تم کو بخشے والا ہے یا اللہ کی نعمتوں کی کمیں فرماتا ہے اور رحمن درجیم فضل و  
کریم سے نوازتا ہے اللہ نے ہمیں پیٹوں سے نکالا اور رحمن قبروں سے نکالے

گا اور رحیم اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتا ہے۔

**شیطان کی مخالفت** | اس پر حق تعالیٰ کی مہربانی ہے جو شیطان  
کا سرگرم مخالف، گناہوں سے کنارہ کش اور آتش جہنم سے خوفزدہ  
رہتا ہے اور کثرت سے نیک عمل کرتا ہے اور ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول  
رہتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھتا ہے یس پر اللہ کی



ورغب في الآخرة وصبر على الآذي وشكر  
على النعماء واشتغل بذكر المولى فقال لسم الله  
طوبى لعبد اجتنب الطاقات وقنع من الدنيا  
بالقوت واشتغل بذكر المولى الذي لا يموت  
فيقول بسم الله-

★

مجلس في قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا  
ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وهذا  
خطاب للعموم بالتوبة وحقيقة التوبة في  
اللغة الرجوع يقال تاب فلان من كذا اي  
رجع عنه فالتوبة هي الرجوع عما كان مذموما  
في الشرع الى ما هو محمود في الشرع والعلم  
بان الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات  
من الله عز وجل ومن جنته وتركها  
مقرب الى الله عز وجل وجنته فكانه  
عز وجل يقول ارجعوا الى من هوى نفوسكم  
وقوفكم مع شهواتكم عسى ان تظفروا  
ببغيتكم عندى فى المعاد وتبقوا فى نعيمى  
فى دار البقاء والقرار وتفلحوا وتفوزوا و  
تنجوا وتدخلوا برحمتى الجنة العليا المعدة  
للابرار وخطابهم ايضا بكتاب مخصوص  
والاقتضاء فقال تعالى يا ايها الذين امنوا  
توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان  
يكفر عنكم سيئاتكم ويبدل خلكم جنت تجري  
من تحتها الانهار ومعنى النصوح الخالص لله

نوازش ہے جو دنیا سے بیزار، آخرت کا طلب گار ایذاؤں پر صابر نعمتوں  
پر شاکر اور اپنے آقا کے ذکر میں بسم اللہ کے ورد سے مصروف رہتا ہے وہ بڑا  
خوش نصیب ہے جو توبوں سے بیزار اور قوت لایموت کا خواستگار رہتا ہے۔  
اور حیح و تیمم کی یاد میں ڈوب رہتا ہے اور سدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر  
اپنے محبوب کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے دل میں ان کی یادوں پر ہے ان کا نام  
مجنوں کو ان کے اس کے سوا کیا ہے اور کام؟

توبہ | حق تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو! تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ  
تم کو کامرانی نصیب ہو اس آیت میں تمام مسلمانوں کو توبہ کا حکم ہے اور عموماً  
خطاب ہے کہ میرے قتل کے بعد اس شخص سے توبہ نہ لے اس زودیشیاں کا پیشاں ہونا  
توبہ لوٹ آنے کے معنی میں ہے یعنی شرع میں جو کام برے ہیں ان سے باز  
آجانا اور اچھے عملوں میں مشغول ہو جانا شرعی توبہ ہے اور یہ یقین بھی توبہ میں  
داخل ہے کہ گناہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے قرب سے  
بہت دور ہٹا دیتے ہیں اور جنت سے لاکھوں میل دور کر دیتے ہیں اور  
ترک گناہ اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے اور جنت سے بھی آگیا حق  
تعالیٰ فرمانا ہے لوگو! اپنی نفسانی خواہشیں چھوڑ دو، شہوتوں سے باز  
آ جاؤ اور سچے دل سے میری طرف لوٹ آؤ اس طرح تم قیامت کے دن  
آخرت میں اپنی مرادیں پالو گے اور دار البقاء اور دارالقرار میں میری  
نعمتوں میں ہمیشہ ہمیش باقی رہو گے اور فلاح و کامرانی تمہارے قدم  
چومے گی اور تم کو جہنم سے نجات مل جائے گی اور میری رحمت سے تم  
بلند جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ نے تیار کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ  
نے مومنوں سے خصوصی اور ان کی شان کے شبہاں خطاب کے ساتھ  
ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو! اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے  
آگے پر خلوص توبہ کرو اور امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری بائیں  
مٹا دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن میں نہریں جاری  
ہیں۔ لغتوں میں یعنی پر خدا سے توبہ جس میں صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے



تعالی الخالی عن الشوائب ما خوذ من النصاح  
 وهو الخیط وهو توبة مجردة لا تتعلق بشئی ولا  
 تتعلق بهاشئی یكون العبد معها مستقیما  
 علی الطاعة غیر مائل الی المعصیة لا یروغ  
 كما تروغ الثعلب ولا یحدث نفسه لعود  
 الی معصیة ولا ذنب من الذنوب وان  
 یترك الذنب لله خالصا كما ارتکبه لهوی  
 خالصا حتی یختم له بحسن الخاتمة فان  
 التوبة من سائر الذنوب واجبة باجماع  
 الامة وقد ذکر الله سبحانه وتعالی  
 التائبین فی غیر موضع قال عز من قائل ان  
 الله یحب التوابین ویحب المتطهرین فذکر  
 انه یحبهم لتوبتهم وتطهرهم من الذنوب  
 المبعثرة عنه عز وجل وقال فی موضع اخر  
 التائبون العابدون الحامدون الساکنون  
 الراضون الساجدون الامرون بالمعروف  
 والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله  
 ویشر المؤمنین فذکر اسما معروفا یعنی التائبون  
 ثم وصفه بھذه الاوصاف الحمیدة فعلم  
 ان التائب من هذه صفته فاذا ائصف  
 نبھا استحق البشارة والایمان بقوله و  
 یشر المؤمنین۔

فصل فی الذنوب  
 کبائر وصغائر اما الکبائر فقد  
 اختلف فیها العلماء فبعضهم من قال ہی

ہوا اور شرت دریا کے دھبوں سے اور بلاوٹ سے پاک و صاف ہوا۔  
 اس کے سفید و شفاف دامن پر نام و نمود کی کہیں بھی چھینٹ نہ ہو۔  
 تصورِ نفاح (ڈورے) سے مشتق ہے۔ خالص توبہ مجرد توبہ کو  
 کہتے ہیں جو کسی شے کے ساتھ نہ ہو اور نہ اس کے ساتھ کوئی شے ہو۔  
 اس توبہ کے بعد انسان اطاعت کی راہ پر سیدھا گامزن ہو جائے۔  
 اور گناہوں کی طرف نہ جھکے اور لومطری کی طرح مکر و فریب سے کام  
 نہ لے اور دل میں گناہوں کی طرف لوٹنے کا تصور بھی نہ آنے دے اور  
 اور کسی گناہ کا خیال بھی پیدا نہ ہونے دے اور خالص اللہ کی رضا کے  
 لئے گناہ چھوڑ دے جیسے خالص ذاتی خواہش سے گناہ کیا تھا تاکہ  
 اس کا نیک عملوں پر خاتمہ بخیر ہو۔

بالاتفاق تمام گناہوں سے توبہ واجب ہے حق تعالیٰ شانہ نے کسی جگہ  
 توبہ کرنیوالوں کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنیوالوں کو اور پاک  
 رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یعنی حق تعالیٰ جل مجدہ انہیں انکی توبہ کی  
 وجہ سے اور گناہوں سے پاک رہنے کی وجہ سے جو حق تعالیٰ شانہ سے دور کر  
 دینے والے ہیں ان سے محبت فرماتا ہے دوسری جگہ ارشاد فرمایا: توبہ کرنے  
 والے عبادت کرنیوالے، حمد بیان کرنیوالے روزہ رکھنے والے یا جہاد کے  
 سفر کرنیوالے رکوع کرنیوالے سجدہ کرنیوالے اچھی باتیں پھیلانے والے  
 بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو حفاظت کرنیوالے  
 مومن ہیں اور آپ مومنوں کو جنت کی بشارت سنا دیں اس آیت میں  
 لفظ تائب استعمال کر کے اسکے لئے چند اوصاف حمیدہ استعمال کئے گئے  
 معلوم ہوا کہ تائب وہ ہے جو ان اوصاف مذکورہ بالا سے متصف ہوں اسی  
 صورت میں وہ بشارت جنت و ایمان کا مستحق ہے۔

گناہوں کی تفصیل | گناہ دو قسم کے ہیں بڑے اور چھوٹے،  
 بڑے گناہوں کو کبائر اور چھوٹوں کو صغائر کہا جاتا ہے یہ کبیرہ  
 اور صغیرہ کی جمع ہے۔ کبائر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے

ثلاث وقيل اربع وقيل سبع وقيل تسع و  
 قيل احدى عشرة وكان ابن عباس رضي  
 اذا بلغه قول ابن عمر الكباكر سبع ليقول هي  
 الى سبعين اقرب منها الى سبعة وكان يقول  
 كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة وقيل انها  
 مبهمة لا يعرف عددها كقوله القدر  
 ساعة يوم الجمعة ليعظم حبه الناس في طلبها  
 فكن لك كباكر ليشتره حذر الناس في ترك  
 الذنوب كلها وقيل كل ما وعد الله  
 عليه بالناس فهو كبيرة وقيل كل ما اوجب  
 الحد في الدنيا فهو كبيرة وقد جمعها بعض  
 العلماء بالله عز وجل فقال هي سبع عشرة  
 اربعة في القلب وهي الشرك بالله والامور  
 على معصية الله والقنوط من رحمة الله والامور  
 من مكر الله واربع في اللسان وهي شهادة  
 الزور وقذف المحصن واليمين الفجور وهي  
 يحنق بها باطل او يبطل بها حق او يقطع بها  
 مال امرء مسلم باطلا ولو سواك من اراك  
 والسحر وثلاث في البطن وهي شرب الخمر  
 المسكر من كل شراب واكل مال اليتيم ظلما  
 واكل الربوا وهو يعلم به واثنان في الفرج  
 وهما الزنا واللواط واثنان في اليدين وهما  
 القتل والسرقة وواحدة في الرجلين  
 وهي الفرار من الزحف الواحد من اثنين  
 والعشرة من عشرين والمائة من المائتين وواحد

کسی نے تین، کسی نے چار، کسی نے سات کسی نے نو اور کسی نے گیارہ  
 گناہ کہا کرتے ہیں جب ابن عباس نے سنا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کباکر  
 سات ہیں تو فرمایا سات نہیں بلکہ ستر ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر  
 وہ گناہ کبیرہ ہے جس سے اللہ نے منع فرمادیا ہے بعض کے نزدیک کباکر  
 شب قدر کی طرح اور جمعہ کی قبولیت والی ساعت کی طرح مہم دیکھے  
 گئے ہیں انکی تعداد معلوم نہیں تاکہ لوگ انہیں معلوم کرنے کے لئے سر توڑ کوشش  
 کریں اور تمام گناہوں کے چھوڑنے میں پوری پوری سرگرمی دکھائیں  
 بعض کے نزدیک جس گناہ پر وعید آئی ہے وہ کبیرہ ہے یہ بھی کہا جاتا ہے  
 کہ دنیا میں جس گناہ پر حد ہے وہ کبیرہ ہے۔ اللہ والے علماء نے کباکر،  
 بتائے ہیں ان میں سے چار (شکر، گناہ پر اصرار، رحمت باری سے  
 نا امیدی اور اللہ کے عذاب سے بے خوفی) کا تعلق دل سے ہے  
 اور چار (جھوٹی گواہی، بے گناہوں پر الزام، جادو اور جھوٹی  
 قسم) کا زبان سے، جھوٹی قسم وہ ہے جس سے باطل کو حق  
 یا حق کو باطل ثابت کیا جائے یا اس سے ناحق لوگوں کا  
 مال مار لیا جائے اگر چہ پیلو کی ایک مسواک ہی کیوں نہ  
 ہو اور تین (شراب اور ہر نشہ آور شے کا کھانا پینا، یتیم کا  
 مال ناحق ہڑپ کر جانا اور جان بوجھ کر سود کھانا) کا تعلق پیٹ  
 سے ہے اور دو (زنا، لواط) کا تعلق شرم گاہ سے ہے  
 اور دو (قتل، چوری) کا تعلق ہاتھوں سے ہے اور  
 ایک (میدان جنگ سے بھاگنا) کا تعلق پیروں سے ہے  
 یعنی اپنے سے وگنوں کے مقابلہ سے بھاگنا حرام ہے  
 اور ایک (ماں باپ کی نافرمانی) کا تعلق سارے جسم سے ہے  
 نافرمانی کی یہ صورت ہے کہ اگر ماں باپ قسم دلائیں تو  
 ان کی قسم پوری نہ کی جائے اگر وہ برا بھلا کہیں تو انہیں  
 مارا جائے، اگر وہ کچھ مانگیں تو ان کی ضرورت پوری نہ



فی جمیع الجسد وہی عقوق الوالدین وهو ان لا تبر  
نفسها اذا اقتسما عليك وان تفریہما اذا استباک  
وان لا تعطیہما اذا سألک وان لا تظعمہما اذا اجاعا و  
استطعباک۔

**فصل** واما الصغائر فاکثر من ان  
تختفی ولا سبیل الی تحقیق معرفتہا و بیان حصرہا  
لکننا علمد لک لیشواہد الشرع والوار البصائر  
فان مقصود الشرع سبب القرب وقربہ وجوارہ  
الی اللہ عزوجل بترك الذنوب كما قال اللہ تعالیٰ  
وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ومنها النظر الی  
مستحسن والقبلة له والمصاحفة معه من  
غیر جہاج والسب لایخیه المسلم والشم  
له دون القذف والضرب له والغیبة و  
النمیمۃ والکذب وغیر ذلک مما یطول  
شرحہ فاذا اتاب المرء من الكبائر اندرجت  
الصغائر فی ضمنہا لقولہ تعالیٰ ان تجتنبوا  
کبائر ما تشہرون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم الایۃ  
ولکن لا یطعم نفسه فی ذلک بل یجتہد فی  
التوبۃ عن جمیع الذنوب کبیرہا وصغیرہا کما  
قال الشاہر خذل الذنوب کبیرہا وصغیرہا  
نہو التقی واصنع کما شئت فوق ارض المشوک یجد  
ما یرئی لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصالم  
تخقر و عن النس بن مالک رضی اللہ عنہ قال نزل رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لواءا دہرا و اصحابہ  
لیس فیہ حطب ولا شیء یرونہ فامرہم ان

کی جائے اور اگر وہ بھوکے سوں اور کھانے کو مانگیں تو  
انہیں کھانا نہ دیا جائے۔

★

چھوٹے گناہ (صغائر) | چھوٹے چھوٹے گناہ بے شمار ہیں اور  
ان کے اقسام و تعداد معلوم کرنے

کی کوئی صورت نہیں لیکن وہ شرعی شہادتوں اور انوار بصیرت سے  
ہیں معلوم ہیں کیونکہ شریعت کی غرض لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا  
اللہ سے ان کا تقرب پیدا کرنا اور گناہ چھوڑ کر اس کی مسانجی  
حاصل کرنا ہے جیسا کہ خود حق تعالیٰ نے فرمایا: ظاہر اور باطنی  
ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ چھوٹے گناہوں میں خوبصورت مرد یا مرد  
یا عورت یا بچی کو بہ رنگہ شہوت دیکھنا، اس کا بوسہ لینا، اسے  
بلا صحبت کے اپنے پاس لٹا لینا، مسلمان کو برا بھلا کہنا، اسے گالی  
دینا اس پر بے گناہ الزام لگانا، اسے مارنا، اس کی غیبت کرنا  
ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانا، چغلی کھانا اور جھوٹ بولنا  
وغیرہ پوری تفصیل سے کتاب بہت طویل ہو جائے گی جب مومن  
بڑے گناہوں سے توبہ کرے تو ان کے ضمن میں چھوٹے گناہوں  
سے بھی توبہ آجاتی ہے فرمایا: اگر تم بڑے گناہوں سے جن سے تم کو  
روک دیا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری برائیاں مٹا دیں گے  
اور تم کو ایک عزت والے مقام میں داخل کر دیں گے لیکن چھوٹے  
گناہوں سے توبہ نہ کر کے اپنے نفس کو لاپرواہ نہ کرنا بلکہ تمام گناہوں سے  
خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے پوری سرگرمی سے پر خلوص توبہ کر لو  
ایک شاعر کہتا ہے: گناہ چھوڑ دے خواہ بڑا گناہ ہو یا چھوٹا  
یہی تقویٰ ہے۔ اور کانٹوں والی زمین پر چلنے والے کی طرح بن جائیے  
کہ وہ جو کانٹا دیکھتا ہے اسی سے بچ جاتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو  
معمولی نہ سمجھو، دیکھو سنگریزوں سے پہاڑ بن جاتا ہے حضرت انس

يَجْتَبُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَىٰ خَطْبًا قَالَ لَا  
تَحْقُرُوا شَيْئًا تَأْخُذُ وَنَهَ فَعَمِلَ الرَّجُلُ يَجْمَعُ  
الشَّيْءَ لِعِضِّهِ إِلَىٰ لِبَعْضٍ حَتَّىٰ جَمَعُوا سِوَادَ عَظِيمَا  
فَقَالَ لِاصْحَابِهِمُ الْآنَ تَرَوْنَ هَلْ كُنَّا تَكُونُ الْمُحَقَّرَاتِ  
مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ حَتَّىٰ الذَّنْبُ الصَّغِيرُ إِلَىٰ الصَّغِيرِ  
وَالكَبِيرُ إِلَىٰ الكَبِيرِ وَالتَّخِيرُ إِلَىٰ التَّخِيرِ وَالتَّشْرُ  
إِلَىٰ التَّشْرِ وَقِيلَ إِنَّ الذَّنْبَ إِذَا صَغُرَ عِنْدَ  
العَبْدِ عَظُمَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَإِذَا اسْتَعْظَمَهُ  
العَبْدُ صَغُرَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَانَهَا يَسْتَعْظَمُ  
الذَّنْبُ الصَّغِيرُ العَبْدَ الْمُؤْمِنَ بِعَظَمَتِهِ  
إِيمَانِهِ وَسُوْمَ مَعْرِفَتِهِ عَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  
المُؤْمِنُ يَرَىٰ ذَنْبَهُ كَالْحَبْلِ فَوْقَهُ يَخَافُ أَنْ  
يَقَعَ عَلَيْهِ وَالمُنَافِقُ يَرَىٰ ذَنْبَهُ كَنْ بَابِ  
طَأَّرَ عَلَىٰ النَّفْسِ فَاطَّارَا وَقَالَ لِبَعْضِهِمُ الذَّنْبُ  
الَّذِي لَا يَغْفِرُ قَوْلَ الرَّجُلِ لَيْتَ كُلُّ شَيْءٍ عَمَلْتَهُ  
مِثْلَ هَذَا وَهَذَا مِنْ لِقَاصِمَانَ إِيْمَانِهِ وَ  
ضَعْفَ مَعْرِفَتِهِ وَقَلَّةَ عِلْمِهِ بِجَلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ  
جَلَّ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِذَلِكَ لَرَأَى  
الصَّغِيرَ كَبِيرًا وَالحَقِيرَ عَظِيمًا كَمَا أَوْحَى اللَّهُ  
تَعَالَىٰ إِلَىٰ لِبَعْضِ أَنْبِيَائِهِ لَا تَنْتَظِرْ إِلَىٰ قَلَّةِ  
العِدَّتِيَّةِ وَانظُرْ إِلَىٰ عَظْمِهَا دَيْهَا وَلَا تَنْتَظِرْ  
إِلَىٰ صِغَرِ الخَطِيئَةِ وَانظُرْ إِلَىٰ كِبَرِيَاءِ مَنْ  
وَاجَهْتَهُ بِهَا وَلَهُذا قَالَ مَنْ جَلَّتْ رَتْبَتُهُ  
وَعَظُمَتْ مَنَزَلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا صَغِيرٌ

بن مالک رہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک میدان میں  
ٹھہرے جہاں لکڑیاں نہ تھیں نہ کوئی لکڑی انہیں دکھائی دے رہی تھی  
آپ نے صحابہ کرام کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم صادر فرمادیا صحابہ کو  
یا رسول اللہ! لکڑی تو یہاں دکھائی دیتی نہیں فرمایا جیسی بھی لکڑی  
ملے اسے ہٹا لو اور حقیر نہ سمجھو چنانچہ لوگ ہر قسم کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں  
جمع کرنے لگے اور لکڑیوں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا پھر آپ نے صحابہ  
سے فرمایا: دیکھتے نہیں لکڑیوں کا کتنا بڑا ڈھیر لگ گیا؟ اسی پر معمولی  
نیکیوں اور بدلیوں کو تپاس کر لو کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر اور  
چھوٹی چھوٹی بدیاں مل کر ان کا بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے  
کہ انسان جس گناہ کو معمولی سمجھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک عظیم ہے  
پھر جب اسی گناہ کو انسان عظیم خیال کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک  
معمولی ہے کیونکہ مومن اپنی ایمانی عظمت اور بلندی معرفت کی وجہ  
سے چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ  
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن گناہ کو بمنزلہ پہاڑ کے سمجھتا ہے  
کہ اس کے سر پہ پہاڑ ہے کہیں پہاڑ اس پر گر نہ جائے اور منافق  
گناہ کو کھسی کی طرح سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھ گئی ہو  
اور وہ اسے اڑا دیگا۔ بعض علماء کہتے ہیں: جو گناہ ناقابل مغفرت ہے  
وہ انسان کا یہ گناہ ہے کاش میرا ہر عمل اس کی مانند ہوتا یا اسکے ایمان  
کی کمی کی اور معرفت کی کمزوری کی نشانی ہے اسے اللہ تعالیٰ کے برابر  
دجلال کا علم نہیں اگر اسے اللہ کے جلال کا علم ہوتا تو وہ چھوٹے گناہ  
کو بھی بڑا اور معمولی گناہ کو عظیم سمجھتا جیسا کہ حق تعالیٰ نے اپنے  
کسی نبی کے پاس وحی بھیجی کہ ہدیہ کی قلت پر نگاہ نہ ڈال بلکہ  
ہدیہ بھیجنے والے کی عظمت کو دیکھو! گناہ کو حقیر نہ سمجھو اور اس کی  
حقارت کو نہ دیکھو بلکہ اس کی کبریائی اور عظمت کو دیکھو جس کی تولد  
یہ ادنیٰ اسی نامرمانی کی ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک



بل كل مخالفة الله تعالى فهي كبيرة و  
قال بعض الصحابة لا صحابة من التابعين  
انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم  
من الشعر كنا بعد ها على عهد رسول الله  
صلى الله عليه وسلم من الموفيات فانما قال  
ذلك لقربهم من الرسول صلى الله عليه  
وسلم ومن الله جل جلاله فيعظم من  
العالم ما لم يعظم من الجاهل ويتجاوز  
عن العاصي ما لا يتجاوز عن العارف على قدر  
ما بينهما من التفاوت في العلم والمعرفة  
والمنزلة فالتوبة فرض عين في حق كل شخص  
لا يتصور ان يستغنى عنها احد من بشر لانه  
لا يخلو عن معصية الجوارح فان خلا عنها  
فلا يخلو عن الهمم بالذنوب بالقلب وان  
خلا عن ذلك يخلو من وسواس الشيطان بايراد  
الخاطر المتفرقة المذهبة عن ذكر الله تعالى  
فان خلا عنها فلا يخلو عن غفلة وتفصير في  
العلم بالله عز وجل بصفاته وافعاله كل ذلك  
على قدر منازل المومنين في احوالهم ومقاماتهم  
فلكل حال طاعات وذنوب وحدود وشروط  
فحفظها طاعة وتركها وغفلة عنها ذنب  
فيحتاج الى توبة وهو الرجوع عن التعويج  
الذي وجد الى سنن الطريق المستقيم الذي  
شرع له ومقام اقيم فيها ومنزلة مهديت له  
فالكل مفتقر الى التوبة وانما يتفاوتون في المقادير

جس کا مرتبہ اونچا اور مقام بلند ہوتا ہے اس کے نزدیک کوئی گناہ چھوٹا  
نہیں اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس کے نزدیک بڑا ہے اور  
اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی بڑا گناہ ہے بعض صحابہ نے تابعین سے فرمایا  
تم ایسے عمل کرتے ہو جو ہنتماری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک  
ہیں یعنی بہت ہی معمولی ہیں ہم انہیں کو عمد رسالت میں تباہ کن گناہ  
خیال کیا کرتے تھے صحابہ نے ایسا کیوں کہا؟ اس لئے کہ صحابہ کرام کا  
رسول اللہ صلعم سے قرب تھا اور انہیں حق تعالیٰ شانہ سے بھی  
تقرب حاصل تھا لہذا ایک عالم کے نزدیک وہ گناہ عظیم ہے جس  
ایک جاہل معمولی گناہ سمجھتا ہے اور جاہل سے اس کی باز پرس نہیں  
ہوتی جیسی عارف سے ہوتی ہے۔ کیونکہ دونوں کے علم معرفت اور  
مرتبہ میں فرق ہے اور بقدر فرق کے ہر ایک سے باز پرس ہوگی  
دبٹے لوگوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہی ہوتی ہیں۔

**توبہ فرض عین ہے** | ہمارے مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ  
توبہ ہر شخص کے لئے ضروری ہے اور فرض عین ہے اور کوئی انسان  
توبہ سے مستثنیٰ نہیں کیا جاتا کیونکہ کوئی شخص اعضاء کی نافرمانیوں سے  
خالی نہیں اور اگر محفوظ بھی ہو تو دلی گناہوں کے ارادوں سے خالی  
نہیں اور اگر ان سے بھی محفوظ ہو تو شیطانی متفرق وسوسوں سے  
خالی نہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والے ہیں اور اگر ان  
بھی محفوظ ہو تو غفلت سے اور علم و معرفت باری تعالیٰ کے سلسلہ میں  
کو تا ہی برتنے سے خالی نہیں کہ اللہ کی ذات و صفات اور افعال کے  
علم کے بارے میں بالعموم کو تا ہی برتنی جاتی ہے غرضیکہ یہ تمام تباہ  
بقدر مومنوں کے احوال و مقامات سے پیدا شدہ مراتب کے ہیں  
دیکھیے ہر حال کے لئے اطاعتیں، گناہ، حدود اور شرائط ہوتے  
ہیں ان کا محفوظ رکھنا اطاعت ہے اور ان کا چھوڑ دینا اور  
ان سے غفلت برتنا گناہ ہے لہذا توبہ کی ضرورت ہے یعنی اس



فتوبۃ العوام من الذنوب وتوبۃ الخواص من الغفلة وتوبۃ خاص الخا ص من رکون القلب الی ماسوی اللہ عزوجل کما قال ذوالنون المصری رحمة اللہ توبۃ العوام من الذنوب وتوبۃ الخواص من الغفلة کما قال ابو الحسن النوری التوبۃ ان تتوب من کل شیء سوی اللہ عزوجل فستان بین تأبیتوب من الزلات وتائبیتوب من الغفلات وتائبیتوب من رؤیۃ الحسنات وتائبیتوب من طمانیۃ القلب الی غیر خالق البریات فالانبیاء علیہم السلام لم یستغفروا عن التوبۃ الا تری الی ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ عزوجل فی الیوم واللیلۃ سبعین مرۃ وادم علیہ السلام لما اکل من الشجرۃ المنہیۃ تطایرت الحلال عن جسده وابت عورته وبقی التاج والاکلیل علی راسه فاستجیب ان یرتفعاعنه فجاہل جبرئیل علیہ السلام فاخت التاج عن راسه والاکلیل عن جبینہ ونوری هو وحو ان اهبط من جواری فانه لا یجا ورنی من عصافی فالتفت الی حو بالحیاء وقال لها هذا اول شوم المعصیۃ اخرجنا من جوار الجیب فاحوجا الی التوبۃ والتضرع والافتقار والاستکانۃ والذلتۃ من بعد عیش قار وذلک من الملک العظیم والفضل الکبیر والعز والدلا

پڑھے پن سے لوٹ آنا ہے جو شریعت کی سیدھی راہ کے دستوروں میں پیدا ہو گئی ہے اور اس مقام میں ظاہر ہو گئی ہے جو مقام سے حاصل تھا اور اس مرتبہ میں جو اسے بخشا گیا تھا لہذا ہر شخص توبہ کا محتاج ہے البتہ توبہ کی مقدار میں فرق ہے یعنی عوام کی توبہ گناہوں سے ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہے اور خواص الخواص کی توبہ ماسوی کی طرف دل کے جھکاؤ سے ہے جبکہ ذوالنون مصری فرماتے ہیں عوام کی توبہ گناہوں سے ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہے اور ابو النوری فرماتے ہیں توبہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا ہر چیز کو راجع کر لو ایک لغزشوں سے توبہ کرنا ہے ایک کی ایک طرف دیکھنے سے توبہ کرنا ہے اور ایک غیر اللہ کی طرف دل کے جھکاؤ سے توبہ کرنا ہے ہر ایک کی توبہ میں تفاوت ہے انبیائے کرام بھی توبہ سے مستغنی نہیں تھے دیکھتے نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر بھی زنگ آجاتا ہے اور میں روزانہ ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں دیکھئے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھالیا جس کے قریب آنے سے بھی آپ کو روک دیا گیا تھا تو آپ کے جسم سے جنتی جوڑے اڑ گئے اور آپ برہنہ ہو گئے البتہ آپ کے سر پر تاج رکھنی قائم رہے ان دونوں کے ہٹ جانے کے بعد سے آدم کو شرم محسوس ہوئی لیکن حضرت جبرئیل نے آکر آپ کے سر سے تاج اور پیشانی سے گناہ بھی اتار لیا اور آپ کا اور حوا کا نام لے کر اعلان کر دیا گیا کہ تم دونوں میرے پڑوس سے اتر جاؤ کیونکہ نافرمان میرے پڑوس میں نہیں رہ سکتے پھر حضرت آدم نے شرماتے ہوئے حوا کو دیکھا اور فرمایا کہ گناہ کی یہ پہلی نحوست ہے کہ ہم اپنے مجرب کے قرب سے دُور ہٹا دئے گئے اب ان دونوں کو توبہ کی گڑ گڑانے کی گریہ و زاری کی، عاجزی کی ضرورت پیش آئی اور بجائے خوشگوار عیش کے ذلت کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ ایک عظیم ملک سے اور بڑی عنایتوں اور کم فرمایوں سے، عزت و اکرام سے، لاد و ناز سے اور انتہائی شریف، پاکیزہ پر امن اور محبوب کے پاس والے مقام پر بلند مرتبہ سے گرا دئے گئے اگر کوئی توبہ سے بے نیاز ہوتا اور دشمن سے



وارتفاع المنزلة في اشرف الامكنة واطهرها  
وامنها واقربها الى الله تعالى فلو استغنى احد  
عن التوبة وامن من العدو وشوم النفس  
ووسواس الشيطان ومكائد الاغتر بشرف  
المكان وطهارته والقرب الى الله ولو منزلته  
لكان ذلك حقيقا بآدم عليه السلام فلم  
يبتغ عن التوبة حتى تاب الله عليه لقوله  
عز وجل فلتقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه  
انه هو التواب الرحيم وروى عن الحسن ابن  
علي رضي الله عنه قال لما تاب الله على آدم عليه السلام  
هنئته الملائكة فهبط جبرائيل عليه السلام  
وميكائيل عليه السلام واسرافيل عليه السلام  
فقالوا يا آدم قوت عينك بتوبة الله عليك  
فقال آدم يا جبرائيل فان كان بعد هذا  
التوبة سوال فابن مقامي فاوحى الله اليه  
يا آدم ورتت ذريتك التعب والنصب و  
ورثتهم التوبة فمن دعاني منهم ليبتئ كما  
ليبتئك ومن سألني منهم المغفرة لم انجل  
عليه فاني قريب مجيب يا آدم واحشر  
التائبين من الذنوب في الجنة واخرجهم  
من قبورهم فرحين ضاحكين مستبشرين  
ودعاءهم مستجاب وكذا لك نوح النبي  
صلى الله عليه وسلم الذي اغرق الله تعالى  
اهل الشرق والغرب بدعوتهم والغيرة على  
عرصه ولتكذبهم اياك وشدة غضبه

نفس کی نحوست سے شیطانی وسوسوں سے اور اس کے دام فریب اور  
مکاریوں سے بے خوف ہوتا اور جگہ کی طہارت و شرف سے اللہ کے  
قرب سے اور مرتبہ کی بلندی سے دھوکہ کھاتا تو حضرت آدم کے  
زیادہ مستحق تھے لیکن آپ بھی توبہ سے بے نیاز نہیں ہوئے اور گناہ  
پر نادم و پشیمان ہوئے اور خوب روئے دھوئے حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے  
آپ کی توبہ قبول فرمائی فرمایا: پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے  
سیکھے لئے اور اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی وہ تو دوڑ کر توبہ قبول  
فرماتا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔

حسن بن علی کا بیان ہے کہ جب حق تعالیٰ جل مجدہ نے حضرت آدم کی  
توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے حضرت آدم کو مبارکباد دی اور حضرت  
جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل نے حضرت آدم کے پاس آکر ان سے  
فرمایا: آدم تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ  
قبول فرمائی حضرت آدم نے کہا: جبرائیل! اگر میں اس توبہ کے بعد  
اللہ سے کتنا چھوٹا ہوا مقام مانگوں تو کیا وہ بھی مجھے مل جائے گا  
حق تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ اے آدم! تم نے اپنی اولاد کے  
لئے محنت و مشقت و رشتہ میں دی اور انہیں و رشتہ میں توبہ بھیجی  
پھر جو مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا جیسے  
تمہاری توبہ قبول کی اور جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا تو میں  
اس پر نجل کرنے والا نہیں کیونکہ میں بندوں سے قریب ہوں اور  
ان کی دعائیں قبول کرنے والا ہوں اے آدم میں گناہوں سے توبہ  
کرنے والوں کو جنت میں جمع کروں گا اور انہیں قبروں سے  
خوش و خرم ہنستے ہوئے اور کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ اٹھاؤں  
گا اور ان کی دعائیں شرف قبولیت حاصل کریں گی یہی حضرت  
نوح کا حال ہے جن کی بددعا سے اور قوم کی توبہ میں و تکذیب سے  
غیرت میں آکر حق تعالیٰ شانہ نے تمام دنیا کو غرق فرما دیا تھا

عليهم لذكور وهو آدم الثاني لان الخلق من  
ذريتهم على ما قيل انه لم يتوالد الذين كانوا  
معه في السفينة من الناس غير اولاد الثلاثة  
وهم سام وحام ويافت فالخلق تشعبت  
منهم مع هذه المنزلة قال رب اني اعوزك  
ان اسئلك ما ليس لي به علم وان لا تغفري  
وترحمني اكن من الخاسرين و ابراهيم الخليل  
مع جلالة قدره واصطفاء الله له لخلقه  
وجعله ابا الانبياء والمرسلين كما روى  
انه اخرج من ولد له وولد له اربعة  
الافنبي عليه وعليهم السلام قال الله تعالى  
وجعلنا ذريته هم الباقين حتى نبينا محمد  
صلى الله عليه وسلم من ولد له موسى وعيسى  
وداود وسليمان عليهم السلام وغيرهم  
لم يتغن عن التوبة والاستكانة والافتقار  
الى الله عز وجل فقال الذي خلقني فهو يهدين  
والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت  
فهو يشفيني والذي يبيني ثم يحييني والذي  
اطعم ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين الآية  
وقوله عز وجل وارنا منا سكاوتنا علينا  
انك انت التواب الرحيم وموسى عليه  
السلام مع جلالة قدره واصطفاء الله  
له للرسالة والكلام واصطناعه لنفسه  
والقائه المحبة عليه وتأييد له بالمعجزات  
الباهرات من اليد والعصا والايات لتسع

آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے تمام لوگ آپ ہی کی اولاد ہیں  
جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کشتی میں جس قدر لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے  
آپ کے تین بیٹوں سام، حام، یافث کے سوا کسی کی اولاد نہیں ہوئی  
طرفان نوح کے بعد دنیا کے تمام لوگ آپ ہی کی اولاد ہیں آپ نے اتنے  
بلند پایہ نبی ہونے کے باوجود یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میں  
اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا  
مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے بخشے گا نہیں اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو  
میں گھٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی طرح جناب خلیل اللہ  
حضرت ابراہیم جلالت قدر کے اور اللہ کے خلیل والوالانبیاء ہونے کے  
باوجود جیسا کہ منقول ہے کہ آپ کی اولاد میں چار ہزار نبی پیدا ہوئے  
خود حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کی اولاد باقی رکھی حتیٰ کہ  
ہمارے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلعم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ  
حضرت داؤد اور حضرت سلیمان آپ ہی کی اولاد میں ہیں تو یہ عجب  
اور احتیاج سے بے نیاز نہ تھے چنانچہ آپ نے فرمایا: جس نے  
مجھے پیدا کیا اسی نے مجھے ہدایت فرمائی وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور  
جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ وہی مجھے  
مار دیکھا پھر زندہ فرمائے گا اور وہ جس سے میں جزا کے دن اپنے  
گناہوں کی مغفرت کا امیدوار ہوں ایک جگہ خلیل اللہ سے ان  
الفاظ میں دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں ہمارے حج کے احکام بتا  
اور ہماری توبہ قبول فرما بلاشبہ تو خوب توبہ قبول کرنے والا اور  
بڑا امر بان ہے یہی حال حضرت موسیٰ کا ہے کہ باوجود جلیل القدر  
اور اللہ کے برگزیدہ رسول ہونے کے اور کلیم اللہ ہونے کے اور  
اپنا بنائے جانے کے اور اس کے باوجود کہ حق تعالیٰ نے ان پر  
اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور آپ کی کھلے کھلے روشن معجزوں  
رید بیضاء، عصا اور دیگر سات معجزوں سے تائید فرمائی اور ان



والاشیاء التي كانت له في التيه من عمود النور  
بالليل والامن والسلوى وغير ذلك من الآيات  
التي لم تكن لاحد من الانبياء وقبله قوله  
رب اغفر لي ولاخى وادخلنا في رحمتك وانت  
ارحم الراحمين وداود النبي صلى الله عليه  
وسلم مع جلالة قدره واعطاء الله له  
ذلك الملك العظيم كان حراسه ثلاثة  
وثلاثين الف حارس وكان اذا قرء الزبور  
اصطفت الطير على راسه ووقف الماء  
عن جريانه وحدته واصطفت الابلس و  
الجن حوله والسيام والمهوام كذا لا يورد  
بعضها بعضا وتسيح الجبال تسبيحه والين له  
الحديد لرزقه اجلا لقدرة وصيانه  
لامرأة فبكى اربعين يوما وهو ساجد حتى نبت  
العشب من دموعه فرحمه الله تعالى وقاب  
عليه حتى قال عز وجل فغفرنا له ذلك وان  
له عندنا لزلزلي وحسن مآب وسليمان ابن  
داود عليهما السلام مع ملكهم العظيم و  
ريحه المسخره له غدوها شهر ورواحها  
شهر والملك الذي لا ينبغي لاحد من بعده  
لما عوقب على خطيئته من اجل التمثال الذي  
عبد في داره اربعين يوما من غير علمه  
فسلب ملكه منه اربعين يوما فهرب  
تائها على وجهه وكان يسال بكفيه فلا يطعم  
فاذا قال اطعموني فاني سليمان بن داود شج

معجزوں سے بھی جو میدان تیر پر آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے جیسے رات میں  
عصا کا روشنی کا قلم بن جانا اور من و سنوی کا اترنا اور ایسے ایسے  
معجزوں کا ظاہر ہونا جو آپ سے پہلے کسی نبی سے ظاہر نہیں ہوئے تھے  
اتنی بلند پایہ جلیل القدر اور اعز م شخصیت ہونے کے باوجود آپ  
بھی پروردگار سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں  
کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں  
اپنی رحمت میں داخل فرمائے تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے  
اسی طرح حضرت داؤد دعا سے مستغنی نہیں ہوئے حالانکہ بڑے اونچے  
مرتبہ کے نبی تھے اور اللہ نے آپ کو ایک بڑا ملک عطا فرمایا تھا اور  
آپ کے پرے دار ۳۳ ہزار تھے جب آپ زبور پڑھتے تو پرندے  
آپ کے سر کے اوپر صف باندھ کر گھڑ جاتے چلنا پانی رک جاتا اور اس  
کے بسنے کی تیزی ختم ہو جاتی اور انسان جن اچھو پائے اور ندے اور سانپ  
وغیرہ قطار باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کوئی کسی پر حملہ نہ کرتا تھا  
اور آپ کی تعبیرات سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے اور آپ کی قدر و منزلت  
کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی کے لئے اور آپ کے امر کو  
بجانے کے لئے آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم بنا دیا تھا یہی اللہ کے برگزیدہ  
نبی سجدے میں گر کر چالیس دن تک روتے اور گڑ گڑاتے رہے حتیٰ کہ  
آپ کے آنسوؤں سے زمین پر گھاس جم آئی بالآخر حق تعالیٰ نے  
آپ پر رحم فرمایا اور آپ کی توبہ قبول فرمائی فرمایا پھر ہم نے آپ کا  
قصور معاف فرمادیا بلاشبہ آپ کو ہمارے پاس ایک مخصوص قرب  
حاصل ہے اور آپ کا حسن انجام ہے اسی طرح حضرت سلیمان اللہ  
کے آگے گڑ گڑانے والے تھے حالانکہ آپ ایک بڑے ملک کے مالک  
تھے اور ہوا آپ کے تابع تھی جو زوال سے قبل صبح ایک ماہ کی  
مسافت طے کر لیا کرتی تھی اور آپ کو ایسا ملک ملا تھا جو آپ کے  
علاوہ نہیں ملا اور نہ ملے گا ایک دفعہ آپ کے گھر میں آپ کی لامعی

راسہ وضرب و اہین و کذب و لقاہ تنطعم  
 یوما من بیت فطر و بزقت امراتہ علی وجہہ  
 و روی انہ ذات یوم اخرجت عجز حیرتہ  
 فیہا بول و صبتہ علی راسہ فبقی فی السذل  
 علی ذلک الی ان ینخرج اللہ لہ الخاتم من  
 بطن حوت فلیدسہ خین انتہت الاربعون یوما  
 من ایام العقوبۃ فجاءت الطیر حینئذ فعکفت  
 علیہ و جاءت الجن و الشیاطین و الوحوش  
 فاجنعت حولہ فلما عرفہ الذین اہانوا  
 و ضر لہ اعذروا لہ ما جری منہم الیہ  
 من الاساءۃ فقال لا الومکم فیما صنعتم  
 من قبل ولا احمدکم الان فیما تصنعون  
 فان هذا امر من عند ربی فلا بد لی منہ قتاب  
 اللہ علیہ و رد الیہ ملکہ و اکثر موئلہ  
 و مرجعہ علیہ السلام فاذا کان ہولاء  
 السادات الکبراء القادة و کالات الخلق و الشرک  
 و خلفاء اللہ فی خلقہ کان حالہم کذلک  
 فما حالک و اغترارک یا مسکین و انت فی  
 دار العرور فی اقطاع الشیاطین محیط بک  
 جنود الاعداء من الخلق و الهواء و النفس  
 و الشهوات و الارادات و الوسوس و  
 تزیین الشیطان و تحسینہ و اغتررت  
 بالعبادات الظاہرۃ من الصوم و الصلوۃ  
 و الزکوۃ و الحج و کف الجوارح عن المعاصی  
 الظاہرۃ و باطنک عار عن العبادات الباطنۃ

میں ایک سورتی پوج کی گئی تھی حق تعالیٰ نے اس کی وجہ سے چالیس دن تک آپ کی حکومت سلب کر لی گئی تھی اس وقت آپ حیرانی و پریشانی کی حالت میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر جب آپ کسی سے کھانے کے لئے دست سوال دراز کرتے تو آپ کو کوئی بھیج دینے کا روادا بھی نہ تھا اگر آپ فرماتے کہ مجھے کھانا کھلاؤ کیونکہ میں سلیمان بن داؤد ہوں تو آپ کا سر توڑا جاتا اور آپ کو مارا جاتا اور آپ کی بے عزتی کی جاتی اور جھٹلایا جاتا ایک دن آپ نے ایک گھر سے کھانا مانگا تو ایک عورت نے آپ کے چہرے پر تنفک دیا اور دروازہ سے بھاگ دیا منقول ہے کہ ایک دن ایک بڑی بی بی شیب سے بھرا ہوا گھڑا لے کر نکلی اور آپ کے سر پر آکر الٹ دیا غرضیکہ آپ اسی ذلت کی حالت میں رہے تھے کہ حق تعالیٰ نے آپ کی انگوٹھی ایک بھلی کے پیٹ سے نکال دی چالیس دن کے بعد انگوٹھی ملی پھر آپ نے وہ پہن لی اور سر پر آکر اسے سلطنت ہو گئے مزا کا زمانہ ختم ہوا اور حسب سابق راحت و عیش کا زمانہ لوٹ آیا پرندے بھی صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور انسان، جن، شیطان اور جنگلی جانور سب آپ کے آس پاس جمع ہو گئے پھر جب ان لوگوں نے جنوں نے آپ کی بے عزتی کی تھی اور آپ کو مارا تھا آپ کو پہچانا تو آپ سے آپ کی بے ادبی کے سلسلہ میں اپنے تصور کی معذرت چاہی آپ نے فرمایا تم نے اس سے پہلے جو کچھ کیا میں اس پر تمہیں کچھ نہیں کہتا آج میں نہ تم کو برا کہتا ہوں اور نہ اچھا کیونکہ تم معذرت خواہ ہو یہ تمام باتیں (ذلت و عزت) میرے پروردگار کی طرف سے ہیں چونکہ رب کی مشیت تھی اس لئے ایسا میرے لئے ہونا لازمی تھا الغرض حق تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کو آپ کا ملک لوٹا دیا اور آپ کا مرتبہ اور مال و دولت اور اقتدار و سلطنت میں بہت کچھ اضافہ فرما دیا۔ لہذا جب ان اکابر



صفر عنہا من الررم التاتی والتقوی والزهد و  
 الصبر والرضا والقناعة والتوکل والنقلین  
 والیقین وسلامة الصدر وسخاوة النفس  
 وروية المنة والنیة والاحسان وحسن الظن  
 وحسن الخلق وحسن المعاش وحسن المعرفة و  
 وحسن الطاعة والصدق والاحلاص وغير  
 ذلك مما يطول شرحه بل هو مشحون منتهی  
 باخلاق قبیحة وامهات الذنوب التي منها  
 تفرع كل محنة ودا هية وكل بلیة مهلكة  
 موقفة فی الدنيا والاخرة من خوف الفقر  
 والسخط لقد ر الله عز وجل والاعتراض  
 علیه فی قضائه فی خلقه والتهمة له فی  
 ذلك والشك فی وعدة والغل والحقد و  
 الحسد والغش وطلب العلو والمنزلة وحب  
 الثناء والحمدلة وحب الجاه فی الدنيا والرضاء  
 بها والطمانیة الیها والتكبر علی عباد الله  
 والتعظیم علیهم والشتم بالالف كما قال  
 تعالی واذا قبل له اتق الله اخذته العزة  
 بالانتم والغضب والحمیة والالفة وحب  
 الریاسة والعداوة والبغضاء والطمع والخل  
 والشح والرعیة والزهبة والفرح والاشتر  
 والبطر والتعظیم للاغنیاء والاستهانة  
 بالفقراء والفخر والخیلاء والتنافس فی الدنيا  
 والمباهات بها والریاء والسعة والاعراض  
 عن الحق استكبارا والخوض فیما لا یعنی

سردار دقائین کا جو لوگوں پر حکم ان تھے، اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ  
 کے خلفاء تھے یہ حال ہے تو تم جیسے ناچیزوں کا کیا حال ہوگا اور تمہارے  
 دھوکا کھانے کا کیا انجام ہوگا حالانکہ تم اس دھوکا والے گھر میں شیطانوں  
 کے دام فریب میں گرفتار ہو تمہیں تمہارے دشمنوں کے ہوا و نفس کے،  
 شہوتوں اور اداؤں کے، دوسوسوں اور خطرات کے اور شیطانی تزیین  
 و ملیح سازی کے لشکروں میں گھرے ہوئے ہو تم ظاہری عبادتوں (نماز،  
 روزہ، حج، زکوٰۃ اور نذک ظاہری گناہ) پر پھول رہے ہو حالانکہ تمہارے  
 باطن باطنی عبادتوں سے خالی ہے، تمہارا دل، ورع و تقویٰ، زہد  
 و صبر، قناعت و رضا، توکل و تسلیم اور سلامتی و یقین سے محرابے  
 تمہارا نفس سخاوت و شکر، نیک نیتی سے، اور عمل احسان سے محروم  
 ہیں تمہارا قلب حسن ظن، حسن اخلاق، حسن طاعت، حسن معرفت  
 اور حسن صحبت سے غیر آباد ہے اس صندوق میں صدق و اخلاص  
 وغیرہ کا تو نام و نشان ہی نہیں بلکہ یہ کہاٹ خانہ ہے اور گندے اخلاق  
 اور ایسے گناہوں کے چپٹوں جن سے قسم قسم کے مصائب و آفات پھوٹتے  
 ہیں بھر لو رہے اور ایسے گناہوں سے لبریز ہے جن سے دنیا اور آخرت  
 دونوں کی تباہی ہے تمہیں فقر و افلاس کا دھڑکا لگا رہتا ہے تم  
 اللہ کی تقدیر کے شکوے کرتے ہو اور قضاء و قدر پر اعتراض کرتے  
 ہو اور اس سلسلہ میں اس پر الزام لگاتے ہو اور اس کے وعدوں  
 میں شک کرتے ہو، تمہارے دلوں کے ویران جنگلوں میں کینہ  
 کپٹ، بغض، حسد، دھوکا، فریب اور قسم قسم کے گندے اخلاق  
 لہلاہے ہیں تم بلند می و بلند مرتبہ کے بھوکے ہو، اپنی تعریف  
 و توصیف کے متمنی ہو تمہیں دنیا میں عزت و جاہ کی طلب ہے  
 اور دنیا ہی سے راضی اور مطمئن ہو اللہ کے بندوں کو حقیر اور خو  
 کو بڑا سمجھتے ہو اور تم تک چڑھے، اکڑ والے اور مغرور ہو جیسا کہ  
 حق تعالیٰ نے فرمایا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے دعا ہے

وكثر الكلام من غير نفع والتيه والصلف  
 واختبار احوال الغير وترك حالتك التي انت  
 عليها وجعلت عبادتك في حفظها والتملك  
 والافتقار في امر الله والتوقير للمخلوقين  
 والمداهنة لهم والعجب بالاعمال و  
 حب المدح بالمفعلة والاشتغال  
 بعيوب الخلق والتعاضد عن عيوبك ونسيان  
 نعمة الله واصافتها الى نفسك او الى الخلق  
 الذين هم مسخرون والة لتلك النعمة  
 والوقوف مع الظاهر والتقاعد عن النظر في  
 الاصول وحفظ الحدود ووضع الشيء في محله  
 وايقار الفرح ولبغض الحزن الذي بعد مده خراب  
 القلب وخروج الخشية منه وبعده اطفاء  
 نور الحكمة وبتراكم الامجاد قرب الرب  
 والانس به والاستماع اليه والفهم منه  
 والاستغناء به عن جميع البرية والسعادة  
 الابدية والنجاة السرمدية والنعمة  
 الكلية ومشغون بالانتصار للنفس اذا  
 نالها الذل الذي رواء هافيه وسعادتها  
 به ودخولها في زمرة احباب الله تعالى و  
 اصقيائه وخلصائه وشهدائه وعلماؤه  
 والعارفين بهجاري اقراره وابدال  
 انبيائه عليه السلام وضعف الانتصار  
 للحق جلت عظمتة وتصار دينه واوليائه  
 القاسمين بحجته الداعين للخلق الى طاعته

تو اسے گناہ پر غرور عزت و جاہ جمادیتا ہے۔ نہ صرف گناہ پر بلکہ غضب  
 و حمیت پر اور بڑی ناک ہونے پر بھی اور جب ریاست، بغض و  
 عداوت، بخل و طمع، حرص و ہوس، خوف و رغبت، فرح و مسرت  
 غرور و اتراہٹ پر بھی تم بالداروں کی عزت و تعظیم کرتے ہو اور  
 ناداروں کو دھتکار دیتے ہو اور انہیں ذلیل سمجھتے ہو تم فخر و غرور کے  
 عاشق ہو اور دنیا کی محبت میں اور اس پر فخر و مہاباات میں ڈوبے  
 ہوئے ہو تمہارے عملوں میں ریا اور شہرت کا فرما ہے تم ازراہ غرور  
 حق سے منہ پھیر لیتے ہو اور بے کار و لغو بحث و مباحث میں اپنا بیش بہا وقت  
 ضائع کر دیتے ہو بلا وجہ بک بک کرتے رہتے ہو تم کو فخر یہ باتوں میں  
 اور غپ شپ میں مزا آتا ہے تم دوسروں کے عیب ٹوٹتے ہو اور  
 اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے اور اسی کو عبادت سمجھتے ہو اور اللہ کے کاموں  
 میں اپنی قوت و اقتدار کا اظہار کرتے ہو تم مخلوق کی توقیر کرتے ہو اور  
 ان کی خاطر حق چھپا لیتے ہو، تم اپنی عبادتوں پر پھولے نہیں سماتے  
 اور اپنی قوت و اقتدار کا اظہار کرتے ہو تم مخلوق کی توقیر کرتے ہو اور ان  
 کی خاطر حق چھپا لیتے ہو، تم اپنی عبادتوں پر پھولے نہیں سماتے اور  
 اپنی جھوٹی تعریفوں سے بالنسوں اچھلتے ہو تم لوگوں کے ایک ایک عیب  
 کو ٹوٹتے ہو اور اپنے ذاتی عیبوں سے انہیں بن جانتے ہو اور اللہ کی  
 نعمتوں کو بھول جاتے ہو اور انہیں اپنی طرف منسوب کر دیتے ہو  
 یا ایسے لوگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہو جن کو حق تعالیٰ نے وہ  
 نعمتیں دیں اور ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کی پھر ان کے  
 واسطے سے تم تک پہنچیں۔ نعمتوں میں نہ تمہاری ذاتی محنت و مشقت  
 کو اور ذاتی ہوشیاری کو دخل ہے اور نہ دوسروں کی شفقت و مہربانی  
 کو، تم ظاہر کو دیکھتے ہو اور تمہاری نگاہیں مقررہ اصول محدود تک  
 نہیں پہنچتیں تم کام اس کے محل میں نہیں کرتے تم خوشی کو ترجیح دیتے  
 ہو اور غم سے نفرت کرتے ہو حالانکہ جس دل میں غم نہیں وہ دیرانہ



المحذرين لنقطة وفار لا يتذكروهم لا يامه  
 المرغبين في رحمة وجنته واتخاذ الاخوان  
 في العلابية مع عداوتك اياهم في السر  
 والاعراض عن موافقة الاخيار والابرار  
 المنكسرين القلوب والافئدة الذين هم  
 جلساء الرحمن جلّت عظمتهم المطمئنون  
 اليه الملاذمون للشدة المدامون على  
 الخدمة المتعمرون بالمنة المتلبسوت  
 بالخلعة الموسومون بخلصاء الرحمن رب  
 العزة الامنون في الدنيا من دوران الدول  
 والفتنة وفي القبور من شر هول المطلاع و  
 الضعطة وفي القيامة من طول الحساب  
 والوحشة الخالدون في دار البقاء في  
 النعمة والسرور والبرحة والفرحة  
 المخصوصون فيها بكل طريف ولطيف في  
 كل ساعة ولحظة وطرفة واغتررت  
 ايضا باخولت من الدنيا وما اطلقت فيها  
 من القضاة و ارحت عن العناء فامنت من  
 سلب العطاء والفضل والنعمة الذي كان  
 لغيرك ثم انتقل منه اليك ممن تقدم  
 ومضى من فرعون وهامان وقارون و  
 شداد وعاد وقيصر وكسرى من الملوك  
 الخالية والامم الفانية الذاهبة الذين  
 تلاعبت بهم الدنيا وغرتهم الاماني حتى  
 جاء امر الله وغرهم بالله الغرور وحيل

اور اس میں اللہ کا ڈر نہیں اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں اس میں  
 حکمت کی شمع گل ہے پھر جس قدر ڈر کی فراوانی ہوگی اسی قدر رب  
 سے قرب و نسبت کی ارزانی ہوگی تم اللہ کی باتیں نہیں سنتے اور  
 انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اسے اپنا کہ تمام مخلوق سے  
 مستغنی نہیں ہوتے تاکہ تم ابدی سعادت، دائمی نجات اور پوری  
 پوری پوری نعمت سے مالا مال ہو جاؤ اگر تم کو ذلت پہنچتی ہے تو  
 تم سراپا انتقام بن جاتے ہو حالانکہ تمہاری اصلاح و سعادت اسی  
 ذلت میں ہے اور تم اسی راہ سے اولیاء اللہ کی جماعت میں داخل  
 ہوتے ہو اس کے برگزیدہ اور خالص بندے بنتے ہو اور شہداء و علمائے  
 عرفاء اور انبیائے کرام کے زمرے میں شامل ہوتے ہو جو دنیا میں اس  
 کے قانون پر عمل پیرا ہیں اس کے برعکس تم اللہ کے قانون کی مدد  
 کے لئے کمزور ثابت ہوتے ہو اور دینداروں اور اللہ کے دوستوں  
 کا دینی کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتے جو اللہ تعالیٰ کی حجت کو لے کر  
 مخالفین اسلام کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں، دن رات لوگوں کو  
 حق تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں اور پند و مرعطت سے لوگوں کو  
 اللہ کے عذاب سے جوگزشتہ اقوام پر آیا اور جہنم کی آگ سے  
 ڈرا رہے ہیں اور انہیں اللہ کی رحمت و جنت کا شوق دلا رہے  
 ہیں بلکہ تم اور اللہ کی مخالفت کرتے ہو تم لوگوں سے بظاہر دوستی  
 کرتے ہو لیکن درپردہ ان کی دشمنی میں سرگرم عمل رہتے ہو اور اللہ کے پسندیدہ  
 اور نیک بندوں سے موافقت نہیں کرتے حالانکہ جو دل شکستہ ہیں اور  
 رحمن کے ہم نشین ہیں اور اس سے مطمئن ہیں اور اپنے ایام سدا تنگی میں گزار  
 رہے ہیں اور ہمیشہ اپنے آقا کی خدمات پر کمر بستہ رہتے ہیں اور اس کی  
 نعمتوں پر شکرا داکرتے رہتے ہیں اور اخلاص کے خلعت سے آراستہ  
 ہیں اور جو رحمن کے جو رب العزت سے پُر خلوص بندے ہیں اور دنیا میں  
 انقلابات زمانہ اور فتنوں سے مامون ہیں اور قبروں میں عذاب قبر سے

بینہم و بین ما لیشہون و جمعوا و فرق  
 و قطع بینہم و بین ما خولوا و اذیلوا من قریشہم  
 الی مہد و ہال انفسہم و اہبطوا عن المنازل  
 الی شیبہ دہا و اذیلوا بمن العز الذی  
 کانوا بہ ظفروا و عن الملک الذی ادعوا  
 و خیلوا فطولوا بالودائع الی استودعوا  
 بالعواد الی استومتوا فجاہم من اللہ  
 ما لم یکنوا احتسبوا و اذفقوا علی مساوی  
 ما عملوا و لوقشوا علی دقات ما اقترفوا و  
 حبسوا فی اضیق الحبوس الی فی الدنیا لغيرہم  
 حبسوا و شدوا یا شد الذی شد دنا  
 و عوقبوا یا بلع ما عاقبوا و بالنار احرقوا  
 و یا بدیہم و ارجلہم فیہا بالاعلال غلوا  
 و من ذنوم و فریح اطعموا و من حییم سقوا  
 و من طیبۃ خیال نیما اما کانت لک برہوۃ  
 الماضین عبرۃ و بالما سورین عن اہالیہم  
 عظة عن ادعاء ما خلقوا و سکتی ما بنوا  
 و عنہ اجلوا اذ کانوا فی بنائہم ذلک جابروا  
 و ظلموا انکم من عرض و ظہر و خد و راس  
 حیئنذ نالوا و فربوا و کم من عین مسکین  
 بائس فقیر ذلیل ابکوا و ادمعوا و کم من  
 غنی ذی حسب اذلوا و افقروا و کم من  
 بدعة و سنۃ سیئۃ و رسم شرعوا و رسموا  
 و کم من قلب حکیم لیب علیہم کسروا  
 و اغضبوا و کم من دعاء و نجیب و موت حزین

اس کے وباد سے اور اس کی تنگی سے محفوظ رہیں گے اور قیامت کے دن  
 طویل حساب سے اور وحشت و گھبراہٹ سے بے خوف رہیں گے اور  
 دار البقاء میں ہمیشہ نعمت و سرور میں شاداب و سرور رہیں گے اور  
 خاص طور سے انہیں جنتوں میں ہر خوش طبع اور لطیف چیز ہر لمحہ ہر  
 اور ہر منٹ میں میسر ہوگی۔ تم اپنے مال و دولت پر اور عیش و عشرت  
 پر اور راحت و آرام پر نازاں ہو اور دھوکا کھائے ہوئے ہو کیا  
 تم اللہ کی عنایتوں و نوازشوں، مہربانیوں اور کرم فرمائیوں کے سبب  
 کئے جانے سے محفوظ ہو؟ بہت سے ناز پروردہ جو اقتدار و دولت  
 پر پھول کر اللہ کو بھول گئے تھے اللہ نے ان سے سب کچھ چھین کر دوڑوں  
 کو دیدیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ تمہارے پاس بھی تو غیروں ہی کا  
 مال ہے کیا تم فرعون کو جو اقتدار کے نشہ میں خود کو رب عالی کہتا تھا  
 اور حق تعالیٰ نے اسے پانی میں ڈبو دیا، بھول گئے اور کیا تم امان، تارون،  
 شداد، عاد، قیصر اور کسریٰ کو جو قدیم زمانہ میں بادشاہ اکابر تھے اور فنا  
 ہوئی والی قوموں کو بھول گئے جن کے ساتھ زمانہ کھیلنا تھا اور تمناؤں  
 نے انہیں دھوکہ دیا حتیٰ کہ اللہ کا عذاب آگیا اور انہیں شیطان نے اللہ  
 تعالیٰ سے بے خبری رکھا اور مال کے نشہ میں وہ خمور ہی رہے حتیٰ کہ ان  
 میں اور ان کی تمناؤں میں ناقابل عبور خلیج حاصل کر دی گئی اور انہوں نے  
 جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب لوگوں میں بٹ گیا اور ان کے اور ان کے  
 مال کے درمیان کوئی رابطہ قائم نہیں رہا ہر رابطہ کاٹ دیا گیا اور  
 انہیں ان کے آرام و ہر پر تکلف بستروں سے جو انہوں نے اپنے  
 لئے بچھائے تھے گھسیٹ لیا گیا اور انہیں ان کے گھروں سے جن کو  
 انہوں نے آراستہ کر کے دلہن بنا رکھا تھا، نکال دیا گیا اور جو عورت  
 انہیں حاصل تھی سب خاک میں ملا دی گئی اور جن ملکوں کے وہ دعوت  
 تھے وہ بھی ان سے دعا دے گئے اب اللہ تعالیٰ ان سے اپنی امانتوں اور  
 مستعار چیزوں کے بارے میں پوچھے گا لہذا اللہ نے انہیں وہ عذاب



فی جنم اللیل من ارباب القلوب بطلبہم الحی  
 الرحمن دفعوا شکایہ منہم الیہ فی کشف ما بہم  
 اذ ہم علی الخیر سقطوا فانتدبت لذلک  
 الملئکة العکرام والیہ بادروا والی الملئک  
 العظیم المنصف غیر الحکائر وصلوا وانتہوا  
 فنظر العزیز الحکیم العظیم بہا فی صدرہم  
 والخبر بما یخفون وما یعلنون فیما شکوا  
 ومنہ ضجوا فاجابہم العزیز الخلیل  
 لانصرنکم ولو بعد حین فجعلہم حصیدا  
 فہل تری لہم من باقیة فقرم بالغرق وقوم  
 بالحنسف وقوم بالمصب وقوم بالقتل وقوم بالمسخ فی  
 الصور وقوم بالمسخ بالمعانی بان جعل قلوبہم قاسیة کالجذ  
 السماء قطع علیہا بطابع الکفر وختمہا  
 بخاتم الشکر والرین والغطاء والظلمة فلم  
 یلج فیہا الاسلام ولا الیمان ثم اخذہم  
 اخذہ رابیة ولبطش بہم بطشہ الجبار  
 فادخلہم دار البوار کلما انفجت جلودہم  
 بدلناہم جلودا غیرہا فہم ابدانی نکال  
 وجحیم وطعام ذی غصہ وعذاب الیم  
 نخالذین فیہا ما دامت السموات والارض  
 لا یوتون فیہا ومنہا لا یخرجون لانفاة  
 یویلہم ولا منتہی لثبورہم ولہم  
 فیہا معیشتہ فتکالی تخلص الیہم روح  
 ولا یخرج منہم نفس ولا روح القطعت اما  
 لہم وامواتہم وتشتت قلوبہم فی حلقہم

دکھا دیا جس کے وہ ملکر تھے اور انہیں ان کے برے کرتوتوں کی خبر دیدی  
 جائے گی اور ان سے ان کے باریک گناہوں کی کبیر کی جائیگی اور انہیں انتہائی  
 تنگ قید خانوں میں قید کر دیا جائیگا جن میں وہ دنیا میں لوگوں کو ایذا پہنچایا  
 کرتے تھے عذاب دیا جائیگا اور اپنی سزاؤں سے سنگین سزاؤں میں گرفتار ہوں  
 گے اور آگ میں جلائے جائیں گے اور ان کے ہاتھ پھر زنجیروں سے جکڑے  
 جائیں گے اور انہیں زقوم و مزلیع کھلایا جائے گا اور کھولتا ہوا گرم پانی  
 پلایا جائے گا اور دوبارہ پیاس محسوس ہونے پر چینیوں کا کچھلا اور سپین  
 بھی، کیا تم کو ان گزشتہ اقوام سے کوئی سبق نہیں ملتا اور کوئی نصیحت  
 حاصل نہیں ہوتی یہ دولت انہیں کی چھوڑی ہوئی ہے کبھی ہی اس کے  
 دعویدار تھے اور یہی ان عالیشان محلوں کے رہنے والے تھے بالآخر یہی  
 ان سے نکالے گئے کیونکہ وہ ان محلوں میں بیٹھ کر لوگوں پر مظالم ڈھایا  
 کرتے تھے اور ظلم توڑا کرتے تھے بہتوں کی ان کے ہاتھوں آبرو لٹی۔  
 بہتوں کی پیٹھ توڑی گئی، بہت سوں کے سر پھوڑے گئے اور بہت سوں  
 کے رخساروں پر خون کی دھاریاں بہیں، بہت سے ستم رسیدہ بیچارے  
 مسکینوں اور غریبوں کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوئے اور بہت  
 مالدار شرفاء انکے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور انہوں نے بہت سی بدعتیں  
 برے رواج اور رسمیں ایجاد کیں اور بہت سے علم و حکمت اور عقل و دانش  
 والے دل توڑے اور انہیں غصہ دلایا اور رات کی تاریکیوں میں اہل دل کی  
 بہت سی دعائیں، آہیں، نالے اور فریادیں جگر سوز و دلہرز آوازوں کے  
 ساتھ ان کے ظلم سے تنگ آکر ان کی شکایت کے لئے رحمن کی طرف اٹھیں  
 کہ اے اللہ ہم سے ان کے مظالم ہٹا دے کیونکہ ہم تیرے اطاعت گزار ہیں  
 ونا شعار بندے ہیں معزز فرشتوں نے انکی دعاؤں پر آمین کہی اور وہ  
 سرعت کے ساتھ بارگاہ جل جلالہ میں سرعت کے ساتھ لے گئے اور عظیم  
 و منصف اور عادل شہنشاہ تک انہیں پہنچایا اور فرشتے ان کی دعائیں  
 بارگاہ قدس تک لیکر پہنچے پھر عزت، حکمت اور علم والے رب ان کی



وخرست السنتم وقیل لهم اخصوا  
 فیہا ولا تکلمون فاحذریا مسکین ان تفعل  
 بافعالہم اولت بستم فتقفوا آثارہم  
 فتوت من غیر توبۃ وتؤخذ علی عقلۃ  
 وعزۃ من غیر ان تمهد لنفسک عذرا و  
 تعدلک جوابا ومخلصا وتقد مریہا زادا  
 ومجازا فیحل بک من العذاب والتکالی  
 ما حل بہم۔

نیتوں پر نگاہ ڈالی کیونکہ وہ ان کے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے اور وہ  
 شکوؤں کے سلسلہ میں ان کے تمام ظاہری اور باطنی حالات سے خبردار ہے  
 اور ان کی منظریت اس پر ظاہر ہے پھر انہیں ذمی عورت و جلالت شہنشاہ  
 نے جواب دیا کہ میں تمہاری فرزدرد و فرماؤنگا اگرچہ اس میں دیر ہو پھر حق تعالیٰ  
 نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا کیا کوئی ان میں کا کوئی فرد باقی رکھتا  
 ہے؟ حق تعالیٰ جل مجدہ نے کسی کو پانی میں ڈبوایا کسی کو زمین میں دھنسا یا  
 کسی پر آسمان سے پتھر برسائے کسی کو نیک بندوں کے ہاتھوں سے قتل کر دیا  
 کسی قوم کو مسخ کر دیا اور سور و بندر بنا دیا کسی کے ٹھوس پتھروں کی طرح

دل سخت بنا دئے اور ان پر کفر کی مر لگادی اور شرک ازنگ پر دے اور ظلمت کا لیل لگا دیا بالآخر ان میں اسلام و ایمان داخل نہیں ہوا پھر انہیں سخت  
 گیر کی طرح گرفت میں لے لیا اور ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا جب انکی جلدیں پک جاتی ہیں تو ہم انہیں دوسری جلدوں سے بدل دیتے ہیں لہذا وہ دائمی  
 عذاب و جہنم میں ہیں اور پھندا لگانے والے طعام اور دردناک عذاب میں ہمیشہ ہمیش کے لئے گرفتار ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہیں داخوت کے آسمان و زمین  
 قائم رہیں گے) نہ وہ جہنم میں مرے اور نہ انہیں اس سے نکالا جائیگا انکے ذیل کی کوئی غایت نہیں اور انکی ہلاکت کی کوئی نہایت نہیں انہیں کیجئے جہنم میں تنگ زندگی  
 ہے کسی قسم کی راحت کی ان پر رسائی نہ ہوگی نہ انکی سانس نکلے گی اور نہ روح نکلے گی انکی تمام امیدیں اور آرزوئیں ختم ہو جائیں گی، کیجئے منہ کو آئیں گے زبانیں گنگ ہو جائیں  
 اور ان سے دھنکار کہہ لیا جائیگا کہ ذلیل ہو کر جہنم میں رہو اور مجھ سے کوئی بات نہ کہو لہذا میرے قابل رحم بھائیو خبردار دہشتیار ان جیسے کرتوت نہ کرنا  
 اور انکے طریقوں پر گامزن نہ ہو جانا کہ تم انکے نقش قدم پر چلنے لگو اور بغیر توبہ کے مرجاؤ اور غفلت و دھوکہ کی بنا پر پکڑ لئے جاؤ پھر تم اپنی خلاصی کے لئے  
 کوئی عذر نہ پیش کر سکو گے اور تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا جس سے تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے لہذا آج ہی اس بے سفر کے لئے اور  
 پھراط سے عبور کرنے کے لئے اسباب فراہم کر لو اور توشیح جمع کر لو ورنہ جو عذاب و مصائب سے دوچار ہوئے ان سے تم کو بھی دوچار ہونا پڑے گا  
 حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے آمین۔

### فصل فی شروط التوبۃ و کیفیتہا

اما شروط طہا فثلثۃ اولہا اللہ مر علی ما عمل  
 من المخالفات و هو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 اللہ مر توبۃ و علامۃ صحۃ اللہ مر رقتۃ  
 القلب و غزارۃ الدمع و لہذا روی عن  
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال جالسوا  
 الترابین فانہم ارق افئدۃ والثانی ترک

شتر الطوبیہ | توبہ کی تین شرطیں ہیں گناہ پر نہ امت و پشیمانی جیسا کہ  
 نبی صلعم نے فرمایا کہ نہ امت توبہ ہے صحیح نہ امت کی نشانی یہ ہے کہ دل میں  
 سوز و گداز ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اسی لئے نبی صلعم نے فرمایا  
 توبہ کرنے والوں کے پاس اٹھو بیٹھو کیونکہ ان کے دلوں میں رقت و نرمی  
 ہوتی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ تمام احوال و اوقات میں گناہ بالکل  
 چھوڑ دینا تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا جا چکا ہے اسی نوع کے گناہ کی  
 طرف کبھی نہ لوٹا جائے جب ابو بکر واسطی سے کسی نے پر خلوص توبہ کے



الزلات في جميع الحالات والساعات والثالث  
العزم على ان لا يعود الى مثل ما اقتترف من  
المعاصي والمخاطبات وهو معنى قول ابي بكر  
الواسطي حين سئل عن توبة النضوح فقال  
ان لا يبقى على صاحبها اثر من المعصية  
سراً ولا جهرًا ومن كان توبته لنضوحها  
فلا يبالي كيف اصيب واصيب فالندم لورث  
عزما وقصد اذ العزم ان لا يعود الى مثل  
ما اقتترف من المعاصي لعلمه المستفاد  
بالندم ان المعاصي حائلة بينه وبين ربه  
وبين محاب الدنيا والاخرة السليمة من التبعات  
كما ورد في الخبر ان العبد يعجز الرزق الكثير  
بذنب يصيبه والبضا الرزاق لوزن الفقر وعن  
بعض العارفين اذا ادابت التغير والتصيق  
في المعيشة والتعسر في الرزق وتشعب  
الحال فاعلم انك تارك لامر مولك  
تابع لهواك واذا ادابت الايدي تسلطت  
عليك والاسن وتناولتك الظلمة في النفس  
والاهل والمال والولد فاعلم انك مركب  
للمناهي ومائع للحقوق ومتجاوز للحدود و  
مخرق للرسوم واذا ادابت الهموم والغوم  
والكروب في القلب قد تراكت فاعلم  
انك معترض على الرب فيما قدر عليك و  
تضيذ لك متهم له في وعدة ومشارك  
به خلقه في امره غير واثق به ولا استراض

بارے میں پوچھا تو فرمایا پر خلوص توبہ یہ ہے کہ گناہ گار پر گناہ کا باطنی  
اور ظاہری کوئی اثر نہ رہے ان کے اس قول کے وہی معنی ہیں کہ آئندہ  
گناہ نہ کیا جائے پھر جب کوئی پر خلوص توبہ کر لے تو پورا وہ نہ کرے کہ  
کس طرح صبح و شام آتی ہے یعنی پر خلوص توبہ سے گناہ بخش دیا جاتا ہے  
اور اب صبح و شام دھڑکے والی نہیں۔ نہ امت عزم و قصد پیدا کرتی  
ہے عزم اس پر ہے کہ آئندہ اس نوع کا گناہ ہرگز نہ کروں گا کیونکہ  
مجھے سابق گناہ سے یہ تجربہ ہو گیا ہے کہ گناہ بندے کے اور اس کے  
درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی سلامتی والی سعادتوں  
سے محروم کر دیتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سرور عالم صلعم نے  
فرمایا کہ بندہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اپنی کثیر روزی سے  
محروم کر دیا جاتا ہے علاوہ ازیں زنک سے محتاجی پیدا ہوتی ہے  
بعض عرفاء کہتے ہیں جب تم زندگی میں تغیر اور تنگی دیکھو اور روزی میں  
ترشی اور پریشانی پاؤ اور پریشانی بر طھتی ہی جائے تو یقین کر لو کہ تم  
نے اپنے حقیقی مالک کا کوئی حکم چھوڑ دیا ہے اور من مانی کر رہے ہو اور  
جب تم اپنے اوپر لوگوں کی دست درازی اور زبان درازی دیکھو اور  
یہ بھی کہ ظالم جان و مال اور اہل و عیال پر دست تسم دراز کر رہے ہیں  
تو یقین مانو تم حرام کام کر رہے ہو، حقداروں کے حق مار رہے ہو  
حدوں سے پھلانگ رہے ہو اور حرماتوں کے پردے چاک کر رہے  
ہو اور جب دیکھو کہ تمہارے دل پریشانیوں، بے قراریوں اور بے  
چینیوں کی بھیڑ ہے تو یقین مانو تم مسئلہ فقہاء قدر پر معترض ہو، رب پر  
الزام لگاتے ہو، پروردگار کے وعدوں کو سچا نہیں سمجھتے اور اللہ  
کے مخصوص کاموں میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہو اور اللہ کا تمہیں اعتبار  
نہیں اور نہ تم کائنات میں رب کی تدبیر سے راضی ہو پھر جب توبہ  
کرنے والا اپنے حال میں غور و فکر کرتا ہے تو گناہ پر نادم ہونا ہے  
نادم ہونا یعنی محبوب شے کے ضائع ہونے کے خیال آنے پر دل کا

بتدبیرک فیک وفی خلقہ فاذا علم التائب  
 ہذا بالتظرفی حالہ والتفکر فیہا خدام  
 علی ذلک ومعنی التدم توجع القلب عند  
 عملہ لغوات محبوبہ فتطول حسراتہ  
 واحزانہ وبکاؤک ونحیبہ والنکاب عبراتہ  
 فیعزم علی ان لا یعود الی مثل ذلک لما تحقق  
 عندک من الدلم لثوم ذلک وانہ اضی من السم  
 القاتل والسبع المصار والنار المحرقة والسیف  
 القاطع وان المؤمن لا یسع من حجر مرتین  
 فیہرب ضرورۃ من المعاصی کما یہرب  
 من ہذہ المصائد والسہالک ففی المعاصی  
 ہلاک کلی وفی الطاعات بقاء کلی والسلامۃ  
 الابدیۃ وسعادۃ دنیویۃ وآخریۃ فیالیت  
 المعاصی لم تخلق ولم تکن قرب شہوۃ ساعة  
 اورنت حزنا طویلا واعقت داء دو یا واهد  
 عمرا طویلا واولقت فی النار جبلا کثیرا  
 واما القصد الذی ینبعث منہ وهو ارادۃ  
 التدارک فلہ تعلق بالحال وهو موجب ترک  
 کل مخطور وهو ملابس لہ ومداوم علیہ و  
 اداء کل فرض هو مترجہ علیہ فی الحال و  
 لہ تعلق بالماضی وهو تدارک ما فرطہ بالمستقبل  
 وهو مداومۃ علی الطاعة وترک المعصیۃ  
 الی الموت فاما شرط مہتہ فیما یتعلق بالماضی  
 وهو ان یرد فکرہ الی اول یوم بلغ فیہ السن  
 والاختلام فیفتش عما مضی من عمرہ ستۃ

دکھنا پھر جب یہ خیال آکر دل دکھتا ہے تو حسرت و انسو س پیدا ہوتا ہے  
 اور رنج و صدمہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور زانم  
 بک بک کر رونے لگتا ہے اور جگر سوز آس بھر لے لگتا ہے اور آنکھوں  
 سے آنسوؤں کی لڑھی جاری ہو جاتی ہے اور وہ سادوں کی جھڑی بن جاتی  
 ہے اور سوچتا ہے کہ یہ گناہ کی نحوست ہے اور شامت اعمال ہے اس لئے  
 آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا کیونکہ گناہ تو زہر ہلاک و خطرناک درندہ  
 جلانے والی آگ اور گردن اڑانے والی تلوار ہے اور مومن کو دوبارہ  
 ایک سوراخ سے جا لور نہیں ڈستا اس لئے وہ بدیہی طور پر گناہوں  
 سے اس طرح بھاگتا ہے جیسے ان نقصانات و ہلاکتوں سے بھاگتا ہے نتیجہ  
 صاف ہے کہ گناہوں سے پوری پوری تباہی ہے اور طاعتوں سے پوری  
 پوری بقا ہے اور ابدی سلامتی ہے اور دنیوی اور اخروی سعادت ہے  
 کاش گناہ پیدا ہی نہ کئے جاتے اور ان کا وجود ہی نہ ہوتا کیونکہ گناہ میں لذت  
 تو زرا سی دیر کی ہوتی ہے لیکن اس سے ایک لمبی مدت کے لئے غم و اسیر  
 ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے پٹیلی بیماری چھوڑ جاتی ہے اور لمبی عمر کو کوتاہ  
 کر دیتی ہے اور جہنم میں بہت سی مخلوق کو جھونک دیتی ہے۔  
 نہامت سے قصد پیدا ہوتا ہے قصد تلافی مافات کا یعنی نقصان کے  
 پورا کرنے کا ارادہ ہے اس ارادے کا تعلق حال سے ہے اور یہی ہر  
 خطرناک شے کے چھوڑنے کا موجب ہے جس میں گناہ مبتلا تھا اور اس سے بچنے کی  
 کوشش اور بندے پر ہر فرض کا ادا کرنا فی الفور عائد ہوتا ہے اور فی الغیب  
 فرض کی طرف توجہ دینا اور نیک عمل کا ارادہ کرنا بندے کے ماضی کے  
 حالات سے متعلق ہے اور نقصانات کی تلافی سابق گناہوں کا ایک بہت  
 بڑا ذریعہ عفو ہے اور یہ سرتے دم تک اطاعت و ترک گناہ پر توجہ  
 کرنا ہے وصحت توبہ کے لئے ماضی سے متعلقہ شرائط یہ ہیں کہ انسان اپنی توبہ  
 سے لے کر آج تک اپنے ایک ایک سال کا ایک ایک ماہ کا ایک ایک  
 دن کا ایک ایک ساعت کا اور ایک ایک منٹ کا بلکہ ایک ایک



سنة وشهر اشهر او يوما و ساعۃ  
ساعة و نفسا نفسا في نظر الى الطاعات ما  
الذي قصر فيها و الى المعاصي ما الذي قارف  
منها اما الطاعات فان كان ترك صلوة فلم يصلها  
البتة او صلها في غير شرائطها و غير اركانها  
مثل ان صلاها من غير وضوء او مع وضوء مختل  
من شرط كالنية لو بعض واجباته كالمضمضة  
والاستنشاق و غسل الوجه و غير ذلك من  
الاعضاء او صلى في ثوب نجس او حري او غضب  
او على ارض معصومة فانه يقضيها جميعا من  
حين بلوغه الى حين لو بتم فيشتغل بقضاء  
الفرائض او لا يزال يصليها الى ان يضيق  
وقت صلوة الحاضرة ثم يصلي الحاضرة اداء ثم  
يشتغل بقضاء الفرائض هكذا الى ان ياتي على  
اخرها فاذا حضرت الجماعة صلاها  
مع الجماعة و ينويها قضاء ثم يصلي على  
عادته حتى اذا قضيت وقت التي صلاها مع  
الامام صلاها وحده اداء كل ذلك انما  
يفعله احتياطا التحصيل الترتيب في  
القضاء اذ هو واجب عندنا فان لو  
مع الامام اداء جماعة سو مح و رخص  
له في ذلك ولا يعيد هامة اخرى والمصحيح  
هو الاول فان كان في عمرة الماضي مخلطا  
في دينه من الذين قال الله تعالى في حقهم  
واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا

کا جائزہ لے اور غور کرے کہ میں کن کن عبادتوں میں کوتاہی کی اور کن کن  
گناہوں کا ارتکاب کیا اگر نماز چھوڑ دی ہے تو یا تو بالکل نماز پڑھی  
ہی نہیں یا شرائط اور اداکان کے بغیر پڑھی ہے مثلاً بلا وضوء کے پڑھ  
لی یا وضوء تو کیا مگر صحیح وضوء نہیں کیا اور وضوء کی کوئی شرط (مثلاً نیت  
چھوڑ دی یا کوئی واجب دھبے کلی، ناک میں پانی دینا، چہرہ دھونا  
وغیرہ) چھوڑ دیا یا ناپاک، یا ریشمین یا غضب کے کپڑے میں یا  
غضب کردہ زمین پر نماز پڑھ لی جب جائزہ لے چکے تو یہ نمازیں  
سن بلوغ سے لے کر توبہ کے وقت تک سب کی سب قضا کرے چنانچہ  
پہلے فرائض قضا کرے اور فرائض لگانا پڑھتا رہے حتیٰ کہ وقتی نماز کا  
وقت تنگ ہو جائے پھر وقتی نماز ادا کرے پھر فوت شدہ فرائض کی  
قضا میں لگ جائے اسی طرح قضا پڑھتے پڑھتے پھلی فوت شدہ نماز  
پڑھ لے گا پھر جب جماعت کھڑی ہو تو جماعت کے ساتھ قضا کی نیت  
کر کے نماز پڑھ لے پھر فوت شدہ نمازیں قضا کرتا رہے حتیٰ کہ  
جب نماز کا وقت تنگ ہو جائے تو وقتی نماز ادا کی نیت کر کے پڑھ لے  
اس طرح قضا فرائض کی نماز ترتیب قائم رکھنے کی احتیاط سے  
پڑھی جائے گی تاکہ قضا فرائض میں ترتیب قائم رہے کیونکہ ترتیب  
ہمارے نزدیک واجب ہے اگر امام کے ساتھ ادا کی نیت کر لے تو چشم پوشی  
کر لی جائے گی، اس کی وقتی نماز ادا ہو گئی پھر دوسری بار نہ لوٹاے لیکن  
صحیح پہلی ہی صورت ہے تاکہ ترتیب قائم رہے اگر کسی کے گزشتہ عمر میں  
اچھے اور برے ہر قسم کے عمل ہوں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: اور دوسرے  
وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور ان کے اچھے اور  
برے عمل گڈ ٹڈ نہیں امید ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ان کی توبہ قبول فرمائے یعنی  
کبھی تو ان پر ایمان کا غلبہ ہوتا ہے اور اچھی طرح سے نماز و روزہ  
ادا کرتے ہیں اور گنہ گروں سے اور حرام کاموں سے بچتے ہیں اور احتیاط  
سے تمام دینی احکام بجالاتے ہیں اور کبھی ان پر بد بختی غالب آجاتی ہے

ما لحا واخر سيعسى الله ان يتوب عليهم  
تارة يغلب عليه الايمان فيحسن العمل من  
صلاته وصيامه والتميز من النجاسات و  
المحرم في الشرع ويحيا طلديته والاخرى  
تغلبه الشقاوة فيزله الشيطان فينجس في  
صلوته ويتساهل في شرائطها واركانها  
وواجباتها فياتي ببعضها ويترك بعضها  
يصلى يوما ويترك اياما ويصلي من صلوة يوم  
وليلة صلوة او صلوتين ويترك باقيةها  
فليجتهد وليتحر في ذلك فما يتقن انه اتى به  
على التمام والكمال على وجه يسوغ في الشرع  
لم يقضها ويقضى الباقي وان نظر لنفسه  
واتكفب العزيمة والاشد فقضى الجميع لكان  
ذلك احتياطا وخيرا قدّمه لنفسه وكفارة  
وترقيعا لكل ما فرط من سائر الاوامر يوم  
القيامة ودرجت في الجنة اذ اتمت على  
التوبة والاسلام والسنة واذا فرغ من  
قضاء الفرائض ومد الله في اجله وامهل  
في مدته ووقفه لخدمته ورضيه لطاعته  
واقامه لها وجعل من اهل محبته  
وانقذه من الضلال واخرجه من مرافقة  
الشيطان ومناجته ومن ركوب الهوى و  
ملاذ نفسه فادبره من دنياه واقبله على  
اخراة فليشتغل حينئذ بقضاء السنن  
المؤكدات وما يتعلق بكل صلوة على ما ذكرنا

اور انہیں شیطان ڈمگا دیتا ہے اور گنڈے دار نماز پڑھنے لگتے ہیں اور نماز  
کے شرائط ارکان اور واجبات میں سستی کرنے لگتے ہیں کہ کسی کو بجاتے ہیں  
اور کسی کو چھوڑ دیتے ہیں یا ایک دن نماز پڑھ کے کسی کو کسی دن نماز کے قریب  
نہیں آتے یا پنجگانہ نمازوں میں بعض نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور بعض چھوڑ  
ایسے شخص کو پوری سرگرمی سے غور و فکر کرنا چاہیے جن نمازوں کے بارے  
میں یقین ہو کہ پوری پوری شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کر لی گئی ہیں ان  
کی قضا نہ کرے باقی تمام نمازوں کی قضا کرے اور اگر اپنی جان پر ترس  
کھائے اور عزیمت و سختی کا پہلو اختیار کرے اور تمام نمازیں قضا کر لے  
تو اس میں احتیاط ہے اور خیر و فلاح ہے جو آگے بھیج دی گئی ہے اور کفارہ  
ہے اور چھوٹے ہوئے احکام کا قیامت کے دن تدارک بھی ہے اور اگر توبہ  
اسلام اور سنت پر فوت ہو تو جنت میں درجات بھی بلند ہونگے جب  
انسان قضا ئے فرائض سے فارغ ہو جائے اور سنوز عمر باقی ہے اور  
بقید حیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خدمات کی توفیق عطا  
فرمائی ہے اور اسے اپنی اطاعت کے لئے چن کر کربستہ فرمایا ہے اور اپنے  
محبوبوں میں شمار کیا ہے اور اگر اسی سے نجات دی ہے اور شیطانی صحبت  
و پیروی سے بچایا ہے اور خواہشات نفسانی لذتوں سے محفوظ فرمایا ہے  
اور دنیا سے بیزار کر کے آخرت کی لگن پیدا کی ہے تو اب سو کہہ سنتوں  
کی قضا کرے جن کا تعلق ہر نماز سے ہے جیسا کہ ہم فرائض میں ذکر  
کر آئے ہیں پھر تعجد کی اور رات میں نوافل پڑھنے کی کوشش کرے اور  
اردو اور ادب بھی پڑھے جن کا ذکر کتاب کے اخیر میں آ رہا ہے اسی طرح  
اگر سفر میں یا بیماری میں روزے چھوڑے ہیں یا جان بوجھ کر اپنے شہر  
ہی میں چھوڑے ہیں یا روزے کی رات کو جان بوجھ کر یا بھول کر  
نیت نہیں کی تو ان تمام روزوں کی قضا ضروری ہے اگر تعداد باندہ ہو  
تو غالب گمان پر تعداد مقرر کر کے قضا کی جائے لیکن احتیاط اسی میں ہے  
ہے کہ بدوغت سے لیکر توبہ تک سب کی قضا کی جائے اور یہی باعث ہے



في الترايض ثم بعد ذلك يجتهد في التجدد  
 وصلوة الليل والاداء الذي تشير اليها في  
 اخر الكتاب ان شاء الله تعالى واما الصوم فان  
 كان تركه في سفر او مرض او فطر عدا في  
 الحضرا وترك النية ليلا عدا او سهوا فليقض  
 ذلك جميعه وان شك في ذلك فليتحول ويجتهد  
 في ذلك فليقض ما غلب على ظنه تركه و  
 يترك باقيه فلا يقضه وان اخذ بالاحوط  
 تقضى الجميع كان خيرا له فيحسب من حين  
 بلوغه الى حين توبته فان كان بين ذلك عشر  
 سنين صام عشرة اشهر وان كان اثنا عشر  
 سنة صام سنة عن كل سنة شهر او هوشهر  
 رمضان واما الزكوة فيحسب جميع ماله و  
 عدد السنين من اول تمام ملكه لا من زمان  
 بلوغه وعقله اذ الزكوة واجبة على الصبي  
 والمجنون عند ما يخرجها ويضعها الى  
 مستحقها من الفقراء والمساكين وغيرهم  
 فان كان ادى في بعض السنين وتواني في  
 بعض حسب ذلك ادى المتروك ويترك  
 المؤدى على ما تقدم في الصوم والصلوة واما  
 الحج فان كان قد تم شروطه في حقه فوجب  
 عليه السعي فيه والقصد اليه فتواني  
 وفرط حتى افتقر واختلف الشرائط في  
 حقه برهنة من الزمات ثم قد رفع اليه  
 الخروج والقصد اليه وان لم يجد المال

خبر وسعادته ہے اگر دس سال کے روزے چھوٹے ہیں تو دس ماہ کے  
 روزے رکھ لئے جائیں اور اگر بارہ سال کے چھوٹے ہیں تو بارہ  
 ماہ کے روزے رکھ لئے جائیں یعنی ہر سال کے بدلہ ایک ماہ کے  
 روزے رکھ لئے جائیں۔

اگر زکوٰۃ چھوٹ گئی ہے تو چونکہ ہمارے نزدیک بچوں اور دیوانوں  
 پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اس لئے جب سے مال نصاب کو پہنچا ہے  
 اس وقت سے تمام سالوں کی تعداد اور تمام مال کا حساب کیا جائے  
 اور تمام مال کی اور پورے سالوں کی زکوٰۃ نکال کر فقراء اور مساکین  
 وغیرہ کو جو مستحق ہیں دیدی جائے اور اگر کسی سال کی زکوٰۃ دی ہے  
 اور کسی سال کی نہیں دی تو جن سالوں کی نہیں دی ان کی ادا کی  
 جائے اور باقی سالوں کی چھوڑ دی جائے جیسا کہ روزوں کی قضا  
 میں تفصیل گزر گئی۔

اگر حج چھوٹ گیا جب کہ واجب ہو گیا تھا لیکن سستی کی گئی  
 تھے کہ پیسہ پاس ہی نہیں رہا اور ایک زمانہ تک حج کے وجوب  
 کے شرائط مکمل نہ ہو سکے پھر اللہ نے پیسہ دیدیا تو فوراً حج ادا  
 کیا جائے اور اس میں ہرگز ہرگز سستی نہ کی جائے لیکن اگر پیسہ  
 نہ ہو سکا اور ان فلاس کے باوجود خود سفر پر قادر ہے تو پھر بھی  
 حج کرنا ضروری ہے اگر مال ہی سے قدرت حاصل ہوئی ہے تو  
 بقدر خرچہ حج کے حلال طیب کمائے اور خرچہ جمع کر کے رکھے  
 اگر کمائی پر بھی قادر نہیں تو لوگوں سے درخواست کرے کہ  
 مجھے اپنے صدقہ اور خیرات کے مال میں سے اتنا دے دیا جائے کہ  
 میں حج کر لوں کیونکہ ہمارے نزدیک حج بھی سبیل اللہ میں داخل  
 ہے جو مصارف زکوٰۃ کی آٹھ قسموں میں سے ایک قسم ہے۔  
 حق تعالیٰ نے فرمایا: "اور اللہ کی راہ میں" اگر حج لئے بغیر فوت ہو  
 گا تو گنہ گار فوت ہوگا کیونکہ حج ادا کرنے میں کوتاہی برتی اور

وكان له قدرة على الخروج ببذنه مع الافلاس  
 فعليه الخروج فان لم يقدر الا بال فعليه  
 ان تكسب من الحلال قدر الزاد والراحلة  
 فان لم يقدر على الكسب فليسأل الناس  
 ليدفعوا اليه من زكواتهم وصدقاتهم ليخرج  
 ليج من السبيل عندنا وهو واحد من  
 الاصناف الثمانية وهو قوله عز وجل وفي  
 سنبل الله فان مات قبل ذلك مات عاصيا  
 اثمالا انه فرط في اداء الحج وهو عندنا على  
 الفور قال النبي صلى الله عليه وسلم من جد  
 زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يخرج فلا  
 عليه ان يبوت يهوديا او نصرا نيا او على ابي  
 ملة شاء وفي لفظ من مات ولم يحج فان  
 شاء ان يبوت يهوديا او نصرا نيا كل ذلك  
 تأكيد الجانب الامر واحتياط الحفظ وخوفا  
 من تضييعه وان كان عليه كفارات  
 ونذر فعليه الخروج منها واحتياط فيها  
 على ما ذكرنا واما المعاصي فينبغي ان يفتش من  
 اول بلوغه عن سبعة وبصره ولسانه  
 وبيده ورجله وفرجه وجيبه جوارحه ثم  
 ينظر في جميع ايامه وساعاته ويفصل عند  
 نفسه دليوان معاصيه حتى يطعم على جيبها  
 مغائرها وكباثرها وتذكرها جميعها بروية  
 قرآنه الذين كانوا معه فيهادشاركوا في  
 اقتنائها والبتاع التي قارف عليها والمنازل

تاخیر کی حال اگر ہمارے نزدیک حج فی الفور واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زاد سفر اور سواری فراہم ہے جو اسے بیت المقدس تک پہنچا دے مگر اس نے حج نہیں کیا تو عجب نہیں وہ یہودی یا عیسائی یا کسی دیگر مذہب کا ہو کہ مراد ایک لفظ میں ہے جو حج کے بغیر فوت ہو جائے تو وہ خواہ یہودی ہو کہ مرے یا عیسائی سب برابر ہے۔ اس میں حج کے حکم کی تاکید اور اس کے تحفظ کی احتیاط ہے کہ انسان حج کے ضائع ہو جانے سے ڈر جائے اور فوراً ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کفار سے اور نذریں چھوٹ گئی ہیں تو کفار سے ادا کئے جائیں اور نذریں پوری کی جائیں اور اس سلسلہ میں پوری پوری احتیاط سے کام لیا جائے۔

اگر گناہ کئے ہیں تو ابتدائے بوغت سے ان کی کسیر کی جائے خواہ گناہوں کا تعلق کاذوں سے ہو یا آنکھوں سے یا ہاتھوں سے یا پیروں سے یا جنسی اعضاء سے یا تمام اعضاء سے اور اپنے گزشتہ ایام پر غور کرے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ فلاں گناہ کیا تھا اس طرح اب تک کے تمام گناہوں کی ایک فہرست تیار کر لے تاکہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں پر نگاہ رہے اور ان لوگوں کو بھی داغ میں حاضر کر لے جو ان گناہوں میں شریک کار تھے اور ان گھروں کو بھی جہاں اپنے زعم میں چھپ کر گناہ کئے گئے تھے اور ان آنکھوں کو نظر انداز کر دیا تھا جو کبھی نہیں سوتیں اور انہیں ایک سیکنڈ کے لئے بھی ادنگھ نہیں آتی یہ اعمال نامہ لکھنے والے معزز فرشتوں کی آنکھیں ہیں جو ہمارے ایک ایک فعل سے خبردار رہتے ہیں فرمایا: انسان جو بات بولتا ہے اسی کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے اور مجرا کرنے نے ان بزرگ فرشتوں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا جو انسان کی حفاظت پر مقرر ہیں فرمایا: اس کی حفاظت کے لئے اس کے آگے سمجھے رہنے والے اور باری باری سے آنیوالے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے



التي تسريها عن الاعين في زعمه وغفل عن  
 الاعين التي لا تنام ولا تغضب طرفه عين  
 عنه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما  
 يلفظ من قول الالد به رقيب عقيد غفل عن هولاء  
 الكرام الحفظة له معقبات من بين يديه  
 ومن خلفه يحفظونه من امر الله ويحسون  
 عليه افعاله والقياسه وغفل عن عالم  
 السر واخفى العليم بذات الصدور والخير  
 بما يخفون وما يعلنون ثم ينظر في ذلك فان  
 كانت المعاصي تتعلق بحق الله تعالى وهي بينه  
 وبينه لا تتعلق بمظالم العباد كالزنا وشرب  
 الخمر وسامع الملاهي وكانظر الى غير محرمة  
 والقعود في المسجد وهو جنب ومن المصحف  
 بغير وضوء واعتقاد بدعة فتوته عنها بالندم  
 والتسرد الاعتذار الى الله عز وجل و  
 بحسب مقدارها من حيث الكثرة ومن  
 حيث المدة ويطلب لكل معصية عنها  
 حسنة تناسبها فياتي من الحسناب بمقدار  
 تلك السيئات اخذ من قوله تعالى ان الحسنات  
 يذهبن السيئات ومن قول النبي صلى الله عليه  
 وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة  
 الحسنة تمحها فتكفير كل سيئة بحسنة  
 من جنسها بما تقارب ان تكون كفارة له دون  
 غيره في التشبيه فتكفير شرب الخمر  
 بالتصدق بكل شراب حلال هو احب اليه

اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے تمام کام اور تمام سالیں گنتے  
 رہتے ہیں اور تمام چھپی کھلی ہاتوں اور رازوں کے جاننے والے سے بھی  
 ہو گیا تھا جو دلوں کے امراء نہانی سے بھی خبردار رہتا ہے اور خواہ کوئی کام  
 چھپ کر کیا جائے یا کھلم کھلا سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے جب  
 تمام گناہوں کی ذرست تیار ہو جائے تو اب ان میں غور کیا جائے کہ کن گناہوں  
 کا اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق ہے اور کن گناہوں کا بندوں کے حقوق سے  
 پھر جن گناہوں کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہے اور اللہ کے اور بندے کے  
 درمیان ہیں اور بندوں پر مظالم سے تعلق نہیں جیسے زنا، شراب، ناپاچ  
 گانا سننا اور دیکھنا، غیر محرم کو تصدق دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد  
 میں بیٹھنا، بلاد منوک کے قرآن چھونا، اور کسی بدعت کا عقیدہ رکھنا  
 وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سے تو بہ یہ ہے کہ پشیمان ہو جائے اللہ سے ڈر جائے  
 اور ان کا خیال کر کے شرما جائے، حسرت و افسوس کا اظہار کرے اور  
 اللہ تعالیٰ سے معذرت چاہے اور کثرت مدت کے اعتبار سے ان کی  
 مقدار کا اندازہ لگائے اور ہر گناہ کے بدلہ اس کے مناسب نیکی کرے اور  
 ان برائیوں کی مقدار کے مطابق نیکیاں کرے کیونکہ حق تعالیٰ شانہ نے  
 فرمایا: یقین مانو نیکیاں، برائیاں مٹا دیتی ہیں اور رحمت عالم صلعم نے  
 فرمایا: تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرا اور برائی کے پیچھے نیکی لگا دے  
 نیکی برائی کو مٹا دے گی لہذا ہر برائی اسی جنس کی نیکی سے مٹائی جا  
 سکتی ہے دوسری جنس کی نیکی سے جو اس کے مشابہ نہیں مثلاً شراب کا  
 کفارہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو حلال طیب مشروب جو خود کو  
 محبوب و پسندیدہ ہو، پلا دیا جائے اور سماع غناء کا کفارہ سماع  
 قرآن و حدیث ہے اور صلحاء کے واقعات کا سننا بھی اگر مسجد  
 میں جنابت کی حالت میں بیٹھا ہے تو اس کا کفارہ عبادت کے لئے  
 مسجد میں اعتکاف ہے اگر بلاد منوک کے قرآن پاک چھوا ہے تو اس  
 کا کفارہ یہ ہے کہ قرآن کا خوب ادب بجالائے اور اسے کثرت سے



واطیب عندہ وسامع الملاہی لسماع القرآن  
واحادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
وحکایات الصالحین وتکفیر القعود فی المسجد  
جنباً بالاعتکاف فیہ مع الاشتغال بالعبادۃ  
وتکفیر مس المصحف محدثاً یا کرام المصحف  
و کثرۃ قرآءۃ القرآن منہ و کثرۃ تلقیہ علی  
الطہارۃ والاعتبار بما فیہ والالتفاظ بہ واحترام  
والعمل بہ و بان ینکتب مصحفاً ویجعله وقفاً  
علی المسلمین لیقروا فیہ و اما مظالم العباد  
ففیہما ایضا معصیۃ و جنایۃ علی حق اللہ تعالیٰ  
فان اللہ تعالیٰ تنہی عن الظلم للعباد کما تنہی عن الزنا  
وشرب الخمر والربا فبا تعلق من ذلک بحق اللہ  
تعالیٰ تدارکہ بالنذر والتحسیر وترك ما مثله  
فی ثانی الحال والاتیان بالحسنات لتکفر عنہ  
فتکفیر ایدائک للناس بالاحسان الیہم و  
الدعاء لہم فان کان المودی میتاً فالترحم علیہ  
والاحسان لولده و ورثتہ اذا کانت الاذیۃ باللہ  
او الضرب وتکفیر غصب اموالہم فی حق اللہ تعالیٰ  
بالتصدق بما ینسبک من الحلال وان کانت الاذیۃ  
فی الاعراض مثل ان اغتابہم ومشی بینہم بالنمیمۃ  
وقدم فیہم فتکفیر ذلک بالتناء علیہم ان  
کانوا من اهل الدین والسنة والمہار ما یعرف  
فیہم من خصال الخیر فی اقرانہ وامثالہ فی  
المحافل والمجامع وتکفیر قتل النفس فی حق  
اللہ تعالیٰ باعتاق الرقاب لان ذلک اخیاء للعبد

پڑھے اور ہمیشہ وضو کر کے اسے چھوئے اور اس کی آیتوں سے عبرت و نصیحت  
حاصل کرے اور اس پر سرگرم عمل ہو کہ عمل پیرا ہو جائے اور یہ بھی کہ قرآن  
پاک اپنے ہاتھ سے لکھ کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دے تاکہ وہ اسے  
پڑھتے رہیں اگر لوگوں پر ستم توڑے ہیں تو ان میں بھی اللہ کے قانون سے  
بغاوت ہے اور گناہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ظلم سے منع  
فرمایا ہے جیسے زنا، شراب اور سود سے منع فرمایا ہے یہ ایسے گناہ ہیں  
جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے بھی ہے اور بندوں کے حقوق سے بھی لہذا  
اللہ کے حقوق کے مقابلہ میں ان گناہوں پر حسرت و ندامت کا اظہار  
کرنا ان کا کفارہ ہے اور مستقبل میں نہ کرنے کا عزم بھی اور اس کے سبب  
نیکیاں بھی کر لی جائیں تاکہ نیکیاں انہیں مٹادیں اگر لوگوں کو ستایا ہے تو  
ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے لئے دعائے خیر کی جائے  
اگر تمہارے ہاتھوں سے ستایا ہوا شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کے لئے حق  
تعالیٰ سے رحم کی دعائیں مانگو اور اس کی اولاد و ورثہ کے ساتھ حسن سلوک  
کرو اگر ایذا زبان سے یا ہاتھ سے مار کر پہنچائی تھی اگر لوگوں کا مال چھینا  
تھا یا حرام طریقہ سے حاصل کیا تھا تو اس میں حق تعالیٰ شانہ کے حق کا اس  
طرح کفارہ ہوگا کہ اپنے حلال و پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرو۔ اگر کسی  
کی آبرو پر ہاتھ ڈالا تھا یا اس کی ذاتیات پر حملے کیے تھے جیسے کسی کی نسبت  
کی تھی یا چٹیل کھائی تھی یا الزام لگایا تھا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ انکی جائزہ  
تعریف کرو اگر وہ دیندار اور بیروکار سنت ہیں اور ان کے دوستوں ہیں  
اور محلہ والوں میں اور مجلسوں میں اور اجتماعات میں ان کے محاسن و  
فضائل جو تم کو معلوم ہیں بیان کرو۔

اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا کفارہ حق تعالیٰ کے حق کے سلسلہ میں یہ  
ہے کہ غلام آزاد کرو کیونکہ غلاموں کو آزاد کرنا انہیں زندہ کرنا ہے کیونکہ  
غلام اپنے نفس کے اعتباراً کھویا ہوا اور مرنا ہوا ہے جیسے مرنا ہوا زندہ  
نہیں ہوتا اسی طرح غلام اپنے نفس پر قادر نہیں ہوتا جیسا کہ حق تعالیٰ



لان العبد كالمفقود المعدوم فيما يرجع الى نفسه  
 كما قال الله عز وجل من رب الله مثل عبد  
 مملوك لا يقدر على شئ فكليته لمولاه تصرفاته  
 وحركاته وسكناته فهو مجرد لستيد اذ  
 جميع ذلك له فحق اعتاقه ايجادا واحياءا  
 فكان القاتل اعدا من عبد اعاب الله تعالى وعطل  
 طاعته له فجنى على حقه فامر به باقامة عبد  
 مثله عابد لله تعالى لولا يتحقق ذلك الا يعتقم  
 من رفق العبودية فيتصرف في نفسه لنفسه  
 من غير مانع ولا حاجر فيقابل الاعداء  
 بالايجاد وهذا في حق الله عز وجل واما في  
 حق العباد فلا يجلو امان يكون في النفوس  
 او في الاموال او الاعراض او القلوب وهذا  
 هو الايذاء المعصوم واما اذا كانت المظلمة  
 في النفوس بان جرى على يده قتل خطا فتوبته  
 بتسليم الدية الى من يستحقها من  
 ذى نسب او مولى او الامام فهى في عهدة  
 ذلك حتى تفصل الدية اليهما من العاقلة  
 او الامام فان لم تكن له عاقلة ولا وجد في  
 بيت المال شئ سقطت فان كان هو قادرا  
 على اداها ولا عاقلة له فليس له غير عتق  
 رقبة مؤمنة فان تطوع بالدية كان اولى  
 اذ الدية انما تجب عندنا على العاقلة فلا  
 يجا طيب بها القاتل وهو العقيم وقيل انه  
 يجب عليه اداء الدية في هذه الحالة اذا

نے فریاد اللہ ایک مہوک غلام کی مثال دیتا ہے جو کسی چیز پر بھی تادیس  
 لہذا غلام پر سے کا پورا اپنے مالک کا ہونا ہے اس کے تمام تصرفات  
 واختیارات اور حرکات و سکنات اس کے سید کے قبضہ میں ہیں کیونکہ  
 وہ سہرا پاسید کا ہے لہذا اسے آزاد کرنا گویا اسے زندگی بخشنا ہے  
 لہذا قاتل نے قتل کیے گویا اللہ کے ایک ایسے بندے کو معدوم کر دیا جو  
 اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور اس کی عبادت کو معطل کر دیا اور اللہ کا  
 حق ناکر گناہ کیا اللہ نے اسے حکم دیا کہ جیسا بندہ تو نے معدوم کیا ہے  
 ایسا ہی دوسرا بندہ قائم کر اور یہ صورت غلام کو آزاد کر کے ہی پیدا ہوتی  
 ہے تاکہ وہ بالذات بلا کسی رکاوٹ کے تصرف پر قادر ہو یہاں آزادی قتل  
 کے بالمقابل ہے لیکن یہ کفارہ اللہ کے حق کے سلسلہ میں ہے ہے حق العباد  
 سو وہ یا تو کسی کو قتل کرنا ہے یا کسی کا ناحق مال ڈکھانا ہے یا کسی کی آبرو  
 ریزی کرنا ہے یا کسی کا دل دکھانا ہے یہ سب محض ایذا ہے اگر کسی کو  
 خطا سے قتل کر دیا ہے تو اس کا کفارہ دینا ادا کرنا ہے یہ دین مقبول  
 کے درجہ کو دسی جائے خواہ قاتل کے عزیز دیں یا ولی اور سرپرست  
 دے یا امام بیت المال میں سے ادا کرے لہذا دینت قاتل کے ذمہ ہے  
 جب تک دین مقبول کے درجہ کو نہیں ملے گی اس وقت تک قاتل کے  
 گناہ کا کفارہ نہ ہوگا خواہ قاتل کے عصبہ دین یا امام دے اگر قاتل  
 کے عصبہ نہ ہوں اور بیت المال خالی ہو تو دینت قاتل سے ہٹ جائیگی  
 اگر قاتل خود دینت ادا کرنے کے قابل ہے اور اس کے دینت دیننے والے  
 عزیز نہیں تو اس کے ذمہ صرف ایک غلام کا آزاد کرنا ہے اگر خوشی  
 سے نقلی طور پر دینت دیدے تو اولیٰ ہے کیونکہ ہمارے نزدیک دینت  
 عاقلہ دینت ادا کرنے والے (قارب) ہی پر واجب ہے اور دینت کا  
 قاتل سے خطاب نہیں ہے اور یہی صحیح ہے۔ امام شافعی کے نزدیک  
 اگر قاتل دینت ادا کرنے کے قابل ہو اور عاقلہ نہ ہو تو قاتل پر دینت واجب  
 ہے کیونکہ دینت شروع میں قاتل پر واجب ہوتی ہے پھر اسے عاقلہ

لم یکن له عاقلۃ وله یبار و هو مذہب الشافعی  
لان الذیۃ تجب ابتدآء علی القاتل ثم تتحملها  
عند العاقلۃ علی وجه التخفیف عند النفوس  
له والموا سألہ فی الغرامة لما بینہما  
من التوارث وقد عدمت العاقلۃ ہہنا  
فوجب علیہ لاسیما و هو فی حالة التوبۃ  
والخروج من المظالم والتورع والمخلص عن  
حقوق الادمیین واما ان كان القتل عمدا  
فلا یتخلص الا بالقصاص وکن ذلک ان کان دون  
النفس فی محل یمکن الاقتصاص منه فان کان  
فی النفس فالجلا مع الوارث وان کان فیما  
دون النفس فمع المجنی علیہ فان طابت النفوس  
باسقاط ذلک والعفو عنہ سقط وان طلبوا  
العفو علی مال بدلہ وتبراعن عہد نہ فان  
قتل قتیلًا ولم یعرف انہ هو القاتل کان علیہ  
ان یعترف عند ولی الدم ویجکد فی روحہ  
فان شاء عفی عنہ وان شاء قتله او اخذ  
المال علیہ ولا یجوز لہ اخفاء لانه لا یسقط  
بمجرد التوبۃ فان قتل جماعة فی اوقات  
مختلفة و محال متعديۃ وقد تقدم الزمان ولا  
یعرف اولیاء ہم ولا عد من قتلہم احسن  
توبتہ وعملہ واقام علی نفسه حد اللہ بالواجب  
المجاهدات والتعديب لہا والعفو عن ظلمہ  
واذا لا وعنت الرقاب وتصدق بمال و  
اکثر النواقل لیفرق ثواب ذلک علیہم

ازراہ تخفیف و نصرت و غیر خواہی اپنے ذمہ لے لیتی ہے کیونکہ دونوں میں  
سے ہر ایک کو دوسرے کی میراث ملتی ہے اور موجودہ صورت میں عاقلہ  
نہیں لہذا قاتل پر دیت واجب ہے خصوصاً ایسی صورت میں کہ وہ قتل  
سے توبہ کر رہا ہے اور مظالم کے بارے سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے اور  
پارسی کی زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے اور حقوق العباد سے  
چھٹکارا چاہتا ہے۔

اگر جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے تو قصاص (قتل کے جانے) کے بغیر  
چارہ نہیں لیکن اگر قتل سے نیچے کی جنایت ہے اور اسے محل میں ہے  
جس سے بدلہ لینا ممکن ہے تو بھی قصاص ضروری ہے اگر کسی کو عمدتاً قتل  
کر دیا ہے تو قصاص کے سلسلہ میں وارثوں سے بات چیت کی جائے اور  
اگر قتل سے نیچے کی جنایت ہے تو اس سلسلہ میں مظلوم سے گفتگو کی جائے  
اگر مظلوم کے وارث قصاص معاف کر دیں اور ظالم کے تقور سے رگڑ  
کریں تو جنایت کا گناہ ظالم سے ساقط ہو جاتا ہے لیکن اگر قصاص  
معاف کر دیں اور اس کے بدلہ مال (دیت) چاہیں تو دیت ادا کر  
دی جائے دیت دے کر جنایت کے گناہ سے ظالم سبکدوش ہو جائے گا  
اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور قاتل کا علم نہ ہو سکا تو قاتل پر لازم ہے کہ  
مقتول کے ولی کے پاس جا کر قتل کا اقرار کرے اور اپنی جان کے بارے  
میں اسے بیچ بندے خواہ وہ اسے معاف کر دے یا قتل کر دے یا  
لے لے قاتل کو قتل کا چھپانا جائز نہیں کیونکہ قتل کا گناہ محض زبان  
توبہ سے ساقط نہیں ہوتا اگر کسی نے مختلف اوقات میں مختلف مظلوموں  
پر بہت سے قتل کئے ہیں اور انہیں ایک زمانہ گزر گیا اور مقتولوں  
کے اولیاء کا بھی پتہ معلوم نہیں اور قاتل قتل کئے جانے والوں کی  
تعداد بھی بھول گیا تو ایسی صورت میں قاتل پر خلوص توبہ کرے اور  
بیک عملوں میں مشغول رہے اور قسم قسم کے مجاہدے اور ریاضتیں  
کر کے اپنے اوپر اللہ کی حدیں جاری کرے اور نفس کو ایذا سے



على قدر حقوقهم يوم القيامة فينجو وهو  
 يدخل الجنة برحمة الله تعالى التي وسعت  
 كل شيء وهو ارحم الراحمين ولا فائدة الا  
 ذاك في التحدث بما جرى عليه من الزنا والقتل  
 والجراحات وقطع الطريق اذا لا يعتبر باربها  
 ومستحقها ليوفيهم اوليتهم من غير  
 اشتغال باذكارنا ولا وكذا ان زنا وشرب  
 ان سرق ولا يعرف مالها او قطع الطريق  
 ولا يعرف المقطوع عليه او باشر امرأة دون  
 الفرج مما يجب فيه حد الله والتعزير فانه  
 لا يلزمه في صحة التوبة ان يفضح ويهتك  
 سترة ويلتقم من الامام والمحاكم اقامة  
 الحد ودفعه بل يستتر بستر الله تعالى و  
 يتوب الى الله عز وجل فيما بينه وبين الله و  
 يشتغل بالزواج المجاهدات من صيام النهار  
 والتقليل من المباح واللذات وقيام الليل  
 وقراءة القرآن وكثرة التسليم والتورع  
 وغير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم  
 من اتى بشئ من هذه القافورات فليستتر  
 بستر الله تعالى ولا يبدي لنا صفحته فان من  
 ابد لنا صفحته اقمنا عليه حد ود الله  
 فان خالف ما قلناه ورفع امره الى الوالي  
 فاقام عليه الحد وقع موقعه وصحت توبته  
 وتكون مقبولة عند الله وبرئ من عهده  
 ذنبه وتطهر من اثمه ولطخه واما الاموال

اور اگر کسی نے اس پر ظلم کیا ہے یا ایذا پہنچائی ہے تو اسے معاف کرنے اور غلام  
 آزاد کرنے اور اللہ کی راہ صدقہ کرے اور کثرت سے نوافل عبادتوں میں درگاہ  
 دھوپ کرتا رہے تاکہ قیامت کے دن قتل کئے جانے والوں پر ان کے حقوق  
 کے مطابق ان عملوں کا ثواب بانٹ دیا جائے اور قاتل نجات پا جائے اور  
 اللہ کی رحمت سے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے جنت میں چلا جائے کیونکہ  
 اللہ کی رحمت کی حدود انتہا نہیں، اس صورت میں کہ قاتل کو مقتولوں کے  
 ورثہ کا پتہ نہیں قاتل کو اپنے قتلوں کے بارے میں اور دیگر جنابتوں کے  
 بارے میں گفتگو کرنی مناسب نہیں اور بے فائدہ ہے کیونکہ قاتل مقتولوں کے  
 وارثوں کو اور مستحق لوگوں کو جانتا نہیں کہ انہیں ان کا پورا پورا حق  
 ادا کرے یا ان سے معاف کر لے لہذا انہیں باتوں پر عمل کرے جو ہم نے  
 اوپر بیان کی ہیں اسی طرح اگر کسی نے زنا کیا ہے یا شراب پی ہے یا چوری  
 کی ہے اور مالک کو پہچانتا نہیں یا راستہ میں لوگوں کو لوٹا ہے اور جن کو  
 لوٹا ہے انہیں جانتا نہیں یا شرمگاہ کے علاوہ عورت سے مباشرت کی ہے  
 جس پر حد یا تعزیر واجب ہوتی ہے تو اسے تصحیح توبہ کے لئے ان گناہوں  
 کو ظاہر کر کے خود کو رسوا کرنا اور امام یا حاکم سے اپنے اوپر حد جاری کروانا  
 لازم نہیں بلکہ ان گناہوں کو اللہ کے پردے میں چھپائے رکھے اور جو کچھ  
 اس کے اور اللہ کے درمیان واقع ہو چکا ہے اس سے اللہ سے توبہ کر لے  
 اور قسم قسم کی ریاضتوں میں مشغول رہے روزے رکھے مباح چیزیں کم  
 استعمال کرے لذتیں چھوڑ دے رات میں تہجد نوافل اور قرآن پڑھے  
 کثرت سے ذکر اللہ میں لگا رہے اور پرہیز و تقویٰ اختیار کر لے رحمت عالم  
 صلعم نے فرمایا: جو شخص ان گناہوں کا ترکب ہو تو اسے اللہ کے پردے  
 میں چھپا رہنا چاہیے اور ہمارے پاس آکر اپنے گناہ نہ کھولے کیونکہ ہمارے  
 پاس آکر اپنے گناہ کھولے گا ہم اس پر اللہ کی حدیں جاری کر دیں گے۔  
 لیکن اگر کسی نے امام کے پاس آکر اپنا گناہ ظاہر کر دیا اور اس نے اس پر  
 حد جاری کر دی تو امام نے اپنا فرض ادا کیا اور مجرم کی توبہ صحیح ہو گئی اور

فان كان تناول مال النان بغير اذنه او سرقة او قطع طريق او خيانة في عين من ودیعة او عارية او معاملة من نوع تلبیس و تزویج زائف او ستر عیب فی المبیع او لقص اجرة اجیر او منع اجرتہ جملة فكل ذلك علیه ان یفتش عنه لا من مدة بلوغه بل من مدة وجوده لك بعد بلوغه وعقله و تمييزه او قبل بلوغه وهو في حجر وليه و وصیه و اختلط ماله بماله و تنهاون الولی فی ذلك و لم یبال به بان كان ظالما مخرقا فی دینه فاختلف ذلك الحرام ببال الصبی تارة من فعل الصبی و اخرى من ظلم الوصی و حب علی الصبی التائب بعد بلوغه تفتیش ذلك و رد كل حق الی اهلہ و تصفیة ماله من تلك الشبهات و الحرام فلینحاسب نفسه علی الحیات و الذرات من اول یوم جناسته الی یوم اوتته قبل ان یاتیه الموت علی غفلة من غیر حساب و تقوم علیه القيامة علی غرة من غیر تعصیل ثواب و تهدیب کتاب فیسال فلا یسمع جوابا و یندم فلا ینفعه الندامة و ینتعب فلا یعتب و یعتذر فلا یجذر و ینتمهل فلا یمهل و ینستشفع فلا یشفع له اذ كان مفراطا فی حال حیوته و مخرقا فی حال یقظته و فطنته منتظرا فی امور معاشه حرایبا فی تحصیل شهواته و

اللہ نے بھی اسے قبول فرمایا اور مجرم اپنے گناہ کے بارے سے سبکدوش ہو گیا اور گنہ کی گندگی جو اس کی قہا پر لتھڑ گئی تھی اس سے پاک ہو گیا۔

اگر کسی نے کسی کا مال چھین کر یا چوری کر کے یا راہ گیر کو لوٹ کر یا امانت میں خیانت کر کے یا مانگی ہوئی چیز کا انکار کر کے یا معاملہ میں کسی قسم کا

دھوکا کر کے لے لیا جیسے کھوٹے سکڑے چلا دیا یا کسی چیز کا عیب چھپا کر اسے بیچ دیا یا مزدور کو مزدوری کم دی یا مار ہی لی تو اسے چاہیے کہ ان تمام گناہوں کی تحقیق کرے کہ جرائم کب کس وقت اور کس زمانہ میں کئے

تھے انہیں بلوغت کے زمانہ کے آغاز سے شمار کرنا ضروری نہیں بلکہ ان کی تفتیش خواہ بلوغت اور عقل و تیز کے بعد ان کے معرض وجود میں آنے کے وقت سے کی جائے یا قبل از بلوغت کی جائے جب کہ اپنے ولی اور وصی

کی زیر نگرانی تھا اور اس کا مال ولی کے مال سے ملا جلا تھا اور ولی نے اس کا مال علیحدہ کرنے میں سستی کی تھی اور اس کے خیال میں یہ بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ کام ظلم ہے اور میرے دین میں در راہ پیدا کرتا ہے اس طرح

وہ حرام مال اس کے مال میں مل گیا کبھی بچے کے نعل سے ملا اور کبھی ولی کے ظلم سے تو توبہ کرنے والے بچہ پر بالغ ہونے کے بعد اس کی تفتیش و کرپہ واجب ہے تاکہ حق برحق دار کو لوٹا دیا جائے اور ان شہادت و حاکم

سے بچہ کا مال پاک ہو جائے اسے اپنے نفس سے ایک ایک دانہ اور ایک ایک ذرہ کا گناہوں کے پہلے دن سے لے کر توبہ کے دن تک موت آنے سے پہلے پہلے حساب کر لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بلا حساب کے غفلت

میں موت آجائے پھر قیامت آجائے اور وہ دھوکے میں رہے اور ثواب برباد کرے اور اعمال نامہ نہ نکھارے قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی اور اس کا عذر ناقابل قبول ہوگا اس کی ندامت سے کچھ حاصل

نہ ہوگا اور کوئی عذر قابل پذیرائی نہ ہوگا اور مہلت مانگے گا تو مہلت بھی نہیں دی جائے گی اور سفارش کرے گا تو وہ بھی ٹھکرا دی جائے گی

کیونکہ زمانہ حیات میں کوتاہی برتی تھی اور بیداری اور رہنمائی کے



ولذاتہ متالجالہوا لا ولشیطانہ معرنا  
 عن طاعة ربہ وجتابہ متثبطا عن اجابتہ  
 متسارعا فی معصیتہ وخلافہ فلذ لك طال  
 فی القیامة حسابہ وعظم ویلہ ونجیبہ  
 واقطع ظہرہ ونکس رأسہ واشتد تخلفہ  
 وحیاؤہ واقطعت حجنتہ وبرہانہ واخذت  
 حسناتہ وتضاعفت سیئاتہ وخسرت  
 صفتہ وظہر اقلاسہ واشتد علیہ  
 غضب ربہ واخذہ واخذتہ الزبانیۃ  
 ایاہ الی مامہد لنفسہ من عذاب ربہ  
 واولقہا واوردها فساوی من فی النار من  
 قارون وفرعون وهامان اذ مظالم العباد  
 لا تسامح فیہا ولا تترك و فی الاثر ان العبد  
 لیوقف من بین یدی اللہ لعالی ولہ من  
 الحسنات امثال الجبال لو سلت لہ لکان  
 من اهل الجنان فیقوم اصحاب المظالم  
 فیكون قد سب عرض ہذا واخذ مال  
 ہذا و ضرب ہذا افتقص حسناتہ فلا  
 یبقی لہ شیء فیقول الملائکۃ یا رب  
 فنیبت حسناتہ ولقی طالبون کثیرا فیقول  
 القوا من سیئاتہم الی سیاتہ وصکوا لہ  
 مکالمہ النار فیہلک ہر بسینۃ غیرہ بطریق  
 القصاص فکذلک یجوز المظلوم بحسنۃ  
 الظالم اذ ینقل الیہ عوضا مما ظلمہ ورتب  
 ما نثرتہ رض عن رسول اللہ صلی اللہ

زمانہ میں اپنے دین میں سوراخ کرتا رہا تھا اور روزگار کے سولات میں  
 منتظر رہتا تھا اور شہوتوں اور لذتوں کے حاصل کرنے کا حریص تھا اور  
 ہوئی اور شیطان کا پیروکار تھا اور رب کی اطاعت سے اور اس کی  
 بارگاہ سے منہ پھیرے ہوئے تھا اس کے فرمان کو قبول کرنے میں سست  
 تھا اور گناہوں میں اور خلاف فرمان چلنے میں چست تھا اسی لئے قیامت  
 میں اس کا حساب طویل ہوگا اور اس کی خرابی اور آہ و بکا عظیم ہوگی  
 اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، امر جھک جائے گا انتہائی پیشانی اور خجالت  
 ہوگی، بڑی زبردست شرم محسوس کرے گا حجت و برہان ختم ہو  
 جائے گی، نیکیاں لے لی جائیں گی برائیاں بڑھادی جائیں گی، اس کا  
 سودا خسار سے والا ہوگا، افلاس ظاہر ہوگا اس پر رب کا غضب  
 بھڑکے گا اس کی کپڑے سخت ہوگی اور جہنم پر موکل فرشتے اسے پکڑ لیں گے  
 اور اس عذاب کی طرف لے جائیں گے جو اس نے اپنے لئے خود فرمایا  
 کیا ہے اور اپنی جان ہلاکت میں ڈالی ہے اور جہنم میں جھونک دی ہے  
 یہ جہنم میں قارون، فرعون اور ہامان کے ساتھ برابر کا حصہ دار ہوگا  
 کیونکہ حقوق العباد میں چشم پوشی روا نہیں اور نہ وہ چھوڑے جاسکتے  
 ہیں ایک حدیث میں ہے کہ بندہ حق تعالیٰ اجل مجرہ کے سامنے کھڑا کیا  
 جائیگا اور اس کے پاس پہاڑوں جسی نیکیاں ہوں گی اگر یہ نیکیاں بچ  
 جائیں تو جنتی بنتا لیکن اگر باہر حقوق کھڑے ہو گئے اس نے کسی کی آبرو  
 ریزی کی ہوگی، کسی کا مال ڈکارا ہوگا اور کسی کو مارا پٹیا ہوگا پھر  
 قصاص میں انہیں اس کی نیکیاں دیدی جائیں گی اور اس کے لئے ایک  
 نیکی بھی نہ بچے گی، فرشتے عرض کریں گے یا رب اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں  
 لیکن طلبگار حقوق ابھی بہت باقی ہیں حکم ہوگا ان کی برائیاں اس کی  
 پراپیوں میں نلادو اور اس کے لئے جہنم میں جانے کے لئے اجازت نامہ  
 لکھ دو پھر یہ بیچارہ ازراہ قصاص دوسروں کی برائیوں کی وجہ سے  
 ہلاک ہو جائے گا اسی طرح مظلوم ظالم کی نیکیوں کی وجہ سے نجات



علیہ وسلم انه قال الداوين مثلثة  
 ديوان يغفره الله تعالى وديوان لا يغفره الله  
 وديوان لا يترك منه شيء فاما الديوان الذي  
 لا يغفره الله تعالى فالشرك بالله جل جلاله  
 قال الله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله  
 عليه الجنة وما والا النار واما الديوان  
 الذي يغفره فظلم العبد نفسه فيما بينه  
 وبين ربه واما الديوان الذي لا يترك منه  
 شيء فظلم العباد بعضهم لبعضا وعن ابي هريرة  
 رضي الله عنه انه قال اتدرون من المفلس  
 من امتي يوم القيامة بصلاته وصيامه قالوا  
 يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له  
 ولا متاع قال النبي صلى الله عليه وسلم  
 المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة بصلوته  
 وصيامه وقد شتم هذا وقد قذف هذا  
 واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا  
 فيقاس هذا من حسناته وهذا من حسناته  
 وان فويت حسناته اخذ من خطاياهم  
 فطرحت عليه ثم طرح في النار فينبغي  
 للمذنب ان يبادر الى التوبة وروى عن ابن  
 عباس رضي عنهما عن النبي صلى الله عليه  
 وسلم انه قال هلك المستوفون الذين  
 يقولون سوف نتوب وروى عن ابن عباس  
 رضي في قوله عز وجل بل يريد الانسان  
 ليفجر امامه يعني لقد مذلوبه و لو خسر

پا جائے گا کیونکہ اس کی طرف بقدر ظلم بدلہ میں ظالم کی نیکیاں منتقل کر دی  
 جائیں گی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے فرمایا: تین قسم کے دفتر ہیں ایک دفتر تو وہ ہے جسے حق تعالیٰ بخند سے گا  
 ایک دفتر وہ ہے جسے بخشنا جائے گا اور ایک دفتر سے کوئی چیز نہیں  
 چھوڑی جائے گی جو دفتر بخشنا جائے گا وہ اللہ کے ساتھ شرک والا  
 دفتر ہے فرمایا: جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام  
 فرمادی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو دفتر بخند یا جائے گا وہ  
 گناہوں والا دفتر ہے کہ انسان نے گناہ کر کے جو اس کے اور اللہ کے درمیان  
 ہیں اپنے نفس پر ظلم کیا اور جس دفتر میں کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی  
 وہ بعض بندوں کا بعض پر ظلم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے  
 سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو قیامت کے دن نمازوں اور روزوں  
 باوجود میری امت میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول ہم میں تو  
 وہ ہے جس کے پاس پیسہ اور ساز و سامان نہ ہو، فرمایا: قیامت کے دن میری  
 امت کا مفلس وہ ہے جو نمازوں اور روزوں کو لے کر آئے گا اور اسے  
 گالی دی ہوگی اس پر الزام لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بیاہا  
 ہوگا اور اسے مارا ہوگا لہذا انقصاص میں برابر کو اس کی نیکیاں دے دی  
 جائیں گی اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ہر ایک کی برائیاں اس پر ڈالی  
 جائیں گی آخر کار وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا لہذا گناہ کو لازم ہے کہ  
 توبہ کی طرف جلدی کرے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا: سوف استعمال کر نیوالے (یعنی توبہ میں دیر کر نیوالے) بلا کہ ہو  
 جو کہا کرتے ہیں عنقریب ہم توبہ کر لیں گے۔ حضرت ابن عباس: بل میرے  
 الانسان ليفجر امامه (یعنی بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے گناہ کرتا ہی  
 چلا جائے) کی تفسیر میں: یعنی پہلے گناہ کر لیتا ہے اور توبہ میں دیر کرتا ہے  
 اور یہی کفار ہوتا ہے ان توبہ کر لوں گاتھے کہ اسی گناہ پر توبہ آجاتی ہے  
 اور توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ جان پر



توبتہ و یقول ساتوب حتی یاتید الموت و  
 ہو علی شرم ما کان علیہ فی موت علیہ وقال  
 لقمان الحکیم لابنہ یا بنی لا تخر التوبۃ الی  
 غد فان الموت یا تیک بغتۃ فالواجب علی  
 کل احد ان یتوب حین یصبح و حین یمسی  
 قال مجاہد من لم یتب اذا أصبح و امسى  
 فهو من الظالمین فالتوبۃ علی وجهین احد  
 ہما فی حق العباد وقد ذکرھا والثانی بینک  
 و بین اللہ تعالیٰ فیكون بالاستغفار باللسان  
 و بالندم بالقلب و الاضرار ان لا یعود علی ما  
 اشرنا الیہ من قبل فلیجتهد ہذا التائب  
 من الظلم و یبذل جہدہ فی تکثیر الحسنات  
 حتی یقتص منه یوم القیامۃ فتؤخذ حسناتہ  
 و توضع فی موازین ادبَاب المظالم و لیکن  
 کثرۃ حسناتہ بقدر کثرۃ مظالمہ للعباد  
 و الالہک لسیئات غیرہ و ہذا الیوجب  
 استغراق جمیع العسر فی الحسنات لو طال عسرہ  
 بحسب مدۃ الظلم فکیف و الموت علی الود  
 و ربما یكون الاجل قریبا فتختزمہ المنیۃ  
 قبل بلوغ الامنیۃ و قبل اخلاص العمل و  
 تصحیح النیۃ و تصفیۃ اللقمۃ فلیبادر الی ذلک  
 و لیبذل الاجتہاد فیکتب جمیع ذلک و اسما  
 اصحاب المظالم و احد او احد او یطوف نواحی  
 العالم و اطراف البلاد و اقطارھا و یطلبہم  
 لیستحلہم اذ یؤدی حقوقہم فان لم یجد

توبہ کل پرمت چھوڑ کیونکہ موت اچانک آجاتی ہے اس لئے ہر شخص پر واجب  
 ہے کہ روزانہ صبح و شام حق تعالیٰ سے بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی  
 مانگے اور اس کے جناب میں پر خلوص توبہ کرتا رہے۔ مجاہدؒ جس نے  
 روزانہ صبح و شام توبہ نہیں کی وہ ظالم ہے۔

لہذا توبہ دو قسم کے گناہوں سے کی جاتی ہے حقوق العباد میں کسی کی حق تلفی  
 سے جسے ہم بیان کر چکے اور حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ضائع  
 کرنے سے آخرالاکر تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے اس میں زبان سے  
 اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے اور دل میں پشیمانی و ندامت ہوتی ہے  
 اور یہ لپکا ارادہ ہوتا ہے کہ آئندہ اس نوع کا کوئی گناہ نہ کروں گا۔  
 جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں لہذا گناہوں سے توبہ کرنے والا توبہ کرنے  
 میں پوری سرگرمی دکھائے اور جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ نیکیاں  
 کرتا رہے تاکہ قیامت کے دن قصاص کو نوبت نہ آئے کہ اس کی نیکیاں لیکر  
 ارباب حقوق کی تلوں میں رکھ دی جائیں یا درکھے بقدر کثرت مظالم  
 نیکیوں کی کثرت ہونی چاہیے ورنہ دوسروں کی برائیوں سے ہلاکت کا اندیشہ  
 ہے لہذا اگر اس کی عمر دراز ہوتی تو وہ واجب تھا کہ بمقدار مدت ظلم تمام  
 عمر نیکیوں ہی میں مستغرق رہتا لیکن آہ موت تو ہر وقت گھات میں ہے تو  
 توبہ ہی ہوتا ہے کہ تنائیں بر آنے سے پہلے اور اخلاص عمل تصحیح نیت اور  
 حلال و طیب طعام سے قبل ہی جلدی ہی موت آکر سالسوں کا سلسلہ منقطع  
 کر دیتی ہے اور انسان کو اتنی بھی مدت نہیں ملتی کہ بقدر ظلم کی مدت کے  
 نیکیاں کر لے لہذا توبہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے اور اس میں اپنی پوری  
 طاقت صرف کر دینی چاہیے اس لئے جس قدر حق تلفیاں کی ہیں ان سب  
 کی ایک فرست تیار رکھو اور اصحاب حقوق کے ناموں کی بھی فرست  
 تیار کرو اور دنیا کے گوشہ گوشہ اور چپہ چپہ میں گھوم انہیں ڈھونڈنا کہ  
 ان سے معاف کرالو یا ان کے حقوق ادا کرو اگر وہ نہ ملیں تو ان کے  
 وارثوں کو ان کے حقوق ادا کرو اور اس کے باوجود بھی اللہ کے

قالی ورتھم وھومع ذلک خائف من عذاب اللہ  
راج لرحمته تأب مقلع جبیع ما یجوزہ مولانا  
مستوفی طاعتہ ومرضاتہ فان ادراکتہ  
منیتہ وھو علی ذالک فقد وقع اجرہ علی اللہ  
قال اللہ عزوجل ومن ینخرج من بیتہ مهاجراً  
الی اللہ ورسولہ ثم یدرکھ الموت فقد وقع  
اجرہ علی اللہ وقد جاء فی الصحیحین المتفق  
علیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم انه قال کان فیس کان  
قبلکم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً  
عن اعلم اهل الارض فدل علی راحب فاتا  
فقال له ائتہ قد قتل تسعة وتسعين نفساً  
فهل له من توبتہ فقال لا فقتلہ فکمل  
به مائة ثم سال عن اعلم اهل الارض  
فدل علی رجل عالم فاتا فقال انه قد قتل  
مائة نفس فهل له من توبتہ قال نعم ومن  
یحول بینک وبين التوبتہ انطلق الی الارض کذا  
وکذا فان بهانا سالیعون لله ذاعب اللہ  
معهم ولا ترجع الی ارضک فانہ ارض سوئے  
فانطلق حتی اذا انتصف الطريق اتا کما موت  
فاختتمت فیہ ملائکة الرحمة وملائکة  
العذاب انه لم یعمل خیراً قط فاتاھم ملک  
فی سورة ادمی فجعلوا بینھم حکماً فقال قبسوا  
ما بین الارضین الی ایھما کان ادنی فھولہ  
فقاسوا فوجدوا ادنی الی الارض التي اراد

عذاب سے ڈرتے رہو اس کی رحمت کے امیدوار رہو۔ وقت رو رو کر توبہ  
کرتے رہو اور تمام ان باتوں سے کنارہ کش رہو جن سے تمہارا آقا ناراض  
ہوتا ہے اور اطاعت و رضامندی کر سکتے ہو اگر تمہیں اس حال پر موت آ  
جائے تو مبارک ہو حق تعالیٰ تمہارا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت  
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
تم میں سے کسی امت میں ایک شخص نے ۹۹ قتل کر ڈھے تھے پھر اس نے  
لوگوں سے پوچھا کہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا عالم بتا دو، لوگوں نے  
ایک راہب کا پتہ بتا دیا تو اس راہب کے پاس آیا اور اس سے  
پوچھا کہ اب تک میں نے ۹۹ آدمی قتل کئے ہیں کیا حق تعالیٰ میری توبہ  
قبول فرمائے گا؟ راہب نے کہا نہیں اس نے اس راہب کو بھی قتل کر  
ڈالا اس سے پورے سو خون ہو گئے پھر پوچھا کہ مجھے دنیا کا سب سے  
بڑا عالم بتا دیا جائے، لوگوں نے ایک دوسرے عالم کو بتا دیا، تو اس  
عالم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں نے سو خون کئے ہیں کیا میری توبہ  
قبول کر لی جائے گی؟ عالم کہتا ہے: ہاں، بھلا تمہارے اور توبہ کے  
درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں لوگ  
اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی عبادت میں لگ جاؤ اور  
اپنے وطن میں واپس نہ آؤ کیونکہ وہ برا علاقہ ہے یہ ہدایت پا کر تامل چل  
پڑتا ہے اور نصف راستہ طے کر لیتا ہے کہ اسے موت آجاتی ہے اب  
اس کی روح آسمان پر لے جانے کے لئے رحمت و عذاب کے فرشتے  
کھتے ہیں کہ اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی (اس لئے اس کی روح پر ہمارا  
حق ہے) پھر انسانی روپ میں ایک فرشتہ آتا ہے دونوں اسے پیچ  
چن لیتے ہیں وہ کہتا ہے دونوں شہروں کی مسافت باپ لو جس شہر  
کے قریب ہو اسی کا حکم لگا دو چنانچہ مسافت باپنی جاتی ہے اور جس  
شہر کو جا رہا تھا اس کے قریب پایا جاتا ہے بالآخر اسے رحمت کے  
فرشتے اٹھالیتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ صالح بستی سے لقمہ



فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية فكان الى  
القريبة الصالحة اقرب لبشر فجعل من اهلها وفي  
رواية فادعى الله عز وجل الى هذه الت  
تباعدي والى هذه ان تقربى وقال قيسوا  
ما بينهما فوجدوا الى هذه اقرب بشبر  
فغفر له فخذ ادليل واضم على ان تصد  
الى التوبة وسعيها اليها ونيتة لها نافع و  
دليل على انه لا خلاص الا برحمان ميزان  
الحسنات ولو يمثقال ذرة فلا بد للتائب من  
تكثر الحسنات والنوافل ليرضى بها الخصور  
يوم القيامة وترفع بها الفرائض كما قال النبي  
صلى الله عليه وسلم اكثر وا من النوافل يرفع  
بها الفرائض او كما قال ويعقد مع الله تعالى  
عقدا صحيا مؤكدا وعهدا وثيقا لا يعود  
الى تلك الذنوب ولا الى امثالها ابد اولى يتعين  
على ذلك بالعزلة والصمت وقلة الاكل  
وقلة النوم واحراز قوت حلال والتورع  
عن الحرام والشبهة اما بكسب او لبضاعة  
في يده من ارض او سبب حلال فان كان فيما  
ورثه شبهة او حرام اخرج به ولم ياكل  
منه ولم يلبس بشئ منه فان داس المعاصي  
الحرام وملاك الدين الحلال والتورع  
وتصفية اللقمة فكل ما ينشأ من انسان من خير  
وشرف من اللقمة فالحلال يورث الخير والحرم  
يورث الشر كما بقدر اذا طعم ما فيها واستنكر

ایک بالشت کے قریب ہوا تھا اس لئے اسی بستی والوں میں سے شمار کر لیا گیا  
ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ نے بری بستی دور ہونے کا اور اچھی  
بستی کو قریب ہونے کا حکم فرما دیا اور کہا دونوں بستیوں کی مسافت آپ  
کو پھر لوگوں نے اسے اچھی بستی سے ایک بالشت قریب پایا اور فرمایا  
اسے بخش دیا گیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ توبہ کے لئے اس کی نیت  
و کوشش اور اس کا قصد مفید ہے اور اس پر بھی دلیل ہے کہ نجات کیوں  
کے پلہ کے چھکنے پر ہے اگرچہ بقدر رائی کے دانہ کے وزن کی برابر ہی  
جھکاؤ ہو۔ نتیجہ صاف ہے کہ تائب کو کثرت سے نیکیاں کرنی چاہئیں اور  
اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ ان سے قیامت کے دن جھگڑنے  
والوں کو راضی کر سکے اور ان سے فرائض اور نیچے چڑھ سکیں جیسا کہ  
نبی صلعم نے فرمایا: کثرت سے نوافل میں مشغول رہو کہ ان سے فرا  
بند کئے جائیں یا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انسان اللہ سے صحیح صحیح اپکا اور  
منضبوط عند باندھے کہ وہ گناہ یا ان جیسے گناہ آئندہ کبھی نہیں کریگا  
اور اس عہد پر کہ نشینشی خاموشی کم کھانے اور کم سونے احلال روز  
پیدا کرنے اور حرام سے بچنے کے ساتھ دروسے اگر ذاتی کمائی میں یا میراث  
سے یا کسی حلال سبب سے جو رقم ملی ہے اس میں شبہ ہو یا یقینی طور پر  
حرام ہو اسے نکال ڈالو اور اس میں سے ایک پانی بھی استعمال نہ کر دو  
کیونکہ تمام گناہوں کی چوٹی حرام ہے اور دین کی جو طلال، مختا اور  
پاک روزی ہے جو بھی نیکی یا بلدی انسان سے سرزد ہوتی ہے سب  
روزی سے ہوتی ہے حلال روزی سے خیر دیکھی پیدا ہوتی ہے اور حرام  
سے شیطنت اور بری جیسے ہانڈی میں کوئی چیز ڈال کر پکائی جائے تو اچھی  
چیز کی خوشبو اچھی نکلے گی اور بری کی بری یہ بوسہ بتا دے گی کہ ہانڈی  
میں کیا ہے ہر برتن سے وہی ٹپکتے جو اس میں ہوتا ہے۔ مستند فقہاء  
اور علماء کی مجلسوں میں کثرت سے اٹھو بیٹھو اور ان سے صحیح صحیح دینی  
معدوات بڑھاؤ، علماء ہی تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہیں بتائیں گے

نضجه تبين الرائحة الفائحة عما فيهما كل انا  
 ينضم بما فيه ويكثر مجالسة القمهاء والعلماء  
 بالله يستفيد منهم امر دينه ويعرفونه  
 سلوك الطريق الى الله تعالى وحن الادب  
 في طاعته والقيام في امره وينبھونه  
 على ما خفى عليه من امر السلوك في طريقه  
 فلا بد لكل من سلك طريقا لم يعرفه من  
 دليل يديه ومرشد يرشده وهادي  
 يهديه وقائد يقوده وليستعمل المصدق  
 في جميع ذلك والاحلاص والمجد في المجاهدة  
 قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم  
 سبلنا فقد ضمن للمجد الصادق في طريقة  
 الهداية فاذا صدق في ذلك لا يعدم  
 الهداية لان الله لا يخلف الميعاد وليس بظلام  
 للعبيد وهو ارحم الراحمين روف رحيم  
 لطيف مخلقه باد بربيته معين وموفق للمقبلين  
 اليه داع للمدبرين الموليين عنه باللطف يفرح  
 بتوبتهم كالوالدة الشفيقة اذا قدم ولدها  
 من سفر البعيد قال النبي صلى الله عليه  
 وسلم الله افرح بتوبة احدكم من رجل  
 مترارض دوية مهلكة ومعه راحلة  
 عليها طعامه وشرابه وما يصلحه فاضلها  
 فخرج في طلبها حتى كادت نفسه تخرج  
 فقال ارجع الى المكان الذي اضللتها فيه  
 فاموت هناك فارجع الى مكانه فقلبت

اور اطاعت کے اور اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے بہترین آداب و اصول بتائیں  
 گے اور اللہ کی راہ پر چلنے کے لئے جو ضروری باتیں ہیں اور تم کو معلوم نہیں ان  
 سے تم کو آگاہ کریں گے۔

دیکھو ان جانی راہ پر چلنے کے لئے ہر شخص کو ایک راہنما کی ضرورت ہوتی  
 ہے جو اسے صحیح راہ پر لے جائے اور ایسا فرشتہ و ہادی ضروری ہوتا ہے  
 جو اسے راہ کے نشیب و فراز بتاتا ہے اور ایک قائد لازمی ہے جو صحیح  
 صحیح قیادت کے فرائض انجام دے سکے اور ان تمام باتوں میں صدق و  
 اخلاص کو پیش نظر رکھو اور مجاہدہ میں سر توڑ کوشش کرو حق تعالیٰ نے  
 فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان پر یقیناً اپنی راہیں  
 کھول دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے سچے اور سر توڑ کوشش کرنے والوں کے  
 لئے راہ ہدایت کی ضمانت لے لی ہے اگر تم اس راہ پر چلنے کے لئے دل  
 سے کوشش کر گئے تو ہرگز ہرگز ہدایت سے محروم نہ رہو گے کیونکہ  
 کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا  
 اور وہ ان پر سب سے زیادہ مہربان و شفیق ہے اور اپنی مخلوق سے  
 انتہائی نرمی اور محبت و پیار سے پیش آتا ہے اور ان کے حق میں محسن  
 اعظم ہے اور ان کی اعانت فرماتا ہے اور اپنی طرف آنے والوں کو صحیح  
 راہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جو اس سے منہ پھیر کر اور پیٹھ موڑ کر بھاگتے  
 ہیں انہیں محبت بھری آواز سے اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے اور  
 ان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جیسے ایک ماں خوش ہوتی ہے جب اس کا  
 لالہ لاپٹا کسی لمبے سفر سے واپس آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً اللہ  
 اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ جو  
 کسی خطرناک و مہلک جنگل سے گزر رہا ہو، اور اس کے ساتھ اس کی  
 سواری بھی ہو جس پر اس کے کھلنے پینے کا اور اس کے علاوہ دیگر ضروری  
 سامان لدا ہوا ہو پھر وہ اپنی سواری کو گم پٹے پھر وہ اسے ڈھونڈتا ہے  
 پھر سے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی جان لبوں پر آجائے اور قریب



عینہ فغمضها لحظة فاستيقظ فاذا راحته  
 عند رأسه عليها طعامة وشرابه قال  
 علي كرم الله وجهه سمعت ابا بكر رضي الله  
 عنه وهو الصادق قال قال رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم ما من عبد اذنب ذنبا فقام  
 وتوضأ وطلبى واستغفر الله من ذنبه الا كان  
 حقا على الله ان يغفر له لانه يقول جل وعلا  
 ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر  
 الله يجد الله غفورا رحیما واما الاموال  
 الحاضرة المغصوبة فليرد الى المالك ما  
 يعرف له مال كما معينا والى ورثته على ما  
 تقدم وما لا يعرف له مال كما معينا فعليه  
 ان يتصدق به عن صاحبه فان اختلط  
 الحرام بالحلال مثل ان اختلط المغصوب  
 بالارث الحلال حسب واجتهد في معرفة  
 مقدار الحرام وتصدق ببن لك المقدار  
 وترك الباقي له ولعیاله واما الاعراض فهو  
 سب الناس وشتهم مشافهة وهو الجنایة  
 على القلوب وكن لك غیبتهم وذكرهم بالبیح  
 وما لبسوه من الغیبة وهو كل كلام لا یحسن  
 ان یقال له فی وجهه فاذا قال له فی غیبة منه  
 كان قد اغتابه فكفارة ان يذكر له ذلك  
 وليتعله فان كانوا جماعة فواحد واحد  
 ومن مات منهم قبل ذلك تدارك ذلك  
 بتكثير الحسنات على ما ذكرنا كل ذلك اذا

ہو جائے پھر وہ فیصلہ کرے کہ جہاں میں نے اپنی سواری گم کی تھی اسی جگہ چلا  
 جاؤں وہیں مر جاؤں گا پھر اسی جگہ وہ چلا جاتا ہے اور وہاں اس کی آنکھ  
 لگ جاتی ہے اور تھوڑی سی دیر کے لئے سو جاتا ہے اور بیدار ہوتا ہے  
 تو اس کی سواری موع تمام سامان کے اس کے سر پہنے کھڑی ہوتی ہے حضرت  
 علی فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابو بکر سے جو صدیق ہیں سنا کہ رسول اللہ  
 صلعم نے فرمایا: جو بندہ گناہ کرنے کے بعد فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور وضو  
 کر کے نماز پڑھتا ہے پھر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو یقیناً اللہ  
 تعالیٰ اس کا گناہ بخش دیتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: جو کوئی برائی کرے  
 یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے وہ اللہ کو غفور رحیم  
 دیکھنے والا اور مہربان پائے گا اگر غصب کیا ہو مال موجود ہے تو مالک  
 کو لوٹا دو اگر اس کا صحیح مالک مل جائے ورنہ اس کے وارثوں کو دیدو  
 جیسا کہ اوپر گزرا اور اگر اس کا مالک معلوم نہ ہو سکے تو اسے اس کے مالک کی  
 طرف سے خیرات کر دو اگر حرام و حلال ملا جلا ہو جیسے چھینا ہو احرام مال  
 میراث سے ملے ہوئے حلال مال میں مل جائے تو اس کا اندازہ لگاؤ کہ کتنا  
 مال حرام ہے اور کتنا حلال ہے اور حرام کی مقدار معلوم کرنے میں سر توڑ کر  
 کر دو اور اسے خیرات کر دو اور باقی اپنے اہل و عیال کے لئے بچا لو۔ اگر  
 کسی کی عزت و ناموس پر حملہ کیا ہے جیسے بالمشافہ کسی کو گالیاں دیں اور  
 سخت سست کہا تو یہ دلوں پر جنایت ہے یعنی دل آزاری ہے یہی حال  
 غیبت کا ہے کہ کسی کا ذکر عیبوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ پس  
 غیبت کیا کہ اگر وہ سنتا تو اسے برا معلوم ہوتا غیبت ہر وہ بات ہے جو  
 کسی کے منہ در منہ کہنا نامناسب ہے اور اچھی معلوم نہیں ہوتی اگر وہی  
 بات اس کے پس غیبت کی جائے تو غیبت ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی  
 غیبت کی ہے غیبت والی بات اسے بتا کر اس سے معافی مانگ لی جائے  
 اگر پوری جماعت ہو تو فرداً فرداً ہر ایک سے معافی مانگ لو اگر ان میں سے  
 کوئی شخص مر گیا ہو تو پھر غیبت کا تدارک اس طریقہ پر جسے ہم ذکر کر آئے ہیں

بلغتهم الغيبة وأما إذا لم يبلغهم فلا يجب عليه استعجالهم بل لا يجوز لأن فيه إيصال الألم إلى قلوبهم بل يأتي الذين اغتابهم عندهم فيكذب نفسه عندهم ويثني على المغتابين۔

**فصل** ولا بد أن يعرفه قدر جنابية ولا يعرض له في سائر المظالم ولا يكفي في ذلك الاستحلال المبهم لجواز أن المظلوم إذا عرف قدر ظلمه على الحقيقة لم تطب نفسه بالإحلال بل يؤخر ذلك ليوم القيامة ليأخذ بدله من حسنة أو جملة من سيئاته وإن كان من جملة جنابته على الغير ما لو عرفه وذكره لتأذي به بقرته كزناه بجارتيه وأهله ونسبته باللسان إلى عيب خفي من عيوبه يعظم إذا هب فها هنا لا طريق له إلا أن يتعله مبهما ويبقى عليه له مظلمة ما في جبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة الميت والغائب وكل جنابته على الغير لم يعلم بها ولو ذكر الجاني له ذلك لم تطب نفسه بالإحلال بسرعة أو لا يأمن المخبي عليه مقابلته بها فنحن الجاني في ذلك وطريقه أن يتلطف له ويسعى في مهلتاته وأغراضه ويظهر من حبه والشفقة عليه ما يستميل به قلبه فان الإنسان عبد الاحسان وكل من تقر بسببته مال ورجع بحسنة فان تعدر عليه فالكفارة بتكثير الحسنات ليجزي بها في يوم القيامة جنابته فان الله تعالى

نیکوں کی کثرت سے ہو جائیگا یہ سب کچھ اس وقت ہے جب غیبت کی نسبت کئے جائیں اور کو خبر لگ گئی ہو اور اگر خبر نہ لگی ہو تو ان سے معاف کرنا واجب نہیں بلکہ جانتے نہیں کیونکہ خبر کرنے سے ان کا دل دکھے گا لہذا جن کے آگے غیبت کی ہے ان سے کہنے کے میں نے نفاق کے بارے میں جو کچھ کہا تھا میں اس میں قطعی جھوٹا تھا اور ان کے آگے غیبت کئے جانے والوں کی جائز تعریف کرے۔

**دفاع و عووض مظالم** غیبت کے علاوہ تمام مظالم میں ظلم کی

ارباب حقوق کے آگے بیان کرنا مناسب نہیں ہاں غیبت میں مہم طور پر معافی مانگ لینا کافی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ جب مظلوم کو اپنے اوپر ظلم کی مقدار معلوم ہو جائے تو وہ معاف کرنے پر راضی نہ ہو بلکہ قیامت پر فیصلہ چھوڑ دے تاکہ قیامت کے دن ظلم کے بدلہ اسے ظالم کی نیکیاں مل جائیں یا مظلوم کی برائیاں ظالم پر پڑ جائیں اگر کوئی ظلم ایسا ہو کہ اگر اسے مظلوم کو بتایا جائے تو اس سے اسے سخت دکھ پہنچے جیسے کہا جائے کہ میں نے تیری بیٹی سے باہمی سے زنا کیا تھا یا اگر مظلوم کے پوشیدہ عیوب میں سے کسی عیب کو بیان کیا جائے تو اسے جان کر اسے سخت صدمہ ہو تو ایسی صورت میں مہم طور پر معافی مانگنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں اگر مظلوم معاف کر دے تو پھر بھی ظالم کے ذمہ کچھ نہ کچھ ظلم باقی رہ جاتا ہے جس کی نیکیوں ہی سے تلافی ہو سکتی ہے جیسے سرے ہوئے اور غائب مظلوم کے مظالم کی تلافی ہوتی ہے۔ ہر اس غیر معلوم ظلم کے رکھنے والے ظالم سے مظلوم کے سامنے بیان کرے تو مظلوم کا دل گوارا نہ کرے کہ اسے جلدی سے معاف کر دیا جائے بلکہ ظالم کو بھی اسے بیان کر کے تقاضا میں اپنی جان کا اندیشہ ہے) بیان کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ظالم مظلوم کے ساتھ محبت و پیار سے پیش آئے اور اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتا رہے اور ہر امر میں اس کے ساتھ تعاون کرے اور اپنی محبت و شفقت کا اس پر اظہار کرتا رہے اور اس کے کام بنائے تاکہ اس طرح اس کا دل اپنی طرف کھینچ لے کیونکہ احسان و سلوک سے جھکتا ہے جو شخص تمہاری برائی سے بیزار تھا وہی شخص تمہاری نیکیوں کی وجہ سے تمہاری طرف مائل ہو جائے گا اگر یہ کام بھی شکل ہو تو



يحكم به عليه ويلزمه قبول حسناته  
مقابله لجنائته عليه إذا امتنع من القبول  
حسن أتلّف في الدنيا ما لا فناء بمثله  
فامتنع من له الحق عن قبول ذلك  
وابراؤه عن ذلك فإن الحاكم يحكم  
عليه بالقبض شاء أمر لم يشأ وكذا الله  
عز وجل يحكم بذك في عرصات القيامة  
وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين۔

**فصل** فإذا تخلص من مظالم العباد وتفرغ  
لعبادة الله تعالى في خاصته سلك طريق الورع  
لان به يتخلص العبد في الدنيا والاخرة من  
العباد ومن عذاب الله عز وجل وبه يخفف  
عنه الحساب يوم القيامة فإن الحساب يوم القيامة  
لحقوق العباد والمعاملات التي جرت  
في الدنيا بين الأنام على غير وجه الشرع وأما  
من حاسب نفسه في الدنيا، واخذ من الخلق  
ما يستحقه واعرض عما ليس له وخاف من طول  
الحساب في القيامة فعلى أي شيء يعاسب  
وفي الخبر: إن الله تعالى يتعجب أن يعاسب الورع  
في القيامة ولهذا قال النبي صلى الله عليه  
وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا  
قبل أن توزنوا وقال صلى الله عليه وسلم  
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا  
إشارة إلى التوقف في كل شيء وترك الأقدام  
عليه الا باذن الشرع فان وجد في الشرع مسافاً

پھر کفارہ کثرت سے نیکیاں ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے تمہارے  
ظلم کا بدلہ چکا دے کیونکہ اللہ مظلوم کو نیکیاں لینے کا حکم فرمائے گا اور  
مظالم کے بدلے سے نیکیاں قبول کرنی پڑیں گی اگر قبول نہیں کرے گا تو ظالم  
کی اتنی نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی جیسے اگر کوئی کسی کا مال برباد کر دے  
پھر اس کے ہم شرم مال لاکر اسے دے لیکن مال والا ہم مثل مال قبول نہ کرے۔  
اور نہ برباد کرنے والے کو معاف کرے تو حاکم وہ مال ضبط کر کے بیت المال  
میں جمع کر دیتا ہے خواہ مظلوم چاہے یا نہ چاہے اسی طرح حق تعالیٰ سبحانہ قیامت

کے دن میدان محشر میں فیصلہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ بہترین حاکم و عادل ہے۔  
**مظالم سے بسکدوشی کے بعد پارسائی** جب تم لوگوں کے  
حقوق ادا کر کے بسکدوش ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت کے لئے فراغت حاصل  
ہو جائے تو اب پارسائی کی راہ پر تیزی سے چل پڑو کیونکہ پارسائی ہی سے  
انسان کو دنیا اور آخرت میں لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات  
حاصل ہوگی اور اسی سے قیامت کے دن حساب میں تخفیف ہوگی کیونکہ قیامت  
کا دن بندوں کے حقوق کے لئے اور باہمی خلاف شرع معاملات کی باز پرس  
کے لئے ہوگا پھر جو دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا رہا اور لوگوں سے اپنے جائز حقوق  
منوانا رہا اور ناجائز و حرام سے بچتا رہا اور قیامت کے دن والے طویل  
حساب سے ڈرتا رہا اس سے کچھ چیز کا حساب لیا جائے گا؟ ایک حدیث میں  
ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن پرہیزگاروں سے حساب لینے سے شرمائے گا  
اسی لئے نبی صلعم نے فرمایا اپنا حساب خود لے لو قبل اس کے کہ تم سے حساب  
لیا جائے اور اپنے عمل ان کے تولے جانے سے پیسے پہلے تول لو، سرد عالم  
صلعم نے فرمایا: انسان کے حسن اسلام سے غیر ضروری باتوں کا چھوڑ دینا بھی  
اس سے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر بات میں توقف کیا جائے  
اور بلا شرعی اجازت کے اس پر ہرگز ہرگز اقدام نہ کیا جائے اگر شرع اس کی  
اجازت دیتی ہو اور اس میں اس کی گنجائش ہو تو اسے کیا جائے ورنہ اسے  
چھوڑ دیا جائے اور شریعت کے موافق دوسری بات اختیار کی جائے اسی کی

لتناولہ والشروع فیہ فعل والا وقف عنہ  
ومال الی غیرہ والیہ اشار رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم دع ما یریک الی ما لا یریک  
وقال صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن وقاف و  
المنافق لقات وقال صلی اللہ علیہ وسلم  
لو صلیتم حتی تکونوا کالجایا وصنتم حتی تکونوا  
کالذوات فما یفعلکم الا الورع الشافی  
وفی موضع آخر المؤمن فتاش وقال صلی اللہ  
علیہ وسلم من لم یبال من أین مطعمه ومشربه  
لم یبال اللہ تعالیٰ من أی باب من النار یدخله  
عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ایها الناس  
ان أحدکم لن یموت حتی یتکمل رزقہ فلا  
تستبقوا الرزق والتقوا اللہ وأجملوا فی الطلب  
وخذوا ما حلّ لکم وذرّوا ما حرم علیکم  
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا یکتسب العبد  
مالا من الحرام ویصدق بہ فیؤجر علیہ ولا  
ینفق منه شیئا ینبارک لہ فیہ ولا یترکہ خلف  
ظہرہ الا کان زادہ الی النار وقال صلی اللہ علیہ  
وسلم ان اللہ لا یجو الشر بالشر ولکن یمحو  
الشر بالخیر عن عمران بن الحصین رضی اللہ عنہ  
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
ان اللہ تعالیٰ یقول عبدی اذ ما افترضت علیک  
تکن من أعبد الناس واثنتہ عما نہینک عنہ

طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی حدیث سے اشارہ کیا ہے حدیث یہ ہے جو  
چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے اور وہ چیز اختیار کر جو تجھے شک میں  
ڈالنے والی نہ ہو اور آپ نے فرمایا: مومن توقف کرتا ہے اور منافق بلا سوچے  
سمجھے بے پروائی سے کر گزرتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اس قدر  
نمازیں پڑھو کہ تم کمانوں کی طرح جھک جاؤ اور تم اس قدر روزے رکھو  
کہ تم تانت کی طرح لاغر ہو جاؤ تو نماز روزے تمہیں ناندہ پہنچانے والے  
نہیں ہاں پرہیزگاری شفا بخش ہے، ایک حدیث میں ہے مومن خوب  
کرید کرتا ہے رتبہ آگے قدم اٹھاتا ہے (بیزبھی صلعم نے فرمایا: جس نے  
اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا کھانا پینا کہاں سے ہے اس کی اللہ کو بھی  
پرواہ نہ ہوگی کہ اسے جہنم کے کس دروازے جہنم میں جھونکے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو! تم  
تمہیں سے کوئی ہرگز نہیں سزا جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا لہذا روزے  
میں جلدی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور روزی حلال طریقہ سے کمادو ہی طریقہ  
اختیار کرو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال فرمادیا ہے اور اس سے بچو جو حرام  
کر دیا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
فرمایا جو بندہ حرام طریقہ سے روزی کھاتا ہے اور اس سے خیرات کرتا ہے اس کا  
لے اجر نہیں ملتا اگر اس میں سے کچھ خرچ کرتا ہے تو اسے اس میں برکت نہیں  
ہوتی اور اگر اسے چھوڑ کر مر جاتا ہے تو یہ اس کے لئے جہنم کا توشہ بن جاتا ہے  
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا البتہ برائی  
کو نیکی سے مٹا دیتا ہے حضرت عمران بن حصین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندے اگر تو میرے فرض کر دے اور  
ادا کرتا ہے گا تو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا  
اور اگر تو حرام کاموں سے بچے گا تو سب سے زیادہ پرہیزگار ثابت ہوگا  
اور اگر تو میری دینی ہوئی روزی پر نمانعت کرے گا تو سب سے زیادہ  
مال دار ہو جائے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا:



تكن من أوردع الناس واقنع بما رزقتك تكن  
من أغنى الناس وقال صلى الله عليه وسلم  
لأبي هريرة رضي الله عنه كن ورعاتا كن من أعبد  
الناس قال الحسن البصري رحمة الله عليه  
مثقال ذرّة من الورع خير من الف مثقال من  
الصوم والصلاة وأوحى الله تعالى إلى موسى  
عليه السلام لا يتقرب إلى المتقرّين بشئ الورع  
وقيل ردّد دائق موصوفة أفضل عند الله من  
ست مئة حجة مبرورة وقيل سبعين حجة متقبلة  
وقال أبو هريرة رضي الله عنه جلساء الله  
تعالى غدا أهل الورع والزهد وقال ابن  
المبارك رحمه الله ترك فلس من الحرام أفضل من  
مئة فلس يتصدق به روى عن ابن المبارك أنه كان  
بالشام يكتب الحديث ، فانكسر قلبه فاستعاد  
قلما فلما فرغ من الكتابة نسي فجعل القلم في  
مقلته فلما رجع إلى مرور رأى القلم وعرفه  
فتجهز للقدوم إلى الشام لردّ القلم إلى صاحبه  
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه كان  
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  
يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات  
لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ  
لدينه وعرضه ومن لم يمتنع من الشبهات وقع في  
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع  
فيه وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمة  
إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح

پر ہیزگار بن تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا۔

حسن بصری: ایک ذرے کے وزن کی برابر پر ہیزگاری روز سے نماز کے  
ہزار ذرات کے وزن سے بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ پر ہیزگاری سے زیادہ  
کسی عمل سے میرا قرب ..... حاصل نہیں کر سکتے۔ کہا جاتا ہے

چاندی کا ایک دانق (پہ درہم) خیرات کرنا اللہ کے نزدیک چھ سو مقبول  
حجوں سے افضل ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ستر مقبول حجوں سے افضل ہے

حضرت ابو ہریرہ: کل اللہ کے پاس بیٹھنے والے پر ہیزگار دپار صاحب  
ہیں۔ عبد اللہ بن مبارک: حرام کا ایک پیسہ چھوڑنا سو پیسوں کے

صدقہ سے افضل ہے۔ ایک دفعہ عبد اللہ بن مبارک ملک شام میں تھیں  
لکھ رہے تھے اتفاق سے لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ گیا آپ نے کسی سے قلم

مانگ کر لکھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ حدیثیں لکھ کر فارغ ہو گئے تو جس سے  
قلم لیا تھا اسے دینا بھول گئے اور اپنے قلمدان میں رکھ لیا جب آپ مرو

مقام میں پہنچ گئے تو آپ نے اپنے قلمدان میں ..... وہ قلم دیکھا  
اور آپ کو یاد آ گیا کہ یہ فلاں کا قلم ہے تو آپ قلم واپس کرنے کے لئے

پھر شام گئے اور جس کا قلم تھا اسے قلم دے کر واپس آئے۔ حضرت نعمان  
بن بشیر کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلعم سے سنا آپ فرما رہے تھے

حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان مشبہ والی  
چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے پھر جو مشبہ والی چیزوں سے

بچتا رہا اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا اور اپنی آبرو بچالی اور جو ان سے  
نہیں بچا وہ حرام میں پڑ گیا جیسے کوئی چرواہا اپنے جانور چراگاہ کے

آس پاس چرتا ہے قریب ہے کہ وہ چراگاہ میں داخل ہو جائے۔  
دیکھو مہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کے حرام ہے

ہیں یعنی حرام کام اللہ کی چراگاہ ہیں۔ کان کھول کر سن لو جسم میں ایک  
لو تھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور اگر وہ بگڑا ہے

الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله  
 إلا وهی القلب وعن أبي موسى الأشعري رضي الله  
 عنه قال لكل شيء حدّ و حدّ الاسلام  
 الورع و التواضع و الصبر و الشكر فالورع  
 ملازمة الأمر و الصبر النجاة من النار  
 و الشكر الفوز بالجنة و دخل الحسن البصري  
 رحمه الله مكة فرأى غلاماً من أولاد  
 علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد اسند ظهره  
 إلى الكعبة يعظ الناس فوقف عليه الحسن و  
 قال له: ما ملأك الدين فقال الورع فقال ما آفة  
 الدين قال الطمع فتعجب الحسن منه و قال  
 إبراهيم بن أدهم رحمه الله الورع و رعان  
 ورع فرض و ورع حذر ورع الفرض  
 الكف عن معاصي الله و ورع الحذر  
 الكف عن الشبهات في محارم الله تعالى  
 ورع العام من الحرام و الشبهة و هو كل ما  
 كان للخلق عليه تبعة و للشرع فيه مطالبة  
 و ورع الخاص من كل ما كان فيه الهوى  
 و للنفس فيه شهوة و لذّة و ورع خاص  
 الخاص من كل ما كان لهم فيه إرادة و رؤية  
 فالعام يتورع في ترك الدنيا و الخاص يتورع  
 في ترك الجنة و خاص الخاص يتورع في ترك ما  
 سوى الذي خلق و برأ قال يحيى بن معاذ الرازي  
 رحمه الله الورع علي وجهين ورع في الظاهر  
 وهو ألا تتحرك إلا لله و ورع في الباطن

ہوا ہے تو سارا جسم بگڑا ہوا ہے یاد رکھو وہ دل ہے حضرت ابو موسیٰ  
 اشعریؓ: ہر چیز کی حد ہوتی ہے اسلام کی حدیں پارسائی، تواضع، صبر  
 اور شکر ہیں۔ پارسائی تمام نیک کاموں کی جڑ ہے صبر جہنم سے نجات کا  
 ذریعہ ہے شکر کامیابی جنت کا زینہ ہے ایک دفعہ حسن بصریؒ مکہ تشریف  
 لائے آپ نے آل علی کے ایک بچے کو دیکھا کہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھا  
 ہے اور لوگوں کو دُعا سے سمجھا رہا ہے حسنؒ نے ٹھہر کر اس سے پوچھا:  
 دین کی جڑ کیا ہے؟ بولا: ورع و تقویٰ! پوچھا دین کے لئے آفت کیا  
 ہے؟ بولا: لالچ! یہ جواب سن کر حسن حیرت میں رہ گئے۔ ابراہیم  
 بن ادھمؒ: دو قسم کی پرہیزگاری ہے ایک پرہیزگاری فرض ہے اور  
 وہ اللہ کے گناہوں سے کنارہ کش رہنا ہے اور ایک پرہیزگاری  
 احتیاط ہے اور وہ محارم میں شبہ والی چیزوں سے بچنا ہے لہذا عوام  
 کی پارسائی محرام و شبہ والی چیزوں سے ہے اور حرام پر وہ شے ہے  
 جس سے لوگوں کو صدمہ پہنچے اور اس پر شریعت باز پرس کرے اور  
 خواص کی پارسائی ہر اس چیز سے ہے جس میں خواہش نفسانی کو دخل  
 ہو اور نفس کے لئے اس میں شہوت و لذت ہو اور خواص الخواص کی  
 ہر اس چیز سے ہے جس میں ان کے لئے ارادہ و ریت کو دخل ہو یعنی  
 یہ خیال پیدا ہو کہ ہم نے اپنی طاقت سے عبادت کی اور عبادت کو دیکھے  
 اور اللہ کو نہ دیکھے خاص الخاص اپنی طاقت و عبادت کو نہیں دیکھتے  
 بلکہ ان کی نگاہ براہ راست اللہ پر ہوتی ہے عوام ترک دنیا کر کے  
 پرہیزگار بنتے ہیں خواص ترک جنت کر کے پرہیزگار بنتے ہیں اور  
 ترک ماسوا کر کے پرہیزگار بنتے ہیں۔

یحییٰ بن معاذ ساری: پرہیزگاری ظاہری اور باطنی دو قسم کی ہے  
 ظاہری پارسائی تو یہ ہے کہ تم اللہ ہی کے لئے حرکت کرو اور باطنی  
 پارسائی یہ ہے کہ تمہارے دل میں ماسوا اللہ کا کھٹکا بھی نہ گزے  
 آپ فرماتے ہیں جس نے لطیف و باریک پارسائی نہیں دیکھی اسے



وهو أن لا يدخل في قلبك سواك تبارك وتعالى  
وقال يحيى رحمه الله أيضا من لم ينظر في  
دقيق من الورع لم يحصل له شيء ولم يصل  
إلى الجليل من العطاء وقيل من دق في الورع  
نظرة جل في القيامة خطرا وقيل الورع في المنطق  
أشد منه في الذهب والفضة والزهد في  
الرياسة أشد منه في الذهب والفضة  
ونك تبتد لها في طلب الرياسة وقال أبو سليمان  
الداراني رحمه الله الورع أول الزهد كما أن القضا  
طرف الرضا وقال البرعثمان رحمه الله ثواب  
الورع خفة الحساب وقال يحيى بن معاذ الرازي  
رحمة الله الورع الوقوف على حد العلم من  
غير تأويل وقال ابن الجلاء رحمه الله من لم  
يصحبه الورع في فقره أكل الحرام النص  
وقال يونس بن عبيد الله رحمه الله الورع الخرد  
من كل شبهة ومحاسبة النفس مع كل  
طرفة قال سفيان الثوري رحمه الله ما رأيت  
أسهل من الورع كل ما حاك في نفسك  
تركته وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم  
ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه  
الناس وهو إذا لم ينشرح الصدر به وكان  
في قلبك منه شيء وكذلك قوله صلى الله  
عليه وسلم الإثم جواز القلوب يعني ما جز  
في صدرك وحاك ولم يطمئن عليه القلب  
فاجتنبه ومنه الحديث إياكم والحكايات فإنها

کچھ نہیں ملا اور اس کی جلیل القدر عطیہ تک رسائی نہیں ہوئی۔

کما گیا ہے کہ جس کی پارسانی میں دقیق و لطیف نگاہ رہی قیامت کے دن  
اس کا مقام بلند ہوگا کہتے ہیں گفتگو میں پارسانی سونا چاندی خیرات کرنے  
سے افضل ہے اور ریاست کے زمانہ میں پرہیزگاری سونا چاندی کے  
صدقہ کرنے سے بہت افضل ہے کیونکہ سونا چاندی حصول ریاست کے لئے  
خرچ کیا جاتا ہے۔ ابوسیمان دارانی: پارسانی کی ابتدا دنیا سے بے رغبتی  
ہے جیسے تناعت رضائے باری تعالیٰ کا ایک کنارہ ہے۔ البرعثمان  
پارسانی حساب میں ہلکا پن ہے۔ یحییٰ بن معاذ رازی: پارسانی علم کی  
حد پر تاویل کے بغیر ٹھہرانے کا نام ہے۔ ابن جلاء: جس کے ساتھ درستی  
کی حالت میں پارسانی نہیں وہ صریح طور پر حرام کھاتا ہے۔ یونس بن  
عبید اللہ: پرہیزگاری ہر شے سے رک جانا اور منٹ منٹ پر نفس سے  
محاسبہ کرنا ہے۔ سفيان الثوري: میں نے پرہیزگاری سے آسان کوئی  
چیز نہیں دیکھی جو چیز دل میں کھٹکی اسی کو میں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلعم نے  
فرمایا: گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ کہیں اس کی  
لوگوں کو خبر نہ ہو جائے اس کی موجودگی میں سینہ میں الشراح نہیں پیدا  
ہوتا اسی طرح نبی صلعم نے فرمایا گناہ دلوں کی خراش ہے یعنی جو چیز دل  
میں چھبے اور کھٹکے اور اس پر دل مطمئن نہ ہو اس سے بچو ایک حدیث  
میں ہے کہ تم اپنے کو خراشوں سے دور رکھو کیونکہ وہ گناہ ہیں فرمایا: تک  
پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اختیار کرو جو شک میں  
نہ ڈالیں۔ معرفت کرخی: جس طرح تم اپنی زبان کو برائی سے محفوظ  
رکھتے ہو اسی طرح اسے مدح سے بھی محفوظ رکھو، بشر بن عمارت:۔  
تین عمل بہت سخت ہیں ناداری میں بخشش خلوت میں تقویٰ اور جس سے  
ڈر اور طبع ہو اس کے سامنے سچی بات کہنا۔ بشر بن عمارت حافی کی بہن  
امام احمد کے پاس آکر ان سے پوچھتی ہیں کہ ہم خواتین اپنے گھروں کی  
چھتوں پر چر خا کا تا کرتی ہیں ظاہر یہ فرقہ کی مشعلیں ہمارے پاس سے

المآثم وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك  
إلى ما لا يريبك وقال معروف الكرخي رحمه الله  
احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم  
وقال بشر بن الحارث رحمه الله: أشد الأعمال  
ثلاثة: الجود في القلاة والورع في الخلوة و-  
كلمة حق عند من يخاف ويرحى وقيل: جاءت  
أخت بشر بن الحارث الحافي إلى الامام احمد  
بن حنبل رحمه الله وقالت يا امامنا انزل  
على سطوحنا فتربنا مشاعل الظاهرية ووقع  
الشعاع علينا فيجز لنا الغزل في شعاعها فقال:  
من أنت عافاك الله قالت أنا أخت بشر بن  
الحارث اقبلي الإمام احمد رحمه الله وقال  
من بيتكم يخرج الورع لا تغزلي في شعاعها  
وقال علي العطار رحمه الله مررت بالبصرة  
في بعض الشوارع وإذا مشايخ قعود وصبيا  
يلعبون فقلت ألا تستحيون من هؤلاء المشايخ  
فقال صبي من بينهم هؤلاء المشايخ قل ورحمهم  
فقلت هيبتهم وقيل إن مالك بن دينار  
رحمه الله مكث بالبصرة أربعين سنة فلم  
يصح له أن يأكل من تمر البصرة ولا رطبها  
حتى مات ولم يذقه وكان إذا التقى وقت  
الرطب قال يا اهل البصرة لا هذا بطني ما نقص  
منه شيء ولا زاد فيكم شيئا وقيل لإبراهيم  
بن ادهم رحمه الله ألا تشرب من ماء زمزم  
فقال لو كان لي دلوشريت وقيل كان الحارث

بجائی جاتی ہیں اور ان کی روشنی ہم پر پڑتی ہیں کیا ان کی کرنوں کی روشنی  
میں ہمارے لئے کاتنا جائز ہے؟ امام موصوف نے پوچھا تم کون ہو اللہ  
تم کو عافیت سے رکھے؟ بولیں میں بشر حافی کی بہن ہوں امام احمد رو  
پڑے اور فرمایا پار سائی تمہارے گھر یہ سے نکلتی ہے اور ان کی روشنی  
میں مت کا تو۔ علی عطار: میں بصرہ کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا  
ایک جگہ میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور شیوخ و اکابر بھی  
بیٹھے ہیں میں نے بچوں سے کہا تم ان مشائخ سے شرارتے نہیں؟ ایک بچہ  
نے کہا ان مشائخ میں پار سائی کی کمی ہے اس لئے ہمارے دلوں پر ان کی ہیبت نہیں  
کتنے ہیں مالک بن دینار بصرہ میں چالیس سال ٹھہرے آپ نے مرتے دم  
تک بصرہ کا کوئی پھل یا تازہ کھجور احتیاط کے طور پر نہیں کھائی  
تازہ کھجوروں کا موسم ختم ہو جاتا تو فرماتے بصرے والو دیکھو یہ میرا پیٹ  
ہے اور ذرا سا بھی نہیں کھتا یعنی میں نے کھجوریں نہیں کھائیں تو میرا پیٹ  
گھٹا نہیں جوں کاتوں ہے اور تم نے خوب کھجوریں کھائیں ان سے تمہارا  
پیٹ بڑھا نہیں جوں کاتوں ہے۔ ابراہیم بن ادہم سے پوچھا گیا کہ  
آپ آب زمزم کیوں نہیں پیتے؟ فرمایا اگر میرے پاس دل ہوتا تو  
ضرور پیتا۔

کما جانا ہے کہ حارث محاسبی اگر شبہ والے کھانے کی طرف لا تم بڑھاتے  
تو آپ کی انگلیوں کے بالائی پوروں کی رگیں چڑھ جاتی تھیں اور آپ کو  
معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ کھانا حلال نہیں۔ کتنے ہیں جب بشر حافی کے سامنے  
شبہ والا کھانا لایا جاتا تو آپ کا ہاتھ اس کھانے کی طرف بڑھتا ہی  
نہ تھا۔ ابو یزید بسطامی کی والدہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہیں  
ابو یزید کا حمل تھا اس زمانہ میں اگر ان کے سامنے شبہ والا کھانا لایا  
جاتا تو کھانا ان کے سامنے سے خود بخود ہٹ جایا کرتا تھا پھر وہ اس  
کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتی تھیں۔ کسی اللہ کے بندے کے پاس جب  
شبہ والا کھانا لایا جاتا تو اس سے بدلہ آنے لگتی تھی جس سے معلوم



المحاسبی رحمہ اللہ اذا یدل الی طعام فیہ  
شبهة ضرب علی رأس أصبعه عرق فیعلم انه غیر  
حلال وقیل إن بشر الحافی رحمہ اللہ کان إذا  
قد مر بین یدیه طعام فیہ شبهة لا تمتد إلیه  
یدہ وقیل إن أمأبا یزید البسطامی رحمہما اللہ  
کانت إذا مدت یدها إلی طعام فیہ شبهة تبا  
حال کونہا حاملاً یأبی یزید فلم تمد یدها  
إلیه وكان بعضهم إذا قدم إلیه طعام فیہ  
شبهة فاحت منه رائحة منكرة فاعلم من ذلك  
فامتنع من أكله وقیل عن بعضهم إنه کان إذا  
وضع فی فمه لقمه من طعام فیہ شبهة لم یمتصغ  
فتصیر كالرمل فی فمه وانما فعل اللہ تعالیٰ لهم  
ذلك تخفیفاً ورحمة وشفقة وحمیة لهم لما  
صفوا اللقمه واجتهدوا فی طلب الحلال و  
ترك الحرام والشبهة حماهم اللہ تعالیٰ  
عما یكرهونه من المطاعم قد تب عنهم  
فی معرفة ذلك وكفاهم مؤنة التفتیش  
والتفتیر عن بائع الطعام وكسبه ومعیشتہ  
وعن الثمن الذی اشتري به وامله وتحصیله  
من وجه الحلال فجعل ذلك علامة عندهم  
فی أتی وقت رادها كفوا یدیرهم عن تناول  
الطعام واذ المیر وها تناولوا هذا  
فی حق هؤلاء السادة الكرام الذین سبقت  
لهم العنایة وعتنهم الرعایة واما الحلال  
فی حق العوام من المومنین فكل ما لا یكون

ہو جانا تھا کہ یہ شبہ والا ہے اور وہ اس سے رگ جاتا تھا بعض اولیاء کے  
بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ شبہ والے کھانے کا لڑا رہنے میں رکھتے تھے  
ریت کی طرح معلوم ہوتا اور خیابانہ جانا حق تعالیٰ نے اپنے ان نیک  
بندوں کو ازراہ تخفیف و محبت و شفقت اور انہیں حرام سے بچانے  
کے لئے یہ کرامتیں عطا فرمائی تھیں کہ وہ پاک غذا تلاش کرتے تھے  
اور حلال و طیب کے لئے دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے اور حرام و شبہ  
والی غذا سے بچا کرتے تھے بالآخر حق تعالیٰ شانہ انہیں ان کھانوں  
سے بچا لیتا تھا اور انہیں حرام و شبہ والے کھانے نہ کھانے دیتا تھا۔  
اس لئے اس نے ان کی انہیں کچھ علامتیں بتادی تھیں اور تحقیق و  
تفتیش کی زحمت سے بچا لیتا تھا انہیں غلہ بچنے والوں کے بارے میں  
اور ان کی کمائی اور معیشت کے بارے میں اور اس پیسے کے بارے  
میں جس سے انہوں نے یہ غلہ خریدی ہے اور اصل حقیقت کے بارے میں  
تحقیق کرنی نہیں پڑتی اور یہ پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ اسے حلال طریقہ سے  
حاصل کیا ہے یا حرام طریقہ سے۔ بنا بریں وہ ان نشانیوں کو دیکھ اس  
کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے ورنہ تناو ل فرمایا کرتے تھے یہ کرامتیں  
تو ان معزز اللہ والے اکابر کی تھیں جن کو اللہ کی کرم فرمایوں نے گھیر رکھا  
تھا اور ان پر حق تعالیٰ کی تمام حراست و نگرانی تھی لیکن عوام کے لئے  
وہ طعام حلال ہے جس میں کسی کا حق نہ ہو اور نہ شریعت کے قانون کے  
خلاف کیا گیا ہو۔ رسول بن عبد اللہ شتری سے حلال کے بارے میں  
پوچھا گیا: فرمایا حلال وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دخل نہ  
ہو دوسری ہاریہ جواب دیا حلال وہ طیب رزق ہے جس کے کمانے  
میں اللہ کو بھولنا نہ گیا ہو لہذا کوئی چیز بالذات حلال نہیں بلکہ اللہ کے  
حکم سے حلال ہے کیونکہ اگر بالذات حلال ہوتی تو حالت اضطرار میں  
مردار کا کھانا حلال نہ ہوتا اور نہ وہ کھانا حلال ہوتا جو کسی پوس کے  
آدمی نے حرام پیسے خریدی ہے اور فروخت کرنے والے نے حلال پیسے

للخلق فیہ تبعۃ ولا للشرع علیہ مطالبۃ کما  
قال سفہل بن عبد اللہ التستری رحمہ اللہ حین  
سئل عن الحلال قال الحلال هو الذی لا یعیس  
اللہ فیہ وقال مرۃً أُخری الحلال الصافی الذی  
لا ینسب اللہ فیہ فالحلال حلال حکم لا حلال  
عین اذ لو کان حلال عین لم یحیل لاحد اکل المیتہ  
ولا اذا اشتری الشرطی ببالہ الحرام طعام ما  
حلالا ثم رجع فاستقال البیع فرجع الطعام الی  
ید مالکہ الاول ان لا یجوز اکلہ للمتورع  
المومن لانه قد تخلل بینہما حالۃ یجرم اکلہ  
فیہا وهو حصولہ فی ید الشرطی فلما اتفق  
المسلمون علی جواز اکل هذا الطعام  
الذی حصل فی ملک الشرطی المشتري ببالہ الحرام  
الذی یجرم اکلہ عند جمیع المسلمین علم ان  
الحلال والحرام ما کان الشرع حکم بہ لافس  
العین لان ذلك طعام الانبیاء کما جاء فی الحدیث  
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا  
یقول اللهم ارزقنی الحلال المطلق فقال له  
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك رزق الانبیاء  
اسأل اللہ رزقا لا یعدّ بک علیہ وکذلك فی  
الشرع من اتجر من اهل الذمۃ والیہود والنصارى  
والمجوس فی المحرمات من الخمر والخنزیر ولیناہم  
بیعہا واخذ نامنہم العشر من اثمانہا وروی  
ذلك عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال  
ولرہم بیعہا واخذوا العشر من اثمانہا فاذا اخذ

سے حاصل کیا تھا پھر پولس کے آدمی نے اسے مالک کو لوٹا دیا اور  
وہ پھر اصل مالک کے پاس آگیا تو ایسا کھانا پارسا مومن کے لئے جائز  
نہ ہوتا کیونکہ اس میں ان دونوں حالتوں کے درمیان ایک ایسی حالت  
آئی جس میں اس کا کھانا حرام ہو گیا تھا یعنی جب وہ کھانا پولس کے  
آدمی کے پاس گیا تو حرام ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اسے حرام پیسہ سے  
خریدا تھا اور حرام سے خریدا ہوا کھانا تمام مسلمانوں کے نزدیک حرام  
ہے اس سے معلوم ہوا کہ حلال و حرام شارع کے حکم سے ہوتا ہے۔  
نفس ذات سے نہیں ہوتا کیونکہ حلال انبیاء کا طعام ہے جیسا کہ ایک  
حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلعم نے ایک شخص سے سنا کہ رہا تھا اے  
اللہ مجھے مطلق حلال روزی دے آپ نے فرمایا یہ تو انبیاء کا رزق  
ہے اللہ سے ایسی روزی مانگ جس پر وہ تجھے عذاب نہ دے۔  
اسی طرح اگر کوئی ذمی یا یہودی یا عیسائی یا مجوسی حرام شراب  
دخنیر وغیرہ کی تجارت کرتا ہو تو شریعت کی رو سے ہم انہیں  
ان چیزوں کی اجازت دے دیں گے اور ان کی قیمت میں سے  
دسواں حصہ وصول کر لیں گے چنانچہ عہد فاروقی میں اس پر  
عمل درآمد ہوا آپ نے فرمایا انہیں ان چیزوں کی تجارت کرنے اور  
اور ان کی قیمت میں سے دسواں حصہ لو پھر جب ان سے عشر لیا جا  
ہے تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ کیا اس سے مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتے؟  
اگر حلال بالذات ہوتا تو عشر دینا لینا جائز نہ ہوتا کیونکہ شراب  
و سور اور ان کی قیمت حرام ہے لیکن اس صورت میں قیمت کا  
پہ حلال ہے کیونکہ دست بہ دست عقد بیع واقع ہوا ہے جیسے کہا  
جاتا ہے کہ حلال و حرام میں فرق ہاتھوں کا ہے لہذا جس نے اپنے  
ہاتھ میں شیخ شریعت لے کر لین دین کیا اور اس میں تاویل نہیں کی اور  
شریعت سے باہر نہیں گیا اور شرع نے جس کی اجازت دی وہی لی  
اور وہی دی جس کی شرع نے اسے اجازت دی تھی اور اس کے



العشر منهم فما يصنع به أليس ينتفع به المسلمون  
فلو كان الحلال حلال العين لما جاز أخذ  
ذلك لأن الخمر والخنزير وثمنها حرام وأحل  
ذلك لدخول اليد والعقد كما قيل بين  
الحلال والحرام يد فمن أخذ الشرع في يده مصيباً  
فاخذ به وأعطى به ولم يتأول فيه ولم يخرج  
عنه فاخذ ما اذن له الشرع وأعطى ما اذن له  
الشرع فيه وصار جميع تصرفاته بالشرع اكل  
الحلال بالشرع وليس عليه طلب الحلال المطلق  
العين اذ ذاك لا يكاد يدرك الا ان يشاء الله  
ان يكرم به بعض اوليائه واصفيائه وما ذلك  
على الله بعزير فالناس في الطعام على ثلاثة اشرب  
متق ودولى وبدل عارف وحلال المتقى ما ليس  
للخلق عليه تبعه ولا للشرع عليه مطاوعة  
وطعام الولي المحقق الذي هو الزاهد زائل  
الهوى ما ليس فيه الهوى بل هو مجرد بامر الله وطعام  
البدل الذي هو العارف المفعول فيه زائل الاداء  
حرة القدر وهو ما لم تكن فيه همة ولا ارادة  
بل فضل كله من الله عز وجل يرزقه ويد الله و  
يرميه بقدرته الشاملة ومنتها العامة ومثبته  
النافذة كالطفل الرضيع في حجر أمه الشفيقة  
فما لم يتحقق له المقام الاول لا يصل الى المقام  
الثاني وما لم يتحقق له المقام الثاني لا يصل الى المقام  
الثالث فطعام المتقى شبهة في حق زائل الهوى  
وطعام زائل الهوى شبهة في حق زائل الادارة

تمام تصرفات شرع کے اندر رہے تو اس نے شرع کے مطابق حلال کھایا  
اس پر حلال مطلق کا یعنی بالذات حلال کا طلب کرنا واجب نہیں  
کیونکہ وہ قریب ہے کہ نہ پایا جائے ہاں اگر اللہ ہی اپنے بعض دوستوں  
کو اس سے نوازے تو نوازے کیونکہ اللہ پر کوئی چیز دشوار نہیں  
لوگوں کی کھانے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں متقی، دلی اور  
ابدال و عارف باللہ۔ متقی کے لئے حلال و طیب وہ کھانا ہے  
جس میں کسی کا حق نہ ہو اور شرع کی اس پر گرفت نہ ہو اور سچے  
دلی کا جو زاہد و تارک ہوئی ہے کھانا وہ ہے جس میں نفسانی  
خواہش کو دخل نہ ہو بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو اور ابدال  
کا (جو عارف ہیں اور خواہش نفس سے دور رہتے ہیں) ان کا  
کھانا گو یا تقدیر الہی ہے اگر اس میں ان کے قصد و ارادے کو دخل  
نہ ہو بلکہ ان پر حق تعالیٰ کا پورا پورا فضل و کرم ہے کہ وہ انہیں  
روزی دیتا ہے ان کی ناز برداری کرتا ہے اور انہیں نہ بیت دیتا  
ہے اور انہیں اپنی عام قدرت و ہمہ گیر نعمات اور اپنی جاری  
ہونے والی مشیت سے گہرے رہتا ہے جیسے ایک شیر خوار بچہ  
اپنی مشفق و مہربان ماں کی گود میں ہوتا ہے لہذا جب تک اسے پہلا  
مقام حاصل نہ ہو دوسرے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور جب تک  
دوسرا مقام حاصل نہ ہو تیسرے مقام تک نہیں پہنچ سکتا بنا بریں  
متقی کا طعام تارک ہوی کے لئے مشتبہ ہے اور تارک ہوا کا طعام  
تارک ارادہ و ہمت کیلئے مشتبہ ہے جیسے مشور ہے کہ مقرب حضرات  
کی برائیاں ابرار (نیک حضرات) کے حق میں نیکیاں ہیں لہذا شیخ  
کا کھانا مرید کے لئے مباح ہے اور مرید کا کھانا شیخ کے حق میں  
حرام ہے کیونکہ شیخ کی حالت صاف ہے اس کا مرتبہ پاکیزہ اور بلند  
ہے اور اس کا حق جل شانہ سے قرب ہے۔

ورع و پارسانی کی باریکیاں کہش سے منقول ہیں فرماتے ہیں میں



والهمة كما قيل سيئات المقربين حسنات الابرار  
 نفعام الشيخ مباح للمريد وطعام المرید حرام فی حق الشيخ  
 لصفاء حالته ونزاهة رقبته وعلو منزلته  
 وقربه من ربه عز وجل ومن دقائق الورد ما نقل  
 عن كهمس رحمه الله انه قال اذ نبت ذنبا  
 وانا ابكي عليه منذ اربعين سنة وذلك انه زارني  
 اخ لي فاشترت بدائق سمكة مشوية فلما  
 فرغ من اكلها اخذت قطعة طين من جدار  
 جاري حتى غسل يده ولم استحل له وقيل ان  
 رجلا كان في بيت بكراء فكتب رقعة داراد  
 ان يتربها من جدار البيت فخطر بهاله ان البيت  
 بالكراء ثم انه خطر بهاله ان لاخطر لهذا اقرب  
 الكتاب فسمعها تفانيقول سيعلم المتخفف  
 بالتراب ما يلقي غدا من طول الحساب ورؤى عتبة  
 الغلام يتصبب عرقا في الشتاء فليل له في ذلك  
 فقال انه كان عصيت فيه ربي فسئل عنه فقال  
 كشطت من هذا الجدار قطعة طين غسل  
 ضعيف لي يدها ولم استحل صاحبه وقيل  
 ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله رهن  
 سطلا له عند بقال بمكة فلما اراد فكاكه اخرج  
 البقال اليه سطلين وقال خذ ايها الملك فقال  
 الامام احمد اشكل على سطلي فهو لك والداد  
 لك فقال البقال سطلك هذا وانما اردت  
 ان اجريك فقال لا اخذاه ومضى وترك السطل  
 عنده وقيل ان رابعة العدوية رحمها الله

ایک گناہ کہ بیٹھا جس پر چالیس سال سے رو رہا ہوں، گناہ یہ کیا  
 کہ مجھ سے ملنے کے لئے میرا ایک بھائی آیا میں نے اس کی خاطر  
 تواضع کے لئے پانچ درہم کی ایک بھٹی ہوئی مچھلی خریدی پھر جب  
 وہ اسے کھا چکا تو میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار سے اس کے  
 ہاتھ صاف کرنے کے لئے ذرا سی مٹی لے لی اور اس سے پھوٹو  
 معاف نہیں کرایا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کرانے کے ایک گھر  
 میں رہتا تھا ایک دن اس نے ایک خط لکھا اور اس گھر کی  
 دیوار کی مٹی سے اسے خشک کرنا چاہا مگر ذرا ہی اسے خیال آیا کہ  
 یہ گھر کہ ایہ پر ہے پھر یہ خیال آیا کہ اس کی ذرا سی مٹی استعمال  
 کرنے میں کوئی حرج نہیں آخر کار اس نے ذرا سی مٹی لے کر  
 خط کو خشک کر لیا اتنے میں ایک غیبی آواز آتی ہے کہ اس کی مٹی  
 کے استعمال میں بلا مالک کی اجازت کے حرج نہ سمجھنے والے کو کل  
 طویل حساب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جاڑے میں عقبہ غلام کو  
 پسینہ میں نثرالورد دیکھا گیا وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں ایک ایسے  
 مقام پر ہوں جہاں میں نے پروردگار عالم کی ایک نافرمانی کی  
 ہے پوچھا گیا، کیا نافرمانی کی ہے؟ کہا میں نے اپنے سمان کے ہاتھ  
 صاف کرانے کے لئے اس دیوار سے ذرا سی مٹی لے لی تھی اور اس  
 کے مالک سے اپنا یہ جرم معاف نہیں کرایا۔ کہا جاتا ہے کہ امام احمد  
 نے ایک سبزی فروش کے پاس مکہ میں اپنا ایک طشت رهن رکھا۔  
 پھر جب آپ نے اسے چھڑانا چاہا تو سبزی فروش نے آپ کے  
 سامنے دو طشت لاکر رکھے اور لولا ان میں سے آپ اپنا طشت  
 اٹھا لیجئے آپ نے فرمایا: میں اپنا طشت پہچان نہیں سکتا۔ شکل  
 اس لئے تم اپنے یہ درہم لو اور میں نے اپنا طشت بھی تمہیں کو دینا  
 سبزی فروش نے کہا دیکھئے آپ کا یہ طشت ہے میں نے تو آپ کو آنا  
 تھا فرمایا اب تو میں اسے تمہیں دے چکا اب واپس نہیں لوں گا۔



خاطت شقانی قیصرها فی منور مشعلہ سلطانیۃ  
فقدت قلبها زمانا حتی تذکرت ذلك قشقت  
قیصرها فوجدت قلبها ورؤی سفیان الثوری  
رحمہ اللہ فی المنام ولہ جناحان بطیر بہما فی  
الجنة من شجرة الی شجرة فقیل لہ بمثلت  
هذا قال بالورع وكان حسان بن ابی سنان  
رحمہ اللہ لا یتام مضطجعا ولا یاکل سینا ولا  
یشرب بارداستین سنة فرؤی فی المنام بعد  
مات فقیل لہ ما فعل اللہ بک قال خیر الا  
انی محبوس عن الجنة بابرة استعرتہا فلم  
أردھا وكان لعبد الواحد بن زید غلاما خدمہ  
سینین ولعبد اربعین سنة وكان فی ابتداء امرہ  
کیلا فلما مات رؤی فی المنام فقیل لہ ما فعل اللہ  
بک قال خیر غیر انی محبوس عن الجنة وقد  
اخرج علی من غبار القفیز اربعین قفیزا و مر عیسی  
علیہ السلام بقبرۃ فتادی رجلا منهم فاجابہ  
اللہ تعالی فقال من انت کنت حالا انقل لنا  
فقلت یوما لا لسان حطبا فکسرت منه خلا  
تخللت بہ فانما مطالب مند مت۔

**فصل** ولا یتم الورع الا ان یری عشرۃ  
اشیاء فریضة علی نفسه اولها حفظ اللسان  
من الغیبة لقوله تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا  
والثانی الاجتناب عن سوء الظن لقوله تعالی  
احتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و  
لقوله صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فانه

یہ کہہ کر آپ تشریف لے آئے اور طشت نہیں لیا۔ ایک دفعہ رات بھر یہ نسا پنا پھٹا ہوا  
کرتے شاہی مشعل کی روشنی میں سی لیا پھر آپ ایک مدت تک کھوٹی کھوٹی سی رہیں آخر  
یاد آیا کہ میں نے پھٹا ہوا کرتے شاہی مشعل کی روشنی میں سیا تھا فوراً کرتے پھاڑ کر پھینک دیا  
پھر آپ کے دل کو سکون حاصل ہوا اور پیدائش شدہ قلبی کیفیت زائل ہوئی ہسفیان ثوری  
کو خواب میں دیکھا گیا کہ آپ کے دو پر ہیں اور جنت کے درختوں پر اڑاڑ کر جا رہے ہیں  
میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیوں حاصل ہوا؟ فرمایا: پارسانی سے  
حسان بن ابی سنان ساٹھ سال تک چت نہیں لیٹے نہ آپ نے مرغن غذا کھائی  
اور نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ جب آپ فوت ہو گئے تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا  
اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بولے اچھا ہی سلوک  
فرمایا لیکن اس جرم میں کہ میں نے کسی سے ایک سوئی مانگ کر لے لی تھی پھر  
وہ واپس نہیں کی مجھے جنت سے روک دیا گیا۔ عبدالرحمن بن زید کا ایک  
غلام تھا جو کئی سال سے آپ کی خدمت کرتا تھا اور چالیس سال سے اللہ کی عبادت  
میں مصروف تھا اور اس سے قبل وہ پیانہ سے پانے کا کام کیا کرتا تھا کسی نے  
اسے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے؟ بولا: ٹھیک ہوں  
البتہ جنت سے روکا ہوا ہوں کیونکہ میرے ذمہ چالیس پیانہ غبار اور کوڑا کرکٹ لگا  
گیا ہے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ ؑ ایک قبرستان میں تشریف لیگے اور ایک قبر کے پاس  
ٹھکر کر ایک شخص کو آواز دی اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا اور وہ قبر سے نکل آیا پوچھا  
کون ہو؟ بولا: میں ایک قلی ہوں لوگوں کا سامان اٹھا کر ان کے گھر پہنچا کرتا تھا  
ایک دن میں نے ایک شخص کی لکڑیاں اٹھائی تھیں اور میں نے ان میں سے ذرا  
ساتھ لٹوڑ کر خلال کر لیا تھا جب میں فوت ہوا ہوں مجھ سے اسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے  
تکمیل پارسانی | جب تک دس چیزیں اپنے اوپر فرض نہ کر لی جائیں اس  
وقت تک پارسانی پوری نہیں ہوتی: غیبت سے زبان محفوظ رکھو فرمایا  
کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ برگمانی سے بچو فرمایا بہت سے گناہوں سے  
بچو یاد رکھو بعض گمان اور گناہ ہوتے ہیں۔ نبی صلعم نے فرمایا: خود کو گمانوں  
سے بچاؤ کیونکہ سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹ ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ



اكذب الحديث والثالث الاجتناب عن السخرية  
 لقوله تعالى لا يبخر قوم من قوم والسرابع  
 غض البصر عن المحارم لقوله تعالى قل للمؤمنين  
 يغضوا من ابصارهم والخامس صدق اللسان  
 لقوله تعالى واذا قلتم فاعدوا لعني فاصدقوا  
 والسادس ان يعرف منة الله تعالى عليه  
 لكيلا يوجب بنفسه لقوله تعالى بل الله بين عليكم  
 ان هداكم للايمان والسابع ان ينفق ماله  
 في الحق ولا ينفق في الباطل لقوله تعالى  
 والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا  
 يعني لم ينفقوا في المعصية ولم ينعوا من الطاعة  
 والثامن ان لا يطلب لنفسه العلو والكبر لقوله  
 تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون  
 علوا في الارض ولا منادا والتاسع المحافظة  
 على الصلوات الخمس في مواقيتها بروكوعها  
 سجودها لقوله تعالى حافظوا على الصلوات  
 والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين والعاشر  
 الاستقامة على السنة والجماعة لقوله تعالى  
 وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا  
 السبل فتفرق بكم عن سبيله۔

**فصل** ويجوز ان يتوب عن بعض الذنوب  
 دون بعض اذا لم يمكنه التوبة عن جميعها  
 في حالة واحدة مثل ان يتوب عن الكبائر دون  
 الصغائر لعلمه ان الكبائر اعظم عند الله  
 واجلب لسخطه ومقتنه والصغائر دونها

فرمایا: کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، حرام سے نگاہیں نیچی رکھو۔  
 فرمایا: آپ مومنوں سے فرمادیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔  
 پیچ بولو، فرمایا: اور جب تم بات کرو تو عدل کرو، یعنی  
 پیچ بولو۔ فرمایا: حق تعالیٰ کا احسان مانو تا کہ عجب و غرور سے  
 بچ جاؤ، فرمایا: بلکہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان  
 کی ہدایت کی، اپنا مال نیک کاموں پر خرچ کرو باطل پر خرچ نہ  
 کرو، فرمایا: رحمن کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے وقت  
 اسراف نہیں کرتے یعنی گناہوں میں خرچ نہیں کرتے اور نہ  
 تنگی اختیار کرتے ہیں یعنی نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔  
 خود کو سب سے اعلیٰ اور بڑا نہ سمجھو فرمایا: ہم یہ آخرت کا  
 گھر نہیں دیتے ہیں جو دنیا میں کسر بندھی اور فساد نہیں چاہتے۔  
 رکوع و سجود کے ساتھ اوقات نماز میں بیچگانہ نماز باقاعدہ  
 پڑھتے رہو فرمایا نمازوں کی خصوصاً عصر کی نماز کی محافظت کرو۔  
 اور اللہ کے لئے خاموشی سے قیام کرو، سنت پر اور  
 سلف کے طریقہ پر جمے رہو، فرمایا: دیکھو یہ میری راہ سیدھی  
 ہے۔ لہذا اس کی پیروی کرو اور راہوں پر نہ چلو، ورنہ تم  
 اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے۔

**تذریحی توبہ** اگر بیک وقت تمام گناہوں سے توبہ ممکن نہ ہو  
 تو بتدریج توبہ کرو مثلاً پہلے کبائے بڑے گناہوں سے توبہ کرو،  
 کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نزدیک بڑے سنگین ہیں اور اللہ کے  
 قہر و عتاب کو کھینچ کر لاتے ہیں اور چھوٹے گناہ کے ہیں اور کم  
 کے ہیں اور حق تعالیٰ کی معافی سے بہت قریب ہیں لہذا یہ امر  
 کوئی مشکل نہیں کہ پہلے بڑے گناہوں سے توبہ کی جلدی پھر حسب  
 دل میں ایمان و یقین قوی ہوگا اور نور ہدایت طلوع ہوگا اور  
 سینہ اللہ کی طرف تھکنے کے لئے کھلے گا تو چھوٹے چھوٹے اور معمولی



فی الرتبة اذھی اقرب الی تطرق العفو الیہا فلا  
 یتجیل ان یتوب عن الاعظم ثم اذ قوی الایمان  
 والیقین فی قلبہ وظہرت انوار الہدایۃ و  
 الشرح صدرہ للاقابۃ الی اللہ تعالیٰ حیث تذتاب  
 عن جمیع المغائر ودرقائق الزلات والشک الخفی  
 وذنوب القلوب اجمع ومعاصی الحالات والمقامات  
 بعد ذلك کلما رفع الی حالۃ ومقام کان  
 هناك ما یأتی وما یدر امر ونہی یعرفہ کل ذائق  
 لهذا الامر وسالک لہذا الطریقۃ ومخالط  
 لاہلہا فلا یأخذ الناس فی اول دہلۃ باہر  
 منتهی الامر انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین  
 ولا منفرین ان هذا الدین متین فادغل فیہ برفق  
 فان المنبت۔ ائی المنقطع لا طریقاً سلك ولا  
 ظہراً البقی ومثل من یتوب عن بعض الکبائر  
 دون بعض لعلمہ ان بعضہا اشد من البعض  
 عند اللہ وافلظ عقوبۃ وابلغ کالذی یتوب  
 عن القتل والنہب والظلم للعباد لعلمہ  
 ان دیون العباد لا تترك وما بینہ وما بین اللہ  
 تعالیٰ یتسارع العفو الیہ ومثل ان یتوب عن  
 شرب الخمر دون الزنا لعلمہ ان الخمر مفتاح الشر  
 فانه اذا زال عقلہ ارتکب جمیع المعاصی  
 وهولا یشعر بہا من القذف والسب والكفر  
 بالله والزنا والقتل والغصب لان الخمر جمع  
 المعاصی وامہا واصلہا وکن یتوب  
 عن صغیرۃ او صغائر وهو مصر علی کبیرۃ

گناہ پوشیدہ شرک اور دل کے تمام گناہ انسان خود بخود چھوڑ دے  
 گا پھر حالات و مقامات کے گناہ چھوڑ دے گا جب بھی بندہ کسی  
 حال و مقام پر ترقی کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہاں کیا  
 کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے اور اس حال و مقام کے امر و نہی سے  
 واقف ہو جائے گا ہر صاحب ذوق و سالک طریقت اور اللہ  
 والوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا ان سے آگاہ ہوتا ہے لہذا  
 لوگ ابتداء میں انتہا کا کام اختیار نہ کریں کیونکہ تم آسان کر نیوا  
 بنا کر بھیجے گئے ہو مشکل پیدا کرنے کے لئے نہیں، دیکھو یہ دین راستہ  
 مضبوط ہے لہذا اس میں بتدریج نرمی کے ساتھ آگے بڑھو کیونکہ  
 جو راہ سے کٹ جاتا ہے گویا وہ راہ پر چلا ہی نہیں اور نہ اس  
 راہ پر چلنے کے لئے کوئی سواری باقی رکھی، پھر بڑے گناہوں  
 سے توبہ کرنے کے سلسلہ میں بھی بتدریج توبہ کرو مثلاً پہلے شراب  
 پینے سے توبہ کرو زنا سے نہیں پھر بعد میں زنا سے کرو۔  
 کیونکہ تم کو یہ معلوم ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ اور  
 تمام گناہوں کی کنجی ہے کیونکہ جب عقل ہی پر پردہ پڑ جاتا ہے  
 تو انسان ہر طرح کا گناہ کر بیٹھتا ہے اور اسے نہ بدنامی کا ڈر  
 ہوتا ہے نہ طعن و تشنیع کا اور نہ اللہ کے ساتھ کفر و شرک کا  
 نہ زنا کا نہ قتل کا اور نہ غضب کا۔ کیونکہ شراب تمام گناہوں کی  
 جڑ ام المعاصی اور اصل ہے۔

یہ بھی صحیح نہیں کہ انسان چھوٹے گناہوں سے تو توبہ کر لے لیکن  
 کسی بڑے گناہ پر جمار ہے مثلاً غیبت اور نامحرم کو دیکھنے سے  
 تو توبہ کر لی لیکن شراب پینے پر مہر ہے کیونکہ اسے شراب کی  
 سخت لذت ہے اور اس پر ہزار جان سے قربان ہے اور اس کا  
 خوب عادی ہے اور یہ تاویل کرتا ہے کہ شراب تو میری بیماری  
 کی دوا ہے اور ہمیں دوا کے استعمال کرنے کا حکم ہے شیطان

مثل ان یتوب عن الغیبة او عن النظر الی المعرم  
 وهو مصر علی شرب الخمر لشد لا ضرادته بالخمر  
 ولا وجه بها وتعدو لہا وتسویل نفسہ بانہ  
 صدا ومرضہ بہا وقد امرنا باستعمال الدواء  
 وتزیین الشیطان لہ ذلک وتحسینہ و  
 قوۃ شہوتہ فیہا لما فی شربہا من السرور  
 والفرح وذهاب المہوم ووصحة الجسم  
 علی زعمہم وذهول عن لوائقہا وعاقبتہا  
 والغفلة عن عقوبۃ اللہ لہ لاجلہا وفساد  
 الدین والدنیایہا لانہا سبب زوال العقل  
 الذی بہ انتظام امر الدین والدنیاء وانما قلنا  
 انہ تصح التوبۃ عن بعض ہذا الذنوب دون  
 بعض لانہ لا یجوز کل مسلم من جمع بین طاعة  
 اللہ ومعصیتہ فی الاحوال کلہا وانما یتفاوتون  
 فی الحالات وعظم الذنوب وصغرہا علی  
 قرب احوالہم من اللہ ولعلہا فاذا  
 قال الفاسق ان قہری فی الشیطان لہ اسطۃ  
 غلبۃ الشہوتۃ فی بعض المعاصی فلا ینبغی  
 لی ان ادخی العنان واخلع العذار بالکلیۃ  
 فانسرج فی المعاصی بل اجتہد فیما یخف  
 علی من ترک بعض المعاصی فاترکہا فیکون  
 قہری لبعض ذلک کفارۃ لبعض الباقی ولعل  
 اللہ یرانی اخافہ فی بعض معاصیہ و اترکہا  
 لاجلہ و اجاہد نفسی وشیطانی فی ترکہا  
 فیعیننی ویوفقتی و یحول بینی و بین بقیۃ المعاصی

نے اس کے دماغ میں یہی بات بٹھا دی ہے اور یہ سمجھا دیا ہے کہ  
 اس طرح شراب پینا خلاف شرع نہیں بلکہ اس سے جسمانی طاقت  
 بحال رہتی ہے اور اس کے پینے سے سرور و کیفیت حاصل ہوتا ہے  
 اور تمام پریشانیوں اور غم دور ہو جاتے ہیں اور تندرستی حاصل  
 ہوتی ہے لیکن یہ شراب پینے والے شراب کے خطرناک نتائج کو  
 اور مہلک اثرات کو بھول جاتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے  
 ہیں کہ شراب نوشی کی وجہ سے حق تعالیٰ کی کڑی تائید اور اپنے  
 عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے علاوہ ازیں شراب دین و دنیا  
 کو تباہ کر دیتی ہے کیونکہ یہ عقل ہی اڑا کر لے جاتی ہے جس سے  
 دین و دنیا کی ستادوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔

یہ جو ہم نے کہا کہ بیک وقت اگر تمام گناہوں سے توبہ ممکن نہ ہو  
 تو بعض گناہوں سے توبہ کر لی جائے اور ایسی توبہ صحیح ہے یہ اس  
 لئے کہا کہ ہر مسلمان اپنی ہر حالت میں طاعت و گناہ کا جامع ہوتا ہے  
 یعنی ہر مسلمان ہر حال میں فرماں برداری بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا  
 چھوڑنے سے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے اللہ کے قریب بعد  
 میں تقاضا ہوتا ہے ایک ناسق سوچتا ہے کہ اگر بعض گناہوں پر  
 براہ غلبہ شہوت شیطان مجھ پر غالب آجائے تو مجھے لائق نہیں  
 کہ میں بالکل ہی مطلق العنان بن جاؤں اور کھلم کھلا ہر قسم کا گناہ  
 کروں اور گناہوں میں ڈوب رہوں بلکہ مجھے پہلے بعض ہلکے گناہ چھوڑنے  
 کی کوشش کرنی چاہیے اگر میں اپنے نفس کو بعض گناہوں سے روک  
 دوں گا تو اس سے دوسرے گناہوں کے چھوڑنے پر مجھے مدد ملے گی  
 مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم فرمائے گا اور میں بعض دوسرے  
 گناہ اللہ سے ڈر کر چھوڑ دوں گا اور اپنے نفس و شیطان سے ان کے  
 چھوڑنے میں لڑتا رہوں گا حق تعالیٰ میری مدد فرمائے گا اور مجھے توفیق  
 عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت سے میرے اور میرے باقی گناہوں کے



برحمتہ و لو لم یکن الامر علی ما قلنا لما  
صحت صلاۃ کل فاسق ولا صومہ ولا  
زکاتہ ولا حجہ ولا شیء من الطاعات  
بأن یقال لہ انت فاسق خارج من طاعة  
اللہ بفسقک مخالف لامرہ فعبادتک ہذا  
لغیر اللہ لعلی فان زعمت انہما اللہ عزوجل  
فاترک الفسق فان امر اللہ فیہ واحد لا یتصور  
ان تقصد بصلاۃک التقرب الی اللہ ما لم  
تتقرب بترک الفسق و ہذا محال لا یقال  
فما ہذا الا بمتابۃ من علیہ دینا ان لرجلین  
وہو قادر علی الاداء الیہما فادی احد الدینا  
الی احدہما وجعد الآخر وحلف علیہ مع  
علمہ ذلک وتحققہ لہ فلا شک ان ذمتہ  
بریئۃ مما قد ادی و مشتغلہ بما جحد و اجی  
فکذلک من اطاع اللہ تعالیٰ فی بعض او  
امرہ مطیع لہ بطاعنتہ و اذا عصا فی بعض  
لذاہیہ معاص لہ ببعصیۃ فہو مؤمن ملیء  
نافق الایمان طائع بطاعنتہ معاص مخالف  
لہ بمخالفتہ و ہذا ہوداب کل مخلط  
فی امر دینہ الی ان یتلخ الی حالۃ یزول ہواہ  
فتقطع عنہ جمیع المعاصی الا من شاء اللہ  
ان یقضی علیہ بہا اذ لا عصیۃ لنا و یتوب  
اللہ علی من تاب و یتفضل بالرحمۃ علی من  
اتاب -

فصل فی ذکر الاخیار و الآثار الواردة

حائل ہو جائے گا اس طرح میں گناہوں سے بچ جاؤں گا اگر یہ مسئلہ ہمارے بیان  
کے مطابق نہ ہو تو پھر تو کسی فاسق کی نہ نماز صحیح ہو نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ  
حج اور نہ کوئی نیکی کیونکہ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تو فاسق ہے اور اپنے  
فسق کی وجہ سے اللہ کی اطاعت سے خارج ہے اور اس کے حکم کا مخالف  
ہے لہذا تیری یہ تمام عبادتیں غیر اللہ کے لئے ہیں اگر تیرا یہ گمان ہے کہ یہ  
عبادتیں اللہ کے لئے ہیں تو فسق و فجور چھوڑ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم  
ایک ہی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تو اپنی نماز وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کا  
تقرب حاصل کر لیا جب تک کہ ترک فسق کر کے تقرب حاصل نہ کر لے  
گناہ چھوڑے بغیر طاعت سے تقرب محال ہے یہ نہ کہا جائے کہ اسکی مثال  
اس طرح ہے جیسے کسی پر دو آدمیوں کے در دینار ہیں اور اس میں دونوں  
کو ادا کرنے کی استطاعت ہے لیکن اس نے ایک آدمی کو ایک دینار ادا  
کر دیا اور دوسرے کے دینار کا انکار کر دیا اور جھوٹی قسم کھالی کہ تیرا مجھ  
پر کچھ نہیں حالانکہ اسے یقین ہے کہ مجھ پر اس کا دینار واجب ہے بلاشبہ  
اس نے جس کا دینار ادا کر دیا اس سے بری الذمہ ہو گیا اور جس کے  
دینار کا انکار کر دیا ہے اس سے اس کے بارے میں باز پرس ضرور ہوگی  
اسی طرح اگر کوئی اللہ کے بعض احکام بجا لاتا ہے اور بعض انجام نہیں دیتا تو  
جن کو بجا لایا ان میں رہ مطیع ہے اور جن سے مرتابی کی ان کے بارے میں اس  
باز پرس ہوگی ایسا شخص ناقص الایمان مسلمان ہے کہ بعض میں فرما نبردار ہے اور  
بعض میں نافرمان یا احکام بجا لانے میں تو فرما نبردار ہے لیکن حرام سے کئے میں نافرمان  
ہے طاعت سے مطیع و متقاد ہے اور مخالفت سے مخالف ہے یہی حال ان تمام لوگوں  
کا ہوتا ہے جو دین میں اچھے اور برے ہر طرح کے عمل کرتے ہیں حتیٰ کہ ایسی حالت تک  
پہنچ جائیں کہ انکی ہوا پرستی درہم ہو جائے اور ان سے تمام گناہ چھوٹ جائیں ہاں  
اگر اللہ کی مشیت ہی میں انکو گناہوں پر قائم رہنا ہے تو دوسری بات ہے کیونکہ لوگ مسلمان  
نہیں اور اللہ تو بہ کبریا لوکی تو قبول فرماتا ہے اور کسی طرف لٹنے والوں پر ایسا حال درہم فرماتا ہے  
احادیث تو یہ حضرت جابر کا بیان ہے کہ نبی صلعم نے ایک جمعہ کے خطبہ میں

في التوبة قال جابر بن عبد الله رضي الله  
 عنهما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 يوم الجمعة فقال ايها الناس تولوا الى الله قبل  
 ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحة  
 قبل ان تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين  
 ربكم تسعدوا واكثروا الصدقة  
 ترزقوا وامروا بالمعروف تحصنوا وانهوا  
 عن المنكر تنصروا وكان النبي صلى الله  
 عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم اغفر لي  
 وتب علي انك انت التواب الرحيم وقال  
 صلى الله عليه وسلم ان ابليس حين اهبط  
 الى الارض قال وعزتك وجلالك لا زال  
 اغوي ابن آدم مادام الروح في جسده فقال  
 الرب وعزتي وجلالي لا امنعه التوبة ما لم  
 يتغفر بنفسه وعن محمد بن عبد الله السلمي  
 رحمه الله انه قال جلست الى نفر من  
 اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 بالمدينة فقال رجل منهم سمعت رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب  
 قبل موته بنصف يوم تاب الله عليه  
 وقال آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم يقول من تاب قبل الغرغرة تاب الله  
 عليه وعن محمد بن مطرف رحمه الله انه  
 قال يقول الله ويع ابن آدم يذنب الذنب  
 فيستغفرني فاغفر له ويجه ثم يعوذ فيستغفرني

میں فرمایا لوگو! مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے آگے توبہ کرو کاموں  
 میں مشغول ہونے سے قبل نیک عمل کرنے میں جلدی کرو اور اپنے رب کے  
 درمیان نیک عملوں سے رابطہ قائم رکھو سعادت تمہارے قدم چومے گی  
 کثرت سے خیرات کرو تمہیں روزی دی جائیگی نیک کاموں کا حکم کرو  
 ہر بلا سے محفوظ رہو گے، بری باتوں سے روکتے رہو تمہاری مدد ہوگی  
 نبی صلعم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ مجھے بخش دے  
 اور میری توبہ قبول فرما بلاشبہ تو توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا ہی  
 مہربان ہے۔

نبی صلعم نے فرمایا: جب ابلیس زمین کی طرف اتارا گیا تو اس نے کہا  
 اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم! میں فرزند آدم کو برابر  
 اغوا کرتا رہوں گا جب اس کے جسم میں جان رہے گی پروردگار نے  
 فرمایا: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! غرغره سے پہلے پہلے میں  
 اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔

عبد اللہ سلمیٰ کا بیان ہے کہ مدینہ میں کئی صحابہ کے پاس بیٹھا ان میں سے  
 ایک صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلعم سے سنا فرماتے تھے جس  
 نے مرنے سے آدھے دن پہلے توبہ کر لی حق تعالیٰ اجل مجبور اس کی  
 توبہ قبول فرمالتے ہیں دوسرے صحابی نے کہا میں نے آپ سے سنا  
 آپ فرماتے تھے کہ جس نے غرغره سے پہلے پہلے توبہ کر لی حق تعالیٰ  
 سبحانہ اس کی توبہ قبول فرمالتے ہیں۔

محمد بن مطرف کا بیان ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: فرزند آدم پر  
 میری رحمت ہے اگر وہ گناہ کنز کے مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں  
 اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اس پر میری رحمت ہے اگر پھر وہ  
 گناہ کرے تو بد کر لیتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں اس پر میری  
 رحمت ہے نہ وہ گناہ چھوڑتا اور نہ میری رحمت سے اس کو بڑھاتا  
 ہے میں نہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا۔



فَاغْفِرْ لَهُ وَجِبْهُ لَإِهُؤْيِيْتَرِكْ ذَنْبَهُ وَلَا هُوَ  
 بِيَأْسٍ مِنْ رَحْمَتِي أَشْهَدُ كَمَا نِي قَدْ غَفَرْتَ لَهُ  
 وَقَالَ النَّسْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَتَهُ لَعْدُ مَا  
 أَنْزَلَتْ وَإِنْ اسْتَغْفَرَ وَارْبَعًا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَيْهِ  
 تَتَغْفِرُونَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَيَقُولُونَ  
 نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ  
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَذْنِبُ ذُنُوبًا قَالَ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ إِنِّي التَّوْبُ  
 ثُمَّ عَوَدَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا  
 أَذْنِبْتُ فَتُبْتُ حَتَّى يَكُونَ الشَّيْطَانُ هُوَ الْخَبِيرُ  
 قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِذْ تَكْثُرُ ذُنُوبِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفْوُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَقَالَ  
 الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَتَمَنَّى الْمَغْفِرَةَ مِنْ غَيْرِ  
 تَوْبَتِهِ وَلَا الثَّوَابَ بِغَيْرِ الْعَمَلِ لِأَنَّ الْعِزَّةَ بِاللَّهِ  
 أَنْ تَتَادَى فِي سَخَطِهِ وَتَتَرَكَ الْعَمَلَ بِمَا يَرْضِيهِ  
 وَتَتَمَنَّى عَلَيْهِ الْمَغْفِرَةَ فَتَتَرَكَ الْإِمَانِي حَتَّى يَجِيءَ  
 بِكَ أَمْرٌ أَمَا سَمِعْتَهُ لِقَوْلِ وَغَفَرْنَا لَكُمْ إِمَانِي  
 حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَفَرْنَا بِاللَّهِ الْغُرُورُ  
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنِّي لَعَفَا لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَ  
 عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ  
 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَنَاكِتِبُهَا لِلَّذِينَ  
 يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا  
 يُؤْمِنُونَ فَالطَّمَعُ فِي الرَّحْمَةِ وَالْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ ان استغفر واربعم ثم توبوا  
 یعنی اپنے رب سے معافی مانگ لو اور اس کے آگے توبہ کر لو کے آنے  
 کے بعد رسول اللہ صلعم اور صحابہ کرام روزانہ سو بار مغفرت کی دعا  
 رستغفر اللہ وفتوب الیہ مانگا کرتے تھے فرماتے ہیں ایک شخص  
 رسول اللہ صلعم کے پاس آکر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے  
 گناہ ہو گیا، فرمایا: اللہ سے معافی مانگ لو، بولا: توبہ کر لیتا ہوں پھر  
 گناہ ہو جاتا ہے فرمایا جب کبھی گناہ کرو فوراً توبہ کر لیا کرو حتیٰ کہ  
 شیطان ٹھک کر بیٹھ جائے بولا: یا رسول اللہ جب میرے گناہ بہت  
 ہوں تو؟ فرمایا: تمہارے گناہوں سے اللہ کی رحمت بہت زیادہ  
 ہے حسن بھری کا قول ہے: بلا توبہ کے معافی کی آرزو تا تم نہ کرو  
 اور نہ بلا عمل کے ثواب کی امید باندھو کیونکہ تم کو دھوکا ہوا ہے  
 کہ اللہ کو ناراض کرنے کے برابر عمل کرتے رہتے ہو اور رخصت کے  
 عمل کرتے نہیں اور اس سے مغفرت کی آس لگائے ہوئے ہو لہذا  
 تمہاری آرزو نہیں تمہیں دھوکہ میں ڈالے ہوئے رہتی ہیں حتیٰ کہ تم  
 پر اللہ کا حکم اتر آتا ہے کیا تم نے سنا نہیں کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے  
 اور تمہیں تمہاری تمناؤں نے دھوکا دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم  
 آپہنچا اور تمہیں شیطان نے اللہ کی رحمت کے ساتھ دھوکا دیا،  
 حق تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اسے یقیناً بخشدوں گا جس نے توبہ کر  
 لی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا پھر راہ پا گیا نیز حق تعالیٰ  
 نے فرمایا: اور میری رحمت میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے پھر  
 میں اپنی رحمت ان کے لئے لکھ لیتا ہوں جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور  
 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ان  
 آیتوں سے معلوم ہوا کہ بلا توبہ اور بلا تقویٰ کے رحمت و جنت  
 کی امید ایک احمقانہ تصور ہے اور جہالت و دھوکا ہے کیونکہ  
 رحمت و جنت ان دونوں آیتوں توبہ اور تقویٰ والی آیتوں

توبۃ وغیر تقویٰ حمت و جہل و غرور  
 لانہا مقیدتان بہاتین الکتین وقال  
 صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن یری ذلوبہ  
 کانه باصل جیل یخاف ان یقع علیہ وان  
 الفاجر یری ذلوبہ کذباب وقع علی الفہ فقال  
 بہ ہکن اظنار قال صلی اللہ علیہ وسلم  
 ان العبد لیدنب فیدخلہ الجنة فقالوا  
 یا نبی اللہ وکیف یدخلہ الجنة قال یکون  
 الذنب نصب عینہ لیستغفر منہ ویندم علیہ  
 حتی یدخلہ الجنة وقال صلی اللہ علیہ وسلم  
 لمارشیئا احسن طلبا ولا اسرع ادراکا من  
 حسنة حدیثہ لذنب قد یم ان الحسنات  
 یدہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین  
 وقال صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذنب العبد  
 ذنبا کانت نکتۃ سوداء فی قلبہ فاذا تاب  
 وفرغ واستغفر صفا قلبہ منہا واذا لم  
 یتب ولم یتفرغ ولم یتغفر کان الذنب  
 علی الذنب والسواد علی السواد حتی یجعی  
 القلب فیموت فذلک قرلہ عزوجل کل  
 بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون  
 وقال صلی اللہ علیہ وسلم ترک الخطیئة  
 اھون من طلب التوبۃ فاغتنم غفلة المنیة  
 قال وكان آدم بن زیاد رحمہ اللہ یقول  
 لیزلن احدکم نفسه انه قد حفی الموت  
 فاستقال ربہ فاقلہ فلیعمل بطاعة اللہ قبل

سے مقید ہیں اور نبی صلعم نے فرمایا: مومن وہ ہے جو اپنے گناہ اس طرح  
 دیکھتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور اسے اپنے اوپر اس پہاڑ  
 کے گرنے کا ہر وقت خطرہ ہے اور فاجر اپنے گناہ مکھی کی طرح سمجھتا ہے  
 گویا اس کے ناک پر مکھی آ بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مکھی  
 مار گئی۔

نبی صلعم نے فرمایا: بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ اسے جنت میں داخل فرما  
 دیتا ہے لوگوں نے کہا: اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں  
 کیوں داخل فرمادیتا ہے فرمایا: گناہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہتا  
 ہے وہ گناہ پر نادم و شرمسار ہوتا ہے اور دعائے مغفرت مانگتا ہے  
 بالآخر حق تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمادیتا ہے، رحمت عالم صلعم  
 نے فرمایا جس طرح جلدی سے نیکی پرانا گناہ مٹا دیتی ہے اس طرح  
 میں نے جلدی سے کوئی چیز کسی کے پاس پہنچنے والی اور حسن طلب  
 والی نہیں دیکھی بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ یاد رکھنے  
 والوں کے لئے ایک نصیحت ہے، نبی صلعم نے فرمایا جب بندہ گناہ  
 کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ (داع) پڑ جاتا ہے پھر  
 اگر وہ گہرا کہ توبہ کرتا ہے اور دعائے مغفرت مانگتا ہے تو اس کے  
 دل کا سیاہ داع جاتا رہتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر  
 توبہ نہیں کرتا اور اللہ کے آگے نہیں گڑا گڑاتا اور استغفار نہیں  
 کرتا تو سیاہ داع ہاتی رہتا ہے اگر پھر گناہ کرتا ہے اور دوسرا  
 سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے پھر توبت یہاں تک آتی ہے کہ گناہوں کی  
 کثرت سے اور توبہ نہ کرنے سے سارے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے  
 اور دل اندھا ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے  
 فرمایا ہرگز نہیں بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ  
 چڑھ گیا ہے نبی صلعم نے فرمایا: گناہ کا چھوڑنا توبہ کرنے سے آسان ہے  
 لہذا موت کی غفلت کو غنیمت شمار کرو۔ آدم بن زیاد فرمایا کرتے تھے



ادھی اللہ تعالیٰ الی داؤد علیہ السلام اتق ان  
 اخذک علی عترۃ فتلقانی بلا حجة ودخل  
 بعض الصالحین علی عبد الملک ابن مروان فقال  
 له عظنی فقال هل انت علی استفاد لجلول  
 الموت ان اتاک قال لا قال فهل انت مجمع  
 علی التخل عن هذه الحالة الی حالة ترضاها  
 قال لا قال فهل یعد الموت دار فیہا  
 مستغیب قال لا قال فهل تأمن الموت  
 ان یأتیک علی غرۃ قال لا قال ما رأیت  
 مثل هذا الخصال یرضی بہا عاقل قال النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبۃ وقال  
 صلی اللہ علیہ وسلم من اذنب ذنباً ثم  
 ندم علیہ فهو کفارته وقال الحسن رحمہ  
 اللہ التوبۃ علی اربع دعاء ثم استغفار باللسان  
 وندم بالقلب وترك بالجوارح وامنار  
 ان لا یعود وقال التوبۃ النصوح ان یتوب  
 ثم لا یرجع فیما تاب منه وقال صلی اللہ  
 علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب  
 لہ والمستغفر من الذنب وہو مقیم علیہ  
 کما تستهزی برتہ وان الرجل اذا قال  
 استغفرک و التوب التوب ثم عا د قبالہا  
 ثم عا د ثلاث مرات کتب فی الراعیۃ  
 من الکبائر وقال الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ  
 کن وصی نفسك ولا تجعل الرجال او مباءک  
 کیف تلومہم ان یضیعوا وصیتک وقل

تم یہ سمجھ لیا کہ موت آگئی تھی لیکن ہم نے حق تعالیٰ سے اسے ہٹانے کی التجا  
 کی حق تعالیٰ نے اسے ہم سے ہٹا دیا اس لئے اللہ کے احکام کی بجا آوری  
 میں لگ جاؤ گا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد کے پاس وحی بھیجی کہ  
 لے داؤد! اس سے ڈر کہ میں تجھے غفلت میں پکڑ لوں اور تو مجھ سے بلا  
 کے ملاقات کرے کوئی اللہ والا عبد الملک بن مروان کے پاس آتا ہے  
 عبد الملک ان سے نصیحت کی فرمائش کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر موت  
 آجائے تو کیا آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے؟ بولے نہیں، فرمایا: کیا  
 چاہتے ہیں کہ اس حالت سے کسی پسندیدہ حالت کی طرف لوٹ جائیں۔  
 بولے نہیں، فرمایا: کیا موت کے بعد کوئی گھر ہے جس میں عذر قابل قبول  
 بولے نہیں، فرمایا: کیا آپ حالت غفلت میں موت کے آنے سے بڑبڑ  
 بولے نہیں، فرمایا: میں نے ان جیسی باتوں پر کسی عقل و ہوش والے کو  
 راضی ہوتا نہیں دیکھا یہی صلح نے فرمایا نہ امت تو یہ ہے فرمایا جو کوئی گناہ کرے  
 پھر اس پر پشیمان ہو تو وہ پشیمانی اس گناہ کا کفارہ ہے۔ حسن بصری: توبہ  
 چار ستونوں پر ہے زبان سے معافی کی التجا کرنا دل سے پشیمان و شرمسار  
 ہونا اعضاء سے گناہ چھوڑ دینا اور دل سے پکارا دہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ  
 کروں گا فرمایا: پر خلوص توبہ یہ ہے کہ توبہ کرے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرے  
 جس سے توبہ کی ہے یہی صلح نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنا والا بے گناہ کی طرح ہے اور  
 گناہ پر قائم رہ کر گناہ سے معافی مانگنے والا پھر درکار کے ساتھ ٹھٹھا کرنے  
 والے کی طرح ہے اور جب کوئی شخص کتاب کے لئے اللہ میں معافی چاہتا ہو  
 اور توبہ کرتا ہو پھر گناہ کر بیٹھتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے  
 جب تین بار ایسا ہوتا ہے تو خیر معاف کر دیا جاتا ہے لیکن چوتھی بار  
 ایسا کیا گیا تو گناہ کبیرہ میں شمار کر لیا جاتا ہے، فضیل بن عیاض: اپنے لئے  
 خود ناصح بنو لوگوں کو اپنے لئے ناصح نہ بناؤ تم لوگوں کو اس بات پر کہ  
 انہوں نے تمہاری نصیحت ضائع کر دی کیسے بڑا کہہ سکتے ہو حالاً کہ خود تم نے  
 اپنی نصیحت اپنی زندگی میں ضائع کر دی کسی شاعر نے کہا ہے یہ فائدہ



منیعتہا فی خیا تک والشر بعضہم لبقول :

تتبع ان ذی الدنیا متاع وان دوامہا لا یتطاق  
وقدم ماملکت وانت حی امیر فیہ متبع مطاع  
ولا یغریک من تومی الیہ فقہر وصیۃ المرء الضیاع  
وقال آخر :

اذا ما کنت متغذ او صیا فکن فیما ملکت می نفسک  
ستخصد ما از رفت غذا و تجنی اذا وضع الحما ثبار غرسک

فصل آخر عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ  
عنه قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قال صاحب الیمین امیر علی صاحب الشمال  
فاذا عمل العبد حسنة کتب له صاحب

الیمین عشر او اذا عمل سیئہ فاراد صاحب  
الشمال ان یکتبہا قال صاحب الیمین

امسک عنہ فیمسک عنہ ست ساعات  
من النہار او سبعا فان استغفر اللہ تعالیٰ

منہا لم یکتب علیہ شیئا وان لم یتغفر  
کتب علیہ سیئۃ واحدة و فی لفظ آخر

ان العبد اذا اذنب لم یکتب علیہ حتی  
یذنب ذنبا آخر فاذا اجتمعت علیہ

خمسۃ من الذنوب فاذا عمل حسنة واحدة  
عتب له خمس حسنات وجعل الخس باعزاء

خمس سیئات فیصیح عند ذلک ابلیس لعنہ  
اللہ ویقول کیف لی ان استطیع علی ابن آدم

فانی وان اجتہدت علیہ یبطل بحسنة  
واحدة جیع جہدی و روی یونس عن الحسن

اٹھا کیونکہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس کی ہمیشگی پر کسی کو قدرت

نہیں اور اپنا مال اس حال میں آگے بھج کر تو بقید حیات ہوا اس میں

خود مختار رہو اور لوگ تیری پیروی اور اطاعت کرتے ہوں اور

اس شخص سے دھوکا مت کھا جس کی اخیر خیر خواہی کرتا ہے کیونکہ انسان

کی خیر خواہی کی خرابی اس کا صنایع ہونا ہے ایک اور شاعر کہتا ہے

جب تم کسی کو نصیحت کرنا چاہو تو مقدور بھرنے ناصح بھی بنو تم نے جس

کچھ پوچھا ہے اسے کل کاٹ لو گے اور حساب کے دن اپنے باغ کے پھل چن لو گے

توبہ کے دل خوش کن نتائج

رسول اللہ صلع نے فرمایا: دائیں

جانب والا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتہ پر امیر ہے جب انسان

ایک نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ اسے بجائے ایک کے دس

نیکیاں لکھتا ہے اور جب کوئی ایک برائی کرتا ہے اور بائیں طرف کا

فرشتہ اسے لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں طرف کا فرشتہ اسے ٹھہرانے کا

حکم کرتا ہے یہ فرشتہ چھ سات گھنٹے ٹھہرا رہتا ہے اور اسے نہیں لکھتا

پھر اس عرصہ میں اگر بندہ اس برائی سے توبہ کر لیتا ہے تو فرشتہ کچھ نہیں

لکھتا اور اگر توبہ نہیں کرتا تو ایک برائی لکھ لیتا ہے اسی حدیث کا

ایک لفظ یہ ہے: بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ لکھا نہیں جاتا۔

جب تک کہ دوسرا گناہ نہ کر لے پھر جب اعمال نامہ میں پانچ گناہ

جمع ہو جاتے ہیں تو اگر نیکی کر لے تو پانچ نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں

اور یہ پانچ نیکیاں پانچ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ دیکھ کر ایسے

چیخ پڑتا ہے اور کہتا ہے ہائے کیا کہوں؟ اور کس طرح انسان پر تالو

پاؤں؟ اگر میں دوڑ دوڑ کر دوڑ کر کے اس سے پانچ گناہ کرانا ہوں

تو اس کی ایک نیکی سے میری سر توڑ کوشش خاک میں مل جاتی ہے

یونس از حسن از نبی صلع: ہر شخص پر دو فرشتے متعین ہیں اور دائیں

طرف کا فرشتہ بائیں طرف کے فرشتہ پر امیر ہے پھر جب بندہ



رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
قال لیس من عبد الا علیہ ملکان و صاحب  
الیمن امیر علی صاحب الشمال فاذا عمل  
العبد السيئة قال له صاحب الشمال اکتبها  
فیقول له صاحب الیمن دعه حتی یعمل خمس  
سیئات فاذا عمل خمس السيئات قال صاحب  
الشمال اکتبها فیقول صاحب الیمن دعه  
حتى یعمل حسنة فاذا عمل حسنة قال له صاحب  
الیمن قد اخبرنا بان الحسنه بعشر فتعال  
حتى نمحو خمساً نجس و ثبت له خمساً من  
الحسنات قال فیصیح الشیطان عند ذلك  
فیقول متی ادرك ابن آدم و هذه الاحادیث  
موافقة لقوله عزوجل و اتی لغفار لمن تاب  
و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدی قال علی بن  
ابی طالب کرم الله وجهه مکتوب حول  
العرش قبل آدم باربعة آلاف عام و اتی  
لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدی  
و موافقة لقوله تعالی ان الحسنات ینزل  
السیئات ذلك ذکری للذاکرین و رومی عن ابن  
عباس رضی اللہ عنہما انه قال اذا تاب  
العبد و تاب اللہ علیہ انسی اللہ تعالی حفظته  
ما کان قد عمل من مساوی عمله و انسی  
جوارحه ما عملت من الخطایا و انسی مقامه  
من الارض و انسی مقامه من السماء فیحییء  
یوم القیامة و لیس علیہ شیء شہید علیہ

ایک برائی کرتا ہے تو فرشتہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے کیا یہ برائی لکھ لو  
امیر کہتا ہے ٹھہرا رہے جب تک پانچ برائیاں نہ کرے، پھر جب بندہ  
پانچ برائیاں کر بیٹھتا ہے تو فرشتہ امیر سے کہتا ہے کیا میں یہ پانچ برائیاں  
لکھ لوں؟ امیر کہتا ہے ٹھہرا رہے جب تک یہ کوئی نیکی نہ کرے، پھر جب  
بندہ کوئی نیکی کر لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ہمیں خبر دی گئی ہے کہ ایک  
نیکی دس نیکیوں کی برابر ہے آد پانچ برائیوں کو پانچ نیکیوں سے  
مٹادیں اور پانچ نیکیاں اعمال نامہ میں لکھ دیں آپ نے فرمایا یہ حال  
دیکھ کہ شیطان چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے: میں فرزند آدم پر کب  
غالب آسکتا ہوں۔

مذکورہ بالا حدیثیں وانی لغفار لمن تاب الخ کے موافق ہیں یعنی  
میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے  
ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں پھر راہ پا جاتے ہیں۔

علی بن ابی طالب: حضرت آدم کی پیدائش سے چار ہزار سال قبل  
عرش کے چاروں طرف مذکورہ بالا آیت لکھی ہوئی تھی اور ان آیت  
الخ کے بھی یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ یاد رکھنے والوں کے لئے  
نصیحت ہے۔ حضرت ابن عباس: جب بندہ توبہ کرتا ہے اور حق تعالیٰ  
اس کی توبہ قبول فرماتا ہے تو حق تعالیٰ کر اماً کا تبین کو اس کی برائیاں  
بھولا دیتا ہے (یعنی بندے کی برائیاں ان کو یاد نہیں رہتیں) اور  
وہ اعضاء بھی جن سے گناہ کئے تھے گناہوں کو بھول جاتے ہیں اور وہ  
جگہ بھی گناہوں کو بھول جاتی ہے جہاں گناہ کئے تھے اور آسمان کا وہ مقام  
بھی گناہ بھول جاتا ہے جہاں گناہ درج کیا گیا تھا اور بندہ قیامت  
کے دن اس حال میں آتا ہے کہ اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوتا  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گناہوں  
پاک ہو جاتا ہے ایک لفظ میں ہے اگرچہ ایک دن میں ستر بار بار  
گناہ کرے۔

وردی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
التائب من الذنب کمن لا ذنب له وفي لفظ ولو  
عاد فی الیوم سبعین مرۃ وقال عبد اللہ بن مسعود  
رضی اللہ عنہ من قال استغفر اللہ العظیم الذی  
لا الہ الا هو الحمی القیوم والتوب الیہ ثلاث  
مرات غفر له ذنوبہ وان کانت مثل زبد  
البحر وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انه قال  
ینظر الالناس فی کتابہ یوم القیامۃ فیری فی اولہ  
المعاصی و فی آخرہ الحسنات فاذا رجع الی  
اول الكتاب رأى کل ذلک حسنات وذلک  
قوله تعالیٰ فاولئک یتبدل اللہ سیئاتہم حسنات  
وهذا هو فی حق التائب الذی ختم اللہ له بالتوبۃ  
والانابة وقال بعض السلف ان العبد اذا تاب  
من الذنوب صارت الذنوب الماضیة کلها حسنات  
ولهذا قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولیتمنین  
اناس یوم القیامۃ ان تکثر سیئاتہم وانما قال  
ذلک لما ذکر اللہ تعالیٰ تبدل السیئات بالحسنات  
لمن یتشاء من عبادہ وروی عن الحسن رضی اللہ  
عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لو  
اخطأ احدکم حتی یتلا بین السما والارض ثم  
تابتاب اللہ علیہ ولهذا جاء فی الخیر یا ابن  
آدم لو لقیبتنی بقراب الارض ذلوا لقیبتک یوم یوم اغفر  
فصل آخر فی ذلک وروی ان عبد اللہ  
بن مسعود رضی اللہ عنہ مر ذات یوم فی موضع  
من لواحی الکوفۃ واذا الفساق قد اجتمعوا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ: جو روزانہ تین بار استغفر  
العظیم الذی لا الہ الا اللہ ہو الحمی القیوم والتوب الیہ  
لے تو اس کے سارے گناہ بخش دئے جاتے ہیں اگرچہ سندنہ  
کے جھاگوں کے برابر ہوں۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ: انسان قیامت کے دن اپنے  
اعمال نامہ دیکھے گا تو اس کے شروع میں گناہ دیکھے گا  
اور اخیر میں نیکیاں، پھر جب شروع پر نگاہ ڈالے گا تو  
دعاں بھی بجائے برائیوں کے نیکیاں دیکھے گا۔ اس لئے کہ  
حق تعالیٰ فرماتا ہے: یہ وہ ہیں کہ حق تعالیٰ ان کی برائیوں  
کو نیکیوں سے بدل دے گا، یہ آیت توبہ کرنے والوں کے  
بارے میں ہے جن کا خاتمہ توبہ پر اور اللہ کی طرف لوٹنے پر  
ہو۔ بعض سلف: جب بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو  
پچھلے تمام گناہ نیکیوں سے تبدیل کر دئے جاتے ہیں، اسی لئے  
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے  
دن لوگ تمنا کریں گے کہ ان کی برائیاں زیادہ ہوتیں۔ آپ نے  
یہ اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے  
کے نئے چاہوں گا اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل ڈالوں گا۔  
حسن بصری از نبی صلعم: اگر کوئی اس قدر گناہ کرے کہ زمین سے لیکر  
آسمان تک تمام فضا بھر جائے پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس  
کی توبہ قبول فرماتا ہے اسی لئے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ  
نے فرمایا کہ اے فرزند آدم اگر توجھ سے زمین کی وسعت کی برابر گناہ لیکر  
ملاقات کرے گا تو میں تجھ سے اسکی وسعت کی برابر مغفرت لیکر ملوں گا۔  
منقول ہے کہ ایک دن  
توبہ کے سلسلہ میں چند واقعات  
عبد اللہ بن مسعود کو  
میں کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ نے اسکا کہ چند فاسق



فی دار رجل منهم وهم يشربون الخمر ومعهم  
 مغن يقال له زاذان كان يضرب بالعود ولغنی  
 بصوت حسن فلما سمع ذلك عبد الله بن  
 مسعود رضی اللہ عنہ قال ما احسن هذا الصوت  
 لو كان لبقراءة كتاب الله تعالى كان احسن  
 وجعل رداءه على رأسه ومضى فسمع ذلك  
 الصوت زاذان فقال من هذا قالوا كان  
 عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم قال واى شيء قال  
 قالوا قال ما احسن هذا الصوت لو كان لبقراءة  
 القرآن كان احسن فدخلت الهيبة قلبه  
 فقام فضرب بالعود على الارض فكسرت ثم  
 اسرع حتى ادركه وجعل المندبل في عنق  
 نفسه وجعل يبكي بين يدي عبد الله فامتنقه  
 عبد الله وجعل يبكي كل واحد منهما ثم قال  
 عبد الله رضی اللہ عنہ کیف لا احب من  
 احبه الله فتاب من ضرب به بالعود وجعل  
 يلازم عبد الله حتى تعلم القرآن واخذ  
 الحظ الاخر من العلم حتى صار اما في العلم  
 وقد جاء في كثير من الاخبار روى زاذان  
 عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وروى  
 زاذان عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ  
 وفي الاسيائيات مروى انه كانت امرأة  
 بغية مغنية مقيمة للناس بجمالها وكان باب  
 دارها ابدا مفتوحا وهي قاعد على السرير

ایک شخص کے گھر میں جمع ہیں شراب کا دروچل رہا ہے، ان کے پاس  
 ایک مغنی زاذان بھی ہے جو بالنسری بجا رہا ہے اور انتہائی پیارے لہجہ  
 میں گار رہا ہے، فرمایا یہ آواز کس قدر پیاری ہے کاش اس سے قرآن  
 پڑھا جائے تو اور بھی پیاری معلوم ہو، پھر آپ اپنے سر پر چادر  
 ڈال کر آگے بڑھ گئے آپ کی گفتگو زاذان نے بھی سن لی، پوچھا  
 کون تھے؟ لوگوں نے کہا عبد اللہ بن مسعود (صحابی) تھے، پوچھا  
 کیا فرما رہے تھے؟ لوگوں نے کہا: یہ فرما رہے تھے کہ یہ آواز کس قدر  
 پیاری ہے کاش اگر اس سے قرآن پڑھا جاتا تو پھر اس میں اور  
 چار چاند لگ جاتے۔ یہ سن کر زاذان بڑا متاثر ہوا اور اس کے  
 دل پر دہشت چھا گئی فوراً کھڑا ہو گیا اور بالنسری زمین پر پٹخ دی  
 اور اسے توڑ ڈالا اور دوڑ کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے  
 پاس پہنچا اور رومال اپنی گردن میں باندھ لیا گویا وہ قیدی ہے اور  
 آپ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا حضرت عبد اللہ نے آگے  
 لگے لگایا اور دونوں رونے لگے اور فرمایا کہ میں اس سے محبت کیوں  
 نہ کر دوں جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت فرمائی پھر زاذان نے سزا وغیرہ  
 بجانے سے توبہ کی اور گانا بجانا بالکل چھوڑ دیا اور عبد اللہ کی محبت  
 میں دن رات رہنے لگا اور ان سے قرآن پاک پڑھنے لگا اور ان سے  
 کافی علم حاصل کر لیا جتنے کہ علم شریعت کا امام بن گیا آپ نے دیکھا ہوگا  
 کہ بہت سی حدیثوں کی سندوں میں آتا ہے، زاذان ابن مسعود سے  
 سے روایت کرتے ہیں، زاذان، سلمان فارسی سے روایت کرتے  
 ہیں۔ ایک اسرائیلی واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں نہایت حسین و جمیل  
 ایک زندگی تھی جو نہ صرف سحر انگیز آواز سے بلکہ اپنے حسن و جمال سے  
 بھی لوگوں کے لئے فتنہ بنی ہوئی تھی اس کے گھر کا دروازہ لوگوں کے  
 لئے دن رات کھلا رہتا تھا اور یہ دروازے کے سامنے نبی سنوری ایک  
 تخت پر بیٹھی رہتی تھی جو بھی دروازے کے پاس سے گزرتا اور اس کی



بجاء الباب فكل من تربها ونظر اليها اقتن  
بها واحتاج الي حصار عشره وقاميرا واكثر  
من ذلك حتى تاذن له بالدخول عليها فمر على  
بابها ذات يوم عابد من عباد نبی اسرائیل  
فوقع بصولا عليها في الدار وهي قاعدة على  
السري فافتت بها وجعل يجادل نفسه حتى  
انه يدهو الله تعالى ان يزول ذلك من قلبه  
فلم يزل ذلك عن نفسه ولم يملك نفسه  
حتى باع قباشا كان له فجمع من الدنانير  
ما يحتاج اليه فجاء الي بابها فامرته ان يسلم  
الذهب الي وكيل لها واعدته لمجيئته ف جاء  
اليها ذلك الوعد وقد تزيت وجلست  
في بيتها على سريها فدخل عليها العابد  
وجلس معها على السري فلما صد يديه  
اليها وانبط معها تداركه الله برحمته  
ببركة عبادته المتقدمة فوقع في قلبه ان الله  
تعالى يراني في هذا الحالة من فوق عرشه و  
انا في الحرام وقد حبط عملي كله فوعدت الهية  
في قلبه فارتعد في نفسه وتغير لونه فنظرت  
اليه المرأة فرأته متغير اللون فقالت له  
ايث اصابتك يا رجل فقال اني اخاف الله  
رجي فاذا لي بالخروج فقالت له ويحك ان كثيرا  
من الناس يئمنون الذي وجدته فاليش هذا  
الذي انت فيه فقال اني اخاف الله جل ثناؤا  
وان المال الذي دفعته الي وكيلك هو لك

اس پر نگاہ پڑ جاتی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو جاتا تھا اور نگاہوں  
نگاہوں ہی میں دل کا سوا ہو جایا کرتا تھا۔  
امیر اس ناز سے ظالم نے دیکھا: نگاہیں بول اٹھیں وہ لے لیا دل  
اور دس یا دس سے زیادہ اشرفیاں پیش کر کے اس کی خدمات حاصل  
کر لیا کرتا تھا اور وہ اسے اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی۔ ایک دن  
اتفاق سے ایک اسرائیلی عابد ادھر سے گزرتا ہے وہ اپنے تخت پر  
دروازے کے سامنے نبی سنوری بیٹھی ہے عابد کی اس پر نگاہ پڑتی ہے  
آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں اور عابد اسے دل سے  
بیٹھتا ہے لیکن عابد اپنے نفس سے جھگڑنے لگتا ہے دل کتنا ہے اس  
کا وصال ہو۔ صبر رخصت ہوا اک آہ کے ساتھ تقویٰ  
کتاب ہے یہ غدا ہی ہرگز نہ ہوگی بے چارہ گھبرا کر اللہ سے پر خلوص  
دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے دل سے اس کی محبت نکال اور مجھے  
اس جنجال سے نکال۔ بدل دے اور دل اس دل کے بدلے  
الہی تورب العالمین ہے۔ لیکن نفس اس پر غالب آ گیا اور عابد  
مغلوب ہو گیا۔ ناصحامت کر نصیحت دل مرا گھرائے ہے۔  
نیک و بد سوچھے نہیں جب دل کہیں لگ جائے ہے۔ لیکن  
بچاؤ دس اشرفیاں کہاں سے لائے کہ اس کے خلوت خانہ تک رسائی ہو  
دل ہے میرے پاس لے دل داریا تھی کچھ نہیں پڑ سکے الفت ہے میرے پاس ساتھی کچھ نہیں  
آخر کار وہ غریب اپنے گھر کا ساز و سامان فروخت کر کے دس اشرفیاں  
جمع کر کے اس نقتہ قامت کے دروازے پر جا کھڑا ہوتا ہے وہ کہتی ہے  
یہ اشرفیاں میرے وکیل کو دے دیجئے اور فلاں وقت میرے پاس خلوت  
کے لئے آجائیے۔ ترا وصل ہو خواہش دل ہی ہے، محبت کا الفت کا حاصل ہی  
عابد مقررہ وقت پر اس کے پاس خلوت میں پہنچ جاتے ہیں وہ کنگھی چوٹی  
کر کے پر کالہ آتش نبی بیٹھی ہوتی ہے یہ اسے جا کر سلام کر کے اس کے  
پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں: ساتیا بر خیز دروہ جام را خاک بر سر کن



حلال فاذا نزلت لي بالخروج فقالت له كانك  
لم تعمل هذا العمل قط قال لا فقالت له من اين  
انت وما اسمك فاخبرها انه من قرية كذا  
واسمه كذا فاذا نزلت له بالخروج من عندها  
فخرج وهو يدعوا بالويل والثبور ويبكي على  
نفسه فوَقعت الهيبة في قلب المرأة ببركة  
ذلك العابد فقالت في نفسها ان هذا الرجل  
اول ذنب اذنب فدخل عليه من الخوف  
ما دخل وانى قد اذنبت منذ كذا وكذا  
سنة وان ربه الذي خاف منه هو ربي  
فبينما ان يكون خوفي اشد من خوفه فتأيت  
الى الله تعالى وغلقت الباب على الناس و  
لبست ثيابا خلقانا واقبلت على العبادة  
فكانت في عبادتها ماشاء الله تعالى  
فقالت في نفسها اني لو انتهيت الى ذلك  
الرجل لعله يتزوجني فاكون عند لا والعلم  
منه امر ديني ويكون عوناً لي على عبادة  
ربي فذهبت وحملت معها من الاموال  
والخدم ماشاء الله وانتهت الى تلك  
القرية وسألت عنه فأخبروا العابد انه  
قدمت امرأة تسأل عنك فخرج العابد اليها  
فلما رأته المرأة كشفت عن وجهها كي يعرّفها  
فلما رآها العابد وعرف وجهها وتذكر  
الامر الذي كان بينه وبينها صاح صيحة  
فخرجت روحه فبقيت المرأة تحزينة وقالت

کیا دیر ہے اب صبر کا یا را نہیں مجھ کو اب ضبط کا اک لمحہ گوارا نہیں مجھ کو  
وہ کہتی ہے سہ آجاؤ میری جان تمہیں خوف ہے کس کا۔ آخر کار  
اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور خوشی سے پھلے نہیں سماتے لیکن ہنسی  
کی عبادتوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور رحمت  
باری تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑ کر خلوت سے باہر لے آتی ہے اور اس عظیم گناہ سے  
انہیں بچا لیتی ہے ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ حق تعالیٰ اس بری حالت  
میں اپنے عرش سے مجھے دیکھے گا اور میرے تمام عمل اس حرام کی وجہ سے برے  
فرما دے گا اس تصور کے آتے ہی ان کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے  
کانپنے گتے ہیں چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے اور اس پر ہوا تیاں اڑنے  
لگتی ہیں پری بیکو پو چھتی ہے کیا بات ہے فرماتے ہیں مجھ پر اپنے رب کا  
ڈر طاری ہو گیا مجھے باہر جانے دو کہتی ہے ہوش میں آؤ بہت سے  
لوگ تو اس خلوت کی حسرت ہی میں مرجاتے ہیں جو آج تمہیں حاصل  
اس سے فائدہ اٹھاؤ اس موقع پر اور تقویٰ؟ فرماتے ہیں مجھ پر  
حق تعالیٰ جل شانہ کی ہیبت طاری ہے میں نے تمہارے وکیل کو جو  
دس اشرفیاں دی ہیں وہ تمہاری ہیں میں انہیں واپس نہیں لوں گا  
براہ کرم مجھے جانے دو کہتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کبھی نہیں  
کیا فرمایا ہاں میں نے یہ گندہ کام کبھی نہیں کیا پوچھتی ہے تمہارا نام  
کیا ہے اور کہاں رہتے ہو؟ یہ اسے اپنا اور اپنے شہر کا نام بتا دیتے ہیں  
کہتی ہے اچھا شوق سے جاؤ یہ آپس بھرتے ہوئے اور روتے ہوئے  
دعاں سے نکلتے ہیں اور اپنے اس ارادے پر نادم و پشیمان ہو کر اللہ سے  
پر خلوص تو یہ کرتے ہیں ان کے جانے کے بعد اس عورت کو بھی خیال  
آتا ہے اور اس کے دل پر ان کی برکت کی وجہ سے اللہ کا خوف چھا  
جاتا ہے کہتی ہے کہ اس شخص نے اپنی عمر میں پہلی بار اس گناہ کا  
ارادہ کیا تھا اور گناہ کرنے سے قبل ہی اس کے دل پر ایسا خوف  
چھایا کہ اس نے اسے گناہ نہیں کرنے دیا ہائے میں تو اس گناہ میں



فی نفسہا فی خرجت لاجلہ وقد مات فہل لہ  
 احد من اقربائہ یحتاج الی امرأتہ فقالوا لہا  
 لہ اخ صالح لکنہ معسر لا مال لہ فقالت لا  
 بأس بہ فان لی مالا یکفینا فجاہ اخوہ فتزوج  
 بہا فولدت لہ سبعاً من البنین کلہم صاروا  
 انبیاء فی بنی اسرائیل فانظر الی برکۃ الصدق  
 والطاعة وحسن النیۃ کیف ہدی اللہ زاذان  
 لعبد اللہ بن مسعود لما کان صادقا حسن  
 السریۃ فلا یصلح بک الفاسد حتی تکون  
 انت صالحا فی ذات نفسک خالف الربک اذا  
 خلوت مخلصا لہ اذا خالطت غیر مرء  
 للخلق فی حرکاتک وسکناتک موحد اللہ  
 عزوجل فی ذلک کلہ فحینئذ یزاد فی توفیقک  
 وتسدیدک وتحفظ عن الہوی والاعواء من  
 شیطین الجن والانس والمنکرات کلہا و  
 الفساق والبدع والضلالات اجمع فزال  
 بک المنکر من غیر تکلف ومن غیر ان یصیر  
 المعروف منکر اکما ہو فی زماننا ینکر احدہم  
 منکر او احد ایتفرع منہ منکرات جمة و  
 فساد عظیم من السب والقذف والضرب  
 والکسر وتخریق الثیاب وافساد الاموال  
 وکل ذلک لقلۃ صدقہم و نقصان  
 ایمانہم ولیقینہم وغلبۃ اہوتیہم علیہم  
 فالمنکر فیہم بعد وفرض ان اللہ مترجہ علیہم  
 وبالفساد شغل طویل و ہم ینکرون علی الخیار

اتنے برسوں سے مبتلا ہوں اور جس رب کا خوف اس کے دل پر  
 چھایا وہ میرا بھی رب ہے میرا خوف تو اس سے کہیں زیادہ ہونا  
 چاہیے یہ خیال کر کے وہ فوراً توبہ کرتی ہے اور لوگوں سے پناہ اور  
 بند کر لیتی ہے اور پرانا دھرانا لباس پہن کر عبادت میں لگ جاتی ہے اور  
 جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے عبادت میں مصروف رہتی ہے ایک دن  
 اپنے دل میں سوچتی ہے کیا اچھا ہو میں اس عابد کے پاس چلی جاؤں  
 ممکن ہے وہ مجھ سے نکاح کر لیں اور میں ان سے دین اطمینان کے ساتھ  
 سیکھ سکوں ان سے مجھے اپنے رب کی عبادت میں بھی مدد ملے گی چنانچہ  
 تیاری کر کے اپنا سارا مال و متاع اور خدام لے کر اس کے شہر کی  
 طرف روانہ ہو جاتی ہے شہر میں پہنچ کر لوگوں سے اس عابد کا پتہ  
 پوچھتی ہے لوگ عابد کو خبر کر دیتے ہیں کہ ایک عورت کہیں باہر سے آئی  
 ہے اور آپ کو پوچھ رہی ہے عابد اس کے پاس جاتے ہیں عورت عابد کو  
 دیکھ کر نقاب الٹ دیتی ہے اور چہرہ کھول لیتی ہے تاکہ عابد اسے پہچان  
 لیں جب عابد کی اس پر نگاہ پڑتی ہے اور وہ اسے پہچان جاتے ہیں اور  
 انہیں پھللا واقعہ جو دونوں میں گزر چکا تھا یاد آ جاتا ہے تو عابد ایک  
 چیم مار تے ہیں اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں اور انکی روح نفس عنقریب  
 سے پرواز کر جاتی ہے یہ دیکھ کر اس عورت کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے  
 اور دل میں سوچتی ہے کہ میں جس کی خاطر آئی تھی وہی نہیں رہا اگر ان کے  
 عزیزوں میں سے کسی کو عورت کی ضرورت ہو تو اسی سے نکاح کر لوں  
 لوگ کہتے ہیں ان کا ایک دیندار صالح بھائی ہے مگر اس کے پاس مال نہیں  
 نادار ہے کہتی ہے کوئی حرج نہیں میرے پاس کافی مال ہے چنانچہ عابد کا  
 بھائی اس لئے نکاح کر لیتا ہے جس سے اس کے سات بیٹے پیدا ہوئے  
 ہیں اور حسب اسرائیلی نبتے ہیں صدق و اطاعت اور حسن نیت کی  
 برکت پر غور کیجئے کہ حق تعالیٰ نے کس طرح زاذان کو عبد اللہ بن مسعود کے  
 ذریعہ کس کو بھرتی سے ہدایت فرمائی کیونکہ عبد اللہ نے سچے دل سے اور



فیتروكون الفرض والعین وتعلقون بالفرض  
 علی الکفایة ویترکون ما یغنیهم ویشتغلون  
 بها لا یغنیهم قال النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا  
 یغنیہ من ادادان یزول بہ المنکر  
 بسرعة فعلیہ بالانکار علی نفسہ والوعظ  
 لها ومنعها وفضیلتها عن المعاصی ما ظهر  
 منها وما بطن فاذا تطهر من ذلك کله  
 فحینئذ اشتغل بغيره فزال بہ المنکر  
 باحسن ما یكون من الوجوه کما زال فی  
 حق عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  
 وانظر الی بركة العبادۃ والصدق الیما  
 فی حق العابد کیف نجاه اللہ من  
 البغیة وار تکاب الکبیرة کذلک  
 لنصرف عنہ السوء والفحشاء انه من  
 عبادنا المخلصین فاللہ تعالیٰ حال  
 بینہ وبين تلك الفاحشة لما تقدم  
 له من الصدق فی الخلوۃ وحسن الطاعات  
 فیما مضی من الايام والساعات ثم انظر  
 کیف نجی اللہ تعالیٰ تلك البغیة ببرکة  
 العابد ثم کیف نالت برکتہ اخاء  
 فأزال اللہ فقره وجهدها وزوجه باحسن  
 النساء فاغناها ورزقه من حیث لا یحسب  
 وجعله ابا الانبیاء السبعة وجعلها امهم  
 علیہم السلام فالخیر کله فی الطاعة

حسن نیت کے ساتھ اذان سے قرآن پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا لہذا  
 بڑے شخص کی تم سے اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک تم خود صالح نہ ہو اور خلوت  
 میں اپنے رب سے نہ ڈرو اور جلوت میں اس کے مخلص بن کر نہ ہو اور اپنی حرکت  
 و سکناات میں دباکاری نہ کرو اور ہر حال میں بچے سے بچے موحد نہ بنو۔ ان حالات  
 میں تمہاری توفیق و اصلاح میں اضافہ ہوگا اور نفس و ہوا سے اور انسانی  
 اور جناتی شیطاانوں سے محفوظ رہو گے اور تمام بری باتوں سے ناسقوں  
 سے ابد عقیبوں سے اور تمام مگراہوں سے بچے رہو گے جب تم ایسے بن جاؤ  
 گے تو تمہارے ذریعہ بری باتیں بلا تکلف کے دور ہوگی اور لوگ اچھی باتوں کو  
 بڑا نہیں سمجھیں گے جیسا کہ ہمارے زمانہ میں دستور ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو  
 کسی بری بات سے منع کرتا ہے تو اس سے بہت سی بری باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور  
 ایک عظیم فساد کھڑا ہو جاتا ہے لوگ اسکے جانی دشمن ہو جاتے ہیں اور اسکے خلاف  
 ایک محاذ قائم کر لیتے ہیں اور اسے طرح طرح سے تلتے ہیں، لوگ نہ صرف گایا  
 دیکر اور جھوٹے الزامات لگا کر اسے تلتے ہیں بلکہ مارتے پیٹتے بھی ہیں اور اس کے  
 کپڑے بھی پھیلڑ دیتے ہیں اور اس کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں ایسا اس لئے ہوتا  
 ہے کہ تبلیغ کر نیوالوں میں یقین و صدق نہیں ہوتا ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے  
 اور ان پر ذاتی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اور انکے اندر منور خلاف شرع نہیں  
 پائی جاتی ہیں حالانکہ ان سے بچنا ان کا پہلا فرض ہے یہ لوگ پہلے ایک طویل  
 مدت تک اپنی اصلاح کریں مالا کہ یہ اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے اور لوگوں  
 کو بری باتوں سے روکتے ہیں اور فرض عین چھوڑ کر فرض لہافیر پر توجہ دیتے  
 ہیں اور کارآمد باتیں چھوڑ کر بیکار باتیں کرتے ہیں سرور عالم صلعم نے فرمایا  
 حسن اسلام میں سے بے کار باتوں کو چھوڑ دینا بھی ہے اگر کسی میں یہ جذبہ  
 ہو کہ اسکے ذریعہ تیزی کے ساتھ خلاف شرع کام بند ہو جائیں تو اس پر  
 لادم ہے کہ پہلے اپنے نفس پر لعنت و نفرین کرے اور نفس کو سمجھائے اور اسے  
 دبا کر رکھے اور اسکے منہ سے بری اور باطنی گناہوں کا درد چھڑائے جب  
 پورا پورا پاک و صاف ہو جائے تو پھر غیروں کی اصلاح میں لگ جائے

والشركة في المعصية فلا كانت المعصية  
ولا كنا اذا كنا من اهلها۔

اس طرح اسکے ہاتھوں سے اور اسکے ذریعہ بہترین طریقہ سے خلاف شرع  
کام مٹ جائیں گے جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعہ زاذان

کا گانا بجانا ختم ہو گیا اور زاذان اپنے زمانہ کے علم سے امام بن گئے۔ اس اسرائیلی عابد کی عبادت و صداقت پر بھی غور کیجئے کہ حق تعالیٰ نے انہیں زنا سے اور گناہ  
کبیرہ سے کس طرح بچایا۔ ہوا اسی طرح، تاکہ ہم اس سے برا اور بے حیائی کا کام ہٹا دیں کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے اور  
بہ کاری کے درمیان آڑے آگیا کیونکہ یہ ماضی میں خلو قوں صدق و خلوص اور حسن عبادت سے آراستہ و پیراستہ تھے پھر حق تعالیٰ نے اس عابد کی برکت  
سے اس رشتہ کو بھی بچا لیا اور ان کے بھائی کو جو نیک و صالح تھے اس کا شوہر بنا دیا اور عابد کی برکات کی وجہ سے ان کے بھائی کو جو نادار و فقیر تھے  
مالدار بنا دیا اور ان کی تنگی ترشی سب دور فرمادی اور ایک انتہائی حسین و جمیل اور مالدار خاتون سے ان کا نکاح کرادیا اور انہیں ایسی جگہ سے روزی  
پہنچائی جہاں سے وہم و گمان بھی نہ تھا اور انہیں سات نبیوں کا باپ بنایا اور اس خاتون کو ان کی ماں بنایا لہذا ہر طرح کی بھلائی اطاعت میں ہے  
اور ہر طرح کی برائی بغاوت و معصیت میں ہے اللہ کے گناہوں کا نام و نشان نہ رہے اور اگر ہم گناہ کریں اور ان سے توبہ نہ کریں تو ہم ہی غارت ہو جائیں۔

**فصل** وانما تعرف توبة التائب في  
اربعة اشياء احدها ان يملك لسانه من  
الفضول والغيبة والنميمة والكذب  
والثاني ان لا يري لاحد في قلبه حسدا  
ولا عداوة والثالث ان يفارق اخوان السوء  
فانهم هم الذين يملونه على رد هذا القصد  
وليشوشون عليه صحة هذا العزم ولا يتم  
له ذلك الا بالمواظبة على المشاهدة التي  
تزيد بهار غيبته في التوبة وتوفر دواعيه  
على اتمام ما عزم عليه مما يقوى خوفه و  
رجاءه فعند ذلك تنحل من قلبه عقد  
الامرار على ما هي عليه من قبيح الافعال  
فيقف عن تعاطي المحظورات ويكبح لحام  
نفسه عن متابعة الشهوات فيفارق الزلة  
في الحال ويبرم العزيمة على ان لا يعود الى  
مثلها في الاستقبال والرابع ان يكون مستعدا

**توبہ کی پہچان** توبہ چار نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے: زبان فضول  
بکواس سے غیبت و جھگی سے اور جھوٹ سے محفوظ رکھی جائے کسی کی  
طرف سے دل میں حسد و عداوت نہ ہو اور بڑے لوگوں کی صحبت سے قطعاً بچا  
جائے کیونکہ یہ لوگ پھر بری عادتوں میں ڈال دیں گے اور گناہوں سے بچنے  
پر جو عزم کیا ہے اس کی مٹھی پلید کر دیں گے اور اس کے ارادے میں خلل ڈال  
دیں گے اور توبہ اسی وقت مکمل ہوگی جب ایسی چیزوں پر ہمیشگی کی جائے  
جن سے توبہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت ہو اور اس نیک عزم کو  
تکمیل تک پہنچانے کے محرکات بڑھیں جو خوف ورجا کو تقویت پہنچائیں  
ان حالات میں توبہ کرنے والے کے دل سے انسان کے دل پر جو گناہوں کی  
گانتھ بندھ گئی تھی وہ کھل جاتی ہے اور وہ حرام کاموں کے ارتکاب سے  
باز آجاتا ہے اور اپنے نفس کی لگام خواہشات کی پیروی سے کٹتا  
ہے جس سے فی الحال ذلت سے بچ جاتا ہے اور اپنے پختہ عزم کو مستقبل  
میں گناہ سے رکنے کے سلسلہ میں اور مستحکم بنا لیتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے  
کہ انسان ہمہ وقت موت کے لئے تیار رہے گناہوں پر شرمسار رہے  
حق تعالیٰ سے مغفرت مانگتا رہے اور پروردگار عالم کی فرمائنداری میں  
سرگرم عمل رہے۔



للبرت نادما مستغفرا لاسلف من ذلوبہ مجتهدا  
 فی طاعة ربہ وقیل علامۃ اندہ مقبول التوبۃ  
 اربعة اشياء اولها ان یقطع عن اصحاب الفسق  
 ولا یراہم ھیبة من نفسه ویحافظ الصالحین  
 والثانی ان یرکون منقطعاً عن کل ذنب مقبلاً  
 علی جمیع الطاعات والثالث ان یرزق فرح  
 الدنیا من قلبہ ویرى حزن الآخرة دائماً  
 فی قلبہ والرابع ان یرى نفسه فارغاً عما ضمن  
 الله له یعنی من الرزق مشتغلاً بما امر الله به  
 من الطاعة فاذا وجدت فیہ هذه العلامات  
 کان من الذین قال الله تعالی فی حقہم ان الله  
 یحب التوابین ویحب المتطهرین ووجب لہ  
 علی الناس اربعة اشياء اولها ان یرجوا ان  
 الله تعالی قد احبہ والثانی ان یحفظوا بالدعاء  
 علی ان یتبتہ الله تعالی عن التوبۃ والثالث ان  
 لا یرزوا بما سلف من ذلوبہ لما روی  
 عن النبی صلی الله علیہ وسلم انه قال من  
 غیر مؤمننا بفاحشة فہو کفارۃ لہا وکان  
 حقاً علی الله تعالی ان یوقعہ فیہا ومن غیر  
 مؤمننا بجریرۃ لم یخرج من الدنیا حتی یرتکبہا  
 ویقتضح بہا وان المؤمن لا یقصد الوقوع  
 فی الذنب ولا ینعمدہ ولا یعتقدہ دیناً یتدین  
 بہ وانما یرکون ذلک بتزیین الشیطان وفرط  
 فراوۃ الشهوۃ وشدۃ الشبق وتراکم العقلة  
 والغرۃ قال الله تعالی وکرہ الیکم الکفر

### توبہ کی قبولیت کی علامت

کی چار نشانیاں ہیں اول انسق سے کنارہ کش رہنا اور ان سے خوف و درشت  
 رکھنا اور نیکیوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا اور گناہ سے بچنا اور ہر طرح  
 کی اطاعت میں مشغول رہنا، دل سے دل کی مسرت کا اٹھ جانا اور ہمیشہ  
 آخرت کے فکر و غم کا دامنگیر رہنا اور جس چیز (رزق) کی اللہ نے نعمت  
 دی ہے اس کا فکر نہ کرنا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا اگر کسی میں یہ چار  
 نشانیاں پائی جائیں تو وہ ان میں سے ہے جن کے حق میں حق تعالیٰ نے  
 یہ فرمایا: اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور پاک رہنے والوں سے  
 محبت فرماتا ہے اب لوگوں پر اس کے چار حق واجب ہیں اول یہ کہ اس  
 سے محبت کریں کیونکہ اس سے اللہ محبت فرماتا ہے دوم یہ کہ اس کے  
 لئے دعائیں کہتے رہیں کہ حق تعالیٰ اسے توبہ پر ثابت قدم رکھے سوم یہ کہ  
 پچھلے گناہوں پر اسے عار نہ دلائیں کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا، اگر کسی نے  
 کسی مومن کو بے حیائی کی عار دلائی تو یہ عار اس کے گناہ کا کفارہ  
 ہے اور اللہ کا حق ہے کہ وہ اس بے حیائی میں عار دلانے والے کو  
 مبتلا فرمادے اور اگر کوئی کسی مومن کو گناہ کی عار دلائے تو وہ دنیا  
 سے نہیں نکلے گا جب تک خود اس کا ترک نہ ہو جائے گا اور اس سے  
 رسوا ہو جائے گا کیونکہ مسلمان تصدراً گناہ میں نہیں پڑتا، نہ عمداً گناہ  
 کرتا ہے اور نہ اس عقیدہ پر گناہ کرتا ہے کہ میرے لئے یہ جائز ہے  
 بلکہ شیطان کے درغلانے سے، فرط شہوت سے، باہ کے زور شور اور  
 غلبہ سے اور عقل پر غفلت کے ریز پر دوں کے پڑ جانے سے دھوکا  
 کھا کر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ نے کفر  
 کی فسق کی اور گناہوں کی تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کی اس آیت  
 حق تعالیٰ کے کھول کر بیان فرمادیا کہ ہم نے مومنوں کے دلوں میں  
 گناہوں کی نفرت و عداوت پیدا فرمادی ہے اس لئے اگر کوئی مومن گناہ  
 کرنے لگے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اسے اس گناہ کا

والفسوق والعصيان فقد اخبر انه بغض الحى  
المؤمنين المعصية فلا يجوز ان يعير بها اذ اتاب  
واناب بل يبدى له بالثبات على التوبة و  
التوفيق والحفظ والرابع ان يجالسوا وينذروا  
ويعينوا ويكرمه الله تعالى ايضا باربع كرامات  
اخذها ان يخرجها من الذنوب كانه لم يذنب  
تطو والثانية يحبه الله تعالى والثالثة ان لا  
يليط عليه الشيطان ويحفظه منه والرابعة  
ان يؤمنه من الخوف قيل ان يخرجها من الدنيا  
لانه عز وجل قال تنزل عليهم الملائكة  
ان لا تخافوا ولا تحزنوا والبشوا بالجنة التي  
كنتم توعدون

**فصل** في ذكر اقاويل شيوخ الطريقة  
في التوبة قال ابو علي الدقاق رحمه الله  
التوبة على ثلاثة اقسام اولها التوبة واسطها  
الانابة وآخرها الاوبة فالتوبة بداية  
والانابة واسطة والاوبة نهاية فكان  
من تاب لخوف العقوبة كان صاحب توبة  
ومن تاب طمعا في الثواب او رهبة من  
العقاب كان صاحب انابة ومن تاب  
مراعاة للاصر لا لرغبة في الثواب او  
رهبة من العقاب كان صاحب اوبة  
وقيل التوبة صفة المؤمنين قال الله تعالى  
وتولوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم  
تفلحون والانابة صفة الاولياء المقربين

طرف مسروب کرنا اور اس کی غیرت دلانا جائز نہیں بلکہ اس کے لئے  
توبہ پر استقامت کی دعا کی جائے کہ اے اللہ سے ثابت قدمی کی  
توفیق عطا فرما اور توبہ پر قائم رکھ اور چہارم یہ کہ اس کے پاس لوگ  
اٹھیں بیٹھیں اس سے مذاکرہ کریں اور اس کی اعانت کریں اور حق تعالیٰ  
شأنہ سے چار چیزوں سے بزرگی عطا فرماتا ہے گناہوں سے نکال دیتا  
ہے اور معصوم و بے گناہوں کی طرح بنا دیتا ہے گویا اس نے گناہ  
ہی نہیں لئے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس پر شیطان کو مسلط ہونے نہیں  
دیتا اور شیطان سے اسکی حفاظت کرتا ہے اور دنیا چھوڑنے سے قبل  
اسے خوف سے امن عطا فرماتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا: ان پر  
فرشتے اترتے ہیں (اور کہتے ہیں) خوف نہ کرو اور غم نہ کرو  
اور جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا  
گیا تھا۔

**توبہ کے بارے میں مشائخ کے اقوال** | ابو علی دقاق:

توبہ میں تین قسموں پر ہے توبہ، انابت، اوبہ، توبہ کی توبہ سے لبتنا  
ہوتی ہے انابت درمیانی درجہ ہے اور اوبہ انتہائی درجہ گویا جس نے  
عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑا اس نے توبہ کی اور جس نے ثواب کی  
امید کر کے اور عذاب سے بچنے کے لئے گناہ چھوڑا اس نے انابت کی  
صورت اختیار کی اور جس نے محض حکم کی تعمیل کے لئے قطع نظر  
ثواب و عذاب کے گناہ چھوڑا وہ صاحب اوبہ ہے۔

کہا جاتا ہے کہ توبہ مومنوں کی صفت ہے فرمایا مومنو! تم سب  
اللہ سے توبہ کرنا کہ تم کو کامرانی حاصل ہو اور انابت مقرب اولیاء  
کی صفت ہے فرمایا: اور وہ منیب (رجوع کرنے والا) دل لیا  
اور اوبہ انبیائے کرام کی صفت ہے فرمایا الیوب کیا ہی اچھا بندہ  
ہے بلاشبہ وہ ہماری طرف انتہائی رغبت رکھنے والا ہے۔

جنید: توبہ کے تین درجے ہیں پہلے درجہ میں ندامت و تضرع



قال الله تعالى وجاء قلب منيب والادوية  
 صفة الانبياء والمرسلين قال الله عز وجل نعم  
 العبد انه اذ اب وقال الجنيد رحمه الله  
 تعالى التوبة على ثلاثة معان الاول بيندم  
 والثاني يعزم على ترك المعادة لما نهى الله عنه  
 والثالث يسعى في اداء المظالم وقال سهل بن  
 عبد الله رحمه الله التوبة ترك التسليف وقال  
 الجنيد سمعت الحارث يقول ما قلت قط اللهم  
 اني اسألك التوبة ولكني اقول اسألك شهوة  
 التوبة وقال الجنيد دخلت على السري رحمه الله  
 لوما فرأيتہ متغيرا فقلت له مالك فقال  
 دخل على شاب فسألني عن التوبة فقلت له  
 ان لا تنسى ذنبك فعارضني وقال بل التوبة  
 ان تنسى ذلوك فقلت ان الامر عندى على  
 ما قاله اشاب فقال لم قلت لاني اذا كنت  
 في حال الجفاء فقلتني الى حال الوفاء فذكر الجفاء  
 في حال الصفاء جفاء فسكت وقال سهل بن  
 عبد الله رحمه الله التوبة ان لا تنسى ذنبك  
 وقال الجنيد رحمه الله حين سئل عن التوبة  
 هي ان تنسى ذنبك وتكلم بالوصي السراج رحمه  
 الله في المقالتين فقال اشار سهل الى احوال  
 المريدين والمتعرضين تارة لهم وقادة عليهم  
 فاما الجنيد فانه اشار الى توبة المحققين  
 فلا يذكرون ذنوبهم ما غلب على قلوبهم  
 من عظمة الله تعالى ودوام ذكره وقال

حاصل ہوتی ہے دوسرے درجہ میں گناہ کی طرف پھرنے کو طے کا پکا  
 ہوتا ہے اور تیسرے درجہ میں حقوق کی ادائیگی کی سرگرم کوشش کی  
 جاتی ہے۔

سهل بن عبد اللہ تنزی: توبہ فوری طور پر گناہوں سے توبہ کرنے کا  
 نام ہے یہ نہ کہا جائے کہ توبہ کر لی جائیگی بلکہ فوراً توبہ کر لی جائے۔  
 جنید: میں نے عارث سے سنا فرماتے تھے: میں نے یہ دعا بھی  
 نہیں مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں ہاں یہ دعا  
 مانگا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے دل میں توبہ کی تربیت پیدا فرما۔  
 جنید: ایک دن میں بری کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے  
 چہرے کا رنگ فق تھا میں نے کہا: کیا بات ہے؟ فرمایا: میرے  
 پاس ایک نوجوان آیا تھا اس نے مجھ سے توبہ کے بارے میں سوال  
 کیا میں نے کہا: توبہ یہ ہے کہ تم اپنا گناہ نہ بھولو اس نے مجھ پر  
 اعتراض کیا اور کہا بلکہ توبہ گناہ کا بھول جانا ہے میں بولا میرے  
 نزدیک اسی جوان کی بات صحیح ہے، پوچھا کیوں؟ میں نے کہا  
 اس لئے کہ جب میں حالت جفا میں تھا اور حق تعالیٰ نے مجھے جفا  
 سے وفاق طرف منتقل فرمادیا تو صفا کے زمانہ میں جفا کا ذکر بھی  
 جفا ہے یہ جواب سن کر بری خاموش ہو گئے۔ سهل بن عبد اللہ: توبہ یہ  
 ہے کہ تم اپنا گناہ نہ بھولو۔ جنید: رجب ان سے توبہ کے بارے میں  
 پوچھا گیا توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہ بھول جاؤ اور ان کا ذکر ہی نہ کرو۔  
 ابو نصر سراج ان دونوں قولوں میں یہ تطبیق دیتے ہیں کہ سهل مریدوں  
 کے احوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ احوال کبھی ان کے لئے مفید  
 ہوتے ہیں اور کبھی مضر اور جنید محقق حضرات کی توبہ کی طرف اشارہ کرتے  
 ہیں کیونکہ محقق اپنے گناہ یاد نہیں کرتے کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ  
 کی عظمت کا اور اس کے دائمی ذکر کا غلبہ ہوتا ہے، سراج فرماتے  
 ہیں کہ جنید کا قول رویم کے قول کی طرح ہے جب رویم سے توبہ کے

وہو مثل ما سئل رومی عن التوبة فقال التوبة من  
 وقال ذوالنون المصري رحمه الله توبة العوام  
 من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة وقال  
 ابو الحسن النوري رحمه الله التوبة ان تتوب  
 من كل شيء سوى الله عز وجل قال عبد الله بن  
 محمد بن علي رحمه الله شتان بين قاتل يتوب  
 من الزلات وقاتل يتوب من الغفلات وقاتل  
 يتوب من رؤية الحسنات قال ابو بكر الواسطي  
 رحمه الله التوبة التصوح ان لا يبقى على صاحبها  
 اثر من المعصية سرا ولا جھرا او من كانت توبته  
 نصوحا لا يبالي كيف امسى واصبح قال عبيد  
 بن معاذ الرازي رحمه الله في مناجاته المهي  
 لا اقول تبت ولا اعوذ لما عرف من خلقي ولا  
 اضمن ترك الذنوب لما عرف من ضعفي ثم اني  
 اقول لا اعوذ لعلي اموت قبل ان اعوذ قال ذوالنون  
 رحمه الله الاستغفار من غير اقرار توبة الكذابين  
 وقال ايضا رحمه الله حقيقة التوبة ان تصيق  
 عليك الارض بما رحبت حتى لا يكون لك  
 قرار ثم تصيق عليك نفسك كما اخبر الله تعالى في  
 كتابه العزيز وصاقت عليهم الارض بما رحبت  
 وصاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ  
 من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتولوا وقال  
 ابن عطاء رحمه الله التوبة توبتان توبة الانابة  
 وتوبة الاستجابة فتوبة الانابة ان يتوب العبد  
 خوفا من عقوبته وتوبة الاستجابة ان يتوب حياء

بار سے ہیں پوچھا گیا تو فرمایا توبہ توبہ سے ہے یعنی توبہ اسے یاد نہ رہے  
 کیونکہ توبہ کو یاد کرنا بھی ایک طرح کا گناہ ہے، ذوالنون مصری عوام  
 کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے  
 ابو الحسن نوری: توبہ یہ ہے کہ تمام ماسوا سے توبہ کی جائے، عبد اللہ  
 بن محمد بن علی: گناہوں سے توبہ کرنے والوں میں غفلتوں سے توبہ  
 کرنے والوں میں اور اپنی نیکیوں کی طرف دیکھنے سے توبہ کرنے والوں میں  
 بہت بڑا فرق ہے ابو بکر واسطی: توبہ تصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد  
 گناہ کا نہ ظاہری اثر رہے اور نہ باطنی، توبہ تصوح والے کو پر واپس نہیں  
 کہ اس نے شام کو کیا کیا اور صبح کو کیا کیا۔ عیسیٰ ابن معاذ رازی ایک  
 مناجات میں: اے اللہ! میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے توبہ کی اور نہ یہ  
 کہتا ہوں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی عادتیں معلوم ہیں اور نہ میں  
 ترک گناہ کی ضمانت دیتا ہوں کیونکہ میں اپنی کمزوری سے واقف ہوں  
 ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ میں گناہ نہیں کروں گا کیونکہ شاید میں گناہ کرنے  
 سے پہلے ہی فوت ہو جاؤں، ذوالنون مصری: گناہ کی بیچینی کے بغیر  
 استغفار جھوٹوں کی توبہ ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں: توبہ کی حقیقت  
 یہ ہے کہ دنیا کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے حتیٰ کہ  
 تمہارے لئے بھاگنا ممکن نہ ہو پھر تم پر تمہارا نفس تنگ ہو جائے  
 جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا ان پر زمین کشادہ ہونے  
 کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان پر ان کے نفس تنگ ہو گئے اور ان کو  
 یقین ہو گیا کہ چاہے پناہ اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں نہیں پھر حق تعالیٰ نے  
 اپنی رحمت سے ان کی طرف توجہ فرمائی اور انہوں نے توبہ کی۔  
 ابن عطاء: توبہ دو قسم کی ہے توبہ الانابت اور توبہ الاستجابة،  
 توبہ الانابت توبہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کر لے اور  
 توبہ الاستجابة یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ کی عزت و بزرگی سے شرمناک  
 توبہ کرے۔



من كرمه وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله  
زلّة واحدة بعد التوبة اقبح من سبعين قبلها  
وقال ابو عمرو الانطاكي رحمه الله ركب علي بن  
عيسى الوزير في مركب عظيم فجعل الغرباء  
يقولون من هذا فقالت امرأة قائمة على الطريق  
الى متى تقولون من هذا هذا عبد سقط من  
عين الله فابتلاه الله بما ترون تسمع علي بن  
عيسى ذلك فرجع الى منزله واستعفى من الوزارة  
وذهب الى مكة وجاور بها۔

یحییٰ بن معاذ رازی: توبہ کے بعد والی ایک لغزش توبہ سے قبل کی ستر  
لغزشوں سے بدتر ہے۔

ابو عمرو الانطاکی: ایک دفعہ وزیر علی بن موسیٰ ایک بڑے جلس میں  
سواری پر نکلے عوام پوچھنے لگے کہ یہ کون ہیں؟ ایک عورت جو راہ میں  
کھڑی تھی بولی تم کب تک کہو گے کہ یہ کون ہے؟ یہ ایک اللہ کا بندہ ہے جو  
اللہ کی نظر سے گر چکا ہے اسے اللہ نے ان چیزوں سے آزمایا ہے جن کا تم شاہد  
کو رہے ہو یہ جواب علی بن عیسیٰ نے سنا پھر اپنے گھر جا کر وزارت سے  
استقفا دے دیا اور مکہ میں جا کر بیت اللہ میں اللہ اللہ میں مشغول ہو  
گئے اور وہیں کے ہو رہے۔

## تیسری مجلس

جلسے: فی تولد تعالیٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم  
اختلف العلماء فی معنی التقویٰ وحقیقۃ المتقی  
فالمقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
جیب التقویٰ فی قولہ عزوجل ان اللہ یامر بالعدل  
والاحسان وایتاء ذی القربیٰ ونبیہی عن الفحشاء  
والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تنذرون وقال  
ابن عباس رضی اللہ عنہما المتقی الذی یتقی الشریک  
والکبائر والفواحش وقال ابن عمر رضی اللہ  
عنہما التقویٰ ان لا تری نفسک خیرا من احد  
وقال الحسن رحمه اللہ المتقی الذی یقول لکل من  
سأله اخییر منی وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ  
عنه لکعب الاحبار حدثنی عن التقویٰ قال هل  
اخذت طریقا ذاک شریک قال نعم قال فباعملت

تقویٰ پر وعظ | حق تعالیٰ مجھ نے فرمایا دیکھو تم میں اللہ کے نزدیک  
سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے علماء  
کا تقویٰ کئے معنی میں اور متقی کی حقیقت میں اختلاف ہے رحمت عالم  
صلعم نے فرمایا کہ سارا اس آیت ان اللہ یامر بالعدل الخ میں ہے  
یعنی حق تعالیٰ تم کو عدل کا احسان کا اور عزیزوں کو دینے کا حکم فرماتا  
ہے اور بے حیائی سے، بری باتوں سے اور بغاوت سے روکتا ہے اور  
تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ حضرت ابن عباس:  
متقی وہ ہے جو شریک سے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے  
چھٹا ہے حضرت ابن عمر: تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے کو کسی سے بہتر نہ جانتو  
حسن: متقی وہ ہے جو ہر شخص کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے۔

عمر بن خطاب: رکعب احبار سے تقویٰ کی وضاحت فرمائیے  
فرمایا کہ کبھی تم کسی خاردار راستہ پر بھی چلے ہو؟ بولے ہاں چلا ہوں  
پوچھا: تم نے وہاں کیا کیا؟ بولے میں نے احتیاط سے پائچے چڑھا کر

فیه فقال حذرت وشہرت قال کعب کذلک  
التقوی فنظمہ الشاعر:

خل الذنوب صغیرها وکبیرها فہو التقی  
وامنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یری  
لا تحقرون صغیرک ان الجبال من الحمی  
قال عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ لیس  
التقی صیام النهار وقیام اللیل والتخلیط فیما  
بین ذلک و لکن التقوی ترک ما حرم اللہ داداء  
ما افترض اللہ فما رزق اللہ بعد ذلک فہو خیر  
الی خیر وقیل لطلق بن حبیب اجمل لنا التقوی  
فقال التقوی عمل بطاعة اللہ علی نور من اللہ  
رجاء لشواب اللہ حیاء من اللہ وقیل التقوی  
ترک معصیة اللہ علی نور من اللہ مخافة عقاب  
اللہ قال بکر بن عبید اللہ رحمہ اللہ لا یكون  
الرجل تقیاً حتی یكون تقی المطعم وتقی الغضب  
وقال عمر بن عبد العزیز ایضاً رحمہ اللہ المتقی  
ملجم عالمحرم فی الحرم وقال شہر بن حوشب  
رحمہ اللہ المتقی الذی یترک ما لا یاس ید  
حذر الوقوع فیما فیہ بأس وقال سفیان  
الثوری وفضیل رحمہما اللہ هو الذی یجتنب للناس ما یحبت  
لنفسہ وقال الجنید بن محمد لیس المتقی  
الذی یحبت للناس ما یحبت لنفسہ انما المتقی  
الذی یحبت للناس اکثر مما یحبت لنفسہ  
اندرون ما وقع لاستاذی سوی السقطی رحمہ  
وہو ان سلم علیہ ذات یوم صدیق له

اور دامن سمیٹ کر قدم اٹھائے فرمایا: اسی طرح تقویٰ ہے اسی مضمون  
کہ ایک شاعر نظم میں اس طرح ڈھالتا ہے: چھوٹے بڑے تمام گناہ  
چھوڑ دو یہی تقویٰ ہے اور کانٹوں دار راہ پر چلنے والے کی طرح بن  
جاؤ کہ وہ ہر دیکھی جانے والی چیز سے احتیاط برتتا ہے اور چھوٹے چھوٹے  
کہ قدم اٹھاتا ہے کسی چھوٹے گناہ کہ معمولی نہ سمجھو کیونکہ پہاڑ سنگریزوں  
سے بنتا ہے۔ ابن عمر بن عبد العزیز: تقویٰ یہ نہیں کہ دن میں روزے  
رکھو اور شب بیدار رہو اور کبھی کبھی ناغہ بھی کرو بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ  
اللہ نے جو کام حرام فرمائے ہیں انہیں چھوڑ دو اور جن کے بجائے  
کا حکم دیا ہے انہیں بجالاؤ اس کے بعد حق تعالیٰ جو کچھ روزی دے  
وہ نور علی نور ہے۔ طلق بن حبیب سے کہا گیا: متقوا لفاظ میں  
تقویٰ کی وضاحت کیجئے، فرمایا: اللہ کی روشنی میں بغرض ثواب  
اللہ سے شرمنا کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کہ نا تقویٰ ہے۔ یہ بھی کہا  
جاتا ہے کہ تقویٰ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اللہ کی روشنی میں گناہوں کا  
چھوڑنا ہے۔ بکر بن عبید اللہ: انسان متقی نہیں ہو سکتا جب تک  
اس کی غذا حلال و طیب نہ ہو اور اس کا غصہ انراط و تفریط سے  
محفوظ نہ ہو۔ عمر بن عبد العزیز: متقی کے منہ میں لگام ڈال دی گئی  
ہے جیسے حرم میں محرم کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے۔ شہر بن حوشب  
متقی وہ ہے جو اس طرس سے کہ کہیں اس میں گناہ نہ ہو وہ کام چھوڑ دیتا  
ہے جس میں گناہ نہ ہو۔ سفیان ثوری و فضیل بن عیاض: متقی وہ  
ہے جو لوگوں کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے  
اور کمال متقی وہ ہے کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ دوسروں  
کے لئے اپنے سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ میرے استاذ  
سری سقطی کو کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ایک دن آپ کے ایک دوست  
نے آپ کو سلام کیا آپ نے ترش روئی کے ساتھ اسے سلام کا جواب  
دیا خندہ پیشانی سے نہیں دیا میں نے آپ سے ترش روئی کی وجہ



فرد علیہ وهو عالس لم یتبشش له فقلت له ذلك  
فقال بلغنی ان المرء المسلم اذا سلم علی اخیه و  
رد علیہ اخره قسنت بینہما مائة رحمة تسعون  
منہا لایشہما وعشرۃ للآخر فاحببت ان یكون  
له تسعون وقال محمد بن علی الترمذی رحمہ اللہ  
هو الذی لا یمم لہ وقال سوری السقطی رحمہ اللہ  
هو الذی یمغض نفسہ وقال الشبلی رحمہ اللہ  
هو الذی لا یتقی ما دون اللہ قال الناطق الصادق  
الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وقال محمد بن  
خفیف رحمہ اللہ التقوی عجاۃ کل شیء یبعثک  
عن اللہ وقال القاسم بن القاسم رحمہ اللہ هو  
المحافظة علی آداب الشریعة وقال الثوری  
رحمہ اللہ هو الذی یتقی الدنیا وآفاتہا و  
قال البریزید رحمہ اللہ هو التورع عن جمیع  
الشبهات وقال ایضا الملقى من اذا قال قال  
للہ و اذا سکت سکت للہ و اذا ذکر ذکر  
للہ وقال الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ لا یكون  
العبد من المتقین حتی یامنہ عدوہ کما یامنہ  
مد یقہ وقال سهل رحمہ اللہ الملقى من تبرأ  
من حوالہ وقوتہ وقیل التقوی ان لا یراک  
اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک  
وقیل هو الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم  
وقیل ان تتقی بقلبك من الغفلات وبنفسک  
من الشهوات وبعقلک من اللذات وبعوار  
حک من السیئات فحینئذ یرحمی لک الوصول

یوچھی فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کو سلام  
کرتا ہے اور دوسرا اسے جواب دیتا ہے تو ان میں سو رحمتیں بانٹی  
جاتی ہیں۔ ۹۰ خندہ پیشانی والے کو دی جاتی ہیں اور دوس دوسرے کو  
میں نے اپنے اوپر اس شخص کو ترجیح دی تاکہ اسے ۹۰ رحمتیں مل  
جائیں محمد بن علی ترمذی: متقی وہ ہے جس سے کوئی جھگڑنے والا  
نہ ہو۔ سوری سقطی: متقی وہ ہے جو اپنے نفس سے بغض رکھے اور  
اس کا کسانہ مانے۔ شبلی: متقی وہ ہے کہ اللہ کے سوا سب سے  
پرہیز کرے ایک شاعر کہتا ہے اور سچ کہتا ہے کان کھول کر سن لو  
ہر چیز اللہ کے سوا باطل ہے۔ محمد بن حنفیہ: تقویٰ ہر اس چیز سے  
دور رہنا ہے جو تم کو اللہ سے دور کر دے۔ قاسم بن قاسم:-  
تقویٰ آداب شریعت کی حفاظت ہے۔ ثوری: متقی وہ ہے  
جو دنیا سے اور دنیوی آفتوں سے بچے۔ البریزید: تقویٰ تمام  
شہوں سے احتیاط برتنا ہے اور متقی وہ ہے کہ جب گفتگو کرے تو  
اللہ کے لئے کہے جب خاموش ہو تو اللہ کے لئے خاموش ہو  
اور جب ذکر کرے تو اللہ کے لئے ذکر کرے۔ فضیل بن عیاض  
بندہ متقی نہیں ہو سکتا جب تک اس سے دستوں کی طرح دشمن بھی  
ماون نہ ہوں۔ سهل: متقی وہ ہے جو اپنی طاقت سے دست بردار  
ہو یعنی گناہوں سے رکنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ  
کی طرف سے سمجھے۔ کتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ تم کو اللہ اس جگہ نہ رکھے  
جہاں سے اس نے تمہیں روک دیا ہے اور وہاں گم نہ پائے جہاں حاکم  
کا حکم دیا ہے کتے ہیں تقویٰ نبی صلعم کی پیروی ہے۔ کتے ہیں تقویٰ  
یہ ہے کہ تم اپنے دل کی غفلتوں سے نفسانی شہوتوں سے، زبان کے  
چٹخاروں سے اور اعضاء کی برائیوں سے بچتے ہو اس صورت میں  
تو ق ہے کہ تمہاری آسمان وزمین کے رب تک رسائی ہو۔ ابوالقاسم:  
تقویٰ حسن اخلاق ہے۔ بعض اولیاء: تقویٰ پر تین چیزوں سے

الی رب الارض والسماوات وقال ابو القاسم رحمه الله  
 ہی حسن الخلق وقال بعضهم لیتدل علی تقوی الرجل  
 بثلاث حسن التوکل فیما لم یبیل وحسن المرضا  
 فیما قد نال وحسن الصبر علی مافات وقیل المتقی  
 الذی یتقی متاعہ ہواہ وقال مالک رحمه الله  
 حدثنی وہب بن کیسان ان بعض فقہا اهل  
 المدینۃ کتب الی عبد الله بن الزبیر رضی الله  
 عنہما ان لاهل التقوی علامات یعرفون بہا  
 الصبر عند البلاء والرضا بالقضاء والشکر عند  
 النعماء والتذلل لاحکام القرآن وقال میمون  
 ابن مہران رحمہ الله لا یكون الرجل تقیا  
 حتی یكون أشد محاسبة لنفسه من الشریک  
 الشحیح والسلطان المجاہد وقال ابو تراب رحمہ  
 بین یدی التقوی خمس عقبات من لا یجاوزها  
 لا ینالہا وہی اختیار الشدۃ علی النعمۃ واختیار  
 القرة علی الفضول واختیار الذل علی العز واختیار  
 الحد علی الراحة واختیار الموت علی الحیاة و  
 قال بعضهم لا ینبغ الرجل سنام التقوی الا اذا  
 کان بحیث لو جعل ما فی قلبہ علی طبق فیطاف  
 بہ فی السوق لم ینتفع من شیء مما علیہ وقیل  
 التقوی ان تشرین سرك للحق کما تشرین علانیتک  
 للخلق وقال ابو الدرداء رضی الله عنہ:  
 یرید العبد ان یعطى مناه ویأی الله الا ما ارادا  
 یقول المرء قاضی ومالی وتقوی الله احسن ما استفاد  
 عن مجاہد عن ابی سعید الخدری رضی الله عنہ

استدلال کیا جاتا ہے جو شے حاصل نہ ہوئی ہو اس پر بہترین صبر کرنا اور  
 جو مل گئی ہو اس پر راضی ہو جانا اور فوت شدہ شے پر بہترین صبر کرنا  
 کتے ہیں متقی وہ ہے جو اپنی خواہش کی پیروی سے بچتا ہے۔ امام مالک  
 مجھ سے وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ مدینہ کے کسی عالم نے عبد اللہ  
 بن زبیر کو لکھا کہ پارساؤں کی کچھ نشانیاں ہیں جن سے انہیں پہچان لیا  
 جاتا ہے (نشانیاں یہ ہیں کہ وہ) مصائب پر صبر، تقاضا پر اظہارِ رضا  
 نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور قرآن کے احکام پر عمل پیرا رہتے ہیں  
 میمون بن مہران: مومن متقی نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے نفس سے  
 سخت محاسبہ نہ کرے جس طرح ایک بخیل حصہ دار سے اور ظالم بادشاہ  
 سے احتجاج کیا جاتا ہے نفس سے احتجاج ان سے بھی زیادہ کڑا ہوتا  
 ضروری ہے، ابو تراب: تقوی کے آگے پانچ گھاسیاں ہیں جو  
 ان سے عبور نہ کرے اسے تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا، نعمت پر شکر  
 کو، بہت پر تھوڑے کو، عزت پر ذلت کو آرام پر تکلیف کو اور  
 زندگی پر موت کو ترجیح دینا۔

بعض: انسان تقویٰ کی چوٹی پر نہیں پہنچتا جب تک اس حال  
 پر نہ ہو کہ اگر اس کے دل کی تمام متاع ایک سینی میں لگا کر اور  
 اس سینی کو بازار میں گھوما جائے تو سینی کی کسی چیز سے اسے شرمانے  
 کی ضرورت لاحق نہ ہو۔

بعض: تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اللہ کے لئے اس طرح سنوارو  
 کہ جس طرح دنیا کے لئے اپنا ظاہر سنوارتے ہو۔

ابو الدرداء: انسان چاہتا ہے کہ اس کی آرزوئیں برآئیں اور  
 اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے انسان کتنا ہے میرا فائدہ اور  
 میرا مال لیکن اللہ کا خوف و تقویٰ ہر حاصل کی جانے والی  
 چیز سے بہتر ہے۔

مجاہد از ابو سعید خدری: ایک شخص حاضر دربار رسالت



قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
فقال يا نبي الله اوصني فقال صلى الله عليه وسلم  
عليك بتقوى الله فانه جماع كل خير و عليك  
بالجهاد فانه رهبانية الاسلام و عليك بذکر  
الله فانه نور لك و عن ابي هريرة نافع بن هرمز  
رحمه الله قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول  
قيل يا محمد من آل محمد قال كل تقى فالتقوى  
جماع الخيرات و حقيقة الالتقاء التحرز بطاعة  
الله عز و جل عن عقوبت يقال التقى فلان يتوسل  
واحد التقوى التواء الشريك ثم بعد لا التواء المعاصي  
والسيئات ثم بعد لا التواء الشبهات ثم يدع  
بعد لا الفضلات و جاء في تفسير قوله تعالى التقوا  
الله حق تقاته هوان يطام فلا يعصى و يذكر  
فلا ينسى و يشكر فلا يكفر و قال سهل بن عبد الله  
رحمه الله لا معين الا الله و لا دليل الا رسول  
الله و لا زاد الا التقوى و لا عمل الا الصبر  
عليها و قال الكفائي رحمه الله قسمت الدنيا  
على البلوى و قسمت الجنة على التقوى و من  
لم يحميكم بينه و بين الله التقوى و المراقبة  
لم يصل الى الكشف و المشاهدة و قال النضر  
ابا ذى رحمه الله التقوى ان تبقى العبد ما سواه  
تعالى و قال سهل رحمه الله من اراد ان تصح  
له التقوى فليترك الذنوب كلها و قال النضر  
ابا ذى ايضا من لزم التقوى اشتاق الى مفارقة  
الدنيا لان الله تعالى يقول و للدار الآخرة خير

ہرگز عرض کرتا ہے کہ اسے اللہ کے نبی (صلعم) مجھے کچھ وصیت (نصیحت) فرمائیے، فرمایا: تقویٰ کو لازم پکڑ لے کیونکہ تقویٰ تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے اور جہاد کو بھی لازم پکڑ لے کیونکہ جہاد اسلام میں رہبانیت (دنیا سے کنارہ کشی) ہے اور اللہ کے ذکر کو بھی لازم پکڑ لے کیونکہ اللہ کا ذکر تیرے لئے نور ہے اس سے دنیا میں دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور برزخ و آخرت کے اندھیروں میں برقیں بن کر روشنی دے گا، ابو ہریرہ نافع بن ہرمز میں نے حضرت انس سے سنا فرماتے تھے کہ محمد (صلعم) سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہیں؟ فرمایا: ہر متقی آدمی (آل محمد) میں شامل ہے، لہذا تقویٰ تمام نیکیوں کا جامع ہے۔

**تقویٰ کی حقیقت** | تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ کی طاعت میں سرگرم رہ کر اس کے عذابوں سے بچنے کی سرگوشی کرنا، کہا جاتا ہے التقی فلاں بتوسل یعنی فلاں اپنی ڈھال سے دشمن کے حملہ سے بچ گیا۔ اصل تقویٰ شرک سے بچنا ہے پھر فضول دینی کاربائیں چھوڑ دی جائیں، تقوا اللہ حق تقاتہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے ذکر کو بھولنا نہ جائے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے ناشکری نہ کی جائے۔ سهل بن عبد اللہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نبی والا نہیں، رسول اللہ صلعم کے علاوہ کوئی رہنما نہیں۔ تقویٰ کے سوا کوئی توشہ نہیں اور کوئی ایسا عمل نہیں جس میں صبر کو دخل نہ ہو کتابی، دنیا مصائب و آزمائش پر بانٹھی گئی اور جنت تقویٰ پر اور جو اپنے اور اللہ کے درمیان تقویٰ اور مراقبہ کو نہ آنے دے اس کی کشف و مشاہدہ تک رسائی ناممکن ہے، نصر ابادی، تقویٰ یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ سبحانہ کے ماسوا سے بچے۔ سهل، جو صحیح تقویٰ چاہتا ہے اسے تمام گناہ چھوڑ دینے ضروری ہیں۔ نصر ابادی، تقویٰ کو چھوڑ جانے والا دنیا کے چھوڑنے کا مشاقق رہنا ہے کیونکہ



للذین یتقون وقال بعضهم من تحقق فی التقوی  
 عون اللہ علی قلبہ الاعراض عن الدنیا وقال ابو  
 عبد اللہ الروذباری التقوی معانینة ما یبغذک  
 عن اللہ تعالیٰ وقال ذوالنون المصری رحمہ اللہ  
 تعالیٰ التقی من لا یدلس ظاہرہ بالمعارضات ولا  
 باطنہ بالتغلات ویكون واقفام اللہ تعالیٰ  
 مرقف الاتفاق وقال ابن عطیة رحمہ اللہ  
 تعالیٰ للتقی ظاہر و باطن فظاہرہ محافظۃ  
 الحدود و باطنہ النیة والاخلاص وقال  
 ذوالنون المصری رحمہ اللہ تعالیٰ لا عیش  
 الامع رجال تحن قلوبہم للتقوی وترتاح  
 بالذکر وقال ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ  
 التقوی فی الحلال المحض لا غیر وقال ابو الحسن  
 الزنجانی رحمہ اللہ تعالیٰ من کان رأس مالہ  
 التقوی کلت الاتس عن وصف رجبہ وقال  
 الواسطی رحمہ اللہ تعالیٰ التقوی ان یتقی من  
 تقواہ یعنی من رؤیة تقواہ وروی ان ابن  
 سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ اشتری أربعین حبا  
 سنا فخرج غلامہ فآذتہ من حب فسألہ  
 من ای حب من الحباب اخرجتہا فقال لا ادری  
 فصبا کلہا وروی عن بعض الائمة انه کان  
 لا یجلس فی ظل شجرة غریبہ ویقول جاء فی  
 الخبر کل قرض جرنفعا فهو ریا وقیل ان  
 ابایزید رحمہ اللہ تعالیٰ غسل ثوباً فی  
 الصحراء مع صاحب له فقال صاحبه لعل

حق تعالیٰ فرماتا ہے: دیکھو آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو  
 متقی ہیں۔ بعض علماء: جو تقویٰ میں مکمل ہے حق تعالیٰ اس کا دل آسانی  
 کے ساتھ دنیا سے ہٹا دیتا ہے، ابو عبد اللہ روذباری: تقویٰ ان  
 چیزوں سے جو تمہیں اللہ سے دور کر دیں، دور بھاگتا ہے، ذوالنون  
 مصری: متقی وہ ہے جو اپنا ظاہر خلاف شرع کاموں سے پلید نہ  
 ہونے دے اور نہ باطن کو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں سے  
 گنہا ہونے دے اور اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ چلے اس طرح  
 اس میں اور قانون باری تعالیٰ میں اتفاق رہے گا، ابن عطیہ: متقی  
 کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی اس لئے ظاہر تو اللہ کی حدوں کی  
 محافظت سے اور باطن نیت و اخلاص ہے، ذوالنون مصری:  
 زندگی کا مزہ انہیں کے ساتھ ہے جن کے دلوں میں تقویٰ کی تڑپ  
 رہتی ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے راحت پاتے ہیں۔  
 ابو حفص: تقویٰ حلال محض ہی میں ہے کسی اور چیز میں نہیں یعنی حلال  
 غذا سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ابو الحسن زنجانی: اگر کسی کا سرمایہ  
 تقویٰ ہو تو اسے اس قدر فائدہ ہوتا ہے جسے زبانیں بیان کرنے  
 عاجز ہیں، واسطی: تقویٰ یہ ہے کہ تقویٰ سے بچے اپنے تقویٰ کی  
 طرف نگاہ نہ ڈالی جائے۔ ایک دفعہ ابن سیرین نے چالیس ٹکے گھی  
 خریدا پھر آپ کے غلام نے ایک ٹکے سے مراد چاہا نکالا۔ ابن  
 نے پوچھا کہ کس ٹکے سے چروا نکلا ہے غلام نے کہا یاد نہیں رہا۔  
 آخر کار ابن سیرین نے تمام ٹکوں کا گھی بنا دیا بعض ائمہ سے روایت  
 کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قرضدار کے درخت کی چھاؤں میں نہیں بیٹھتے  
 اور فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں ہے کہ جو قرض نفع کھینچ کر لائے وہ سود  
 مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے ایک دوست کے ساتھ صحرا  
 میں کپڑے دھوئے ان کے دوست نے کہا کہ آپ اپنے گیسے کپڑے ان کو رو  
 کی دیواروں پر پھیلا دیں، فرمایا، ہم لوگوں کی دیواروں میں میخیں



الثیاب علی جہ زان الحروم فقال لا تغرز الوید  
 فی جدار الناس فقال نعلقه علی الشجر فقال  
 لانه یکسر الاغصان فقال تبسطه علی الاذخر  
 فقال لانه علف الدواب لا تسترہ عنہا قیل  
 فولی ظہرہ الی الشمس وحمل القیص علی ظہرہ  
 وقف حتی جف جانبہ ثم قلبہ حتی جف  
 الجانب الآخر عن ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ  
 تعالیٰ انہ قال بت لیلۃ تحت مخرۃ بیت المقدس  
 فلما کان بعض اللیل نزل ملک ان فقال احد  
 ہما لصاحبہ من ہا هنا فقال الآخر ابراہیم بن  
 ادہم فقال ذاک الذی حط اللہ درجۃ من  
 درجاتہ فقال لم قال لانه اشتری بالبصوۃ  
 التمر فوقت تمرۃ من تمر البقال علی تمرۃ  
 فقال ابراہیم فمضیت الی البصوۃ واشتریت  
 التمر من ذلک الرجل واووقت تمرۃ علی تمرۃ  
 ورجعت الی بیت المقدس ونمت تحت المخرۃ  
 فلما کان بعض اللیل اذا انا بملکین نزل  
 من السماء فقال احد ہما لصاحبہ من ہا هنا  
 قال الآخر ابراہیم بن ادہم فقال ذاک  
 الذی ردّ الشیء الی مکانہ ورفعت درجۃ  
 وقیل التقوی علی وجوہ تقوی العامۃ ترک  
 الشریک بالخالق وتقوی الخاصۃ ترک المہوی  
 بترک المعاصی ومخالفتہ النفس فی سائر  
 الاحوال وتقوی خاص الخاص من الاولیاء  
 ترک الارادۃ فی الاشیاء والتجرد فی النوافل

نہیں گاڑ سکتے درست بولا تو درخت پر ڈال دیجئے فرمایا نہیں کیونکہ کپڑے  
 پھیلانے سے درخت کی تازک شاخیں ٹوٹ جائیں گی، درست نے کہا، اچھا  
 اذخر گھاس پر پھیلا دیجئے فرمایا نہیں کیونکہ یہ گھاس ان کے جانوروں کا  
 چارہ ہے۔ ہم گھاس پر کپڑے ڈال کر اسے ان کے جانوروں سے نہیں  
 چھپائیں گے کتے پس پھر آپ نے اپنی پشت دھوپ کی طرف کر کے  
 کرتہ اپنی پشت پر ڈالا اور کھڑے رہے حتیٰ کہ وہ حصہ سوکھ گیا پھر  
 اسے پٹ کر کھڑے رہے حتیٰ کہ وہ حصہ کھیں سوکھ گیا۔ ابراہیم بن ادہم  
 میں نے صحفۃ بیت المقدس کے نیچے ایک رات گزاری جب کچھ رات گزر  
 گئی تو دو فرشتے اترے ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا یہاں کون  
 ہے؟ دوسرا بولا: ابراہیم بن ادہم ہیں یہ وہی ہیں جن کا حق تعالیٰ  
 نے ایک درجہ گھٹا دیا ہے، پہلے نے پوچھا کیوں؟ دوسرے نے جواب  
 دیا: اس لئے کہ انہوں نے ایک دفعہ بصرہ میں کھجوریں خریدیں تھیں پھر  
 بیچنے والے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور ان کی کھجوروں میں گر گئی تھی  
 (وہ کھجور انہوں نے اسے واپس نہیں دی) ابراہیم فرماتے ہیں گفتگو  
 سن کر میں بصرہ گیا اور اسی دوکان دار سے کھجوریں خریدیں اور اپنی  
 کھجوروں میں سے ایک کھجور نکال کر اس کی کھجوروں میں ڈال دی اور  
 بیت المقدس واپس آ گیا اور صحفہ کے نیچے سو گیا تھوڑی سی رات  
 گزری تھی کہ اچانک وہی دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک  
 دوسرے سے کہتا ہے یہاں کون ہیں؟ دوسرا کہتا ہے ابراہیم بن ادہم  
 ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے چیز اس کی جگہ لوٹا دی اور ان کا درجہ بلند  
 کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے تقویٰ کی کئی صورتیں ہیں عوام کا تقویٰ شرک سے  
 بچنا ہے خواص کا تقویٰ ہوس سے اور تمام گناہوں سے بچنا ہے اور  
 نفس کی مخالفت کہنا ہے اور مقرب و اخص اولیاء کا تقویٰ چیزوں  
 کی خواہش سے بچنا اور نفی عبادتوں میں تجرد سے بچنا اور تعلق اسباب  
 سے قطع نظر کرنا اور اللہ کے ماسویٰ کو چھوڑ دینا اور حال و مقام پر



من العبادات والتعلق بالاسباب والركون الى  
 ما سوى المولى ولزوم الحال والمقام وامتنال  
 الامر في جميع ذلك مع احكام القرائن  
 وتقوى الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا  
 تجاوزهم غيب في غيب فهو من الله والى الله  
 يامرهم وينهاهم ويوفقهم ويوزيهم ويطيّبهم  
 ويطبّهم ويكلّمهم ويحدّثهم ويرشدهم  
 ويهدّيهم ويعطيهم ويهتّمهم ويطلعهم  
 ويصمّمهم لا مجال للعقل في ذلك فهم في  
 معزل عن البشر بل عن الملائكة اجمع الا  
 فيما يتعلق بالحكم الظاهر والامر بالمبين الموضو  
 للامة وعوام المومنين فانهم يشاؤون الخلق  
 في ذلك وينفردون عنهم فيما سوى ذلك  
 وقد يعطى بعض ذلك الكرام من الابدال  
 والخلص من الاولياء فتقصر عباراتهم عن ذكر  
 ذلك فلا تظهر الى الوجود ولا تدرك بالسمع  
 والحس الا ما يغلب على اللسان فتبدر من  
 ذلك كلمة او كلمات ثم يتدارك الله  
 بالسكينة والتثبيت واسبال الستر عليه  
 فيستيقظ لامره ويحفظ لسانه وليستغفر  
 الله تعالى مما جرى ويغير العبادات ويحسن  
 اللفظ على وجه يعقل ويفهم على ما هو  
 المهور من الناس -

فصل وطريق التقوى اول التخلص من

مظالم العباد وحقوقهم ثم من المعاصي

چھڑنے کو چھوڑ دینا اور ان تمام باتوں میں حق تعالیٰ کے احکام بجالانا اور  
 فرائض میں چست و سرگرم عمل رہنا ہے۔ اور انبیائے کرام کا تقویٰ  
 پر وہ پردے میں ہیں اور ہم سے پوشیدہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور  
 اس کا مرجع اللہ ہے اللہ انہیں حکم فرماتا ہے اللہ ہی انہیں روکتا ہے اللہ  
 ہی انہیں ترفیق عطا فرماتا ہے اللہ ہی انہیں تعلیم و تربیت دیتا ہے  
 اللہ ہی انہیں پاک فرماتا ہے اللہ ہی ان کا علاج فرماتا ہے اللہ ان سے  
 گفتگو کرتا ہے ان سے باتیں فرماتا ہے انہیں رشد و ہدایت عطا فرماتا  
 ہے انہیں عطیات سے نوازتا ہے انہیں مبارکباد دیتا ہے انہیں خبردار  
 فرماتا ہے اور انہیں بصیرت بخشتا ہے ان کے تقویٰ تک عقل کی رسائی  
 ناممکن ہے انبیاء نہ صرف سالوں سے بلکہ فرشتوں سے بھی ایک گوشہ  
 خلوت میں الگ رہتے ہیں ہاں ظاہر احکام اور روشن امور میں جو  
 تمام امت کیلئے اور عام مسوئوں کیلئے وضع کئے گئے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے  
 ہیں اور باقی باتوں میں ان سے علیحدہ ہیں۔ خواص اس بزرگ کبریٰ میں ہیں  
 حرف مشدّد کئے کبھی اس باطنی تقویٰ سے کچھ حقد معزز ابرال کو اور خالص اولیاء کو  
 مل جاتا ہے لیکن انکی عبارتیں اسکے بیان کرنے سے قاصر ہیں اسلئے یہ عرض و جوڑیں  
 نہیں آتا اور نہ اس کا سن کر علم حاصل ہوتا ہے اور نہ جس سے، البتہ اس سلسلے میں  
 کوئی بات حالت جذب میں انکی زبان سے نکل جاتی ہے اور وہ ایک یا چند جملے  
 ہوتے ہیں پھر حق تعالیٰ اسکی نرمی سے تلافی فرمادیتا ہے اور انہیں ثابت قدمی عطا  
 فرماتا ہے اور پردہ پوشی فرماتا ہے بالآخر وہ اللہ کے امر کے لئے چوکتے ہیں  
 اور اپنی زبان کو اس راز کے انشا کرنے سے محفوظ رکھتے ہیں اور جو کچھ ہوا اس سے  
 اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور عبارت میں تغیر کرتے ہیں تاکہ نام  
 فہم ہو جائے اور اس طرح خوبصورت الفاظ آتے ہیں کہ ان سے معنی عقل میں  
 آسکے اور مطلب سمجھ میں آجائے جیسے عوام میں محاوروں سے مطلب سمجھا جاتا ہے  
 تقویٰ پیدا کرنے کا طریقہ تقویٰ پیدا کرنے کے لئے سب سے  
 پہلا یہ فرض ہے کہ لوگوں کے حقوق سے نجات حاصل کی جائے پھر تا کہ



الکباثر منها والصغائر ثم الاشتغال بترك  
ذنوب القلب التي هي امهات الذنوب و  
اصولها فمنها يتفرع ذنوب الجوارح من الرياء  
والنفاق والعجب والكبر والحرص والطمع  
والخوف من الخلق والرجاء لهم وطلب الحياه  
والرياسة والتقدم على ابناء جنسه وغير  
ذلك مما يطول شرحه وانما يقوى على جميع  
ذلك بمخالفة الهوى ثم الاشتغال بترك  
الارادة فلا يختار مع الله شيئا ولا يبدئ  
مع الله تدبيراً ولا يتخير عليه ولا ينص  
على جهة وسبب في رزقه ولا يعترض  
عليه عز وجل في خلقه بل يسلم الكل  
اليه ويتسلم بين يديه ويطرح نفسه  
لديه فيصير في يد قدرته كالطفل  
الرضيع في يد ظئره ودايته وكالميت  
في يد خاسله مسلوب اختياراً منزوماً  
ازادته فالنجاهة كل النجاهة في ذلك فان قال  
قائل كيف الطريق الى ذلك قيل له الطريق الى  
ذلك بصدق اللجوء الى الله عز وجل والالتزام  
اليه ولزوم طاعته بامثال او امره وانتهاء  
لواهبه والتسليم في قدره وحفظ حدوده  
وصيانة الحال دائماً ايدياً -

واختلفت اقاويل الشيوخ في النجاهة فقال

الحنيد رحمه الله تعالى ما نجا من نجا الا بصدق

اللجوء الى الله عز وجل قال الله عز وجل وعلى

چھوڑے بڑے گناہوں سے احتیاط کے ساتھ بچا جائے پھر دل کے گناہوں  
کو جو اہمات و اصول ہیں چھوڑنے کی طرف توجہ دی جائے انہیں  
سے اعتناء کے گناہ سرزد ہوتے ہیں جیسے ریا، نفاق، غرور، کبر،  
حرص، طمع، لوگوں سے ڈر، لوگوں سے امید، حماہ، ریاست اور لوگوں  
پر برتری وغیرہ جن کی تفصیل بموجب طوالت ہے ان کے چھوڑنے پر ان  
اسی وقت قادر ہو سکتا ہے جب ہوائے نفسانی پر تل جائے پھر اپنے ارادے  
کی طرف دیکھنے کو ترک کر دے اور اللہ کے مقابلہ میں کسی شے کو اختیار نہ کرے اور  
اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلہ میں اپنی تدبیر کو دخل نہ دے اور اللہ پر کسی کو بہتر  
خیال نہ کرے اور روزی کسی سبب اور وجہ کی طرف منسوب نہ کرے اور  
پیدا شدہ میں اللہ پر اعتراض نہ کرے اور بلکہ سب چیزیں اللہ کو منسوب  
دے اور اپنا نفس اللہ کے حوالہ کر دے اور اپنے کو اللہ کے آگے ڈال دے  
اور اللہ کے دست قدرت میں اس طرح بن جائے جیسے ایک شیر خوار  
بچہ اپنی دانی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جیسے مردہ غسل دینے والے کے  
ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کے اختیارات و ارادے سب ختم ہوتے ہیں  
دیکھے اور خوب یاد رکھیے پوری پوری نجات ایسا ہی طریقہ اختیار کرنے  
میں اگر کوئی پوچھے کہ ایسا تقویٰ حاصل کرنے کی راہ کیا ہے؟ تو اس کا  
یہ جواب ہے کہ سب سے کٹ کر صدق دل سے اللہ کی پناہ اختیار کی  
جائے اور طاعت و عبادت میں چھٹ کر پوری پوری سرگرمی دکھائی  
جائے شریعت مطہرہ کے احکام بجالائے جائیں، ممنوعات سے  
باز رہا جائے خود کو اللہ کی تقدیر کے حوالہ کر دیا جائے، اللہ  
کی حدود کی حفاظت کی جائے اور ہمہ وقت اپنے حال کی حفاظت  
کی جائے۔

نجات کے بارے میں مختلف اقوال نجات کے بارے میں

مشائخ کے اقوال مختلف ہیں جنہیں نجات دہی پاتا ہے جو حق تعالیٰ

جل مجدہ کی پناہ میں آجاتا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا: اور ان میں صحابیوں کی



الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض  
 بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا  
 ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ وقال رویم رحمہ اللہ  
 تعالیٰ ما نجا من نجا الا بالصدق والتقوی قال اللہ  
 عزوجل وینجی اللہ الذین اتقوا بما كانوا یؤفون  
 الجریری رحمہ اللہ ما نجا من نجا الا بہر اعادۃ  
 الوفاء قال اللہ تعالیٰ الذین یوفون بعهود اللہ  
 ولا ینقضون المیثاق وقال عطاء رحمہ اللہ  
 تعالیٰ ما نجا من نجا الا بتحقیق الحیاء قال اللہ  
 تعالیٰ الم یعلم بان اللہ یری وقال بعضہم  
 ما نجا من نجا الا بالحکم والقضاء السابق  
 فی علم اللہ عزوجل قال اللہ تعالیٰ ان الذین  
 سبقت لہم منا الحسنی وقال الحسن البصری  
 رحمہ اللہ تعالیٰ ما نجا من نجا الا بالاعراض  
 عن الدنیا واهلہا قال اللہ تعالیٰ انما الحیاتۃ  
 الدنیا لعب ولہو وقد ذکر النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم ان حب الدنیا رأس کل خطیئۃ  
 وما تقرب المتقربون الی اللہ بشیء افضل من  
 اداء ما افترض اللہ وقال منذ خلقہا اللہ  
 تعالیٰ ما نظر الیہا وقال الحسن رحمہ اللہ  
 تعالیٰ معنایہ ما نظر الیہا بعین رحمتہ من مقفہا  
 فہی الحجاب العظیم وبہائین الخالص من  
 المعیب ولا یصح لمن بقی علیہ منہا شیء  
 الوصول الی حلاوتہ ما حاتمہ سبحانہ لانہا  
 ضد عن اللہ و ضد ما یجیبہ اللہ۔

کے حق میں جو توبہ سے پیچھے ہٹا دئے گئے تھے حتیٰ کہ جب زمین باوجود  
 کشادہ ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان پر ان کے نفس تنگ ہو گئے  
 اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا اللہ کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں ملے گی  
 رویم جس نے نجات پائی صدق و تقویٰ ہی سے نجات پائی حق تعالیٰ  
 نے فرمایا اللہ تقویٰ والوں کو انکی کامیابی کے ساتھ نجات عطا فرماتا  
 تجریری: وہی نجات پاتا ہے جو اپنا عہد پورا کرنے کا خیال رکھتا ہے  
 حق تعالیٰ نے فرمایا: وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں  
 کرتے۔ عطاء: نجات وہی پاتا ہے جس کے اندر مکمل حیا ہے حق تعالیٰ  
 نے فرمایا کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بعض علماء: نجات  
 اللہ تعالیٰ کے حکم و تقدیر ہی سے ملتی ہے جو حق تعالیٰ جل مجدہ کا  
 علم ہے فرمایا: دیکھو جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے جنت پہل کر گئی  
 جس بصری: نجات اسی سے پائی جس نے دنیا سے اور دنیا داروں  
 سے منہ موڑا حق تعالیٰ نے فرمایا: دنیوی زندگی صرف کھیل کو دے ہے۔  
 نبی صلعم نے فرمایا: دنیا کی محبت ہر گناہ کی چوٹی ہے اور اللہ کا تقرب  
 حاصل کرنے کے لئے فرائض ادا کرنے سے افضل کوئی چیز نہیں آپ نے  
 فرمایا: جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی، کچھ ہی اس کی طرف نہیں دیکھا  
 حسن فرماتے ہیں یعنی دنیا پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی دنیا پر  
 نظر رحمت نہیں ڈالی لہذا یہ دنیا انسان کے اور اس کے رب کے  
 درمیان ایک انتہائی دبیز و عظیم حجاب ہے اور اسی دنیا کے  
 ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کون زر خالص ہے، اور  
 کون کھوٹا سکتا ہے جن کو دنیا سے ادنیٰ سا بھی لگاؤ ہے  
 انہیں اللہ سے مناجات میں حلاوت نہیں ملتی، اور  
 ان کی رسائی عبادتوں کی لذت تک نہیں ہوتی، کیونکہ  
 دنیا اللہ کے مناسب نہیں اور اللہ والوں کے مزاجوں کے  
 خلاف ہے۔



**فصل** وقد دعا الله عز وجل خلقه الى  
 توحيداً وطاعته بالوعد والوعيد والترهيب  
 والترهيب وحذر وانذر وخوف وزجر اعدارا  
 اليهم وتاكيد اللجة عليهم فقال عز وجل  
 رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس  
 على الله حجة بعد الرسل وقال عز من قائل  
 ولو انا اهلكناهم لعداب من قبله لقالوا  
 ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من  
 قبل ان نذل ونخزي وقال تعالى في آية اخرى  
 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى  
 يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم  
 وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين  
 وقال جل وعلا في التخليف والتخدير ويجذر  
 الله نفسه والله رؤف بالعباد وقال تبارك  
 وتعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم  
 فاخذ روه وقال جلت عظمتة واعلموا ان الله  
 بكل شىء عليم وقال جلت قدرته والقوت  
 يا اولى الابواب وقال سبحانه وتعالى واقفوا  
 الله واعلموا انكم ملائكة وقال تعالى  
 واقفوا لئلا ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل  
 نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى  
 واقفوا لئلا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل  
 منها عدل ولا تنفعها شفاعة وقال جل جلاله  
 يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا اليوم الاخير  
 والمد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده

### توحيد باری تعالیٰ شانہ

دعدہ فرما کر اور عذاب کا خوف دلا کہ لوگوں کو اپنی توحید و اطاعت  
 کی طرف بلایا اور توحید و اطاعت کی طرف آمینوں کو جنت کی رغبت  
 دلائی اور بھاگنے والوں والوں کو جہنم سے ڈرایا اور انہیں محتاط بنایا  
 چونکہ کیا ڈرایا اور دھمکایا تاکہ ان کے عذر دفع ہوں اور ان پر پیر نہ  
 حجت قائم ہو جائے چنانچہ فرمایا ہم نے جو شخص میری شانہ کے لئے اور  
 ڈرانے کے لئے رسول بھیجے تاکہ رسول آنے کے بعد لوگوں کے لئے اللہ  
 پر حجت نہ رہے (۲) اگر ہم رسولوں سے قبل انہیں عذاب سے ہلاک  
 کر دیتے تو وہ یہ کہے بغیر نہ رہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری  
 طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی ذیل در سوا ہونے  
 سے پیچھے پیروی کر لیتے (۳) ہم ایسے نہیں کہ کسی کو عذاب میں مبتلا کریں  
 جب تک رسول نہ بھیج دیں (۴) لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب  
 کے پاس سے نصیحت آگئی اور تمہارے سینوں کے لئے شفا بخش چیز آ  
 گئی اور مومنوں کے لئے ہدایت و رحمت آگئی (۵) خوف دلانے اور  
 ڈرانے کے بعد میں فرمایا: اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے  
 اور اللہ بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے (۶) یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہارے  
 دلوں کی تمام باتیں جانتا ہے اس لئے اس سے ڈرو (۷) یقین مانو  
 اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے (۸) اے عقل و ہوش والو مجھ سے  
 ڈرو (۸) اللہ سے ڈر جاؤ اور یقین مانو کہ تم اس سے ڈرنے والے ہو  
 (۹) اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹاٹے جاؤ گے  
 پھر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں  
 کیا جائے گا (۱۰) اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں  
 آئے گا اور نہ اس دن مذیہ قبول کیا جائے گا اور نہ شفاعت فائدہ  
 پہنچائے گی (۱۱) لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو  
 جس دن باپ اولاد کے اور اولاد باپ کے کچھ کام نہیں آئیگی بلاشبہ

شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة  
الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور وقال تعالى  
يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة  
شيء عظيم وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا  
ربكم الذي خلقكم من نفس واحد لا وخلق  
منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا  
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام  
ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها  
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا  
وقال عز وجل يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله  
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان  
الله خبير بما تعملون وقال تعالى واتقوا  
الله ان الله شديد العقاب وقال تعالى قوا  
الفسكم واهليكم نارا وقردها الناس  
والحجارة وقال عز وجل افحسبتم انما  
خلقناكم عبثا وانكم البئالاء ترجعون وقال  
جل وعلا يحسب الانسان ان يترك سدى  
وقال تعالى افا من اهل القرى ان ياتيهم  
باسناياتا وهم نائمون او امن اهل القرى  
ان ياتيهم باسناضحي وهم يلعبون فما  
جوابك يا مسكين عن هذا الايات وما  
عملك بها فهل انتهيت عن اتباع شهودك  
الخبثية المؤذية لك في الدنيا والاخرة المعنة  
لك في دار الشتاء والمهانة التي يحرقك نارها  
وتنهشك حياتها وتلسعك وتلسنك عقابها

اللہ کا وعدہ سچا ہے اس لئے دنیوی زندگی سے دھوکہ نہ کھاؤ اور تمہیں  
اللہ سے فریب دینے والا (شیطان) فریب نہ دے (۱۲) لوگو اپنے رب  
سے ڈرجاؤ دیکھو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے (۱۳) لوگو اپنے  
رب سے ڈرجاؤ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا  
جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیل گئیں  
اللہ سے ڈرجاؤ جس کے نام سے ایک درہم سے سوال کرتے ہو  
اور قطع رحمی سے بچو بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر محافظ و نگران ہے (۱۴)  
اے ایمان والو اللہ سے ڈرجاؤ اور ہر شخص سوچ لے کہ اس نے کل  
کے لئے اپنے آگے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرجاؤ بیشک اللہ تمہارے  
عملوں سے خوب خبردار ہے (۱۵) اللہ سے ڈرجاؤ بیشک اللہ سخت  
عذاب والا ہے (۱۶) اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ  
سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں (۱۷) کیا تمہارا گمان ہے  
کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں  
آؤ گے (۱۸) کیا انسان کا گمان ہے کہ وہ بونسی چھوڑ دیا جائے گا۔  
(۱۹) کیا شہری اس سے بے خوف ہیں کہ رات میں ان پر بہا عذاب  
آجائے اور وہ سوتے ہوں کیا آبادیوں میں رہنے والے اس بات سے  
مامون ہیں کہ ان پر بہا عذاب دن چڑھے آجائے اور وہ کھیلوں  
میں مصروف ہوں لہذا اسے قابل رحم انسان تیرے پاس مذکورہ بالا  
آیتوں کا کیا جواب ہے؟ اور ان پر تیرا کہاں تک عمل ہے کیا تو اپنی  
گندی شہوتوں کی پیروی سے باز آگیا ہے جو تجھے دنیا اور آخرت  
میں ایذا پہنچانے والی ہیں جو تجھے بد بختی کے اور خواری کے گھر میں  
اتار دینے والی ہیں جن کی آگ تجھے جلا کر خاکستر کر دے گی اور  
جن کے سانپ تیرا گوشت ٹوچ کر کھائیں گے اور تجھے طیس گے  
اور جہنم کی آگ کے بچھوڑ ٹنک مارتے رہیں گے اور اس کے کپڑے  
نکوڑے تیرا گوشت کھائیں گے اور روزی پر سو کل فرشتے تجھ پر



وهو امها وناكلك ويداها وتفر بك زبانتها  
 وخرانتها ويجد عليك في كل يوم الزواجر عذابها  
 وانت فيهما مع فرعون وهامان وقارون والشياطين  
 سواء وقال في الترغيب ومن يتق الله يجعل له  
 مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال  
 تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم  
 له اجرا وقال تعالى يا ايها الانسان ما غرتك  
 بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعد لك  
 وقال عز وجل الميان للذين آمنوا ان تتخشع  
 قلوبهم لذكر الله فقد رغبك فيما عندنا  
 في طلب فضله وسعة رحمته وطيب رزقه  
 والاستراحة اليه والطمانينة لديه بسلك  
 طريق التقوى وملازمته والمواظبة عليه  
 فبين لك بذلك الطريق واوضح لك المحجة  
 وضمن لك بعد ذلك غفران الذنوب و  
 تكفير السيئات وعظم الاجر والجزاء بقوله  
 عز وجل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته و  
 يعظم له اجرا ثم نبهك عن غرتك به و  
 رقتك عنه وتعاميك عن طريقه وتسامك  
 عن سماع آياته وعن مواظبه وزواجره  
 فقال تعالى ما غرتك بربك الكريم الذي  
 خلقك فسواك فعد لك فوصف نفسه  
 بالكريم لئلا تزهد في معاملته وتنفر  
 عن مقارنته وتشتغل عنه بخليقته ثم  
 ذكر لك بانه خلقك واوجدك من عدوك

ہموڑے برہائیں گے اور تجھ پر ڈرنا نہ طرح طرح سے عذابوں کی تجھ پر  
 کی جاتی رہے گی اور تو جہنم میں فرعون، هامان، قارون اور تمام شیطانوں کے  
 ساتھ عذابوں میں برابر کا شریک رہے گا اب تارین کرام توڑے پیر  
 ابھارنے والی آیتیں پڑھیں فرمایا (۱) اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا  
 اللہ اس کے لئے نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق  
 دیکھا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو گا (۲) اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا  
 گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا  
 (۳) اے انسان تجھے اپنے معزز رب کی طرف جو تیرا خالق ہے جس نے  
 تجھے درست کیا اور تیرے اعضاء موزوں بنائے کس چیز نے دھوکہ میں  
 رکھا (۴) کیا ایمان والوں کے لئے وقت نہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر  
 کے آگے جھک جائیں۔ ان آیتوں میں حق تعالیٰ مجھ نے اپنے پاس  
 والی چیزوں کی تجھے رغبت دلائی ہے کہ اس کے فضل کو وسیع رحمت  
 کو پاکیزہ رزق کو اس کے ذکر سے دلی ٹھنڈک کو اور اطمینان کو  
 تلاش کر یہ تمام چیزیں تجھے تقویٰ کے راستہ پر چل کر اور تقویٰ کو  
 چھٹ کر اور ہمیشہ اس میں مشغول رہ کر ہی حاصل ہو سکتی ہیں  
 لہذا حق تعالیٰ تجھے اس راہ کو کھول کھول کر بتایا اور تیرے لئے  
 حجت واضح فرمائی اور اس کے بعد حق تعالیٰ تیرے گناہ بخشے گا  
 اور برائیاں مٹانے کا ضامن بنا اور تجھے عظیم ثواب دینے کا وعدہ  
 فرمایا، فرمایا: اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں  
 مٹا دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے  
 تجھے تیری غفلت پر متنبہ کیا اور تیری نیند پر اور راہ حق کو ضائع  
 کر دینے پر اور اس سے اندھا بننے پر اور اللہ کی آیتوں نصیحتوں اور  
 ڈانٹوں کو سننے سے بہرہ بننے پر تجھے جھنجھوڑا اور فرمایا: تجھے کس  
 چیز نے تیرے معزز رب کی طرف سے دھوکہ میں رکھا جس نے  
 تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر برابر کیا حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا

واحياءك بعد ان لم تكن شيئاً و اغناك بعد فقرك  
 و قراك بعد ضعفك و بصرك في مصالحك بعد عمالك  
 و عملك بعد جهلك و هذالك بعد ضلالتك فما  
 تعودك يا غافل عن طلب فضله الواسع ، وما  
 تبطك عن ملازمة طاعته التي تشرفك في  
 الدنيا وتسعدك في العقبى وترفعك في الدرجات  
 العلى ارضيت بالحياة الدنيا واستبدلت الذي  
 هو اذني بالذي هو خير آثرت الدنيا و ابناها  
 و ما ظهر لك من الزينة التي لا تقاء لها على الفردوس  
 الا هلى و المرافقة مع الانبياء و الصديقين و  
 الشهداء اما سمعت قوله عز و جل ارضيتم  
 بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا  
 في الآخرة الا قليل و قوله تعالى بل تؤثرون  
 الحياة الدنيا و الآخرة خير و البقى و قوله تعالى  
 فاما من ظمى و آثر الحياة الدنيا فان المحم هي  
 البادى -

**فصل** و اعلم ان دخول النار بالكفر  
 و تضاعف العذاب و قسمة الدرجات بالاعمال  
 السيئة و الاخلاق السيئة و دخول الجنة بالايان  
 و تضاعف النعيم و قسمة الدرجات بالاعمال  
 الصالحة و الاخلاق الحسنة و ان الله عز و جل  
 خلق الجنة فحشاها بالنعيم ثواب اهلها و  
 خلق النار فحشاها بالعذاب عقاب اهلها و خلق  
 الدنيا فحشاها بالآفات و النعيم محنة و ابتلاء  
 ثم خلق الخلق و الجنة و النار في غيب منهم لم

رب كريم ہے تاکہ تو معاملات میں اس سے بے رغبتی نہ کرے اس کے قرب  
 سے نہ بد کے اور اسے چھوڑ کر اس کی مخلوق سے دل نہ لگائے پھر فرمایا کہ  
 اللہ نے تجھے پیدا کیا اور عدم سے وجود میں لا کر ایجاد کیا اور تجھے زندہ کیا  
 جبکہ تیرا نام و نشان تک نہ تھا تو دنیا میں خالی لاتھ آیا تھا لیکن اللہ نے تجھے  
 مال عطا فرمایا اور کمزوری کے بعد تجھے طاقت بخشی اور تیری آنکھوں میں  
 اور عقل میں نور بخشا اور جہالت کے بعد تجھے عطا فرمایا اور گمراہی کے بعد تجھے راہ  
 دکھائی، اہلے غافل! رب کا وسیع فضل کیوں تلاش نہیں کرتا اور کیوں مست بیٹھا  
 اور دل میں رب کی اطاعت کی ترپ پیدا کیوں نہیں کرتا جو تجھے دین و دنیا کی سعادت  
 اور شرف بخشے کی ضمانت ہے اور تجھے بلند درجات میں چڑھا کر لیجانے کی ذمہ دار ہے  
 بول اطاعت میں کیا توقف ہے؟ کیا تو نبوی زندگی سے خوش ہے؟ اور تو نے علی اور  
 بہتر کے بدلے اپنی اور رسی شے منتخب کر لی ہے؟ اور تو دنیا کو اور دنیا داروں کو  
 اور دنیا کی ناپائیدار زینت کو ترجیح دیتا ہے اور فردوس اعلیٰ سے اور انبیاء صدیقین  
 شہداء کی رفاقت سے منہ موڑتا ہے؟ کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی کیا تم آخرت کے  
 بدلے دنیوی زندگی سے افسی ہو گئے ہو؟ لیکن آخرت کے مقابلے میں نبوی زندگی سے  
 اٹھانا ٹھوڑا سا ہی ہے فرمایا بلکہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے  
 اور پائدار ہے فرمایا جس نے سرکشی کی اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی جہنم ہی اس کا ٹھکانہ  
**جنت و جہنم اور ان کا ثواب و عذاب** خوب یاد رکھیے  
 انسان جہنم میں کفر و شرک کی وجہ سے جائیگا اور عذاب و عقاب اور  
 طبقات جہنم میں حصہ برے اعمال و قبیح اخلاق کی وجہ سے ملے گا اسی طرح  
 جنت ایمان کا عوض ہے اور نعمتوں کی فراوانی اور درجات کی تقسیم نیک اعمال  
 و اخلاق کی رہن منت ہے حق تعالیٰ نے جنت پیدا کی اور اہل جنت کو ثواب  
 دینے کے لئے اسے نعمتوں سے بھر دیا اسی طرح جہنم پیدا کی اور اہل جہنم کو  
 عذاب دینے کے لئے عذابوں سے بھر دیا اور دنیا پیدا کر کے لوگوں کو آزمائش  
 کے لئے اسے ایک طرف آفتوں سے اور دوسری طرف راحتوں سے بھر دیا  
 پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس حال میں پیدا کیا کہ جنت و جہنم اس سے



يعاينوها فالنعيم والآفات التي في الدنيا هي  
 انموذج الآخرة ومذاقة ما فيها وخلق في  
 الارض من عبادة ملوك اعطاهم سلطانا  
 اربع به القلوب وملك به النفوس فهو  
 انموذج ومثال لتدبيره وملكه ونفاذ امره  
 ومعا ملته فجعل خبر ذلك كله تنزيلا ووصف  
 الدارين ووصف ملكه وقدرته وتدبيره  
 ومنتته ومناجته وضرب الامثال على ذلك ثم  
 قال تعالى وتلك الامثال نقيها للناس وما  
 يعقلها الا العالمون فالعلماء بالله يفهمون  
 عن الله امثاله لان المثل انما هو وصفته شيء  
 قد شاهدته بريك صفة ما غاب عنك و  
 يبصر بك بما لا تبصره بعينك لينفذ بصير قلبك  
 الى ما لا تبصره بعينك فيعقل قلبك ما خوطبت  
 به من خير الملكوت وخير الدارين وخبر معا  
 ملك الملوك فليس في الدنيا نعمة ولا شهوة  
 الا وهى انموذج الجنة وذوقها ثم من وراء  
 ذلك فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت  
 ولا خطر على قلب بشر فلو سمي للعباد منها شيء  
 لم يتفعلوا بتلك الاسماء لانهم لم يعقلوا  
 ما هناك ولا رآوه وليس له انموذج في الدنيا  
 والجنة مائة درجة وانما وصف منها ثلاث  
 درجات الذهب والفضة والنور ثم من وراء  
 ذلك شيء غير معقول ولا تحمله العقول وكذلك  
 ما في الدنيا من الشدة والعذاب فهو انموذج

او جمل ہیں کسی نے نہ جنت دکھی ہے اور نہ جہنم دنیا کی نعمتیں اور آفتیں اور  
 کی نعمتوں اور آفتوں کا نمونہ ہیں اور آخرت کی نعمت و آفت کا ذائقہ ہیں  
 اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو بادشاہ  
 بنا دیا اور انہیں اس قدر طاقت دیدی جس سے انہوں نے لوگوں کو غلام  
 کر کے ان پر اپنی حکمرانی قائم کر لی یہ اقتدار و ملک اور نظم و نسق اللہ کے  
 اقتدار و ملک کا اور اس کے نظم و نسق کا اور اس کی تدابیر و تصرفات کا  
 نمونہ ہیں۔ حق تعالیٰ نے یہ تمام باتیں قرآن میں نازل فرمائیں اور دونوں  
 گھروں کے احوال بھی بیان فرمائے اور اپنی حکمرانی قدرت کا اور تدبیر اور اپنے العباد  
 و احسانات کا ذکر بھی فرمایا اور ان سب کی مثالیں بیان فرمائیں پھر فرمایا  
 اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہیں اہل علم  
 ہی سمجھتے ہیں اسی لئے جو اللہ والے علماء ہیں اللہ کی طرف سے اتنی ہوتی  
 مثالوں کو سمجھتے ہیں اگر کوئی چیز تمہارے مشاہدہ میں نہ آئی ہو اور اس  
 سے ملتی جلتی ایک ایسی چیز پیش کی جائے جو تمہارے مشاہدہ میں آچکی ہو  
 اس کو مثال کہتے ہیں تاکہ تمہارے دل کی آنکھیں اسے دیکھ لیں جسے تمہارے  
 سر کی آنکھوں نے نہیں دیکھا تاکہ تمہارا دل عالم ملکوت کی خیر و سعادت کو  
 سمجھ لے جس کا تم سے خطاب کیا گیا ہے اور جو دین و دنیا میں موجب  
 سعادت ہے اور شہنشاہ حقیقی کا خیر و برکت والا معاملہ ہے لہذا دنیا  
 میں کوئی نعمت اور لذت ایسی نہیں جو جنت کا نمونہ نہ ہو اور وہاں کا ذائقہ  
 نہ رکھتی ہو پھر ان کے علاوہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ آنکھوں نے  
 دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ ان کا تصور ہی انسان کے دل میں پیدا  
 ہوا اگر ان میں سے کسی نعمت کا لوگوں کے سامنے نام لے دیا جاتا تو اس  
 سے انہیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوتا کیونکہ لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں  
 اور نہ دنیا میں ان کا نمونہ موجود ہے اور نہ وہ اسے سمجھنے پر قادر ہیں جنت  
 سو درجے ہیں ان سو درجوں میں سے صرف تین درجوں کا کچھ حال ذکر کیا  
 ہے یعنی ایک سونے کا ہے ایک چاندی کا ہے اور ایک نوز کا ہے



دار العقاب ثم من وراء ذلك شيء لا تحمله  
العقول من ألوان العذاب كل ذلك يخرج لهم  
من غضبه ولاهل الجنة من رحته فكل من  
تناول من عبادة من دنيا لا ما يبيع له وشكره  
عليها ابدل له من الجنة ما يدق هذا في جنبه  
ومن تناول ما لم يبيع له فقد حرم نفسه حظها  
من الدرجات ومن كذب بها حرم الجنة  
بما فيها اجمع فلاهل الجنة عرائس دولائم  
وضيافات فالعرائس للدعوة وذلك ان رب  
العزة سبحانه دعاهم الى دار السلام ليجدد  
لهم ابدانا طرية واعمالا ابدية والولائم  
للزواج والضيافات للزيارة ولاهل الجنة  
تلاق وزيارات فيما بينهم ومتحدث في  
مواطن اللفة ومجتمع في ظل طوبى يلقون الرسل  
هناك وينورونهم ومجالس الملائكة فيما  
بينهم سلام الله عليهم اجمعين واسواق  
ياتونجا يتخيرون فيها الصور وهدايا من  
الرحمن في اوقات الصلوات يغدي ويراح  
عليهم من ألوان الاطعمة والاشربة والفواكه  
بكرة وعشيا ازاقهم دار لا مقطوعة ولا  
منوعة ومزيد من الله يوم بيوم فاذا اتاهم  
المزيد نسوا ما قبله ثم لهم منتزه يخرجون  
اليه في رياض على شاطئ نهر الكوثر عليه  
خيام الدر مضيوية وكل خيمة ستوت  
ملا في عرض مثله من لؤلؤة واحدة ليس لها

درجات عقل میں آنے والے نہیں اور عقول سے ماورا ہیں اسی طرح دنیا میں  
جس قدر تکالیف رکھیں وہ سب جہنم کے دکھوں کا نمونہ ہیں پھر ایسے  
ایسے عذاب ہیں جو عقل سے ماورا ہیں۔ غرضیکہ عذاب ہوں یا ثواب  
سب غضب و رحمت کے ثمرات ہیں۔ پھر جو اللہ کے بندے دنیا میں  
وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو حق تعالیٰ نے ان کے لئے مباح فرمادی  
ہیں اور ان پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ان کے بدلہ انہیں جنت  
میں ایسی عظیم نعمتیں ملیں گی جن کے مقابلہ میں دنیا کی نعمتیں کچھ نہیں اور  
جو غیر مباح اور حرام چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ اپنے اور پرانے  
کو حرام کر لیتے ہیں جو انہیں درجات سے ملنے والی تھیں اور جو کذب  
کرتے ہیں وہ جنت کو معاہدہ اس کی نعمتوں کے اپنے اور پر حرام کر لیتے ہیں  
جنت والوں کے لئے دلنہیں ہیں ولیمہ کی دعوتیں ہیں اور مہمانیاں ہیں عروسا  
بہشتی دعوت قبول کر سکی وجہ سے ملیں گی کیونکہ حق تعالیٰ شانہ نے دار السلام کی دعوت  
دی کہ انہیں از سر نو تازہ جسم دائمی عمر میں عطا فرمائے اور ولیوں کی دعوتیں سولہ  
کی وجہ سے اور مہمانیاں ملاقات و زیارت کی وجہ سے۔

جنتی جنتوں میں باہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور زیارت کے  
لئے ایک دوسرے کے پاس آئیں جائیں گے اور الفت والے مقامات میں بات  
چیت کریں گے اور طوبی کی چھاؤں میں جمع ہونگے وہاں انبیائے کرام سے ملاقات  
کریں گے اور انکی زیارت کریں گے اور ان کے درمیان فرشتوں کی مجلسیں ہوں گی  
حق تعالیٰ ان سب پر سلامتیاں بھیجے اہل جنت کیلئے بار بار بھی ہونگے جن میں  
گھومیں گے جہاں وہ اوقات نماز میں رب رحمن سے تحفے تحائف مقرب  
کریں گے اور ان کے پاس نبل از زوال و بعد از زوال صبح و شام طرح طرح کے  
کھانے مشروبات اور پھل پہنچیں گے جنت والوں کی غذا ایسی ایسے خوش  
ہیں جو نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ روکے جاتے ہیں ان میں دن بدن حق تعالیٰ  
شانہ کی طرف سے اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے جب ان کے پاس اضافہ کی نعمتیں  
آئیں گی تو پہلے نعمتوں کو بھول جائیں گے پھر جنت والوں کے لئے تفریح کا



باب فیہا جوار عبققات لم ینظر الیہن ملک  
 ولا احد من اهل الجنة من الخدام والحوار  
 وهو قوله عز وجل فیہن خیرات حسان و اذا  
 قال الله لهن حسات فمن یقدر ان یصف  
 حسنہن ثم قال تعالیٰ حور مقصورات فی  
 الخیام فتلك خیرة الرحمن اختار صورہن  
 الحسان بین الصور امید عن من سعائب الرحمة  
 فاذا امطرت امطرت حورای حسانا علی مشیئة  
 الکریم نور وجوهہن من نور العرش من بیت علیہن  
 خیام الدر فلم یرہن احد منذ خلقہن فہن  
 مقصورات فی الخیام قد قصرن اثنی عشر علی  
 ازواجہن من جمیع المخلوق فاهل الجنة یتنعمون  
 فی القصور مع الازواج ویلبثون فی النعمة ماشاء  
 الله حتی اذا کان الیوم الذی یرید الله عز وجل  
 ان یجد لہم نعمة ونزہة لودوا فی درجات  
 الجنان ہذا الیوم نزہة وسرور و تفسح وجور  
 فاخرجوا الی منتزہکم فیخرجون علی خیول  
 الدر والیاقوت من ارباب صد انہم الی تلك  
 المبادین ثم یرون علی تلك المبادین الی تلك  
 الریاض علی شاطیء نہر الکوثر فیہد بہم الله  
 الی منازلہم فینزل کل رجل منہم عند  
 خیمۃ ولا باب لہا فتصدم الخیمۃ عن باب  
 وذلك بعین ولی الله تعالیٰ لیعلم ان التی  
 فیہا لم یطلع علیہا احد و فاء لما قدم الله  
 من الوعد فی دار الدنیا حیث قال فیہن

بھی ہیں وہ ان تفریح گاہوں میں کوشکے ساحل پر باغوں میں جائیں گے  
 نہ کہ شہر پر ایک ایک موتی کے بیجاڑھے ہو گئے ہر خیمہ ۶ میل چڑا اور ۶  
 میل لمبا ہو گا جس میں دروازہ نہ ہو گا ہر ایک خیمہ میں خوشبو میں سی ہوئی اور جو  
 کنواریاں ہوں گی جن پر آج تک نہ کبھی فرشتوں کی نگاہ پڑی نہ اہل جنت کے  
 کسی خادم نے انہیں دیکھا اور نہ کسی حور نے انہیں دیکھا فرمایا: ان میں انتہائی  
 نفیس و خوبصورت چہروں والیاں ہوں گی جب حق تعالیٰ انہیں حسین فرماتا ہے  
 تو پھر کہ ان کا حسن بیان کرنے پر قادر ہو سکتا ہے پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے  
 یعنی حوریں جو خیموں میں محفوظ رکھی گئی ہیں لہذا وہ حق تعالیٰ کے چنی ہوئی  
 ہیں اور حق تعالیٰ شانہ نے ان کی صورتیں منتخب فرما کر خوبصورت اور دیدہ  
 زیب بنائی ہیں انہیں رحمت کے بادلوں سے پیدا کیا گیا ہے جب یہ بادلوں  
 برستے ہیں تو ان سے رب کریم کی مشیت کے مطابق یہ خوبصورت و شیرازیں  
 برستے ہیں ان کے چہروں کا نور عرش کے نور سے ماخوذ ہے ان کے لئے ایک  
 ایک موتی کے بیجاڑھے نصب ہیں لہذا جب سے انہیں اللہ نے پیدا کیا  
 ہے انہیں کسی غم نہیں دیکھا کیونکہ یہ خیموں میں اپنے اپنے شوہروں کیلئے محفوظ ہیں  
 اہل جنت اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے اپنے محلوں میں نعمتوں میں اپنی زندگیاں  
 گزاریں گے اور نعمتوں میں جب تک اللہ کو منظور ہو گا رہیں گے حتیٰ کہ جب وہ  
 دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں تجدید فرمائے گا اور موجودہ درجہ  
 سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا تو جنتوں کے درجات میں اعلان کیا جائے گا کہ اے  
 جنت والو یہ تفریح و خوشی کا اور لبتاشت و آرائش کا دن ہے لہذا اپنی  
 اپنی تفریح گاہوں کی طرف نکلو چنانچہ جنتی موتی اور یاقوت کے گھوڑوں  
 پر سوار ہو کر اپنے اپنے شہروں کے دروازوں سے ان میدانوں کی طرف نکلیں گے  
 اور ان سے عبور کر کے ان باغوں میں جائیں گے جو کوشکے ساحل پر واقع ہیں پھر  
 حق تعالیٰ شانہ انکی کے گھروں کی طرف رہنمائی فرمائے گا اور ہر شخص اپنے اپنے  
 خیمہ کے پاس اتر پڑے گا جو کہ خیموں کے دروازے نہ ہونگے اس لئے ان میں  
 اچانک دروازے پھٹ جائیں گے اور ان اولیاء اللہ کی آنکھوں کے سامنے دروازے



خیرات حسات ثم قال تعالیٰ حور مقصورات  
 فی الخیام ثم قال عز وجل لم یطہن النس  
 قبلہم ولا جان فیستوی معہا علی سریر التز  
 فی تلك المجال فیما لعلیہم من ولیمتھا فاذا  
 طعموا الولا ثم سقاہم اللہ شربا طہورا و تفکروا  
 بطرف الفواکہ التي جدد اللہ لہم من تلك  
 الہدایا فی ذلك الیوم والحلی والحلل فخلع علیہ  
 کسوتہ الرحمن و اشتغلوا بالخیرات الحسان  
 یقفون منہم الا و طار السمات ثم یتحولون  
 الی مجالس العقریات الموشاة بالوان النقوش  
 علی شواطئ الانہار فی تلك الریاض یرکبون  
 الرفارف الخضر و یتکئون علیہا و هو قولہ  
 تعالیٰ متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان  
 فاذا قال اللہ لشیء حسان فماذا البقی فالرفرف  
 ہوشیء اذا استوی علیہ رفرف بہ و اہوی  
 کالارجوحۃ بینا و شمالا و رفعا و خفصنا یتلذ  
 مع انیسہ فاذا ركبوا الرفارف اخذ اسرافیل  
 علیہ السلام فی السماع و روی فی الخبر انہ  
 لیس من خلق اللہ تعالیٰ احسن صوتا من اسرافیل  
 علیہ السلام فاذا اخذ فی السماع قطع علی اهل  
 سبع سموات صلاتہم و تسبیحہم فاذا ركبوا  
 الرفارف و اخذ اسرافیل فی السماع بالوان  
 الاغالی تسبیحا و تقدیبا للسلک القدوس لم  
 یتبق فی الجنة شجرة الاوردت و لم یتبق ستر  
 و لا باب الا ریح و الفتح و لم یتبق حلقة باب

پھٹیں گے کہ خیوں کے اندر جو نازک اندام و گل ابران ہیں ان سے آج تک کوئی  
 خبردار نہ تھا تا کہ اب سے پہلے حق تعالیٰ نے ان سے یہ جو وعدہ فرمایا تھا کہ ان میں  
 استوائی نفیس حسین خواتین ہیں وہ پورا ہوا فرمایا ان میں حوریں ہیں جو خیوں  
 میں محفوظ ہیں جن کو ان جنت والوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا اور نہ  
 جنوں نے۔ پھر جنتی ان کے پاس تفریح بخش تختوں پر ان خیموں میں  
 جلوہ افروز ہو گا اور ان کے ولیمہ کا کھانا ان پر اوپر سے اترے گا پھر جب  
 وہ ولیمہ کا کھانا کھا چکیں گے تو حق تعالیٰ انہیں پاکیزہ مشروب پلائے گا  
 پھر وہ ان پھلوں میں سے پھل تناول فرمائیں گے جو اس دن کے جبرئیل عظیم  
 میں انہیں حق تعالیٰ نے عطا فرمائے ہونگے ان میں زیورات و جڑے بھی  
 ہونگے پھر رب رحمن انہیں اپنے جڑے پھلے گا اور وہ گل اندام حسین  
 حوروں سے مخلوط ہوں گے اور ان کے وصال سے نسا د کام ہوں گے۔  
 پھر وہ ان اجتماعات میں شریک ہونگے جو کہ ترنے کناروں والے باغات میں قسم  
 لیتی دیتی اور مزین فرشتوں پر منعقد ہونگے اور بزم مندوں پر ٹیک لگا کر اندام  
 جاگڑے جابٹیں گے فرمایا وہ بزم مندوں پر اور خوبصورت قالینوں پر ٹیک لگا  
 ہوئے ہونگے جب اللہ کسی چیز کو حسین فرمادے تو اسکی خوبصورتی کا کیا ٹھکانہ  
 رنن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس پر بیٹھ جانے کے بعد وہ چیز اپنے بیٹھنے والے  
 جھولے کی طرح جھلائے اور اسے ڈائیں بائیں اور نیچے لیٹے اور اپنی ہم نشین حور  
 لذت اندوز ہوتا رہے پھر جب جنتی اپنے اپنے جھولے میں بیٹھ جائیں گے تو  
 حضرت اسرافیل گوناگوں دل خوش کن لہجوں میں اور پیاری اور دل بہانے  
 والی آواز میں انہیں شہنشاہ حقیقی کی تسبیحات سنائے گیں گے اور جنت ہر درخت  
 کی شاخ شاخ تسبیحات دہرائیگی اور جنت کا ہر پردہ اور ہر دروازہ گونج  
 اٹھے گا اور کھل جائیگا اور دروازوں کے ہر حلقہ سے طرح طرح کے دلپسند  
 لہن پیدا ہونگے اور چاندی سونے کا کوئی بن ایسا نہ ہو گا جس کے درختوں سے  
 تسبیح و تقدیس کی یہ دلفریب آوازیں نہ گراتی ہوں تمام درخت قسم قسم کے پھول  
 سے گونج اٹھیں گے اور حوروں کی خدمتگار لونڈیوں میں سے ہر لونڈی اپنے



الاطنت بألوان طينها ولم يبق اجمة من  
 آجام الذهب والفضة الا وقع هبوب الصوت  
 في مقاصبها فزمرت تلك المقاصب بفنون الزمر  
 فلم يبق جارية من جوارى الحور العين الا غنت  
 باغانبها والطير بالمحانها فيوحى الله عز وجل الى  
 الملائكة ان جاوبوهم واسمعوا عبادى  
 الذين نزهوا سماعهم عن مزامير الشيطان  
 فيجاوبون بالحنان والاصوات روحانية فتخلط  
 هذه الاصوات فتصير رجة واحدة ثم  
 يقول الله تعالى قم يا داود عند ساق عرشى  
 فوجدنى فيندفع داود فى تمجيد بصوت  
 يغمر الاصوات ويجليها وتتضاعف اللذة  
 واهل الحيايم على تلك الرفارف تهوى  
 بهم وقد حفت بهم افانين اللذات و  
 الاغاني فذلك قوله عز وجل فهم فى  
 روضة يجرىون قال يحيى بن كثير رحمه الله  
 الروعة اللذة والسماع فينباهم  
 على لذاتهم وسرورهم اذ انفتح لهم  
 باب الملك القدوس من جنة عدن  
 فارجت اصوات صفوف الروحانيين من  
 باب جنة عدن بتماجد الماحد الكريم  
 الى درجات الجنان وثار ريع عدن نية  
 بألوان الطيب والروح والنسيم وهوسيم  
 القربة وسطح على اثر ذلك نور فاشرفت منه  
 رياضهم وخباهم وشواطي وانهارهم و

پرسرور لہجوں میں تسبیح و تقدیس پڑھنے لگیں گی اور پرندے بھی اپنے پیارے  
 پیارے اور بیٹھے سروں میں ذکر اللہ میں رطب اللسان ہو جائیں گے  
 پھر حق تعالیٰ فرشتوں کو وحی فرمائے گا کہ جنت والوں کو جواب دو اور  
 میرے ان بندوں کو تسبیح و تقدیس کے نغمے سناؤ جنہوں نے دنیا میں  
 اپنے کان شیطان کی گیتوں سے محفوظ رکھے تھے چنانچہ فرشتے انہیں روحانی  
 سروں اور آوازوں سے جواب دینگے اور تمام آوازیں مل کر ایک گونج  
 پیدا ہوگی پھر حق تعالیٰ جل مجدہ حضرت داؤد سے فرمائیں گے کہ میرے  
 عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہو کہ میری عظمت بیان کر دیکر حضرت  
 داؤد غضب کی دلفریب آواز سے اللہ کی عظمت بیان فرمائیں گے اچھی  
 آواز تمام آوازوں پر غالب آجائے گی اور تمام آوازوں کو مزید دلفریب  
 بنا دیگی اور لذت میں اور چار چاند لگ جائیں گے خمیوں والے اپنے اپنے  
 جھولوں میں ہوں گے اور جھولے انہیں جھلا رہے ہونگے اور انہیں قسم قسم کی  
 لذتیں اور گونا گوں میٹھے سرگھبرے ہوئے ہونگے اسی لئے حق تعالیٰ نے فرمایا  
 وہ ایک باغ میں آراستہ کئے جائیں گے اور بنائے سوار سے جائیں گے۔  
 بچی بن کیشا روہنہ سے یہاں لذت و سماع مراد ہے۔

جنتی اپنی لذت اور سرور و کیف میں مصروف ہونگے کہ اتنے میں اپنا ک  
 ان کے سامنے جنت عدن سے شہنشاہ قدوس کا دروازہ کھلے گا اور جنت  
 عدن کے دروازے سے روحانیوں کی قطاروں سے ماجد کیم کی تجیدات  
 کی آوازیں جنت کے تمام درجات تک گونجیں گی اور جنت کی ٹھنڈی  
 ٹھنڈی ہوا میں اپنے دوش پر گونا گوں خوشبوئیں اور پھولوں کی لہٹیں  
 لئے ہوئے نسیم سحر کو شربائیں گی پھر ایک روشنی طلوع ہوگی جس کے  
 نور سے ان کے باغ خیمے اور سواحل کوثر جگمگا جائیں گے اور ہر چیز  
 نور سے بھر جائے گی اور اوپر سے حق تعالیٰ جل جلالہ جنت والوں کو  
 آواز دیکر فرمائے گا: دوستو! مخلصو! میرے برگزیدہ بندو! اور اے جنت  
 والو! اسلام علیکم تم نے اپنی تفریح گاہیں کیسی پائیں یہ تمہاری خوشی کا



امتلأ كل شيء ومنهم لورا ثم ناداهم الجليل  
 جل جلاله من فوق رؤسهم السلام عليكم  
 احبائي واوليائي واصفيائي يا اهل الجنة كيف  
 وجدتم متزهاكم هذا اليوم كم بدل نيروز  
 اعدائي طلبوا لوما من الدنيا ليجدوا على  
 انفسهم النعمة التي قد كدروها على  
 انفسهم لحيثهم وشقائهم فلم ينالوا  
 ما طلبوا من اللذة وخسروا في جنب ما  
 طلبوا في العاجل ولم يتصبروا حتى  
 ينالوا هذا الذي اعدت في الاجل  
 لاهل طاعتي فاعرضتم عما اليه اقبلوا  
 وامتنعتم مما فيه تانس اهل الدنيا فاليم  
 يذوقون وبال ما تانسوا فيه وشيكا ما  
 انقطع به ما طلبوا من اللذة والنهمة في  
 دار الفناء وصاروا الى الذل والهوان و  
 جزيتهم بما صبرتم حينة وحريرا ومنتزها  
 وسلاما وهذا اليوم نيروزكم ومنتزهاكم  
 وهذا اليوم زيارتكم في داري في حنة عدن  
 وطالسا رايتكم في ايام الدنيا في مثل ذلك  
 اليوم مشتغلين بعبادتي وطاقعتي والمترفون  
 في لهوهم ولعبهم سكارى حيارى عصاة  
 متسردين يتبعون بحطام الدنيا ويفرحون  
 بتداولها بينهم وانتم تراقبون جلالتي و  
 تحفظون حدودي وترعون عهدي وتشفقون  
 على حقوقي وليفتح لهم باب من ابواب النيران

دن ہے اور میرے دشمنوں کے خوشی کے دن (نور دن) کے بدلہ میں ہے میرے  
 دشمنوں نے دنیا میں ایک دن مقرر کیا تھا وہ اس میں ان نعمتوں کی تجدید  
 کیا کرتے تھے جن کو انہوں نے اپنی گندگی اور شقاوت کی وجہ سے گدلا بنا دیا  
 تھا مگر وہ اس میں من مانی لذتیں حاصل نہ کر سکے اور گھاٹے میں رہے کیونکہ  
 وہ یہ دن دنیا میں مناتے تھے اور دنیا آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں انہوں نے  
 صبر نہیں کیا تھا کہ اس دن سے کامرانی حاصل کرتے جسے میں نے آخرت  
 میں اپنے وفادار و اطاعت گزار بندوں کے لئے تیار کیا ہے لیکن وہ سب  
 تم نے اس دن سے اعراض کیا تھا جس پر وہ ٹوٹ پڑے تھے اور تم اس  
 میں شامل نہ ہوئے تھے جس کی طرف دنیا داروں کی رغبت تھی آج دنیا داروں  
 اس کا وبال چکھیں گے جس کی طرف وہ راغب تھے اور دنیا میں جو لذتیں  
 اور مزے دنیا والوں نے اڑائے تھے اور وہ تم سے منقطع تھے آج تم مرے  
 اڑاؤ گے اور دنیا دار ذلت و خواری سے دوچار ہو گے اور تمہارے سب  
 کے بدلہ تمہیں جنت ارضیم، سیرگاہ اور سلامتی عطا کی جائیگی یہ تمہارا  
 خوشی کا دن ہے اور جنت عدن میں میرے گھر میں مجھ سے تمہاری ملاقات  
 کا دن ہے۔ میں نے تم کو ایک مدت تک دنیا میں اس جیسے خوشی کے  
 دن میں اپنی عبادت میں مشغول دیکھا جبکہ مال دار و عیاش لہو و لعب  
 میں محو و بدست رہا کرتے تھے دین میں شک کیا کرتے تھے نافرمانیوں  
 پر پلے ہوئے تھے امر کش و مغرور تھے، دنیا کی ناپائیدار چیزوں کے  
 عیش میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان چیزوں کو آپس میں لے دے کہ  
 اترا یا کرتے تھے لیکن تم میرے جلال کا پاس رکھتے تھے اور میری حدود  
 کی حفاظت کیا کرتے تھے اور میرے عہد کا لحاظ رکھا کرتے تھے اور میرے  
 حقوق کی نگرانی کیا کرتے تھے آج ان کے لئے آگ کا ایک دروازہ  
 کھول دیا جائے گا اور اس کے شعلے اور اس کا دھواں بھڑک اٹھے گا اور  
 آگ میں جلنے والوں کی چیخ و پکار اور ان کی آہ و زاری اللہ کی پناہ اللہ  
 کی پناہ تاکہ جنت والے ..... ان نعمتوں پر غور کریں جن سے حق تعالیٰ نے



فيفور لهم بها ودخانها ومزاج اهلها وعويلهم  
 لينظر اهل الجنان من هذا المجلس الى ما  
 من الله به عليهم فيزادون غبطة وسرورا  
 وينظر اهل النار من تلك السجون والمجالس  
 في تلك الاغلال والقيود فيتحصرون على ما  
 فاتهم فيستغيثون بوجوه اهل الجنان الى الله  
 وينادونهم باسمائهم فيقول الله تبارك اسمه  
 ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم  
 وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون  
 لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام  
 قول من رب رحيم وامتناز واليوم ايها المجرمون  
 الم اعهد اليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان  
 انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط  
 مستقيم فتجيش لهم النار فتفرق جمعهم و  
 ينقطع نداءهم فتصرى بهم الى جزائر في النار  
 فاذا اخرجوا اليها دبت اليهم عقارب لها  
 انياب كاشمال النخل ثم يقبل عليهم سيل  
 من نار حشوة غضب الجبار فيحملهم فيغرقهم  
 في بحار النيران وينادي مناد من قبل الله تعالى  
 هذا يومكم الذي كنتم تبارزونني فيه  
 بالعظائم وتتبررون علي بنعتي وتفرحون  
 في دار الاحزان والعبودية بما تضاهون به  
 ما اعدت لاهل طاعتي فقد انقطعت  
 عنكم تلك اللذات فذوقوا وبال ما اثرتكم  
 فان اهل الجنة قد شغلوا عنكم بالنعمة

انہیں لڑائے اور اپنا جسم دانوں سے مقابلہ کریں تاکہ ان کے رشک و  
 سرور میں اضافہ ہو اور جہنم والے طریق و زنجیروں میں جکڑے ہوئے  
 جہنم کے قید خانوں اور بند خانوں سے جنت والوں کو نعمتوں میں دیکھیں  
 ہاتھ سے نکل جائیں اور نعمتوں پر حسرت و انسو س کریں اس دن جہنم والوں کو  
 کی حسرتوں کا یہ حال ہو گا کہ وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں اکابر  
 اہل جنت سے گفتگو کرنے کا موقعہ دیا جائے حق تعالیٰ فرمائے گا آج  
 جنت والے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں وہ اور ان کی بیویاں چھانچھان  
 میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھی ہیں ان کے لئے جنت  
 میں میوے ہیں اور جن چیزوں کو ان کا جی چاہے وہی ان کے لئے ہے اور  
 انہیں ان کے مہربان پر درو گار نے سلامتی عطا فرمائی ہے۔ اسے  
 گنہ گاروں آج تم ان سے الگ کر دئے گئے ہو اسے آدم کے بیٹے کا  
 میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ  
 تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کر دینی سیدھی راہ ہے پھر جہنم  
 والوں پر آگ جوش مارے گی اور ان کی جماعت پر آگدہ ہو جائے گی اور  
 ان کی آوازیں بند ہو جائیں گی یعنی اتنے دور دور ہو جائیں گے کہ کسی کی  
 چیخ و پکار کسی کو سنائی نہیں دے گی اور انہیں آگ کے جزیروں میں پھینک  
 دیا جائے گا پھر جب وہ ان جزیروں میں ڈال دئے جائیں گے تو ان کی طرف  
 ایسے بھپوزینگے کہ بڑھیں گے جن کی کچھیاں کھجوروں کے درختوں جیسی  
 لمبی لمبی ہوں گی پھر ان پر آگ کا ایک ایک سیلاب آئے گا جس کے اندر  
 جبار کا غضب ہو گا یہ سیلاب انہیں بہا کر لے جائے گا اور آگ کے سمندر  
 میں ڈبوئے گا اور اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا  
 یہ تمہارا دن عید نوروز کے بدلہ میں ہے تم اس دن کو منا کر بڑے بڑے  
 گناہوں کا ارتکاب کر کے میرا مقابلہ کیا کرتے تھے اور میری نعمتوں کو استعمال  
 کر کے اڑایا کرتے تھے اور میرے قانون سے سرکشی کیا کرتے تھے اور غم و  
 آلام کے گھر میں مزے اڑایا کرتے تھے اور جو نعمتیں میں نے اپنے بندوں



بالولائم والوان الفواكه وطرف الهدايا و  
افتضاض العذاري وركوب الرفارف والتلذذ  
بالغاني والوان السماع وسلامى عليهم واقبالى  
بالبر والطف اليهم والمزيد ما يستفرغ نعمهم  
ليتتهيئوا بنعيمهم ويزدادوا لذاتهم  
فيا اهل الجنة هذا لكم بدل يوم اعدت  
الذين تابوا واهدوا الى ملوكهم وقبلوا  
هداياهم وانتم الفائزون وعن ابى هريرة  
رضى الله عنه انه قال قال رجل لرسول الله  
صلى الله عليه وسلم: انى رجل قد حبيب  
الى الصوت الحسن فهل فى الجنة صوت حسن  
قال صلى الله عليه وسلم: اى والذى نفسى  
بيده ان الله عز وجل ليوحى الى شجرة فى الجنة  
ان اسمعى عبادى الذين اشتغلوا بعبادتى وذكرى  
عن عزف المبرابط والمزامير فترفع بصوت  
لم تسمع الخلائق بمثله من تسبيح الرب و  
تقد ليده وعن ابى قلابه رحمه الله قال  
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم  
هل فى الجنة من ليل قال صلى الله عليه وسلم  
وما هيحك على هذا قال سمعت الله عز وجل  
يذكر فى الكتاب ولهم رزقهم فيها بكرة  
وعشيا فقلت الليل بين البكرة والعشى  
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس  
هناك ليل انما هو ضوء ونور يرد العند و على  
الرواح والرواح على العند و ياتيهم طرف

کے لئے تیار کی ہیں ان کی نقل اتارا کرتے تھے آج تم سے وہ دنیوی  
لذتیں ختم ہو گئیں اب ان چیزوں کا وبال چکھو جن کو تم نے ترجیح دیا  
تھی آج اہل جنت تمہارے برعکس طرح طرح کی دعوتیں اور گونا گوں  
پھل اور رنگارنگ کے ہریوں سے مستفید و لذت اندوز ہو رہے ہیں  
آج وہ دوشیزہ حوروں سے ہمکنار ہیں عیش کے جھولوں میں جھول  
رہے ہیں اور دل فریب سروں سے اور طرح طرح کے سماع سے لطف  
اٹھا رہے ہیں میری طرف سے ان پر سلامتی ہے اور میرا رحم اور حسن  
سلوک انہیں ڈھانپے ہوئے ہے اور نعمتوں میں ساعت بہ ساعت اضافہ  
ہی ہوتا جا رہا ہے وہ بے پایاں نعمتوں سے بہرہ اندوز ہیں تاکہ اپنی  
نعمتوں میں مگن رہیں اور سرور و لذت میں اضافہ ہی کرتے رہیں۔  
لہذا اے جنت والو یہ دن تمہارے لئے میرے دشمنوں کے دن کا  
بدل ہے جس دن وہ آپس میں ایک دوسرے کو مہار کبار دیا کرتے تھے  
اور جس دن وہ سلاطین کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے  
اور سلاطین ان کے تحائف قبول کیا کرتے تھے آج تم ہی خوش نصیب کامران  
حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلعم سے  
کہا مجھے اچھی آواز پسند ہے کیا جنت میں اچھی آواز ہوگی فرمایا: ہاں  
اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے حق تعالیٰ شانہ جنت کے ایک  
درخت کو وحی کے ذریعہ حکم فرمائے گا کہ میرے ان بندوں کو جنہوں نے  
میرى عبادت و ذکر میں مشغول رہ کر بربط و جنگ کے سروں سے اپنے  
کان محفوظ کر لئے تھے میری تسبیح و تحمید کے نغمے سنا چنانچہ وہ درخت  
پیاری آواز سے رب کی تسبیح و تقدیس بیان کرے گا کہ ایسی پیاری آواز آج  
ہم کسی کی سنی نہیں گئی، ابو قلابہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ  
کیا جنت میں رات بھی ہوگی فرمایا: تجھے اس سوال پر کس چیز نے آمادہ کیا  
اس نے کہا میں قرآن کی یہ آیت سنی ہے اور ان کے لئے جنت میں صبح و  
شام رزق ہے میں نے خیال کیا کہ صبح و شام کے درمیان ہی رات آتی ہے



الهدایا من اللہ لمواقیت الصلوات التي كانوا  
 یصلونها فی الدنیا وتسلم علیہم الملائکة  
 فمن اراد ان یکون له حظ فی هذا العیش  
 اللذیذ الدائم فعلیه بحفظ حدود شروط  
 التقوی وهی مذکورۃ فی قوله عزوجل  
 لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب  
 ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر  
 والملائکة والکتاب والنیین واتی المال  
 علی حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین  
 وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام  
 الصلاة واتی الزکوة والموفون بعهدهم  
 اذا عاهدوا والصابرین فی البساء والضراء  
 وحین البأس اولئک الذین صدقوا اولئک  
 هم المتقون وعلیه بالاتیان بحدود الاسلام  
 واجزائه وروی عن حذیقۃ ابن الیسمات  
 رضی اللہ عنہما انه قال فی تفسیر قوله تعالی  
 یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة  
 الاسلام ثمانية اسهم الصلاة سهم والزکوة  
 سهم والصیام سهم والحج سهم والعمرة  
 سهم والجهاد سهم والامر بالمعروف  
 سهم والنهی عن المنکر سهم وقد خاب  
 من لا سهم له وعن عاصم یعنی الاحول  
 عن النس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم انه قال مثل الاسلام  
 کمثل الشجرة الثابتة الایمان بالله اصلها

فرمایا: جنت میں رات نہیں ہوگی، وہاں صرف روشنی اور نور ہے  
 جو صبح کو شام پر اور شام کو صبح پر لوٹا دیتا ہے اور ان کے پاس  
 دنیا کے پنجگانہ نماز کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے  
 نادر تحائف آئیں گے اور فرشتے تحائف انھیں سونپ جائیں گے  
 اگر کوئی اس لذیذ و دائمی عیش میں اپنا حصہ چاہے تو اسے شرائط  
 تقویٰ کے حدود کی حفاظت کرنی چاہیے یہ شرطیں اس آیت میں  
 مذکور ہیں نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف  
 پھیر لو ہاں نیکی اس کی ہے جو اللہ پر فرشتوں پر کتاب پر اور نبیوں  
 پر ایمان لایا اور جس نے مال کی محبت کے باوجود اپنا مال  
 رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور  
 مانگنے والوں کو دیا اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کیا اور نماز  
 قائم کی اور زکوة دی اور عہد کرنے کے بعد اپنا عہد پورا کرنے والے  
 اور تنگی میں بیماری میں اور لڑائی میں صبر کرنے والے یہی لوگ  
 سچے ہیں اور یہی متقی ہیں اور حدود اسلام کا خیال رکھنا اور  
 جزئیات اسلام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔

حذیقہ بن یمان ذی ایہما الذین آمنوا ادخلوا فی السلم  
 کی تفسیر میں اسلام کے آٹھ حصے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوة،  
 عمرہ، جہاد، اچھی باتوں کا حکم، بری باتوں پر گرفت اور ان کی  
 رد کرنا۔ وہ بد بخت و محروم ہے جس کا ان میں سے کسی میں  
 کچھ حصہ نہیں۔

عاصم احول از انس بن مالک از نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 اسلام بمنزلہ ایک درخت کے ہے جس کی جڑ اللہ پر ایمان  
 ہے اور پنجگانہ نماز میں اس کی شاخیں ہیں اور رمضان کے  
 روزے اس کا پوسٹ ہیں اور حج و عمرہ اس کے چنے ہوئے  
 پھل ہیں اور وضو اور غسل جنابت سے وہ سیراب کیا جاتا ہے

والصلوات الخمس فروعها وصيام رمضان لحاؤها  
والحج والعمرة جناها والوضوء والغسل من الجنابة شربها  
وبر الوالدين وصلة الرحم غصونها والكف عن معاصم  
الله ورقها والاعمال الصالحة شرها وذكر الله عز وجل  
ثم قال صلى الله عليه وسلم كما لا تخسن الشجرة ولا تصلم  
الا بالورق الا خضر كذلك لا يصلم الاسلام الا  
بالكف عن المعاصم والاعمال الصالحة.

**فصل:** في صفة النار وما أعد الله لاهلها  
فيها وصفة الجنة وما أعد الله لاهلها فيها.  
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان  
يوم القيامة واجتمع الخلائق ليوم لا ريب  
فيه في صعيد واحد غشيتهم ظلمة سوداء  
لا ينظر بعضهم بعضا من شدة الظلمة والخلائق  
قيام على صدور اقدامهم وبينهم وبين ربهم  
عز وجل مسيرة سبعين عاما قال فيبينناهم  
كذلك اذ تجلي الخالق تبارك وتعالى للملائكة  
فاشرفت الارض بنور ربها وانجلى الظلمة  
فغشى الخلائق كلهم نور ربهم والملائكة  
حافون من حول العرش يسبحون بحمد ربهم  
ولقد سون له قال فيبيننا الخلائق قيام كلهم  
صفوا كل امة قائمة في ناحية اذ اتى بالمحرف  
والميزان ووضعت الصحف وعلق الميزان بيد  
ملك من الملائكة يرفعه مرة ويخفضه مرة  
اخري قال فيبينناهم كذلك اذ كشف الغطاء

اور ماں باپ کی اطاعت اور صلہ رحمی اس کی کو نہیں ہیں  
اور ممنوعات بازرہنا اس کے پتہ ہیں اور نیک عمل اس  
پر لگے ہوئے پھیل ہیں اور اللہ کا ذکر اس کی رگیں ہیں  
پھر آپ نے فرمایا:-

جیسے رحمت پتوں ہی سے اچھا اور خوبصورت معلوم  
ہوتا ہے اسی طرح ترک ممنوعات و نیک عملوں ہی سے  
اسلام سنورتا اور نکھرتا ہے۔

**جہنم کے روح فرسا عذاب اور جنت** حضرت ابو ہریرہ  
کی روح پرور ہوا ہے۔ کا بیان ہے کہ

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن  
جب لوگ ایک ایسے دن جس میں کوئی تک نہیں ایک ہوا میدان میں  
جمع ہوں گے تو ان پر گھٹا ٹوپ اندھیرا اچھا جائے گا اور اس اندھیرے  
کی وجہ سے کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے گا اور لوگ اپنے اپنے پیروں پر کھڑے  
ہوں گے اور ان کے اور ان کے رب کے درمیان ستر سال کی مسافت ہو  
گی فرمایا لوگ اس حال میں ہوں گے کہ اچانک خالق کین و مسکن کی  
فرشتوں پر تجلی ہوگی اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے  
گی اور تاریکی چھٹ جائے گی اور تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کا  
نور ڈھانپ لے گا اور فرشتے عرش کے چاروں طرف تلوان کر رہے  
ہوں گے اور اپنے پروردگار کی حمد میں اور تسبیح و تقدیس میں  
رطب اللسان ہوں گے پھر جب لوگ تلوا میں باندھے کھڑے  
ہوں گے اور ہر امت اپنے مقام پر صف باندھے کھڑی ہوگی کہ  
اعمال انہوں کو لائے جانے کا اور میزان (ترازو) کو نصب کئے جانے  
کا حکم ہوگا یہ میزان کسی فرشتے کے ہاتھ میں ٹسک رہی ہوگی جسے  
وہ کبھی اونچا کرے گا اور کبھی نیچا۔ فرمایا: لوگ اسی حال میں ہوں گے  
کہ حق تعالیٰ جنت سے پروردگار کے گا اور وہ میدان شکر کے



عن الجنة فأزلفت فبهت منها ريح فوجد  
المسلمون عرفها كالمسك وبينهم مسيرة  
خمسائة عام ثم كشف الغطاء عن جهنم  
فبهت منها ريح مع دخان شديد فوجد  
المجرمون عرفها وبينهم وبينها مسيرة  
خمسائة عام ثم جرى بها لقاء موثقة بسلسلة  
عظيمة عليها تسعة عشر خازنًا من الملائكة  
مع كل خازن منهم سبعون ألف ملك أعوان  
له فيقودها كل خازن منهم مع أعوانه  
وسائر الخزان مع أعوانهم يحشون عن يمينها  
وشمالها ورأىها بيد كل ملك منهم  
مقعة من حديد يصبحون بها فتشوي و  
لها زفير وشهيق ودعث وظلمة ودخان  
وتقعقع ولهب عال من شدة غصبيها على  
أهلها فينصبونتها بين الجنة والموقف فتزفر  
طرفها فتنظر إلى الخلائق ثم تجتمع عليهم  
لتأكلهم فيجسها خزنتها بسلاسلها فلو  
تركت لأتت على كل مؤمن وكافر فلما رأته  
انها قد حبست عن الخلائق فارت فوراً شديداً  
تعاذتميز من الغيب ثم شهقت الثانية فتسمع  
الخلائق صوت صريف أسنانها فارتعدت  
حينئذ الأفتدة وانخلعت القلوب وطارت  
الأفتدة وشخصت الأبصار وبلغت القلوب  
الحناجر قال قائل يا نبى الله صفها لنا قال  
صلى الله عليه وسلم نعم مثل هذا الأرض

۳۴۲  
قرب لانی جائے گی اور اس میں سے خوشبو کی لٹیس پھوٹ پڑیں گی اور  
مسلمان مشک کی خوشبو کی طرح اس کی خوشبو محسوس کریں گے اور مسلمانوں  
کے اور جنت کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت ہوگی پھر جہنم سے پردہ  
اٹھا دیا جائے گا جس سے انتہائی سڑھی ہوئی بو معہ سخت بدبو ناک  
دھوئیں کے پھوٹ پڑے گی اور مجرم اس کی بدبو محسوس کر لیں گے اور ان  
مجرموں کے اور جہنم کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت ہوگی پھر اسے  
گھسیٹ کر لایا جائے گا اور یہ ایک بڑی زنجیر سے بندھی ہوئی ہوگی  
جسے انیس<sup>۱۹</sup> داروغہ جہنم جن میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار  
فرشتے بطور مدد کے ہوں گے گھسیٹ کر لائیں گے اور یہ خازن اپنے  
تمام معاونین کے ساتھ جہنم کے دائیں بائیں اور پیچھے حل رہے ہوں گے  
اور ہر فرشتہ کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کوڑا ہوگا فرشتے کوڑک کوڑک کر  
اس کے کوڑے ماریں گے اس کا روہ چلے گی اور وہ گھٹ گھٹ کر آہیں  
بھر رہی ہوگی اور نالے کر رہی ہوگی اس سے گدھے کی سی مکروہ آواز  
نکلے گی اس میں تاریکی ادھواں گرگڑاہٹ اور اس سے اہل جہنم پر  
شدت غضب کی وجہ سے بلند شعلے اٹھ رہے ہوں گے فرشتے اسے  
جنت و موقف کے درمیان نصب کر دیں گے پھر جہنم اپنی نگاہ اٹھا  
کر تمام لوگوں کو دیکھے گی پھر انہیں کھانے کے لئے ان کی طرف پکے گی  
اس کے محافظین معہ زنجیروں کے اسے روکے ہوئے ہوں گے اگر چھوڑ  
دی جائے تو ہر مؤمن و کافر کو ہرپ کر جائے پھر جب وہ یہ دیکھے گی  
کہ مجھے لوگوں سے روک دیا گیا تو اس قدر غضب کا جوش مارے گی  
غصہ کے مارے پھوٹ پڑے گی پھر دوسری بار کوڑکے گی اور موقف والے  
اس کے دانت پیسنے کی آواز نہیں گے اس وقت لوگوں کے دل  
بالسوں اچھلنے لگیں گے اکیچے بانہر آجائیں گے اول اڑ جائیں گے  
پھر نکھیں چڑھ جائیں گی کسی نے کہا اے اللہ کے نبی صلعم رزق  
کا حلیہ بیان کیجئے اور اس کا تعارف کر ایسے افریبا اچھا جہنم زمین کی



عظما سبعون جزاء من بعد سواد مظلمة لها  
سبعة رؤس لكل رأس منها ثلاثون بابا طول  
كل باب منها مسيرة ثلاث ليال وشفقتها  
العليا نظرب منخرها والشفقة السفلى تسحبها  
وفي كل منخر من مناخرها وثاق وسلسلة عظيمة  
يبسكها سبعون الف ملك غلاظ شديد  
كالحة انيابهم اعينهم كالجمر والوانهم  
كلهب النار ليقور من مناخرهم لهب ودخان  
عال مستعد ين لامر الجبار تبارك وتعالى قال  
فحينئذ تتأذن جهنم ربها عز وجل في السجود  
فياذن لها في السجود فتسجد ما شاء الله قال  
ثم يقول لها الجبار عز وجل اذعي رأسك قال  
فترفع رأسها فتقول الحمد لله الذي جعلني  
يتقمني من عصاة ولم يجعل شيئا من خلق  
يتقمني به مني قال ثم تقول بلسان طلق ذلك  
سلى: الحمد لله ما شاء الله من ذلك الحمد  
لصوت لها جهر ثم تزفر فترى فلا يبقى  
ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا احد فمن  
شهد الموقف الاجتا على ركبتيه ثم تزفر  
الثانية فلا تبقى قطرة في عين احد الا بدرت  
ثم تزفر الثالثة فلو كان لكل آدمي اذني  
عمل اثنين وسبعين نبيا لواقعوها ثم تزفر  
الرابعة فلا يبقى شيء الا القطع كلامه غير  
ان جبريل وميكائيل وخليل الرحمن عز وجل  
منعلقون بالعرش يقول كل واحد منهم

طرح موٹی ہے مگر زمین سے ستر جھنڈ بڑی ہے بالکل سیاہ اور تاریک  
ہے اس کے سات ہر ہر میں ہر سر میں تیس درہیں اور اس کے ہر دروازے  
کا طول تین دن رات کی مسافت کا ہے اس کا بالائی ہونٹ ناک کے  
نتھنوں پر پڑا ہوا ہے اور زیریں ہونٹ کو گھسیٹتی ہے اس کی ناک کے  
ہر نتھنے میں ایک مضبوط رسی اور ایک بڑی زنجیر پڑی ہوئی ہے اور  
اسے ستر سزار فرشتے تھامے ہوئے ہیں جو انتہائی سنگدل اور قوی ہیں جن  
کی کچھیاں باہر کونکلی ہوئی ہیں انکھیں انکاروں کی طرح ہیں اور ان کا رنگ  
آگ کے شعلوں کی طرح ہے یعنی سرخ بھبھو کا ہیں اور ان کے نتھنوں  
آگ کے شعلے اور دھواں بلند ہے اور ہمہ وقت جہار کے احکام کی تعمیل  
کے منتظر رہتے ہیں، فرمایا اس وقت جنم اپنے پروردگار عزوجل سے  
سجدے کی اجازت مانگے گی حق تعالیٰ شانہ اسے سجدے کی اجازت  
مرحمت فرمادیں گے پھر وہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدہ میں  
پڑی رہے گی فرمایا پھر اس سے جہار نہ لٹے گا اپنا سراٹھا آخروہ  
سراٹھائے گی اور کہے گی اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے افران  
بندوں سے انتقام لینے کے لئے پیدا فرمایا اور کوئی ایسی چیز نہیں بنائی  
جس کے ذریعہ مجھ سے انتقام لے، پھر آپ نے فرمایا: جنم روانہ تیرا  
اور چرب زبان سے بلند آواز سے کہے گی تمام محامد جس قدر بھی وہ  
ان میں سے چاہے اللہ ہی کے لئے ہیں۔ پھر گھٹ گھٹ کر ایسی ہونٹوں  
چیخ ماریگی کہ مقرب فرشتے انبیائے کرام اور تمام موقف والے خوف  
کے مارے گھٹنوں کے بل کہ پڑیں گے پھر دوسری بار چیخ ماریگی تو آسمان  
میں جو قطرہ ہوگا وہ نکلے بغیر نہ رہے گا موقف والوں کی آنکھوں کے  
تمام قطرے نکال باہر کرے گی اور سب کی روتے روتے آنکھیں خشک  
ہو جائیں گی پھر تیسری بار چیخ ماریگی تو اگر کسی آدمی یا جن کے ۷۲  
نبیوں کے عملوں کی برابر عمل ہوں تو بھی ایسی جہال کرے گا کہ میں اس میں  
گرے بغیر نہ رہوں گا پھر چوتھی بار چیخ ماریگی اس سب دم بخود ہو کر



نفسی نفسی لا اسألك غیرها قال ثم ترحی  
بشر كعد النجوم كل شرارة كالسحابة  
الغظيمة الطالعة من المغرب فيقع ذلك الشر  
على رؤوس الخلائق قال ثم ينصب الصراط  
عليها فيهيأ له سبع مائة قنطرة ما بين كل  
قنطرتين منها سبعون عاما وقيل سبع قناطر  
وعرض الصراط من الطبقة الاولى الى  
الطبقة الثانية مسيرة خمسمائة عام ومن  
الثانية الى الثالثة مسيرة خمسمائة عام  
ومن الثالثة الى الرابعة مثلها ومن  
الرابعة الى الخامسة مثلها ومن الخامسة  
الى السادسة مثلها ومن السادسة الى السابعة  
كذلك وهي اعرضهن واشدهن حرًا  
الجدهن قعرا واكثرهن الوانا واكبرهن  
جبرا سبعين مرة واما الطبقة الدنيا فقد  
جاز لها الصراط بينا وشمالا في السماء  
مسيرة ثلاثة اميال وكل طبقة اشد حرا  
واكبر جبرا واكثر في الوان العذاب من  
التي فوقها سبعين مرة في كل طبقة بحر  
وانهار وجبال وشجر طول كل جبل منها  
في السماء مسيرة سبعين الف عام وفي  
كل طبقة منها سبعون جبلا وفي كل  
جبل منها سبعون الف شعبة في كل شعبة  
منها سبعون الف شجرة ضريح لكل شجرة  
منها سبعون شعبة على كل شعبة منها

رہ جائیں گے اور سب کی آوازیں بند ہو جائیں گی البتہ حضرت جبریل حضرت  
میکائیل اور حضرت خلیل اللہ عرش سے چمٹے ہوئے ہوں گے اور ہر ایک کی  
زبان پر نفسی نفسی ہو گا یعنی اسے اللہ مجھے بچالے میں دوسرے کے لئے  
تجھ سے سوال نہیں کرتا، فرمایا پھر وہ آسمان کے تاروں کی برابر انگار  
پھینکے گی ہر انگارہ مغرب سے اٹھنے والے بڑے بادل کی طرح ہو گا یہ  
انگارے لوگوں کے روں پر پڑیں گے فرمایا پھر جہنم پر پھر اطر رکھا  
جائیگا اور سات سو پل مزید بنائے جائیں گے ہر دو پلوں کے مابین  
ستر سال کی مسافت ہوگی بعض نے بجائے سات سو کے سات پل  
بنائے ہیں اور پہلے طبقہ سے لیکر نیچے والے طبقہ تک پل کا عرض  
پانچ سو برس کی مسافت کا ہو گا اور ان ساتوں پلوں میں سے ہر  
درپلوں میں بھی مسافت ہوگی ساتواں پل انتہائی کشادہ، انتہائی  
گرم انتہائی گرا سب سے زیادہ گونا گوں غذا بوں والا اور سب  
سے بڑے بڑے انگاروں والا ہو گا یعنی اس کا انگار اور ہر  
پلوں کے انگاروں کی بہ نسبت ستر گنا بڑا ہو گا سب سے قریب  
والے طبقہ کے شعبے پل کے دائیں اور بائیں جانب بقدر تین میل کی  
مسافت کے بلند ہوں گے ہر طبقہ میں پہلے طبقہ سے زیادہ گرم اور  
بڑے انگاروں والا ہو گا اور نیچے کا طبقہ اوپر کے طبقہ سے گونا گوں  
غذابوں کے اعتبار سے ستر گنا بڑھا ہوا ہو گا اور ہر طبقہ میں سمندر  
نہیں، پہاڑ اور درخت ہوں گے جہنم کے ہر پہاڑ کا ارتفاع ستر  
ہزار سال کی مسافت کا ہے جہنم کے ہر طبقہ میں ستر ستر پہاڑ ہیں ہر  
پہاڑ کی ستر ستر ہزار شاخیں ہیں اور ہر شاخ میں ستر ستر ہزار ٹھوس  
کے درخت ہیں ہر درخت کی ستر ستر شاخیں ہیں اور ہر شاخ پر  
ستر ستر سانپ اور اتنے ہی بچھو ہیں ہر سانپ کا طول تین تین میل  
اور بڑے بڑے بختی اونٹوں کی حجم کے بچھو ہیں اور ہر درخت پر ستر  
ہزار بھیل ہیں اور ہر بھیل میں شیطان کا سر ہے اور ہر بھیل کے اندر ستر



سبعون حية وسبعون عقربا طول كل حية منها  
 مسيرة ثلاثة اميال فاما العقارب فكالبحاقي  
 العظام على كل شجرة منها سبعون الف شجرة  
 في كل شجرة رأس شيطان في جوف كل شجرة  
 منها سبعون دودة طول كل دودة منها غلظة  
 ومنها ثمر ليس فيه دود ولكن فيه شوك  
 وكان صلى الله عليه وسلم يقول ان لجهنم  
 سبعة ابواب لكل باب منها سبعون واديا  
 تمر كل واد منها مسيرة سبعين عاما لكل  
 واد منها سبعون الف شعبة في كل شعبة  
 منها سبعون الف مغارة وفي كل مغارة  
 سبعون الف شق كل شق منها مسيرة سبعين  
 عاما في جوف كل شق منها سبعون الف ثعبان  
 في شق كل ثعبان منها سبعون الف عقرب  
 لكل اقرب منها سبعون الف فقارة في كل  
 فقارة قلة سم لا ينتهي الكافرون والمنافق  
 حتى يرا في ذلك كله قال فبينما الخلائق  
 جاثون على ركبهم وجهنم تخطر كما ينظر  
 الجمل المغتلم قال فينادى مناد بصوت عال  
 فيقوم النبيون والصديقون والشهداء و  
 الصالحون ثم عرضوا عرضة رقت فيها  
 المظالم ثم عرضوا الثانية فتجادلت  
 الارواح والاجساد وظهرت الاجساد  
 على الارواح ثم عرضوا على الله الثالثة  
 فطارت الصحف فوقعت في ايدي الخلق

کیرٹے ہیں اور ہر کیرٹے کا طول تیر کے گرنے کی جگہ تک ہے بعض  
 ایسے پھل بھی ہیں جن میں کیرٹے نہیں لیکن کانٹے ہیں رحمت عالم  
 صلعم فرمایا کرتے تھے جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے  
 میں ستر ستر دادیاں ہیں اور ہر وادی کی گہرائی ستر ستر سال کی  
 مسافت ہے ہر وادی کی ستر ستر ہزار شاخیں ہیں اور ہر شاخ  
 میں ستر ستر ہزار غار ہیں اور ہر غار میں ستر ستر ہزار بل ہیں  
 ہر بل کی گہرائی ستر ستر سال کی مسافت ہے اور ہر بل کے اندر ستر  
 ہزار اژدھے ہیں اور ہر اژدھے کے منہ میں ستر ستر ہزار  
 بچھو ہیں اور ہر بچھو کی پشت پر ستر ستر ہزار مہرے ہیں اور  
 ہر مہرے میں زہر کا ایک پہاڑ ہے کوئی کافر اور منافق ان  
 سب کا ذائقہ چکھے بغیر نہ رہے گا فرمایا اس حال میں کہ لوگ اپنے  
 اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جہنم بار بار حملہ آور  
 ہوگی جیسے مست اونٹ بار بار اونٹنی پر چڑھتا ہے فرمایا:  
 پھر ایک اعلان کرنے والا بلند آواز سے اعلان کرے گا پھر  
 انبیائے کرام، صدیقین، شہداء اور صلحاء کھڑے ہو جائیں گے  
 پھر تمام لوگ عدالت کے کھڑے ہیں حاضر کئے جائیں گے  
 یہ پہلی پیشی ہوگی جس میں لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے  
 جائیں گے پھر دوسری پیشی ہوگی اور ارواح و اجسام میں  
 جھگڑا ہوگا اور اجسام غالب آجائیں گے پھر تیسری پیشی  
 ہوگی اور اس پیشی میں اعمال نامے اڑا کر لوگوں کے  
 ہاتھوں میں جائیں گے بعض لوگوں کے سپردھے ہاتھوں میں  
 اعمال نامے جائیں گے اور بعض کے بائیں ہاتھوں میں اور بعض  
 کو آگے سے اعمال نامے ملیں گے اور بعض کو پیچھے سے جن کو آگے  
 سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دئے جائیں گے ان کو اپنے  
 رب کے نور میں سے نور ملے گا اور انہیں فرشتے ان کی عزت



فمنہم من اوتی کتابہ ببیتہ ومنہم من  
 اوتی کتابہ بشمالہ ومنہم من اوتی کتابہ  
 وراء ظہرہ فاما الذین اوتوا کتابہم بایمانہم  
 فاعطوا نوراً من نور ربہم وھنتہم الملائکۃ  
 بکرامتہم فجازوا الصراط برحۃ ربہم  
 ودخلوا جناتہم فلقینتہم خزائنہم عند الابواب  
 جناتہم بکسوتہم ومرارکبہم وبالحدیۃ  
 التی تنبغی لہم فاقتروا الی منازلہم والقلبوا  
 مسرورین الی قصورہم فدخلوا علی ازواجہم  
 فنظروا الی ما لایصف السنتہم ولم یتمر  
 البصارہم ولم یخطر علی قلوبہم فاکلوا وشربوا  
 ولبسوا حلیتہم ثم اعتنقوا ازواجہم ما  
 قدر لہم ثم حمدوا خالقہم الذی اذھب  
 عنہم حزنہم وامنہم من فزعہم ولیسر  
 لہم حسابہم ثم شکروا ما اعطاہم ربہم  
 فقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لهذا وما  
 كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ففرت اعینہم  
 بما تزودوا من دنیاہم کالوا موقنین مؤمنین  
 مصدقین خائفین راجین زاغین فعند ذلک  
 نجا الناجون وھلک الکافرون واما الذین  
 اوتوا کتابہم بشمالہم ومن وراء ظہورہم  
 فاسودت وجوہہم والقلبت زرقاعیونہم  
 وسوا علی خراطیمہم وعظبت احسابہم  
 وغلظت جلودہم وھتفوا بویلہم حین  
 نظروا الی کتابہم وعابثوا لوزبہم لم یغادر

بزرگی پر مبارکبادیاں دیں گے یہ لوگ پھر اس سے اپنے پروردگار  
 کی قربانی سے پار ہو جائیں گے اور اپنی اپنی جنتوں میں چلے جائیں  
 گے جنت کے دروازوں پہلے جنت کے خازن ان سے ملاقات کریں  
 گے اور لباس، سواریاں، زیورات جو ان کی شان کے لائق ہیں ان  
 کی خدمت میں پیش کریں گے پھر جنتی اپنے اپنے راحت کردوں کی طرف  
 چلے جائیں گے اور خوش و خرم اپنے اپنے محلوں میں رونق افروز ہو  
 جائیں گے اور اپنی بیویوں کے پاس حاضر ہوں گے اور وہاں ایسی  
 ایسی نعمتیں دیکھیں گے جن کو زبان بیان کرنے سے قاصر ہے ایسی نعمتیں  
 کبھی ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھیں اور نہ کبھی ان کا تصور ہی ان  
 کے دل میں آیا بالآخر وہ وہاں کھائے پیئیں گے اور اپنے زیورات  
 زیب بدن کر کے بن سحر کر بیٹھیں گے اور حسب مدت مقرر اپنی  
 پاکیزہ بیویوں سے ہمکنار رہیں گے پھر اپنے خالق کا شکر یہ ادا  
 کریں گے جس نے ان سے ان کا غم دور کیا اور انہیں گھراسٹ سے  
 محفوظ رکھا اور ان کا آسان حساب لیا پھر انہیں ان کے پروردگار  
 نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ  
 کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس صحیح راہ (اسلام) کی ہدایت  
 فرمائی، اگر ہمیں ہمارا رب ہدایت نہ فرماتا تو ہم ایسے نہ تھے کہ راہ  
 پالیتے آج اس توشہ سے جسے وہ دنیا سے لے کر گئے تھے ان کی  
 آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کیونکہ یہ دنیا میں یقین و ایمان والے نبیوں کی  
 تصدیق کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے اس سے امیدوار رحمت  
 اور اس کی طرف رغبت کرنے والے تھے اس دن نجات پانچو نجات  
 پائیں گے اور کافر ہلاک ہوں گے اس کے برعکس جن کو چھپے بائیں  
 ہاتھوں میں اعمال ناسے دئے جائیں گے ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں  
 گے ان کی آنکھیں کچی ہوں گی اور ان کی ناکوں پر سیاہ داغ پڑ جائیں گے  
 اور ان کے چہروں پر ورم آجائے گا جب یہ مجرم اپنے اعمال ناسے



مغیرۃ ولا کبیرۃ الا وجد وہا مثبتۃ فی  
کتبہم فہم کاسف بالہم سیء ظنہم  
شدید رعینہم کثیرہم منکسۃ رؤسہم  
خاشعۃ البصارہم خاضعۃ رقابہم لیارقون  
النظر الی نارہم لا یرتد الیہم طرفہم لا تنہم  
عابوا امر اعظیبا کبیرا مقطعا حلیلا طامبا  
مکریا مفرعا مرعبا محزنا غشا مہما للقلوب  
واللعیون مبکیا فاتروا بالعبودیۃ لربہم  
واعترفوا بذنوبہم وکان اعترافہم  
علیہم خارا وعاارا و تحزنا و شقاء و الزاما  
و سخطا قال فیینما القوم بین یدی ربہم  
عزوجل جاثون علی ربہم بذنوبہم  
معترفون زرقا اعینہم لا ینصرون ہادیۃ  
قلوبہم فلا یعقلون مرجفۃ او صالہم فلا  
ینکلون منقطعۃ ارحامہم فلا یتواصلون  
فلا الساب بینہم لومئذ ولا یتساءلون امیبیلا  
فی انفسہم فلا ینجبرون ویسألون الرجعة  
فلا یجابون قد الیقنوا بما کانوا یکن لون  
فہم عطاش لا یروون وجیاع لا یشبعون  
وعراة لا یکتسبون مغلولون لا ینصرون  
مجزونون مسلولون محسورون انفسہم  
واہلیہم و اموالہم و مکاسبہم قال  
فیینما القوم کذلک اذا امر اللہ تعالیٰ خزنة  
جہنم ان یخرجا منها و معہم اعداؤہم و  
کان یحملوا اداۃہم من السلاسل و الافلال

دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ اعمالنا سے تمہاری ہلاکت کیے نہیں  
ہیں اور جب اپنے گناہ دیکھیں گے تو ان کا ہر چھوٹا بڑا گناہ ان میں  
درج ہوگا اور کوئی گناہ چھوٹا ہوا نہ ہوگا کیونکہ ان کے دل کالے  
بھٹ ہو گئے تھے اور بدگمانیاں ان پر غالب تھیں اب ان کو دشت  
بھی انتہائی ہوگی، پریشانیوں کی حد نہ ہوگی ان کے سر جھکے ہوئے  
ہوں گے، آنکھیں پست ہوں گی اور گردنیں ٹکی ہوئی ہوں گی ذریعہ  
نگاہوں سے جہنم کی طرف دیکھیں گے آگ کی طرف ٹکی بندھ جائے  
گی کیونکہ انتہائی ہولناک و عظیم و کبیر عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے  
ہوگا جو انہیں سخت ترین غم میں ڈالے والا اور اندوہناک حادثہ  
ہوگا جو انہیں بے قرار و بے چین بنا دے گا، گھبرا دے گا ان کے  
دل زعب سے بھر دے گا اور غموں کی دلدل میں پھنسا دے گا اور  
ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا اور ان کے دل غم و آلام سے اور  
آنکھیں گرم گرم آنسوؤں سے بھر دے گا چاروں طرف اپنے پروردگار  
کی عبودیت کا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے مگر یہ اعتراف بھی  
ان کے حق میں آگ کا کام دے گا اور موجب عار ہوگا اور باعث حسرت  
و افسوس ہوگا اور ان کی بد بختی کا اور ان پر قطع حجت کا اور اللہ کی  
ناراضگی کا ثبوت ہوگا۔ فرمایا اس حال میں کہ لوگ اپنے رب کے  
سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اپنے گناہوں کا  
اقرار کر رہے ہوں گے ان کی آنکھیں کنجی ہوں گی کچھ سمجھائی نہ دیتا ہوگا  
دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے عقل کام نہ دے گی، ان کا جوڑ جوڑ کانپ  
رہے ہوگا اور بات نہ کر سکیں گے رشتے کٹ چکے ہوں گے اور کوئی  
کسی سے نسب کا تعلق نہ جوڑے گا فرمایا: اس دن نہ آپس میں نسب  
رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا اس دن تو اپنی جانوں ہی کی  
پڑھی ہوئی ہوگی انہیں کی تلافی پر قادر نہ ہوں گے اور اللہ سے  
..... دنیا میں لوٹائے جانے کی درخواست کریں گے مگر اس کا



انہیں جواب بھی نہیں دیا جائے گا آج انہیں ان باتوں کا یقین ہو جائے گا جن کو جھٹلایا کرتے تھے ان سخت پیاسوں کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ ان بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا جائے گا اور ان ننگوں کو لباس نہیں پہنایا جائے گا یہ مغلوب ہوں گے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی یہ ننگین لٹے کھٹے اور گھاسے والے ہوں گے ان کی جان و مال اہل و عیال اور کمائیوں میں گھٹا ہی گھٹا ہو گا کہ حق تعالیٰ جہنم کے محافظین کو معہ ان کے معاونین کے حکم فرمائے گا کہ جہنم سے نکلو اور اپنے اسلحہ زنجیریں طوق اور گرز سنہال لو، فرمایا وہ جہنم سے نکل کر ایک طرف کھڑے ہوئے حکم ثانی کے انتظار میں ہوں گے فرمایا پھر جب انہیں یہ بد بخت مجرم دیکھیں گے تو حسرت و انسوس سے اپنے ہاتھ چبانے لگیں گے اور اپنے پورے کھا جائیں گے اور اپنی تباہی کو پکاریں گے اور خون کے آنسو روئیں گے اور ان کے پیر کا اپنے لگیں گے اور ہر خیر و صلاح سے ناامید ہو جائیں گے پھر حق تعالیٰ فرمائے گا انہیں پکڑ لو اور کندھوں سے ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں جہنم میں جھونک دو پھر انہیں زنجیریں جکڑ دو۔ فرمایا پھر جن کو حق تعالیٰ جہنم کے جس طبقہ میں ڈالنا چاہے گا اس طبقہ کے محافظ فرشتوں کو بلا کر ان سے کہا جائے گا کہ انہیں پکڑ لو چنانچہ ہر مجرم کی طرف ستر فرشتے لپکیں گے اور اسے اپنی زنجیروں میں باندھ لیں گے اور اس کی گردن میں بھاری بھاری طوق ڈال دیں گے اور اس کے تنہے میں زنجیر ڈال دیں گے جس سے ان کا دم گھٹنے لگے گا اور ان کی پیشانیوں سے ان کے پیر باندھ دیں گے اور ان کی کمر میں ٹوٹ جائیں گی فرمایا پھر جب ان کی پیر درگت بنا دی جائیگی تو ان کی آنکھیں چوڑھ جائیں گی، رگیں پھول جائیں گی گردنوں کا گوشت بھلس جائے گا، رگوں کا گوشت گل گل کر جائے گا اور طوقوں کی گرمی ان کے سروں میں شعلہ بھڑکا دیگی جس سے ان کے دماغ کھولنے لگیں گے اور چڑوں پر پتے پتے پیروں پر آ پڑیں گے اور ان کے دماغوں کی کھالیں بھی گل

والمقام قال فخرجوا منها على فاحية ينظرون  
بماذا يومرون قال فلما نظر اليهم الاشقياء وعابوا  
وثاقهم وثيابهم عضوا ابيد بهم فاكلوا اناملهم  
وهتفوا بويلهم وفاقت دموعهم وزلزلت  
اقدامهم ويئسوا من كل خير فيقول خذوهم  
فخلوهم ثم الحجيم صلوه ثم في سلسله  
فاذ تقوم قال فمن شاء الله ان يلقيه في تلك الاطباق  
دعا خزانتها فقال لهم خذوهم فابتدرا الى كل  
الناس منهم سبعون ملكا فشدوا وثاقهم  
وجعلوا الاغلال الثقال في اعناقهم والسلاسل  
في مناخرهم فخنقوا وجمعوا بين لواصيهم و  
اقدامهم من وراء ظهورهم فتكسرت املابهم  
قال فلما فعل ذلك بهم شخصت البصارهم  
وانفخت اوداجهم واحترقت لحوم رقابهم  
وسلخت عروقهم واشتعلت حرا الاغلال في  
رءوسهم فقلت منها ادمعتهم ففاضت  
على جلودهم حتى وقعت على اقدامهم فتساقطت  
منها جلودهم واخضرت منها لحومهم  
فسال منها صديدهم فلما جعلت الاغلال في  
اعناقهم ملأها ما بين مناكبهم الى اذانهم  
فاحترقت لحومهم وتقطعت شفاهم وابت  
استياهم والسننهم بصوت وصياح ووهج لها  
لهب عال يجري حرها بحري الدم في عروقهم  
مجرنة ويجري خلا لها لهب النوا فيبلغ حر تلك  
الاعلال قلوبهم فسلخت حتى بلغت حناجرهم



فاشتد خناقهم واقطعت اصواتهم وفتیت  
 جلودهم فبیناھم كذلك امر الله تعالى خزنة  
 جہنم ان یکسروھم قال فیلسوھم ثیابا وسیا بیل  
 شدید اسوادھا ومنتنار یجھا وختنا مسھا  
 تلظی من شد لا حرھا لو صنعت علی جبال الارض  
 اذا تبھا قال ثم یقول الله عزوجل لخزنة جہنم  
 سوقوھم الی منازلھم قال فیاتون سیلا سل  
 اخر اطول واغلظ من اللاتی اولقوا فیھا قال  
 فیاخذ کل ملک سلسلۃ من تلک السلاسل  
 فیقرن فیھا امۃ من الامم ثم یفجع طرفھا  
 علی عاتقہ فیولیھم ظہرا ثم ینطلق بھم  
 میحوبین علی وجوھھم فی دیر کل امۃ  
 منھم سبعون الف ملک یفیر یونھم بمقام  
 حتی یاتوا بھم جہنم فیقفرا بھم علیھا قال  
 ثم تقول لھم الملائکۃ ہذا النار التی کنتم  
 بیھا تکذبون افسرھذا امر انتم لا تبصرون  
 اصلوھا فاصبروا اولاً تصبروا سواء علیکم  
 انھا تجزون ما کنتم تعملون قال فلما اوقفوا  
 علیھا فتحت لھم ابوابھا وکشف عنھا  
 غطاؤها فتسعرت والھبت فارھا فخرج  
 متھا دخان شدید مع شریکھم من نجوم  
 السماء فطارت الی السماء مقدر سبعین عاما  
 ثم رجع ذلک فوق علی رؤسھم فاحترقت  
 اشعارھم وانقلعت جابھم قال ثم صرحت  
 جہنم بأعلی صوتھا الی یا اهل النار الی

جائیں گی اور ان کے گوشت نیلے ہو جائیں گے اور ان سے پیپ بننے لگے  
 کی پھر جب طوق ان کی گردنوں میں ڈالے جائیں گے تو ان کی گردنیں کندھوں  
 سے لیکر کانوں تک بھر جائیں گی اور کان بھلس کر رہ جائیں گے اور  
 ہونٹ کٹ کٹ کر رہ جائیں گے اور دانت اور زبانیں کھل جائیں گی  
 اور ان سے آہ دنانے جاری ہوں گے اور ان طوقوں سے ایسی گرمی پیدا  
 ہوگی جس سے اونچے اونچے شعلے نکلیں گے جن کی حرارت جسم کی رگ  
 رگ میں خون کی طرح سرایت کر جائیں گی وہ طوق جو داد ہوں گے جو  
 آگ کے شعلوں سے بھر لو رہوں گے اور ان طوقوں کی گرمی ان کے  
 دلوں تک پہنچے گی اور ان کی کھالیں بھلس کر رہ جائیں گی حتیٰ کہ وہ حرارت  
 ان کے گلوں تک پہنچے گی اور بری طرح سے ان کا دم گھٹنے لگے گا اور  
 آواز میں لکھنی بند ہو جائیں گی اور چمڑے فنا ہو جائیں گے پھر یہ مجرم  
 اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک حق تعالیٰ جہنم کے محافظ فرشتوں  
 کو حکم فرمائے گا کہ انہیں لباس پہنا دینا چنانچہ ان کے کپڑوں اور پائجاموں کا  
 رنگ سخت سیاہ ہوگا جن سے سڑی ہوئی لاش کی طرح بدبو آتی ہوگی  
 اور انتہائی کھردرے ہوں گے اور شدت گرمی سے شعلے مار رہے ہوں گے  
 اگر یہ کسی پہاڑ پر رکھ دئے جاتے تو اسے گھلا دیتے فرمایا پھر حق تعالیٰ  
 شانہ جہنم کے محافظ فرشتوں سے فرمائے گا کہ انہیں چلا کر ان کی منزلوں تک  
 پہنچاؤ اب فرشتے دوسری طویل و موٹی زنجیریں لائیں گے پھر سر فرشتے  
 ایک ایک زنجیر اٹھائیں گے کہ ایک جماعت کو جبکڑ سے گا اور زنجیر کا  
 درسا سرا اپنے کندھے پر ڈال لے گا اور اپنی پشت ان کی طرف  
 پھیر کر انہیں چروں کے بل گھسیٹ کر لے جائے گا اور ہر جماعت کے  
 پیچھے ستر ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو انہیں گردنوں سے مارتے ہوئے  
 حتیٰ کہ فرشتے ان مجرموں کو جہنم کے پاس لاکر کھڑا کریں گے ، فرمایا  
 پھر فرشتے ان سے کہیں گے : یہ ہے وہ آگ جسے تم بھٹلا کرتے تھے  
 کیا یہ جارو ہے کیا تم اسے دیکھ نہیں رہے اس میں چلے جاؤ اب اس



اما وعزۃ لا تتقن منکم ثم  
 قالت الحمد لله الذی جعلنی ا غضب لغضبه و  
 یتقونی من اعدائه رب زدنی خیر الی حری و  
 قوۃ الی قوتی قال فتخرج منها ملائکة اخر  
 فیستقبل کل احد منهم امة من الامم فیر  
 نعهم براحتہ فیکبہم فی جہنم علی وجوہہم  
 فیہون علی رؤوسہم مقد السبعین عاما من  
 قبل ان یبلغوا رؤس جبالہا قال واذا بلغوا  
 رؤس جبالہا لیتقاروا علیہا حتی ینزل لکل  
 النسان منهم سبعون جلد ا قال فاول اكلة  
 یا کلون علی رؤس تلك الجبال اكلة من  
 الزقوم ظاہرۃ حرارتہا شدیدۃ مرازمتھا  
 کثیر شرکھا قال فینما ہم یمضون اکلتمہم  
 تلك اذ اتتم الملائکة لیسوا لہم بمقامعہم  
 فتکسرت عظامہم ثم اخذوا بارجلہم  
 فالقروہم فی جہنم فہووا علی رؤوسہم مقداً  
 سبعین عاما من قبل ان یتقاروا فی شعابہا  
 قال فما تقاروا فی شعابہا حتی ینزل لکل النسان  
 متہم سبعون جلد ا قال واکلتمہم تلك فی  
 افواہہم لا یتطیعون ان یسیغواھا قال  
 فتجتمع الاكلة والقلب عند الحق فیغص بہا  
 فیستغیت کل النسان منہم بالشراب فاذا فی  
 تلك الشعاب اودیۃ تنصب الی جہنم قال  
 فینطلقون یمشون حتی یردوہا فیکبروا علیہا  
 لیسر لہم فیہا قال فتقطع جلود وجوہہم فتقع

میں تمہارا صبر کرنا، نہ کرنا برابر ہے تم کو تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جا  
 رہا ہے، فرمایا: پھر جب یہ مجرم جہنم پر کھڑے کئے جائیں گے تو ان کے  
 لئے جہنم کے دروازے کھول دئے جائیں گے اور اس سے پردہ اٹھا  
 دیا جائے گا پھر جہنم بھڑک اٹھے گی اور اس کی آگ غضب کے شعلے  
 مارنے لگے گی اور اس سے سخت قسم کا دھواں اٹھے گا جس میں  
 آسمان کے تاروں کی برابر انگارے ہوں گے جو ستر سال کی مسافت  
 کی مقدار میں اوپر چڑھ جائیں گے پھر وہاں سے ان مجرموں کے  
 سروں پر برسیں گے جن سے ان کے بال خاکستر ہو جائیں گے اور  
 ان کی کھوپڑیاں ٹوٹ جائیں گی، فرمایا: پھر جہنم اپنی پوری آواز سے  
 کڑکے گی کہ اے جہنم! میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، کان کھول کہ  
 سن لو! مجھے اپنے پروردگار کی عزت کی قسم میں تم سے بدلے لے  
 نہیں رہوں گی پھر کہے گی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسا بنا لیا  
 کہ میں اس کے غضب کی خاطر اظہار غیظ و غضب کرتی ہوں اور وہ میرے  
 ذریعہ اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے اے پروردگار میری گہمی  
 میں اضافہ فرما اور میری قوت بڑھا فرمایا: پھر جہنم سے دوسرے  
 فرشتے نکلیں گے اور ان میں سے ہر فرشتہ ایک ایک جماعت کو  
 پکڑے گا اور انہیں اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر اوپر لے جائے گا اور انہیں  
 اوندھا کر کے مومنوں کے بل جہنم میں پٹخ دے گا چنانچہ یہ اپنے  
 سروں کے بل ستر سال کی مسافت طے کر کے جہنم میں گہس گئے لیکن  
 ابھی جہنم کے پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچیں گے پھر جب ان کی چوٹیوں تک  
 پہنچ جائیں گے تو ان پر نہیں ٹھہریں گے جب تک ہر شخص کی ستر بار  
 کھال نہ بدل دی جائے فرمایا: سب سے پہلا لقمہ جسے وہ ان چوٹیوں  
 پر نوش جان کریں گے تھوڑا سا لڑا لڑا ہوگا جس میں غضب کی حرارت  
 اور بلا کی تلخی ہوگی اور بے انتہا کاسٹے ہوں گے، فرمایا: پھر اس  
 حال میں کہ وہ یہ لڑا لڑا چہا رہے ہوں گے کہ اچانک ان کے پاس



فیہا قال فلا یستطیعون ان یشربوا منها قال  
 فیعرفون عنہا عراضۃ فتدرکھم الملائکۃ  
 وہم منکبون علی تلك العیون فیضربونہم  
 تکسر عظامہم ثم یاخذون بارجلہم فیلقونہم  
 فی جہنم فیہون علی رءوسہم مقدار اربعین  
 ومائۃ عام فی لہب ودرخان شدید من قبل  
 ان یتقاروا فی اودیتہا قال فلا یتقارون فی  
 اودیتہا حتی یبدل لکل النان منہم سبعون  
 جلد اقال ومنتہی تلك العیون فی تلك الودیۃ  
 قال فیشربون منها فاذا ہی ماء خمیم فلا یتقارون  
 فی بطونہم حتی یبدل اللہ لکل النان منہم  
 سبعة جلود قال فاذا تقار فی بطونہم قطع  
 امعاءہم فخرجت من مقاعدہم وجرى  
 باقیہ فی عروقہم فذابت لحمہم وتصلبت  
 عظامہم وادرکتہم الملائکۃ فقربت  
 وجوہہم وادبارہم ورءوسہم بتقامعہم  
 لکل مقعع منہا ثلاثمائة وستون حرفا فاذا  
 ضربت بہا رءوسہم انقلعت جاجہم  
 وتکسرت اصلا بنہم وسجوا فی النار علی  
 وجوہہم حتی توسطوا حجینہا فاشتعلت  
 النار فی جلودہم وتشعبت فی آذانہم فخرج  
 لہبہا من مناخرہم واصلا عہم وتفجر  
 الصدید من اجسادہم وخرجت اعینہم  
 فتعلقت علی خد ودمہم ثم قرئوا مع شیانہم  
 الذین كانوا یطیعونہم والہتہم التي كانت

فرشتے آجائیں گے اور انہیں گزروں سے اس تدر مارین گے کہ ان کی بڑیاں  
 اور لیلیاں ٹوٹ جائیں گی پھر ان کے پیر کپڑے جہنم میں پھینک دیں گے  
 اور وہ منہ کے بل ستر سال میں جہنم میں گریں گے لیکن ابھی تک جہنم کی گھاٹیوں میں  
 نہ پہنچے ہوں گے پھر جب جہنم کی گھاٹیوں میں پہنچ جائیں گے تو وہاں سے  
 اس وقت تک نہ نکلنے جائیں گے جب تک ہر شخص ستر ستر بار کھال کی  
 تجدید نہ کر دی جائے گی اور تھوہڑ کا نوالہ ابھی تک ان کے مونہوں  
 میں باقی ہو گا وہ ان سے کھایا بھی نہ جائے گا پھر دل اور نوالہ درزوں  
 لگے ہیں آ کر ایک جائیں گے اور ان سے بری طرح پھندا لگے گا اور  
 ہر مجرم پانی مانگے گا اچانک دیکھیں گے کہ ان وادیوں میں ندیاں بہ  
 رہی ہیں جو جہنم میں جا کر گرتی ہیں پھر یہ لنگڑا تے ہوئے ندیوں کی  
 طرف بڑھیں گے اور ان کے پاس آ کر ان میں اوندھے منہ گر پڑیں  
 گے اور پانی پیئیں گے فرمایا: پھر ان کے چروں کی کھالیں کٹ کر ندیوں  
 میں گر جائیں گی فرمایا: اور وہ ندیوں کا پانی پینے پر قادر نہ ہونگے  
 فرمایا: پھر وہ ان ندیوں سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے مگر  
 فوراً انہیں اس حال میں کہ وہ ان ندیوں میں اوندھے منہوں کے  
 فرشتے آپکڑیں گے اور انہیں اتنا ماریں گے کہ بڑی سہلی ایک ہو جائے گی  
 اور ان کے پیر کپڑے جہنم میں پھینک دیں گے پھر وہ جہنم میں سر کے بل  
 ۴۰ سال کی مسافت کی مقدار سے گریں گے جہاں شعلے ہی شعلے اور  
 سخت دھواں ہو گا لیکن ابھی اس کی وادیوں تک نہیں پہنچیں گے  
 اور وہ ان وادیوں میں نہیں کھڑیں گے جب تک ہر مجرم کی ستر ستر بار  
 کھال نہ بدل دی جائے اور وہ ندیاں ان وادیوں میں ختم ہوتی ہیں پھر  
 یہ ان ندیوں کا پانی پیئیں گے مگر وہ سخت گرم اور کھوٹا سا پانی ہو گا  
 جو ان کے پیٹوں میں نہیں ٹھہرے گا جب تک ان کی کھال سات بار  
 نہ بدل دی جائے فرمایا: پھر جب وہ پانی ان کے پیٹوں میں ٹھہرائے  
 گا تو ان کی آنٹیں کاٹ ڈالے گا اور آنتیں کٹ کٹ کر در کی راہ سے



مستغاثم فالقوانی اماکن ذبیقة مقرنین فہفتوا  
 یویلہم حتی حی و یا موالہم فاحیبت فی نارہم  
 نکویت بہا جباہم و جنوبہم و وضعت علی  
 ظہورہم فخرجت من بطونہم فہم اولیاء  
 جہنم و قرناء الشیاطین و الحجارۃ و علقوا بخطایا  
 ہم کالجبال لیشتد علیہم العذاب فطول احدہم  
 مسیرۃ شہر و عرضہ مسیرۃ خمسة ایام و غلطہ  
 مسیرۃ ثلاث لیل و راسہ مثل الاقرع و ہوجبل  
 باقصی الشام فی فیہ اثنان و ثلاثون نابا قد خرج  
 بعضہا من اسفل حیثہ و انقہ مثل الرابیۃ  
 العظیمۃ طول شعر راسہ و غلطہ مثل شجرۃ  
 الأرز و کثرنتہ کاجام الدنیا و شفتہ العلیا  
 قالصۃ و السفلی تسعون ذراعاً و طول یدہ مسیرۃ  
 عشرۃ ایام و غلطہا مسیرۃ یوم و فخذہ مثل  
 ورتان و غلط جلدہ اربعون ذراعاً بذرعدہ  
 و طول ساقہ مسیرۃ خمس لیل و غلطہا مسیرۃ  
 یوم کل حدقۃ لہ مثل حراء و ہوجبل بہکۃ  
 اذا صب فوق راسہ القطر ان اشتعلت فیہ  
 النار فلم تزد الا التہابا قال وکان النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول و الذی نفسی یدہ  
 لو ان رجلاً خرج من النار یجر سلسلۃ معلولۃ  
 ید ا لا الی عنقہ فی عنقہ الا غلال و فی رجلیہ  
 الکبیر ثمر آلا الخلاق لا تہزموا عنہ و  
 فروا منہ کل مفر قال فمن شدت حرہا و  
 غمہا و الوان عذابہا و ضیق منازلہا انصر

نکل جائیں گی اور باقی پانی ان کی رگ رگ میں دوڑ جائے گا جو ان کا گوشت  
 پوست پگھلا دے گا اور ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالے گا اور فرشتے  
 انہیں آگھیریں گے اور ان کے مونہوں، اکروں اور سروں پر ایسے گرز  
 ماریں گے جن میں ۳۶ کتارے ہوں گے جن کی ضربوں سے ان کی  
 کھوپریاں اکھڑ جائیں گی اور کر کے مرے ٹوٹ جائیں گے پھر وہ  
 منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دئے جائیں گے جتنے کہ جہنم کے  
 وسط میں جا گریں گے اور ان کی کھالوں پر آگ بھڑک اٹھے گی  
 ان کے کانوں میں شاخ درشاخ ہو کر شعلے گھس جائیں گے اور  
 ناک کے نتھنوں میں بھی اور سپلیوں میں بھی اور جسم بھوڑا بن کر  
 پیپ بن جائے گا اور آنکھیں نکل کر خساروں پر لٹک جائیں گی  
 پھر یہ اپنے شیطان ساتھیوں کے ساتھ جکڑ دئے جائیں گے  
 جن کی دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے اور ان معبودوں کے ساتھ  
 بھی جن سے مرادیں مانگا کرتے تھے پھر یہ جکڑے ہوئے ایک  
 تنگ و تاریک مقام پر ڈال دئے جائیں گے اور ہلاکت ہلاکت  
 پکاریں گے پھر ان کا نال لاکر آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے  
 ان کی پیشانیوں اور گردنوں کو داغا جائے گا۔ اور ان کی پشتوں  
 پر بھی رکھا جائے گا پھر وہ ان کے پیٹوں سے نکل آئے گا کیونکہ وہ  
 اولیائے جہنم اور شیطانوں اور پتھروں کے مرید ہیں۔ اور انہیں  
 ان کے پہاڑوں جیسے عظیم گناہوں کی وجہ سے ٹکایا جائے گا تاکہ  
 انتہائی سنگین عذاب سے درچار ہوں ان پر اس قدر درم ہوگا  
 کہ ہر شخص کا طول بقدر ایک ماہ کی مسافت کے ہوگا اور عرض بقدر  
 پانچ دن کی مسافت کے اور مٹاپا بقدر تین دن کی مسافت کے۔  
 ان کا سر کوہ افرع جیسا ہوگا افرع شام کی سرحد پر ایک پہاڑ ہے  
 جہنم کے ہر منہ میں ۳۲ دانت ہیں کوئی دانت سر سے نکلا ہوا ہے کوئی ٹھوڑے  
 کے نیچے سے نکلا ہوا ہے اور اسکی ناک ایک بڑے ٹیکے کی برابر ہے اور

لحمهم و تفسدت عظامهم و غلت ادمغتهم  
فصارت علی جلودهم و احتترت فقطعت او  
صالحهم فسال منها صدید ہم فتدردت  
اجسادهم و سنت دید انهم و صارت  
مثل حبار الوحش لها اطاقیر مثل  
اطاقیر النور و العقیان تشتد ما بین  
جلدهم و لحمهم و تنشهم و تفرز فرزة  
و تتردد کما یتردد الوحش المذکور  
یا کلن لحمهم و لیثین ذمءهم لیس  
لیس لها ما کل ولا مشرب غیرها  
تاخذهم الملائکة فتسحبهم علی  
وجوههم علی الجمر و الحجارة کأنها  
اسنة مستعدین منطلقین بهم الی بحر  
جهنم مسیرة سبعین عاما فلا یبلغونه  
حتى تنقطع او صالحهم و تبدل جلودهم  
فی کل یوم سبعین الف مرة فاذا انتلوا  
بهم الی خزنته اخذوا بارجلهم فدفعو  
هم فیہ فلا یعلم احد فعر ذلك البحر  
الا الذی خلقه و قد قبل انه مکتوب  
فی بعض اسفار التوراة ان بحر الدنیا عند  
بحر جهنم کعین صغیرة فی ساحل بحر  
الدنیا فاذا قد فوا فیہ و وجد و امس  
العذاب قال بعضهم لبعض کأننا الذی  
عذبنا بیه قبل هذا حلم قال فی خمسین  
مرة و یرتفعون و یغلی و یقذفهم سبعین

اس کے سر کے بالوں کا صل اور ان کی موٹائی صنوبر کے درخت کی  
مانند ہے اور دنیا کے بنوں کی طرح گھنے بال ہیں اس کے اریہ کا ہونٹا اوپر  
کو چلا گیا ہے اور نیچے کا ہونٹ ۹۰ گز کا ہے اور اس کے ہاتھ کا طول بقدر دس  
دن کی مسافت کے ہے اور موٹائی بقدر ایک دن کی مسافت کے ہے اور اسکی  
ران کوہ ورتان کی مانند ہے اور اسکی کھال کی موٹائی اس کے ہاتھ سے چالیس  
ہاتھ ہے اور اس کی پنڈلی کا طول بقدر پانچ دن کی مسافت کے ہے اور  
موٹائی بقدر ایک دن کی مسافت کے ہے اور اسکی آنکھ کا حلقہ کوہ حراء  
کی مانند ہے حراء کہ میں ایک پہاڑ ہے جب اسکے سر پر گھملا ہوتا ہے  
رہتا تو کول ڈالا جائے گا تو اس میں آگ بھڑک اٹھے گی اور لمحہ بہ لمحہ  
النتاب بڑھتا ہی رہے گا رادی کتا ہے کہ رسول اللہ صلعم فرمایا کہ  
تھے: اسکی قسم جسکے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کوئی شخص جنم سے اپنی  
زنجیر گھسیٹتا ہوا اس حال میں نکلے کہ اسکے ہاتھ کندھوں پر بندھے ہوئے  
ہیں کہ دن میں طوق ہے پیروں میں پٹریاں ہیں اور لوگ اسے دیکھیں تو خور  
زدہ ہو کر ایسے بھاگیں کہ پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھیں اور جس کے جہاں بیگ  
سمائیں چھپ جائیں، فرمایا: جنم کی سخت ترین حرارت، غیظ و غضب  
گو ناگول عذاب اور تنگ و تاریک منازل کی وجہ سے اہل جنم کے گوشت  
نیسے ہو گئے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، دماغ کھول رہے ہوں گے اور بھیجا گھیل  
گھیل کہ ان کے چمڑوں پر سہرا ہو گا جس سے ان کے سارے بدن میں جلن  
گی اور ان کا ایک ایک جوڑ کاٹ دیا جائیگا اور جوڑوں سے پیپ بے گی  
اور ان کے جسموں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور وہ جنگلی گدھوں کی طرح سوتے  
جائیں گے اور ان کے گدھ اور عقاب کی طرح پیچے ہوں گے اور وہ انکی کھا  
و گوشت کے درمیان دوڑتے پھریں گے اور انہیں دانتوں سے اور پنجوں سے  
نوپچ نوپچ کر کھائیں گے اور تہ تکلیف کی تاب نہ لاکر بلبلائیں گے اور دھات  
مار مار کر روئیں گے یہ کیڑے ان کے جسموں پر اس طرح دوڑیں گے جس طرح  
کول جنگلی خوفزدہ جانور دوڑتا پھرتا ہے اور ان کا گوشت کھائیں گے



یا علی بعد کل باع کعبہ المشرق من المغرب  
ثم تسوق لهم الملائكة بمقامهم فيضربونهم  
بها ويردونهم الى قعرها مسيرة سبعين عاما  
منه طعامهم وشربهم فيرفقون من قعره  
مقدار اربعين ومائة عام فيريد اهلهم  
ان يتنفس فتقبله الملائكة بمقامهم متبادرين  
اليه لغيره غير انه يذکر انه اذا رفع راسه  
وقع على راسه سبعون الف مقع لا يخطئه  
شيء منها فترده سبعين باعاً في قعرها  
كل باع کعبہ المشرق من المغرب قال  
فهم فيها ما شاء الله من ذلك حتى  
تأکل لحومهم وعظامهم فتبقى ارواحهم  
فيضربهم موجه سبعين عاما ثم تنبذهم  
الى ساحل من سوا حله فيه سبعون الف مغارة  
في جوف كل مغارة سبعون الف شق كل شق  
منها مسيرة سبعين عاما في جوف كل شق  
منها سبعون الف ثعبان طول كل ثعبان  
منها سبعون ذراعا لكل ثعبان منها  
سبعون نابا في كل ناب منها قلة سم  
في شق كل ثعبان منها الف عقرب  
لكل عقرب منها سبعون فقارة في كل  
فقارة منها قلة من السم قال فتخرج  
ارواحهم من ذلك البحر الى تلك المغارة  
فتجد لهم اجساد وجلود ويلقون في  
الحديد فتخرج عليهم تلك الحيات والعقارب

اور خون پس گے اسکے سوا ان کا کوئی اور کھانا پینا نہ ہوگا پھر فرشتے انہیں  
پکڑ لیں گے اور انہیں پکڑ کر منہ کے بل انگاروں اور گرم پتھروں پر گھسیٹیں  
گے گویا وہ پتھر بھالے ہیں اور اسی مقصد کیلئے تیار کئے گئے ہیں اور انہیں  
جہنم کے ایسے سمندر کی طرف لیجائیں گے جسکی راہ بقدر ستر سال کی مسافت  
کے ہے پھر انکے سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائیں گے  
اور روزانہ ستر ستر ہزار بار ان کی کھالیں بدلی جائیں گی پھر جب فرشتے  
انہیں جہنم کے محافظ فرشتوں کے پاس لیکر پہنچیں گے تو محافظ فرشتے انکے  
پیر پکڑ کر انہیں جہنم کے سمندر میں پھینکیں گے اس سمندر کی گہرائی وہ  
جانتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تورات کے کسی  
سفر میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا سمندر جہنم کے سمندر کے بالمقابل اس قدر  
چھوٹا ہے جیسے ساحل سمندر پر کہیں چھوٹا سا چشمہ ہوتا ہے پھر جب  
جہنمی اس سمندر میں ڈالے جائیں گے اور اس کا عذاب محسوس کریں گے  
تو بعض بعض سے کہیں گے کہ اس سے قبل ہم پر جو عذاب ہوا ہے وہ اسکے مقابلہ میں  
نہایت معلوم ہوتا ہے فرمایا: اس میں انہیں غوطہ دیا جائیگا پھر وہ ابھر کر اوپر  
آئیں گے وہ جوش مار رہا ہوگا اور انہیں ستر بوں و در پھینکیں گے ہر بوں  
کا طول مشرق سے مغرب تک کا ہوگا پھر فرشتے انہیں اپنے گزروں سے مارتے  
ہوئے اسکی گہرائی تک پہنچا دیں گے جو ستر سال کی مسافت ہے وہیں ان کو  
طعام و شراب ملے گا پھر اسکی گہرائی سے بقدر ۴۰ سال کی مسافت کے  
اوپر آئیں گے اور ان میں سے ایک شخص چاہے گا کہ سانس لے لیکن فوراً  
فرشتے آکر انہیں گزروں سے ماریں گے اور دم نہ لینے دیں گے اسکے علاوہ جب  
وہ سہرا ٹھائیں گے تو ان کے سر پر ستر ہزار گز پڑیں گے اور سب نشانہ  
پر ہی پڑیں گے جسکی وجہ سے وہ پھر ستر بوں دریا کی گہرائی میں چلے جائیں  
گے اور ہر بوں میں اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب  
میں ہے، فرمایا: پھر یہ مجرم اسی میں رہیں گے جب تک حق تعالیٰ کو  
منظور ہوگا حتیٰ کہ ان کا گوشت اور ہڈیاں بضم کر لی جائیں پھر اس



تتعلق فی کل انسان منهم سبعون الف حبة  
 وسبعون الف عقرب فیسبرون ثم ترتفع الح  
 ركبهم فیسبرون ثم ترتفع الی صدرهم  
 فیسبرون ثم ترتفع الی ترقبهم فیسبرون  
 ثم ترتفع فتعلق بمنخرهم وشفاهم و  
 السننهم واذانهم فیجزعون ولیس لهم  
 مستعات الا ان ینزلوا الی جہنم فیقعوا فیها  
 فاما الحیات فتضع لحمهم وتنشف دماءهم  
 واما العقارب فتلد غمهم فتساقط لحمهم و  
 تقطع اوصالهم فاذا وقعوا فی النار مكثت النار  
 سبعین عاما لا تحرقهم من سم الحیات والعقار  
 قال ثم تحرقهم النار سبعین عاما ثم تجدد  
 لهم جلود غیر جلودهم ثم یتغیثون  
 بالطعام فاتیهم الملائكة بطعام یقال  
 له الولیمة وهو اشد یبسا من الحدید  
 فیمضغونه فلا یتطیعون ان یاكلوا منه  
 شیئا فیلقونہ من افواههم ویسبءون بایدهم  
 من شدۃ الجوع فیاكلون اناملهم واکفهم  
 فاذا اكلوها بدءوا بسوا عدہم فاكلوها  
 البضالی مرافقہم ثم بدءوا بموافقہم فاكلوها  
 الی مناكبہم فتبقى رؤس المناكب ولونالوا  
 بعدھا شیئا من اجسادہم بافواہم لاكلوا  
 فاذا فعلوا ذلك باجسادہم اخذوا فتوطوا  
 بعراقبہم کلایب من حدید علی شجرة الزنبر  
 قال فنوط منهم سبعون الف فی شعبة واحد

میں ان کی رد میں باقی رہ جائیں گی اور تشریر میں تک اس کی موجوں کی تشریر  
 ان پر پڑتی رہیں گی پھر یہ سمندر انہیں اپنے کسی ساحل پر پھینک دے گا۔  
 جس میں ستر ہزار غار ہوں گے اور ہر غار کے اندر ستر ہزار بل ہوں گے اور ہر  
 بل ستر ہزار سال کی مسافت کا ہوگا اور ہر بل میں ستر ہزار اثر ہے ہوں گے  
 اور ہر اثر ہے کا طول ستر ماٹھ کا ہوگا اور ہر ایک کے ستر ستر دانت ہوں گے  
 اور ہر دانت کے اوپر زہر کا پتہ ہوگا اور ہر اثر ہے کو منہ میں ایک ایک ہزار  
 بچھو ہوں گے اور ہر بچھو کے ستر ستر مہرے ہوں گے اور ہر مہرے پر زہر کا ایک ایک پتہ ہوگا  
 فرمایا پھر ان کی رد میں سمندر سے ان غاروں میں جائیں گی اور انہیں از سر نو اجسام  
 اور چڑھے دیدئے جائیں گے اور لوہے سے جکڑا جائے گا اب ان کی طرف ان  
 غاروں کے سانپ اور بچھو بڑھیں گے اور ہر شخص کو ستر ستر ہزار سانپ اور ستر  
 ہزار بچھو لپٹ جائیں گے لیکن یہ صبر کریں گے پھر یہ سانپ اور بچھو ان کے  
 گھٹنوں تک پڑھ جائیں گے لیکن اب بھی یہ صبر سے کام لیں گے پھر یہ ان کے  
 سینوں تک چڑھ جائیں گے اب بھی یہ صبر کرتے رہیں گے پھر گلے تک چڑھ  
 جائیں گے اب بھی یہ صبر کریں گے پھر نتھنوں، ہونٹوں، زبانوں اور کانوں  
 تک آجائیں گے لیکن اب ان کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹ جائے گا۔  
 اور شور و غل کریں گے لیکن ان پر رحم کرنا لا کوئی نہ ہوگا بجز اس کے کہ  
 جہنم کی طرف بھاگ کر جائیں اور اس میں گر پڑیں سانپ ان کا گوشت  
 چبا جائیں گے اور ان کا خون چوس لیں گے اور بچھو مری طرح سے انہیں ڈسیں  
 گے جن کے زہر سے ان کا گوشت گل جائے گا اور ان کے جوڑا گل الگ الگ ہوں  
 جائیں گے پھر جب یہ آگ میں گر جائیں گے تو آگ ستر سال تک انہیں  
 نہیں جلائے گی کیونکہ ان میں سانپوں اور بچھوؤں کے زہر بے اثرات  
 موجود رہیں گے ان کی جلن ان کے لئے کافی ہے۔ پھر انہیں از سر نو کھالیں  
 دہری جائیں گی اور وہ کھانا مانگیں گے فرشتے ان کے پاس کھانا لائیں گے  
 اس کھانے کو دلیہ کہا جاتا ہے یہ کھانا لوہے سے زیادہ خشک ہوگا  
 مجرم سے چبانا چاہیں گے لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ کھا سکیں گے آخر



فما تذخنی مصوبین علی رؤسہم فی وقت  
تختہم الحجیم فیستقبل حر النار وجوہہم  
مقدار سبعین عاماً حتی تذوب اجسادہم  
وتبقى ارواحہم ثم تجرد لہم جلود و  
اجساد ثم یناطون باناملہم ولہب النار  
من تحتہم تدخل من مقاعدہم وتاکل  
من افئدتہم حتی یتخرج من مناخرہم وافوا  
ومسامعہم مقدار سبعین عاماً حتی تذوب  
عظامہم ولحومہم وتبقى ارواحہم ثم  
یترکون ریحید لہم جلود و اجساد ثم  
یناطون بالیمارہم مثلھا فلا یزالون یعدون  
کذلک حتی لا یبقی منہم فی اجسادہم الا  
لوطوا بہ مقدار سبعین عاماً ولا تبقى شعرة  
فی رءوسہم الا لوطوا بہا فیناثرہم الموت من  
کل مفصل منہم وما ہم ببیتین ومن  
درائتہم عذاب علیظ فاذا فعل ذلک بہم  
کلہ انزلوہم فانطلقوا بکل النان منہم  
الی منزلہ مغلولاً بسلسلۃ مسجوبہ علی وجہہ  
قال ولہم منازل فیہا کقدر اعمالہم  
فمنہم من یعطی منزلة مسیرة شہر طولہا  
وعرضہا مثل ذلک نار تتوقد لا ینزلہا  
غیرہ و منہم من یعطی منزلة مسیرة تسع  
وعشرین لیلة طولاً وعرضاً ثم کذلک تنقص  
منازلہم وتضیق حتی ان احدہم لیعطی  
منزلة مسیرة یومہ طولاً وعرضاً ومن نحو سعة

وہ کھانا منہ سے اگل دیں گے اور فرط بھوک کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں  
اور پتھیلیاں چاب جائیں گے پھر جب وہ کھا چکیں گے تو اپنے ہاتھ پتھیلیوں  
سے لیکر کہنیوں تک کھائیں گے پھر کہنیوں سے لیکر کندھوں تک کھا جائیں  
گے لیکن کندھوں کے کچھ سرے باقی رہ جائیں گے اگر ان کے منہ جسم کے دو  
والے حصوں پر پہنچیں تو انہیں بھی کھا جائیں پھر جب اپنے جسموں کو کھانے  
لگیں گے تو پکڑ لے جائیں گے اور لوہے کے انکڑوں میں بند کر دیں  
کے درختوں پر ایڑیوں سمیت اٹے لٹکائے جائیں گے اور اس کی ایک  
ایک شاخ سے ستر ستر ہزار ٹکادے جائیں گے لیکن وہ جھکے گی نہیں  
حالانکہ وہ اوندرھے سروں کے بل ٹک رہے ہوں گے پھر ان کے نیچے جہنم  
کی آگ سلگائی جائیگی اور آگ کی حرارت انکے چہروں کی طرف ستر سال  
تک رہے گی حتیٰ کہ ان کے جسم بگھل جائیں گے اور رو جس باقی رہ جائیں  
گی پھر از سر نو انہیں کھالیں اور جسم دے جائیں گے پھر لوہوں کے بل ٹکائے  
دئے جائیں گے اور ان کے نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی جو ان کی مقعد کی راہ  
دلوں تک پہنچ کر انہیں جلا دیگی حتیٰ کہ ان کے نتھنوں و موموں اور کانوں  
ستر سال تک برابر نکلتی رہے گی بالآخر ان کی ہڈیاں اور گوشت گل جائے گا  
اور ان کی رد جس باقی رہ جائیں گی پھر چھوڑ دئے جائیں گے اور انہیں  
از سر نو کھالیں اور جسم دیدئے جائیں گے پھر اسی طرح آنکھوں کے بل ٹکائے  
دئے جائیں گے اور اسی طرح ان پر طرح طرح کا عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ  
جسم کا کوئی جوڑ باقی نہ رہے گا جس کے بل ستر سال تک نہ ٹکائے گئے ہوں  
بلکہ سر کے ایک ایک بال کے ساتھ ٹکائے جائیں گے پھر ان کے جوڑ جوڑ  
کی راہ سے ان کے پاس موت آئے گی حالانکہ وہ مرنے والے نہیں اور ان  
کے آگے سخت ترین عذاب آئینا ہے جب ان پر یہ سب عذاب ہو  
چکیں گے تو فرشتے انہیں انار لیں گے اور طوق دوزخ میں جکڑے ہوئے  
ہر مجرم کو منہ کے بل گھسیٹ کر اس کی منزل تک لائیں گے اور باہر جہنم  
میں اہل جہنم کی بقدر عملوں کے منزلیں ہیں کسی کی منزل کا طول و عرض



منزلہم یعد لون فمنہم من یعذب علی القفا  
ومنہم من یعذب جالسا ومنہم من یعذب  
حائیا علی رکتیہ ومنہم من یعذب قائما علی  
رجلیہ ومنہم من یعذب منطبقا علی بطنہ فغدا المنازل  
کلیہا اذیق علی اهلہا من زج الریح ومنہم من تکون نار الی  
کعبہ ومنہم من تکون نار الی رکتہ ومنہم من تکون نار الی  
الی حقویہ ومنہم من تکون نار الی سرتہ ومنہم من تکون  
نار الی ترقوتہ ومنہم من تکون نار غرقا صرۃ  
تعلوبہ وصرۃ تدیر لا یتبلغہ سیرۃ شہر  
فی قعرہا فاذا وقعوا فی منازلہم قرن کل  
منہم مع قرنائہم فیکوا حتی تنزف دموہم  
ثم یمیکون الدم بعد الدموع حتی لو ان  
السفن ارسلت اذا بکوا فی دموعہم  
لجرت قال ولعہم یوم یجتمعون فیہ فی  
اصل الحجیم ثم لا تکون جماعة ابد اقال  
فاذا اذن اللہ فی ذلک الیوم نادى مناد فی  
اصل الحجیم یسمع صوتہ اعلاہم واسفلہم  
وادناہم واقصاہم یقال لہ حشر لیقول  
یا اهل النار اجتمعوا فیجتمعون  
فی اصل الحجیم ومعہم الزبانیۃ قال  
فیاتمرون بینہم فیقول الذین استضعفوا  
للذین استکبروا انا کننا لکم تبعاً فی الدنیا  
فہل انتم مغتورون ہنا من عذاب اللہ من  
شیء قال الذین استکبروا انا کل فیہا  
ان اللہ قد حکم بین العباد وقال الذین

ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس میں آگ بھڑکی ہوئی ہے اس کے  
کوئی دوسرا اس منزل میں نہیں سمھتا اور کسی منزل کا طول و عرض ۲۹ دن  
کی مسافت کی برابر ہے اسی طرح منزلوں میں تفاوت ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض  
کی منزل کا طول و عرض ایک دن کی مسافت کی برابر ہے جتنی منزل فراخ ہو  
گی اسی کے موافق عذاب ہوگا بعض کو جیت لگا کر عذاب دیا جائے گا کسی  
کو چار خانے بٹھا کر کسی کو گھٹنوں کے بل بٹھا کر کسی کو پیروں پر بٹھا کر  
اور کسی کو پیٹ کے بل اڑھالٹا کر یہ تمام منزلیں ہر منزل والے پر پڑے  
کی نوک سے بھی زیادہ تنگ و تیز ہیں۔ جہنم کی آگ کسی کو ٹخنوں تک پڑے  
ہوئے ہوگی کسی کو گھٹنوں تک کسی کو دائیوں تک کسی کو ناف تک کسی کو  
گلے تک اور کوئی سر یا آگ میں ڈوبا ہوا ہوگا یہ آگ کبھی تو اسے کھولا گی  
کبھی گھٹائے گی اور ہرگز ان میں بقدر ایک ماہ کی مسافت کے پہنچا دے گی  
پھر جب پورے اپنی اپنی منزلوں میں پہنچ جائیں گے تو ہر ایک اپنے ساتھیوں  
سے مل کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے گا اور اتنا روئے گا کہ روتے روتے  
آنسو خشک ہو جائیں گے پھر خون پر خون کے آنسو روئیں گے اور آنسو  
کا دریا جاری ہو جائے گا اگر اس دریا میں کشتیاں چلی جائیں تو وہ چلنے لگیں۔  
فرمایا: اور پڑھوں گے لئے ایک دن ہے جس دن وہ جہنم کی جڑ میں سب جمع  
ہو جائیں گے، پھر بھی جمع نہ ہوں گے، فرمایا: پھر اس دن حق تعالیٰ کے حکم سے  
جہنم کی جڑ میں ایک منادی اعلان کرے گا جس کی آواز اوپر والے نیچے والے  
قریب والے اور دور والے سب ہی سنیں گے اس منادی کا نام حشر ہے یہ  
اعلان کرے گا کہ اے جہنم والو سب جمع ہو جاؤ یہ اعلان سن کر سب جہنم کی  
جڑ میں جمع ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ دوزخ کے محافظ فرشتے بھی ہوں گے۔  
فرمایا: پھر یہ سب آپس میں مشورہ کریں گے اور کمزور مغروروں سے کہیں گے  
کہ ہم تمہارے تابع تھے کیا آج تم ہم سے اللہ کا کچھ عذاب دفع کر سکتے ہو؟  
مغرور جواب دیں گے کہ ہم سب جہنم میں ہیں حق تعالیٰ اپنے بندوں میں  
فرما چکا ہے اور مغرور کمزوروں سے کہیں گے اللہ کے سے تم کو مسرت نصیب ہو



استکبروا للذین استضعفوا لا مرحبا بکم بنا  
تستغیثون قال الذین استضعفوا للذین استکبروا  
بل انتم لا مرحبا بکم انتم قد متموا لنا فیس  
القرار قال الذین استضعفوا للذین استکبروا  
رینا من قدم لنا هذا فزردنا عذاباضعفانی النار  
فقال الذین استکبروا لوهدانا الله لهدینا  
کم قال الذین استضعفوا للذین استکبروا  
بل مکر اللیل والنهار اذ قام رؤسنا ان تکفر  
بالله ونجعل له انداد فتبرأ منکم وما کنتم  
تدعوننا الیه فی الدنیا قال تم اقبلوا اجمعون  
علی قرناؤهم من الشیاطین فقالوا اغویناکم  
کما غوینا قال الشیطان عند آخر مقالتهم  
بصوت له عال یا اهل النار ان الله وعدکم  
وعد الحق وزعاکم الله فلم تجیبوا ولم  
تصدقوا وانی وعدتکم وعدا فاخلفتکم  
وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم  
فاستجبتم لی فلا تلو مونی ولوموا انفسکم  
ما انا بمصر حکم وما انتم ببصرخی فاذا کفرت  
الیوم بما عبدتمونی من دون الله قال فاذن  
مؤذن بینهم ان لعنة الله علی الظالمین  
قال فلعن عند ذلک الذین استضعفوا الذین  
استکبروا ولعن الذین استکبروا الذین  
استضعفوا ولعنوا قرناءهم من الشیاطین  
ولعنهم قرناءهم ثم قالوا القرناؤهم یالیت  
بیننا و بینکم بعد المشرقین فبئس القرناء

تم ہم سے بد مانگتے ہو یہ سن کر کمزور مغروروں سے کہیں گے بلکہ اللہ کے  
تم کو مسرت نصیب نہ ہو ہمارے پاس یہ عذاب و وبال تم نے کئے  
ہو آہ یہ کتنی بڑی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کمزور مغروروں کی طرف اشارہ کیے  
کہیں گے اے ہمارے پروردگار جو یہ عذاب ہمارے پاس لے کر  
آئے اس پر جہنم میں دگنے عذاب کا اضافہ فرما پھر مغرور کہیں گے اگر  
ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا تو ہم تمہیں صحیح راہ بتاتے۔ کمزور  
مغروروں سے کہیں گے بلکہ تم دن رات ہمیں دھوکہ دیا کرتے تھے جبکہ  
تم ہم کو حکم کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ساتھ  
شریک ٹھہرائیں آج ہم تم سے قطعی بیزار ہیں اور ان بتوں سے بھی جن کی  
طرف تم دنیا میں ہمیں بلایا کرتے تھے۔ فرمایا: پھر سب اپنے شیطانی  
ساتھیوں سے کہیں گے آج ہم تم کو گمراہ کہیں گے جیسے تم نے ہمیں دنیا  
میں گمراہ کیا تھا اخیر میں شیطان بلند آواز سے کہے گا اے آگ والو  
حق تعالیٰ شانہ نے تم سے سچا وعدہ فرمایا تھا اللہ نے تم کو صحیح راہ کی  
طرف بلایا تھا لیکن تم نے اس کا بلاوا قبول نہیں کیا اور اس کی تصدیق  
نہیں کی اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا اور اس میں تم سے وعدہ  
خلائی کی اور میرا تم پر کوئی دباؤ نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تمہیں ایک  
بات کی طرف بلایا تھا پھر تم نے میرا بلاوا قبول کر لیا لہذا مجھے ملامت  
نہ کرو اور خود اپنے کو ملامت کرو آج میں تمہارا کام نہیں بنا سکتا  
اور نہ تم میرا کام بنا سکتے ہو آج میں تم کو کافر کہتا ہوں کیونکہ تم نے اللہ  
کو چھوڑ کر میری عبادت کی تھی، فرمایا: پھر ان میں ایک اعلان کر لیا  
اعلان کر دیگا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے فرمایا: پھر اس دن کمزور  
مغروروں پر اور مغرور کمزوروں پر لعنت بھیجیں گے اور مجرم اپنے شیطانوں  
پر اور شیطان مجرموں پر تھو تھو کریں گے پھر مجرم اپنے شیطانوں سے  
کہیں گے کاش ہمارے اور تمہارے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق و  
مغرب میں ہے آج کے دن تم ہمارے بدترین ساتھی ثابت ہوئے اور

انتم لنا اليوم وبئس الوزراء كنتم لنا في  
الدنيا فلما نظروا الى جماعتهم قال بعضهم  
لبعض هلما فنطلب الخزنة فلعلهم يشفون  
لنا عند ربهم فيخفف عنا لوما من العذاب قال  
دهم على ذلك ليعذبون قال وبين مراجعة  
الخبزنة اياهم مقدار سبعين عام ثم يراجعونهم  
فيقولون الم تاتكم رسلكم بالبينات قالوا  
يا جمعهم بلى قال الخزنة فادعوا وما دعاء  
الكافرين الا في ضلال قال فلما راوا ان الخزنة  
لا ترد عليهم خيرا استغاثوا بمالك فقالوا  
يا مالك ادع لنا ربك فليقض علينا بالموث  
فبيك مالك مقدار الدنيا لا يجيبهم ولا يرد  
عليهم قولا ثم يراجعهم فيقول انكم ما كنون  
اخفايا من قبل ان يقضى عليكم الموت فلما  
راوا مالكا لا يرد عليهم خيرا استغاثوا بربهم  
فقالوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون  
يعني ان عدنا في معصيتك قال فكث الجبار  
سبحانه وتعالى مقدار سبعين عاما لا يراجعهم  
بقولهم ولا يرد عليهم خيرا ثم اجابهم  
بقوله وانزلهم منزلة الكلاب اجسثوا فيها  
ولا تكلمون قال فلما راوا ربهم لا يرضهم  
ولا يرد عليهم خيرا قال بعضهم لبعض سواء  
علينا اجزعتنا من العذاب ام صبرنا مالنا  
من مخيب فمالنا من شافعين ولا مدد  
حميم فلو ان لنا كربة فنكون من المؤمنين

دنیا میں تم ہمارے بدترین مددگار تھے پھر اپنی جماعت پر نگاہ ڈالیں گے  
اور کہیں گے آج ہم سب مل کر جہنم کے محافظ فرشتوں کے پاس چلیں اور  
ان سے شفاعت کی درخواست کریں شاید ہمارے حال زار پر انہیں رحم آ  
جائے اور وہ ہم پر تڑپس کھا کر اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت فرما  
دیں کہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ ہمارا عذاب ہلکا فرما دے فرمایا: ان پر برابر  
عذاب مسلط ہے گا اور ستر سال تک جہنم کے محافظ فرشتے انہیں کوئی  
جواب نہیں دیں گے پھر ستر سال کے بعد یہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس  
رسول کھلے کھلے دلائل بیکر نہیں آئے تھے؟ سب بیک زبان ہو کر کہیں گے  
آئے تھے، فرشتے کہیں گے ہم شفاعت نہیں کرسکتے تم خود دعا میں کرو اور  
کافروں کی دعاؤں کا اثر تو مرتب ہو نیوالا ہے نہیں فرمایا: پھر جب  
مجرم سمجھ جائیں گے کہ جہنم کے محافظ فرشتے ہماری شفاعت کر نیوالے نہیں  
تو پھر مالک (داروغہ جہنم) سے فریاد کریں گے اور کہیں گے اے مالک  
آپ ہی اپنے پروردگار سے ہمارے لئے دعا فرمادیجئے کہ وہ ہمیں موت  
بھی دیدے لیکن مالک دنیا کی عمر کے برابر سالوں تک جواب نہ دے گا  
اور ان سے بات بھی نہیں کہیگا پھر جواب دیگا تو یہ دیکھا کہ تم جہنم میں  
صدیوں پڑے رہو گے اور اس میں تمہیں موت آنیوالی نہیں پھر جب یہ  
مجرم مالک کی طرف سے بھی ناامید ہو جائیں گے تو اب براہ راست اپنے  
پروردگار سے فریاد کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار  
ہمیں جہنم سے نکال کر نجات عطا فرما اگر ہم پھر گناہ کریں تو واقعی ہم ظالم  
ہیں فرمایا: حق تعالیٰ جل مجدہ ستر سال تک انہیں جواب نہیں دیگا  
اور ان سے کوئی حوصلہ افزا بات نہیں کہیگا پھر انہیں کتوں کی طرح  
دھتکارا کہ جواب دیگا کہ دور ہو جاؤ اور ذلیل و خوار بن کر جہنم ہی میں  
رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، فرمایا: پھر جب یہ مجرم دیکھیں گے کہ ان  
کا پروردگار ان پر رحم نہیں فرمائے گا اور انہیں خبر سے نہیں نوازے  
گا تو (ناامید ہو کر) ایک دوسرے سے کہے گا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے



قال ثم تنصرف بهم الملائكة الى مساكنهم  
 فزلت عند ذلك اقدامهم ودحضت حججهم  
 ونظروا ما عند ربهم عز وجل ويئسوا من  
 رحمة ربتهم وتلقاهم العذاب الشديد ونزل بهم  
 الخزي والهوان الطويل ففتنوا بحسرتهم  
 على ما فرطوا في دنياهم وحملوا اوزارهم  
 على رقابهم واورق اوتابهم من غير ان  
 ينقص من اوزارهم وعذابهم اكثر من  
 تراب ارضهم و قطر بحورهم مع زبانية  
 سريع امرهم غليظ كل منهم عظيمة اجسادهم  
 كالبرق وجوههم كالجبر اعينهم كالذهب  
 الوانهم كاللحة انيابهم كصياصي البقر  
 اظفارهم لعني القرون والمقامع الطوال  
 الثقال المحرقة بايديهم لوضي لوبها الجبال  
 الصدعت وكانت رصميا يضربون بها  
 عصاة ربهم فيحق لهم ان تسيل اعينهم  
 الدم لجد الدموع لانهم ان دعوههم  
 لم يجيبوهم وان يكرالم يرحمهم وان  
 استغاثوا بآباء باردم لم يعيتوهم الا بساء  
 كالمهل يشوي الوجوه وكان النبي صلى الله  
 عليه وسلم يقول انه لتاني اهل النار  
 سحابة عظيمة كل يوم قبسط عليهم لها  
 صواعق تخطف ابصارهم و رعد يقصف  
 ظهورهم وظلمة لا يبصرون معها زبانياتهم  
 فتنادي السحابة بصوت له جهر يا اهل النار

عذاب پر بے صبری کا اظہار کریں یا صبر کا دونوں برابر ہیں ہمیں عذاب  
 چھکارا ملنے والا نہیں اور نہ کوئی پکاسچا درست ہے کاش ہم پھر  
 ایک دفعہ دنیا میں لوٹا دئے جاتے اور من بن کر رہتے، فرمایا پھر فرشتے  
 انہیں ان کے گھروں میں واپس لے جائیں گے اس وقت ان کے قدم  
 رط کھڑے لگیں گے اور ان کی جنتیں باطل ہو جائیں گی اور وہ عذاب کچھ  
 یس گے جو حق تعالیٰ شانہ نے ان کے لئے مقرر فرمایا ہے اور اللہ کی رحمت  
 سے ناامید ہو جائیں گے اور انہیں سخت بے چینی لاحق ہو جائے گی  
 اور ان پر طویل ذلت و خواری اثر آئیگی اور دست اندر سے ملنے کے  
 ملتے رہ جائیں گے اور دنیا میں اپنی کوتاہیوں پر ٹھنڈی سانسیں  
 بھریں گے اور شور و فزا د کریں گے اور اپنے اور اپنے مریدوں کے گناہ  
 کر سپلا دے ہوئے ہونگے اور مریدوں کے عذابوں میں بھی کمی نہیں  
 کی جائے گی ان کے گناہ ان کی زمین کے ذرات سے اور سمندر کے قطرات  
 سے بھی زیادہ ہوں گے اور ایسے فرشتے ان پر مسلط ہوں گے جن کا حکم  
 نذر آنا مذہبوتا ہے جو سخت کلام ہیں قوی ہیکل ہیں ان کے چہرے  
 بجلی کی طرح چمکتے ہیں ان کی آنکھیں گویا آگ کے انگارے ہیں ان  
 کے رنگ آگ کے شعلوں کی طرح ہیں ان کے دانت ہونٹوں سے باہر  
 نکلے ہوئے ہیں ان کے ناخن ہیل کے سینگوں کی مانند ہیں اور لمبے لمبے  
 بھاری بھاری اور جلتے ہوئے کوڑے ان کے ہاتھوں میں ہیں اگر انہیں  
 پہاڑوں پر مار دیں تو پہاڑ بھی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں وہ  
 انہیں کوڑوں سے اپنے پروردگار کے باغیوں کو ماریں گے جسکی وجہ  
 سے ان کی آنکھوں سے خون کے آنسوؤں کا بہنا حق بجانب ہے  
 کیونکہ یہ مجرم اگر فرشتوں کو آواز دیتے ہیں تو فرشتے انہیں جواب نہیں  
 دیتے اور اگر یہ دتے ہیں تو فرشتوں کو ان پر رحم نہیں آتا اور  
 اگر ٹھنڈا پانی مانگتے ہیں تو انہیں تلچھٹ جیسا پانی دیا جاتا ہے۔  
 جو چہروں کو بھون دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے

اما تریدون ان امطرکم فیقولون یا جمعہم  
امطربنا الماء البارد فتمطرہم ساعة حجارة تقع  
على رؤسہم فتقطع جاجہم ثم تمطرہم  
ساعة اخرى انہارا من حیمہم وجرہم کثیرا  
وشواظا وخطا طبقت من الحدید ثم تمطرہم  
ساعة اخرى نجات وعقارب ودودا وغسلین  
قال فاذا امطرت فی جہنم سجرہا فاجت  
لججہا وغضبت فلم تترك فی جہنم سهلا  
ولا جبلا الا ارفعت علیہ فتغرق اهل النار  
اجمعین من غیر ان یقولوا قال فتزداد جہنم  
علی من فیہا من العصاة غیظا وحرًا وزفیرا  
وشہیقا ولہبا ودخانا وظلمة وعتا وسہرما  
وحسبنا وجحیمنا وسعیرا وشدۃ علی من فیہا  
لنقمة ربہا فنعوذ باللہ منہا ومن اعمالہا  
ومقارنتہ اهلہا اللهم ربنا ونبہا لا تور دنیا  
حیاضہا ولا تجعل فی اعناقنا اغلا لہا ولا  
تکسنا من ثیابہا ولا تطعننا من زقومہا  
ولا تسقنا من حمیہا ولا تسلط علینا خزنتہا  
ولا تجعلنا ماکلة ل نارہا و لکن جوزنا برحمتک  
مراطہا واصرف عنا شررہا ولہبہا حتی  
تخرجینا برحمتک منہا ومن دخانہا ومن کوبہا  
وعذابہا آمین یا رب العالمین وكان صلی اللہ علیہ وسلم یقول  
ولوان ادنی باب من البواب جہنم فتح بالمغرب لذابت مند جبلا  
المشرق کما ینویب القطر ولوان شرارة من شر جہنم طارت فوقعت  
بالمغرب ورجل بالمشرق لعلی دماغہ حتی یفور علی جسدہ لا

کہ چینیوں پر رونانہ ایک عظیم بادل آکر چھا جھلے گا اور ایسی شدید  
بجلیاں چکیں گی جو نگاہیں اچک لیں گی اور ایسی بلا کی کڑک ہوگی جو آگ  
کمر میں توڑ دیگی اور ایسی تاریکی ہوگی کہ ہاتھ سے ہاتھ سمجھائی نہیں دے گا  
اور محافظ فرشتوں کو بھی نہیں دیکھیں گے اور اس بادل سے کڑک دار  
آواز آئیگی کہ اے آگ والو کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم پر پانی برسائوں؟  
سب بیک زبان ہو کر کہیں گے اے بادل ہم پر ٹھنڈا پانی برسایا پس  
سے ایک ساعت تک پتھر برسیں گے اور ان کے سروں پر پڑیں گے  
جن سے ان کی کھوپڑیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی پھر دوسری ساعت  
میں گرم پانی کی نہریں بے شمار انگارے، کوڑھے اور لوہے کے ٹکڑے  
برسیں گے پھر تیسری ساعت میں سانپ بچھو، کیرے، کوڑھے اور  
ذخموں کا دھوون برسے گا۔ فرمایا: جب جہنم میں بارش ہوتی ہے  
تو اس کا سمندر جوش مارتا ہے اور بھنور والی موجیں اٹھتی ہیں اور  
زور شوز سے جاری ہوتا ہے اور جہنم میں کوئی میدان یا پہاڑ  
ایسا باقی نہیں رہتا جو اس سمندر میں غرق نہ ہو جاتا ہو اس کے نتیجہ  
میں تمام جہنمی ڈوب جاتے ہیں لیکن مرتے نہیں۔

فرمایا: کہ جہنم میں جس قدر نافرمان ہیں ان پر اس کا غیظ و غضب،  
حرارت، چیخ و پکار، شعلے، دھواں، تاریکی، دعت، لوہا، گرم پانی اور  
شدت بڑھ جاتی ہے اور وہ ان پر سخت گرم بن کر بھڑک اٹھتی ہے  
تاکہ ان سے اپنے پروردگار کا انتقام لے اے اللہ ہمیں جہنم سے  
جہنم کے عملوں سے اور جہنم والوں کے پاس بیٹھنے سے اپنی پناہ عطا فرما  
اے اللہ اے ہمارے اور جہنم کے پروردگار ہمیں اس کے حضور  
میں نہانا اور ہماری گردنوں میں اس کے طوق نہانا اور ہمیں  
اس کے کپڑے نہ پہنانا اور اس کی تھوہڑ کے پھل نہ کھانا اور اس کا  
گرم پانی نہ پلانا اور اس کے موکل ہم پر مستط نہ کرنا اور اس کی آگ  
ہماری غذا نہ بنانا اور اپنی عنایت و مہربانی سے اس کے پل کے



وان ادنی اهل النار عذابا رجال تحذى لهم  
 نعال من نار فتخرج من مسامعهم و مناخرهم  
 و تغلی منها ادمعتهم و الذین یلونهن هم  
 یلقون علی صخرۃ من صخرۃ فیتنقضون  
 فیها کما ینتفض الحب من المقلی الحار و کما  
 سقطوا من صخرۃ و قوا علی احرى فاهل النار  
 کلهم یعدون علی قدر اعمالهم فنعزذ باللہ  
 من اعمالهم و مصیرهم قال صلی اللہ علیہ وسلم  
 و اما عذاب الذین لا یحفظون فروجهم  
 فیناطون بفروجهم لقد رما کانت فی الدنیا  
 حتی تذوب اجسادهم و تبقی ارواحهم ثم  
 یترکون فتجد دلتهم اجساد و جلود ثم  
 یعدون فی جلد کل النان منهم سبعون  
 الف ملک قدر ما کانت الدنیا حتی تذوب  
 اجسادهم و تبقی ارواحهم فذلک عذابہم  
 و اما عذاب السارق فیتقطع عضو اعضاؤا ثم  
 یجد فذلک عذابہ غیر انه یتبادر  
 الی کل النان منهم سبعون الف ملک معہم  
 الشفار و اما عذاب الذین یشہدون الزور  
 فیناطون بالستہم ثم یجلد کل النان  
 منهم سبعون الف ملک حتی تذوب  
 اجسادهم و تبقی ارواحهم و اما عذاب المشرکین  
 فیجعلون فی مغار جہنم ثم یخلق علیہم و  
 فیہا حیات و عقارب و جبر کثیر و لہب  
 و دخان شدید یجد لکل النان منهم

کرنا اور ہمیں اس کے انگاروں اور شعلوں سے محفوظ رکھنا اور اپنی رحمت  
 و لڑائش سے سلامتی کے ساتھ پار کر دینا اور اس کے دھوئیں سے پریشان  
 سے اور عذاب سے ہمیں بچانا آمین یا رب العالمین۔  
 رحمت عالم صلعم فرمایا کرتے تھے: اگر جہنم کے دروازوں میں سے ایک  
 معمولی دروازہ مغرب میں کھول دیا جائے تو اس سے مشرق کے بہاڑ  
 تانبہ کی طرح پگھل جائیں اگر دوزخ کی کوئی چنگاری اڑ کر مغرب میں گہ  
 جائے اور کوئی شخص مشرق میں ہو تو اس کا دماغ کھولنے لگے اور بھیجا نکل  
 کہ جسم پر بنے لگے جن پر جہنم کا معمولی عذاب ہوگا انہیں آگ کے جوتے  
 پہنا دئے جائیں گے ان کا اثر یہ ہوگا کہ ان کے کانوں اور نتھنوں سے آگ  
 نکلے گی اور اس کا دماغ باندھی کی طرح کپنے لگے گا پھر عذاب کے اعتبار  
 سے دوسرے درجہ میں وہ ہوں گے جن کو جہنم کی ایک چٹان پر ڈال  
 دیا جائیگا اور وہ اس پر اس طرح کھن کر رہ جائیں گے جیسے گرم کڑا ہی  
 ہیں دانہ بھن جانا ہے اگر اچھل کر اس پتھر سے باہر آئیں تو دوسرے پتھر  
 پر گہریں گے لہذا تمام جہنمی اپنے اپنے عملوں کے مطابق عذابوں میں  
 گرفتار ہوں گے ہمیں ان کے اعمال سے اور لوٹنے کی جگہ سے اللہ کی پناہ  
 رحمت عالم صلعم نے فرمایا جو اپنی عصمتوں کی حفاظت نہیں کرتے ان پر  
 یہ عذاب ہوگا کہ ان کے مخصوص اعضاء میں نہنجیوں باندھ کر انہیں  
 بقدر دنیا کی عمر کے ٹکا دیا جائے گا ختمے کہ ان کا جسم گل کرنا ہو جائے گا اور  
 ان کی روہیں باقی رہ جائیں گی پھر انہیں آنا کر از سر نو جسم اور چمڑے  
 دیدئے جائیں گے پھر ان پر دوسری نوع کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا  
 اور ستر ہزار فرشتے ہر بدکار و ناحشہ کے بقدر دنیا کی عمر کے کڑے مارتے  
 رہیں گے ختمے کہ ان کے جسم گل جائیں گے اور روہیں باقی رہیں گی یہ ہے  
 منہ کالا کہ نیوالوں کا عذاب۔ چور پر یہ عذاب ہوگا کہ اس کا ایک  
 ایک عضو کاٹا جائے گا پھر جسم کی تجدید کر دی جائے گی، یہ اور سن لیں  
 کہ ہر چور کی طرف بڑے بڑے اور تیز چہرے لے کر ستر ہزار فرشتے

كل ساعة سبعون الف جلد فذلك عذابهم  
 واما عذاب الجبارين المتكبرين فيجعلون  
 في ثوابيت من نار ثم ليقل عليهم فتوضع  
 في الدرك الاسفل من النار قال في عذاب كل  
 انسان منهم كل ساعة تسعة وتسعين لونا من  
 العذاب يجرد لهم في كل يوم ألف جلد  
 فذلك عذابهم قال واما الذين يغفلون  
 في اتون يغفلون لهم ثم يلقى بهم في بحر جهنم  
 ثم يقال لهم غوصوا حتى تخرجوا غلوا لكم  
 لينتھروا الى قعره ولا يعلم قعره الا الذي خلقه  
 قال في غوصون ما شاء الله ثم يخرجون رءوسهم  
 يتنفسون فيبتدرون الى كل منهم سبعون  
 الف ملك مع كل ملك متع من الحديد  
 فيھوی بها الى راسه فذلك عذابهم ابدًا  
 قال وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول  
 ان اللہ قضی علی اهل النار انھم لا یثون  
 فیھا احقابا فلا ادری کم من حقب غیر  
 ان الحقب الواحد ثمانون الف سنة والسنة  
 ثلاثمائة وستون يوما واليوم الف سنة  
 ما تعدون فالویل لاهل النار والویل لتلك  
 الوجوه التي كانت لا تصبر علی حر الشمس  
 حين تلفحها النار وویل لتلك الرؤوس  
 التي كانت لا تصبر علی الصداع حين یصب  
 فوقھا الحمیم وویل لتلك الاعین التي  
 كانت لا تصبر علی الرمذ حين تررق و

لیس گے کہ ان کے اعضاء کاٹیں۔۔۔ جھوٹی گواہی دینے والوں کو بائیں  
 ہاندہ کر ٹکا یا جائے گا پھر ہر جھوٹے کے ستر ستر ہزار فرشتے کوڑے  
 مارتے رہیں گے حتیٰ کہ پٹتے پٹتے اس کا جسم گل جائے گا اور روح باقی  
 رہ جائے گی، مشرکوں پر یہ عذاب ہوگا کہ انہیں جہنم کے غاروں میں دھکا  
 دے کر ان پر دروازے بند کر دئے جائیں گے ان غاروں میں کثرت سے  
 سانپ، بچھو، شعلے اور تیز تند دھواں ہوگا اور ہر ساعت ان کی ستر  
 ہزار کھالیں بدل جائیں گی۔ سخت گیر و مغروروں پر یہ عذاب ہوگا کہ  
 انہیں آگ کے صندوقوں میں ڈال کر صندوقوں میں تلے لگا دئے جائیں گے  
 اور انہیں آگ کے سب سے نیچے کے طبقہ میں رکھ دیا جائے گا، فرمایا:  
 ان میں سے ہر شخص ایک ساعت ۹۹ گوناگوں عذاب میں مبتلا کیا جائیگا  
 اور روزانہ ان کی ایک ایک ہزار کھالیں بدل جائیں گی۔ مال غنیمت کے  
 چوروں سے کہا جائے گا کہ اپنی اپنی چرائی ہوئی چیزیں حاضر کر دو آخر کا  
 وہ چرائی ہوئی چیزیں لائیں گے پھر وہ چیزیں درزخ کے سمندر میں ڈال  
 دی جائیں گی پھر ان سے کہا جائے گا کہ غوطہ مار کر قبل اس کے کہ یہ چیزیں  
 دریا کی منہ تک پہنچیں انہیں نکال کر لاؤ اور اس سمندر کی تہ کا علم اس کے  
 پیدا کر بیٹھے ہی کہ ہے۔ فرمایا: پھر وہ جب تک اللہ کو منظور نہ ہوگا  
 غوطہ ماریں گے پھر سانس لینے کے لئے اپنے سر نکالیں گے اور فوراً  
 ستر ہزار فرشتہ ان کی طرف لوہے کے گرز لیکر لپکیں گے اور ان کے سر  
 پر تابلو توڑ ماریں گے یہی ان پر دائمی عذاب مسلط ہے گا۔ فرمایا کہ  
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے جہنم والوں کے لئے فیصلہ فرمایا ہے کہ  
 وہ جہنم میں صدیوں ٹھہریں گے یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کتنے اختاب ٹھہریں  
 گے ہاں ایک حقب ۸۰ ہزار سال کا ہوتا ہے اور ایک سال ۳۶۰ دن کا ہوتا ہے  
 اور ایک دن تمہارے سالوں سے ایک ہزار سالوں کے برابر ہوگا لہذا اہل جہنم  
 کیلئے زبردست ہلاکت ہے ان چہروں کو کتنی سنگین تکالیف کا سامنا ہوگا جو  
 سونج کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے جب جہنم کی آگ کے شعبے انہیں جھلسیں گے



تشخص فی النار وویل لتلك الاذان التي  
 كانت تسمع الاحاديث تتلذذها حين  
 يفور منها الهب وویل لتلك المناخر  
 التي كانت تجزع من ریح الجيف حين  
 تنشقت بالنار وویل لتلك الاعناق التي  
 كانت لا تصبر علی الوجع حين يجعل  
 علیها اثياب من نار خشن مسهامتن  
 ریحها تنظی نار وویل لتلك البطون التي  
 كانت لا تصبر علی الاذی حين یدخلها  
 الزقوم مع ماء حمیم یقطع امعاء هم  
 وویل لتلك الاقدام التي كانت لا تصبر  
 علی الحفاحین تخذی لها الغال من نار  
 فویل لاهل النار من اصناف العذاب  
 اللهم بحق هذا العلم العظیم وفضلک  
 العظیم لا تجعلنا من اهلها۔  
**فصل:** وقال ابو هريرة رضي الله عنه  
 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان  
 یقول ان لجسر جهنم سبع قناطر بین کل  
 قنطرتین سبعون عاما وعرض الجسر کحد  
 السیف فیجوز علیه اول زمرة من الناس  
 سراعا كطرف العين والزمرة الثانية  
 كالبرق الخاطف والزمرة الثالثة  
 كالريح العاصف والزمرة الرابعة  
 كالطير والزمرة الخامسة كالخيل  
 والزمرة السادسة كالرجل المسرع

اور ان سردوں کا کیا حشر ہو گا جو دردِ سبزی برداشت کرنے کے عادی نہیں جب ان پر  
 سخت کھوتا ہوا پانی ڈالا جائیگا اور ان آنکھوں پر کیا بنے گی جن پر آشوب چشم کی  
 تکلیف بھی گراں گزرتی تھی جب وہ آگ میں کئی ہوگی اور چڑھ جائیگی اور ہائے ان  
 کانوں پر جو فضول و لغو باتیں سن کر لذت اندوز ہو کر تھے جب ان سے آگ کے  
 شعلے نکلیں گے اور آہ ان آنکھوں پر جو سڑی ہوئی لاش کی بدلبوسے بیزار و متنفر ہوتے  
 تھے جب ان سے آگ پھوٹے گی اور انیسویں ان گردلوں پر جو زرا سے درد کو بھی  
 برداشت کر نیکی قابل نہ تھیں جب ان میں بھاری بھاری طوق ڈالے جائیگی اور  
 کیا درگت بنے گی ان کھالوں کی جن کے لئے کھردرا لباس بھی ازیت وہ تھا جب  
 آگ کے کپڑے پہنائے جائیگی جن کے چھوتے ہی جسم چھل جائیگی اور جن سے انتہائی  
 بدبو آتی ہوگی اور شعلوں سے بھڑک رہے ہوں گے اور ان پیٹوں کا کیسا برا حال  
 ہو گا جن کو ذرا سادہ دیکھی گوارا نہ ہوتا تھا جب ان میں کھولے ہوئے پانی  
 ساتھ زقوم جائے گا اور آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا اور ان پیروں پر کیا کیا گزرتے  
 گی جن کو ننگے پیر چلنے کی بھی برداشت نہ تھی جب انہیں آگ کے جوتے پہنائے  
 جائیگی اسلئے جسم والوں کے لئے بڑی زبردست خرابی ہے کہ وہ ناقابل تصور  
 گوناگوں عذابوں کا شکار ہوں گے ایسے اللہ اس عظیم علم کی برکت سے اور اپنے ہم  
 فضل و کرم سے ہمیں جنم والوں کی فہرست میں شامل کرنا اور اس بچانا آمین تم آمین  
**پہل صراط** حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم فرمایا کرتے  
 تھے کہ جہنم کے پہل کے لئے سات پہل ہیں اور ہر دو پہلوں کے درمیان ستر سال  
 کی مسافت ہے پہل صراط کا عرض تنوار کی دھار کے برابر ہے لوگوں کی پہلی  
 جماعت پلک جھپکنے کی طرح اس سے بہت تیز گزر جائیگی دوسری جماعت  
 کو دنے والی بجلی کی طرح گزرے گی تیسری جماعت تیز آندھی کی طرح اچھوٹی  
 جماعت پہندوں کی طرح پانچویں جماعت گھوڑوں کی طرح چھٹی جماعت  
 تیز دھوڑنے والے آدمی کی طرح اور ساتویں جماعت چلنے والوں  
 کی طرح پھر ایک شخص رہ جائے گا جو سب سے پیچھے عبور کرے گا اس سے  
 کہا جائیگا کہ اس سے گزر جا چنانچہ وہ پہل پر اپنے دونوں پیر رکھے گا

والزمرۃ السابعة بیرون علیہ مشاہ ثم یبقی  
رجل واحد فهو آخر من یمر علی ذلک الجسر  
فیقال له مرفیض علیہ قدمیہ فتزل احداهما  
ثم یرکبہ فیحبو علی رکبتہ فتصیب النار  
من شعرة و جلد لا قال فلا یزال یتخرج علی  
بطنه فتزل قدمہ الاخری وثبت یدہ و  
تعلق الاخری وهو علی ذلک تمصیبه النار  
فہو یظن انه لا ینجو منها فلا یزال یتخرج علی  
بطنه حتی ینجو منها فاذا خرج منها  
نظر الیہا فقال تبارک الذی انجانی منک ما  
اظن ان ربی اعطی احدًا من الاولین والآخرین  
مثل ما اعطانی انه نجانی منک بعد اذ رأیت  
ولقیت قال فیا تیبہ ملک من الملائکة  
فیاخذ یدہ فینطلق بہ الی غدیر بین یدی  
باب الجنة فیقول له الملك اغتسل فی هذا  
الغدیر و اشرب منه قال فیغتسل ویشرب  
منہ فیعود له ریح اهل الجنة والوا انهم  
ثم ینطلق بہ فیوقفہ علی باب جہنم و  
لیقول له قف ہا هنا حتی یاتیک اذ تک  
من ربک عزوجل قال فینظر الی اهل النار  
ویسمع عواء ہم کعواء الکلاب قال  
فیبکی فیقول یارب اصرف وجہی عن اهل  
النار لا اسالک یارب غیرہ قال فیا تیبہ  
ذلک الملك من عند رب العالمین عزوجل  
فیحول وجہہ من النار الی الجنة قال

مگر اس کا ایک پیر کاپنے لگے گا پھر وہ اس پر چڑھ کر گھٹنوں کے بل کھکے  
گا لیکن اس کے بال اور اس کی کھال کو آگ کی لپٹیں لگیں گی لیکن وہ برابر  
پیٹ پر ریگتا رہے گا اب اس کا دوسرا قدم بھی لڑکھڑانے لگتا ہے لیکن  
وہ فوراً ہی اپنے دونوں لاکھڑوں سے پل کپڑ لیتا ہے اور آگ کی لپٹیں برابر  
اسے پہنچتی رہتی ہیں اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں بچنے والا نہیں  
لیکن لگاتار پیٹ پر ریگتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے عبور کر لینے سے عبور کر کے  
کے بعد اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے وہ بڑا برکت  
والا ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی میرے خیال میں حق تعالیٰ نے  
کسی کو انگوں اور پھلوں میں سے اتنی زبردست نعمت نہیں دی جتنی  
مجھے عطا فرمائی ہے کہ مجھے تجھ پر چڑھنے کے بعد تجھ سے نجات بخشی  
فرمایا پھر ایک فرشتہ آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے کے  
سامنے والی ایک حوضی کے پاس لے جاتا ہے اور فرشتہ اس سے کہتا  
ہے کہ اس حوض میں غسل فرما لیجئے اور اس کا پانی بھی نوش جان فرما لیجئے  
فرمایا پھر وہ اس میں نہاتا ہے اور اس کا پانی بھی پیتا ہے پھر اس  
کے پاس جنت والوں کی ہوا آتی ہے اور اسے ان کے رنگ دکھائی دیتے  
ہیں پھر فرشتہ اسے لیجا کر جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے  
اور اس سے کہتا ہے یہاں کھڑے رہیے جب تک آپکے پر درد گار  
کی اجازت نہ آجائے، فرمایا پھر وہ جہنم والوں کو دیکھتا ہے اور  
ان کی اور کتوں کے بھونکنے کی طرح ان کی آوازیں سنتا ہے فرمایا پھر  
وہ درود کر عرض کہے گا کہ اے رب میرا منہ جہنم والوں سے  
پھیر دے میں تجھ سے اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگوں گا، فرمایا  
پھر وہی فرشتہ اپنے رب کے پاس سے اس کے پاس آئیگا اور  
اس کا منہ جہنم سے جنت کی طرف پھیر دیگا، فرمایا اور اس کی  
جائے قیام سے جنت کے دروازے تک ایک قدم کا فاصلہ ہو گا یہ  
جنت کے دروازے کو اور جنت کی چوڑائی کو دیکھے گا اور یہ بھی کہیں



وبین مقامہ الی باب الجنة خطوة فینظر الی باب  
الجنة وعرضه وان مابین عضادتی باب  
الجنة مسیرة اربعین عاما للطیر المسرع  
قال فیسال ذلك الرجل ربه عزوجل  
فیقول یارب انک قد احسنت الی الاحسان  
كله انجبتنی من النار و صرفت وجهی  
عن اهل النار الی الجنة انما بیئنی و  
بین باب الجنة خطوة فأسألك یارب  
بعزتک ان تتدخلنی الباب ولا أسألك  
غیره و لکن اجعل بیئنی و بین اهل النار  
حجابا فلا اسمع حسیسها ولا اری اهلها  
قال فیایته ذلك الملك من عند رب العالمین  
فیقول یا ابن آدم ما اکتبک الست زعمت  
انک لا تسأل غیره قال علیه السلام  
فیقول و یحلف لا وعزته الرب لا أسأل  
غیره فیاخذ به بیده فیدخله الباب ثم  
یتطلق الملك عند رب العالمین عزوجل  
قال فینظر ذلك الرجل فی الجنة عن یمنه  
و شماله و بین یدیه مسیرة سنة فلا یری  
احدا غیر الشجر و الثمر و بین مقامه الی  
ادنی شجرة خطوة قال فینظر الیها فاذا  
اصلها ذهب و غصنها فضة بیضاء و  
ورقها کاحسن حلل رآها آدمی و ثمارها  
الین من الزبد و احلی من العسل و اطیب  
دریجاً من المسک قال فتحیر ذلك الرجل

جنت کے دروازے کے درنوں چوکھٹوں کے درمیان تیز رفتار پرندے  
کے اعتبار سے چالیس سال کی مسافت ہے اب یہ شخص پھر اپنے  
رب سے سوال کریگا اور کہے گا کہ اے پروردگار عالم آپ نے مجھ پر  
بست بڑا اور مکمل احسان فرمایا ہے کہ مجھے آپ نے جہنم سے نجات دیا  
ہے اور میرا چہرہ جہنم سے جنت کی طرف پھیر دیا اب میرے اور جنت کے  
درمیان صرف ایک تدم کا فاصلہ رہ گیا ہے اے اللہ آپ کو آپ کی عزت  
کی قسم میرا یہ سوال بھی پورا فرمادیجئے کہ مجھے جنت کے دروازے میں داخل  
فرمادیجئے میں آپ سے کچھ اور نہیں مانگوں گا بس جنت کا دروازہ میرے  
اور اہل جہنم کے درمیان حائل فرمادیجئے تاکہ میں جہنم والوں کو نہ دیکھوں  
اور ان کی آہٹ نہ سنوں، فرمایا: پھر وہی فرشتہ رب العالمین کے  
پاس سے آئیگا اور کہے گا اے فرزند آدم! تو کتنا جھوٹا ہے کیا تو نے مجھ  
نہیں کہا تھا کہ میں اور سوال نہیں کروں گا؟ رحمت عالم صلعم نے فرمایا  
کہ اس بار وہ قسم کھا کر کہے گا کہ مجھے رب کی عزت کی قسم میں اس کے علاوہ  
کوئی اور سوال نہیں کروں گا آخر کار فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت  
کے دروازے میں پہنچا دیگا پھر فرشتہ اپنے رب کے پاس چلا جائے گا  
اب یہ شخص جنت کی طرف اپنے دائیں بائیں دیکھے گا اور اپنے سامنے  
جنت تک ایک سال کی مسافت پائے گا لیکن سوائے پھل دار درختوں  
کے کسی شخص کو نہیں دیکھے گا اور اپنے پاس سے پاس والے درخت  
تک ایک قدم کا فاصلہ پائیگا، فرمایا، اس درخت کو وہ غور سے  
دیکھے گا تو اس کی جڑ سونے کی اور شاخیں سفید جاندی کی نظر آئیں  
گی اور اس کے پتے انتہائی خوبصورت کانوں کے سونے کے پتوں کی  
طرح دکھائی دیں گے اور اس کے پھل کھن سے زیادہ نرم شہد سے  
زیادہ میٹھے اور مشک سے زیادہ پیاری خوشبودار پائے گا اس  
خوبصورت درخت کو دیکھ کر وہ شخص دنگ رہ جائیگا اور عرض  
کریگا کہ اے رب آپ نے مجھے جہنم سے نجات بخشی اور جنت کے

مہارای قال فیقول یا رب نجی من جہنم  
 وادخلنی باب الجنة فأحسنت الی الاحسان  
 کله وانما بینی و بین هذه الشجرة خطرة لا  
 اسألك غیرها قال فیا تبه ذلك الملك فیقول  
 ما اکتبک یا ابن آدم الست زعمت انک  
 لاتسال زیادة فمالک تسال واین ما اقسمت  
 الاستحی قال فیاخذ بیده فینطلق به الی  
 منازلہ فاذا هو بقصر من لؤلؤین بیدیه  
 علی مسیرة سنة قال فاذا اتاه نظر الی  
 ما بین یدیه فرأی منزلا کما کان ذلك  
 القصر وما وراءه معه حلما فلا یملک  
 نفسه حین ینظر الیه فیقول یا رب اسألك  
 هذا المنزل ولا اسألك غیره قال فیا تبه  
 ملک من الملائكة فیقول یا ابن آدم اما  
 اقسمت بربک علیک ما اکتبک یا ابن  
 آدم هولک فاذا اتاه نظر الی منزل آخر  
 بین یدیه کما کان منزلہ معه حلما  
 قال فیقول یا رب اسألك هذا المنزل قال  
 فیا تبه ذلك الملك فیقول له یا ابن آدم  
 مالک لاتوفی بالعهد الست زعمت  
 انک لاتسال غیره ولا یلومه لانه یری  
 ما تکراد نفسه تخرج منه من العجائب  
 قال فیقول هولک قال فاذا بین یدیه منزل  
 آخر کما کان معہ تلك المنازل  
 حلما فیبقى مبهورا لا یتطیع ان یتکلم

دروازے میں داخل فرمادیا یہ آپ کا مجھ پر بڑا زبردست احسان ہے مجھ  
 میں اور اس درخت میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے اے اللہ مجھ اس درخت  
 تک پہنچادے اس کے علاوہ میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا فرمایا: پھر وہی  
 فرشتہ آکر کہے گا کہ اے ابن آدم تو کس قدر جھوٹا ہے کیا تو نے یہ نہیں کہا  
 کہ میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا لہذا اب کیوں سوال کرتا ہے تیری  
 قسم کہاں گئی کیا جھوٹ سے تجھے شرم نہیں آتی، فرمایا: پھر فرشتہ اس کا  
 ہاتھ پکڑ کر جنت کی قریبی منزل تک لے جائیگا وہ اپنے سامنے ایک تہ  
 محل دیکھے گا جس کا فاصلہ اس سے ایک سال کی مسافت کا ہوگا جب  
 اس قصر کو دیکھے گا تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ یہ عالیشان قصر اس منزل کے  
 پاس ہی ہے جس میں میں ٹھہرا ہوا ہوں اور میں نے اب تک جو کچھ دیکھا  
 وہ محض ایک خواب تھا اب تو وہ اس قصر کے شوق میں اس قدر متوجہ  
 ہوگا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے گا اور عرض کرے یا رب مجھے یہ  
 منزل عطا فرما میں آپ سے کچھ اور نہیں مانگوں گا فرمایا: پھر وہی فرشتہ  
 رب کے پاس آکر کہے گا اے ابن آدم تو کس قدر جھوٹا ہے تو نے قسم کھا  
 بھی اپنا عہد توڑ ڈالا جاوہ تیرے لئے ہے پھر جب وہ اس منزل میں  
 آجاتا ہے تو اسے پھلی منزل خواب سی معلوم ہوتی ہے فرمایا: وہ عرض  
 کرتا ہے اے رب مجھے یہ منزل عطا فرما پھر وہی فرشتہ آکر اس سے کہتا  
 ہے اے ابن آدم تجھے کیا ہو گیا تو اپنا عہد پورا کیوں نہیں کرتا کیا تو  
 نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ میں اور سوال نہیں کروں گا، اور اس دفعہ فرشتہ  
 اس پر پلامت نہیں کرتا کیونکہ وہ ایسے ایسے عجائب دیکھتا ہے کہ ان کی  
 موجودگی میں صبر باقی نہیں رہتا معلوم ہوتا ہے کہ مارے مسرت کے جان  
 ہی نکل جائیگی فرمایا: فرشتہ کہتا جاوہ تیرے لئے ہے فرمایا پھر وہ اس  
 منزل کے آگے دوسری منزل دیکھتا ہے جس کے مقابلہ پھلے مناظر خواب  
 سے معلوم ہوتے ہیں اب تو یہ دنگ ہو کر رہ جاتا ہے اور خاموش و  
 دم بخود ہو جاتا ہے، فرمایا: فرشتہ اس سے پوچھتا ہے اب تجھے کیا ہو گیا



قال عليه الصلاة والسلام فيقول له رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم مالك لا تسأل ربك فيقول  
 يا سيدي صلى الله عليك والله لقد حلفت  
 لرب العزّة حتى خشيت منه وسألته حتى  
 استجبت قال فيقول له رب العزّة جل جلاله  
 ابرضيك ان اجمع لك الدنيا منذ يوم خلقتها  
 الى يوم افنيته اثم اصعفها لك عشرة  
 اصعاف قال فيقول ذلك الرجل يا رب  
 اتمهزأ بي وانت رب العالمين قال فيقول  
 له رب العزّة جل وعلا اني لقادر ان  
 افعله فاسألني ما شئت قال فيقول الرجل  
 يا رب الحقني بالناس قال فيأتيه ملك فيأخذ  
 بيده فينطلق به يبشي في الجنة حتى يبدوله  
 شيئا وكانه لم يكن رأى معه شيئا فيخر  
 ساجدا ويقول في سجده ان ربي عز وجل  
 تجلي لي فيقول له الملك ارفع رأسك هذا  
 منزلك وهو ادنى منازلك قال فيقول  
 لولا ان الله عز وجل حبس بصري لحار  
 من نور هذا القصر قال فينزل في ذلك  
 القصر فيلقاه رجل اذا رأى وجهه و  
 ثيابه يبقي مبهورا يظن انه ملك فيأتيه  
 ذلك الرجل فيقول السلام عليك و  
 رحمة الله وبركاته لقد ان لك ان تجيء  
 فير عليه السلام ثم ليقول له من انت يا  
 عبد الله فيقول انا قهرمان لك وانا

اپنے رب سے مانگتا کیوں نہیں؟ عرض کرتا ہے کہ جناب من حق تعالیٰ  
 آپ پر رحم فرمائے میں نے اپنے رب سے وعدے کر کے عہد توڑے  
 اب مجھے وعدہ بخلائی کرتے ہوئے اس سے ڈر محسوس ہوتا ہے اور زبرد  
 سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے فرمایا: پھر اس سے رب العزّت فرما  
 گا اگر میں ابتداء سے لیکر قیامت تک تیرے لئے ساری  
 دنیا جمع کر دوں پھر اسے دس گنا بڑھا کر تجھے دی دوں تو کیا تو راضی  
 ہو جائیگا؟ فرمایا: وہ شخص کہے گا اے پروردگار! کیا آپ مجھ  
 سے دل لگی فرما رہے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں اور دل لگی  
 آپ کی شان عظمت کے شایان نہیں رب العزّت فرمائے گا کہ  
 میں ایسا کرنے پر قادر ہوں لہذا مجھ سے جو تیری مرضی ہو مانگ  
 فرمایا پھر وہ شخص کہے گا کہ اے رب مجھے میرے (جان پہچان کے)  
 لوگوں میں پہنچا دے فرمایا پھر وہی فرشتہ آئیگا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر  
 اسے جنت میں لے جائیگا حتیٰ کہ اس کے بگے ایسے ایسے مناظر آتے  
 ہیں جن کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس سے پہلے جو کچھ دیکھا  
 تھا سب خواب و خیال تھا پھر یہ شخص سجدے میں گر جائے گا اور  
 سجدے میں عرض کریگا بلاشبہ عزت و جلال والے رب نے میرے  
 سامنے تجلی فرمائی فرشتہ اس سے کہے گا اپنا سراٹھا یہ تیری منزل ہے  
 اور تیری تمام منزلوں سے نیچے کی منزل ہے فرمایا کہ یہ شخص کہے گا اگر  
 اللہ میری نگاہ کی حفاظت نہ فرماتا تو اس قدر کے لذت سے وہ جاتی رہتی  
 فرمایا: پھر وہ اس قصر میں ٹھہرائے گا پھر اس سے ایک شخص آکر  
 ملاقات کریگا جب یہ اس کا چہرہ اور کپڑے دیکھے گا تو ہکا بکا رہ  
 جائے گا دل ہی دل میں سوچے گا کہ یہ فرشتہ ہے وہ شخص اس کے  
 پاس آکر اسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا یعنی تم پر اللہ کی  
 سلامتیاں اور باریاں اور برکتیں ہوں اس قصر میں آپ کے آنے کا وقت  
 آگیا یہ اسے سلام کا جواب دیکھا اور کہے گا کہ اے اللہ کے بندے تو

کون ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ میں آپ کے اس قصر کا پاسبان ہوں اور مجھے جسے آپ کے ایک ہزار پاسبان ہیں آپ کے ایک ہزار قصر ہیں اور ہر قصر پر ایک پاسبان ہے اور ہر قصر میں ایک ایک ہزار خادم ہیں اور ایک ایک حور ہے فرمایا پھر یہ اپنے اس قصر میں داخل ہو گا کہ اچانک اس میں اسے ایک سفید موتی کا گنبد دکھائی دے گا اس گنبد میں ستر گھر ہونگے ہر گھر کے ستر سردار ہونگے اور ہر سردار کے آگے ایک ایک موتی کا گنبد ہو گا یہ ان گنبد کے سردار سے کھول کر ان میں داخل ہو گا اور انہیں اس سے پہلے کسی نے نہ کھولا ہو گا ان گنبدوں کے اندر سرخ مردارید کا ایک ایک گنبد ہو گا اس کے بھی ستر سردار ہونگے اور ہر سردار کا مردارید کے ایک گنبد تک پہنچنے کا جس کا طول ستر ہند کا ہو گا اس کے بھی ستر سردار ہونگے اور ہر مردارید کا رنگ نرالا ہو گا ہر مردارید کے کمرے میں اس کی بیویاں، چیرکھٹ اور تخت ہونگے فرمایا: پھر جب اس میں داخل ہو گا تو اس میں اپنی ایک حور دیکھے گا وہ مہ جبین اسے سلام کرے گی یہ اس کے سلام کا جواب دے گا اور ہٹا بٹا کھڑا اکھڑا رہ جائیگا حور عرض کرے گی آپ کے لئے ہم سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا ہے اور میں آپ کی رفیقہ حیات ہوں یہ اس کے چہرے پر نگاہ ڈالے گا تو حسن و جمال اور آب و تاب کی دگر سے اپنا چہرہ اس کے چہرے میں دیکھ لے گا جیسے آئینہ میں چہرہ دیکھ لیا جاتا ہے اس پر ستر حور ہونگے ہر حور سے میں ستر رنگ ہونگے اور ہر حور اور ہر سے حور سے علیحدہ ہو گا اور اس کی پنڈلیاں کا گودا ان ستر حوروں میں سے بھی صاف نظر آئے گا جب بھی اس پر نگاہ ڈالے گا پہلے کی بہ نسبت ستر گنا اس کے حسن و جمال میں اضافہ پائے گا لہذا وہ مہ جبین اس کے لئے آئینہ اور یہ اس کے لئے فرمایا: جنت کے ہر قصر میں ۳۶۰ سردار ہونگے اور ہر سردار کے آگے موتی، یا قوت اور مردارید کے ۳۶۰ گنبد ہیں اور ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہے پھر جب اس محل کی چھت پر چڑھ کر

على هذا المنزل ولك مثل ألف قهرمان كل واحد منهم على قصر من قصورك ذلك ألف خادم وزوجة من الحور العين قال فيدخل في قصر ذلك فاذا هو بقبة من لؤلؤة بيضاء وفي جوفها سبعون بيتا في كل بيت سبعون غرفة لكل غرفة سبعون بابا لكل باب منها قبة من لؤلؤة فيدخل تلك القباب فيفتحها ولم يفتحها احد من خلق الله قبله فاذا هوى في جوف تلك القبة بقبة من جوهرة حمراء طولها سبعون ذراعا لها سبعون بابا كل باب منها ليفضي الى جوهرة حمراء على مثل طولها لها سبعون بابا ليس منها جوهرة على لون صاحبتهما في كل جوهرة ازواج ومناص واسرة قال فاذا دخل فيها وجد فيها زوجة من الحور العين فتسلم عليه فيرد عليها السلام ثم ليقوم مبهورا فتقول له قد ان لك ان تزورنا وانا زوجتك قال فينظر في وجهها فيرى وجهه في وجهها كما يرى احدكم وجهه في المراة من الحسن والجمال والصفوة فاذا عليها سبعون حلة في كل حلة سبعون لونا ليس فيها لون على لون صاحبتهما يرى مخ ساقهما من وراءها لا يعرض عنها اعراضة الا ازواج حسنا في عينه سبعين ضعفا فهي له مرآة وهو لها مرآة قال وان لكل قصر منها



ثلثمائة وستين با على كل باب ثلثمائة وستين  
قبة من لؤلؤة وياقوتة وجوهرة ليس منها قبة  
على لون صاحبها فاذا اشرف على ظهر القصر  
اشرف على ملكه مسيرة من الارض ينفذ  
بصرة فيها اذا سار فيه سار في ملكه  
مائة سنة لا ينتهي الى شيء فيه الا نظر  
فيه اجمع وان الملائكة تدخل عليه  
في قصوره من كل باب بالسلام والهدايا  
من عند رب العالمين ليس منهم ملك  
الا ومعه من الهدايا ما ليس مع الآخر  
كل يوم في النهار تسلم عليه الملائكة  
معها الهدايا وتصديق ذلك في كتاب  
الله عز وجل يقول والملائكة يدخلون  
عليهم من كل باب سلام عليكم  
بما صبرتم فنعم عقبى الدار وقال تعالى  
ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا وكان  
صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الرجل  
يسميه اهل الجنة المسكين لفضل منازلهم  
على منزله وان لهذا المسكين ثمانين  
الف خادم في طعامه اذا اشتهى الطعام  
نصبوا له مائدة من مواكدها من ياقوتة  
حمراء ومنطقة من ياقوتة صفراء مخفوفة  
بالدر والياقوت والزبرجد وقوائمه من  
لؤلؤ حافتها عشرون ميلا قال في وضع  
له عليها من الطعام سبعون لونا وبقوم

دیکھے گا تو اسے جہان تک اس کی نظر کام کرے گی در تک اپنا ہی  
ملک نظر آئے گا جیسے زمین پر چل کر سیر کی جاتی ہے اور اگر اپنا سارا  
ملک دیکھنا چاہے گا تو سال بھر تک اپنے ہی ملک میں چلتا رہے گا  
اور جہاں بھی جائے گا وہیں اسے اپنا ملک نظر آئے گا۔ اس کے ہر قصر  
میں فرشتے ہر روز اسے آکر سلام کریں گے اور رب العالمین کے  
پاس سے تحائف لائیں گے اور ہر فرشتہ نیا نیا تحفہ لائے گا روزانہ  
دن میں فرشتے تحائف لیکر آئیں گے اور انہیں سلام عرض کریں گے  
اس کی تصدیق قرآن عزیز میں موجود ہے فرمایا اور ان پر فرشتے ہر  
در روز سے داخل ہونگے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر  
سلامتی ہو پھر آخرت والا گھر کس قدر عمدہ ہے، فرمایا: اور جنت  
میں ان کے لئے صبح و شام ان کا رزق ہے۔

رسول اللہ مسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کو جنت والے مسکین کے  
نام سے پکاریں گے کیونکہ ان کے منازل اس کی منزل سے بہت بڑھے  
ہوئے ہونگے جب اس مسکین کو کھانے کی خواہش ہوگی تو فوراً اس کے  
۸۰ ہزار خادم اس کے سامنے دسترخوان بچھادیں گے جو سرخ یا قوت  
کا ہوگا اور بیچ میں زرد یا قوت ہوگا اور حاشیہ مونیوں، یا قوت  
اور زبرجد کا ہوگا اور اس کے پائے مروارید کے ہوں گے اور جو بیچ  
کو سن تک بچھ سکتا ہے، فرمایا: اس پر ستر قسم کے گوناگون کھانے  
چن دئے جائیں گے اور اسی خادم سامنے کھڑے ہو جائیں گے ہر  
خادم کے پاس کھانے کی قاب ہوگی اور مشروب کا گلاس ہوگا  
اور ہر قاب میں الگ الگ کھانا ہوگا اور ہر گلاس میں الگ الگ  
مشروب ہوگا اول قاب کے کھانے کا ذائقہ پھلی قاب کے  
کھانے کے ذائقہ کی طرح پائے کا ذائقہ میں بعض کھانے بعض سے  
 ملتے جلتے ہونگے یہ مسکین ہر کھانے میں سے کچھ نہ کچھ تناول فرمایا  
اور ہر خادم کو بھی اس کے مقدر کا حصہ اس کھانے میں سے ملے گا

بین یدیدہ ثمانون خادمہ کل خادم منهم  
 محفة فیہا طعام وکاس فیہ شراب  
 فی کل محفة من الطعام مالیس فی الاخری  
 و فی کل کاس شربة مالیس فی الاخری  
 یجد طعام اولہا کطعم آخرہا و یجد لذۃ آخرہا  
 کلذۃ اولہا یشبہ بعضہ لبعضا و لیس منہا  
 لون الا و هو یصیب منہ و لیس لہ خادم  
 الا و یعطی حظہ من ذلک الطعام و الشراب  
 اذا رفع من بین یدیدہ و کان النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم ليقول وان اهل الدرجة  
 العلیا یزورونہ و لا یزورہم وان اهل  
 الدرجة العلیا لیسعی علی کل رجل ثمانائة  
 الف خادم و ید کل خادم منهم محفة  
 فیہا طعام لیس فی الاخری و لیس منہا  
 لون الا و هو یصیب منہ و لیس منهم  
 خادم الا و یعطی حظہ من ذلک الطعام و  
 الشراب اذا رفع من بین یدیدہ و ما منهم  
 من احد الا وله اثنان و سبعون زوجة  
 من المحور العین و آدمیتان لکل زوجة  
 منهن قصر من یاقوتہ خضراء منمنطقة  
 بجمراء فیہا سبعون الف مصراع لکل  
 مصراع قبة من لؤلؤة و لیس منہا زوجة  
 الا و علیہا سبعون الف حلة فی کل حلة  
 سبعون الف لون لیس منہا حلة تشبہ  
 الاخری و لیس منهن زوجة الا بین یدیدہا

اور مشروب سے بھی جب دسترخوان اس کے سامنے سے اٹھایا جائیگا  
 ہر جنتی کی ۴۲ بیویاں ہونگی ستر حیدیں اور دو دنیوی عورتیں۔  
 اور ہر بیوی کے لئے سبز یا قوت کا قصر ہوگا جس میں سرخ یا قوت جڑے  
 ہوئے ہونگے اس میں ستر ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے  
 کے آگے ایک ایک موتی کا گنبد ہوگا اور ہر بیوی کے ستر ہزار  
 جوڑے ہوں گے اور ہر جوڑے کے ستر ستر رنگ ہونگے اور کوئی جوڑا  
 دوسرے جوڑے کے مشابہ نہ ہوگا سب الگ الگ ہوں گے اور  
 اپنی مثال آپ ہوں گے ہر بیوی کی خدمت کے لئے ایک ایک  
 لونڈیاں ہمہ وقت تیار کھڑی رہیں گی اور ستر ہزار ہم مجلس خواتین  
 ہوں گی اور کوئی کنیز ایسی نہ ہوگی جو اپنے نرائض سے غافل اور  
 سست رہے اور جب اس کے سامنے کھانا چنا جاتا ہے تو  
 اس کے آگے ستر ہزار کنیزیں کھڑی رہتی ہیں اور ہر ایک کنیز کے  
 ہاتھ میں کھانے کی قاب ہوتی ہے اور جام مشروب ہوتا ہے  
 اور ہر قاب میں اور ہر جام میں علیحدہ نوع کا طعام و مشروب  
 ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک  
 جنتی اپنے بھائی کو دیکھنے کا مشتاق ہوگا جس سے وہ دنیا میں صرف  
 اللہ کی رضا کے لئے محبت کیا کرتا تھا وہ اس پر رحم کھا کر کہ  
 مبادا وہ ہلاک نہ ہو گیا ہو کہے گا کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میرے  
 فلاں بھائی کا انجام کیا ہوا۔ حق تعالیٰ کو اس کے دل کی بات کی خبر  
 ہو جائیگی اور وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے فلاں بندے کو  
 اس کے بھائی کے پاس لے جاؤ بالآخر فرشتے اس کے پاس ایک  
 اصیل ارنٹ لائیں گے جس پر نورانی ریشمی گدیوں کا پالان ہوگا  
 فرشتے اسے سلام کریں گے یہ سلام کا جواب دیگا فرشتے عرض  
 کریں گے کھڑے ہو جائیے اور اس ارنٹ پر سوار ہو جائیے اور  
 اپنے بھائی سے ملاقات کے لئے چلے چنانچہ وہ اس پر سوار ہو



الف جارية قيام لحوالها وسبعون ألف  
 جارية لمجلسها وما منهن جارية الا  
 قد اشغلتها في حاجتها اذا قرب اليها  
 الطعام قام بين يديها سبعون ألف  
 جارية كل جارية منهن بيدها محفة  
 فيها من الطعام وكأس فيها من الشراب  
 ما ليس في الاخرى وكان صلى الله عليه  
 وسلم يقول يشتاقي الرجل الى اخ له كان  
 محببه في الله عز وجل في الدنيا فيقول يا ليت  
 شعري ما فعل اخي فلان شفقة عليه  
 ان يكون قد هلك فيطلع الله عز وجل  
 على ما في قلبه فيوحى الى الملائكة ان سيروا  
 بعبدى هذا الى اخيه فياتي به الملك  
 بنجيبه عليها رحلها من مياثر النور  
 قال فيسلم عليه فيرد عليه السلام و  
 يقول له قم فاركب وانطلق الى اخيك  
 قال فيركب عليها فيسير في الجنة  
 مسير الف عام اسرع من احدكم  
 اذا ركب بنجيبه فسا ر عليها فرسها  
 قال فلا يكون شيء حتى يبلغ منزل اخيه  
 قال فيسلم عليه فيرد عليه السلام و  
 يرحب به قال فيقول اين كنت يا اخي لقد  
 كنت اشفت عليك قال فيعنى كل واحد  
 منهما صاحبه ثم يقولان الحمد لله الذي  
 جمع بيننا فيحمد ان الله عز وجل بأحسن

جائے گا اور جنت میں بقدر ایک ہزار سال کی مسافت کے چلے گا یہ ایک  
 ہزار سال کی مسافت بقدر تین چار میل کی مسافت کی مدت میں بلکہ اس  
 سے بھی کم میں طے ہو جائیگی راہ میں کچھ دشواری یا رکاوٹ پیش نہیں  
 آئے گی جتنے کہ یہ اپنے بھائی کے پاس جا کر اسے سلام کرے گا وہ اس کے  
 سلام کا جواب دے گا اور اسے خوش آمدید کہہ کر اس کا خیر مقدم  
 کرے گا۔ فرمایا: وہ کہے گا بھائی جان آپ کہاں تھے مجھے تو آپ کی  
 طرف سے ڈر لگا ہوا تھا۔ فرمایا پھر دونوں گئے بلین گئے پھر اللہ کا  
 شکر ادا کریں گے اور کہیں گے ہمارے سچے معبود کا لاکھ شکر ہے کہ اس  
 نے ہم دونوں میں ملاقات کرا دی اور ہم دونوں کو اکٹھا فرما دیا اور  
 دونوں انتہائی پیاری آواز میں حق تعالیٰ جل مجدہ کی حمد بیان کریں  
 گے اور ایسی دل بھانے والی آواز ہوگی کہ آج تک نہ گئی ہوگی فرمایا:  
 پھر اس وقت ان دونوں سے حق تعالیٰ فرمائے گا اے میرے دونوں  
 بندو! یہ عمل کا وقت نہیں بلکہ یہ وقت دعائوں کا اور سوال کا ہے  
 تمہاری جو مرضی ہو وہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مرادیں بر لاؤں گا دونوں  
 کہیں گے کہ اے پروردگار ہم دونوں کو اسی درجہ میں اکٹھا فرما دے  
 پھر حق تعالیٰ ان دونوں کو اسی درجہ میں بیٹھک مقرر فرما دے گا یہ  
 بیٹھک ایک ایسے خیمہ میں ہوگی جو موتیوں اور پاتلوں سے گھرا ہوا  
 ہوگا اور ان دونوں کی بیویوں کے لئے اس کے علاوہ منزل ہوگی  
 فرمایا پھر وہ کھائیں پیئیں گے اور ہر طرح کا فائدہ اٹھائیں گے۔  
 سرور عالم صلعم نے فرمایا ایک جنتی ایک نوالہ لیکر منہ میں رکھے گا  
 پھر اس کے دل میں خیال آئے گا کہ دوسری قسم کا کھانا ہونا فوراً وہ نوالہ  
 اسی قسم کے کھانے میں بدل جائیگا جس کا دل میں خیال پیدا ہوا ہے  
 پوچھا گیا یا رسول اللہ صلعم جنت کی زمین کیسی ہے فرمایا جنت کی  
 زمین نرم ہے اور سہوار چاندی کی ہے اور اس کی خاک مشک ہے  
 اس کے ٹیلے زعفران کے ہیں اور دیواریں موتی یا قوت اسونے اور

اصوات سمعہا احد من الناس قال فيقول  
 الله عز وجل لها عند ذلك يا عیدی لیس  
 هذا حین عمل ولكن هذا حین تخیة و  
 مسألة فاسألانی اعطیکما ما شئتما فيقولان  
 یا رب اجمع بیننا فی هذه الدرجة قال فيجعل  
 الله عز وجل تلك الدرجة مجلسهما  
 فی خیمة محفوفة بالدر والیاقوت ولا زواجلا  
 منزلی سوی ذلك قال فيشریون ویأکلون  
 ویشبعون وکان صلی الله علیه وسلم ليقول  
 ان الرجل منهم لیاخذ لقمة فيجعلها فی  
 فیه ثم یخبطر باله طعام آخر فتحول تلك  
 اللقمة الی الذی تمی قیل یا رسول الله ما  
 ارض الجنة قال ارضها رخامة من فضة  
 ملاء وترابها مسك وتلالها زعفران  
 وحیطانها در ویاقوت وذهب وفضة  
 یری ظاهرها من باطنها وباطنهما من ظاهرها  
 ولیس فی الجنة قصر الا یری ظاهرا من باطنه  
 وباطنه من ظاهرا ولیس فی الجنة رجل  
 الا وهو یلیس اذ ارا وردداء وحلا غیر  
 مقطعة وغیر مخیطة ولیس منهم رجل الا  
 وهو یلیس تاجا من لؤلؤ مجوف بالدر والیاقوت  
 والزبرجد له صنفیرتان من الذهب فی  
 عنقه طوق من ذهب محفوف بالدر والیاقوت  
 الاخضر و فی ید کل رجل منهم ثلاث اسورة  
 سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من

چاندی کی ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر  
 آتا ہے جنت میں ہر شخص تمہند چادر اور زیورات سے آراستہ رہے  
 گا یہ کپڑے مٹھے ہوئے اور سٹے ہوئے نہیں ہوں گے اور ہر جنتی کے  
 سر پر موتیوں کا ایک تاج ہوگا جس میں مروازید یا قوت اور زبرجد  
 جڑے ہوئے ہوں گے اس کی سونے کی روز لہبیں ہوں گی، گلے میں سونے  
 کا طوق ہوگا جو موتیوں اور سبز یا قوت سے مرصع ہوگا ہر جنتی کے  
 ہاتھ میں تین کنگن ہوں گے ایک سونے کا، ایک چاندی کا اور ایک  
 مروارید کا۔ ان کے تاجوں کے نیچے موتی اور یا قوت کی جھالیں  
 ہوں گی اور وہ اپنے ان زیورات پر ریشمی لباس پہنے ہوئے ہوں گے  
 اور اس لباس پر دیبا اور سبز ریشم کی چادریں ہوں گی اور ایسی  
 مسدوں پر پیب لگا کر بیٹھیں گے جن کا استر دیبا کا ہوگا اور ابرہ  
 انتہائی خوبصورت اور منقش ہوگا۔ ان کے تخت سرخ یا قوت کے  
 ہوں گے اور ان کے پائے موتیوں کے ہوں گے ہر تخت پر ایک  
 ایک ہزار فرش بچھے ہوئے ہوں گے اور ہر فرش مستقل اور علیحدہ  
 رنگ و نوع کا ہوگا کوئی کسی کے مشابہ نہ ہوگا۔ ہر تخت کے سامنے  
 ستر ستر ہزار تالین بچھے ہوئے ہوں گے اور ہر تالین کے ستر ستر رنگ  
 ہوں گے اور کوئی تالین کسی تالین سے ملتا جلتا نہ ہوگا ہر تخت کے  
 دائیں طرف ستر ستر ہزار کرسیاں قرینہ سے رکھی ہوں گی اور  
 بائیں طرف بھی اتنی ہی کرسیاں ہوں گی اور ہر کرسی جداگانہ اور  
 ممتاز ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمام  
 جنتی خواہ اونچے طبقہ کے ہوں یا نیچے طبقہ کے ہوں، اپنے والد  
 حضرت آدم کے تد پر ہوں گے اور حضرت آدم کا طول ۶۰ ہاتھ تھا  
 اور تمام جنتی بے بالوں کے اور بے ڈاڑھیوں اور مونچھوں کے  
 ہوں گے سب کی سرگیں اکھیں ہوں گی اور سر کے بال سخت سیاہ  
 ہوں گے سب جنتی معہ اپنی بیویوں کے ایک ہی قدر قامت کے



لؤلؤ تحت تيجانهم اكاليل من در وياقوت  
 وعلی حللہم نلک یلیسون السندس وعلی  
 السندس الاستبرق والحریر الاخضر متکثین  
 علی فرش بطائنہا من استبرق و طواہرہا  
 العبقری الحسن اسرنہا من یاقوت احمر و  
 قوائمہا اللؤلؤ علی کل سریر منہا الف مثال  
 لکل مثال سبعون لو قالیس منہا مثال یشبہ  
 الآخرین یدی کل سریر منہا سبعون الف  
 زربیة لکل زربیة سبعون لو قالیس منہا  
 زربیة تشبہ صاحبتہا عن یمین کل سریر  
 منہا سبعون الف کرسی وعن شمالہا مثل  
 ذلک لیس منہا کرسی یشبہ الآخر وکان  
 صلی اللہ علیہ وسلم ليقول ان اهل الجنة  
 اجبعین اعلاہم واسفلہم علی طول آدم  
 وطول آدم علیہ السلام ستون ذراعاً شابا  
 جرداً مرداً مکحلین محمبین ہم ونساؤہم  
 علی قدر واحد قال فلما فعل ذلک بہم  
 نادى مناد فی الجنة فیسمع صوتہ اعلاہم  
 وادناہم واقصاہم فیقول یا اهل الجنة  
 ارضیتم منا ذلکم فیقولون یا جبعہم  
 نعم واللہ لقد انزلنا ربنا منزل الکرامة  
 لا نبغی عنہا حولا ولا بہاد لا رضینا  
 ربنا جارا اللهم ربنا فانا سمعنا منادیک  
 فاجبنا القول الصادق اللهم ربنا فانا  
 اشتہینا النظر الی وجهک فارنا لا فانه

ہوں گے، فرمایا: جب یہ تمام سامان ان کے لئے فراہم ہو جائیگا  
 تو ایک منادی جنت میں اعلان کرے گا کہ جس کی آواز تمام جنتی  
 سنیں گے اور پر والے بھی نیچے والے بھی اور دور والے بھی کہ اے  
 جنت والو! کیا تم اپنے گھروں سے خوش ہو؟ سب بیک زبان ہو کر  
 اثبات میں جواب دیں گے اور کہیں گے ہاں ہم خوش ہیں اللہ کی قسم  
 ہمیں ہمارے پروردگار نے عزت والی منزلوں میں اتار کر اعزاز  
 بخشا ہے ہمارا ان سے منتقل ہونے کا یا کسی منزل کو بدلنے کا ارادہ  
 نہیں ہم اپنے رب کے پڑوس سے خوش ہیں اے اللہ! ہمارے  
 پروردگار ہم نے تیرے منادی کا اعلان سنا اور ہم صحیح صحیح  
 جواب دیا اے اللہ! ہمارے پروردگار ہماری خواہش  
 ہے کہ ہم تیرا رخ نور دیکھیں لہذا ہمیں اپنا رخ نور دکھا کیونکہ  
 تیرے رخ نور کا دیدار ہمارے لئے سب سے بڑا ثواب ہے  
 رخ نور دکھا پردہ اٹھا کر: تیرے دیدار کے پیسے کھڑے  
 فرمایا پھر حق تعالیٰ دار السلام سے جس میں تشریف لاکر اپنے  
 بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا کہے گا خوب بن سوز جا  
 اور پوری طرح سے آراستہ و پیراستہ ہو جا اور میرے بندوں کی  
 ملاقات کے لئے تیار ہو جا دار السلام اپنے رب کا کلام سن کہ  
 سر تسلیم خم کر دیگا اور حکم کی بدت پوری ہونے سے پہلے ہی بن سوز  
 جائیگا اور اپنے اندر آنیوالوں کا منتظر رہے گا پھر حق تعالیٰ ایک  
 فرشتہ کو حکم فرمائے گا کہ میرے بندوں کو میری ملاقات کے لئے  
 بلا لا، فرمایا: پھر وہ فرشتہ مہربان اللہ کے پاس سے نکل کر بلند  
 لمبی اور پیاری آواز سے یہ اعلان کرے گا کہ اے جنت والو! اللہ  
 کے پیارے بندو اپنے پروردگار کے دیدار کے لئے آؤ فرمایا: اس  
 کی آواز اور پر والے اور نیچے والے سب ہی سنیں گے اور اپنے اپنے  
 ارنٹوں اور نچروں پر سوار ہو کر سفید مشک کے اور زرد زعفران کے

اقفل ثوابنا عندك قال فامر الله عز وجل  
عند ذلك الجنة فيهما منزله ومجلسه  
داستهادا السلام خذى زينتك وتزيني  
واستعدى لزيارتها عبادى فاستمعت لربها  
واطاعته قبل ان تنقضى الكلمة واخذت  
زينتها واستعدت لزوار الله تعالى فيا امر الله  
تعالى ملكا من الملائكة ان ادع عبادى  
الى زيارتى قال فيخرج ذلك الملك من عند  
الرحمن فينادى باعلى صوت بصوت له  
لذيذ مسدود ليقول يا اهل الجنة يا اولياء  
الله زوروا بكم قال فيسمع صوته اعلاهم و  
اسفلهم فيركبون على النوق والبراذين باجسامهم  
فيسيرون في ظل جنب الى تلال من مسك  
ابيض وزعفران اصفر فيسلبون عند الباب  
وتسلمهم ان يقولوا السلام علينا من ربنا  
فيستاذنون فيؤذن لهم فيتعدون فيدخلون  
الباب فتهب ريح من تحت العرش اسمها  
المثيرة فتسفت تلال المسك والزعفران  
فتعبر في جيوهم ورودهم وثيابهم فيدخلون  
وينظرون الى عرش ربهم وكرسيه نورا  
تتلا عليهم من غير ان يتجلى لهم فيقولون  
سبحانك ديننا قدوس رب الملائكة والروح  
تباركت وتعاليت اذ نانتظر الى وجهك  
قال فيا امر الله عز وجل الحجب التي من  
نوران اعترى فلا يزال يرتفع حجاب

کے ٹیلوں کے نیچے نیچے چھاؤں میں چل کر دروازے کے پاس آکر سلام کر کے  
گئے ان کا سلام یہ ہوگا ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے سلامتی  
ہو اور اندر آنے کی اجازت مانگیں گے انہیں اجازت دیدی جائیگی  
پھر نقد کر کے دروازے میں داخل ہوں گے پھر ایک ہوا جسے منبر  
کہا جاتا ہے عرش کے نیچے سے چلے گی اور مشک وزعفران کے ٹیلوں  
سے گزر کر مشک وزعفران کی خوشبو میں بس کر ان کے گریبانوں پر  
اور کپڑوں سے گزر جائیگی یہ خوشبو میں بسے ہوئے اندر جائیں گے اور  
اپنے پروردگار کے عرش و کرسی کی طرف دیکھیں گے وہاں اپنے اوپر  
ایک جھاملاتا ہوا نور دیکھیں گے لیکن ابھی ان کے رب کی تجلی نہیں  
ہوئی ہوگی بے ساختہ کہیں گے: اے ہمارے پروردگار آپ کے لئے  
پاک ہے فرشتوں کا اور روح کا رب پاک ہے اے ہمارے رب  
آپ برکت والے اور بلند مرتبہ ہیں آپ ہمیں اپنا رخ نور دکھا  
کہ ہم اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں فرمایا پھر حق تعالیٰ نور  
کے پردوں کو حکم فرمائے گا کہ ہٹ جاؤ بالآخر پردے نیکے بعد دیگرے  
اٹھتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ ستر پردے اٹھ جائیں گے اور ہر پردے  
میں پہلے پردے سے ستر گاہ نور زیادہ ہوگا پھر رب العزت جل مجدہ  
تجلی فرمائے گا اور تمام جنت والے سجدے میں گر جائیں گے اور جب تک  
اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں پڑے رہیں گے اور دعا پڑھیں گے  
اے اللہ آپ پاک ہیں ہمیشہ آپ ہی کے لئے تعریفیں اور پاکیاں ہیں آپ  
نے ہمیں جہنم سے نجات دی اور جنت میں داخل فرمایا یہ گھر کس قدر نفیس  
و عمدہ ہے ہم آپ سے پورے طور پر راضی ہیں آپ بھی ہم سے راضی  
رہیں اسی تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے پورے طور پر راضی ہوں یہ عمل  
کا زمانہ نہیں ہے یہ مسرت و شادابی اور نعمتوں کا زمانہ ہے مجھ  
سے جو چاہو مانگو سب کچھ دوں گا۔ اور مجھ سے خواہش کرو میں تمہیں  
سب کچھ دوں گا، فرمایا پھر جنتی بلا کلام کے دلوں میں یہ خواہش کر



کہ ہمیں دی ہوئی نعمتیں پانڈار و دائمی ہوں حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میں  
 نہیں جو نعمتیں دی ہیں انہیں ودام بخش دیا ہے اور انکی مثل تم کو اور  
 بہت کچھ دینے والا ہوں پھر جنتی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر اٹھائیں گے  
 اور رب العزت کے فرط نور کی وجہ سے نگاہیں اوپر نہ اٹھا سکیں گے کہ  
 رب العزت کو دیکھیں اس مجلس کو رب العالمین کے عرش کا مشرقی  
 قبہ کہا جاتا ہے ان سے رب العزت فرمائے گا اے میرے بندو میرے  
 پڑوسیو، میرے چنے ہوئے لوگو میرے دوستو، میرے ولیو، میری  
 مخلوق کے منتخب لوگو اور اے میرے اطاعت گزارو تمہیں یہ مسرت  
 مبارک ہو سہ مرحبا، تعالیٰ تعالیٰ۔ فرمایا، رب العزت کے عرش کے  
 سامنے نور کے منبر ہوں گے اور ان کے قریب نور کی کرسیاں ہوں گی  
 اور کرسیوں کے فرش بچھے ہوئے ہوں گے فرشتوں پر گاؤ تکیے رکھے  
 ہوئے ہونگے اور گاؤ بگیوں کے پاس قالین بچھے ہوئے ہوں گے فرمایا  
 پھر ان سے رب العزت فرمائے گا آؤ اور اپنے اپنے حسب اتب بیٹھ جاؤ  
 یہ سن کر رسول آگے بٹھیں گے اور منبروں پر بیٹھ جائیں گے اور  
 صلحاء و تابعینوں پر بیٹھ جائیں گے، فرمایا، پھر ان کے سامنے نور کی  
 میزیں رکھی جائیں گی جو باقوت و مروارید سے مرصع ہونگی اور ہر میز  
 پر ستر قسم کے کھانے ہونگے پھر رب العزت ایک خادم کو حکم  
 دیا کہ اہل جنت کو کھانا کھلاؤ چنانچہ میز پر ستر ہزار مروارید یا قوت  
 کے پیالے رکھے جائیں گے اور ہر پیالہ میں ستر قسم کے کھانے ہوں  
 گے، فرمایا، پھر حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو کھانا تناول کرو  
 فرمایا پھر وہ ان میں سے جس قدر اللہ چاہے گا کھائیں گے فرمایا  
 پھر بعض بعض سے کہے گا کہ آج کا ہمارے گھر کا کھانا اس کھانے کے  
 سامنے خواب جیسا تھا یعنی کچھ بھی نہ تھا فرمایا، پھر رب العزت  
 اپنے خادموں سے فرمایا کہ میرے بندوں کو مشروبات پلاؤ چنانچہ  
 وہ ان کے پاس مشروبات لائیں گے اور جنت والے ان میں سے

وراء حجاب حتی یرتفع سبعون حجبا کل حجاب  
 هو أشد نوراً من الذي يليه سبعين متعاقبتي جلی  
 لهم رب العزة عز وجل فيخرون له سجدا  
 ما شاء الله يقولون وهم ساجدون سبحانك  
 لك الحمد والتسبيح ابداننا من النار  
 وادخلتنا الجنة فتعم الدار رضينا عنك الرضا  
 كله فارض عنا فيقول تبارك وتعالى قد رضيت  
 عنكم الرضا كله وليس هذا اوان عمل  
 ولكن هذا حين نصرته ولعيم قاسا لوني  
 اعطكم وتمنوا على اذكم قال فيتمنون من غير  
 ان يتكلموا فيتمنون ان يديهم لهم ما اعطا  
 هم فيقول تعالیٰ اني مديم لكم ما اعطيتكم  
 وزائدكم مثله قال فيرفعون رءوسهم  
 بالتكبير ولا يستطيعون ان يرفعوا البصار هم  
 الى ربهم عز وجل من شدة نور رب العزة  
 وذلك المجلس يسمی شرقی قبۃ عرش رب  
 العالمین فيقول لهم رب العزة مرحبا يا عبادي  
 وجيراني واصفياني واحبائي واوليائي وخيرتي  
 من خلقي واهل طاعتی قال فاذا بين يدي  
 عرش رب العزة منا بر من نور من دون تلك  
 المنابر كراسي من نور من دون تلك الكراسي  
 الفرش ودون الفرش النهارق ودون النهارق  
 الدررا بي قال فيقول لهم رب العزة هلم  
 احلسوا على كراسيكم فيتقدم الرسل فيجلسون  
 على تلك المنابر ويتقدم الانبياء فيجلسون

علی تلك الكراسی ویتقدم الصالحون فیجلسون علی  
 تلك الزرابی قال فتوضع لهم مراشد من نور علی  
 كل ما سئد لا سبعون لونا مكللة باللؤلؤ والياقوت  
 قال فيقول رب العزلة لحفدته اطعموهم فيضع  
 لهم علی كل ما سئد لا سبعون الف صحفة من  
 دّر وياقوت و فی كل صحفة سبعون لونا من  
 الطعام قال فيقول عزوجل كلوا یا عبادی قال  
 فیاكلون ما شاء الله من ذلك قال فيقول بعضهم  
 لبعض ان طعامنا اليوم الذي عند اهلنا عند  
 هذا حلم قال فيقول رب العزلة لحفدته  
 اسقوا عبادی قال فیا تونهم لشراب فيشربون  
 منه فيقول بعضهم لبعض ان شرابنا عند هذا  
 الشراب حلم قال فيقول رب العزلة لحفدته  
 اطعمتموهم وسقیتموهم ففكروهم الآن  
 قال فیا تون لفاكھتہ فیاكلون منها فيقول  
 بعضهم لبعض ان فاكھتنا عند هذا حلم  
 قال فيقول رب العزلة سبحانہ اطعمتموهم  
 وفكھتموكم وسقیتموهم اكسوهم وحلوهم  
 قال فیا تونهم بكسوة وحلیة يكسونها  
 فيقول بعضهم لبعض ان كسوتنا وحلیتنا  
 عند هذا حلم قال فینبأهم جلوس علی  
 كراسیهم بعث الله عزوجل علیهم  
 ریحاً من تحت العرش تسبی المثیرة فأتیهم  
 ببسك وكافور من تحت العرش اشد بیافنا  
 من الثلج فتغیر ثیابهم وروءوسهم وجیوههم

پیش گئے اور بعض بعض سے کہیں گے کہ ہمارے گھر مشروبات ان مشروبات  
 کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں فرمایا پھر رب العزت اپنے خدام سے فرمائے  
 گا کہ تم نے انہیں کھلا پلا دیا اب ان کو پھل کھلاؤ چنانچہ خدام ان کے  
 سامنے پھل لا کر رکھ دیں گے اور وہ ان پھلوں میں سے کھائیں گے اور  
 بعض بعض سے کہے گا کہ ہمارے گھروں کے پھل ان کے مقابلہ میں  
 کچھ بھی نہیں فرمایا: پھر رب العزت فرمائے گا کہ تم نے میرے بندوں  
 کو کھلایا پھلایا اور میوے دئے اب انہیں جوڑے اور زیورات  
 پہناؤ پھر خدام ان کے پاس جوڑے اور زیورات لائیں گے اور وہ  
 انہیں پہنیں گے اور بعض سے بعض کہے گا کہ ہمارے گھر کے جوڑے  
 اور زیورات ان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں فرمایا کہ وہ ابھی کریں  
 پر سٹیٹے ہوئے ہوں گے کہ اچانک حق تعالیٰ کے حکم سے ایک  
 ہوا چلے گی جو عرش کی نیچے سے آسگی اسے میسرہ کہا جاتا ہے یہ ہوا مشک  
 وکافور کی خوشبو میں بسی ہوئی ہوں گی وہ مشک برف سے زیادہ  
 سفید ہوگا اور ان کے کپڑوں، سروں اور گریبانوں کو خوشبو میں  
 بساتے ہوئے گزر جائے گی پھر ان سے کھانے کی میزیں مع تمام کھانوں  
 کے ہٹالی جائیں گی اور در عالم صلعم نے فرمایا: پھر ان سے رب العزت  
 فرمائے گا اب مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا اور فرمائشیں کرو  
 میں تمہاری فرمائشیں پوری کر دوں گا اور خواہش کرو میں تمہاری  
 خواہش پوری کر دوں گا سب یک زبان ہو کر کہیں گے اے اللہ  
 اے ہمارے رب ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو  
 جائیں حق تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندو میں تم سے راضی ہوں  
 فرمایا: پھر وہ تکبیر و تسبیح کے ساتھ مسجدوں میں گزریں گے حق  
 تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو سجدے سے اپنے اپنے سراٹھارو یہ عمل  
 کا وقت نہیں یہ وقت تولدت ولعنت کا ہے فرمایا: پھر وہ اپنے  
 سراٹھائیں گے اور ان کے چہرے ان کے رب کے نور کی وجہ سے



فتطیبہم ثم ترفع عنہم الموائد مع علیہا من  
الطعام قال علیہ الصلوٰۃ والسلام فیقول  
لہم رب العزۃ سلونی الآن اعطکم و تمنوا  
علی اذکم قال فیقولون باجمعہم اللہم ربنا  
فانا نسألك رضاك عنا فیقول عزوجل انی قدر  
ضیبت یا عبادی عنکم قال فیخرون لہ  
سجدا بالتسبیح والتکبیر فیقول رب العزۃ  
یا عبادی ارفعوا رءوسکم لیس ہذا حین  
عمل ہذا حین نظرتہ ولعیم قال فیرفعون  
رءوسہم و وجوہہم مشرقۃ من نور ربہم  
قال فیقول رب العزۃ عزوجل الصرخوا  
الی منازلکم قال فیخرجون من عند ربہم  
ثم تلقاہم غلمانہم بدوابہم قال فیریکب  
کل واحد منہم علی فاقتہ او برذونہ و  
یرکب معہ سبعون الف غلام علی مثل  
الذی یرکب فیسیر من شاء منہم بالسواد  
الی دارہ ثم یسیر معہ سائرہم حتی یقدم  
القصر الذی یرید قال فاذا جاء قصرہ فدخل  
علی زوجتہ قامت الیہ فرحبت بہ وقالت  
لہ جئتنی یا حبیبی جئتنی بحسن و نور جمال و کسوة  
وریح و حلیۃ لہما فارق علیہا قال فینادی  
مملک من عند الرحمن عزوجل بصوت عال  
فیقول یا اهل الجنة کذلک انتم ابدا  
یحید و لکم النعیم قال و الملائکۃ یدخلون  
علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم

کھلے ہوئے ہونگے فرمایا: پھر رب العزت فرمایا کہ اچھا اب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔  
فرمایا پھر یہ اپنے اپنے رک پاس سے نکلیں گے اور ان کا استقبال گھوڑوں پر سوار ہو کر  
ان کے لئے سواریاں لیکر غلمان کریں گے اور انہیں ان کی سواریاں دیں گے فرمایا  
پھر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے یا پھر پر سوار ہو گا اور اس کے ساتھ  
ستر ستر ہزار غلام اسی کی جیسی سوار یوں پر سوار ہو کر اس کے جلوس میں  
چلیں گے چنانچہ یہ پورا جلوس مل کر چلے گا اور جتنی اس جلوس کے ہمراہ  
اپنے گھر پہنچے گا پھر جب یہ اپنے قصر میں جائے گا اور اپنی بیوی کے  
کمرے میں رونق افروز ہو گا تو بیوی اسے خوش آمدید کہے گی اور محبت  
میں کہے گی اسے میرے محبوب آپ میرے پاس تشریف لے آئے آپ  
انتہائی حسین و درخشاں بن کر آئے ہیں آپ پر غضب کا حسن و جمال  
ہے پر تکلف لباس و زیورات ہیں اور آپ سے خوشبو کی لپٹیں آ  
رہی ہیں جب آپ میرے پاس سے گئے تھے تو اس حسن و جمال اور  
خوبی و کمال میں نہ تھے فرمایا: پھر حق تعالیٰ اجل مجدہ کی طرف سے بلند  
آواز سے ایک منادی اعلان کرے گا اے جنت والو تم ہمیشہ ہمیش  
اسی حال پر رہو گے اور تمہارے لئے اسی طرح ہمیشہ تازہ بہ تازہ  
نعمتوں کی تجدید کی جاتی رہے گی فرمایا: اور فرشتے ہر دروازے سے  
ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے  
تم پر سلامتیاں ہوں لہذا یہ آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے تمہارا پروردگار  
تم کو سلام فرماتا ہے ان فرشتوں کے ساتھ بہت سے کھانے  
مشروبات اور زیورات ہوں گے جو ان کی خدمت  
میں پیش کئے جائیں گے۔

رسول اللہ صلعم فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں سو درجے ہیں اور ہر  
دو درجوں کے درمیان ایک امیر ہے جس کی فضیلت و سرداری کو  
جنت والے مانتے ہیں ہر جنت میں سفید مشک اور زرد زعفران  
کے پہاڑ ہیں جب جنت والے کھانا کھا کر فارغ ہوتے ہیں تو انہیں

فنعلم عقبی الداران ربکم یقرأ علیکم السلام  
 ومعهم من الاطعمۃ والاشربة والکسوة  
 والحلیۃ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یقول  
 اتی فی الجنة مائة درجة ما بین کل درجتین  
 امیر یرون لہ الفضیلة والسود فیہا جبال  
 من مسک ابیض وزعفران اصفر اذا اکلوا  
 طعامہم تجشروا طیب من المسک فاذا شربوا  
 شرابہم رشحت جلودہم لا یتغطون ولا  
 یہرقون الماء ولا یمسقون ولا یمتخطون ولا  
 یمرضون ولا یقصدون وکان صلی اللہ علیہ  
 وسلم یقول اهل الجنة اعلاہم واسفلہم  
 یتعدون متکئین ساعتین وتفاضلون ساعتین  
 ویجدون خالقہم اربع ساعات ویتزاورون  
 ساعتین وفہا لیل ونهار وظلمة لیلہا اشد  
 بیاضا من نهار الیوم سبعین جزاء وکات  
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ادنی اهل الجنة  
 عطیة من لوزل علیہ الالنس والجن لکان  
 عندہ من الکراسی والقرش والتمارق و  
 الزرابی ما یجلسون ویتکئون علیہ ویفضل  
 علیہم من الموائد والمصائف والخدم  
 والطعام والشراب الا کقدر ما اصاب  
 رجلا واحدا وکان صلی اللہ علیہ وسلم  
 یقول ان جذوع الشجر ذهب ومنها فنتہ  
 ومنها یاقوت ومنها زبرجد وسعفہا  
 مثل ذلک وورقہا کاحسن حلل راہا

ڈکار آتی ہے جس کی خوشبو مشک کی خوشبو کو شرماتی ہے اور مشروبات  
 پی کر مشک جیسا پسینہ آتا ہے جنتی بول و براز سے محفوظ ہیں نہ نہیں  
 تھوک، ریٹھ اور بلغم آتا ہے نہ بیمار پڑتے ہیں اور نہ دوسروں کی  
 شکایت پیدا ہوتی ہے نہ صلعم فرمایا کرتے تھے: جنت کے ہر طبقہ  
 والے ٹیک لگا کر صبح کا کھانا دو ساعتوں میں کھاتے ہیں اور دو  
 ساعت تک معالہ کرتے ہیں اور چار ساعت اپنے خالق کی مجرک  
 اظہار کرتے ہیں اور دو ساعت تک ملاقاتیں کرتے ہیں جنت  
 میں دن بھی ہیں اور راتیں بھی، جنت کی رات کی تاریکی بھی آج کے  
 دن کی روشنی سے سترگنا زیادہ روشن ہے۔ رحمت عالم صلعم فرمایا  
 کرتے تھے کہ جنت کے معمولی اور ادنیٰ شخص کے عطیات اس قدر  
 ہوں گے کہ اگر تمام انسان اور جن اس کے مہمان ہوں تو اس کے  
 پاس اتنی کرسیاں، فرش، گاؤں، اور قالین ہوں گے کہ سب  
 ان پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ سکیں گے اور دسترخوان، پیالے  
 خدام اور طعام و شراب سب کے لئے کافی ہوں گے بلکہ بچ بھی  
 جائیں گے، رحمت عالم صلعم فرمایا کرتے تھے کہ جنت کے درختوں  
 کے تنے سونے کے، چاندی کے، یا قوت کے، اور زبرجد کے  
 ہیں اور ان کی شاخیں بھی اپنے اپنے تنے کی طرح ہیں اور پتے  
 انتہائی خوبصورت زبور کی طرح ہیں اور ان کے پھل مکھن سے  
 زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں ہر درخت کا ارتفاع  
 پانسو سال کی مسافت کا ہے اور جڑ کی موٹائی ستر سال کی مسافت  
 کی ہے جب جنتی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھے گا تو اس کی نگاہ اس کی  
 سب سے اونچی شاخوں تک اور اس کے پھلوں تک پہنچ جائے  
 گی اور ہر درخت پر ستر ستر ہزار قسم کے پھل ہیں اور ہر پھل  
 کا ذائقہ جداگانہ ہے جب جنتی کو اس کے کسی پھل کی خواہش  
 ہوتی ہے تو وہ شاخ جس پر وہ پھل لگا ہوا ہے جس کی جنتی کو



وثمرها الين من الزبد واحلى من العسل  
 طول كل شجرة منها خمسمائة عام وغلظ اصلها مسيرة  
 سبعين عاما اذا رفع الرجل منهم بصرة نظرا الى اقصى فرع  
 الشجرة رما فيها من الثمار وان على كل شجرة سبعين الف ذرة  
 من الثمار وليس منها لون على طعم الاخر اذا اشتهى شيئا من تلك  
 الانواع انحت له تلك الشعبة التي فيها تلك  
 الثمرة التي اشتهى من مسيرة خمسمائة عام  
 او مسيرة خمسين عاما او دون ذلك حتى  
 ياخذها بيد لا ان شاء فان عجز ان ياخذ  
 بيده لا فتح فالا فدخلت فيه فاذا قطف  
 منها شيئا حدث الله مكانها احسن  
 منها واطيب فاذا اصاب منها حاجته  
 واكتفى رجعت الشعبة حيث كانت ومنها  
 شجرة لا تنمو ولكن فيها اكلها حارير  
 وحلل وسندس وزخرف وعبقري ومنها  
 شجرة لها اكلها المسك والكافور  
 وكان صلى الله عليه وسلم يقول اهل الجنة  
 يرون ربهم كل يوم جمعة وكان صلى الله  
 عليه وسلم يقول لو ان اكليل من الجنة  
 دلى من السماء لذهب بضوء الشمس  
 وكان صلى الله عليه وسلم يقول ان في  
 الجنة قصورا في كل قصر منها اربعة  
 انهار ماء معين ولبن معين وخبث معين  
 وعسل معين اذا شرب منه شيئا صار  
 ختامه مسكا ولا يشربون منها شيئا

خوامش ہے جنتی کے سامنے پانسو سال کی مسافت سے یا پچاس سال کی  
 مسافت سے یا اس سے کم کی مسافت سے جھک کر آجاتی ہے حتیٰ کہ  
 وہ اگر چاہے تو خود اپنے ہاتھ سے اسے توڑ لے۔ اگر وہ کسی وجہ سے  
 اسے توڑنے سے قاصر رہے تو اپنا منہ کھول لے گا اور وہ پھل اس  
 کے منہ میں چلا جائے گا پھر جب جنتی پھل توڑ لیتا ہے تو حق تعالیٰ  
 اس جگہ سے بہتر اور عمدہ پھل پیدا کر دیتا ہے جب جنتی اپنی ضرورت  
 پوری کر لیتا ہے تو شاخ اٹھ کر اپنی جگہ چلی جاتی ہے بعض درختوں  
 پر پھل نہیں آتے مگر ان میں گول گول گھنڈیاں بندھ جاتی ہیں جیسے  
 کپاس کے درخت میں ڈوڑے آتے ہیں اور کھل جانے پر ان سے  
 کپاس نکلتی ہے ان گھنڈیوں سے ریشم ریشم جوڑے جین ریشم  
 دبیز ریشم اور نفیس و عمدہ ریشم نکلتا ہے اور بعض درختوں کے  
 غنچوں سے مشک اور کافور نکلتے ہیں۔ سرور عالم صلعم فرمایا کرتے  
 تھے کہ جنت والے ہر جمعہ کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے آپ  
 فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت کا ایک تاج آسمان سے ٹکا دیا جائے  
 تو سورج کی روشنی ماند ہو کر رہ جائے آپ فرمایا کرتے تھے کہ  
 جنت میں محل ہیں ہر محل میں چار چار نہریں جاری ہیں ایک نہر صاف  
 شفاف پانی کی ایک خالص دودھ کی ایک نتھری ہوئی شراب کی  
 اور ایک صاف شہد کی جب جنتی ان میں سے پی چکتا ہے تو اخیر  
 میں مشک جیسی خوشبو آتی ہے جنتی ان نہروں میں سے کسی نہر کا شہد  
 نہیں پیتے جب تک یہ مشروب جنت کے کسی چشمہ کے مشروب سے  
 نہ لایا جائے جنت میں ایک چشمہ زنجبیل (سونٹھ) کا ہے دوسرا  
 تشیم ہے اور تیسرا کافور کا ہے حق تعالیٰ کے مقرب و خاص بندے  
 انہیں چشموں کا خالص مشروب پیتے ہیں۔ رحمت عالم صلعم  
 فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمادیتا کہ آپس میں  
 ایک دوسرے کے جام سے پیا کر دو تو کوئی کبھی بھی اپنا جام اپنے

حتى يمزج من عيون في الجنة اسم احد هال الزنجيل  
والاخرى تسنيم والاخرى كافور وان  
المقربين يشربون منها صرفا وكان صلى الله  
عليه وسلم يقول لولا ان الله قضى بينهم  
انهم يتنازعون الكأس بينهم ما رفعوها  
من افواههم ابد ا وكان صلى الله عليه وسلم  
يقول ان اهل الجنة يتزاوون على مسيرة  
مائة الف عام و فوق ذلك فاذا رجوا من  
عند اخر انهم فلهما اهدى الى منازلهم من  
احد كما الى منزله وكان صلى الله عليه وسلم  
يقول ان اهل الجنة اذا راوا ربهم عز وجل  
وارادوا الا تصراف يعطى كل رجل منهم مائة  
خضراء فيها سبعون حبة لكل حبة سبعون  
لونا ليس منها حبة على لون الاخرى فاذا  
انصرفوا من عند ربهم عز وجل مروا في  
اسواق الجنة ليس فيها بيع ولا شراء وفيها  
من الحللى والحلل والسندس والاسنبرق و  
الحرير والزخرف والعبقري من درويا قوت  
واكابل معلقة نياخذون من تلك الاسواق  
من هذه الاصناف ما يطيقون حمله ولا  
ينقص من اسواقها شيء وفيها صور كصور  
الناس من احسن ما يكون مكتوب على ظهر  
كل صورة منها من ثمنى ان يكون حسنه  
على حسن صورتى جعل الله حسنه على  
صورتى فمن تمنى ان يكون حسن وجوهه على

منه سے نہ بٹانا، نبی صلعم فرمایا کرتے تھے کہ جنتی ایک ہزار سال  
کی یا اس سے زیادہ کی مسافت سے ایک دوسرے کی زیارت  
کریں گے پھر جب اپنے بھائیوں کے پاس واپس آئیں گے تو  
وہ سیدھے اپنے محل پہنچ جائیں جیسے دنیا میں ہر شخص اپنے گھر پہنچ  
جاتا ہے اس سے زیادہ جنتی اپنے محل کو پہنچائیں گے۔

نبی اکرم صلعم فرمایا کرتے تھے کہ جب جنتی رب کے دیدار سے  
فارغ ہو کر واپس ہونا چاہیں گے تو ہر ایک کو ایک سبزانا ر دیا  
جائے گا جس میں ستر دانے ہوں گے اور ہر دانہ کے ستر ستر رنگ  
ہوں گے اور ہر دانہ کے جدا گانہ رنگ ہوں گے پھر جب یہ اپنے پروردگار  
عز اسمہ کے پاس سے واپس آئیں گے تو جنت کے بازاروں میں سے  
گزریں گے جن میں خرید و فروخت نہیں ہوتی وہاں زیورات،  
جوڑے، مہین و دبیز ریشم، ریشم، مزین و منقش ریشم عمدہ عمدہ  
ہوتی، یا قوت اور تاج قرینہ سے دکانوں میں بکے رہتے ہیں پھر  
اپنی خواہش کے مطابق ان چیزوں میں سے چیزیں اٹھا کر لیجائیں  
گے اور دکانوں کی چیزوں میں کوئی فرق نہیں آئیگا اور نہ کمی پیدا  
ہوگی وہاں لوگوں کی تصویروں کی طرح خوبصورت تصویریں  
بھی ہوں گی ہر تصویر کے سینہ پر لکھا ہوا ہوگا اگر کوئی میری صورت  
جیسے حسن کا آرزو مند ہو تو حق تعالیٰ اسے میرا جیسا حسن عطا  
فرمادے گا، فرمایا: پھر جنتی اپنے گھر جائیں گے اور راہ میں  
ان سے غلمان ملیں گے وہ قطار باندرھے کھڑے ہوں گے اور خوش آمد  
وسلام کریں گے اور ہر ایک دوسرے کو اس کی آمد کی بشارت  
دیتا ہے حتیٰ کہ یہ بشارت اس کی بیوی کو بھی مل جاتی ہے اور وہ  
خوشی میں اس کے استقبال کے لئے خوش آمدید کہنے کے لئے اور  
خیر مقدم و سلام کرنے کے لئے محلے دروازے پر آکھڑی  
ہوتی ہے اور اپنے شوہر کو گلے سے لگا لیتی ہے اور وہ اسے



تلك الصورة جعله الله على تلك الصورة قال  
ثم يصرفون الى منازلهم فيلقاهم علمائهم  
صفا فانيما بالترحيب والتسليم فيبشر كل واحد  
منهم صاحبه الذي يليه حتى تبلغ البشرية  
زوجته ثم يستخفها الفرح حتى تقوم اليه  
فتستقبله عند بابها بالترحيب والتسليم فتعالقه  
ويجالتها فيدخلان جميعا معتنقين وكان صلى الله  
عليه وسلم يقول لو ان امراتنا من نساء اهل الجنة  
برزت لم يرها ملك مقرب ولا نبي مرسل الا  
افتتن بحسنها وكان صلى الله عليه وسلم يقول  
ان آخر شراب يشربه اهل الجنة على اثر طعامهم  
شراب يقال له طهور دهان فاذا شرب منه  
شربة هضم طعامهم وشرابهم فجعله <sup>طسك</sup> مسك  
وحشا المسك ولا يكون في بطونهم اذى فاذا  
شربوا اشتهو الطعام فهذا ادابهم ابد  
كان صلى الله عليه وسلم يقول ان دواب اهل  
الجنة خلقن من يا قوت ابيض وكان صلى الله  
عليه وسلم يقول هن ثلاث جنات الجنة وعدن  
ودار السلام الجنة اصغر من جنة عدن  
بسبع مائة الف الف جزء وان قصور الجنة  
ظاهرها من ذهب وباطنها من زبرجد و  
ابرجتها من يا قوت احمر وشرقاتها نظام  
الؤلؤ وكان صلى الله عليه وسلم يقول ان الز  
من اهل الجنة ليتنع عند زوجته التكاثر  
الواحدة مقدار سبع مائة عام ما يتحول ثم

گلے سے لگائے اور دونوں بغلیگر ہو کر محل کے اندر جاتے ہیں۔  
رحمت عالم صلعم فرمایا کرتے تھے: اگر جنت کی کوئی عورت ظاہر  
ہو جائے تو اگر اسے کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی اولوالعزم پیغمبر بھی  
دیکھے تو فتنہ میں پڑنے بغیر نہ رہے۔  
قیامت میں بانگی ادا میں تمہاری: ادھر آؤ لے لوں بلائیں تمہاری  
سرور عالم صلعم نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد جنت والوں کا آخری  
مشروب جسے وہ پیئیں گے طہور دہوق ہوگا اس شراب کے ایک ہی  
گھونٹ سے کھایا پیاس بھضم ہو جاتا ہے اس میں مشک جیسی خوشبو  
ہے ڈکار بھی مشک کی خوشبو میں لپیٹی ہوئی آئے گی اور سیٹ کا میل  
پچھل پاک کرنے والی ہوگی جب جنتی یہ شراب پی لیں گے تو فوراً بھوک  
لگے گی اہل جنت کا ہمیشہ ہمیش ہی حال رہے گا۔ نبی اکرم صلعم فرمایا  
کرتے تھے کہ حق تعالیٰ نے جنت والوں کے چوپائے سفید یا قوت سے  
بنائے ہیں، رحمت عالم صلعم فرمایا کرتے تھے کہ تین جنتیں ہیں، جنت  
جنت عدن اور جنت دار السلام جنت، جنت عدن سے سات لاکھ  
حقتے کم ہے اور جنت کے محل باہر سے سونے کے ہیں اور اندر سے زبرجد  
کے ہیں اور جنت کے برج سرخ یا قوت کے ہیں اور کنگرے موتیوں کی  
لڑکیوں سے بنائے گئے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جنتی اپنی بیوی کے  
پاس ایک کروٹ میں بقدر سات سو سال کے لذت اندوز رہتا ہے  
اور کروٹ نہیں بدلتا پھر اسے اس کی دوسری بیوی اس سے اچھے محل  
میں سے آواز دیتی ہے کہ اے حبیب اب ہماری باری کا وقت آگیا ہے  
پوچھتا ہے: آپ کون ہیں؟ وہ عرض کرتی ہے میں ان نعمتوں میں سے  
ہوں جن کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں کہ  
اس کے لئے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کیا کیا نعمتیں چھپا کر  
رکھی گئی ہیں، یہ سن کر جنتی اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے  
پاس بھی بقدر سات سو سال کے ٹھہرتا ہے اور اس کے پاس کھاتا

تبادیہ زوجتہ الاخری من القصر احسن منها  
یا اخی قد آن لك ان تكون لنا منک دولة  
فیقول الرجل من انت ؟ فتقول انا من التي  
یقول الله عزوجل فلا تعلم نفس ما اخفی  
لهم من قرۃ اعین فیتحول الیہا فیسکت  
عندہا مقدار سبع مائة عام یاکل ویشرب و  
یباضعها وکان صلی الله علیہ وسلم یقول  
ان فی الجنة لشجرة یسیر الراكب فی ظلها  
سبع مائة عام ما یقطعها تجری من تحتها  
الانهار وان علی کل غصن من غصونها  
مدائن مبنیة طول کل مدینة منها عشرة  
آلاف میل وان ما بین کل مدینة الی الاخری  
كما بین المشرق والمغرب وان عیون السلیل  
لتجری من تلك القصور الی تلك المدائن  
وان الوزقة منها لتظل الامة الکبیرة  
العظیمة وکان صلی الله علیہ وسلم یقول  
ان الرجل من اهل الجنة اذا دخل علی زوجتہ  
قالت والذی هو اکر منی بک ما فی الجنة  
شیء هو احب الی منک قال فیقول لہا  
ایضا مثل ذلك قال وکان صلی الله علیہ  
وسلم یقول ان فی الجنة ما لا یصفہ الواصفون  
ولا یخطر علی قلوب العالمین ولا تسمع  
بہ آذان الواعین و فیہا ما لم ترہ عیون  
المخلوقین وکان صلی الله علیہ وسلم یقول  
ان الله عزوجل ینزل المتعابین فیہ فی جنة

پتیا ہے اور اس کے وصل سے لطف اندوز ہوتا ہے۔

رحمت عالم صلعم فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں ایک درخت ہے  
جس کی چھاؤں ایک سو اسی سو برس تک چل کر بھی طے نہیں کر  
سکتا اس کے نیچے ندریں جاری ہیں اور اس کی ہر شاخ میں متعدد شہر  
یسے ہوئے ہیں اور ہر شہر دس ہزار میل میں پھیلا ہوا ہے اور ایک  
شہر سے دوسرے شہر تک مشرق سے لیکر مغرب کے برابر فاصلہ ہے  
اور سلسبیل کے چشتے ان محلوں سے ان شہروں تک جاتے ہیں اس کا  
ایک پتہ ایک بڑی اور عظیم جماعت پر سایہ کرتا ہے۔ آپ فرمایا  
کرتے تھے کہ جب جنتی اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ عرض کرے گی  
اس کی قسم جس نے تم کو مجھے عطا فرما کر مجھے عزت بخشی ہے جنت کی  
کوئی چیز تم سے زیادہ مجھے پیاری نہیں اور یہ بھی اپنی بیوی سے  
انہیں الفاظ میں اظہار محبت کریں گے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ  
صلعم فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں وہ وہ نعمتیں ہیں جن کو بیان کرنے  
والے بیان نہیں کر سکتے اور دنیا والوں کے دلوں میں ان کا تصور  
بھی نہیں اور نہ سننے والوں کے کانوں نے ان کا حال سنا ہے اور  
جنت میں وہ چیزیں ہیں جن کو مخلوق کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا  
رحمت عالم صلعم فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ ان دو شخصوں کو جو عرف اللہ تعالیٰ  
کے لئے زیبا ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ سرخ یا قوت کی بالائی منزل پر جنت عدن  
میں جگہ عطا فرمائے گا جسکی بڑائی بطول دعزں ستر ہزار سال کی مسافت ہے اور اس  
میں ستر ہزار گھر ہیں ہر گھر میں ایک عالیشان محل ہے یہ بالا خانے جنت والوں کے محلوں  
اور ہیں اور ان کے دروازوں پر لوزانی تحریر ہیں یہ لکھا ہوا ہے  
یہ لوگ اللہ کی رضا کے لئے آپس میں محبت کر نیوالے تھے جب  
ان میں سے کوئی اپنے محل سے جنت والوں کو جہانگاہ کر دیکھتا ہے  
تو اس کے چہرے کی روشنی سے جنت والوں کے محل جگمگا جاتے  
ہیں جیسے سورج کی روشنی سے زمین والوں کے گھروں میں روشنی



عدن علی عمود من یاقوتہ حمراء عظیمہا سیرا  
 سبعین الف عام علی سبعین الف بیت لكل  
 بیت قصر مشرفین علی اهل الجنة مكتوب  
 علی جباہم كتاب من نور ہولاء المتعالمون  
 فی اللہ اذا اطلع احدہم من قصر الی اهل  
 الجنة ملا نور وجہہ قصر اهل الجنة  
 كما تمل الشمس بوقت اهل الارض فينظر  
 اهل الجنة وجہہ فيقول بعضهم لبعض  
 هذا من المتحابین فی اللہ عزوجل فاذا  
 وجہہ مثل القمر ليلة البدر وكان صلی اللہ  
 علیہ وسلم یقول ان فضل حسن الرجل علی  
 حسن الخادم من اهل الجنة كمثل القمر  
 ليلة البدر علی النجوم وكان صلی اللہ علیہ  
 وسلم یقول ان نساء اهل الجنة يتغنین عند  
 آخر طعامہم باصوات لذيبة مسدودة یقلن  
 نحن الخالدات فلا نموت ابدًا ونحن الامات  
 فلا نخاف ابدًا ونحن الراصيات فلا نسخط  
 ابدًا ونحن الثابتات فلا ننهرم ابدًا ونحن  
 الكاسيات فلا نعری ابدًا ونحن الخيرات  
 الحسان ازواج قوم کرام وكان صلی اللہ  
 علیہ وسلم یقول ان طیر الجنة له سبعون  
 الف ريشة لكل ريشة منها لون لیس يشبه  
 الآخر عظم كل طیر منها میل فی میل  
 اذا اشتہی المؤمن شئًا منها اتى به فوضع  
 فی خوف المحفة فانفص فوق مبد سبعون

پھیل جاتی ہے پھر جنت والے اس کا درخشندہ چہرہ دیکھتے ہیں اور آپس  
 میں کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے ایک ہیں جو دنیا میں صرف اللہ کے لئے ہام  
 درست تھے پھر یکایک ان کے چہرے بھی چودھویں رات کے چاند کی  
 طرح جگمگا اٹھتے ہیں۔ رحمت عالم صلعم فرمایا کرتے تھے کہ جنتی کا حسن و  
 جمال اپنے خادم کے حسن و جمال کی نسبت ایسا ہے جیسے بدر کی روشنی  
 بہ نسبت تاروں کے ہوتی ہے، سرور عالم صلعم فرمایا کرتے تھے کہ جنت  
 والوں کی بیویاں کھانا کھانے کے بعد انتہائی پیاری لمبی اور رس بھری  
 آواز میں ان الفاظ میں یہ نظم پڑھتی ہیں نہ

مرغ شاخ درخت لاہو تیمم : گوہر ریح گنج اسراریم  
 بہ امید غیر خاک در شش : فارغ از نفاشے تا تاریم

ح

ہم زندہ جاوید ہیں ہم پرینا کاشتر نہیں : پیرامن ہیں بے خوف ہیں ہم کو کسی در نہیں  
 ہم خوش ہیں درمکن نہیں ناخوش ہو یا ناراض ہوں : ہم دائمی ہیں نوجوان پیری کلبس ہم پر نہیں  
 شانہ بدو سائیں راستہ ہر دم ہیں ہم : ہم خوبصورت نیکی بدخون کی خوگر نہیں  
 ہم ہمہ جہین دلدل باد لھلھین ہیں ان حضرات کی  
 جو اولیاء اللہ ہیں ان سے کوئی برتر نہیں

رحمت عالم صلعم فرمایا کرتے تھے کہ جنت کے پرندے کے ستر تزار پر ہوتے  
 ہیں اور ہر پر جدا گانہ رنگ کا ہوتا ہے کوئی پر دوسرے پر کے مشابہ نہیں  
 ہر پرندے کی جسامت ایک میل لمبی اور ایک میل چوڑی ہے اگر مومن کسی  
 پرندے کو شکار کرنا چاہے گا تو فوراً فرشتے اسے لاکر پیالہ کے اندر رکھ  
 دیتے ہیں پھر وہ پھڑ پھڑاتا ہے تو ستر قسم کے پکے ہوئے بھنے ہوئے اور  
 طرح طرح کے کھانے اس کے پروں سے پیالوں میں آ موجود ہوتے ہیں  
 جن کا مزہ من سے زیادہ عمدہ اور نرمی کھن سے زیادہ اور سفیدی  
 دہی سے کہیں بڑھی ہوئی ہوتی ہے پھر جب جنتی ان میں سے سیر کر  
 کھا چکنا ہے تو پھر وہ پرندہ پر جھاڑ کر اڑ جاتا ہے اور اس کا کوئی پر نہیں



لونا من الطعام من نحو طيخ و شىء و الوان شتى  
 طعمها اطيب من المن و لينها الين من الزبد  
 و يابضها اشد بياضا من المغيض فاذا اكل منها  
 انتفض و طار و لم تنقص منها ريشة فطيورهم  
 و مراكبهم ترعى فى رياض الجنة حول قصورهم  
 و كان صلى الله عليه وسلم يقول ان اهل  
 الجنة يعطيهم الله تعالى خواتيم من ذهب  
 يلبسونها و هى خواتيم الخلد ثم يعطيهم خواتيم  
 من در و ياقوت و لؤلؤ و ذلك اذا زاروه فى  
 دار السلام و كان صلى الله عليه وسلم يقول  
 ان اهل الجنة اذا زاروا ربهم اكلوا و  
 شربوا و تمتعوا قال يقول رب العزة عزوجل  
 يا داود مجدنى بصوتك الحسن فيمجده  
 ماشاء الله تعالى من ذلك فلا يبقى شىء فى  
 الجنة الا انصت لحسن صوته و لذا اذته ثم  
 يحبوهم رب العزة عزوجل بالكسوة  
 و الحليلة ثم ينصرفون الى اهلبيهم و كان  
 صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل رجل  
 من اهل الجنة شجرة يقال لها طوبى  
 فاذا اراد احدهم ان يلبس الكسوة المر  
 انطلق الى طوبى ففتحت له اكامها و هى  
 ستة الوان فى كل واحد منها سبعون لونا  
 ليس منها ثوب لونه على لون الآخرو لا  
 على و شيه فياخذ من اى ذلك شاء و كان  
 صلى الله عليه وسلم يقول ان ازواج اهل

نہیں جھڑتا لہذا جنتیوں کے پرندے اور سواریاں جنت میں اور ان  
 کے قصروں کے آس پاس چرتی ہیں نبی اکرم صلعم فرمایا کرتے تھے کہ حق  
 تعالیٰ شانہ جنت والوں کو پہننے کے لئے سونے کی انگوٹھیاں عطا  
 فرمائے گا جن کو وہ ہمیشہ پہنے رہیں گے پھر حق تعالیٰ انہیں مروارید  
 یاقوت اور موتی کی انگوٹھیاں عطا فرمائے گا جب وہ حق تعالیٰ کا  
 دارالسلام میں دیدار فرمائیں گے۔ رحمت عالم صلعم فرمایا کرتے تھے  
 کہ جب جنت والے اپنے رب کی زیارت کریں گے تو کھلتے پتے اور  
 فائدہ انگٹے ہیں فرمایا: رب العزت جل مجدہ فرمایا گا: داؤد اپنی  
 اپنی پیاری آواز میں میری عظمت بیان کر۔ حضرت داؤد اس حکم  
 کی فوراً تعمیل فرمائیں گے اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا اس کی  
 حمد و تمجید بیان کریں گے تو جنت کی ہر چیز ان کی رس بھری اور  
 کیف انگیز آواز سن کر خاموش ہو جائیگی پھر رب العزت اہل جنت  
 کو خلعت و زلیور عطا فرمائے گا پھر یہ لوگ اپنے اپنے گھر آجائیں گے  
 رحمت عالم صلعم نے فرمایا کہ ہر جنتی کے لئے جنت میں ایک  
 درخت ہے جسے طوبی کہا جاتا ہے جب کوئی شخص بیش قیمت اور  
 عمدہ لباس کا خواہشمند ہوتا ہے تو طوبی کے پاس چلا جاتا ہے اور  
 اس کے لئے اس کے غنچے کھل جاتے ہیں ہر غنچہ میں چھ خانے ہوتے  
 ہیں جن کے رنگ جدا گانہ ہوتے ہیں اور ہر خانہ میں ستر مختلف رنگوں کے  
 لباس ہوتے ہیں اور ہر ایک کا ڈیزائن اور نقش و نگار علیحدہ ہوتے  
 ہیں اور گل لالہ سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوتے ہیں جنتی جس لباس  
 کو پسند کرتا ہے وہی لے لیتا ہے۔

رحمت عالم صلعم فرمایا کرتے تھے کہ جنت والوں کی ہیر لیں کے  
 سینوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی  
 محبوبہ ہوں آپ سے میں بیٹنے والی اور کوتاہی کرنے والی نہیں  
 آپ کی طرف سے میرے دل میں کسی قسم کی کدورت نہیں جب جنتی اپنی



الجنة مكتوب في نحر كل امرأة منهم  
 انت جيبى وانا جيبتك ليس عنك معدل  
 ولا عنك مقصر وليس لك في قلبى غل ولا  
 غش فينظر الرجل الى نحر زوجته فيرى سواد  
 عيدها من وراء عظمها ولحمها فكبد لهما  
 مائة وكبد هاله مائة ولا يعيبها ذلك الا  
 كما يعيب الياقوت المسلك فيه بياضهن كيباض  
 المرجان وصفوا هن كصفاء الياقوت قال الله  
 عز وجل كأنهن الياقوت والمرجان وكان  
 صلى الله عليه وسلم يقول ان اهل الجنة على  
 النوق والبراذين يقع خف احداهن عند  
 اقصى طرفها وموضع خافر ذلك البرزون عند  
 اقصى طرفه خلقت من در وياقوت عظم كل  
 دابة منهن سبعون ميلا ازمة النوق والبراذين  
 خلق اللؤلؤ والزبرجد -

**فصل** : في قوله عز وجل فوقهما الله شر  
 ذلك اليوم ولقاها من نصرة وسورا الى آخر  
 صفة اهل الجنة اما قوله فوقهما الله شر  
 ذلك اليوم يعنى يوم القيامة لقيهم فيه  
 شدة الحساب وهول جهنم اذا جئوا بها في  
 عرصات القيامة يقودها تسعة عشر خازنا  
 من الملائكة مع كل خازن منهم سبعون  
 ألف ملك اعوان له غلاظ شهداء كالمحة  
 انباهم اعينهم كالجبر والوانهم كلب  
 النار ليقود من ما خروهم لهاب ودخان عال

ہیوی کے سامنے نگاہ ڈالتا ہے تو اس کی پٹریں اور گوشت  
 سے اس کا جگر نظر آجاتا ہے لہذا ہیوی کا جگر مرو کے  
 لئے اور مرو کا جگر ہیوی کے لئے آئینہ ہے اسے اپنی حور کا جگر  
 اس کے جسم کے اندر اسی طرح دکھائی دیتا ہے جیسے یا قوت  
 میں پر دیا ہوا دھاگہ دکھائی دیتا ہے۔ مرجان کی طرح ان کا  
 بدن گورا ہے اور یا قوت کی آب و تاب کی طرح ان پر  
 آب و تاب ہے حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا گو یا وہ یا قوت اور  
 مرجان (مونگا) ہیں۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جنت والوں  
 کی سواریاں اونٹ اور گھوڑے ہوں گے ہر اونٹ کا پاؤں  
 ہر گھوڑے کا کھنٹھانے نگاہ تک پڑتا ہے یہ موتیوں اور  
 یا قوت سے پیدا کئے گئے ہیں اور ہر جانور کی جسامت ستر میل ہے  
 اونٹوں کی نیکیں اور گھوڑوں کی لگامیں مرو اور پروز برجد سے  
 بنی ہوئی ہیں حق تعالیٰ شانہ ہمیں بھی اپنی نوازشوں اور کرم  
 فرمائیوں سے جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔

حق تعالیٰ کا مومنوں کا خیر مقدم فرمانا | حق تعالیٰ اجل شانہ  
 نے فرمایا پھر انہیں (مومنوں کو) اللہ تعالیٰ اس دن کی برائی سے  
 بچائے گا اور ان سے خندہ پیشانی اور مسرت سے ان سے ملاقات  
 فرمائے گا۔ دن سے قیامت کا دن مراد ہے اور برائی سے حساب کی  
 سختی اور جہنم کے ہول مراد ہیں جب کہ دوزخ کوہ اخازن قیامت  
 کے میدان میں کھینچ کر لائیں گے اور ہر خازن کے سات ستر ستر ہزار  
 معاون ہونگے جو سنگدل اور طاقتور ہوں گے جن کے دانت باہر کو  
 نکلے ہوئے ہونگے، آگ کے انگاروں کی طرح آنکھیں ہوں گی، آگ  
 کے شعلوں کی طرح رنگ ہوں گے ان کے نتھنوں سے انگارے اور  
 دھواں نکلے گا جو کافی بلند ہوگا یہ فرشتے حق تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری

مستعدین لا مر الجبار تبارک وتعالیٰ فیقودھا کل  
 خازن و اعوانہ یوثاق و سلسلۃ عظیمۃ فتارة  
 یبشون عن یبئزھا و اخری عن شمالھا و مرتة  
 من وراثھا یبد کل ملک منهم مقمع من حدید  
 یصیحون بہا قنشی ولھا زفر و شہیق و عث  
 و ظلمة و دخان و قعقعة و لہب عال من شدت  
 غضبھا علی اہلھا فینبیوتھا بین الجنة و  
 الموقف فترفع طرفھا فنظر الی الخلاق ثم  
 تجمع الیہم لتاکلہم فتجسہا الخزنۃ بسلاحھا  
 ولو ترکت لاتت علی کل مؤمن و کافر فاذا  
 رأت انہا قد حبست عن الخلاق فارت فورۃ  
 شدیدة کادت تیز من الغیظ ثم شہقت  
 الثانية فسمعت الخلاق صوت صریف استانہا  
 فارتعدت عند ذلک الافئدة و انخلعت القلوب  
 و طارت الافئدة و شخصت الابصار و بلغت  
 القلوب الحناجر ثم تزفر زفرة فلا یبقی ملک  
 مقرب ولا نبی مرسل ولا احد ممن شہد  
 الموقف الا جتا علی رکبتیہ ثم تزفر اخری  
 فلا تبقی قطرة فی عین احد الا بدت ثم  
 تزفر الثالثة فلو کان لکل آدمی ادحی عمل  
 اثین و سبعین نبیا لظنوا انہم موارقوھا  
 لا یبجون منها ثم تزفر الرابعة فلا یبقی  
 شیء الا القطع کلامہ و یتعلق جبریل و میکائیل  
 و خلیل الرحمن عز و جل بالعرش یقول کل  
 واحد منهم نفسی نفسی لا اسالک غیرھا

کے لئے ہر وقت کمر بستہ اور تیار رہتے ہیں دوزخ کو تمام خازن اور  
 ان کے معاونین مضبوط رسیوں اور عظیم زنجیر سے جکڑ لائیں گے  
 اور اس کے کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی پیچھے چلیں گے ہر فرشتے کے  
 ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا اس سے دوزخ کو کڑکے کہہ مانگیں گے  
 پھر وہ چیختی چلاتی اور شور و غل مچاتی ہوئی چلے گی اور غصہ میں بھری  
 ہوئی ہوگی اور تاریکی اور دھوئیں سے اٹی ہوئی ہوگی اور دانت  
 پیستی ہوگی اور اہل جہنم پر فرط غضب کی وجہ سے اس کے شعاع آسمان  
 سے باتیں کرتے ہوئے فرشتے اسے جنت و موقف کے درمیان نصب  
 کر دیں گے پھر یہ نگاہ اٹھا کر موقف والوں کو دیکھے گی پھر ان کی  
 طرف انہیں کھانے کے لئے تیزی سے لپکے گی لیکن زنجیروں کی مدد  
 خازن اسے روک لیں گے اگر چھوڑ دی جائے تو ہر مؤمن و کافر کو  
 ہر طرف کر جائے پھر جب اسے یقین ہو جائے گا کہ میں لوگوں سے  
 روک دی گئی تو ایک خونناک و عظیم جوش مارے گی جیسے غیظ و  
 غضب سے پھٹ جائیگی پھر دوسری بار کڑکے گی اور لوگ اس کے  
 دانت پیسنے کی آواز سنیں گے اس وقت لوگوں کے دل کانپ  
 اٹھیں گے اور کھینچنے کو آجائیں گے اور دل اڑنے لگیں گے اور  
 آنکھیں چڑھ جائیں گی اور سانسیں رک جائیں گی پھر پہلی بار  
 کڑکے گی تو ہر شخص گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا خواہ مقرب فرشتہ  
 ہو یا اول العزم پیغمبر پھر دوسری بار کڑکے گی تو ہر شخص کی آنکھ کا  
 ہر قطرہ گر جائے گا پھر تیسری بار کڑکے گی تو اگر کسی آدمی کے یا  
 جن کے ۷۲ نبیوں کے عملوں کی برابر عمل ہوں وہ بھی خیال کرے گا  
 کہ اب میں اس میں گرے بغیر نہ رہوں گا اور گمان کرے گا کہ اس سے  
 نجات مشکل ہے پھر چوتھی بار کڑکے گی تو ہر چیز دم بخور رہ  
 جائے گی اور چپ ہو جائے گی اور جبریل، میکائیل اور خلیل اللہ  
 عرش کو چپ کر ہر ایک نفسی نفسی پکارے گا یعنی اے اللہ میری



ثم ترحى بشر منبرا كعدد نجوم السماء عظم  
كل شرارة منها كالسحابة العظيمة الطالعة  
من المغرب فيقع ذلك الشر على رؤس الخلائق  
فهذا هو الشر الذي وقاه الله المؤمنين  
الذين يوفون بالنذر ويخافون عذابه ان يقع  
بهم فالله تعالى يكفي اهل التوحيد والايان  
واهل السنة شر ذلك اليوم ولقاهم برحمته  
وسير حسابهم ويدخلهم جنته ويخلصهم  
فيها ابد الاباد بمنه ويزيد الكافرين  
واهل الشرك والاثان شر الى شر وخوفا  
الى خوف وعذابا الى عذاب فيدخلهم  
جهنم ويخلصهم فيها ابد الاباد ثم قال  
عز وجل ولقاهم نصرة وسرورا فالنصرة  
في الوجوه والسرور في القلوب وذلك ان  
المومن اذا خرج من قبر يوم القيامة نظر  
امامه فاذا هو باسنان وجهه مثل الشمس  
بضحك طيب النفس وعليه ثياب بيض و  
على راسه تاج فينظر اليه حتى يبدنو منه  
فيقول: سلام عليك يا ولي الله فيقول: و  
عليك السلام من انت يا عبد الله هل انت  
ملك من الملائكة؟ فيقول لا والله فيقول:  
انت تبي من الانبياء؟ فيقول لا والله فيقول  
انت من المقربين فيقول لا والله فيقول من  
انت فيقول انا عبدك الصالح جئت البشرك  
بالجنة والنجاة من النار فيقول له يا عبد الله

جان بچالے میں کچھ اور سوال نہیں کرتا پھر اس سے آسمان کے تاروں  
کی تعداد میں بے شمار انگارے ادھر ادھر اڑیں گے اور ہر  
انگارے کی جسامت ایک بڑے ابر کے جو مغرب سے اٹھا ہے  
برابر ہوگی اور یہ انگارے موقف والوں کے سروں پر پڑیں گے  
یہی وہ برائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو  
بچالیا ہے جو اپنی نذر میں پوری کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب  
ڈرتے ہیں کہ ان پر واقع ہو، حتیٰ تعالیٰ سبحانہ توحید پرستوں کو  
ایمان والوں کو اور اہل سنت کو اس دن کی برائی سے بچالے گا  
اور انہیں اپنی عنایت و مہربانی سے اور نوازش و کرم سے  
نوازے گا اور ان کا حساب آسان فرما دیگا اور اپنی کرم فرمایا  
سے انہیں ہمیشہ ہمیش کے لئے جنت میں داخل فرما دیگا اور کافروں  
مشرکوں اور بت پرستوں کے شر میں اور اعدائے فرما دے گا اور  
ان پر خوف پر خوف اور عذاب پر عذاب بڑھا دے گا چنانچہ  
انہیں جہنم رسید فرما دے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنمی بنا  
دیگا۔ پھر فرمایا: اور نصرت و سرور سے ان سے ملے گا چہروں کی  
کھلاوٹ کو نصرت سے اور ولوں کی کھلاوٹ کو سرور سے تعبیر  
کیا جاتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب قیامت کے دن مومن  
اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اپنے آگے ایک شخص کو دیکھیں گے  
کہ اس کا رخ نور آفتاب عالمتاب کو شمارا رہا ہے اس کے چہرے  
پر بھی نشاوت ہے اور دل میں بھی بے پناہ مسرت ہے سفید لیا  
زیب بدن ہے اور سبز نیاز ہے یہ شخص مومن کو دیکھ کر اس کے  
پاس آئے گا اور اسے سلام کرے گا کہ اے اللہ کے ولی سلام  
علیک، مومن کے گا وعلیک اسلام بندہ حق! آپ کون ہیں  
کیا آپ فرشتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں میں فرشتہ نہیں پوچھے گا پھر  
آپ کون ہیں؟ کیا نبی ہیں؟ پوچھے گا کیا آپ مقرب حضرات



اتعلم ذلك فتبشرني فيقول نعم فيقول ما تريد مني  
 فيقول له اركبني فيقول له سبحان الله ما ينبغي  
 مثلك ان يركب عليه فيقول بلى فاني طامسك  
 في دار الدنيا فاني اسالك بوجه الله الاما ركبني  
 فيركبه فيقول له لا تخف انا دليلك الى الجنة  
 فيفرح فيتبين ذلك الفرح في وجهه حتى يلاذ  
 ويرى فيه النور والسرور في قلبه فذلك قوله  
 عز وجل ولقاهم نصرته وسرورا واما الكافر  
 فاذا اخرج من قبره نظر امامه فاذا هو برجل  
 تبيح الوجه ازرق العينين اسود اشد سوادا  
 من القبر في ليلة مظلمة وثيابه سود يجرا ثيابه  
 في الارض يبدي بديدة الرعد وريحية اذن  
 من الخيفة يقول من انت يا عبد الله ويريد  
 ان يعرض عنه بوجهه فيقول يا عدو الله الى  
 انت لي وانا لك اليوم فقال ويجلب الشيطان  
 انت فيقول لا والله ولا كني عليك الطالم  
 فيقول ما تريد مني فيقول اريد ان اركبك  
 فيقول له انشدك بالله مهلا فانك تفضحني  
 على رؤوس الخلائق فيقول والله ما منه بد  
 فطالما ركبني فانا اليوم اركبك قال فيركبه  
 فذلك قوله عز وجل وهم يحملون اوزارهم  
 على ظهورهم الاساء ما يزررون ثم ذكر  
 عز وجل اولياءه فقال وجزاهم بعد البشارة  
 بما صبروا على البلاء واداء الاوامر وانتصار  
 المناهي والتسليم في القدر جنة وحريرا اما

میں سے ہیں کہے گا نہیں پوچھے گا: پھر آپ کون ہیں؟ کہے گا: میں  
 آپ کا ٹیک عمل ہوں میں آپ کے پاس یہ مژدہ لیکر آیا ہوں کہ  
 آپ کو جنت اور جہنم سے نجات مبارک ہو، پوچھے گا اسے اللہ کے  
 بندے کیا تھے اس کا علم ہے جو مجھے مژدہ سناتا ہے کہے گا: ہاں  
 پوچھے گا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عرض کرے گا آپ مجھ پر سوار ہو  
 جائیں اور میں کہے گا سبحان اللہ آپ جیسے معزز شخص پر سوار ہونا مجھے  
 لائق نہیں کہے گا: کیوں نہیں ہیں دنیا میں ایک طویل زمانہ تک آپ  
 پر سوار رہا اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ آپ مجھ پر  
 سوار ہوں، یہ اس پر سوار ہو جائیگا وہ شخص کہے گا آپ ڈریں  
 نہیں میں جنت تک آپ کا رہبر ہوں یہ سن کر مومن خوش ہوگا اور  
 اس کی دل کی مسرت اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی اور اس کا چہرہ  
 کھل جائیگا اور اس پر ایک مخصوص رونق آجائیگی اسی سرور و  
 نور کی طرف حق تعالیٰ شانہ نے ولقاهم نصرته وسرورا سے اشارت  
 فرمایا ہے اس کے برعکس کافر جب اپنی قبر سے نکلتا ہے تو اپنے آگے ایک  
 بد صورت کنجی آنکھوں والے گھناؤنے اور سخت سیاہ شخص کو دیکھتا ہے  
 جس کی سیاہی سخت اندھیری رات میں قبر کی سیاہی سے بھی زیادہ ہوتی  
 اس کے کپڑے بھی سیاہ بھٹ ہوتے ہیں اور نیچے کے دانت زمین گھسٹتے  
 ہوتے ہیں اور کڑک کی طرح چیختا چلاتا ہے اور اس سے بدبو سر ملتا  
 ہوئی لاش سے بھی زیادہ آتی ہے پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے تو  
 کون ہے؟ اور اس سے اپنا منہ پھیرنا چاہتا ہے یہ شخص جواب دیتا ہے  
 ہے کہ اے اللہ کے دشمن میری طرف آ، میرے پاس آ، آج تو میرا  
 ہے اور میں تیرا ہوں، یہ کہتا ہے تجھے اللہ غارت کرے کیا تو شیطان  
 ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں شیطان نہیں بلکہ تیرا برا عمل ہوں کہتا ہے  
 کبنت تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تجھ پر  
 سوار ہونا چاہتا ہوں یہ کہتا ہے ارے بد بخت اللہ کے لئے مجھے



الجنة فيتنعون فيها واما الحرير فيلبسوت  
قال متكئين فيها يعني في الجنة على الارائك  
يعني السرر عليها المحجال يعني الستر لا يرون  
فيها شمس ولا زمهرير يعني ولا يصببهم  
حر الشمس ولا برد الزمهرير لانه ليس  
فيها شتاء ولا صيف ثم قال عز وجل  
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها  
تذليل يعني ظلال الشجر وذلك ان اهل الجنة  
ياكلون من الفواكه ان شاء وقياموا ان  
شاء واقعدوا وان شاء وانبا ما واذ ارادوا  
دنت منهم حتى ياخذوا منها ثم يقوم  
احد هم قائما وذلك قوله عز وجل وذللت  
قطوفها تذليل ثم قال عز وجل ويطاف  
عليهم باآنية من فضة واكواب فلهي  
الاكواب يعني الكيزان مداورة المروس  
التي ليست لها عرا وقال عز وجل قواريرا  
يعني هي قوارير ولكنها من فضة وذلك  
ان قوارير الدنيا من ترابها وقوارير الجنة  
من فضة قدرها تقدير يعني قدرت  
الاكواب على الاناء وقد رال اناء على كف  
الخادم على رى القوم اذا اسقوها لم يبق  
فيها شيء ولم يزد عليه فكانت قدرا  
على الاناء وكف الخادم ورى القوم فذلك  
قوله تعالى قدرها تقدير او قال تعالى  
وليبقون فيها كماها يعني خمر او كل اناء

چھوڑ دے تو تمام دنیا کے سامنے مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے وہ جواب  
دیتا ہے کہ اللہ کی قسم سوار ہوئے بغیر جا رہا نہیں دنیا میں ایک طویل مدت  
تک تو مجھ پر سوار رہا آج میری باری ہے میں تجھ پر سوار ہوئے بغیر  
نہ ہوں گا پھر وہ اس پر سوار ہو جاتا ہے اسی سلسلہ میں حق تعالیٰ فرماتا ہے  
ہے اور وہ کافر اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر لاوے ہوئے ہوں گے  
دیکھو وہ چیز بدترین ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں پھر حق تعالیٰ نے  
اپنے اولیاء کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت کے بعد  
مصائب پر ادا مرونوا ہی کے بجلانے پر اور تقدیر پر صبر کرنے کی  
وجہ سے جنت اور لثیم عطا فرمایا آج وہ جنت میں موج اڑا رہے  
ہیں اور لثیم لباس سے آراستہ ہیں اور جنت میں تختوں پر جن کے  
اد پر پردے ٹکے ہوئے ہیں ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور جنت میں  
دھوپ اور پالا نہیں دیکھتے کیونکہ جنت میں نہ تو جاڑا ہے اور نہ ہی  
گرمی اور درختوں کے سائے ان کے قریب ہیں اور ان کے پیروں ان  
کے حلم کے مطیع ہیں کیونکہ جنت والے جنتی درختوں کے پھل کھڑے ہو کر  
بیٹھ کر اور لیٹ کر جس طرح سے چاہیں کھائیں گے جس میٹ میں بھی  
ان کی خواہش کریں گے پھل دا شاخ بالکل قریب اور سامنے آ کر  
چھک جائے گی حتیٰ کہ وہ اس سے پھل توڑ کر کھالیں گے پھر وہ کھڑے  
ہو جائیں گے اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ ان کے پھل  
اہل جنت کے تابع بنادئے گئے ہیں آگے حق تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان  
پر چاندی کے برتنوں کا اور شیشے کے آبخوروں کا اور چلتا ہے ان  
آبخوروں کے بالائی سر سے گول ہوں گے اور انہیں کپڑے کی ڈنڈیاں  
نہ ہونگی اور یہ آبخور سے چاندی کے ہوں گے اور ان کی چاندی شیشے  
کی طرح چمکتی ہوئی ہوگی کیونکہ دنیا میں شیشے مٹی سے بنتے ہیں اور  
جنت کے شیشے چاندی سے بنے ہوئے ہیں اور انہیں برتنوں کے  
انداز سے پر بنایا گیا ہے اور برتن اتنا بنایا گیا جو خادم کی متھیلی پر

لا خمر فيه فليس هو بكأس وقال تعالى كان  
مزا جها زنجبيلاً یعنی کلهما قد مزج فیہا  
الزنجبیل ثم قال عز وجل عینا فیہا تسمى سلسیلا  
یسئل علیہم من جنة عدن فتمر علی کل جنة  
ثم ترجع تعمر الجنة کلهما قال تعالى ویطوف  
علیہم ولدان مخلصون فالولدان هم الغلمان  
الذین لا یشیبون ابد افہم مخلصون یعنی لا  
یمتلون ولا یکبرون ابد اعلمان اذا رأیتہم  
حسبتہم لؤلؤا فی الحسن والبیاض متشورا فی  
الکثرة یعنی مثل اللؤلؤ المنثور الذی لا یدری  
ما عددہ ثم قال عز وجل واذا رأیت ثم  
یعنی ہنالک من الجنة رأیت نعیماً و ملکاً کبیراً و  
ذلک ان رجلاً من اهل الجنة لہ قصر فی ذلک القصر  
سبعون قصراً فی کل قصر سبعون بیتاً کل بیت  
من لؤلؤة مجوفة طولہا فی السماء فرسخ وعرضہا  
فرسخ فی فرسخ علیہا الربعة آلاف مصراع من  
ذهب فی ذلک البیت سریر منسوج بقضبان اللؤلؤ  
والیاقوت عن ینین السریر وعن ینارہ والربعة  
آلاف کرسی من ذهب قوائمہا من یاقوت احمر  
علی ذلک السریر سبعون فراشا کل فراش علی  
لون وهو منکئی علی ینارہ علیہ سبعون حلة  
من دیباج الذی یلی جسد لا حریرة بیضاء وعلی  
جبہتہ اکلیل مکل بالزبرجد والیاقوت  
والوان الجواہر کل جوہرۃ علی لون وعلی  
راسہ تاج من ذهب فیہ سبعون زاویة

آجائے اور اس میں اتنا مشروب آئے جو پینے والے سے بچے نہیں اور  
انہیں سیراب بھی کر دے لہذا ان کا اندازہ برتن کے اندازے کے اور  
خادم کے کف دست کے اندازے کے اور جنتی کی سیرابی کے اندازے کے  
مطابق ہے پھر حق تعالیٰ نے فرمایا اور اہل جنت کو جنت میں شراب پلانے  
جائیگی کیونکہ اگر جام میں علاوہ شراب کے کوئی اور مشروب ہو وہ عربی  
زبان میں کاس نہیں کہلاتا کاس اسی جام کہتے ہیں جس میں شراب ہو پھر  
فرمایا کہ اس شراب میں سوٹھ کی آمیزش ہوگی سوٹھ کا جنت میں ایک  
چشمہ ہے جس کو سلسیل کہا جاتا ہے جس کا منبع جنت عدن ہے اور ہر  
جنت سے گزرتا ہے اور تمام جنت والوں کو سیراب کرتا ہوا عدن  
ہی کی طرف لوٹ آتا ہے پھر فرمایا اور ان کے پاس وہ بچے جو ہمیشہ بچے  
ہی رہیں گے گھومتے رہیں گے یہاں بچوں سے وہ غلمان مراد ہیں جن پر  
کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا اور نہ کبھی وہ بالغ اور جوان ہوں گے  
ہمیشہ بچے ہی رہیں گے اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو کہ  
خیال کرو گے کہ کسی نے بے شمار موتی بکھیر دئے ہیں پھر فرمایا جب تم  
وہ جگہ (جنت) دیکھو گے تو تم نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑا ملک دیکھو گے  
کیونکہ ہر جنتی کا ایک قصر ہوگا اور اس قصر میں ستر ستر قصر ہوں گے  
ہر قصر میں ستر ستر گھر ہوں گے ہر گھر ایک جوف دار موتی کا ہوگا جو تین  
میل لمبا اور تین میل چوڑا ہوگا اور اس میں چار ہزار سونے کے  
دروازے ہوں گے اس میں ایک تخت ہوگا جو سردار بیرونیاقوت کے  
تاروں سے بنا ہوا ہوگا اس تخت کے دائیں بائیں چار ہزار سونے کی  
کرسیاں تریبہ سے رکھی ہوں گی جن کے پائے سرخ یاقوت کے ہوں گے  
اس تخت پر ستر فرش بچھے ہوں گے اور ہر فرش کا ایک مستقل  
اور جدا گانہ رنگ ہوگا اور جنتی اپنے تخت پر بائیں جانب ٹیک لگا کر  
آرام سے تشریف فرما ہوں گے اور ستر خالص ریشم کے جوڑے ہوں گے  
کئے ہوں گے جو ان کے بدن کے مطابق ہوں گے اور جن کا رنگ



فی کل زاویۃ درۃ تساوی مال المشرق والمغرب  
 و فی بیدۃ ثلاثۃ اسورۃ سوار من ذهب و  
 سوار من فضۃ و سوار من لؤلؤ و فی اصابع  
 بیدیہ و رجلیہ خواتم من ذهب و فضۃ  
 فیہ الواح الفصوص و بین بیدیہ عشرۃ آلاف  
 غلام لا یکبرون ولا یشیبون ابدًا و لوضع  
 بین بیدیہ مائدۃ من یاقوتہ حمرۃ طولہا  
 میل و یوضع علی المائدۃ سبعون الف انشاء  
 من ذهب و فضۃ و فی کل اداء سبعون لونا من  
 الطعام فیہ خذ اللقمۃ بیدۃ فیما یخطر علی بالہ  
 غیرہا حتی تتحول اللقمۃ عن جالہا الی المحالۃ  
 الی تیشتیہا و بین بیدیہ غلمان باید بہم  
 اکواب من فضۃ و اوان من فضۃ و معہم  
 الخمر و الماء فیما کل علی قدر اربعین رجلاً من  
 الالوان کلہا فاذا شبع من لون من الطعام  
 سقوا شربۃ مباحۃ من الشربۃ فیہ جشی  
 فیفتۃ اللہ عز و جل علیہ الف باب من الشہوۃ  
 و یشرّب حتی یعرق فاذا عرق القی اللہ علیہ  
 الف باب من الشہوۃ الی الطعام و الشراب  
 و یدخل علیہ الطیر من الالواب کأمثال  
 النجائب العظام فیقومون بین بیدیہ صفا  
 فینعت کل طیر نفسہ بصوت مطرب لذین  
 الذ من کل عناء فی الدنیا یقول یا ولی اللہ کنی  
 فانی کنت ارضی فی کذا و کذا فی دیا ضی  
 الحنۃ و اشرب من عین کذا و کذا فی جملاً

سفید ہوگا اور ان کی پیشانی پر زبرجد و یاقوت سے اور طرح طرح کے  
 رنگ رنگ موتیوں سے جڑاؤ نغز ہوگا اور ہر موتی کا رنگ نرالا  
 ہوگا اور ہر پیرسوں نے کاناچ ہوگا جس میں ستر کرنے ہوں گے اور  
 ہر کونہ میں ایک موتی ہوگا جس کی قیمت تمام دنیا کی دولت کے  
 برابر ہوگی اور ہاتھ میں تین کنگن ہوں گے ایک سونے کا ایک چاندی  
 کا اور ایک موتیوں کا اور ہاتھوں اور پیروں میں سونے اور چاندی  
 کی انگوٹھیاں ہوں گی جن میں قسم قسم کے نگ ہوں گے اور دس ہزار  
 غلمان تیار رہیں گے جو نہ بڑے ہوں گے اور نہ کبھی بوڑھے ہوں گے  
 اور اس کے آگے سرخ یاقوت کی کھانے کی میز رکھی جائے گی جو  
 ایک میل لمبی اور ایک میل چوڑی ہوگی اس میز پر ستر ہزار سونے  
 اور چاندی کے برتن چنے ہوئے ہوں گے اور ہر برتن میں ستر ستر  
 قسم کے کھانے ہوں گے یہ ایک لوالہ توڑیں گے اور ابھی لوالہ  
 ہاتھ ہی میں ہوگا کہ دل میں کسی دوسری قسم کے کھانے کا خیال آئے  
 گا فوراً وہ لوالہ اسی کھانے میں تبدیل ہو جائے گا جس کا خیال  
 دل میں آیا تھا غلمانوں کے ہاتھوں میں چاندی کے آبخور سے اور  
 پیالے ہوں گے اور ان کے پاس شراب پانی اور قسم قسم کے کھانے  
 ہوں گے جتنی بقدر چالیس آدمیوں کے ہر قسم کے کھانوں میں سے  
 کھائے گا جب کھانے کی ایک نوع استعمال کر لے گا تو جس قسم کا  
 مشروب چاہے گا غلمان وہی مشروب اسے پلائیں گے پھر اسے  
 ڈکار آئے گی اور سب ہضم ہو جائے گا پھر حق تعالیٰ اس پر بھوک کے  
 ایک ہزار دروازے کھولے گا یا مشروب پیے گا ختمے کہ اسے پسینہ  
 آنے کے بعد حق تعالیٰ اس پر کھانے پینے کی خواہش کے ایک ہزار  
 دروازے کھول دیگا۔ اور حنیت والوں کے پاس بڑے بڑے اخیل  
 اونٹوں کے قدر کے پرندے آئیں گے اور اس کے سامنے قطار باندھ  
 کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہر پرندہ اپنی مخصوص کیفیت اور قسم

الیہ اصواتہم فیرفع بصرہ فینظر الی اعلاھا  
صوتاً واجودھا لغنا فیشتہیرھا فیعلم اللہ عزو  
جل ما قد استقر فی قلبہ من حبہ فیجیء ذلک  
الطیر فیقع علی المائدۃ لبعضہ قدید وبعضہ  
شوی اشد بیاضاً من الثلج واحلی من العسل  
فیأکل حتی اذا شبع منها واکتفی صا بطیرا  
کما کان فیخرج من الباب الذی کان دخل منه  
فہو علی الاراک وزوجتہ مستقبلتہ ببصر  
وجہہ فی وجہہا من الصفاء والبیاض  
کلما اراد ان یجامعہا نظر الیہا فیبتحی  
منہا ان یدعوہا فتعلم ما یرید منہا زوجہا  
فتدلو الیہ فتقول یا بی وای ارفع رأسک و  
انظر الی فانک الیوم لی وانا لک فیجامعہا  
علی قوتہ مائتۃ رجل من الاولین وعلی شہوتہ  
اربعین رجلاً فلما اتاھا وجدھا عذراء  
لا یفعل عنہا مقدار اربعین یوما فاذا فرغ  
وجد ریح المسک منها فیزداد حباً لہا  
زوجتہ وفیہا لہ اربعۃ آلاف وثمانمائۃ  
مثلاً لکل زوجۃ سبعون خادمہا وحراریۃ  
وروی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ  
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لو  
ان جاریتہ او خادمہ اخرجت الی الدنیا لقتل علیہا اهل  
کلمہ حتی یتفانوا ولو ان الحور العین اخرجت  
ذواتہا فی الارض لا طفات نور الشمس من  
نورہا قیل یا رسول اللہ وکم ین الخادم

آواز میں جو دنیا کی ہر آواز سے پیاری آواز ہوگی اپنا اچھا تعارف کرانے کا اور  
کے گا کہ اے اللہ کے ولی آپ مجھے تبادل فرمائیے میں جنت کے باغوں میں  
اتنی اتنی مدت سے چر رہا ہوں اور فلاں فلاں چشمہ کا پانی پی رہا ہوں اور سر  
پرندہ اپنی اپنی آوازاں کے کالوں تک پہنچانے کا جنتی اپنی نگاہ اٹھا  
کر پرندوں کو دیکھے گا اور جس کی آواز انتہائی پیاری ہوگی اور وہ اپنا  
تعارف کرانے پر خوب قادر ہوگا اسی کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوگا  
حق تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کا دل کس پرندے کے گوشت کو چاہ رہا  
ہے فوراً وہ پرندہ کھانے کی میز پر آگرتا ہے جس کا کچھ گوشت بچا ہوا  
ہوتا ہے اور کچھ بھٹا ہوا جو برف سے زیادہ سفید اور شہد سے  
زیادہ میٹھا ہوتا ہے جنتی اس میں سے کھاتا ہے پھر جب سیر ہو کر  
کھینچ لیتا ہے تو پرندہ حسب سابق بن جاتا ہے اور جس دروازے  
آیا تھا اسی سے پھر سے اُٹ جاتا ہے۔

جنتی اپنے چہرے پر رونق افروز ہیں ان کی بیوی ان کے سامنے  
موجود ہے اس کا چہرہ اس قدر صاف وشفاف اور سفید ہے کہ  
انہیں اس کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے جب یہ اس سے ہٹتا  
ہونا چاہتے ہیں تو اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہیں اور پاس بلانے  
کچھ شرم سے جاتے ہیں اور سر جھکالیتے ہیں بیوی کو ان کے ارادے  
کا علم ہو جاتا ہے اور وہ ان کے پاس آکر عرض کرتی ہے میرے ماں بپ  
آپ پر قربان ہوں ذرا سہراٹھا کر میری طرف دیکھئے کیونکہ آج آپ  
میرے لئے ہیں اور میں آپ کے لئے ہوں یہ وہ اس سے بے فکر ہو جاتے ہیں  
اور ان میں دنیا کے سو مردوں کے برابر اور آخرت کے چالیس مردوں کے  
برابر قوت موجود ہوتی ہے پھر جب اس کے پاس آتے ہیں تو اسے دیکھتے  
باتے ہیں اور بقدر چالیس دن کے ہم لباس و ہیکلارہتے ہیں پھر جب  
ذرا غم ہو جاتے ہیں تو بیوی سے شک جیسی خوشبو کی لپٹیں نکلتی ہیں جن  
سے محبت میں اور امانت ہو جاتا ہے اور آفت میں جا رہا ہے جانتے ہیں



والمخدوم وقال والذي نفسي بيده ان بين  
 الخادم والمخدوم كالكواكب المظلم الى  
 جنب القمر في النصف قال فبينما هو جالس على  
 سريرها اذ لعنت الله عز وجل اليه ملكا معه  
 سبعون حلة كل حلة على لون قد غابت بين  
 اصبعي الملك ومعه التسليم والرضا فيجيء حتى  
 يقوم على بابها فيقول لاجبه ائذن لي على ولي الله  
 فاني رسول رب العالمين اليه فيقول الحاجب والله  
 ما املك منه المناجاة ولكن ساذكرك الى من  
 يليني من المحبة فلا يزالون يذكروا لعضهم  
 الى بعض حتى ياتيهم الخبر بعد سبعين بابا فيقول يا  
 ولي الله ان رسول رب العزة على الباب فيأذن  
 له بالدخول عليه فيدخل الملك فيقول السلام  
 عليك يا ولي الله ان رب العزة عز وجل يقربك  
 السلام وهو عنك راض فلولا ان الله عز وجل  
 لم يقض عليه الموت لمات من الفرح فذلك  
 قوله عز وجل ورضوان من الله اكبر ذلك  
 هو الفوز العظيم وذلك قوله تعالى اذا رايت  
 يعني يا محمد ثم رايت لعيال يعني هنالك النعيم  
 الذي هو قبه وملك كبير حين لا يدخل  
 عليه رسول الله رب العالمين الا باذن ثم قال  
 جل وعلا عاليهم ثياب سندس خفي واسبرق  
 يعني الديباج وانما قال عاليهم لان الذي يلي  
 جسده حريفة بيضاء ثم قال وحلوا اساور  
 من فضة وفي آية اخرى يجلون فيهما من اساور

جنت میں بہر جنتی کی اسی کے ہم مثل چار ہزار آٹھ سو بیویاں ہونگی  
 اور ہر بیوی کی ستر ستر کینیزیں ہونگی جو اس کی خدمت پر مامور ہونگی  
 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی کینیز یا خادم  
 دنیا میں لائی جائے تو تمام دنیا والوں میں ایسی جنگ چھڑ جائے کہ سب  
 فتن ہو جائیں اور اگر کوئی خور اپنی زلفیں دنیا کی طرف لٹکا دے تو اس کے  
 نور سے سورج کا نور ماند پڑ جائے پوچھا گیا: یا رسول اللہ خادم و  
 مخدوم میں کیا تفاوت ہے؟ فرمایا: اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان  
 ہے وہی فرق ہے جو ایک تاریک تار سے میں اور چودھویں رات کے چاند  
 میں فرق ہے فرمایا: اس حال میں کہ جنتی اپنے تخت پر رونق افروز ہوگا  
 کہ اچانک اس کے پاس حق تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جس کے پاس مختلف  
 قسم کے ستر جوڑے ہونگے اور اتنے لطیف زمین ہونگے کہ فرشتہ کی دو انگلیوں  
 میں غائب ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ تسلیم و رضا بھی ہوگی فرشتہ  
 آکر دروازے پر کھڑا ہو جائیگا اور دربان سے کہے گا کہ میرے لئے اللہ کے  
 دلی سے اندر لانے کی اجازت لے آ کیونکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف  
 سے بھیجا ہوا ان کے پاس آیا ہوں دربان کہے گا اللہ کی قسم مجھے ان  
 سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہاں میں اپنے پاس والے دوسرے دربانوں  
 سے آپ کا ذکر کئے دیتا ہوں چنانچہ ایک دربان سے دوسرے دربان تک  
 اور دوسرے سے تیسرے تک علیٰ ہذا القیاس ستر دروازوں کے بعد  
 جنتی کو خبر ہو جاتی ہے اخیر کا دربان عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے ولی  
 رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ایک قاصد دروازے پر ہے اور  
 وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اجازت مل جاتی ہے فرشتہ اندر  
 آ کر سلام کرتا ہے کہ اے اللہ کے ولی السلام علیک رب العزت جل جلالہ  
 آپ کو سلام فرماتا ہے اور وہ آپ سے راضی ہے اگر اللہ نے حیات دائمی کا  
 فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ اللہ کا دلی مارے خوشی کے مرجانا حق تعالیٰ نے  
 فرمایا اور اللہ کی طرف رضا کی (بشارت) بہت بڑی ہے اور یہ ایک

من ذهب ولؤلؤا فہی ثلاث اسوۃ ثم قال  
عز وجل وسقاہم ربہم شیبا طہورا و  
ذلک ان علی باب الجنة شجرة بیع من ساقھا  
عینان فاذا جاز الرجل الصراط الی العینین  
یدخل فی عین منھا فیغسل فیھا وریحہ اطیب  
من المسک طولہ سبعون ذراعاً فی السماء علی طول  
آدم علیہ السلام فاهل الجنة کلہم رجالہم  
ونسائہم علی قدر واحد فی میلاد عیسیٰ علیہ  
السلام ابناء ثلاث و ثلاثین سنة یکبر الصغیر  
حتی یمیر ابن ثلاث و ثلاثین سنة و ینحط  
الشیخ عن حالہ الی ثلاث و ثلاثین سنة کلہم  
رجالہم و نسائہم علی قدر واحد فی حسن یوسف  
بن یعقوب علیہما السلام و یشرب من العینین  
الآخری فینفی ما فی صدرہ من غل او ہم او  
حسد او حزن فیظہر اللہ عز وجل قلبہ بذلک  
الماء فیخرج و قلبہ علی قلب الیوب و لسانہ علی  
لسان محمد صلی اللہ علیہما وسلم عربی ثم  
ینطلقون حتی یاتوا الباب فتقول لہم الخزنة  
طبتہم فیقولون نعم فیقولون ادخلوها خالدین  
بیشرونہم بالخورد قبل الدخول بانہم لا  
یخرجون ابد افاول ما یدخل من باب الجنة  
ومعہ الملکان اللذان کانا معہ فی دار الدنیا  
الکرام الکاتبین فاذا ہو بملک معہ نجیبة  
من یا قوتہ خضر اء کان زمامہا من یا قوتہ  
خضر اء و علیہا راحلۃ مقدمہا مؤخرہا

عظیم کمرانی ہے۔ فرمایا اسے محمد و صلعم جب آپ وہ جگہ دیکھیں گے تو اس  
جگہ وہ نعمتیں دیکھیں گے جو دہاں موجود ہیں اور ایک بڑا ملک دیکھیں گے  
جہاں رب العالمین کا قد صد کھن بلا اجازت کے نہیں جاسکتا پھر حق تعالیٰ  
نے فرمایا ان کے اوپر سبز دیباچ کے کپڑے ہیں اور نیچے سفید ریشم کے  
ان کے اوپر سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کے جسم سے ملا ہوا  
سفید ریشم ہے پھر فرمایا اور انہیں چاندی کے لنگنوں سے آراستہ کیا گیا  
دوسری آیت میں فرمایا: انیس جنت میں سونے اور موتیوں کے لنگنوں سے  
آراستہ کیا جائیگا معلوم ہوا کہ تین قسم کے لنگن پہنائے جائیں گے چاندی  
کے سونے کے اور موتیوں کے پھر فرمایا: اور انہیں ان کا رب پاکیزہ  
شراب پلائیگا پاکیزہ جنت کے دروازے پر ایک درخت ہے جس کے  
تہ سے ذرچشمے جاری ہیں مومن پھر اس سے عبور کر کے ان دروں  
چشموں پر پہنچتا ہے ایک چشمہ میں نہاتا ہے اس کے پانی میں جو خوشبو  
ہے وہ شک سے زیادہ پیاری اور مشام افزہ ہے اس چشمہ کی بندگی  
، گز ہے اتنا ہی تقریباً حضرت آدم کا قدر ہے لہذا تمام جنتی خواہ  
مرد ہوں یا خواتین ہم عمر ہونگے اور حضرت عیسیٰ کی عمر کی طرح ۳۳، ۳۳  
سال کے ہونگے بچے کی بھی عمر ۳۳ سال ہوگی اور لہوڑھے کی بھی عمر ہوگی  
اور سب حضرت یوسف کی طرح حسین و جمیل ہونگے خواہ مرد ہوں یا خواتین  
اور جنتی دوسرے چشمہ سے پانی پئیں گے اس پانی سے دل کی تمام کدورتیں  
کٹنے، حسد پر لٹائیاں اور غم و آلام باہر آجائیں گے اور سینہ صاف  
شفاف آئینہ کی طرح ہو جائیگا اور حق تعالیٰ جل مجدہ اس پانی سے ان کا  
سینہ پاک فرمادینا اب ان کے دل حضرت الیوت کے دل کی طرح پاک صاف  
ہونگے اور ان کی زبانیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی طرح ہونگی۔  
اب یہ پاک و صاف ہو کر جنت کی طرف بڑھیں گے حتیٰ کہ جنت کے  
دروازے پر پہنچ جائیں گے محافظین جنت ان سے پوچھیں گے کیا تم  
پاکیزہ ہو کہ آئے ہو یہ کہیں گے ہاں، محافظ کہیں گے آئیے اور جنت میں



در و یا قوت و صحفتاها الذهب والفضة  
ومعه سبعون حلة فیلبسها ویضع علی  
رأسه التاج ومعه عشرة آلاف غلام كاللؤلؤ  
المکنون فیقول یا ولی اللہ اربک فان هذا لك  
ولك مثلها فیركبها ولها جناحان خطو  
منتھی البصر فیسیر علی نجیة و بین ید ید عشرتہ  
آلاف غلام ومعه الملائک اللذان كانا معه  
فی الدنیا حتی یاتی الی قصره لا ینزلها ثم قال  
عز وجل ان هذا الذی وصفت لکم فی هذا  
الصورة السورة كان لکم جزاء لاعمالکم  
من حسن الثواب وکان سعیکم ای عملکم  
مشکوراً یعنی شکر اللہ عز وجل اعمالکم  
فأتابکم الجنة -

ہمیشہ ہمیش کے لئے داخل ہو جائیے وہ انہیں جنت میں جانے سے  
پہلے دوام کا مزہ سنائیں گے کہ وہ کبھی اس سے نکلنے والے نہیں جب وہ  
جنت کے پہلے دروازے میں قدم رکھیں گے تو ان کے ساتھ وہ دو فرشتے  
ہوں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ اعمال نامہ لکھنے کے لئے رہا کرتے تھے  
یعنی لکھنے والے بزرگ فرشتے پھر اچانک جنتی کے سامنے ایک فرشتہ  
آتا ہے جس کے ساتھ سبز یا قوت کا ایک اونٹ ہوتا ہے گویا اسکی  
بیل سرخ یا قوت کی ہے اور اس پر ایک پالان ہے جس کے آگے چھ  
سوتی اور یا قوت کی جھالڑکی ہوتی ہے اور دونوں پہلوؤں پر چاند  
اور سونے کا کام ہے اور اس کے ساتھ ستر جوڑے بھی ہیں اللہ کا ولی  
ستر جوڑے پہن لیتا ہے اور سر پر تاج رکھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ  
دس ہزار عثمان بھی ہیں جو خوبصورتی میں چھپے ہوئے موتیوں کی طرح  
ہیں فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے ولی اس پر سوار ہو جائیے  
یہ آپ کے لئے ہے اور اس جیسی اور کبھی سوار یاں آپکی ہیں چنانچہ وہ

اس پر سوار ہو جاتا ہے اس کے دو پر بھی ہیں اور اس کا ایک ایک قدم منتھائے نگاہ تک پڑتا ہے آخر کار یہ اللہ کا ولی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر  
چل پڑتا ہے اور اس کے آگے آگے دس ہزار عثمان چل رہے ہیں اور اسکے ساتھ اعمال نامہ لکھنے والے دو فرشتے بھی ہیں جو دنیا میں بھی اسکے ساتھ رہا کرتے  
تھے حتیٰ کہ وہ اس پر سکھوہ جلوس میں اپنے گھڑ پہنچ جاتا ہے اور گھڑ میں آرام سے جا اترتا ہے پھر حق تعالیٰ جل مجدہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لئے جو کچھ  
اس سورت میں بیان کیا یہ حسن ثواب تمہارے عملوں کے عوض ہیں بہتر ہے اور تمہارے عملوں کی قدر دانی کی گئی ہے کہ تمہیں ان کے عوض جنت ملی ہے

## گیارہواں باب

### مہینوں کے اور برکت والے دنوں کے فضائل

(۱) ماہِ رجب کی فضیلت | حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ کے نزدیک  
روح محفوظ میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے جب سے حق تعالیٰ نے آسمان

مجلس: فی فضائل شہر رجب قال اللہ عز وجل ان عدۃ الشہور عند اللہ  
اثنا عشر شہراً فی کتاب اللہ یوم خلق السموات

والارض منها الربعة حرم بسبب نزول هذه  
 الآية ان المؤمنين ساروا من المدينة الى اهل  
 مكة قيل ان يقم على رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم فقالوا انا نخاف ان يقاتلنا كفار مكة  
 في شهر حرام فانزل الله تعالى ان عدو الشهر  
 عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يعني  
 في اللوح المحفوظ ليوم خلق السموات والارض  
 منها الربعة حرم يعني رجب وذا القعدة  
 وذا الحجة والمحرم واحد فرد وهو  
 رجب وثلاثة سرد متتابعة ذلك الدين  
 القيم يعني الحساب القيم المستقيم فلا  
 تظلموا فيهن الفسكم يعني في الاشهر الحرم  
 خص الله تعالى بالنهي هذه الربعة اشهر  
 ليبين لنا تمييزها لعظم حرمتها وتأكيد  
 امرها بالنهي عن الظلم فيها على غيرها  
 من الشهور وان كان الظلم متبعا عنه في  
 سائر الشهور كما قال الله تعالى حافظوا على  
 الصلوات والصلوة الوسطى امر بالمحافظة  
 على الصلوة الوسطى وهي العصر وان كان الامر  
 شاملا في المحافظة لجميع الصلوة وانما فرد  
 الوسطى بالصلوة بالذكر لما ذكرنا من  
 الاختصاص والتمييز في الحرمة والتأكيد يعني  
 بالظلم لا تقتلوا فيهن احد من مشركي العرب  
 الا ان يبيدوا وكم بالقتل وقال البوزيد رحمه  
 الله الظلم هو الترك لطاعة الله تعالى والعمل

زمین پیدا کیے ہیں اور ان میں چار حرمت والے مہینے بھی ہیں اس آیت  
 کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمان فتح مکہ سے قبل مدینہ روانہ ہوئے  
 انہوں نے سوچا کہ کہیں حرمت والے مہینہ میں مکہ کے کافر ہم سے جنگ نہ  
 کر بیٹھیں اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ لوح محفوظ میں اللہ  
 کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان  
 پیدا فرمائے ہیں ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یعنی رجب  
 ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم ان میں ایسا مہینہ (رجب) اکیلا ہے اور تین  
 ماہ لگاتار ہیں یعنی ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور محرم یہ سیدھا حساب  
 ہے لہذا ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرواؤ  
 تعالیٰ اجل مجددہ نے خاص طور سے سال بھر میں یہ چار مہینے حرام فرمائے  
 ہیں تاکہ یہ مہینے ممتاز رہیں اور ان کے احترام کی عظمت ثابت ہو  
 اور خاص طور سے حکم فرمایا کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرواؤ اگرچہ ظلم تمام  
 مہینوں میں حرام ہے تاکہ ان کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو جسے  
 فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز عصر کی بھی  
 اس آیت میں خاص طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کا حکم فرمایا  
 اگرچہ پنجگانہ نمازوں کی حفاظت میں یہ حکم شامل تھا لیکن درمیانی  
 نماز کو انفرادی طور پر ذکر کیا تاکہ خصوصیت کا اظہار ہو تاکہ احترام  
 و تائید میں امتیاز ہو ظلم کا یہ مطلب ہے کہ ان مہینوں میں عرب کے کسی  
 مشرک کو قتل نہ کروا لے کہ وہ خود ہی جنگ کی ابتداء کریں تو پھر  
 تم بھی بطور دفاع کے جنگ کر سکتے ہو لیکن البوزید فرماتے ہیں کہ  
 یہاں ظلم سے ترک ادا امر اور ارتکاب تو اسی مراد ہے بعض علماء کے  
 نزدیک ظلم یہ ہے کہ کسی فنے کو اس کے غیر محل میں رکھ دیا جائے اس کا  
 مال بھی وہی ہے جو البوزید کا قول ہے پھر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ  
 تمام مشرکوں سے جنگ کرو جیسے وہ تم سب سے جنگ کرتے ہیں  
 یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ (مدد کرنے میں) پرہیزگاروں کے ساتھ ہے



بعمامی اللہ عزوجل وقال غیرہ هو وضع الشیء  
 فی غیر موضعه وهو راجع الی ذلك ثم قال تعالیٰ  
 وقاتلوا المشرکین یعنی کفار مکة کافرة  
 جمیعا كما یقاتلونکم کافرة یعنی ان قاتلوکم  
 فی الشهر الحرام فقاتلوهم جمیعا واعلموا  
 ان اللہ فی النصر مع المتقین واختلف اهل  
 التفسیر فی الدین القیم فقال مقاتل رحمہ اللہ  
 الدین القیم هو الدین الحق وقال آخرون  
 هو الدین الصادق وهو دین الاسلام وقال  
 آخرون هو دین الحنیفیة وقال آخرون  
 الدین القیم هو الذی امر اللہ بہ المسلمین۔  
**فصل** رجب هو اسم من الاسماء المشتقة  
 واشتقاقه من الترجیب والترجیب هو التعظیم  
 عند العرب یقال رجبیت هذا الشهر اذا عظمتہ  
 ومن ذلك قول الحباب بن المنذر بن الجموح یوم  
 ستینة بنی ساعدة یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم واختلف المهاجرون والانصار  
 فی امیر ینصبونہ فقالت الانصار منا امیر  
 ومنکم امیر القصة المشہورة فقضب الحباب  
 فسل سیفہ وقال انا جذبیلہا المحکک و  
 عند یقہا المرجب ای انا العظیم فی قوہی  
 المطاع فیہم والعذیق تصغیر عذق وهو  
 النخلة الکریمة علی اهلہا کالوا یعدونہا  
 اذا مالت لئلا تسقط والرجبة البناء الذی  
 یکون حول النخلة وقوله جذبیلہا المحکک

دین قیم کی تفسیر اس کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے

بقول مقاتل دین قیم برحق دین ہے بعض

کے نزدیک دین قیم سچا دین (اسلام) ہے، بعض کے نزدیک  
 درمیانی دین ہے اور بعض کے نزدیک وہ دین ہے جس کا حق تعالیٰ نے  
 مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے۔

رجب کو رجب کہنے کی وجہ رجب ایک مشتق اسم ہے

اور یہ ترجیب (تعظیم) سے بنا ہے محاورہ ہے رجبیت هذا

اشتر یعنی میں نے اس مہینے کی تعظیم کی۔ حباب بن منذر بن

جموح نے سقیفہ بنو ساعدہ کے دن جس دن سرور عالم صلعم ونبی

سے رخصت ہوئے تھے اور مهاجرین و انصار میں خلیفہ کے

بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور انصار نے مهاجرین

سے کہہ دیا تھا کہ ایک امیر تمہارا ہوگا اور ایک ہمارا۔ غصہ میں

بھڑک کر تلوار سونت لی اور فرمایا: میں اس قبیلہ کی وہ لکڑی ہوں

جس سے ٹپھیں کھجائی جاتی ہیں اور میں اس کا قابل تعظیم خوشہ ہوں

یعنی میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور میری قوم والے میری بات

مانتے ہیں، عذیق کی تصغیر ہے عذق کھجور کے اس درخت کو

کہتے ہیں جو مالک کو انتہائی پیارا ہو اور رجب اس کے خوشے ٹک

جائیں تو مالک اس ڈر سے کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں ان کے نیچے ٹیک

لگا دے اور رجبہ کھجور کے بڑے تھاڑ کو کہتے ہیں۔ جذبیل

جذبیل ذننہ کی تصغیر ہے اور جذبیل اس تنہ کو کہا جاتا ہے جس سے

کھجلی والا اونٹ اپنی پیٹھ رگڑتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جذبیل

اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جو اونٹ کے باڑے میں نصب کر دی

جاتی ہے جس سے اونٹوں کے بچے کھجلیا کرتے ہیں۔

ابوزید نجیبی بن زیاد فرما سے نقل کرتے ہوئے: رجب کو

رجب اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس مہینہ میں لوگ ٹوٹ جانے کے

جذیل تمغیر وهو الجذع والنخلة التي  
تحتک بها الابل الجرباء وقيل الجذل  
عود ينصب في معادن الابل یحتک بالفضال  
وقال البرزید عن یحیی بن زید الفراء انما هی  
رجب لانهم كانوا یرجیون الاعذاق فی  
هذا الشهر علی النخل ویشد ونیها بالخص  
الی السعف لئلا تنفضها الریاح یقال منه  
رجبت النخلة ترجیبا اذا فعلت بها ذلك  
وقال آخرون الترجیب ان یوضع المشوک  
علی الاعذاق حفظا لها من تناول ایدی  
المستطعین والتحرز من تناثر التمر علی الارض  
وقال آخرون الترجیب ان تدعم النخلة  
اذا مالت بدعامه لئلا تسقط وتخر وقال  
آخرون هو ما خوز من قول العرب رجبت  
الشیء اى رهنته رهبة وقال آخرون الترجیب  
التأهب والاستعداد لقول النبی صلی اللہ علیہ  
علیہ وسلم انه لیرجب فیہ خیر کثیر لشعبان  
وقال آخرون الترجیب تکرر ذکر اللہ تعالی  
وتعظیمہ لان الملائکة یرجیون اصواتهم  
فیہ بالتسبیح والتحمید والتقدیس لله عزو  
جل ویقال شہر رجم بالیم ایضا فیکون  
معناه ترجم فیہ الشیاطین حتی لا یوذوا فیہ  
الرومین فرجب ثلاثة احرف راء وحبیم  
وباء فالراء رحمة اللہ عزوجل والحبیم  
جود اللہ تعالی والباء بر اللہ عزوجل فمن

ڈر سے کھجوروں خوشوں کے نیچے ٹیک لگایا کرتے تھے رجب مصدر بھی  
اسم فاعل ہے یعنی سہارا دینے والا مہینہ اور خوشوں کو پتوں کے  
ذریعہ شاخوں سے باندھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ ہوا سے ٹوٹنے نہ پائیں  
اس سے یہ محاورہ بنا ہے، رجبت النخلة ترجیبا یعنی میں نے کھجور کے  
خوشے اس کے پتوں کے ذریعہ شاخوں سے باندھ دئے۔

بعض کے نزدیک ترجیب پھل دار کھجور کے چاروں طرف کانٹے  
لگانے کو کہتے ہیں تاکہ لوگ کھجور میں نہ ٹوڑ سکیں اور جو پھل زمین پر  
گر جاتے ہیں ان کی حفاظت رہے بعض کے نزدیک ترجیب ستون  
لگانے کو کہتے ہیں تاکہ خوشوں کے بوجھ سے شاخ ٹوٹ نہ جائے۔

بعض و ترجمہ یہ بتاتے ہیں کہ رجب رجبت الشیء سے بنا ہے  
یعنی میں نے اسے ڈرایا ہے یعنی رجب مصدر بھی اسم فاعل ہے یعنی  
ڈرانے والا حق تعالیٰ نے اس مہینہ خاص طور سے لوگوں کو گناہوں  
سے ڈرایا ہے بعض کے نزدیک ترجیب بمعنی تیاری کرنا اور مستعد  
رہنا ہے کیونکہ نبی صلعم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں شعبان کے لئے بہت  
سی نیکیوں کی تیاری کی جاتی ہے بعض کے نزدیک ترجیب بمعنی  
ذکر اللہ کی تکرار کرنا اور ذکر اللہ کا احترام کرنا ہے کیونکہ اس مہینہ  
میں فرشتے تسبیح، تحمید اور تقدیس بار بار کرتے ہیں رجب کو ماہ رجم  
بھی کہا جاتا ہے یعنی اس ماہ میں شیطانوں پر کثرت سے انگارے برسائے  
جاتے ہیں تاکہ شیطان اس میں مومنوں کو ایذا نہ پہنچائیں۔

رجب میں تین حرف (راء، جیم اور باء) ہیں، راء سے حق تعالیٰ  
شانہ کی رحمت کی طرف، جیم سے اس کے جود و کرم کی طرف اور باء  
سے حق تعالیٰ کی نیکی کی طرف اشارہ ہے بنا بریں اس ماہ کے شروع  
سے لیکر اخیر تک حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے تین بخششیں  
متعین فرمادی ہیں بلا عذاب کے رحمت بلا بخل کے بخشش اور  
بلا ظلم کے نیکی۔



اول هذا الشهر الى آخره من الله عز وجل  
ثلاث عطايا للعباد رحمة الله بلا عذاب  
وجود بلا نخل ويز بلا جفاء -

**فصل:** ولرجب اساء اخر منها انه سمى  
رجب مضر ومنصل الاسنة وشهر الله الاصم  
وشهر الله الاصب والشهر المطهر والشهر  
السابق والشهر الفرد واما قولهم رجب مضر  
فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
في بعض خطبه ان الزمان قد استدار كهيئته  
يوم خلق الله السموات والارض السنة اثنا  
عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات  
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد  
فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى و  
شعبان انما عرف موضعه بقوله بين جمادى  
وشعبان البطال للنسي الذي كانت العرب  
تفعله في الجاهلية وهو قوله عز وجل انما  
النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين  
كفروا وذلك ان العرب في الجاهلية  
كانت اذا ارادت الصدر من منى قام رجل  
من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة وكان  
رئيس القوم فيقول انا الذي احبب ولا  
اعائب ولا يرد لي قضاء فيقولون له صدقت  
انسنا شهرا يريدون اخر عنا حرمة المحرم  
واجعلنا في صفر واحل لنا المحرم وانما  
دعاهم الى ذلك لثلاث متوالي عليهم ثلاثة

رجب کے مختلف نام | رجب المرجب کے اور بھی نام ہیں  
جیسے اسے رجب مضر، منصل الاسنة اور شهر الله الاصم  
شهر الله الاصب، شهر مطهر، شهر سابق اور شهر فرد بھی کہا جاتا ہے  
رجب مضر نبی صلعم کے ایک خطبہ میں بھی آتا ہے آپ نے ایک خطبہ  
میں فرمایا زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصل ہیئت پر آگیا ہے جس ہیئت  
پر اس وقت تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا فرمائی تھی سال بارہ  
ماہ کا ہوتا ہے جن میں چار ماہ حرمت والے ہیں تین تو لگاتار ہیں  
یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم اور ایک تنہا ہے یعنی رجب  
مضر جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے آپ نے  
جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان اسے اس لئے متعین فرمایا کہ  
اس سے آپ کی غرض لوند کو باطل کرنا ہے جس کے جاہلیت میں عرب  
قائل تھے حق تعالیٰ نے فرمایا: لوند کفر میں زیادتی ہی ہے حق تعالیٰ  
اس سے کافروں کو گمراہ کرتا ہے، لوند کی تفصیل یہ ہے کہ جب  
عرب در جاہلیت میں منی سے لوٹنا چاہتے تو بنو کنانہ کا ایک  
شخص نعيم بن ثعلبة جو اپنی قوم کا سردار تھا کھڑا ہو کر کہتا کہ میں  
وہ شخص ہوں کہ لوگ میری بات مانتے ہیں اور مجھ پر کوئی طعن  
نہیں کرتا اور میرا فیصلہ رد نہیں کیا جاتا لوگ کہتے ہیں کہ آپ  
فرماتے ہیں آپ ہمارے لئے اس مہینہ کو پیچھے بٹھا دیں یعنی محرم کو  
حلال اور صفر کو حرام فرمادیں، عرب یہ درخواست اس لئے کیا  
کرتے تھے کہ حرمت کے تین ماہ لگاتار نہ رہیں اور دو ماہ کے  
انہیں لوٹ مار کی اجازت مل جائے کیونکہ ان کا کاروبار ہی لوٹ  
تھا اور ان کی زندگی اسی پر موقوف تھی چنانچہ وہ ایک سال محرم کو  
حلال اور صفر کو حرام کر دیا کرتا تھا پھر آئندہ سال محرم کی  
حرمت برقرار رہنے دیتا تھا اسے ان کی اصطلاح میں النساء  
رہیچے کہ دینا، کہتے تھے اسی سے کسی ذرا خیر بنا ہے اسی سے یہ

اشهر لا يعيرون فيها وقد كان معاشهم  
من الاغارة فيفعل ذلك عاماً ثم يرجع الى تحريم  
المحرم و اباحة صفر فلك النساء ومنه قيل  
نساء الله في اجله وانا الله اجله فوصف النبي  
صلى الله عليه وسلم رجب بصفتين وقيداه بنعتين  
احدهما قوله رجب مفران مفر كانت تبالغ  
في تعظيمه وتكبيره وتحريمه الثاني انه قيداه  
بقوله بين جمادى وشعبان خوفاً من التقديم  
والتأخير كما جرى في تحريم المحرم الى صفر  
فخص الشهر وقيداه وابد تحريمه واكد وقيل  
انما سمى رجب مفر لان بعض الكفار دعا على  
قبيلة من القبائل فيه فاهلكهم الله عز وجل  
وقيل ان الدعاء فيه مستجاب على الظلمة  
وكل جائر ولو قد اكانت الجاهلية يؤخرون  
دعواتهم على من ظلمهم فيسعون عليه في  
رجب فلا يرد خائباً واما منصل السنة فلا  
كالوا ينزعون السنة قبه عن الرماح ويغمدون  
سيوفهم وسها مبهمة تهيئ له وتعطيا نسهم  
بذل لك منصل السنة ويقال نصلت السهم  
اذا جعلت له نصلاً وانصلته اذا نزلت عنه  
نصله واما شهر الله الاعم فلما روى عن عثمان  
بن عفان رضي الله عنه انه لما استهل رجب تي  
المنبر ليرم الجمعة وخطب ثم قال الان هذا  
شهر الله الاعم وهو شهر زكاتكم فمن كان  
عليه دين فيؤدينه ثم ليترك ما لقي قال ابن البار

مخاوره ہے نساء اللہ فی اجلہ و انسا اللہ اجلہ یعنی اللہ نے اس کی  
موت چھپے پٹا دی اسی لئے نبی صلعم نے رجب کا تعارف دو باتوں سے  
کرایا ایک تو اس طرح کرایا کہ یہ مفر کا رجب ہے کیونکہ مفر اس کی تنظیم  
و احترام میں بڑے کڑتھے اور اسے بہت بڑا اور بڑی حرمت والا  
سمجھا کرتے تھے اور دوسرے اس طرح کرایا کہ یہ ماہ جمادی الثانی اور  
شعبان کے درمیان آتا ہے تاکہ لوگ اسے آگے چھپے نہ کر سکیں  
محرم کو صفر اور صفر کو محرم کر دیا جاتا تھا لہذا آپ نے ان رتیبوں  
سے اس مہینہ کو خاص اور متعین کر دیا اور اس کی حرمت کو مضبوط  
و مستحکم بنا دیا اور حرمت زور دار بنا دی۔

**رجب مفر کہنے کی وجہ** اس کی وجہ یہ ہے کہ مفر کا قبیلہ  
رجب کے احترام و عظمت اور بزرگی تسلیم کرنے میں تمام قبائل  
سے پیش پیش تھا علاوہ انہیں اس کے بعض لوگوں نے اس مہینہ میں  
کسی قبیلہ پر بددعا کی تھی حق تعالیٰ نے ان کی بددعا قبول فرمائی تھی  
اور انہیں ہلاک کر دیا تھا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس مہینہ میں ظالموں  
پر بددعا قبول کر لی جاتی ہے اسی لئے جاہلیت میں ظالموں پر  
بددعا اسی مہینہ پر اٹھا کہ رکھ دی جاتی تھی اور لوگ رجب ہی  
میں ان پر بددعا کیا کرتے تھے اور کبھی ایسا نہ ہوتا تھا کہ ان کی بددعا  
قبول نہ کی گئی ہو۔

**رجب کو منصل الاسنہ کہنے کی وجہ** منصل الاسنہ یعنی  
نیزوں سے ان کے پر ہٹا دینے والا ماہ رجب میں لوگ نیزوں سے  
ان کے پر نکال لیا کرتے تھے اور محفوظ جگہ رکھ دیا کرتے تھے تاکہ  
اس کی عظمت و حرمت اور بزرگی برقرار رہے نصلت السهم اس  
وقت کہا جاتا ہے جب تیر پیکان میں رکھ لیا جاتا ہے اور نصلت  
العم اس وقت بولا جاتا ہے جب تیر پیکان سے ہٹا لیا جاتا ہے۔  
شهر اللہ الاعم کی وجہ تسمیہ رجب کو اللہ کا مہرہ مہینہ اس



اما قوله الاصم فانا سمی بذلك لان العرب كانت تظن تخارب بعضها بعضا فاذا اهل رجب وضعوا السلاح ونزعوا الاسنة فلا تسمع فيه تعقعة السلاح ولا صلصلة الرماح وكان الرجل اذا ركب في طلب قاتل ابیه فاذا ادا في رجب لم يتعرض له كانه لم يرك ولم يسمع له خبرا فسمی اصم لذلك وقيل سمی اصم لانه لم يسمع فيه غضب الله تعالى على قوم قط لان الله تعالى عذب الامم الماضية في سائر الشهور ولم يعذب امه من الامم في هذا الشهر وفي هذا الشهر حمل الله نوحا في السفينة فجرت به ومن معه في السفينة ستة اشهر قال ابراهيم النخعي ان رجب شهر الله تعالى فيه حمل الله نوحا في السفينة فصامه نوح عليه السلام و امر بصيامه من كان معه فامنه الله تعالى ومن كان معه من الطوفان وطهر الارض من الشرك والعدوان ورفع ذلك غيره الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما اخبرنا به هبة الله باسناده عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا ان رجب من اشهر الحرم وفيه حمل الله نوحا في السفينة فصامه نوح عليه السلام و امر من كان معه بصيامه فاعجابهم الله تعالى وامنهم من الغرق وطهر الله الارض من الكفر والطغيان بالطوفان وقيل انه سمی

کما جانا ہے کہ ایک بار رجب کا ہلال دیکھ کر حضرت عثمان نے جمعہ کے دن منبر پر چڑھ کر فرمایا: کان کھول کر سن لو یہ اللہ کا ہرہ مہینہ ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے اگر کسی پر قرض ہو تو اپنا قرض ادا کر دے اور جو کچھ مال باقی ہے اسکی زکوٰۃ ادا کر دے۔ بقول ابن انباری صم اس لئے کہا گیا ہے کہ عرب آپس میں لوٹ مار کیا کرتے تھے اور رجب کا ہلال دیکھتے ہی اسلحہ اتار دیا کرتے تھے اور پیکاروں سے تیز نکال دیا کرتے تھے اور اس ماہ اسلحہ کی آواز اور نیزوں کی جھنکار سنائی نہیں دیتی کرتی تھی اور اگر کوئی شخص اپنے والد کے قاتل کے سراغ میں نکلتا اور رجب میں اسے دیکھ لیتا تو اس سے تعرض نہیں کیا کرتا تھا گویا اس نے اسے دیکھا ہی نہیں اور نہ اسے اسکی خبر لگی بنا بریں اسے اصم کہا گیا۔ بعض کے نزدیک اس لئے اصم کہتے ہیں کہ اس مہینہ میں کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہو حتیٰ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر ہر مہینہ میں عذاب اتارا لیکن کسی امت پر رجب میں عذاب نہیں اترا۔ اور اسی مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی میں سوار کیا اور آپ کے تمام ساتھیوں کو لیکر چھ ماہ تک چلتی رہی۔ ابراہیم الخفی: رجب اللہ کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی میں سوار کیا اور اس کے روزے حضرت نوح نے رکھے اور اپنے تمام ساتھیوں کو روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اور حتیٰ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین شرک اور ظلم و زیادتی سے پاک فرمائی، بعض علماء یہ روایت مرفوع بھی لاتے ہیں مرفوع روایت کی سند یہ ہے کہ ہمیں مصیبت اللہ نے اپنی اسناد سے ابو حازم سے اور انہوں نے سهل بن سعد سے اور انہوں نے نبی صلعم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا: دیکھو رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی میں سوار کیا پھر اسکے روزے حضرت نوح نے کشتی میں رکھے

امم لانہ امم عن جفائك وزلتك وسیع بفضلک  
یا مومن و شرفک فجعلہ اللہ تعالیٰ امم من  
جفائك وزلتك لثلاثین شہد علیک بہا یوم  
القیامۃ بل یکون شہید الیک لما سمع من  
فصلک واحسان العمل فیہ واما الاصب فعننا  
انہ تصب الرحمة فیہ صبا علی العباد ویطیبہم  
اللہ تعالیٰ من الکرامات والمثوبات ما لا عین  
رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر  
من ذلک ما اخبرنا الشیخ الامام ہبۃ اللہ بن  
المبارک السقطی رحمہ اللہ باسناد لا عن ال  
عش  
عن ابراہیم عن علقمۃ عن ابی سعید الخدری  
رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
انہ قال ان عدۃ الشہور عند اللہ تعالیٰ اثنا  
عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السموات  
والارض منها اربعۃ حرم فرجب یقال لہ  
شہر اللہ الامم وثلاث اخر متوالیات یعنی  
ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم الا ان رجب  
شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی  
فمن صام من رجب یوما ایانا واحتسابا استوجب  
رضوان اللہ الاکبر واسکن الفردوس الاعلی  
ومن صام منہ یومین فلہ من اجر ضعفان  
ووزن کل ضعف مثل جبال الدنیا ومن صام  
من رجب ثلاثۃ ایام جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا  
طوله مسیرۃ سنۃ ومن صام من رجب اربعۃ ایام عوفی من  
البلاء یا من الجنون والمجذام والبرص ومن

اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے  
انہیں سیلاب سے نجات بخشی اور انہیں ڈوبنے سے بچا لیا اور اس سیلاب  
سے اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کفر و شرک اور ظلم و زیادتی سے پاک فرمایا  
بعض کے نزدیک رجب کو اہم اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ تمہارے  
جو روح جفا سے اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اے مومنو! یہ مہینہ  
تمہارے فضل و شرف کو سناتا ہے جن تعالیٰ نے اسے تمہارے جو روح  
اور گناہوں سے بہرہ کر دیا تاکہ قیامت کے دن تمہارے خلاف  
گواہی نہ دے بلکہ تمہارے موافق گواہی دے کیونکہ اس میں اس نے  
تمہارے نیک عمل سنے ہیں

رجب کو اصب کہنے کی وجہ اسے اصب اس لئے کہا جاتا  
ہے کہ صب پانی بہانے کو کہتے ہیں اصب یعنی خوب پانی کی طرح  
رحمت بہانے والا اس مہینہ میں بندوں پر اللہ کی رحمت خوب  
برستی ہے اور حق تعالیٰ بندوں کو ایسی ایسی بزرگیاں اور ثواب عطا  
فرماتا ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھے نہ کانوں نے سنے اور نہ ہی کسی انسان  
کے دل میں ان کا تصور آیا۔

باخبر شیخ امام ہبۃ اللہ بن مبارک سقطی از اعمش از ابراہیم از  
علقمۃ از ابو سعید خدری از رحمت عالم صلعم فرمایا اللہ کے نزدیک  
اللہ کی کتاب (لوح محفوظ) میں مہینوں کی تعداد دنیا کی پیدائش کے  
اول دن ہی سے بارہ ہے جن میں سے چار حرمت والے ہیں رجب  
کو اللہ کا برا مہینہ کہا جاتا ہے اور تین حرمت والے مہینے لگا تار ہیں  
یعنی ذی قعدہ ذی الحج اور محرم مگر رجب اللہ کا مہینہ ہے اور  
رمضان میری امت کا مہینہ ہے پھر جو یقین کر کے ثواب کے لئے  
رجب کے ایک دن کا روزہ رکھ لے تو وہ اپنے اوپر اللہ کی برکات  
رضاد واجب کر لینگا اور فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا اور  
جو دو دن کے روزے رکھ لے اس کا وضعف (رگنا) اجر ملے گا



فنتنة المسيح الدجال ومن صام منه خمسة  
ايام وقي من عذاب القبر ومن صام منه ستة  
ايام خرج من قبره ووجهه اضواء من القمر  
في ليلة البدر ومن صام منه سبعة  
ايام فان له الجنة سبعة ابواب يخلق الله  
عنه بصوم كل يوم من ايامه ما بابا من  
الوابها ومن صام منه ثمانية ايام فان  
للجنة ثمانية ابواب يفتح الله له بصوم كل  
يوم ما بابا من الوابها ومن صام منه تسعة  
ايام خرج من قبره وهو ينادي اشهد ان  
لا اله الا الله ولا يرد وجهه دون الجنة  
ومن صام منه عشرة ايام جعل الله تعالى  
له على كل ليل من الصراط قرأ شايترج  
عليه ومن صام منه احدى عشر يوما لمير  
في القيامة افضل منه الا من صام مثله  
او زاد عليه ومن صام من رجب اثني  
عشر يوما كسا الله تعالى يوم القيامة  
ثلاثين الحلة الواحدة خير من الدنيا و  
ما فيها ومن صام من رجب ثلاثة عشر  
يوما يوضع له يوم القيامة مائدة في ظل  
العرش فياكل منها والناس في شدته  
شديد ومن صام من رجب اربعة  
عشر يوما اعطاه الله عز وجل مالعين  
رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب  
بشر ومن صام منه خمسة عشر يوما وقفه

اور برضعف کا وزن دنیا کے پہاڑوں کی برابر ہوگا اور جو رجب کے  
تین روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان خندق  
حائل فرمادے گا جس کا طول سال بھر کی مسافت کا ہوگا اور جو رجب  
کے چار روزے رکھ لے تو وہ بیمار لوگوں، جنوں، اجزام اور برص  
سے اور مسیح و جال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور جو پانچ روزے  
رکھ لے وہ عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور جو چھ روزے رکھ لے  
تو جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ بدر کی طرح چمکتا ہوا ہوگا  
اور جو سات روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلہ  
اس پر جہنم کا ہر دروازہ بند فرمادے گا جہنم کے سات ہی دروازے  
ہیں اور جو آٹھ روزے رکھ لے تو حق تعالیٰ اس کے لئے ہر روزے کے  
بدلہ جنت کے آٹھ دروازے کھول دے گا اور جو نو روزے رکھ لے  
وہ قبر سے اشہدان لا اله الا اللہ کا اعلان کرتا ہوا اٹھے گا  
اس کا رخ بجز جنت کے کسی دوسری طرف نہیں پھیرا جائیگا اور جو  
دس روزے رکھ لے تو حق تعالیٰ اس کے لئے پل صراط کے پریل پر فرش  
بچھوا دے گا کہ اس پر آرام سے سستا لے اور جو گیارہ روزے رکھ لے تو  
وہ قیامت کے دن اپنے سے افضل کسی کو نہیں پائیگا بجز اس کے  
جس نے اسکے برابر یا اس سے زیادہ رکھے ہوں گے اور جو بارہ  
رکھ لے تو حق تعالیٰ شانہ اسے قیامت کے دن دو جوڑے پہنائے  
گا ہر ایک جوڑا دنیا کی تمام دولت سے پیش قیمت ہوگا اور جو تیرہ روزے  
لے تو اسکے لئے قیامت کے دن عرش کی چھاؤں میں کھانے کی میز  
لگائی جائیگی اور وہ اس میں سے کھائیگا حالانکہ لوگ انتہائی شدت  
سے دوچار ہوں گے اور جو چودہ روزے رکھ لے تو اسے حق تعالیٰ ایسی ایسی  
نعمتیں بخشے گا جو نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں سے سنیں اور نہ  
کسی کے دل میں کھینے اور جو پندرہ روزے رکھ لے اسے حق تعالیٰ قیامت  
کے دن امن پانیوں کی جگہ کھڑا کرے گا اور اس کے پاس سے جنت

الله تعالى يوم القيامة موقف الامنين ولا  
يؤمر به ملك مقرب ولا نبي مرسل الا قال له  
طوبى لك انك من الامنين وفي لفظ آخر  
زيادة على خمسة عشر وهي من صام منه  
ستة عشر يوما كان في لوائل من بزوز الرحمن  
وينظر اليه ويسمع كلامه ومن صام منه سبعة  
عشر يوما ينصب الله له على كل ميل من الصراط  
مستراحا يستريح عليه ومن صام منه ثمانية  
عشر يوما زاد احما ابراهيم عليه السلام  
في قبته ومن صام منه تسعة عشر يوما  
نبي الله له قصر في الجنة تجال قصر ابراهيم  
وآدم عليهما السلام ويسلم عليهما و  
يسلمان عليه ومن صام منه عشرين يوما  
نادى من السماء يا عبد الله اماما  
قد مضى فقد غفرك الله لك فاستأنف  
العهد فيما بقي واما المطهر فلا نه يطهر  
منائمه من الذنوب والخطيئات فمن ذلك  
ما اخبرنا به الشيخ الامام هبة الله بن  
المبارك السقطي رحمه الله عن الحسن بن  
احمد بن عبد الله المقرئ باسناد لا عن هارون  
بن عنتر عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي  
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم ان شهر رجب شهر عظيم من صام  
منه يوما كتب الله تعالى له صوم ألف  
سنة ومن صام منه يومين كتب الله تعالى

بھی مقرب فرشتہ یا اولوا العزم پیغمبر گزر بیگا وہی اسے امن پانے  
کی مبارکباد دیگا، اسی حدیث کے دوسرے لفظ میں ۱۵ سے آگے  
بھی ذکر ہے فرمایا اور جو سولہ روز سے رکھے تو جو رحمن کی زیادت  
کہنیوالے ہیں ان سب سے آگے آگے رہیگا اور حق تعالیٰ کو دیکھے گا  
اور اس کا کلام سنے گا اور جو سترہ رکھے حق تعالیٰ اس کے لئے  
پلفراط کے زمین پر ایک آرامگاہ بنا دیگا کہ وہاں سستالے۔  
اور جو اٹھارہ رکھے تو حضرت ابراہیم کے گنبد کے سامنے اس کا  
گنبد ہوگا اور جو انیس رکھے تو حق تعالیٰ اس کے لئے جنت میں  
حضرت ابراہیم اور حضرت آدم کے قصروں کے مقابل ایک قصر  
بنائیگا اور یہ ان دونوں نبیوں کو اور دونوں نبی سے سلام  
کریں گے، اور جو بیس رکھے تو اس کے لئے ایک اعلان کنواری  
اعلان کریگا کہ اسے اللہ کے بندے تیرے ماضی کے تمام گناہ حق  
تعالیٰ نے معاف فرما دئے اب تقبل کے لئے از سر نو نیک عمل کر۔  
رجب کو مٹھہ کہنے کی وجہ رجب کو مٹھہ پاک کرنے والا  
اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ روزے داروں کو گناہوں اور تمام برائیوں  
سے پاک و صاف کر دیتا ہے چنانچہ اس سلسلہ میں بہترین شیخ امام ہبہ  
بن مبارک سقٹی نے حسن بن احمد بن عبد اللہ مقرئ سے انہوں نے  
ہارون بن عشرہ سے انہوں نے اپنے والد عشرہ سے انہوں نے  
علی بن ابی طالب سے یہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ  
ماہ رجب ایک عظمت والا مہینہ ہے جو اس کا ایک دن کا روزہ  
رکھے حق تعالیٰ اسے ایک ہزار سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے  
گا اور دو روزے رکھنے والوں کو دو ہزار سال کے روزوں کا  
ثواب ملے گا اور تین روزے رکھنے والوں کو تین ہزار سال کے  
روزوں کا ثواب ملے گا اور سات روزے رکھنے والوں پر  
حق تعالیٰ جہنم کے دروازے بند فرما دیگا اور آٹھ والوں پر جنت کے



له صوم الفی سنة ومن صام منه ثلاثة ايام  
 كتب الله تعالى له صوم ثلاثة ايام سنة  
 ومن صام منه سبعة ايام اغلقت عنه  
 ابواب جهنم ومن صام منه ثمانية ايام  
 فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من  
 ايها شاء ومن صام منه خمسة عشر يوما  
 بدلت سيئاته حسنات وفادى مناد من النساء  
 قد غفر لك فاستألف العمل ومن زاد زاد  
 الله تعالى واخبرنا الشيخ الامام هبة الله  
 بن المبارك باسناد اده عن يونس عن الحسن  
 رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم من صام يوما من رجب عدل  
 له بصيام ثلاثين سنة واخبرنا الشيخ  
 الامام هبة الله عن الحسن بن احمد بن  
 عبد الله المقرئ باسناد اده عن العلاء بن كثير  
 عن مكحول رحمه الله قال ان رجلا سال  
 ابا الدرداء رضی اللہ عنہ عن صيام رجب  
 فقال له سألت عن شهر كانت الجاهلية  
 تعظمه في جاهليتها وما زاد الاسلام  
 الا فضلا وتعظيما ومن صام منه يوما تطوعا  
 يجتسب به ثواب الله تعالى ويتبغى به وجهه  
 مخلصا اطفأ صومه ذلك اليوم غضب الله  
 تعالى واغلق عنه بابا من ابواب النار ولو  
 اعطى هل الارض ذهبها ما كان جزاء له  
 ولا يستكمل اجر شيء من الدنيا دون يوم الحسا

تمام دروازے کھول دئے جائیں گے کہ جس دروازے سے چاہے جنت  
 میں چلا جائے اور پندرہ روزے والوں کی پراٹھیاں نیکیوں سے بدل  
 دی جائیں گی اور آسمان سے ایک اعلان کر نیوالا اعلان کرے گا کہ  
 تیرے تمام گناہ بخش دئے گئے اب تو نیک عمل کر اور جو زیادہ روزے  
 رکھے گا حق تعالیٰ اسے مزید ثواب عطا فرمائے گا۔

ہمیں شیخ امام بیتہ اللہ بن مبارک نے اپنی اسناد سے یونس  
 سے اور انہوں نے حسن بصری سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے گا  
 اسے تیس سال کے روزوں کی برابر ثواب ملے گا ہمیں شیخ امام  
 بیتہ اللہ نے حسن بن احمد بن عبد اللہ مقرئ سے انہوں نے علاء بن  
 کثیر سے اور انہوں نے مکحول سے خبر دی کہ ایک شخص نے حضرت  
 ابوالدرداء سے رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا فرمایا  
 کہ تم نے اس مہینہ کے بارے میں پوچھا ہے جس کی تعظیم جاہلیت  
 میں بھی کی جاتی تھی اس میں اسلام نے فضیلت و تعظیم ہی کا اضافہ  
 کیا ہے اگر کوئی اس کے ایک دن کا نفل روزہ رکھے اور اس کی نیت  
 اللہ تعالیٰ سے ثواب کی ہو اور خلوص سے اللہ کی رضا کا طلبگار  
 ہو تو اس کا ایک دن کا روزہ حق تعالیٰ جل مجدہ کے عقد کو بھگا  
 گا اور آگ کا ایک دروازہ بند کر دے گا اور اگر اسے تمام زمین  
 بھر کر سونا دیا جائے تو اس ایک روزے کا پورا ثواب نہ مل  
 سکے گا اور دنیا کی کسی چیز کی قیمت سے اس کا اجر پورا نہ ہوگا۔  
 اگر یہ اجر پورا ہو گا تو جزا کے دن ہی حق تعالیٰ پورا فرمائے گا  
 اس روزے دار کی شام کے وقت را نظار سے پہلے اس دعا میں  
 مقبول ہوگی اگر وہ دنیا کی کسی چیز کے لئے دعا مانگے گا حق تعالیٰ  
 وہ اسے عطا فرما دیگا ورنہ حق تعالیٰ جل مجدہ اس کے لئے نیکیوں  
 کا ذخیرہ جمع فرما کر رکھے گا اور وہ نیکیاں حق تعالیٰ شانہ کے

وله اذا امسى عشر دعوات مستجابات فان  
دعا به لشيء من عاجل الدنيا اعطاه والا ادر  
له من الخير كما فضل ما دعا به داع من اولياء  
الله تعالى واصفيائه الصادقين ومن صام  
يومين كان له مثل ذلك وله مع ذلك اجر  
عشرة من الصديقين في عمرهم بالغنة  
اعمارهم ما بلغت ويشفع في مثل ما يشفعون  
فيه ويكون في زمرة من هم حتى يدخل الجنة  
معهم ويكون من رفقاتهم ومن صام  
ثلاثة ايام كان له مثل ذلك وقال الله  
تعالى عند افطاره لقد وجد حق عبدى  
هذا وجبت له محبتي وولائي اشهدكم  
يا ملائكتي اني قد غفرت له من ذنبه ما  
تقدم وما تاخر ومن صام اربعة ايام كان  
له مثل ذلك وثواب اولى الابواب التوابين  
ويعطى كتابه في اوائل الفائزين ومن صام  
خسة ايام كان له مثل ذلك ويبعث يوم  
القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر و  
يكتب له عدد رمل عالم حسنات ويدخل  
الجنة ويقال له تن على الله ماشئت ومن  
صام ستة ايام كان له مثل ذلك ويعطى  
سوى ذلك نور يستضيء به اهل الجمع في  
القيامة ويبعث في الآمن حتى يتر على الصراط  
بغير حساب ويعانى من عقوق الوالدين و  
قطيعة الرحم ويقبل الله عليه بوجهه اذا

دوستوں اور اس کے سچے اور برگزیدہ بندوں کی سب سے افضل دعا کی  
برابر ہوتی ہیں اور جو دن کے روزے رکھ لے تو اسے بھی حسب سابق  
ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دس صدیقین کے تمام  
عمر کے عملوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا خواہ ان کی عمر کتنی ہی  
ظویل کیوں نہ ہو اور جس طرح صدیق حضرات کی شفاعت قبول  
کی جاتی ہے اس کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی اور صدیقین کی  
جماعت میں رہے گا حتیٰ کہ ان کے ساتھ جنت میں چلا جائے  
اور ان کے رفقاء میں شامل رہے گا اور جو تین روزے رکھ لے  
گا تو اسے بھی حسب سابق ثواب ملے گا اور اس کے روزہ کھولنے  
کے وقت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کا مجھ پر حق ثابت  
ہوا اور اس کے لئے میری محبت اور ولایت واجب ہو گئی  
میرے فرشتوں میں نہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کے  
انگلی پھیلے تمام گناہ بخش دئے اور جو چار روزے رکھ لے گا  
اسے حسب سابق ثواب ملے گا اور خوب توبہ کر نیوالے صاحب  
دلوں کا بھی ثواب ملے گا اور اس کا اعمال نامہ پہلے کامیاب  
ہو نیوالوں میں دیا جائیگا اور جو پانچ روزے رکھ لے گا اسے  
حسب سابق ثواب ملے گا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے  
گا تو اس کا چہرہ بدر کی طرح چمکتا ہوا ہو گا اور اس کے لئے علاج  
کے ریت کے ذرات کے برابر نیکیاں ملیں گی اور جنت میں داخل  
کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ حق تعالیٰ سے جو دل چاہے  
مانگ لے اور جو چہرہ روزے رکھ لے گا تو اسے حسب سابق ثواب  
ملے گا اور اس کے علاوہ ایسا نور ملے گا جس سے قیامت کے دن  
تمام موقف دالے روشن ہو جائیں گے اور امن پانچوں لوگوں میں  
اٹھایا جائے گا حتیٰ کہ بلا حساب کے پلھراط سے گزے گا اور دنیا  
میں ماں باپ کی نافرمانی اور قطع رحمی محفوظ رہے گا اور جب



لقية يوم القيامة ومن صام سبعة ايام كان  
له مثل ذلك ويعلق عنه سبعة ابواب النار  
ويجزمه الله على النار ويوجب له الجنة  
يتبوا منها حيث يشاء ومن صام ثمانية  
ايام كان له مثل ذلك وفتح له ابواب  
الجنة الثمانية يدخلها من اى باب شاء  
ومن صام تسعة ايام كان له مثل ذلك  
ويرفع كتابه في عليين ويبعث يوم القيامة  
في الآمنين ويخرج من قبره ووجهه نور  
يتلأأ ويشرق لاهل الجمع حتى يقول هذا  
نبى مصطفى وان ادنى ما يعطى ان يدخل الجنة  
بغير حساب ومن صام عشرة ايام فيخ  
فيخ له فيعطى مثل ذلك وعشرة اضعافه  
وهو ممن يبدل الله سيئاته حسنات و  
يكون من المقربين القوامين لله بالقسط  
وكان ممن عبد الله الف عام صائقا  
صابرا محتسبا ومن صام عشرين يوما كان  
له مثل ذلك وعشرون ضعفا وهو ممن  
يزا حمرا ابراهيم خليل الله عليه السلام  
في قبته ويشفع في مثل ذلك وعشرون ضعفا  
وهو ممن يزا حمرا ابراهيم خليل الله عليه  
السلام في قبته ويشفع في مثل ربيعة ومغر  
كلهم من اهل الخطايا واهل الذنوب  
ومن صام ثلاثين يوما كان له مثل ذلك  
وثلاثون ضعفا وينادي من السماء يادى

قيامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ اس کی طرف متوجہ  
ہوگا اور جو سات روزے رکھے گا تو اسے حسب سابق ثواب  
ملے گا اور اس سے آگ کے ساتوں دروازے بند کر دئے جائیں گے  
اور اسے اللہ تعالیٰ آگ پر حرام فرما دیگا اور اس کے لئے جنت  
واجب کر دیگا کہ جہاں چاہے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اور  
جو آٹھ دن کے روزے رکھے تو اسے حسب سابق ثواب ملے گا  
اور اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اسے  
اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے  
اور جو نو روزے رکھے اسے حسب سابق ثواب ملے گا اور  
اس کا اعمال نامہ علیین میں اٹھایا جائے گا اور وہ قیامت  
کے امن پانیوں میں اٹھایا جائے گا اور قبر سے اس حال میں  
نکلے گا کہ اس کے چہرے پر ایسا نور ہوگا جس سے تمام موقوف والے  
چمک اٹھیں گے حتیٰ کہ وہ خیال کریں گے کہ یہ اللہ کے منتخب نبی ہیں  
اور معمولی نعمت یہ ملے گی کہ بلا حساب کے جنت میں داخل ہو جائے  
گا اور جو دس روزے رکھے تو کیا کہنے اسے حسب سابق ثواب  
ملے گا اور دس گنا زیادہ بھی اور ان میں شامل ہو جائے گا جن کی  
برائیاں حق تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اور اس کا اللہ کے  
ان خاص بندوں میں شمار ہوگا جو ہر وقت انصاف سے اللہ کی  
راہ میں کمر بستہ رہتے ہیں اور اس کی طرح کر دیا جائے گا جو ایک  
ہزار سال تک دن میں روزے دار اور رات کو شب بیدار  
رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور صبر کے ساتھ ثواب  
کی نیت سے نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جو بیس روزے رکھے  
اسے حسب سابق ثواب ملے گا اور بیس گنا زیادہ بھی اور اس کا  
گنبد حضرت ابراہیم کے گنبد کے سامنے ہوگا اور اس کا مطابہ کرے گا  
اور اس کی شفاعت مفر کے قبیلہ ربیعہ کے آدمیوں کی تعداد کی

البشر بالکرامۃ العظمی قال وما الکرامۃ  
العظمی قال النظر الی وجہ اللہ تعالی الجلیل  
ومرافقۃ النبیین والصدیقین والشہداء  
والصالحین وحسن اولئک رفیقا طوبی لک  
عدا اذا کشف الغطاء و افضیت الی جیم  
ثواب ربک الکریم فاذا نزل بہ ملک الموت  
سقا اللہ تعالی عند خروج نفسه شریۃ من  
حیاض الفردوس ویہون علیہ سرکرات  
الموت حتی ما یجد المالموت ویطیل فی قبرہ  
ریان ویطیل فی المرقف ریان حتی یرد حوض  
النبی صلی اللہ علیہ وسلم واذا خرج من قبرہ  
شیعہ سبعون الف ملک معہم النجائب  
من الدر والیاقوت ومعہم طوائف الحلی  
والحلل فیقولون لہ یا ولی اللہ النجاء النجاء  
الی ربک عزوجل الذی اظمات لہ نہارک  
وانحلت لہ جسک فہو من اول الناس ذوا  
جنات عدن یوم القیامۃ مع الفائزین رضی  
اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک هو الفوز  
العظیم قال وان کان لہ فی کل یوم یصوم  
صدقة علی زینۃ قوتہ تصدق بہا فیہیات  
ہیہات ہیہات تلتقاوا اجتمع جمیع الخلا  
علی ان یقدر واقدار ما اعطی ذلک العبد من  
الثواب ما بلغوا معشار العشر مما اعطی اللہ  
ذلک العبد من الثواب وعن عبد اللہ بن  
الزبیر رضی اللہ عنہما انه قال من فرج عن

برابر لوگوں کے حق میں قبول کی جائیگی جو سب خطا کار و گنہ گار ہوں گے  
اور جو تیس روز سے رکھ لے تو اسے حسب سابق ثواب ملے گا اور  
تیس گنا زیادہ بھی اور ایک اعلان کہ نبی والا آسمان سے اعلان  
کرے گا کہ اے اللہ کے ولی تجھے ایک عظیم بزرگی کی بشارت ہو پوچھا  
گیا کہ عظیم بزرگی کیا ہے؟ فرمایا عظیم بزرگی حق تعالی شانہ کے  
خوبصورت چہرے کا دیدار ہے اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور  
صلحاء کی رفاقت ہے اور یہ لوگ بہترین رفیق ہیں۔ تیرے لئے  
مبارک ہو اور کل قیامت کے دن جب پردے اٹھائے جائیں  
گے اور تجھے اپنے رب کی طرف سے جلیل الشان ثواب ملے گا تو  
تجھے مسرت و خوشی حاصل ہو اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی  
روح نکلے ہی اللہ تعالیٰ اسے فردوس کے حوضوں سے پانی  
پلائے گا اور اس پر موت کی سختیاں آسان فرما دیں گی حتیٰ کہ اسے  
موت کی تکلیف محسوس ہی نہ ہوگی اور وہ قبر میں بھی سیراب  
رہے گا اور موقف میں بھی حتیٰ کہ نبی صلعم کی حوض پر نہ پہنچ جائے  
اور جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اسے ستر سزار فرشتے رخصت  
کریں گے جن کے پاس موتیوں اور یاقوت کے اونٹ ہوں گے  
اور نادر نادر زیورات و جوڑے ہوں گے اور اس سے فرشتے کہیں  
گے کہ اے اللہ کے ولی جلدی سے، جلدی سے ان پر سوار ہو کہ  
اپنے رب کے پاس چلو آپ اللہ کی رضا کے لئے دن میں پچاس بار  
کرتے تھے اور اسی کی رضا کے کاموں میں آپ لائے و نجیف ہو گئے  
تھے لہذا قیامت کے دن جنت عدن میں سب سے پہلے داخل ہونے  
والوں میں اور کامرانی والوں میں سے یہ بھی ہو گا اللہ ان سے راضی  
ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں اور یہ ایک عظیم کامیابی ہے اور فرمایا اگر  
اس نے حسب حیثیت روزے کی حالت میں خیرات بھی کی ہوگی۔  
تو سبحان اللہ، کیا کہنے نور علی نور اگر تمام دنیا مل کر اس بندے کو



مومن کربۃ فی شہر رجب و هو شہر اللہ الاعظم  
 اعطاه اللہ تعالیٰ فی الفردوس قصر امد بصرہ  
 الاکرم و رجب یکرّمکم اللہ عزوجل  
 بألف کرامۃ قال عقبۃ بن سلامۃ بن  
 قیس یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ  
 قال من تصدق فی رجب یاعدہ اللہ تعالیٰ  
 من النار کما قد اخرج اب طاز فرخا من وکرا  
 و هو فی الهواء حتی مات ہر ما وقیل الغراب  
 یعیش خمسائۃ عام و اما السابق فلا نہ  
 اول الاشہر الحزم و اما الفرد فلا نہ مفرد  
 عن اخوانہ کما روی ثور بن یزید قال قال  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع  
 فی خطبۃ الا ان الزمان قد استدار کدھبیتہ  
 یوم خلق اللہ السموات والارض السنۃ اثنا  
 عشر شہرا منها اربعۃ حرم ثلاث متوالیات  
 ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ و المحرم و واحد  
 فرد رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔  
**فصل آخر** وعن عکرمۃ عن ابن عباس  
 رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 انہ قال رجب شہر اللہ و شعبان شہری  
 و رمضان شہر امتی وعن موسیٰ بن عمران  
 قال سمعت النس بن مالک رضی اللہ عنہ  
 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 ان فی الجنة نھرا یقال لہ رجب اشد بياضاً  
 من اللبن و احلی من العسل من صام لیوما من

لئے والی نعمت کی مقدار کا اندازہ لگانا چاہیں تو دسویں حصہ کے دسویں حصہ  
 کا بھی اندازہ نہ لگا سکیں گے۔ عبد اللہ بن زبیر: جو ماہ رجب اللہ کے  
 بہرے مہینہ ایسی ہی مومن کی کوئی بیقراری اور تکلیف دور کر دے تو حق تعالیٰ  
 جل مجدہ اسے فردوس میں ایک قصر عطا فرمائے گا جو اسکی منتہائے نگاہ تک پھیلا  
 ہوا ہوگا کان کھول کر سن لو رجب المرجب کا احترام کرو حق تعالیٰ جل شانہ  
 تمہاری عزت فرمائے گا اور تم کو ایک ہزار بزرگیاں عطا فرمائے گا۔  
 عقبہ بن سلام بن قیس: یہی صلعم نے فرمایا کہ جو رجب میں صدقہ کرتا ہے حق تعالیٰ  
 اسے جہنم سے اتنی دور فرمادیتے ہیں جتنی دور ایک کوسے کا بچہ اپنے گھونسلے سے مکمل کر  
 عمر بھر اڑتا ہی چلا جائے حتیٰ کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مرجائے (اندازہ  
 لگائیے کہ وہ بچہ اپنی ساری عمر میں کتنی مسافت طے کرے گا) اکتے ہیں کوسے کی  
 پانچ سو سال کی عمر ہوتی ہے۔

**رجب کو سابق کہنے کی وجہ** رجب کو سابق اس لئے کہا جاتا ہے  
 کہ حرمت کے چار مہینوں میں سب سے پہلا یہی مہینہ ہے۔

**رجب کو فرد کہنے کی وجہ** رجب کو فرد اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ  
 حرمت والے مہینوں سے الگ ہے جیسا کہ ثور بن یزید کا بیان ہے کہ رسول  
 صلعم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا کہ دیکھو زمانہ گھوم گھام کر اسی  
 پر آگیا ہے جس بہت پر اس دن تھا جس دن اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے  
 تھے سال بارہ ماہ کا ہوتا ہے جن میں چار حرمت والے مہینے ہیں تین تو لگانا  
 ہیں یعنی ذی قعد، ذی الحج اور محرم اور ایک تنہا ہے یعنی مضر کا رجب جو  
 جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔

**حرمت والے مہینوں کے سلسلہ میں احادیث و اقوال**  
 از عکرمہ از ابن عباس از نبی صلعم: رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا  
 مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ از موسیٰ بن عمران  
 بسامع النس بن مالک: رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جنت کی اینٹ کا  
 نام رجب ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ

رجب سقاہ اللہ من ذلك الشهر وعن انس بن  
 مالك رضى الله عنه انه قال ان في الجنة  
 قفرا لا يدخله الا صوام رجب وعن ابى  
 هريرة رضى الله عنه انه قال لم يصم  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد  
 رمضان الا رجب وشعبان وعن انس رضى الله  
 عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم من صام ثلاثة ايام من الشهر الحرام  
 الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة  
 تسعمائة سنة وقيل رجب لترك الجفاء و  
 شعبان للعمل والوفاء ورمضان للصدق  
 والصفاء رجب شهر التوبة شعبان شهر المحبة  
 رمضان شهر القربة رجب شهر الحرمة شعبان  
 شهر الخدمة رمضان شهر النعمة رجب شهر  
 العبادة شعبان شهر الزهادة رمضان شهر  
 الزيادة رجب شهر بضاعف الله فيه الحسنات  
 شعبان شهر تكفر فيه السيئات رمضان شهر  
 تنتظر فيه الكرامات رجب شهر السابقين  
 شعبان شهر المقتصدین رمضان شهر العامين  
 وقال ذوالنون المصرى رحمه الله رجب  
 لترك الآفات وشعبان لاستعمال الطاعات  
 ورمضان لانظار الكرامات فمن لم يترك  
 الآفات ولم يستعمل الطاعات ولم ينتظر  
 الكرامات فهو من اهل الترهات وقال  
 ايضا رحمه الله رجب شهر الزرع وشعبان

شیریں ہے جو رجب کا ایک روزہ رکھ لیا حق تعالیٰ اسے اس ہنر سے پانی  
 پلائیگا، انس بن مالک، جنت میں ایک قصر ہے جس میں رجب میں  
 روزے رکھنے والے ہی داخل ہونگے البوہریرہ: نبی صلعم نے رمضان کے  
 بعد ہی ماہ کے اکثر روزے نہیں رکھے بجز رجب وشعبان کے۔ انس؛  
 رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جو کسی حرمت والے مہینے کے جمعرات، جمعہ اور  
 ہفتہ کے تین روزے رکھ لے حق تعالیٰ شانہ اس کے لئے نو سال کی  
 عبادت لکھے گا۔ کہا جاتا ہے رجب ترک غداری کے لئے ہے شعبان فرماؤ اور  
 اور وفاداری کے لئے ہے اور رمضان صدق و صفائی کے لئے ہے رجب تو بہ  
 کا مہینہ ہے شعبان محبت کا مہینہ ہے اور رمضان تقرب کا مہینہ ہے رجب  
 حرمت کا شعبان خدمت کا اور رمضان نعمت کا مہینہ ہے، رجب عبادت  
 کا شعبان زہد و ریاضت کا اور رمضان زیادت کا مہینہ ہے رجب میں  
 حق تعالیٰ نیکیاں دگنی فرمادیتا ہے، شعبان میں برائیاں مٹا دیتا ہے اور  
 رمضان میں بزرگیوں کا انتظار کیا جاتا ہے اور رجب نیکیوں میں سبقت  
 کرنے والوں کا، شعبان درمیانی مومنوں کا اور رمضان گنہگاروں کا مہینہ  
 ذوالنون مصری، رجب ترک آفات کے لئے، شعبان عبادت کے  
 لئے اور رمضان کرامات کے لئے ہے پھر جو آفات ترک نہ کرے اور  
 طاعات پر عمل نہ کرے اور کرامات کا منتظر نہ رہے تو وہ بیہودہ لوگوں  
 میں سے ہے۔ ذوالنون مصری: رجب بونے کا، شعبان پانی پینے  
 کا اور رمضان کھینتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے ہر شخص اپنی بوٹی ہوئی کھینتی  
 کو کاٹتا ہے اور اپنے کاموں کا اجر پاتا ہے اور جو کھینتی ہی ضائع کرے  
 تو کاٹنے کے دن پشیمان ہوگا اس کا گمان چھوٹا ہوگا اور اس کا انجام  
 برا ہوگا۔

بعض صلحاء: سال بمنزلہ ایک درخت کے ہے رجب اس درخت  
 میں تپے پھوٹنے کا زمانہ ہے، شعبان اس میں پھل آنے کا موسم ہے  
 اور رمضان پھل کپنے کا وقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رجب میں خاص



شهر السقی ورمضان شهر الحصاد وکل یوم  
مازرع و یجزی ما صنع ومن ضیع الزراعة  
ندم یوم حصاده و اختلف ظنه مع سوء معاده  
وقال بعض الصالحین السنة شجرة رجب  
ایام ابراقها و شعبان ایام اثمارها ورمضان  
ایام قطفها و قیل خص رجب بالمغفرة  
من الله تعالی و شعبان بالشفاعة ورمضان  
بتضعیف الحسنات و لیکن القدر بانزال الرحمة  
و یوم عرفه باکمال الدین كما قال الله تعالی  
الیوم اکملت لکم دینکم و یوم الحججة  
یا جابہ ادعیة الداعین و یوم العید بالعتق  
من النار و فکاک رقاب المؤمنین قال المازنی  
عن الحسین بن علی رضی الله عنهما انه قال  
صوموا رجب فان صوم رجب توبه من الله  
عز و جل و روی عن سلمان الفارسی رضی الله  
عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه  
و سلم یقول من صام یوما من رجب فکاننا  
صام الف سنة و کاننا اعتق الف رقبة و من  
تصدق فیہ بصدقة فکاننا تصدق بالف  
دینار و کتب الله له بكل شعرة علی بدنہ  
الف حسنة و رفعه الف درجة و معانده  
الف سیئة و کتب له بكل یوم یصومه  
و بكل صدقة یتصدق بها الف حجة  
و الف عمرة و نبی له فی الجنة الف دار و  
الف قصر و الف حجرة و فی کل حجرة الف

طور سے حق تعالیٰ کی بخشش ہوتی ہے، شعبان میں شفاعت  
ہوتی ہے اور رمضان میں نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں اور  
شب قدر میں خاص طور سے نعمتوں کا نزول ہوتا ہے اور عرفہ  
کے دن دین تکمیل کو پہنچا فرمایا: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا  
دین مکمل کر دیا اور جمعہ دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کی قبولیت کا  
دن ہے اور عید آگ سے آزاد ہونے کا اور مومنوں کی آگ سے  
گد نہیں چھوٹنے کا دن ہے۔

مازنی از حسین بن علی: رجب میں روزے رکھو کیوں کہ  
کے روزے حق تعالیٰ شانہ سے توبہ کرنا ہے۔

سلمان فارسی: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ  
آپ نے فرمایا: جو رجب کا ایک روزہ رکھے گویا اس نے  
ایک ہزار سال کے روزے رکھے اور گویا اس نے ایک ہزار  
غلام آزاد کئے اور جو اس میں خیرات کرے گویا اس نے ایک  
ہزار دینار خیرات کئے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے  
عوض ایک ہزار نیکیاں لکھتا ہے، ایک ہزار درجے بلند  
فرماتا ہے اور ایک ہزار برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے  
لئے رجب کے ہر روزے کے عوض اور ہر صدقہ کے عوض  
ایک ہزار حج اور ایک ہزار عمرے لکھ لیتا ہے اور اس کے  
لئے جنت میں ایک ہزار گھر، ایک ہزار محل اور ایک ہزار  
حجرے بنا دیتا ہے اور ہر حجرے میں ایک ایک ہزار خیمے بنتے  
ہیں اور ہر خیمہ میں ایک ایک ہزار عورتیں ہوتی ہیں جو چمک  
میں سورج سے بھی ہزار گنا بڑھی ہوئی ہیں۔

رجب کی پہلی تاریخ کے دن کے روزے کی  
اور شب بیداری کی فضیلت

ہمیں امام  
شیخ سیدنا

سقطی نے اپنی اسناد سے حضرت انس بن مالک سے خبر دی کہ

جب رجب شروع ہوتا تو رسول اکرم صلعم فرماتے : اے اللہ میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔

یہیں شیخ امام ہبۃ اللہ نے اپنی اسناد سے میمون بن مهران سے انھوں نے حضرت ابوذر سے انھوں نے نبی صلعم سے خبر کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھے تو یہ روزہ ثواب میں ایک ماہ کے روزوں کے برابر ہے اور جو سات روزے رکھے اس سے جہنم کے ساتوں دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جو آٹھ رکھے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں اور جو دس رکھے حق تعالیٰ اس کی برائیوں سے بدل ڈالے گا اور جو ۱۸ روزے رکھے تو ایک منادی آسمان سے اعلان کرتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دئے گئے اب از سر نو نیک عمل کر۔

یہیں شیخ امام ہبۃ اللہ نے اپنی اسناد سے سلامہ بن تیس سے خبر دی سلامہ سے نبی صلعم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھے حق تعالیٰ شانہ اس کے ۶۰ سال کے گناہ معاف فرمادے گا اور جو ۱۵ روزے رکھے تو حق تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور جو رجب کے ۳۰ روزے رکھے حق تعالیٰ اس کے لئے اپنی رضا لکھ لے گا اور اسے عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔

منقول ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے حجاج بن ارطاة یا عذی بن ارطاة جا مکہ بصرہ کو لکھا اس سال بھر میں چار رکعتوں کی حفاظت کرنی ضروری ہے کیونکہ حق تعالیٰ ان میں اپنی رحمت پانی کی طرح اندھینا ہے اور رجب کی پہلی رات نصف شعبان کی رات اور رمضان کی ۲۷ ویں رات اور عید الفطر کی رات۔

مقصورة وفي كل مقصورة الف حوراء احسن من الشمس ألف مرة۔

**فصل:** في فضل صيام اول يوم من رجب وقيام اول ليلة منه اخبرنا الامام الشيخ هبة الله السقطي رحمه الله باسنادة عن انس بن مالك رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واخبرنا الشيخ الامام هبة الله باسنادة عن ميمون بن مهران باسنادة عن ابي ذر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام اول يوم من رجب عدل صيام شهر ومن صام سبعة ايام تخلقت عنه الجواب جهنم السبعة ومن صام ثمانية ايام فتحت له ابواب الجنة الثمانية ومن صام منه عشرة ايام بدل الله سيئاته حسنات ومن صام منه ثمانية عشر يوما نادى من السماء قد غفر لك فاستأنفت العمل واخبرنا الشيخ الامام هبة الله باسنادة عن سلامة بن تيس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم من صام اول يوم من رجب كفر الله عنه ذنوب ستين سنة ومن صام خمسة عشر يوما حاسبه الله حسابا يسيرا ومن صام ثلاثين يوما من



رجب کتب اللہ تعالیٰ لہ رضوانہ ولم یعذبہ وروی  
ان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کتب الی الحجاج بن  
ارطاة وهو علی البصری وقیل الی عدی بن ارطاة علیک  
باربع لیال فی السنۃ فان اللہ تعالیٰ یفرغ فیہن الرحۃ  
انراھا وہی اول لیلة من رجب ولیلة النصف من شعبان  
ولیلة السابع والعشرون من رمضان ولیلة الفطر و  
عن خالد بن معدان رحمہ اللہ انه قال خمس لیال  
فی السنۃ من واطب علیہن رجاء ثوابہن وتصدیقا  
یوعدہن ادخلہ اللہ تعالیٰ الجنة اول لیلة من رجب  
یقوم لیلھا ویوم نھا رھا ولیلتی العیدین یقوم  
لیلھا ویفطر نھا رھا ولیلة النصف من شعبان  
یقوم لیلھا ویوم نھا رھا ولیلة عاشوراء یقوم  
لیلھا ویوم نھا رھا۔

**فصل:** وقد جمع بعض العلماء رحمہم اللہ  
الیالی التي یتتبع احباؤها فقال انها اربع  
عشر لیلۃ فی السنۃ وہی اول لیلة من شہر  
المحرم ولیلة عاشوراء واول لیلة من شہر  
رجب ولیلة النصف منہ ولیلة سبع وعشرون منہ  
ولیلة النصف من شعبان ولیلة عرفة ولیلتا  
العیدین وخمس لیال منھا فی شہر رمضان و  
من وتر لیالی العشر الاواخر وكذلك یتتبع  
مواصلة سبعة عشر یوما بالاراد والمواظبة

خالد بن معدان: سال میں پانچ راتیں انتہائی اہم ہیں جو  
ان کے ثواب پر ایمان لاکر ان کے ثواب کی امید پر ان کی  
حفاظت کرے، حق تعالیٰ جل مجدہ اسے جنت میں داخل  
فرمادے گا: رجب کی پہلی رات، اس رات میں عبادت کی جائے اور اس  
کے دن میں روزہ رکھا جائے، عید و بقر عید کی دو راتیں ان راتوں  
میں جاگ کر عبادت کرے اور ان کے دنوں میں روزہ نہ رکھے  
رکھے، اور عاشوراء کی رات میں جاگ کر عبادت کی جائے اور  
دن میں روزہ رکھا جائے۔

**برکت والے اور معزز ایام** بعض علماء نے ان راتوں  
کو جمع کر دیا ہے جن میں جاگ کر عبادت کرنی مستحب ہے  
انہوں نے فرمایا ہے کہ اس قسم کی مبارک راتیں پورے سال  
میں چودہ راتیں ہیں، محرم الحرام کی پہلی رات، محرم الحرام  
کی دسویں تا بیسویں کی رات، رجب المرجب کی پہلی رات، نصف  
رجب کی رات، ۲۴ ویں رجب کی رات، نصف شعبان کی  
رات، عرفہ کی رات، عید کی رات، بقر عید کی رات، رمضان  
کے پچھلے عشرے کی پانچ طاق راتیں۔

اسی طرح، مخصوص دن ہیں جن میں اور اردو وظائف میں مشغول رہنا  
اور دن بھر عبادت کرنا مستحب ہے عرفہ کا دن، عاشوراء کا دن  
نصف شعبان کا دن، جمعہ کا دن، عید کا دن، بقر عید کا دن،  
ذی الحج کا پہلا عشرہ جسے ایام معلومات کہا جاتا ہے اور ایام  
تشریق جن کو ایام محدودات کہا جاتا ہے ان میں مؤکد جمعہ کا  
دن اور رمضان کا مہینہ ہے کیونکہ رحمت عالم صلعم نے فرمایا کہ

غالباً کاتب سے عربی عبارت میں لفظ لا چھوٹ گیا ہے مگر ہم نے ترجمہ میں اس لفظ کی رعایت کی ہے تاکہ مطلب صحیح  
احادیث کے موافق رہے۔ واللہ اعلم وعلیہ التمس۔

على العبادۃ فیہا وہی یوم عرفۃ و یوم عاشوراء  
 و یوم النصف من شعبان و یوم الجمعة و یوم  
 العیدین و الايام المعلومات وہی عشر ذی الحجۃ  
 و الايام المعدودات وہی ايام الشریق و اکدھا  
 یوم الجمعة و شہر رمضان لما روی انس رضی اللہ  
 عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
 اذا سلم یوم الجمعة سلمت الايام و اذا سلم  
 شہر رمضان سلمت السنۃ ثم اکد الايام  
 و افضلھا بعد ذلک یوم الاثنين و الخميس  
 هما یومان ترفع فیہما الاعمال الی اللہ عزوجل۔  
**فصل:** فی الادعیۃ الماثورۃ فی اول  
 لیلۃ من رجب و یتوجب ان یدعو فی اول  
 لیلۃ من رجب اذا فرغ من صلاتہ بہذا الدعاء  
 و هو ان یقول الہی تعرض لک فی هذا اللیلۃ  
 المتعرضون و تصدک القاصدون و اصل فضلك  
 و معروفک الطالبون و لک فی هذا اللیلۃ تفتح  
 و جوائز و عطایا و مواہب تنبھا علی من تشاء  
 من عبادک و تمنعھا ممن لم تسبق لہ العنایۃ  
 منک و ہا انا عبدک الفقیر الیک المؤمن  
 فضلك و معروفک فان کنت یا مولای تفضلت  
 فی هذا اللیلۃ علی احد من خلقک و جدت  
 علیہ بعائدۃ من عطفک فضل علی محمد  
 و آلہ و جد علی بطولک و معروفک یا رب  
 العالمین و کان علی بن ابی طالب رضی اللہ  
 عنہ یفرغ نفسه للعبادۃ فی اربع لیلای فی السنۃ

اگر جمعہ کا دن رعایت کے ساتھ صحیح سالم گزر جائے  
 تو ہفتہ کے تمام دن صحیح و سلامتی سے گزریں گے اور اگر  
 ماہ رمضان صحیح و سالم گزر جائے تو تمام سال صحیح سالم  
 گزرے گا۔ پھر اس کے بعد انتہائی موکد اور افضل دن پر پورے  
 جمعرات کے دن ہیں، یہ وہ دن ہیں جن میں بندوں کے  
 اعمال حق تعالیٰ جل مجدہ کی طرف بلند کئے جاتے ہیں۔

### رجب کی اوعیۃ ماثورہ

رجب کی پہلی شب میں نماز سے  
 فارغ ہو کر یہ دعا مستحب ہے

اے میرے معبود! اس رات میں تیرے دربار میں آنے والے  
 آئے اور قصد کرنے والوں نے تیرا قصد کیا اور طلب گاروں  
 نے تیرے فضل و احسان کی امیدیں باندھیں۔

تیرے اس رات میں ترشحات ہیں اور تحائف و عطیات  
 ہیں اور کرم و نوازشات ہیں جن سے تو اپنے بندوں میں سے  
 جن پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور جن کو تو ان سے روک لیتا ہے  
 جن کے لئے تیری عنایت و مہربانی نے سبقت نہیں کی، اے مالک  
 میں تیرا بندہ ہوں اور ہمہ وقت تیرا محتاج و فقیر ہوں اور تیرے  
 فضل و احسان کا امیدوار ہوں، اے میرے مولا! اگر تو نے  
 اس رات میں اپنی مخلوق میں سے اپنے کسی بندے پر فضل فرمایا ہے  
 اور اپنی مہربانی سے کسی عطیہ کے ساتھ اس پر بخشش فرمائی ہے  
 تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل و عیال پر اپنی رحمت بھیج  
 اور مجھے اپنے کرم و نوازشات سے عطا فرما اے تمام جہانوں کے  
 پروردگار! میری دعا قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔

حضرت علیؑ پورے سال میں خاص طور سے عبادت کے لئے  
 ان چار راتوں میں خوب سرگرم عمل رہا کرتے تھے رجب کی پہلی  
 رات ہیں، عید الفطر کی رات ہیں، عید الفصحی کی رات ہیں



وهی اول نيلة من رجب و ليلة الفطر و ليلة  
الاضحی و ليلة النصف من شعبان و كان من  
دعائه فيها اللهم صل على محمد و آله مصابيح  
الحكمة و موالی النعمة و معادن العسمة و اعصم  
بهم من كل سوء و لا تاخذني على غرة و لا على  
غفلة و لا تجعل عواقب امري حسرة و ندامة  
و ارض عني فان مغفرة لك للظالمين و انا من الظالمين  
اللهم اغفر لي ما لا يعترت و اعطني ما لا ينفعك  
فانك الواسعة رحمة اليد بعة حكمة فاعطني  
السعة و الدعة و الامن و المحبة و الشكر و  
المعافاة و التقوى و افرغ الصبر و الصدق  
على و على اوليائك و اعطني اليسر و لا تجعل معني  
العسر و اعلم بذلك اهلي و ولدي و اخواني  
فيك و من ولدني من المسلمين و المسلمات  
و المؤمنین و المؤمنات۔

**فصل** : فی الصلاة الوردية فی شهر رجب  
اخبرنا الشيخ الامام هبة الله بن المبارك  
السقطي حدثنا محمد بن احمد المعاملي حدثنا  
علي بن محمد بن اسماعيل بن محمد الصفار  
اخبرنا سعيد بن نصر بن المنصور البزار  
اخبرنا سفيان بن عيينة عن الاعمش عن طارق  
بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه عن النبي  
صلى الله عليه وسلم انه قال وقد استهل  
رجب يا سليمان ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي  
في هذا الشهر ثلاثين ركعة يقرأ في كل ركعة

میں اور نصف شعبان کی رات میں۔ اور آپ ان چاروں راتوں  
میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ محمد صلعم پر اور آپ کے اہل عیال  
پر اپنی رحمتیں نازل فرما جو علم و حکمت کے چراغ، افضل و نعمت  
والے اور عصمت کی گاہیں ہیں اور ان کے ساتھ مجھے بھی ہر برائی  
سے محفوظ فرما اور مجھے بے خبری اور غفلت کی حالت میں نہ  
پکڑ اور میرے اعمال کے نتائج میرے لئے موجب حسرت نہ امت  
نہ بنا اور مجھ سے راضی ہو جا کیونکہ تیری مغفرت ظالموں کے لئے  
ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں، اے اللہ مجھے وہ چیز بخش جو مجھے  
ضرر نہیں پہنچاتی اور وہ چیز جو مجھے نفع نہیں پہنچاتی کیونکہ تیری رحمت  
مہت و وسیع ہے اور تیری حکمت اپنی مثال آپ ہے لہذا مجھے  
وسعت آرام، امن، صحت، نعمتوں پر شکر کی توفیق، عافیت، مصائب  
پر صبر اور تجھ پر اور تیرے اولیاء کی باتوں پر ایمان و یقین عطا فرما اور  
اور مشکلات کی موجودگی میں مجھے آسانی دے اور اپنی ہمہ گیر رحمت میری  
اہل و عیال پر، پر سا اور میرے دینی بھائیوں پر بھی جو تیرے دین پر قائم ہیں  
اور میرے مال باپ پر بھی اور تمام مسلمان و مومن مردوں اور عورتوں پر بھی۔  
ماہ رجب کی نمازیں | باخباہ شیخ امام ہبۃ اللہ بن مبارک  
سقطنی تجدد بیٹ محمد بن احمد محاملی تجدد بیٹ علی بن محمد اسماعیل بن محمد  
صنار باخباہ سعد بن نصر بن منصور بزاز باخباہ سفیان بن عیینہ  
از اعمش از طارق بن شہاب از سلمان از نبی صلعم کہ آپ نے فرمایا  
جب کہ رجب کا ہلال نظر آگیا تھا کہ اے مسلمان جو کوئی مومن مرد  
یا عورت اس عینہ میں ۳۰ رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ  
فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص اور کافرون میں تین بار پڑھے  
تو حق تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیگا اور تمام کے روزے رکھنے والے  
کی برابر ثواب عطا فرمائے گا اور آنے والے سال کے نمازیوں  
میں اس کا شمار ہوگا اور روزانہ اس کا عمل بدری شہید کے

فاتحة الكتاب وقل هو الله احد ثلاث مرات  
 وقل يا ايها الكافرون ثلاث مرات الامعا  
 الله عنده ذنوبه واعطى من اجر كمن صام  
 الشهر كله وكان من المصلين الى السنة  
 المقبلة ورفع له كل يوم عمل شهيد من شهد  
 بدرو كتب له بصيام كل يوم عبادة سنة  
 ورفع له الف درجة فان صام الشهر كله  
 وصلى هذا الصلوات انجى الله من النار و  
 اوجب له الجنة وكان في جوار الله سبحانه  
 اخبرني بذلك جبريل عليه السلام وقال يا  
 محمد هذه علامة بينكم وبين المشركين  
 والمنافقين لان المنافقين لا يميلون ذلك  
 قال سلمان رضي الله عنه قلت يا رسول  
 اخبرني كيف اصليها ومتى اصليها قال يا  
 سلمان تصلي في اوله عشر ركعات تقراء في  
 كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة  
 وقل هو الله احد ثلاث مرات وقل يا  
 ايها الكافرون ثلاث مرات فاذا سلمت  
 رفعت يديك وقلت لا اله الا الله وحده  
 لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي و  
 يبیت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على  
 كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا  
 معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدم منك الجدم  
 ثم امسح بهما وجهك وصل في وسط الشهر  
 عشر ركعات اقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب

عمل کے برابر بلند کیا جائے گا اور اس کے لئے ہر روزے کے بدلہ  
 ایک سال کی عبادت لکھی جائے گی اور ہزار درجے بلند کئے جائیں  
 گے اگر کوئی پورے ماہ کے روزے رکھے اور یہ نماز پڑھے تو  
 اسے اللہ تعالیٰ آگ سے نجات عطا فرمائے گا اور اس کے لئے جنت  
 واجب فرمادے گا اور وہ حق تعالیٰ سبحانہ کے پڑوس میں رہے گا  
 مجھے اس کی اطلاع حضرت جبریل علیہ السلام نے دی اور فرمایا کہ  
 اے محمد صلعم یہ تمہارے اور مشرکوں اور منافقوں کے درمیان  
 ایک امتیازی نشان ہے کیونکہ منافق یہ نماز نہیں پڑھتے۔ سلمان فرماتے  
 ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ میں یہ نماز کس  
 طرح اور کب پڑھوں؟ فرمایا: سلمان! شروع مہینہ میں دس  
 رکعت پڑھو اور ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین تین  
 دفعہ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھو پھر سلام پھیر کر اپنے  
 دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو کہ معبود صرف اللہ ہے اور وہ  
 اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کی حمد  
 ہے، وہی حیات و موت دیتا ہے اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور  
 کبھی اس پر موت طاری ہونے والی نہیں، اسی کے ہاتھ میں ہر  
 طرح کی بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے لے اللہ  
 جو کچھ تو دے اسے کوئی رکنے والا نہیں اور جو کچھ تو نہ دے  
 اسے کوئی دینے والا نہیں اور تیرے عذاب سے مال والوں کو  
 ان کا مال بچانے والا نہیں پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لو  
 پھر درمیان میں دس رکعت نماز حسب سابق پڑھو اور علیٰ کل  
 شئی قدیر تک وہی دعا مانگو اور قدیر کے بعد یہ الفاظ پڑھاؤ  
 اللہ ایک ہی معبود ہے، اکتا ہے، بے نیاز ہے، تنہا ہے، اکیلا  
 ہے، بیوی بچوں والا نہیں پھر دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لو  
 پھر اخیر ماہ میں دس رکعت نماز پڑھو اور حسب سابق قرأت



مرۃ وقل هو اللہ احد ثلاث مرات وقل یا  
ایہا الکافرون ثلاث مرات فاذا سلمت  
فارفع یدیک الی السماء وقل لا الہ الا اللہ وحده  
لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت  
وہو حی لا یموت بید الخیر وہو کل شیء قدیر  
الہا و احد ا احد اضمد ا فردا و ترا الم تیخذ  
صاحبة ولا ولد انما یتوح بہما علی وجہک  
وصل فی آخر الشهر عشر رکعات اقراء فی  
کل رکعة فاتحة الكتاب مرۃ واحدة و  
قل هو اللہ احد ثلاث مرات وقل یا ایہا  
الکافرون ثلاث مرات فاذا سلمت فارفع  
یدیک الی السماء وقل لا الہ الا اللہ وحده  
لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت  
بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر و صلی اللہ  
علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولاحول  
ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وسل حاجتک  
یتجیب لک دعاؤک ویجعل اللہ بینک و بین  
جہنم سبعین خندا کل خندق کما بین السماء  
والارض ویکتب لک بكل رکعة الف الف  
رکعة ویکتب لک براءۃ من النار و جواز علی  
الصراط قال سلمان رضی اللہ عنہ فلما فرغ  
النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحدیث خررت  
ساجدا ا بکی شکر اللہ تعالیٰ لما سمعت من ہذا  
الزیادۃ وجدت فی کتاب العمل بالسنة  
واللہ اعلم **فصل** فی تاکید الفقیلۃ فی صوم

۲۲۸  
کرو اور حسب سابق تدریج تک دعا مانگو اور قدر کے بعد یہ  
الفاظ بڑھا دو، حق تعالیٰ شانہ ہمارے سردار حضرت  
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیجے، اور آپ  
کی پاکیزہ آل پر بھی اور گناہوں سے بچنے کی، اور نیک  
عمل کرنے کی طاقت اللہ ہی جو بلند و عظیم ہے عطا فرماتا  
ہے اور اپنی مرادیں مانگو تمہاری دعائیں قبول کی جائیں  
گی، اور تمہارے اور جسم کے درمیان ستر خندقیں حاصل  
کر دی جائیں گی جن کا آسمان و زمین کے برابر عرض ہو گا اور ایک ایک  
رکعت کے عوض دس دس لاکھ رکعتیں لکھی جائیں گی اور تمہارے لئے  
آگ سے برأت کا پردہ نازل جائے گا اور پھر اس سے گزرنے کا اجازت نامہ بھی مل جائے گا  
سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رحمت عالم صلی اللہ  
علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر کے فارغ ہو گئے تو سجدے  
میں گر گئے اور رور و کر حق تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے  
لگے۔

جب میں نے یہ مزید الفاظ سنے تو انہیں تلاش کیا اور  
مجھے یہ الفاظ "کتاب العمل بالسنة" میں مل گئے۔

رجب کی پہلی جمعرات کے روزہ کی اور پہلے **باخبار شیخ**  
جمعہ کی رات کی نماز کی تاکید و فضیلت **ابو البرکات**

صیۃ اللہ سقنی، باخبار قاضی ابو الفضل جعفر بن یحییٰ بن کمال کی،  
باخبار ابو عبد اللہ حسین بن عبد الکریم بن محمد جزری رکبہ میں  
مسجد حرام میں،

باخبار ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن جہضم صمدانی، باخبار  
ابو الحسن علی بن محمد بن سعید سعدی بصری، باخبار سعید  
..... سعدی بصری، باخبار خلف بن عبد اللہ صغانی  
از حمید طویل از انس بن مالک: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اول الخمیس من رجب والصلوة فی اول لیلة الجمعة۔  
 اخبرنا الشیخ ابوالبرکات هبة الله السقطی اخبرنا  
 القاضی ابوالفضل جعفر بن یحیی بن الکیال المکی  
 اخبرنا ابو عبد الله بن الحسین بن عبد الکریم بن محمد  
 بن محمد الجزری بدکة فی المسجد الحرام اخبرنا ابو  
 الحسن علی بن عبد الله بن جریهضم الهمدانی اخبرنا  
 ابوالحسن علی بن محمد ابن سعید السعدی البصری  
 اخبرنا ابی قال اخبرنا خلف بن عبد الله الصغانی  
 عن حید الطویل عن النس بن مالک رضی الله عنه قال  
 قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رجب شهر الله  
 وشعبان شهری ورمضان شهر امتی قیل یا رسول الله  
 ما معنی قولک شهر الله قال صلی الله علیه وسلم  
 لانه مخصوص بالمغفرة ووفیه تحقق الدماء ووفیه  
 کتاب الله تعالی علی انبیائه ووفیه القذا اولیاء لا من ید  
 اعدائه ومن صامه استرجح علی الله تعالی ثلاثة  
 اشیاء مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه وعصمة  
 فیما بقی من عمره واما الثالث فیا من العطش یوم  
 العرض الاکبر فقام شیخ ضعیف فقال یا رسول الله  
 انی اعجز عن صیامه کله فقال رسول الله صلی الله  
 علیه وسلم صم اول یوم منه وأوسط یوم منه  
 و آخر یوم منه فانک تعطی ثواب من صامه کله  
 فان الحسنة بعشر امثالها وکن لا تغفلوا عن  
 اول لیلة جمعة فی رجب فانها لیلة تسبیها  
 الملائكة لیلة الرغائب وذلك انه اذا مضی  
 ثلث اللیل لا یبقی ملک فی جمیع السموات والارضین

فرمایا: رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان  
 میری امت کا مہینہ ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا  
 کیا مطلب ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے؟ فرمایا: اس لئے کہ یہ مغفرت  
 کے ساتھ مخصوص ہے اور اس میں خوریزی بند کر دی جاتی ہے۔  
 اور اس میں حق تعالیٰ جل مجدہ نے بیسوں کی توبہ قبول  
 فرمائی اور اس میں اپنے اولیاء کو دشمنوں سے نجات بخشتی  
 اور انہیں ان کے ہاتھوں سے چھڑایا، اگر کوئی اس مہینہ میں  
 روزے رکھے تو اس کے حق میں اللہ نے اپنے اوپر تین  
 باتیں واجب فرمائیں۔ ماضی کے تمام گناہوں کی مغفرت  
 اور مستقبل میں مدت العزت تک گناہوں سے حفاظت اور یہ بھی کہ  
 وہ بڑی پیشی کے دن پیاس سے محفوظ رہے گا یہ سن کر ایک  
 کمزور بوڑھے شخص نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ میں  
 اس ماہ کے پورے روزے رکھنے سے عاجز ہوں فرمایا: اس  
 کی ابتدائی اور سببانی اور آخری تاریخ کے تین روزے  
 رکھ لو تم کو پورے ماہ کے روزوں کا ثواب مل جائے گا کیونکہ  
 ایک نیکی کی دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن ماہ رجب میں جمعہ کی پہلی  
 رات سے غافل نہ رہو کیونکہ یہ وہ رات ہے جسے فرشتے  
 لیلة الرغائب کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ جب یہ تنہائی  
 رات گزر جاتی ہے تو آسمانوں کے اور زمین کے تمام  
 فرشتے کعبہ اقدس کے پاس اور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے  
 ہیں۔ پھر حق تعالیٰ ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور  
 فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے جو دل چاہے مجھ سے مانگو فرشتے  
 کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری مراد یہ ہے کہ آپ  
 رجب میں روزے رکھنے والوں کو معاف فرمادیں اور انہیں  
 بخش دین حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں بخش دیا پھر



الا ويجتمعون في الكعبة وحواليها فيطلع الله  
تعالى عليهم اطلاقاً فيقول ملائكتي سلوني ما شئتم فيقولون ربنا فاجابنا  
ان تغفر لصوام رجب فيقول الله تعالى قد فعلت ذلك ثم قال رسول  
الله صلى الله عليه وسلم فما من احد يصوم ليوم الخميس اول  
خمس في رجب ثم يصلي فيما بين المغرب والعشاء العتمة  
يعني ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة  
بفاتحة الكتاب مرة وانا انزلنا في ليلة القدر  
ثلاث مرات وقل هو الله احد اثنتي عشرة مرة  
يفصل بين كل ركعتين بتسليمة فاذا فرغ من  
صلاته صلى على سبعين مرة يقول اللهم صل على  
محمد النبي الامي وعلى آله وسلم ثم يسجد سجدة  
يقول في سجود السجود قدوس رب الملائكة  
والروح سبعين مرة ثم يسجد الثانية فيقول  
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت  
العزير الاعظم سبعين مرة ثم يسجد الثانية  
فيقول فيها مثل ما قال في السجدة الاولى  
ثم يسأل الله حاجته في سجود السجود فانها تقضى  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذئب نفسى  
بيده ما من عبد ولا امة صلى هذه الصلاة  
الا غفر الله له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد  
البحر وعدد الرمل ووزن الحياض وعدد قطر  
الامطار وورق الاشجار وشفع يوم القيامة  
في سبعائة من اهل بيته فاذا كان اول ليلة في  
قبره جاءه ثواب هذه الصلاة لوجهه طلق و  
لسان ذلق فيقول له يا حبيبي البشر فقد نجوت

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رجب کی پہلی جمعرات کا  
روزہ رکھے پھر جمعہ کی رات میں مغرب سے لے کر عشاء تک بارہ  
رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ  
تین بار سورہ قدر اور بارہ بار سورہ اخلاص پڑھے اور  
ہر دو رکعت پر سلام پھیر دے اور سلام پھیر کر ستر بار یہ  
درود پڑھے اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آله وسلم  
پھر سجدے میں جا کر ستر بار یہ دعا پڑھے سبحان قدوس  
رب الملائكة والروح پھر سجدے سے سر اٹھا کر ستر بار یہ دعا  
پڑھے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت العزيز  
الاعظم پھر دوسرے سجدے میں جا کر پہلے سجدے والی دعائیں  
پڑھے پھر حق تعالیٰ شانہ سے سجدے ہی میں اپنی مرادیں  
مانگے تو مرادیں پوری ہوں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو بندہ اور  
جو کیز یہ نماز پڑھے گی یقیناً حق تعالیٰ اس کے تمام گناہ  
بخش دیگا اگرچہ گناہ سمندر کے جھاگ کی آہٹ کے ذرات کی  
پہاڑوں کے وزن کی بارش کے قطروں کی اور درختوں کے پتوں کی  
برابر کیوں نہ ہو اور قیامت کے دن اس کی شفاعت اس کے  
خاندان کے سات آدمیوں کے حق میں قبول کر لی جائے گی اور  
قبر کی پہلی ہی شب میں اس کے پاس اس نماز کا ثواب کھلے ہوئے  
چہرے کے اور جاری زبان کے ساتھ آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے  
محبوب آپ کو بشارت ہو آپ ہر سختی سے بچ گئے یہ کہے گا کہ  
آپ کون ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت  
چہرے والا کسی کو نہیں دیکھا اور نہ آپ کے کلام سے میں کسی  
کا کلام سنا اور نہ آپ کی خوشبو سے زیادہ دلآویز خوشبو  
کسی کی سونگھی وہ جواب دے گا کہ اے میرے پیارے میں

من كل شدة فيقول من انت فوالله ما رأيت رجلا  
احسن وجهها من وجهك ولا سمعت كلاما احلى  
من كلامك ولا شميت رائحة اطيب من رائحتك  
فيقول له يا حبيبي ان الثواب تلك الصلاة التي في ليلة  
كذا في شهر كذا في سنة كذا اجتت الليلة لافضى  
حاجتك وادلس وحدتك وادفع عنك وحشتك  
فاذا نفخ في الصور اظلتك في عرصات القيامة  
على رأسك فابشر فلن نعد ما الخير من مولاك ابدا۔

**فصل** : في فضل صيام يوم السابع والعشرين  
من رجب اخبرنا الشيخ ابو البركات هبة الله  
السقطي قال اخبرنا الشيخ الحافظ ابو بكر احمد بن  
علي ثابت بن الخطيب قال اخبرنا عبد الله ابن  
علي بن محمد بشير قال اخبرنا علي بن عمر الحافظ  
اخبرنا ابو بكر نصر بن حبيشون ابن موسى الخلال  
اخبرنا علي بن سعيد الديلمي اخبرنا نصر بن  
ربيعة القرشي عن ابن شوزب عن مطر الوراق  
عن شهر بن حوشب عن ابى هريرة رضي الله  
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام  
يوم السابع والعشرين من رجب كتب له ثواب  
صيام ستين شهرا وهو اول يوم نزل فيه  
جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة  
واخبرنا هبة الله باسناده عن الحسن البصري  
رحبه الله قال كان عبد الله بن عباس رضي الله  
عنه اذا كانا يوم السابع والعشرين من رجب  
اصبح معتكفا وطل مصليا الى وقت الظهر

اس نماز کا ثواب ہوں جو آپ نے فلاں رات میں فلاں ماہ میں اور  
فلاں سال پڑھی تھی آج میں اس لئے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ  
آپ کی خدمات انجام دوں اور تنہائی میں آپ کا مونس بنوں اور  
آپ کی وحشت دور کروں اور قیامت کے دن جب صور  
پھونکا جائے گا تو میں میدان محشر میں آپ پر چھاؤں کر  
دوں گا، لہذا آپ کو مشرودہ ہو کہ آپ کبھی اپنے مولا کے پاس  
اپنی نیکی معدوم نہ پائیں گے۔

\*

رجب کی ۲۷ ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت

بخاری  
شیخ ابوالبركات ہبہ اللہ سقطی، باخبا ریشخ حافظ ابو بكر احمد بن علی  
بن ثابت خطیب، باخبا ر عبد اللہ بن علی بن محمد بن بشیر، باخبا ر  
حافظ علی بن عمر، باخبا ر ابو بكر نصر حیشون بن موسی الخلال، باخبا ر  
علی بن سعید دیلمی، باخبا ر ضمرة بن ربیعہ قرشی از ابن شوزب  
از مطر الوراق از شهر بن حوشب از ابو ہریرہ از نبی اکرم صلعم  
جو رجب کی ستائیسویں تاریخ کا روزہ رکھے گا اسے ۶۰ ماہ کے  
روزوں کا ثواب ملے گا یہ وہ پہلا دن ہے جس دن حضرت  
جبریل رحمت عالم صلعم پر وحی لے کر آسمان سے اترے تھے۔  
باخبا ر ہبہ اللہ از حسن بصری، حضرت عبد اللہ بن عباس رجب  
کی ۲۷ ویں تاریخ کی صبح کو اعتکاف میں ہوتے تھے اور ظہر تک نماز  
پڑھتے رہتے تھے پھر ظہر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر نفل پڑھتے  
پھر چار رکعت نماز پڑھتے ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ  
ایک بار معوذتین تین بار سورہ قدر اور ۱۵ بار سورہ اخلاص  
پڑھتے پھر عصر تک برابر دعائیں مانگتے رہتے اور فرماتے کہ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اسی طرح کیا کرتے تھے۔  
باخبا ر ہبہ اللہ از ابو سلمہ از ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و



فاذا صلى الظهر تنقل هنيهة ثم صلى اربع ركعات يقراء  
في كل ركعة الحمد لله مرة والمعوذتين مرة واذا انزلناه  
في ليلة القدر ثلاثا وقل هو الله احد خسين مرة  
ثم يجلد الى الدعاء الى وقت العصر ويقول هكذا كان  
يصنع رسول الله عليه وسلم في هذا اليوم واخبرنا  
هبة الله باسناد عن ابى سلمة عن ابى هريرة وسلمان  
الفارسي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم ان في رجب يوم ما و ليلة من صام ذلك  
اليوم وقام تلك الليلة كان له من الاجر كمن صام  
مائة سنة وقام لياليها وهي لثلاثة يتقين من رجب  
وهو اليوم الذي بعث فيه نبينا صلى الله عليه وسلم  
**فصل في آداب الصيام وما ينهى عنه من**  
الاتام وينبغي للمصائم ان يجرد صومه من الاتام  
وتيمه بتقوى الله عز وجل لما اخبرنا به الشيخ هبة الله  
قال اخبرنا الحسن بن احمد بن عبد الله الفقيه الحنبلي  
قال اخبرنا محمد بن احمد الحافظ قال اخبرنا الحسين  
بن جعفر الواعظ قال اخبرنا احمد بن عيسى بن السكن  
قال اخبرنا ابن اسحاق الملقب بالحسام قال اخبرنا  
اسحاق بن رزين الراسي قال اخبرنا اسماعيل بن  
يحيى قال اخبرنا مسعر بن كدام عن عطية عن ابى  
سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم رجب من الشهور الحرام و  
ايامه مكتوبة على باب السماء السادسة فاذا  
صام الرجل منه يوما وجرد صومه بتقوى الله  
عز وجل نطق الباب ونطق اليوم وقال يا رب اغفر

سلمان فارسي رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم  
فرمايا کہ رجب میں ایک دن اور ایک ایسی آتی ہے کہ  
اگر کوئی اس دن روزہ رکھے اور اس رات کی عبادت  
کرتے تو اسے سو سال کے روزوں کا اور سو سال کی راتوں کا  
عبادت کا ثواب ملتا ہے یہ دن رات رجب کی ۲۷ ویں تاریخ  
ہے، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث  
فرمائے گئے۔

### روزوں کے آداب

روزے دار کو چاہیے کہ اپنے روزوں  
کو گناہوں سے پاک و صاف رکھے اور انہیں پورے تقویٰ کے  
ساتھ مکمل کرے کیونکہ باخباہر شیخ ہبہ اللہ، باخباہر حسن بن  
احمد بن عبد اللہ فقیہ حنبلی، باخباہر حافظ محمد بن احمد باخباہر حسین  
بن جعفر واعظ، باخباہر احمد بن عیسیٰ بن سکن، باخباہر ابن  
اسحاق جن کا لقب حُسام ہے، باخباہر اسحاق بن رزین راسنی  
باخباہر اسماعیل بن یحییٰ باخباہر مسعر بن کدام از عطیہ از ابوسعید  
خدری والی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہیں اور اس کے ایام  
چھٹے آسمان کے دروازے پر لکھے ہوئے ہیں پھر اگر کوئی شخص  
اس کے ایک دن کا روزہ رکھے اور روزے میں تقویٰ  
پیش نظر رکھے اور برائیوں سے محفوظ رکھے تو وہ دروازہ  
اور وہ دن دونوں کہیں گے کہ اے میرے پروردگار اے  
بخش دے ورنہ وہ اس کے لئے استغفار نہیں کریں گے  
اور کہیں گے یا کس جانے گا کہ تجھے تیرے نفس نے دھوکا  
دیا۔

اذا عرج از البرہر یہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
فرمایا، روزہ ڈھال ہے پھر اگر تم میں سے کوئی شخص روزے

واذالم یتم صومه یتقوی اللہ تعالیٰ لم یتغفر  
 له وقال اذ قیل له خذ عنک نفسک وعن الاعرج  
 عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم الصیام حینۃ فاذا کان  
 احدکم صائماً فلا یجھل فان امرؤ شاتمہ او فائدہ  
 فیقل انی صائم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 انه قال من لم یتزک قول الزور والعمل بہ  
 فلیس للہ حاجۃ فی ان یتزک ضامہ وشرابہ  
 وعن الحسن عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال  
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام  
 حینۃ من النار ما لم یخرقہ قیل وما یخرقہ  
 قال بکذبة او بغیبة وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ  
 عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
 لیس الصیام من الاکل والشرب ولکن الصیام  
 من اللغو والرفث اخبرنا الشیخ ابوالنصر محمد بن  
 البناء قال اخبرنا والدی الشیخ ابو علی بن احمد بن  
 عبد اللہ ابن الیاء قال اخبرنا محمد الحافظ قال  
 حدثنا عبد اللہ قال حدثنا جعفر بن محمد الجمال  
 قال حدثنا سعید بن عتبۃ قال اخبرنا بقیۃ بن  
 خلف قال حدثنا محمد بن الحجاج عن خاقان  
 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس یفطرن الصائم  
 ویبقضن الوضوء الکذب والنمیۃ والغیبة والنظر  
 بشہوة والیمنین الکاذبۃ و اخبرنا ابوالنصر عن والدا  
 باسنادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال

ہو تو جاہل نہ بنے اگر کوئی شخص اسے گالیاں دے تو کہہ دے کہ میں  
 روزے دار ہوں۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص  
 دروغ گوئی اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ  
 کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی  
 اس کا روزہ نہیں ہوتا اس نے محض اپنا طعام و شراب  
 چھوڑا ہے روزے کا جو مقصد ہے اس کے پاس بھی نہیں ٹھیک  
 از حسن ابوالبریرۃ: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
 روزہ آگ سے ڈھال ہے اگر اسے پھاڑا نہ جائے پوچھا گیا کیا  
 چیز روزے کو پھاڑ دیتی ہے؟ فرمایا: جھوٹ یا غیبت۔

حضرت ابوالبریرۃ: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
 کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں روزہ نجس و لغو سے  
 رک جانے کا نام ہے۔

باخبار شیخ ابوالنصر محمد بن بناء باخبار شیخ ابو علی بن احمد  
 بن عبد اللہ بن بناء، باخبار حافظ محمد بن عبد اللہ  
 بن عبد اللہ بن بناء، باخبار سعید بن عتبۃ باخبار  
 بقیۃ ابن خلف، بتحدیث بقیۃ، بتحدیث محمد حجاج از خاقان  
 از انس بن مالک: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ  
 چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں اور وضو ختم کر دیتی ہیں جھوٹ، جعلی  
 غیبت، شہوت کی نگاہ اور جھوٹی قسم۔

ہمیں ابوالنصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے انس بن مالک  
 سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ  
 اس نے روزہ نہیں رکھا جو لوگوں کا گوشت کھاتا رہا۔

ہمیں ابوالنصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے حذیفہ بن یوسف  
 سے خبر دی کہ جس نے کسی عورت پر اس کے پیچھے سے اس کے کپڑے



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام من  
 نفل يا كل لحم الناس واخبرنا ابو نصر عن والده  
 باسناد لا عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما  
 قال من تأمل خلف امرأة من فوق ثيابها بطل  
 صومه واخبرنا ابو نصر باسناد لا عن سليمان  
 بن موسى قال قال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما  
 اذا صبت فليصبر سبعا ولبسك ولسانك من  
 الكذب والمعامر ودرع اذى الجار وليكن  
 عليك وقار سكينه ولا تجعل يوم صومك ويوم  
 فطرك سواء قال النبي صلى الله عليه وسلم رب  
 صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش  
 ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر وقال  
 صلى الله عليه وسلم اهتز لك العرش وغضب  
 له الرب عني به صلى الله عليه وسلم اذا لم يرد  
 بالعمل وجه الله تعالى يل اريد به الخلق وقال  
 صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول انا خير  
 شريك ومن اشرك معي شريكا في عمله فهو شريكا  
 دوني انى لا اقبل الا ما اخلص لى يا ابن آدم  
 انا خير قيم فانظر عمالك الذى عملت لغيرى  
 فانا جزاؤك على الذى عملت وكان صلى الله  
 عليه وسلم يقول فى دعائه اللهم طهر لساني  
 من الكذب وقلبي من النفاق وعملى من الرياء  
 وبصري من الحيانة فانك تعلم خائنة الاعين  
 وما تخفى الصدور فينبغى للصائم ان يتادب  
 ويجذر من الرياء ونظر الخلق وعلهم فى صومه

غور سے دیکھے اس کا روزہ باطل ہو گیا۔

ہیں ابو نصر نے اپنی اسناد سے سلیمان بن موسیٰ سے خبر  
 دی کہ جابر بن عبد اللہ نے فرمایا: جب آپ روزہ رکھیں  
 تو آپ کے کانوں، آنکھوں اور زبان کو بھی جھوٹ اور ممنوعات  
 سے روزہ رکھنا چاہیے، پڑوسی کو نہ ستائیے آپ پر بردباری  
 اور سکون ہونا چاہیے، ایسا نہ کیجئے کہ آپ کا روزے کا دن  
 بے روزے کے دن کی برابر رہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہت سے روزہ داروں  
 کو بچر، بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ملتا اور بہت سے شب بیداروں  
 کو رات کی عبادت سے بجز جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ آپ نے  
 فرمایا: اس کی وجہ سے عرش ہل جاتا ہے اور رب ناراض ہو  
 جاتا ہے یعنی جب عمل محض اللہ کی رضا کے لئے نہ کئے جائیں  
 بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہو۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں شرکاء  
 میں بہترین ہوں جس نے اپنے عمل میں میرے ساتھ کسی چیز کو  
 شریک بنا لیا تو اس کا وہ عمل میرے لئے نہیں بلکہ شریک کے  
 لئے ہے، میں تو وہی عمل قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لئے  
 کیا جائے اسے فرزند آدم ایسے حصہ سے بہتر و بلند ہوں،  
 اس لئے تو اپنے اس عمل پر غور کر لے جو تو نے میرے غیر کے لئے  
 عمل کیا ہے تیری جزا اسی پر واجب ہے جس کے لئے تو نے  
 عمل کیا ہے۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے: اے اللہ  
 میری زبان جھوٹ سے میرا دل نفاق سے، میرا عمل ریا سے اور  
 میری آنکھ خیانت سے پاک فرما کیونکہ تو خیانت کرنے والی آنکھوں  
 کو اور دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے لہذا روزہ دار کو

وجميع عباداته لئلا يجرد الدنيا والآخرة وحداثا  
 الشيخ البونصر عن والده باسناداهن ابي فزاش انه  
 سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول  
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  
 صام نوح الدهر الا ليومين الفطر والاضحى و  
 صام داؤد ونصف الدهر وصام ابراهيم ثلاثة  
 ايام من كل شهر صام الدهر و افطر الدهر  
 واخبرنا الشيخ البونصر عن والده باسناداهن  
 محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله  
 عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم  
 من اهل البادية فقال يا رسول الله اخبرني  
 عن صومك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم  
 حتى احمرت وجنتاه فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله  
 عنه اقبل على الرجل فزجره وانتهره حتى اسكنه  
 فلما سرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر  
 رضي الله عنه جعلني الله فداءك اخبرني عن  
 رجل يصوم الدهر كله قال لا ما ذلك ولا  
 افطر فقال يا نبى الله اخبرني عن رجل يصوم  
 ثلاثة ايام من كل شهر قال صلى الله عليه وسلم  
 ذلك صوم الدهر كله فقال يا نبى الله اخبرني  
 عن رجل يصوم الاثنين والخميس قال صلى الله  
 عليه وسلم اما الخميس فيوم ترفع فيه الاعمال  
 واما الاثنين فهو اليوم الذي ولدت فيه و  
 انزل على فيه الوحي -

فصل: فاذا جاء وقت الافطار فليقل عند

روزوں کے آداب پیش نظر رکھنے چاہئیں اور نہ صرف روزوں  
 ہی میں بلکہ تمام عبادتوں میں ریاکاری سے ، دکھاوے اور  
 شہرت سے احتیاط رکھنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کے  
 گھاٹوں سے پالا نہ پڑے۔

ہم سے شیخ البونصر نے اپنی اسناد سے اپنے والد سے انہوں  
 نے البونصر اس سے بیان کیا کہ انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے  
 سنا فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلعم سے سنا آپ  
 فرماتے تھے: نوح علیہ السلام نے ہر سال بجز عید و بقر عید کے  
 برابر روزے رکھے ، داؤد علیہ السلام نے ایک دن ناغہ کر کے  
 برابر روزے رکھے آپ نے حکماً عمر بھر روزے رکھے اور اصلاً  
 عمر بھر روزے نہیں رکھے۔

باخبار شیخ البونصر از محمد بن منکدر از جابر بن عبد اللہ: ایک  
 دیہاتی رسول اللہ صلعم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ  
 آپ مجھے اپنے روزے کے بارے میں خبر دیجئے اس پر نبی صلعم کو  
 اس قدر غصہ آیا کہ آپ کے رخسار سے سترخ ہو گئے جب حضرت  
 عمرؓ نے یہ حال دیکھا تو اس دیہاتی کی طرف متوجہ ہو کر اسے  
 ڈانٹنے لگے اور پٹنے لگے حتیٰ کہ اسے خاموش کر دیا پھر جب نبی صلعم کا  
 غصہ جاتا رہا تو حضرت عمرؓ نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ مجھے  
 آپ پر فدا کرے مجھے اس کے بارے میں بتائیے جو عمر بھر روزے  
 رکھتا ہے فرمایا اس نے نہ روزے کھولے اور نہ روزے رکھے پوچھا  
 اور جو ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ  
 شخص عمر بھر روزہ دار ہے بولے اور جو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ  
 رکھتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جمعرات کو تو اعمال بلند کئے جاتے ہیں اور  
 پیر کو میری ولادت ہوئی اور پیر ہی کے دن محمد پر پہلی وحی آئی۔

روزہ کھولنے کی دعا روزہ کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھو



افطارة باسم الله اللهم لك صمت وعلی  
 رزقك افطرت سبحانك ومحمدك اللهم تقبل  
 منا انك انت السميع العليم وكان عبد الله ابن  
 عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما یقول عند فطرة  
 اللهم انی اسألك برحمتك التي وسعت كل شیء  
 ان تغفر لی وعن ابی العالیة رحمه الله قال من  
 قال عند افطارة الحمد لله الذی علی فقهر والمحمد  
 لله الذی نظر فخر والحمد لله الذی ملك فقد  
 والحمد لله الذی یجیب المونی فقد خرج من ذنوبه  
 کیوم ولدته امه وعن مصعب بن سعید عن  
 عبد الله بن الزبیر عن سعید بن مالک رضی اللہ  
 عنهم قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا  
 افطر عنده احد قال افطر عندكم المائتوت  
 واكل طعامكم الابرار وصلت علیکم الملائكة  
**فصل:** اعلم ان شهر رجب تستجاب  
 فیہ الدعوة وتقال فیہ العشرة وتضاعف  
 علی من احترم فیہ العقوبة من ذلك ما اخبرنا  
 هبة الله قال اخبرنا القاضي هناد بن ابراهیم  
 النسفی قال اخبرنا عبد القاهر بن عمر الجزری  
 بها قال اخبرنا هبة الله قال اخبرنا محمد  
 بن الفرخان قال ابانا احمد بن الحسين بن  
 سعید الانباری قال ابانا محمد بن ابراهیم  
 بن یعقوب قال ابانا ابراهیم بن فراس عن عمرو  
 بن سمرّة عن موسى بن العباس عن الاصبغ  
 عن بناتك عن الحسين بن علی بن ابی طالب رضی اللہ

لی جلے بسم اللہ، اے میرے اللہ میں نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا اور  
 تیرے ہی رزق پر روزہ کھول لیا، اے اللہ میں تیری حمد کے تیری  
 پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ مجھ سے روزہ قبول فرمائے بلاشبہ تو  
 دعائیں خوب سننے والا ہے اور نیتوں کو خوب جاننے والا ہے۔  
 حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص روزہ کھولتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے  
 تھے اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت سے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے،  
 یہ سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ ابو العالیہ: اگر کوئی  
 روزہ کھولتے وقت یہ دعا پڑھے (تمام تعریفیں اُس اللہ کے لئے ہیں  
 جو سب بلند ہے اور سب پر غالب ہے اور تمام بڑائیاں اس اللہ کے  
 لئے ہیں جو دیکھتا ہے اور منتخب فرماتا ہے اور تمام محاند اس اللہ کے لئے  
 ہیں جو مالک ہے اور اندازہ مقرر فرماتا ہے اور تمام نشانیں اس اللہ کے  
 لئے ہیں جو مردے زندہ کر دیتا ہے، تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو  
 جائے گا گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔

از مصعب بن سعید از عبد اللہ بن زبیر از سعد بن مالک: نبی اکرم  
 صلعم جب کسی کے پاس روزہ کھولتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے:-  
 تمہارے پاس روزہ داروں نے روزہ کھولا اور نبی حضرت نے  
 تمہارا کھانا کھایا اور تمہارے لئے فرشتوں نے رحمت کی دعائیں مانگیں۔  
**ماہ رجب میں دعاؤں کا حکم** | یاد رکھئے ماہ رجب میں  
 خاص طور سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور لغزشوں سے درگزر کی  
 جاتی ہے اور جرائم کی سزا نہیں سنگین کر دی جاتی ہیں اس کی دلیل مندرجہ  
 ذیل حدیث ہے: باخبار ہبنة اللہ، باخبار القاضی ہناد بن ابراهیم  
 نسفی، باخبار عبد القاهر بن عمر الجزری، باخبار ہبنة اللہ، بتحدیث  
 محمد بن فرخان، بتحدیث احمد بن حسین بن سعید انباری، باخبار  
 ابراهیم بن فراس از عمرو بن سمرّة از موسی بن عباس از اصبع از بنانہ  
 از حسین بن علی بن ابی طالب: ہم طواف کر رہے تھے کہ اچانک

عندھا قال بینما نحن فی الطواف اذ سمعنا صوتا وهو یقول:

یا من یجیب دعا المقنطری الظلمۃ یا کاشف الكرب والبلوی  
مع السقمۃ قد بات وفدک حرل البیت والحرمة  
ونحن ندعو وعین اللہ لم تنم ۛ هب لی مجودک  
ما اخطأت من جرم ۛ یا من اشار الیہ الخلق  
بالکرم ۛ ان کان عفوک لم یسبق لمجتزم ۛ  
فمن یجود علی العاصین بالتعم ۛ

قال الحسین بن علی رضی اللہ عنہما قال لی ابی علی  
بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یا حسین ۛ اما تسمع  
النادب ذنبہ والمعائب ربہ اصغر فعاک  
تدرکہ ونادۃ قال الحسین رضی اللہ عنہ فاسترعت  
حتی ادرکتہ واذا انا برجل جیل الوجه نقی  
البدن نظیف الثیاب طیب الریح الا انه قد  
مثل جانبہ الایمن فقلت اجب امیر المؤمنین  
علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فقال لہ  
من انت وما شأنک قال یا امیر المؤمنین ماشا  
من أخذ بالعقوبۃ ومنع الحقوق قال وما اسک  
قال منازل بن لاحق قال فما قصتک قال کنت  
مشهورا فی العرب باللہو والطرب ارض فی  
صبوتی ولا ایتق من غفلتی ان تبت لم تقبل  
توتبتی وان استقلت لم تقبل عثرتی اذیم العصیان  
فی رجب وشعبان وکان لی والد شفیق رفیق  
یحذرنی مصارع الجهالة وشقوة المعصیۃ یقول  
یا بنتی للہ سطوات ونفمات فلا تتعرض لمن

ہیں آواز آئی کہ کوئی شخص یہ دعا پڑھ رہا ہے، اسے وہ جو ناپسند  
میں بے قرار کی دعا قبول فرماتا ہے، اسے بے چینوں کو اور مصائب  
کو معہ بہاریوں کے زائل کرنے والے تیرے پاس آئیوں کے تیرے گھر  
کے پاس حرم کے اندر رات دعاؤں میں بسر کی اور حق تعالیٰ کی آنکھ  
نہیں سوتی اسے اللہ میں نے جس قدر گناہ کئے ہیں ان سب کو اپنی  
نوازش و مہربانی سے بخش دے اسے وہ جس کے عفو و کرم کی طرف دنیا  
اشارہ کرتی ہے اگر تیری معافی گناہ کی طرف درڑ کر نہ آئے تو اور  
کون ہے جو گناہ گاروں کے ساتھ اپنی نعمتوں کے ساتھ پیش آئے۔ امام  
حسین فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ  
حسین! کیا تم اس رونے والے کی آواز نہیں سن رہے جو اپنے  
گناہوں پر رورہا ہے اور اپنے رب پر بھی عتاب کہہ رہا ہے امید  
ہے کہ تم اسے پا لو گے اسے بلا لاؤ، فرماتے ہیں پھر میں جلدی سے  
اس کی طرف بڑھا اور میں نے اسے پالیا دیکھتا ہوں کہ یہ ایک  
خوبرو اور حسین شخص ہے اس کا پاکیزہ جسم اور عمدہ کپڑے ہیں جن سے  
دلاویز خوشبو آرہی ہے لیکن اس کی سیدھی کہ رٹ منلوچ ہے میں نے  
کہا آپ کو امیر المؤمنین حضرت علیؑ یاد فرما رہے ہیں یہ سن کر وہ کھڑ  
ہوا اور مشکل تمام لنگھاتا ہوا امیر المؤمنین کے سامنے آکھڑا ہوا۔  
آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟  
بولاً، امیر المؤمنین! جو گناہوں کی سزا میں پڑ گیا یہ جو اور اس  
سے حقوق روک دیئے گئے ہوں اس کا حال کیا ہوگا؟ پوچھا آپ کا  
نام کیا ہے؟ بولاً، منازل بن لاحق۔ پوچھا، اپنا واقعہ بیان کیجئے  
بولاً، میں عرب بھریں ابو دعب اور نشاط و طرب میں مشہور تھا  
اور جوانی میں مطلق العنان تھا جو دل میں آتا تھا کرتا تھا اور خواب  
غفلت سے سر نہ اٹھاتا تھا اگر توبہ کروں تو توبہ ناقابل قبول تھی  
اور اگر لغزشوں کی درگزر چاہوں تو یہ بھی ناقابل تسلیم تھی میں جب



يعاقب بالنار فكم قد ضحك منك الظلام والملك  
الكرام والشهر الحرام والليالي والايام وكان  
اذا ألم علي بالعتب المحبت عليه بالضرب  
فابلغت اليه يوما فقال والله لا صوم من ولا افطر  
ولا صلين ولا افام فصا ما سبوعا ثم ركب جملا  
ادرق وأتى مكة ليوم الحج الاكبر وقال لا فدن  
الى بيت الله ولا تستعينن عليك الله قال فقدم  
مكة ليوم الحج الاكبر فتعلق بأستار الكعبة و  
دعا على وقال :

يا من اليه أتي الحجاج من بعد : يرحون لطف عزيز واحد  
هذا منازل لا يرتد عن عقبي : فخذ بحقى يا رحمن من دلدى  
وشل منه بجود منك جانبه : يا من تقدس لم يولد ولم يلد  
قال : فوالذى رفع السماء وانبع الماء ما استتم  
كلامه حتى شل جانبي الايمن فضلت كالحشبة  
الملقاة بارحاء الحرم وكان الناس يغدون ويروحون  
على ويقولون هذا اجاب الله فيه دعوة ابيه  
فقال له رضى الله عنه فما فعل البوك قال يا امير  
المومنين سالتك ان يبدع الله في المواضع التى  
دعا على فيها بعد ان رضى حتى فاجابني فعملته  
على ناقة وحبت في السير حتى وصلنا الى واديقال  
له واد الاراك فنقر طائر من شجرة فنفرت  
الناقة فوق منها ومات في الطريق فقال  
علي رضى الله عنه الا اعلمك دعوات سمعتها  
من رسول صلى الله عليه وسلم وقال : مادعا  
بها مسموم الا فرج الله تعالى عنه همه ولا

شعبان کے مہینوں میں برابر گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، میرے والد  
بقید حیات تھے جو مجھ پر انتہائی شفیق و مہربان تھے وہ مجھے گناہوں  
کے بڑے نتائج سے اور برائیوں کے بڑے انجام سے اور بدبختی سے  
ڈرانے رہتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پیارے بچے اللہ کی  
گرفت دیکھنے سے ڈر جا اور اس کے انتقاموں سے خون کر اسے نہ چھیڑ  
جس کا عذاب آگ ہے کتنے ایسے مظلوم ہیں جو تیرے مظالم سے چیخ  
رہے ہیں اور مقرب فرشتے بددعا کر رہے ہیں اور حرمت والے  
مہینے نالاں ہیں اور دن اور زمانہ تجھے کوس رہا ہے۔ وہ جس قدر  
مجھے میرے کرتوتوں پر لعنت ملامت کرتے تھے اسی قدر میں انہیں  
مازنا تھا ایک دن جب میں ان کے پاس گیا تو انھوں نے کہا میں گناہ  
دن میں روزے رکھوں گا اور رات بھر نماز پڑھوں گا تاکہ حق تعالیٰ  
میری دعائیں قبول فرمائے چنانچہ انھوں نے ایک ہفتہ روزے رکھے اور  
شب بیدار رہے پھر ایک خاکی رنگ کے دنٹ پر سوار ہو کر حج کے لئے مکہ معظمہ  
یکہ کر چلے گئے کہ میں بیت اللہ جا کر تیرے واسطے اپنے رب سے بددعا کرنا  
ہوں چنانچہ پھر وہ حج اکبر کے دن مکہ معظمہ پہنچ گئے اور انہوں نے کعبہ اقدس کا  
پر وہ پکڑ کر ان الفاظ میں میرے لئے بددعا کی کہ اے وہ ذات جس کے  
لطف و کرم کے امیدوار بن کر دُور دُور سے لوگ یہاں آتے ہیں اور جو سب  
غالب ہے ایک ہے اور بے نیاز ہے میرا بیٹا منازل میری نافرمانی سے باز  
نہیں آتا یا رب میرا حق میرے بچے سے مجھے دلوا اور اپنے فضل و کرم سے  
اس کے بدن کی ایک جانب شل کر دے اے وہ جو پاک ہے اور اولاد و  
مال باپ سے بلند و برتر ہے میری دعا قبول فرمائے، اس کی قسم جس نے  
آسمان بند فرمایا اور زمین سے چٹھے جاری کئے ابھی ان کی دعا پوری  
بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری سیدھی کوٹ شل ہو گئی اور میں اس لکڑی  
کی طرح ہو گیا جو حرم کے کسی گوشہ میں پڑی ہوئی ہو لوگ صبح و شام میرے  
پاس سے یہ کہتے ہوئے گزرتے چلے جاتے تھے کہ اے اس کے باپ کی برائی

مکروب الافرح اللہ تعالیٰ عنہ کریمہ فقال نعم فقال  
الحسین بن علی رضی اللہ عنہما فعلمہ الدعاء  
فدعا بہ وخلص من مرضہ وعلنا صحیبا  
سالما فقلت للرجل کیف عملت قال لہا ہدات  
العیون دعوت بہ مرۃ وثنائتہ وثنائتہ فتودیت  
حسبک اللہ فقد دعوت اللہ باسمہ الاعظم الذی  
اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطی ثم حملتہ  
عینی فنبیت فرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
فی منامی فعرضتہا علیہ فقال صلی اللہ علیہ  
وسلم صدق علی ابن عمی فیہا اسم اللہ الاعظم  
الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطی  
ثم حملتہ مرۃ ثانیۃ فرایت النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم فقلت یا رسول اللہ ارید ان اسمع الدعاء  
منک فقال صلی اللہ علیہ وسلم قل اللهم الخ  
اسألك یا عالم الخفیۃ ویا من السماء بقدرتہ  
مبنیۃ ویا من الارض بعزتہ مدحیۃ ویا  
من الشمس والقمر بنور جلالہ مشرقۃ ومضیۃ  
ویا مقبلا علی کل نفس مومنة زکیۃ ویا من  
رعب الخائفین واهل النقیۃ یا من حوائج الخلق  
عندہ مقضیۃ یا من نجی یوسف من رق العبودیۃ  
یا من لیس لہ لواب ینادی ولا صاحب یغشی ولا  
وزیر یعطی ولا غیرہ رب یدعی ولا یزداد علی  
کثرۃ الحوائج الا کرما وجودا و صلی اللہ علی  
محمد وآلہ واعطنی سوا لی انک علی کل شیء  
قدیر قال فان تبعت وقد برأت قال علی رضی اللہ

گی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ بولا: میں  
نے ان سے کہا کہ اب تو آپ مجھ سے راضی ہیں لہذا براہ کرم اسی جگہ جا  
کر آپ میرے حق میں دعا فرمادیں جہاں بروعا فرمائی تھی بولے اچھا  
چنانچہ میں نے انہیں ایک اونٹ پر سوار کرا دیا اور ہم پوری کوشش  
سے مکہ کی طرف بڑھے جب ہم وادی اراک میں پہنچے تو کسی رخت سے  
اچانک ایک پرندہ اڑا جس سے میرے والد کا اونٹ بدگیا اور وہ اس  
سے گر کر موقعہ ہی پر جہاں بچ ہو گئے حضرت علی نے فرمایا: کیا میں تجھے  
دعاؤں نہ بتاؤں جو میں نے رسول اکرم صلعم سے سنی ہیں اور آپ نے  
ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو غمزدہ ان دعاؤں کو پڑھے گا حق  
تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمادیکھا اور جو بیقرار پڑھے گا حق تعالیٰ  
اسکی بے قراری زائل فرمادیکھا وہ بولا ضرور بتائیے امام حسین فرماتے ہیں  
پھر حضرت علی نے اسے وہ دعا یاد کرا دی اور اس نے وہ دعا پڑھی  
اور حق تعالیٰ نے اسے اس مرض سے شفا بخشی اور اس نے دوسرے روز  
صبح وسالم بہار سے پاس آکر سلام کیا میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ  
دعا کس طرح پڑھی تھی؟ بولا: جب لوگ رات کو سو گئے اور بالکل  
سناٹا چھا گیا تو جب میں نے یہ دعا ایک بار، دو بار اور زمین بار پڑھی  
تو مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ تجھے اللہ کافی ہے تو نے اللہ کے اس  
اسم اعظم سے دعا مانگی ہے کہ جب اس سے دعا مانگی جاتی ہے تو حق تعالیٰ  
قبول فرماتا ہے اور اس سے کوئی مراد مانگی جاتی ہے تو حق تعالیٰ وہ مراد بر لاتا  
ہے پھر میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں رسول اللہ صلعم کو دیکھا  
اور وہ دعا آپ کو سنائی فرمایا میرے چچا زاد بھائی علی نے سچ فرمایا اس  
دعا میں اللہ کا ایک اسم اعظم جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مرادیں  
برآتی ہیں پھر میری دوسری بار آنکھ لگ گئی پھر میں نے آپ کو خواب میں  
دیکھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ دعا آپ سے سنا چاہتا ہوں  
آپ نے فرمایا سنو اسے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اسے چھپی ہوئی



عنه تسكرو بهذا الدعاء فانه كنز من كنوز  
العرش وقد نقل مثل ذلك في زمن عمر ابن الخطأ  
رضي الله عنه وغيره مما يطول شرحه -

وفي الجملة لا ينبغي لذي لب ان يستهين بالمعاصي  
والمظالم ودعاء المظلوم فقد قال النبي صلى الله  
عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال  
صلى الله عليه وسلم ان الله يستجيب اذا بسط  
العبد كفيه اليه بالدعاء ان يرد هما  
صفرا فاما ان يعجل له في الدنيا واما ان  
بوخرة له في يوم القيامة وقد انشد في  
ذلك :

اتسمع بالدعاء فتزودني : تبين فيك ما صنع الدعاء  
سعام الليل لا تخفي ولكن : لها امد وللأمد القضاء

چیزوں کو جاننے والے اور اے وہ جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے اور جس  
کی عزت سے زمین بچھائی گئی اور اے وہ جس کی عظمت و جلال کے نور  
سے سورج اور چاند روشن ہیں اور اے ہر مومن و پاکیزہ نفس کی طرف متوجہ  
ہونے والے اور اے خوفزدہ لوگوں کو اور پار سازوں کو خوف سے امن دینے والے  
اے وہ جو تمام دنیا کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے اور اے وہ جس نے  
حضرت یوسف کو غلامی سے نجات عطا فرمائی اور اے وہ جس کا کوئی دربار  
نہیں کہ لوگوں کو آواز دے کہ بلائے اور اے وہ جس کا کوئی وزیر و مشیر  
نہیں کہ اس کے پاس جایا جائے اور نہ تیرے سوا کوئی رب ہے کہ اسے پکارا  
جائے اور اے وہ جو بندوں کی کثرت ضروریات کے باوجود اسکی عنایت  
و مہربانی اور وجود و کرم میں اضافہ ہی ہوتا ہے اے اللہ محمد رسول اللہ  
صلعم پر اپنی بے شمار رحمتیں بھیج اور ان کی اہل پر بھی اور میری مراد پر  
بلاشبہ تو ہر چیز پر خوب قادر ہے کتنا ہے پھر میری آنکھ کھل گئی  
اب میں بالکل تندرست تھا۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں اس دعا کو

لازم پکڑ لو کیونکہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اسی قسم کے واقعات عہد غاروتی وغیرہ میں بھی پیش آئے ہیں جن کا ذکر طوالت کے طور  
سے یہاں کیا نہیں جاسکتا، بہر حال ارباب دانش کا فرض ہے کہ وہ گناہوں، حق تلفیوں اور مظلوم کی بددعا کو حقیر و معمولی نہ سمجھیں کیونکہ نبی اکرم  
صلعم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن بہت سی اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا اور رحمت عالم صلعم نے فرمایا کہ جب بند اپنے ہاتھ پھیلا کہ  
حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو حق تعالیٰ کو اس کے خالی ہاتھ پھیرتے ہوئے شرم آتی ہے اس لئے وہ یا تو دنیا ہی میں اس کی مراد بر لاتا ہے یا پھر اسے  
آخرت کے لئے بطور ذخیرے کے جمع فرادیتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے : کیا تو دعا سن کر اسے حقیر و معمولی سمجھتا ہے تو خود اپنے اندر محسوس  
کر لیا کہ دعائے اپنا کیا اثر دکھایا، رات کے تیر بلا خطا کے نشانہ ہی پر لگتے ہیں لیکن ان کیلئے ایبت ہے اور مدت کا پورا ہونا لازمی ہے۔

## پانچویں مجلس

ماہ شعبان کی فضیلت اور شب نصف شعبان میں اترنے  
والی مغفرت و رضائے باری تعالیٰ -  
باخبار شیخ ابوالنضر از محمد اپنے والد ابوالحسین سے، باخبار ابوالحسن

مجلس فی فضل شہر شعبان و ما یُنزل فی  
لیلة النصف من المغفرت و الرضوان  
اخبرنا الشیخ ابوالنضر محمد عن والدہ ابی علی

الحسین اخبارنا ابو الحسن علی بن محمد ابن عمر بن حفص جعفر  
المقری یا فتفاء ابی الفتح الحافظ اخبارنا ابو بکر  
محمد بن عبد اللہ شافعی اخبارنا اسحاق  
بن الحسن ابن عبد اللہ ابن سلمہ اخبارنا  
مالک بن انس عن ابی النضر مولی عمر بن عبد اللہ  
عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج  
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی عنہا أنها  
قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
یسوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا  
یسوم وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
استكمل صیام شهر قط الا شهر رمضان وما  
رأیتہ صام فی شهر اکثر من صیامہ فی شعبان  
وہو حدیث صحیح اخرجہ البخاری عن  
عبد اللہ بن یوسف عن مالک رحمہ اللہ  
اخبارنا ابو نصر عن محمد عن والدہ باسناد  
عن ہشام بن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا  
قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
حتى نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یسوم  
وکان احب صیامہ فی شعبان فقلت یا رسول  
اللہ ما لی اری صیامک فی شعبان فقال صلی اللہ  
علیہ وسلم یا عائشہ انه شہر ینسخ ملک الموت  
فیہ اسم من یقبض روحہ فی بقیۃ العام  
فانا احب ان لا ینسخ اسمی الا وانا صائم و  
اخبارنا ابو نصر عن محمد عن والدہ باسناد  
عن عطاء بن یسار عن ام سلمة رضی اللہ عنہا

علی بن محمد بن عمر بن حفص جعفری مقری از حافظ ابو الفتح، اخبار ابو بکر  
محمد بن عبد اللہ شافعی، اخبار اسحاق بن حسن اخبار عبد اللہ بن سلمہ  
باخبار مالک بن انس از ابو النضر مولی عمر بن عبد اللہ از ابو سلمہ بن عبد الرحمن  
از ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزے رکھا  
کرتے تھے حتیٰ کہ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ اب آپ کسی دن کا بھی روزہ  
نہ چھوڑیں گے اور لگاتار روزے چھوڑ دیتے تھے حتیٰ کہ ہمیں خیال  
ہوتا تھا کہ اب آپ کبھی روزے نہ رکھیں گے اور میں نے نہیں دیکھا  
کہ آپ نے بجز رمضان کے کسی مہینہ کے کامل روزے رکھے ہوں اور  
میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے بجز شعبان کے کسی مہینے کے اکثر روزے  
رکھے ہوں، یہ ایک صحیح حدیث ہے جسے امام بخاری بھی از  
عبد اللہ بن یوسف از مالک لائے ہیں۔

باخبار ابو نصر از محمد از ابو علی الحسین از ہشام بن عروۃ از  
عائشہ رضی اللہ عنہا: حسب سابق حدیث ہے اور حتیٰ نقول لا یسوم کے بعد  
یہ زیادہ ہے آپ کو شعبان کے روزے محبوب تھے میں نے پورا  
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ شعبان میں روزے  
رکھتے ہیں فرمایا: عائشہ: یہ وہ مہینہ ہے جس میں پورے سال  
میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کے لئے کاٹ دئے جاتے ہیں  
اس لئے مجھے یہ بات پسند ہے کہ روزے کی حالت میں میرا نام کاٹا جائے  
باخبار ابو نصر از محمد از ابو علی الحسین از عطاء بن یسار از  
ام سلمہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے  
بعد کسی مہینہ میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے  
اور یہ اس لئے کہ جو اس سال میں مرنے والا ہوتا ہے شعبان میں  
اس کا نام کاٹ کر مردوں میں لکھ لیا جاتا ہے انسان سفر کرتا  
ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔  
تجدید ابو نصر اپنے والد سے وثابت سے اور وہ ان سے



قالت لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم  
 فی شہر بعد رمضان اکثر من صیامہ فی شعبان  
 وذلك ان کل من بیوت فی تلك السنة ینسخ  
 اسمہ فی شعبان من الاحیاء الی الاموات وان  
 الرجل لیسافر وقد نسخ اسمہ فیمن بیوت  
 وحدثنا البونصر عن والدہ باسنادہ عن  
 ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال سئل النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الصیام قال  
 صیام شعبان تعظیماً لرمضان واخبرنا البونصر  
 عن والدہ باسنادہ عن معاویۃ بن الصالح  
 قال ان عبید اللہ بن قیس حدثہ انه سمع عائشۃ  
 رضی اللہ عنہا تقول کان احب الشہور  
 الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان  
 یصلہ برمضان وقال عبد اللہ رضی اللہ عنہ  
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام  
 آخر یوم الاثنين من شعبان غفر له یعنی آخر  
 اثنين فیہ لا آخر یوم من الشہر لان استقبال  
 الشہر بالیوم والیومین فیہ منہی عنہ وعن  
 انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم انما سمی شعبان لانه ینشعب  
 لرمضان فیہ خیر کثیر وانما سمی رمضان لانه یرمض  
 الذنوب

**فصل** قال اللہ تعالیٰ وربک یخلق ما یشاء  
 ویختار فاللہ تعالیٰ اختار من کل شیء اربعۃ ثم  
 اختار من الاربعۃ واحد من الملائکۃ جبریل  
 ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل ثم اختار منہم

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل روزوں کے بارے میں  
 پوچھا گیا فرمایا رمضان کی تعظیم کے لئے شعبان کے روزے  
 افضل ہیں۔

باخبار البونصر اپنے والد سے اور وہ معاویہ بن صالح سے  
 مجھ سے عبید اللہ بن قیس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت  
 عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا  
 مہینہ بڑا پیارا تھا اور آپ اس کے روزے رمضان سے  
 علاوہ دیا کرتے تھے۔

عبد اللہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا  
 جو شعبان کی پچھلی پیر کا روزہ رکھے اس کے گناہ  
 معاف کر دئے جاتے ہیں اس سے شعبان کی آخری تاریخ  
 مراد نہیں بلکہ آخری پیر مراد ہے کیونکہ ایک یا دو دن پہلے  
 روزوں کے ساتھ رمضان کا استقبال منع ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ: رسول اکرم  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس  
 لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں احترام رمضان کی وجہ  
 سے بہت سی نیکیاں نکلتی ہیں اور رمضان کو رمضان اس  
 لئے کہا جاتا ہے کہ اس مہینہ میں بہت سے گناہ جلا دئے  
 جاتے ہیں یعنی معاف کر دئے جاتے ہیں رمضان یعنی  
 جلانے والا

\*

حق تعالیٰ شانہ کی چینی ہوئی مخلوق | حق تعالیٰ شانہ نے  
 قرآن پاک میں فرمایا اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے  
 اور جو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے بنا بریں حق تعالیٰ شانہ نے  
 ہر چیز میں سے چار عدد چن لئے ہیں پھر چار میں سے ایک چن لیا

جبریل و اختار من الانبیاء علیہم السلام اربعة  
ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ  
وسلم اجمعین ثم اختار متبہم محمدا  
صلی اللہ علیہ وسلم فاختر من الصحابة رضی اللہ  
عنہم اربعة ابا بکر و عمر و عثمان و علیا  
رضی اللہ عنہم ثم اختار منہم ابا بکر رضی اللہ  
عنہ و من المساجد اربعة المسجد الحرام  
و المسجد الاقصیٰ و مسجد المدينة المشرفة  
و مسجد طور سیناء ثم اختار منہا المسجد  
الحرام و من الايام اربعة یوم الفطر و یوم  
الاضحیٰ و یوم عرفة و یوم عاشوراء ثم اختار  
منہا یوم عرفة و من الیالی اربعة لیلۃ البراءة  
ولیلۃ القدر و لیلۃ الجمعة و لیلۃ العید  
ثم اختار منہا لیلۃ القدر و من البقاع  
اربعة مكة و المدينة و بیت المقدس  
و مساجد العشاء ثم اختار منہا مكة و من  
الجبال اربعة احد و طور سیناء و لکام و لبنان  
ثم اختار منہا طور سیناء و من الانیار اربعة  
جیحون و سیحون و الفرات و النيل ثم اختار  
منہا خراقا و اختار من الشهور اربعة رجب  
و شعبان و رمضان و المحرم و اختار منہا  
شعبان و جعلہ شہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
فکما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء  
کذا ان شہرہ افضل الشهور و قد روی ابو  
ہریرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

لیا ہے چار فرشتے حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل  
چنے پھر ان میں سے حضرت جبریل کو چنا، چار نبی حضرت ابراہیم، موسیٰ  
عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے پھر ان چاروں میں سے پیغمبر اسلام  
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چنا، چار صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ  
اور علی رضی اللہ عنہم چنے، پھر ان چاروں میں سے حضرت ابو بکر کو چن لیا، چار  
مسجدیں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد مدینہ اور مسجد طور سیناء  
چنیں، پھر ان میں سے مسجد حرام چن لی، چار دن عید الفطر  
عید الاضحیٰ، عرفة اور عاشوراء چنے پھر ان میں سے یوم عرفة روزی الحج  
کی نوین تاریخ کا دن منتخب فرمایا، اسی طرح چار راتیں شب برات  
شب قدر، شب جمعہ اور شب عید چنیں، پھر ان میں سے شب قدر  
چن لی، اسی طرح چار مقامات مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس  
اور مساجد عشاء منتخب فرمائے، پھر ان میں سے مکہ معظمہ کو  
منتخب فرمایا، اسی طرح چار پہاڑ احد، طور سیناء، لکام  
اور لبنان چنے پھر ان میں سے طور سیناء کو چن لیا۔ اسی طرح  
چار نہریں جیحون، سیحون، فرات، نیل چنیں اور ان میں سے  
فرات کو چن لیا، اسی طرح چار مہینے رجب، شعبان، رمضان  
اور محرم چنے پھر ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت عالم  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ پھر جسے ہمارے  
پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء میں اسی طرح آپ کا مہینہ  
(شعبان) تمام مہینوں میں افضل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ کا  
مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔  
شعبان گناہ مٹانے والا ہے اور رمضان المبارک پاک کرنے  
والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:



انہ قال شعبان شہری ورجب شہر اللہ و  
رمضان شہر امتی شعبان هو مکفر ورمضان  
هو المطہر و قال صلی اللہ علیہ وسلم شعبان  
شہر بین رجب ورمضان یغفل الناس عنہ  
و فیہ ترفع اعمال العباد الی رب العالمین فأحب  
أن یرفع عملی و أنا صائم و عن النس بن مالک  
رضی اللہ عنہ انہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم قال فضل رجب علی سائر الشہور کفضل  
القرآن علی سائر الکلام و فضل شعبان علی  
سائر الشہور کفضل علی سائر الانبیاء و فضل  
رمضان علی سائر الشہور کفضل اللہ تعالیٰ  
علی سائر خلقہ و عن النس بن مالک رضی اللہ عنہ  
انہ قال کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
اذا نظروا الی ہلال شعبان اکبوا علی المصاحف  
یقرونها و اخرج المسلمون زکاة اموالہم  
لیتقوی بہا الضعیف و المسکین علی صیام  
شہر رمضان و دعا الولاہ اهل السجن  
فمن کان علیہ حد اقاموہ علیہ و الاخلوا  
سبیلہ و انطلق التجار فقصوا ما علیہم و  
قبضوا ما لہم حتی اذا نظروا الی ہلال  
رمضان اغتسلوا و اعتکفوا۔

فصل ۷: شعبان خمسہ احرف شین و عین  
وباء و ألف و لون فالشین من الشرف و العین  
من العلو و الباء من البر و الألف من الألفة  
و النون من النور فہذا العطا یا من اللہ تعالیٰ

شعبان رجب ورمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی  
طرف سے غافل رہتے ہیں حالانکہ اس میں ان کے اعمال  
رب العالمین کی طرف چڑھائے جاتے ہیں، اس لئے مجھے یہ  
بہر محبوب ہے کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال چڑھائے  
جائیں۔

حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام  
مہینوں پر رجب کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح تمام کلاموں پر  
اللہ کے کلام کی فضیلت حاصل ہے اور تمام مہینوں پر شعبان کو  
اس طرح کی فضیلت حاصل ہے جیسے تمام مہینوں پر مجھے فضیلت  
حاصل ہے اور تمام مہینوں پر رمضان کی اسی طرح کی فضیلت ہے  
جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔

حضرت انس بن مالک: صحابہ کرام ہلال شعبان دیکھتے ہی قرآن  
کے نسخوں پر ٹوٹ پڑتے تھے اور کثرت سے قرآن عزیز پڑھا کرتے  
تھے اور مسلمان اس مہینہ میں کثرت سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرتے  
تھے تاکہ کمزور و مساکین کھاپی کر رمضان کے روزوں کے لئے طاقتمند  
ہو جائیں، اور حکام قیدیوں کو طلب کرتے تھے اگر کسی پر حد  
قائم کرنی ہوتی اس پر حد قائم کرتے تھے ورنہ اسے چھوڑ دیا کرتے  
تھے، اور تاجسرد پورے سال کا حساب کرتے تھے اور اپنا قرض ادا  
کرتے تھے اور درمروں سے اپنا پیسہ وصول کیا کرتے تھے۔  
حتیٰ کہ ہلال رمضان دیکھ کر غسل کرتے تھے اور عبادت میں لگ  
جایا کرتے تھے۔

شعبان کے حرفوں سے اشارات | شعبان میں پانچ حرف ہیں  
ش، ع، ب، ا، ن، ش سے شرف کی طرف عین سے علو و بندگی  
کی طرف، ب سے برائی کی طرف، آ سے الفت و محبت کی طرف  
اور ن سے دنوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تمام کے تمام حق تعالیٰ شانہ

للعید فی هذا الشهر وهو شهر تفتح فيه الخیرات  
وتنزل فيه البرکات وتترك فيه الخطیئات  
وتكفر فيه السيئات وتكثر فيه الصلوات  
على محمد صلى الله عليه وسلم خیر البریات  
وهو شهر الصلاة على النبي المختار قال الله  
تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا  
ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالملأ  
من الله الرحمة ومن الملائكة الشفاعة  
والاستغفار ومن المؤمنين الدعاء والثناء  
وقال مجاهد رحمه الله الصلاة من الله  
التوفيق والعصمة ومن الملائكة العون والنصرة  
ومن المؤمنين الاتباع والحرمة وقال ابن عطاء  
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله  
تعالى الوصلة ومن الملائكة الرقة ومن  
المؤمنين المتابعة والمحبة وقال غيره صلاة  
الرب تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه  
وسلم تعظيم الحرمة وصلاة الملائكة  
عليه صلى الله عليه وسلم اظهار الكرامة  
وصلاة الامة عليه صلى الله عليه وسلم  
طلب الشفاعة وقد قال صلى الله عليه وسلم  
من صلى عليّ واحدا صلى الله عليه عشرا  
فينبغي لكل مومن لبيب ان لا يغفل في هذا  
الشهر بل يتاهب فيه لاستقبال شهر رمضان  
بالتطهر من الذنوب والتوبة عما فات وسلف  
فيما مضى من الايام فيتفرغ الى الله تعالى في شهر

کی طرف سے اس مہینہ میں بندوں کے لئے تحائف ہیں، یہ ایک ایسا مہینہ  
ہے جس میں بھلائیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے برکتیں آنا رہی جاتی  
ہیں گناہوں سے درگزر کی جاتی ہے اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں چونکہ اس  
ماہ میں رحمت عالم صلعم پر کثرت سے درود بھیجا جاتا ہے اس لئے اسے  
درود کا مہینہ بھی کہتے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا: دیکھو! اللہ اور  
اس کے فرشتے نبی صلعم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی  
آپ پر درود و سلام بھیجو اگر درود کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے  
تو رحمت مراد ہوتی ہے اگر فرشتوں کی طرف کی جائے تو شفاعت  
استغفار مراد ہوتا ہے اور اگر مومنوں کی طرف کی جائے تو دعا و  
ثنا مراد ہوتی ہے۔

مجاہد: اللہ کی طرف سے صلوة بمعنی توفیق و گناہوں سے حفاظت  
ہے فرشتوں کی طرف سے بمعنی تعاون و نصرت ہے اور مومنوں کی  
طرف سے بمعنی اتباع اور احترام حدود اللہ ہے۔ ابن عطاء: اللہ کی  
طرف سے صلوة بمعنی وصلہ ہے یعنی اس سے حق تعالیٰ اپنے بندوں  
سے رابطہ قائم کرتا ہے اور فرشتوں کی طرف سے بمعنی رقت طبع ہے  
اور مومنوں کی طرف سے بمعنی پیروی اور محبت ہے۔ دیگر علماء: اللہ  
کی طرف سے صلوة عظمت احترام کا اظہار ہے فرشتوں کی طرف سے  
بزرگی کا اظہار ہے اور امت کی طرف سے شفاعت کی طلب گاری ہے۔  
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار  
درود بھیجے حق تعالیٰ جل مجدہ اس پر دس بار درود بھیجے  
گا بنا بریں نہ صاحب عقل مومن کا فرض ہے کہ وہ اس مہینہ میں  
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے اور عبادتوں  
سے غافل نہ رہے بلکہ اس میں ماہ رمضان کے لئے پوری پوری تیار  
کر لے خود کو گناہوں سے پاک و صاف بنالے اور جو گناہ ہو چکے  
ہیں ان سے سچے دل سے توبہ کر لے اور ماہ شعبان میں خوب رائے



شعبان ویتوسل الی اللہ تعالیٰ بصاحب الشہر  
محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی یصلح فناد قلبہ  
ویداوی مرض سرہ ولا یسرف ویؤخر ذلک الی  
غد لان الایام ثلاثہ امس وهو اجل والیوم  
وهو عمل وغدا وهو امل فلا تدری هل تبلغہ  
ام لا فامس موعظۃ والیوم غنیمۃ وغدا مخاطرۃ  
وکذلک الشہور ثلاثہ رجب فقد مضی و  
ذهب فلا یعود درمضان وهو منتظر لا تدری  
هل تعیش الی ادراکہ ام لا وشعبان وهو  
واسطۃ بین شہرین فلیغتنم الطاعۃ فیہ و  
قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو  
بعظہ قبیل هو عبد اللہ بن عمر بن الخطاب  
رضی اللہ عنہ اغتنم خمساً قبل خمس شبابک  
قبل هرمک وصحتک قبل سفک وغتاک  
قبل فقرك وفراغک قبل شغلك وحياتک  
قبل موتک۔

**فصل:** فی لیلۃ البراءۃ ما خصت بہ  
من الرحمۃ والکرامة والفضائل قال اللہ  
عزوجل حم والکتاب المبین انا انزلناک فی  
لیلۃ مبارکۃ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما  
حم یعنی قضی اللہ ما هو کائن الی یوم القیامۃ  
والکتاب المبین یعنی القرآن انا انزلناک یعنی  
القرآن فی لیلۃ مبارکۃ ہی لیلۃ النصف  
من شعبان وہی لیلۃ البراءۃ وقال ذلک  
اکثر المفسرین سوی عکرمۃ فانہ قال

اور گڑ گڑائے اور بک بک کر حق تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور  
اس صاحب ماہ کی پیروی کے واسطے سے یعنی رحمت عالم صلعم کی  
سنت کی پیروی کے ذریعہ حق تعالیٰ شانہ سے اپنے گناہ بخشو لے۔  
اور اپنا دل سنوار لے اور گ کر دل کی بیماریوں کا علاج کر لے۔  
اور اس کام میں ہرگز لیت و لعل نہ کرے کہ آج نہیں کل تو بہ کر لوں  
گا ابھی تو جوان ہوں بڑھاپے میں تو بہ کر لوں گا کیونکہ عمر کے تین تہیں  
میں گزری ہوئی کل تو ختم ہو گئی موجودہ دن عمل کا ہے آئیو الی کل موت  
کی ہے معلوم نہیں تم آئیو الی کل کو پاؤ گے بھی یا نہیں لہذا اگر گزری ہوئی  
کل عبرت و نصیحت ہے اور موجودہ دن غنیمت ہے اور آئیو الی کل خطبے سے  
خالی نہیں اسی طرح نہیں تین ہیں رجب وہ تو گزر گیا اور ختم ہو گیا نہیں  
اور رمضان کا انتظار ہے تم کو معلوم نہیں کہ تمہاری زندگی میں رمضان آئے گا  
کہ نہیں اور شعبان جو مذکورہ بالا دو مہینوں کے درمیان ہے اسلئے اس میں عبادت  
کو غنیمت سمجھنا چاہیے نبی اکرم صلعم نے ایک شخص سے جسے آپ نصیحت فرما رہے  
تھے دیکتے ہیں وہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت  
سمجھ لو بڑھاپے سے قبل جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، ناداری سے  
پہلے مالداری کو، شغل سے پہلے فراغت کو اور موت سے پہلے زندگی کو۔

**شب براءت اور اس میں مخصوص حق تعالیٰ جل مجدہ  
رحمت و بزرگی اور فضیلت**،  
نے فرمایا: حم قسم  
ہے اس روشن کتاب کی بلاشبہ ہم نے ایک برکت والی رات میں قرآن  
اتارا۔ حضرت ابن عباس: حم یعنی حق تعالیٰ نے قیامت تک جو کچھ  
ہونے والا ہے اس کا نبی صمد فرمایا، روشن کتاب سے قرآن پاک مراد ہے  
انزلناہ میں ضمیر کا مرجع قرآن پاک ہے برکت والی رات نصف شعبان کی  
رات ہے جسے شب براءت بھی کہا جاتا ہے اکثر مفسروں نے برکت والی  
رات کی تفسیر شب براءت سے کی ہے البتہ عکرمہ نے شب قدر سے کی  
ہے حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی چیزوں کو مبارک فرمایا ہے۔

هي ليلة القدر وقد سمي الله تعالى شيئا كثيرا  
 في القرآن مبارك ومنها سمي القرآن مبارك قال  
 وهذا ذكر مبارك انزلنا فمن بركته ان من  
 قرأه وآمن به اهتدى وتخلص من النار  
 وتنطى حتى يتعدى ذلك الى الآباء والابناء  
 قال النبي صلى الله عليه وسلم متى قراء القرآن  
 نظرا في المصحف تحف الله عز وجل عن البويه  
 العذاب وان كانا كافرين ومنها انه عز وجل  
 سمي الماء مبارك قال وانزلنا من السماء ماء  
 مبارك فمن بركته ان حياة الاشياء به  
 كما قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل  
 كل شيء حي افلا يؤمنون وقيل فيه عشر  
 لطائف الرقة واللين والقوة واللسان و  
 الصفاوة والحركة والرطوبة والبرودة و  
 التواضع والحياة وجعل الله تعالى هذا  
 اللطائف في المؤمن اللبيب رقة القلب ولين  
 الخلق وقوة الطاعة ولطافة النفس وصفاوة  
 العمل والحركة في الخير والرطوبة في العين  
 والبرودة في المعاصي والتواضع عند الخلق  
 والحياة عند استماع الحق ومنها انه عز وجل  
 سمي الزيتون مبارك في قوله تعالى من شجرة  
 مباركة زيتونة وهي اول شجرة اكل منها  
 آدم عليه السلام حين اهبط الى الارض  
 وفيها طعام واستضاءت كما قال الله تعالى  
 وصيغ للاكلين وقيل الشجرة المباركة هي

مثلا قرآن عزيزه مبارك فرمايا چنانچہ فرمایا: یہ برکت والا ذکر ہے جو ہم نے  
 اتارا ہے اس کی ایک برکت یہ ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر ایمان  
 یقین رکھتا ہے وہ راہ پا جاتا ہے اور آگ سے بچ جاتا ہے اور یہ برکت اس  
 کی باپوں اور اولاد تک متعدی ہوتی ہے۔

رحمت عالم صلعم نے فرمایا جو قرآن پاک دیکھ کر پڑھے حق تعالیٰ  
 اس کے ماں باپ کے عذاب میں تخفیف فرمادے گا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں  
 نہ ہوں، حق تعالیٰ نے پاکی کو بھی مبارک فرمایا ہے فرمایا: اور ہم نے  
 اوپر سے برکت والا پانی اتارا۔ پانی کی ایک برکت یہ ہے کہ تمام جانداروں  
 کی زندگی پانی ہی پر موقوف ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے  
 پانی سے ہر زندہ چیز بنائی کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ کتے ہیں پانی  
 میں دس خوبیاں ہیں سیال ہونا، نرم ہونا، قوت، لطافت، صفائی،  
 حرکت، رطوبت، برودت، تواضع، فروتنی اور زندگی۔ حق تعالیٰ نے  
 یہی دس خوبیاں صاحب ہوش مومن کو بخشی ہیں مومن میں رقت طبع، نرم  
 اخلاق، عبادت میں قوت و جہت، نفس میں لطافت، عمل میں خلوص، صفا  
 نیکی کے کاموں میں دوڑ و دوپ، آنکھوں میں طراوت، آگاہی میں جہود  
 لوگوں میں فروتنی اور عاجزی اور حق سننے سے زندگی درڑتی ہے۔  
 زمین کو بھی مبارک کہا گیا ہے فرمایا: زمین کے برکت والے درخت،  
 یہ وہ پہلا درخت ہے کہ جب حضرت آدم زمین پر اتارے گئے تو آپ  
 اسی کو تناول فرمایا تھا۔

اس میں غذا بیت بھی ہے اور روٹنی بھی فرمایا: اور یہ کھانے والوں  
 کے لئے سالن ہے کسی نے برکت والے درخت کو حضرت ابراہیم کسی  
 قرآن عزیز کسی نے ایمان اور کسی نے مومن کا نفس مطمئنہ بنا لیا ہے جو  
 نیکیوں کا حکم کرتا ہے تعمیل اور میں لگا رہتا ہے اور ممنوعات سے بچتا  
 رہتا ہے تقدیر کے آگے تسلیم خم رکھتا ہے اور فضل و قدر میں  
 رہنے کے موافق رہتا ہے۔



ابراہیم علیہ السلام وقیل ہی القرآن وقیل  
 ہی الایمان وقیل ہی نفس المؤمن المبطئۃ الامارة  
 بالخیر المتثلۃ لامر المنتریۃ للتمہی المسلمۃ للقد  
 الموافقة للرب فیما قضی و سطر و منها انه عزو  
 جل سمی عیسیٰ علیہ السلام مبارکاً قال تعالیٰ  
 وجعلنی مبارکاً ایما کنت فمن برکتہ علیہ السلا  
 ظهور الثمرۃ من الخصلۃ لامہ الصدیقۃ مریم  
 علیہما السلام و نبع الماء من تحتہ قال عزوجل  
 فناداها من تحتها ان لا تخزینی قد جعل ربک  
 تحتک سریاً و هزی الیک بمجدع الخصلۃ  
 تساقط علیک رطباً جنیاً فکلی واشربی و قری  
 عینا و ابراً الاکمہ و البرص و احیا الموتی  
 بدعوتہ و غیر ذلک من الخیرات والمعجزات  
 و منها انه عزوجل سمی الکعبۃ مبارکاً  
 قال عزوجل ان اول بیت وضع للناس للذی  
 ببکۃ مبارکاً و من برکتها ان من دخلها  
 و علیہ اثقال من الذنوب خرج مغفوراً لہ  
 قال اللہ تالی و من دخلہ کان آمناً من دخل  
 البیت و هو مؤمن محتسب فائب امنہ اللہ  
 عذابہ وقیل توبتہ و غفر لہ وقیل من دخلہ  
 کان آمناً من ان یوذی فی الحرم حتی ینخرج منه  
 و لہذا یجزم قتل صید لا و قطع شجرۃ الحرمۃ  
 الکعبۃ فحرمۃ الکعبۃ الحرمۃ اللہ و حرمۃ  
 المسجد الحرمۃ الکعبۃ و حرمۃ مکۃ الحرمۃ  
 المسجد و حرمۃ الحرم الحرمۃ مکۃ کما قیل

حضرت عیسیٰ کو بھی برکت والا کہا گیا ہے فرمایا: اور اللہ نے مجھے برکت  
 والا بنایا خواہ میں کسی جگہ پر ہوں آپ کی ایک برکت یہ بھی ظاہر ہوئی  
 کہ آپ کی والدہ مریم صدیقہ کے لئے ایک خشک کھجور کے درخت سے  
 پھل جھڑنے لگے اور آپ کے نیچے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا  
 حق تعالیٰ نے فرمایا: پھر مریم کو اس درخت کے نیچے آواز دی کہ  
 آپ غم نہ کریں حق تعالیٰ نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری فرما دیا  
 ہے اور اپنی طرف اس کھجور کے تنہ کو بلائیں آپ پر یہ درخت تازہ تازہ  
 اور کئی کھجوریں گرائے گا آپ انہیں کھائیں اور چشمہ کا پانی پیئیں اور اپنی  
 آنکھیں ٹھنڈی کریں اور آپ کی دعا سے حق تعالیٰ مادر زاد نابیناؤں  
 برص والوں کو اچھا کر دیا کرتا تھا اور مردوں کو زندہ فرما دیا کرتا  
 تھا اور بھی آپ میں بہت سے کمالات اور معجزات پائے جاتے تھے  
 حق تعالیٰ نے کعبۃ اقدس کو بھی مبارک فرمایا ہے فرمایا: بلاشبہ وہ  
 پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے  
 اور وہ برکت والا اور دنیا والوں کے لئے ہدایت والا ہے اس کی ایک  
 برکت یہ ہے کہ جو گناہوں میں ڈوبا ہو اس میں داخل ہو جانا ہے پاک و  
 صاف ہو کر نکلنے فرمایا اور جو اس میں داخل ہو جانا ہے صاحب  
 امن ہو جاتا ہے لہذا جو بیت اللہ میں ایمان لاکر ثواب کی نیت سے  
 توبہ کر کے داخل ہو جاتا ہے حق تعالیٰ جل مجدہ اسے اپنے عذاب سے  
 امن عطا فرمادیتا ہے اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے  
 بعض کے نزدیک اس میں داخل ہونے والا حرم میں ایذا دئے جانے  
 سے بے خوف ہو جاتا ہے جب تک حرم سے باہر نہ آئے اسی لئے حرم  
 میں شکار کرنا، وہاں کا درخت کاٹنا کعبۃ اقدس کے احترام کی وجہ  
 سے حرام ہے کعبۃ اقدس کی حرمت اللہ کی حرمت کی وجہ سے ہے اور  
 مسجد کی حرمت کعبۃ کی وجہ سے ہے اور مکہ کی حرمت مسجد کی  
 مسجد کی وجہ سے ہے اور حرم کی حرمت مکہ کی حرمت کی وجہ سے ہے

ان الكعبة قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة  
 لاهل مكة ومكة قبلة لاهل الحرم والحرم  
 قبلة لاهل الارض وانما ساها بكة لان  
 الاقدام يبت بعضها بعضا اي يدفع ويد را  
 وبكة ومكة واحد تبدل احدهما بالآخرى  
 كعمد وكد ولازم ولازب ومنها سمي  
 ليلة البراءة مباركة لان فيها من نزول الرحمة  
 والبركة والخير والعفو والغفران لاهل الارض  
 ومن ذلك ما اخبرنا الشيخ البونصر عن والدا  
 قال اخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن  
 محمد اخبرنا اسماعيل بن عمر الجلي اخبرنا  
 عمر بن موسى الوجي عن زبيد بن علي عن ابائه  
 عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي  
 صلى الله عليه وسلم انه قال ينزل الله تعالى  
 في ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا  
 فيغفر لكل مسلم الا لمشرك او مشاحن او  
 قاطع رحمة او امرأة تبغى في فرجها واخبرنا  
 البونصر عن والدا باسناد له عن يحيى بن سعيد  
 عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت  
 لما كانت ليلة النصف من شعبان استل النبي  
 صلى الله عليه وسلم من مرطى ثم قالت والله  
 ما كان مرطى من حرير ولا قز ولا كتان ولا  
 خز ولا صوف قال قلت لها سبحان الله فمن  
 اى شىء كان قالت كان سدا واد من شعرو  
 كانت لحنته من حرير وحسبت نفسي ان يكون

جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ اہل مسجد کا قبلہ ہے اور مسجد اہل مکہ کا قبلہ ہے اور  
 مکہ اہل حرم کا قبلہ ہے اور حرم دنیا کا قبلہ ہے، مکہ کو بکہ اس لئے کہا  
 جاتا ہے کہ کثرت از دحام کی وجہ سے بعض بعض کو دھکا دیتے ہیں  
 بلکہ روند بھی دیتے ہیں مکہ اور بکہ ایک ہی ہیں کیونکہ میم با سے اور  
 با میم سے بدل دی جاتی ہے، کبہ، مکہ، لازم، لازب۔  
 شب برأت بھی برکت والی بتائی گئی ہے کیونکہ اس میں دنیا والوں  
 پر رحمت، برکت، خیر و سعادت اور عفو و مغفرت کی بارش ہوتی  
 ہے، ملاحظہ ہو۔

باخبار شیخ البونصر اپنے والد سے: باخبار محمد، باخبار عبد اللہ بن محمد  
 باخبار اسماعیل بن عمر جلی، باخبار عمرو بن موسی الوجی از زبیر بن  
 علی اپنے دادوں سے وہ حضرت علی سے اور وہ نبی صلعم سے کہ آپ  
 نے فرمایا، حق تعالیٰ شانہ نصف شعبان میں دیوبہ آسمان پر آنے  
 آتا ہے اور ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے، ہاں مشرک کو، کینہ ور کو، رحم  
 قطع کرنے والے کو اور بدکار عورت کو نہیں بخشتا۔

باخبار البونصر اپنے والد سے از یحییٰ بن سعید از عروہ از عائشہ:  
 جب نصف شعبان کی رات آئی تو نبی صلعم میری چادر سے کھسک  
 گئے، پھر صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری چادر شیم کی، خالص شیم  
 کی، اکتان کی، خز کی اور اون کی نہ تھی راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا سبحان  
 پھر کس چیز کی تھی؟ فرمایا اس کا نانا بکری کے بالوں کا تھا اور بانا  
 اونٹ کے بالوں کا، مجھے گمان ہوا کہ رسول اللہ صلعم اپنی کسی بیوی کے  
 پاس تشریف لے گئے ہیں میں نے کھڑے ہو کر آپ کو گھر میں تلاش  
 کیا تو میرے ہاتھ آپ کے پیروں پر پڑے اس وقت آپ سجدے  
 میں تھے میں نے وہ دعا یاد کر لی جو اس وقت آپ سجدے میں پڑھ  
 رہے تھے آپ پڑھ رہے تھے اے اللہ تجھے میرے جسم نے اور دل نے  
 سجدہ کیا اور تجھ پر میرا دل ایمان لایا میں اپنے اور پر تیری نعموں کا



صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض نسائه فقبت  
 فالتمسته في البيت فوجدت يدي على قدميه و  
 هو ساجد فحفظت من دعائه صلى الله عليه  
 وسلم يقول سجد لك سوادى و خيالى و آمن  
 بك فوادى البروك بالنعم و اعترف لك بالذنب  
 ظلمت نفسى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا  
 انت اعوذ بعفوك من عقوبتك و اعوذ برحمتك  
 من نقتك و اعوذ بربك من سخطك و اعوذ  
 بك منك لا احدى ثناء عليك انت كما اثبتت  
 على نفسك قالت فما زال صلى الله عليه وسلم  
 قائما و قاعدا حتى اصبح و قد اصعدت قدما  
 و انا اغمزها و اقول بأبى انت و احمى اليس قد  
 غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تاخر  
 اليس قد فعل الله بك اليس اليس قال صلى الله  
 عليه وسلم يا عائشة افلا احون عبد اشكوزا  
 هل تدري من ماني هذه اللينة قالت فنت و ما  
 فيها قال فيها يكتب كل مولود فى هذه  
 السنة و فيها يكتب كل ميت و فيها تنزل  
 ارزاقهم و فيها ترفع اعمالهم و افعالهم  
 قلت يا رسول الله ما احد يدخل الجنة الا  
 برحمة الله قلت و لا انت قال صلى الله عليه وسلم و لا انا  
 الا ان يتعمد فى الله برحمته منه فبسخ يبدل  
 على هامنه و على وجهه و اخبرنى ابو نصر  
 قال انبانا و الذى حدثنا محمد بن احمد  
 المحافظ انبانا عبد الله بن محمد انبانا ابو العبا

اقرار کرتا ہوں اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں نہیں نے  
 اپنے اوپر ظلم کیا ہے لہذا مجھے بخش دے کیونکہ گناہوں کو تو ہی معاف  
 فرماتا ہے میں تیرے غفور کے ذریعہ تیرے عذاب سے تیری رحمت کے ذریعہ  
 تیرے انتقام سے تیری رضا کے ذریعہ تیرے غضب سے اور تیرے ذریعہ  
 تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں میں تیری تعریف کرنے سے قاصر ہوں  
 جیسی خود تو نے اپنی تعریف فرمائی ہے فرماتی ہیں صبح تک رسول اللہ  
 صلعم قیام و قعود ہی میں رہے یعنی رات بھر نماز پڑھتے رہے آپ کے  
 پیروں پر درم آگیا تھا میں انہیں دبانے لگی میں نے پوچھا یا رسول اللہ  
 میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا حق تعالیٰ نے آپ کے اگلے  
 پچھلے تمام گناہ معاف نہیں فرمادئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے  
 ساتھ ایسا نہیں کیا اور ایسا نہیں کیا؟ فرمایا: عائشہ! کیا میں ایک شکر گزار  
 بندہ نہ ہوں؟ جانتی ہو اس رات میں کیا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے  
 پوچھا کیا ہے؟ فرمایا اس رات میں اس سال میں تمام پیدا ہونے  
 والے بچے کھچے جاتے ہیں اور ہرگز نہ دیکھے کا نام ہا جا تا ہے اس میں  
 لوگوں کے رزق اتنے ہیں اور اس میں ان کے اعمال و افعال چڑھا گئے  
 جاتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی اللہ کی رحمت ہی سے جنت  
 میں جاتا ہے؟ فرمایا ہاں لوگ اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں جاتے  
 ہیں میں نے کہا: کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا  
 جب تک مجھے حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے پھر آپ  
 نے اپنے ہاتھ اپنے سر اور اپنے چہرے پر پھیر لئے۔

بخبر ابو نصر، باخبار پدر خود بخبر حدیث حافظ محمد بن احمد باخبار  
 عبد اللہ بن محمد باخبار ابو العباس ہروی و ابراہیم بن محمد بن حسن  
 باخبار ابو عامر مشقی باخبار ولید بن مسلم بخبر ہشام بن غار و سلیمان  
 بن مسلم وغیرہ انہ کقول از عائشہ رض کہ رسول اللہ صلعم نے ان سے فرمایا  
 عائشہ! وہ کون سی رات ہے؟ بولیں اللہ اور اس کا رسول خوب

الهروى وابراهيم بن محمد بن الحسن قال اخبرنا  
 ابو عامر الدمشقي انبانا الوليد بن مسلم اخبرني  
 هشام بن الفاروس سليمان بن مسلم وغيره عن  
 مكحول عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة اية  
 ليلة هي تالتت الله ورسوله اعلم فقال ليلة  
 النصف من شعبان فيها ترفع اعمال الدنيا  
 واعمال العباد والله فيها اعتقاء من النار  
 بعد شعر غم كلب فهل انت اذنت لي الليل  
 قالت قلت نعم ف صلى تخفف القيام وقرا  
 الحمد وسورة خفيفة ثم سجد الى شطر الليل  
 ثم قام في الركعة الثانية فقرأ فيها نحواً من  
 قراءة الاولى فكان سجوداً الى الفجر قالت  
 عائشة رضي الله عنها انظره حتى ظننت ان الله تعالى  
 قد قبض رسوله صلى الله عليه وسلم فمسا  
 طال على دلوت منه حتى مسست احمص  
 قدميه فتحرك فسعته يقول في سجودك  
 اعوذ بعفوك من عقابك واعوذ برضائك  
 من سخطك واعوذ بك منك جل ثناؤك  
 لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على  
 نفسك قلت يا رسول الله قد سمعتك تذكر  
 في سجودك الليلة شيئاً ما سمعتك تذكره  
 قط قال صلى الله عليه وسلم وعلت ذلك  
 قلت نعم قال صلى الله عليه وسلم تعلمين  
 وعلين فان جبريل عليه السلام امرني

جاننا ہے فرمایا وہ نصف شعبان کی رات ہے اس میں دنیا کے اور  
 بندوں کے اعمال چڑھائے جاتے ہیں اور اس رات حق تعالیٰ جہنم سے  
 بنو غنم کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا  
 ہے پھر کیا تم آج رات مجھے نماز پڑھنے کی اور عبادت کرنے کی اجازت  
 دیتی ہو؟ میں نے کہا ہاں آپ شوق سے نماز پڑھیں (آخر کار آپ  
 نے نماز پڑھی اور قیام ہلکا کیا اور سورہ فاتحہ پڑھی اور ایک مختصر  
 سورت پڑھی اور آدھی رات تک سجدے میں پڑھے رہے پھر  
 دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے اور اس میں بھی پہلی رکعت کی  
 قرأت کی طرح قرأت فرمائی اور سجدے میں جا کر صبح تک سجدے  
 ہی میں رہے میں آپ کو دیکھ رہی تھی آپ کے لمبے سجدے سے  
 مجھے خیال پیدا ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلعم کے دشمنوں کی روح  
 ترقبض نہیں ہو گئی آخر کار جب میں گھبرا گئی تو اٹھ کر آپ کے  
 پاس آئی اور میں نے آپ کے پیروں کے تلونے چھوئے آپ نے  
 حرکت کی، میں نے سنا آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے  
 میں تیری معافی کے ذریعہ تیرے عذاب سے تیری رضا کے ذریعہ  
 تیرے غم سے اور تیرے ذریعہ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں  
 تیری ذات جلیل القدر ہے میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جس طرح  
 تو نے آپ اپنی تعریف فرمائی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلعم  
 آج کی رات میں نے سجدے میں ایک ایسی چیز کا ذکر سنا ہے کہ  
 اس کا ذکر میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا نبی صلعم نے فرمایا: تم کو وہ  
 معلوم ہو گیا۔ میں نے کہا: جی ہاں، فرمایا: دعا تم بھی یاد کر لو اور  
 دوسروں کو بھی یاد کرادو کیونکہ حضرت جبریل نے مجھے حکم فرمایا کہ  
 میں یہ دعا سجدے میں پڑھا کروں۔

بخبر ابو نصر اپنے والد سے، باخبار عبد اللہ بن محمد، باخبار اسحاق  
 بن احمد فارسی، باخبار احمد بن صباح بن ابی شریح، باخبار یزید



ان اذکرهن فی السجود واخبرنی ابوالنصر  
 عن والدہ قال انبانا عبد اللہ بن محمد انبانا  
 اسحاق بن احمد الفارسی انبانا احمد بن الصباح  
 بن ابی شریح انبانا یزید بن ہارون حدثنا  
 الحجاج بن ارطاة عن یحیی بن ابی کثیر عن عروہ  
 عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت فقدت  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ  
 فخرجت فاذا هو بالبقیع راسہ الی السماء فقل  
 لی اکت تخافین ان یحیی اللہ ورسولہ علیک  
 فقلت لہ یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعض  
 نسائک فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ  
 ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا  
 فیغفر لا کثر من عدد شعر غنم کلب وعن  
 عکرمۃ مولی ابن عباس رحمہ اللہ ورضی اللہ  
 عنہما فی قول اللہ تعالیٰ فیہا یفرق کل امر  
 حکیم قال ہی لیلۃ النصف من شعبان یدبر  
 اللہ تعالیٰ امر السنۃ ویسیخ الاحیاء الی الاموات  
 ویکتب حاج بیت اللہ فلا یرید فیہما احد  
 ولا ینقص منہما احد وقال حکیم بن کبیر  
 یتابع اللہ تعالیٰ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من  
 شعبان فمن طہرہ فی تلك اللیلۃ زکاء  
 الی مثلہا وعن عطاء بن یسار یعرض عمل  
 السنۃ فی لیلۃ النصف من شعبان فیخرج  
 الرجل مسافرا وقد نسخ من الاحیاء الی  
 الاموات ویزوج وقد نسخ من الاحیاء

مردن، شجریت حجاج بن ارطاة از یحیی بن ابی کثیر از عروہ از عائشہ  
 ایک رات میں نے اپنے کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا میں  
 آپ کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ کو بقیع میں دیکھا، آپ کا  
 سر و چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا فرمایا کیا تم کو یہ ڈر پیدا  
 ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا۔ میں نے عرض کیا  
 یا رسول اللہ میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے پاس تشریف  
 لے گئے ہوں۔ فرمایا حق تعالیٰ شانہ نصف شعبان کی رات کو  
 ذبیحی آسمان پر رات ہی سے اتر آتا ہے اور بنو کلب کی  
 بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔  
 عکرمہ مولیٰ ابن عباس: اس رات ہر حکمت والا کام عظیم  
 کیا جاتا ہے کی تفسیر میں: یہ نصف شعبان کی رات ہے اس  
 شب حق تعالیٰ مجاہدہ دنیا کے تمام کاموں کا انتظام فرماتا ہے  
 اور زندہ رہنے والوں میں سے مرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے  
 اور سفل بھر کے حاجیوں کو لکھا جاتا ہے بنا بریں ان میں کسی بیشی  
 نہیں ہوتی۔

حکیم بن کبیر: نصف شعبان کی رات میں حق تعالیٰ شانہ  
 اپنی مخلوق کی طرف منوجہ ہوتا ہے پھر جسے اللہ تعالیٰ آج کی رات  
 پاک فرماتا ہے اسے دوسرے سال کی اسی رات تک پاک فرماتا ہے  
 ہے۔ عطاء بن یسار: نصف شعبان کی رات میں سال بھر کے عمل  
 پیش کئے جاتے ہیں انسان سفر کے لئے روانہ ہو جاتا ہے حالانکہ وہ  
 مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور نکاح کرتا ہے حالانکہ مردوں میں  
 لکھا ہوا ہوتا ہے۔

باخبار البصر اپنے والد سے اپنی اسناد سے از مالک بن انس از  
 هشام عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے  
 آپ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ چار راتوں میں خیر و سعادت کے

در دوازده کھول دیتا ہے اور پانی کی طرح نیکیاں برساتا ہے شب  
عید الاضحیٰ، شب عید الفطر، شب نصف شعبان اس رات میں  
حق تعالیٰ موتیوں اور درزیاں کاٹ دیتا ہے اور حاجیوں کو لکھتا ہے  
اور شب عرفہ اذان تک۔

سعید: مجھے ابراہیم بن ابی نجیح نے پانچ راتیں بتائیں جن میں ایک  
جمعہ کی شب بھی ہے۔

ابو ہریرہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں میرے

پاس حضرت جبریل نے آکر مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنی نگاہ اٹھا

کہ آسمان کی طرف تو دیکھئے فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ رات

کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں حق تعالیٰ رحمت کے

دروازوں میں سے تین سو دروازے کھول دیتا ہے اور عبادہ

مشرک کے سب کو بخش دیتا ہے البتہ مبادوگر کو یا کاسین کو یا داکی

شرابی کو یا سود اور زنا پر مجھے رہنے والے کو نہیں بخشا جب تک

سچے دل سے توبہ نہ کر لیں پھر جب چوتھائی رات گزر گئی تو حضرت

جبریل نے اتر کر کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نگاہ اٹھا کہ آسمان کی طرف

تو دیکھئے پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کہ جو دیکھا تو جنت

کے تمام دروازے کھلے ہوئے دیکھے پہلے دروازہ پر ایک فرشتہ

اعلان کر رہا تھا اس کے لئے مبارک ہو جو آج کی شب رکوع میں

مصرف ہے اور دوسرے دروازہ پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا اس کیلئے مبارک

ہو جو آج کی شب سجدہ میں مشغول ہے اور تیسرے دروازہ پر ایک فرشتہ اعلان

کر رہا تھا اس کے لئے مبارک ہو جو آج کی شب دعاؤں میں بسر کرے اور چوتھے دروازے

پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا آج کی شب ذکر کرنے والوں کے لئے

مبارک ہو اور پانچویں دروازہ پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا آج کی شب

اللہ کے دوسے روزے والوں کے لئے مبارک ہو اور چھٹے دروازہ پر ایک فرشتہ

اعلان کر رہا تھا آج کی شب مسلمانوں کے لئے مبارک ہو اور ساتویں

الی الاموات واخبر فی البصر عن والمد لا باسناد

عن مالک بن انس عن هشام بن عروث عن عائشة

رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ

وسلم یقول یسبح اللہ الخیر فی الیوم لیال سحبا

لیلة الاضحی و لیلة الفطر و لیلة النصف من شعبان

ینسخ اللہ فیہا الاجلال والارزاق ویکتب فیہا

الحاج و لیلة عرفة الی الاذان قال سعید قال

ابراہیم بن ابی نجیح خمس فیہا لیلة الجمعة و

قال ابو ہریرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم انه قال جاء فی جبریل علیہ السلام

لیلة النصف من شعبان وقال لی یا محمد ارفع

رأسک الی السماء قال قلت له ما هذا اللیلة

قال هذه اللیلة یفتح اللہ سبحانہ فیہا ثلاثا

باب من ابواب الرحمة یغفر لکل من لا یشرک

به شیئا الا ان یکون ساحرا او کاهنا او مدمن

خمر او مصرا علی الربا والزنا فان هولاء لا

یغفر لہم حتی یتوبوا فلما کان ریح اللیل

نزل جبریل علیہ السلام وقال یا محمد ارفع

رأسک فرفع رأسہ فاذا ابواب الجنة مفتوحة

وعلی الباب الاول ملک ینادی طوبی لمن رکع

فی هذا اللیلة و علی الباب الثانی ملک ینادی

طوبی لمن سجد فی هذا اللیلة و علی الباب

الثالث ملک ینادی طوبی لمن دعا فی هذا

الیلة و علی الباب الرابع ملک ینادی طوبی

للذاکرین فی هذا اللیلة و علی الباب الخامس



ملك ینادی طوبی لمن بکی من خشية الله فی هذا الیلة و  
 علی الباب السادس ملك ینادی طوبی للمسلمین فی هذا  
 الیلة وعلی الباب السابع ملك ینادی هل من سائل فیعطی  
 سؤله وعلی الباب الثامن ملك ینادی هل من مستغفر یتغفر له  
 قلت یا جبریل الی متى تكون هذا الابواب مفتوحة قال الی طلوع الفجر من  
 الیل ثم قال یا محمد ان الله تعالی عتق من النار بعد دسعی غنم کلب۔  
**فصل** : وقیل سمیت لیلة البراءة لان فیها  
 براءتین براءة للاشقیاء من الرحمن وبراءة للادلیا  
 من الخذلان وقد روی عن رسول الله صلی الله  
 علیه وسلم انه قال اذا کان لیلة التصف  
 من شعبان اطلع الله علی خلقه اطلاعة فیغفر  
 للمؤمنین ویبطل للكافرين ویدع اهل الحق  
 بحقد هم حتی یدعوا قیل ان للملائكة لیلتی  
 عید فی السماء كما ان للمسلمین یومی عید فی الارض  
 نعید الملائكة لیلة البراءة ولیلۃ القدر و  
 عید المؤمنین یوم الفطر و یوم الاضحی و عید  
 الملائكة باللیل لانهم لا ینامون و عید  
 المؤمنین بالنهار لانهم ینامون وقیل ان  
 الحکمة فی ان الله تعالی اظهر لیلة البراءة و  
 اخفی لیلة القدر لان لیلة القدر لیلة الرحمة  
 والفقران والعقن من النیران اخفاها الله عزو  
 جل لئلا یتكلوا علیها و اظهر لیلة البراءة  
 لانها لیلة الحکم والقضاء و لیلة السخط و  
 الرضا لیلة القبول والرد والوصول والسد  
 لیلة السعادة والشقاء والكرامة والنقاء

دروازہ پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا : ہے کوئی مانگنے والا  
 کہ اس کی سراد پوری کی جائے ؟ اور آٹھویں دروازہ پر ایک فرشتہ  
 اعلان کر رہا تھا : ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ اسکے گناہ معاف کئے  
 جائیں ؟ میں نے پوچھا : جبریل ! یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے ؟ فرمایا  
 شروع رات سے صبح صادق کے طلوع ہونے تک پھر فرمایا : محمد صلعم اس رات  
 اللہ تعالیٰ بنو کعبہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو جنم سے آزاد فرمادیتا ہے  
**شب برات کی وجہ تسمیہ** شب برات کو شب برات اس  
 لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو برائتیں ہیں ، گنہ گاروں کو رحمن کی طرف  
 سے آگ سے برات ملتی ہے اور اولیائے رحمن کو رسوائی سے ۔  
 روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات  
 کو حق تعالیٰ جل مجدہ اپنی مخلوق کو جفاک کہ دیکھتا ہے پھر اہل ایمان  
 کو بخشتا ہے اور کافروں کو حملت عطا فرماتا ہے اور حاسدوں کو  
 ان کے حسد پر چھوڑ دیتا ہے جتنے کہ وہ اپنا حسد چھوڑ دس ۔  
 کہا جاتا ہے کہ فرشتے آسمان پر دو راتوں میں دو عیدیں مناتے ہیں  
 جیسے مسلمان دنیا میں دو دنوں میں دو عیدیں مناتے ہیں فرشتوں  
 کی عیدوں کی راتیں شب برات اور شب قدر ہیں اور مومنوں کی  
 عیدیں عید اور بقدر عید ہے فرشتوں کی عیدیں رات میں منائی جاتی  
 ہیں کیونکہ وہ سوتے نہیں اور مومن دن میں عیدیں مناتے ہیں  
 کیونکہ وہ راتوں میں سو جاتے ہیں ۔

**شب برات کیوں ظاہر کی گئی اور کیوں چھپائی گئی** اس کی وجہ  
 یہ ہے کہ شب قدر رحمت و بخشش کی اور آگ سے آزادی کی شب ہے  
 حق تعالیٰ نے اسے پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اس پر بھروسہ نہ کر لیں ۔  
 اور شب برات کو ظاہر فرما دیا کیونکہ یہ شب فیصد کی قضاء و  
 قدر کی ، تہ و رضا کی ، قبول و انکار کی ، قرب و بعد کی ، سعادت و  
 شقاوت کی اور بزرگی اور صفائی حاصل کرنے کی رات ہے کسی کو

فواحد فیہا یسعد والآخرفیہا یبعد وواحد یجزی وواحد  
یخزی وواحد یکرمد وآخر یجرمد وواحد یوجر  
وآخر یہجر فکم من کفن مغسول و صاحبہ  
فی السوق مشغول وکم من تبر محفور و صاحبہ  
بالسرور مغرور وکم من فم ضاحک و هو  
عن قریب ہالک وکم من منزل کمل بناؤ لا  
و صاحبہ قد اذف فناؤ لا وکم من عبد یرجو  
الثواب فیبد ولہ العقاب وکم من عبد یرجو  
البشارۃ فیتبد ولہ الخسارۃ وکم من عبد یرجو  
الجنات فیتبد ولہ النیران وکم من عبد یرجو  
الوصل فیتبد ولہ الفصل وکم من عبد یرجو  
العزاء فیتبد ولہ البلاء وکم من عبد یرجو  
الملک فیتبد ولہ الہلک وقیل ان الحسن البصری  
رحمہ اللہ کان یخرج من دارۃ ل یوم النصف  
من شعبان وکان وجہہ قد قبر ودفن ثم اخرج  
من قبرہ فقیل لہ فی ذلک فقال واللہ ما الذی  
انکسرت سنینہ باعظم مصیبۃ منی فیل لہ  
ولم ذلک قال لانی من ذنوبی علی یقین و من  
حسناتی علی رجل فلا ادری القبل منی ام ترذ علی۔  
**فصل** : فاما الصلاۃ الوردیۃ فی لیلة النصف  
من شعبان نہی مائتہ رکعت بالف مرۃ قل هو  
اللہ احد فی کل رکعۃ عشر مرات وتسمی ہذا  
الصلاۃ الصلاۃ الخیر وتفرق یرکنتھا وکان  
السلف الصالح یصلونھا جماعة مجتمعین لہا  
وفیہا فضل کثیر وثواب جزیل وزوی عن

اس میں سعادت ملتی ہے اور کوئی دقت کا را جاتا ہے کسی کو ثواب  
جزیل سے نوازا جاتا ہے اور کسی کو عذاب علیم میں گرفتار  
کر کے رسوا کیا جاتا ہے کسی کے سر پر عزت کا تاج رکھا جاتا ہے اور  
کسی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے کسی کو احسب دیا جاتا ہے اور  
کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے بہت سے وہ لوگ جن کے کفن تیار ہیں بازار  
میں کاروبار میں مشغول ہیں، بہت سوں کی قبریں کھودی جانے  
والی ہیں اور وہ اپنے عیش میں غافل و مدبوش ہیں بہت سے ایسے  
بہنے والے چہرے ہیں جو عنقریب فنا کے گھاٹ اتر جانے والے ہیں بہت  
سے ایسے شان دار قہر ہیں جن کی تعمیر تکمیل مراحل تک پہنچ گئی ہے اور  
صاحب منزل کی فنا قریب آگئی ہے بہت سے بندے امیدوار  
ثواب ہیں لیکن عنقریب عذاب کا شکار ہونے والے ہیں، بہت  
سے حضرات امیدوار بشارت ہیں لیکن جلد ہی گھاٹے میں پھنس  
جانے والے ہیں بہت سے لوگ جنت کی آس باندھے ہوئے ہیں لیکن آگ ان  
کے انتظار میں ہے بہت سے چاہنے والے وصل کی توقع رکھتے ہیں لیکن  
ان کے نصیب میں فراق ہے بہت سے سائل عطیہ کے تنائی ہیں لیکن انکی  
قسمت میں مصائب ہیں بہت سے ملک و حکومت کے امیدوار ہیں  
جن کے لئے عنقریب ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حسن بصری  
نصف شعبان کے دن گھر سے نکلتے تھے تو آپکے چہرے پر مردنی چھائی  
رہتی تھی جیسے قبر میں دفن کئے جانے کے بعد نکالے گئے ہوں آپ سے  
اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا اللہ کی قسم جس کی کشتی ٹوٹ گئی جو وہ  
مجھ سے بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں پوچھا گیا: کیوں؟ فرمایا اس  
لئے کہ مجھے اپنے گناہوں پر یقین ہے اور نیکیوں کی طرف سے تردد ہے  
مجھے معلوم نہیں کہ میری نیکیاں قبول ہوتی ہیں یا میرے منہ پر مار دی جاتی ہیں  
**شب برات کی نماز** | نصف شعبان کی رات کی نماز سورہ  
رکعتیں ہیں جن میں مجموعی طور پر سورہ اخلاص ایک ہزار بار پڑھی جاتی ہے



الحسن رحمہ اللہ انہ قال حدثنی ثلاثون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من صلی هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله اليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة ادناها المغفرة ويتعب ان تصلي هذه الصلاة ايضا في الاربع عشر ليلة التي يستحب احياؤها التي ذكرنا ها في فضائل رجب ليجوز بها المصلي هذه الكرامة وهذه الفضيلة والمنشوبة -

جن میں جاگ کر عبادت کرنا مستحب ہے اور جن کا ذکر فضائل رجب میں کیا جا چکا ہے تاکہ اس نماز کی برکت سے نمازی کو اس نماز کی بزرگی، فضیلت اور ثواب جزیل حاصل ہو جائے۔

## چھٹی مجلس

### فضائل رمضان المبارک

قال الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الحسن البصري رحمه الله اذا سمعت الله تعالى يقول يا ايها الذين آمنوا فارع لها سمعك فانها لامر تو مريد اولتهى تنهى عنه وقال جعفر الصادق رحمه الله لذلة ما في النداء ازالة تعب العباداة والعناء قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا ينادى من العالم وادى اسم من المعلوم المنادى وها تنبيه على نداء المنادى الذي هو اشارة الى المعرفة السابقة والصحة القلبية آمنوا

حق تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔

حسن بصری: جب حق تعالیٰ تم سے اے ایمان والو کے لفظ سے خطاب فرمائے تو ہمہ تن متوجہ ہو کر کان لگا کر سنو کیونکہ اس خطاب کے بعد یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم صادر ہوگا یا کسی چیز کے کرنے سے روکا جائے گا۔ جعفر صادق: اس پیارے خطاب کی لذت سے عبادت کی تکلیف و مشقت جاتی رہتی ہے یا ایہا الذین آمنوا میں یا حرف ندا ہے یا سے خطاب اہل دانش سے کیا جاتا ہے اور لفظ ای سے معین منادی مراد ہے اور لفظ ہا منادی کی تشبیہ کے لئے لایا گیا ہے اور لفظ الذین سابق تعارف و پرانی صحبت کی طرف اشارہ کرتا ہے ہے اور لفظ آمنوا اس معین راز کی طرف اشارہ ہے جو پکارنے والے

اشارة الى السر المعلوم بيد المنادي والمنادي كانه يقول  
يا من هولي لستره المخلص له بضمير لا و بلبه  
كتب اي فرض و اوجب عليكم الصيام  
وهو مصدر كقولك صمت صياما وقت  
قيام و اصل الصيام في اللغة الامساك يقال  
صامت الريح اذا سكنت و امسكت عن  
الهبوب و صامت الخيل اذا وقفت و امسكت  
عن السير و يقال صام النهار اذا اعتدل  
و قام قائم الظهيرة لان الشمس اذا بلغت  
كبد السماء و قفت و امسكت عن السير  
هنية كما قال الشاعر:

حتى اذا صام النهار و اعتدل و سال للشعر لعاب فنزل  
و يقال للرجل اذا صمت و امسك عن الكلام  
صام قال الله تعالى اني نذرت للرحمن صوما  
اي صمتا فالصوم هو الامساك عن المعتاد  
من الطعام و الشراب و الجماع في الشرع مع  
ترك الآثام قال الله عز و جل كما كتب علي  
الذين من قبلكم اي من الانبياء و الامم  
اولهم آدم عليه السلام و هو ما روى عبد  
الملك بن هارون بن عنتره عن ابيه عن  
جداه قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه  
يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات  
اليوم عند انتصاف النهار و هو في الحجرة فقلت  
عليه فرد علي السلام ثم قال يا علي هذا  
جبريل يقرئك السلام فقلت عليك و عليه السلام

اور پکار سے جانے والے کے درمیان ہے گو یا حق تعالیٰ فرما رہا ہے  
کہ اے وہ جو اپنے پر خلوص راز کے ساتھ اپنے دل و دماغ سے میرے  
میں تم پر روزے رکھنے فرض اور واجب کر دئے گئے ہیں، صیام مسمک  
ہے جیسے قیام مصدر ہے لغت میں صیام بمعنی اساک رکنا ہے صامت  
الریح یعنی ہوا چلتے چلتے بند ہو گئی صامت الخیل یعنی گھوڑا چلتے  
رک گیا صام النهار یعنی دوپہر ہو گئی کیونکہ جب سورج آسمان کے  
عین وسط میں پہنچتا ہے تو گھوڑا سی سی دیر کے لئے ٹھہر جاتا ہے جیسا  
کہ ایک شاعر کہتا ہے:

حتیٰ کہ جب دن ٹھہر گیا اور وہ برابر ہو گیا (دوپہر ہو گئی) اور  
سورج کی رال بننے لگی اور وہ اترنے لگا۔ یعنی سورج ڈوبنے کے  
بعد تار سے نکل آئے۔ صام الرجل یعنی فلاں بات کرتے کرتے  
رک گیا اور خاموش ہو گیا، حق تعالیٰ نے فرمایا (مزمیم صدیقیہ  
کو حکم ہوا کہ اگر تم سے کوئی شخص پوچھے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو تم اٹھو  
سے یہ جواب دینا) میں نے خاموش رہنے کی مست مان لی ہے، یہاں  
صوم سے خاموشی مراد ہے۔

شرع کی اصطلاح میں صوم (روزہ) حسب عادت دن میں  
کھانے پینے اور صحبت سے رک جانے کو اور گناہ چھوڑنے کو کہتے ہیں  
پھر فرمایا جیسے تم سے پہلے نبیوں پر اور امتوں پر روزے فرض کر  
دئے گئے تھے سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں۔

عبد الملک بن ہارون بن عنترہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا  
سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے علی بن ابي طالب سے  
سنا فرماتے تھے کہ میں ایک دن دوپہر کے وقت رحمت عالم صوم  
کی خدمت میں حاضر ہوا آپ حجرے میں تشریف فرما تھے میں نے  
آپ کو سلام کیا آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا:  
علیٰ ایہ جبرئیل علیہ السلام ہیں تمہیں سلام کر رہے ہیں میں نے



یا رسول اللہ فقال صلى الله عليه وسلم اذن  
 مني قد نوت منه فقال يا اهل لي لك جبريل صم من  
 كل شهر ثلاثة ايام يكتب لك باول يوم  
 عشرة آلاف سنة وباليوم الثاني ثلاثون الف  
 وباليوم الثالث مائة الف سنة فقلت يا  
 رسول الله هذا الثواب لي خاصة ام للناس عامة قال صلى  
 الله عليه وسلم يا اهل لي يا عطيك الله هذا الثواب ولن  
 يعمل بعلمك بعدك قلت يا رسول الله وما هي قال الايام  
 البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر قال غنوة فقلت  
 لعلي رضي الله عنه لاي شيء تسمى هذا الايام ايام البيض  
 فقال علي رضي الله عنه لما اهبط الله تعالى آدم عليه السلام  
 من الجنة الى الارض احرقت الشمس فاسود  
 جسده فاتاه جبريل عليه السلام فقال  
 يا آدم اتحبت ان يبيض جسدي قال نعم  
 قال له فممن من الشهر ثالث عشر ورابع  
 عشر وخامس عشر فنام آدم عليه السلام  
 اول يوم فابيض ثلث جسده ثم صام اليوم  
 الثاني فابيض ثلثا جسده ثم صام اليوم الثالث  
 فابيض جسده كله فسيت ايام البيض فآدم  
 عليه السلام من الذين كتب عليهم الصيام  
 من قبل محمد صلى الله عليه وسلم قال الحسن  
 وجباة من العلماء بالتفسير اذ الله تعالى  
 بالذين من قبلكم النصارى شبه صيامنا بصيام  
 لا تفاقهما في الوقت والقدر وذلك ان الله  
 تعالى فرض على النصارى صيام شهر رمضان

کہا یا رسول اللہ آپ پر اور ان پر میرا بھی سلام ہو، فرمایا: میرے  
 پاس آ جاؤ میں آپ کے قریب جا کر بیٹھ گیا فرمایا: علی! جبرئیل  
 تم سے فرماتے ہیں ہر ماہ کے تین روزے رکھا کرو تمہارے لئے پہلے  
 روزے سے دس ہزار سال کے روزوں کا دوسرے روزے سے  
 تیس ہزار سال کے روزوں کا اور تیسرے روزے سے ایک لاکھ سال  
 کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ثواب  
 خاص طور سے میرے ہی لئے ہے یا تمام لوگوں کے لئے ہے فرمایا:  
 علی! حق تعالیٰ تم کو یہ ثواب عطا فرمائے گا اور اسے بھی جو تمہارے  
 بعد تم جیسا عمل کرے گا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تین دن کیا ہیں  
 فرمایا: وہ ایام بیض و سفید دن ہیں یعنی ہر ماہ کی تیرھویں، چودھویں  
 اور پندرھویں تاریخ۔ غمترہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی سے پوچھا  
 کہ ان دنوں کو سفید دن کیوں کہتے ہیں تو حضرت علی رضی نے فرمایا کہ  
 جب حق تعالیٰ شانہ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو  
 دھوپ نے آپ کو جلا دیا اور آپ کا جسم کالا پڑ گیا پھر حضرت  
 آدم کے پاس حضرت جبرئیل تشریف لائے اور فرمایا: آدم کیا آپ  
 چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم سفید ہو جائے؟ فرمایا: ہاں، فرمایا اچھا  
 تو ہر مہینہ کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخوں کا روزہ  
 رکھا کرو چنانچہ حضرت آدم نے پہلے دن روزہ رکھا تو آپ کا تنہائی  
 جسم سفید ہو گیا پھر دوسرے دن روزہ رکھا تو دو تنہائی جسم سفید  
 ہو گیا پھر تیسرے دن روزہ رکھا تو پورا جسم سفید ہو گیا اس لئے  
 ان دنوں کا نام سفید دن ہی پڑ گیا، لہذا حضرت آدم ان میں سے  
 ہیں جن پر محمد رسول اللہ صلعم سے قبل روزے فرض کئے گئے تھے  
 حسن بصری کا اور مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ پہلے لوگوں  
 سے عیسائی مراد ہیں حق تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو ان کے روزوں  
 سے تشبیہ دی کیونکہ وقت و مقدار میں دونوں کے روزے برابر ہیں۔

فاشتم ذلك عليهم لانه ربا كان يأتي في  
الحزب الشديد اذ في البرد الشديد وكان يضرهم في اسفارهم  
ومعائشهم فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم  
على ان يجعلوا صيا منظم في فصل من السنة بين  
الشتاء والصيف فجعلوا في الربيع وزادوا  
فيه عشرة ايام كفارة لما صنعوا فصار  
اربعين يوما ثم ان ملكا لهم اشتمكى فسد  
فجعل لله ان هو برئ من وجهه ذلك يزيل  
في صومهم اسبوعا فزادوا فيه ثمان مات ذلك  
الملك ووليهم ملك آخر فاشتموا خمسين يوما  
قال مجاهد رحمه الله اصابهم موتات  
فقال زيدوا في صيامكم فزادوا عشرا قبل  
وعشرا بعد قال الشعبي رحمه الله لو صمت  
السنة كلها لا فطرت اليوم الذي يشك فيه  
فيقال من شعبان ويقال من رمضان وذلك ان  
النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض  
علينا فحولوا الى الفصل وذلك انهم كانوا  
ربما صاموا في القينط فعدوا ثلاثين يوما  
ثم جاء بعد هم قرن منهم فاخذوا بالثقة  
في النفس فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعد  
ها يوما ثم لم يزل الاخرين بسنة القرن الذي  
قبله حتى صاروا الى خمسين يوما فذلك قوله  
عز وجل كما كتب على الدين من قبلكم لعلكم  
تتقون يعني لكي تتقوا الاكل والشرب والجماع  
وقال اهل التفسير ايضا فرض الله تعالى على

کیونکہ حق تعالیٰ نے رمضان کے روزے عیسائیوں پر بھی فرض فرمائے  
تھے لیکن رمضان کے روزے ان پر شاق گزرتے تھے کیونکہ کبھی  
رمضان سخت گرمی یا سخت سردی میں بھی آجاتا تھا جس سے انہیں  
حالت سفر میں تکلیف ہوتی تھی اور کاروبار میں بھی خلل پڑتا تھا لہذا  
عیسائیوں کے علماء اور سرداروں نے یہ قرارداد پاس کی کہ روزے  
سال کے ایک ہی موسم میں جاڑے اور گرمی کے درمیان مقرر کر دئے  
جائیں چنانچہ انہوں نے موسم بہار میں روزے مقرر کر دئے اور اپنے  
کرتوت کے کفارہ میں دس روزے بڑھا کر چالیس روزے کر دئے  
پھر ان کے کسی بادشاہ کو منہ کی بیماری لاحق ہوئی اس نے منت مانی  
کہ اگر میری یہ بیماری جاتی رہی تو میں ایک ہفتہ کے روزے اور  
بڑھا دوں گا چنانچہ وہ اچھا ہو گیا اور ایک ہفتہ کے روزے اور  
بڑھا دئے گئے پھر وہ بادشاہ فوت ہو گیا اور دوسرا سربراہ نے  
سلطنت ہوا اس نے کہا پچاس روزے پورے کر دو۔

مجاہد: ان میں ایک دبا پھوٹ پڑی تھی پورے روزے بڑھا دو  
چنانچہ رمضان سے قبل دس دس روزے بڑھا دئے گئے۔

شعبی: اگر میں تمام سال روزے رکھتا تو شک والے دن روزہ نہ  
رکھتا یعنی اس دن جس کو کوئی شعبان کا دن بتاتا اور کوئی رمضان کا

کیونکہ ہماری طرح عیسائیوں پر بھی رمضان کے روزے فرض کئے گئے  
تھے لیکن انہوں نے ایک موسم میں منتقل کر دیا کیونکہ بسا اوقات گرمیوں

میں روزے رکھنے پڑ جاتے تھے چنانچہ وہ تیس دن روزے رکھتے  
تھے پھر ایک صدی گزر جانے کے بعد لوگوں نے اپنے کو قوی سمجھ کر رمضان

سے ایک دن قبل اور ایک دن بعد روزے رکھنے شروع کر دئے یعنی  
۳۳ روزے رکھنے لگے اسی طرح ہر صدی میں بڑھتے بڑھتے پچاس

روزے بڑھائے گئے، لکن کتب علی الذین من قبلكم میں اسی کی طرف  
اشارہ ہے پھر فرمایا تاکہ تم بچو یعنی کھانے پینے اور بیوی سے ہمبستگی



رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى  
المؤمنين صوم يوم عاشوراء وثلاثة ايام  
من كل شهر حين قدم المدينة فكانوا  
يصومونها الى ان نزل صيام شهر رمضان  
قبل قتال بدر بشهر وايا ما قال الله تعالى اياما  
معدودات يعني شهر رمضان ثلاثين يوما او  
تسعة وعشرين يوما وروى عن سعيد بن عمرو  
بن سعيد بن العاص انه سمع ابن عمر رضی اللہ  
عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم  
انه قال انا و امتي امية لا نحسب ولا نكتب  
الشهر هكذا وهكذا وهكنا التمام الثلاثين  
وسمي الشهر شهر الشهرته وهو ما خوذ من الشهر  
وهي البياض ومنه يقال شهرت السيف اذا سلته  
وشهر الهلال اذا طلع -

**فصل في اختلاف الناس في معنى قوله رمضان**  
فقال بعضهم رمضان اسم من اسماء الله  
تعالى فيقال شهر رمضان كما يقال شهر الله  
الاصم لرجب وعبد الله وروى جعفر الصادق  
رحمه الله عن آباءه رضی اللہ عنہم عن النبي  
صلى الله عليه وسلم انه قال شهر رمضان  
شهر الله وقال انس بن مالك رضی اللہ عنہ  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا  
رمضان بل اسبوا كما سبه الله تعالى في  
القرآن فقال شهر رمضان وروى الاصمعي  
قال ابو عمرو انما سمي رمضان لانه رمضت فيه

سے روزے کی حالت میں بچو۔ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مسلمانوں  
پر دینہ میں آنے کے بعد شروع میں عاشوراء (محرم کی دسویں) کا روزہ  
اور مہینہ میں تین دن کے روزے فرض کئے تھے چنانچہ وہ یہی روزے رکھا  
کرتے تھے یہاں تک کہ رمضان کے روزے جنگ بدر سے ایک ماہ اور  
چند دن قبل فرض کئے گئے۔ پھر فرمایا گنتی کے دنوں کے روزے فرض  
کئے گئے یعنی رمضان کے ۲۹ یا ۳۰ دن کے روزے فرض کئے گئے۔ سعید بن عمر  
بن سعید بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر سے سنا آپ نبی صلعم  
سے بیان فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا میں اور میری امت اُمتی ہے یعنی ہم ان پر  
میں ہم حساب و کتاب اور لکھنے پڑھنے سے واقف نہیں مہینہ اس طرح اور اس طرح  
اور اس طرح ہے آپ نے دو دن ہاتھ کی انگلیاں تین بار پھیلا کر فرمایا یعنی  
تیس دن کا ہوتا ہے اور دوسری بار تیسری دفعہ ہاتھ پھیلا کر ایک  
موٹی یعنی ۲۹ کا بھی ہوتا ہے مہینہ کو عربی میں شہرت ہے کیونکہ مہینہ شہرت ہوتا  
اور شہرت ہی سے بنا ہے اور شہرت بمعنی سفیدی شہرت السیف یعنی میں نے  
تواریخ میں سے بائز کال لی۔ شہر الهلال یعنی ہلال نکل آیا۔

رمضان کی وجہ تسمیہ علماء میں رمضان کے معنی میں اختلاف ہے کسی  
کے نزدیک یہ اللہ کا ایک اسم ہے اس لئے اسے ماہ رمضان کہا جاتا  
ہے جیسے رجب کو اللہ کا ہر مہینہ کہا جاتا ہے اور جعفر صادق اپنے بزرگوں  
سے اور عبد اللہ نبی صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ماہ  
رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔

انس بن مالک از رسول اللہ صلعم: رمضان نہ کہو بلکہ اسے منسوب  
کر کے استعمال کرو جیسا کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے اسے شہر رمضان  
رہا رمضان کہا ہے، اصمعی ابو عمرو سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں  
کہ رمضان کو رمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں اونٹ کے بچوں  
کے پیرگمی سے چلنے لگے تھے اور دوسرے لغوی کہتے ہیں کہ اس میں گمی  
کی وجہ سے پتھر چلنے لگے تھے۔ اور رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں۔

الفصال من الحر وقال غيره لان الحجارة كانت ترمض فيه من الحرارة والرمضاء الحجارة المحمأة وقيل سمى بذلك لانه يرمض الذنوب اي يخرقها وهو مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ان القلوب تاخذ من الحرارة المزعطة والفكرة في امر الآخرة كما ياخذ الرمل والحجارة من حر الشمس وقال الخليل ما اخذ من الرمض وهو مطريا في الخريف فسمي هذا الشهر رمضان لانه يغسل الابدان من الآثام غسلًا ويطهر القلوب تطهيراً -

**فصل:** في قوله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن روى عن عطية بن الاسود انه سأل ابن عباس رضى الله عنهما فقال انه قد وقع الشك في قوله تعالى انا انزلناه في ليلة مباركة وقد نزل القرآن في سائر الشهور قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكث فقال له نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان فوضع في بيت العزة في ساء الدنيا ثم نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم نجوماً نجوماً في ثلاث وعشرين سنة وذلك قول الله عز وجل فلا قسم بسواقع النجوم وقال داود بن ابي هند قلت للشعبي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآت اما كان ينزل عليه عليه السلام في سائر السنة قال بلى ولكن جبريل عليه السلام كان يجارض محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان

کسی نے کہا کہ رمضان کو رمضان اس لئے کہتے ہیں کہ یہ گناہ جلا داتا ہے اس قسم کی نبی صلیم سے بھی ایک روایت آتی ہے کسی نے کہا رمضان کو رمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ دلوں میں حرارت پیدا کرتا ہے اور حرارت سے دل نصیحت قبول کرتے ہیں اور آخرت کی باتوں میں غور و فکر کرتے ہیں جیسے ریت اور تپتپ سورج کی حرارت جذب کر لیتے ہیں خلیل کہتے ہیں رمضان رمضان سے بنا ہے اور رمضان موسم خریف کی بات کو کہتے ہیں بنا بریں رمضان کو رمضان اس لئے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں سے بدن کو دھو دیتا ہے اور دلوں میں پاکی اور تقویٰ پیدا فرماتا ہے۔

شهر رمضان الذي انزل الخ کی تفسیر | عطیہ بن اسود نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو فرمایا کہ اس کا معنی مشکوک ہے کیونکہ دوسری آیت میں ہے کہ ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں اتارا اور یہ بھی مشکوک ہے کیونکہ قرآن پاک تمام مہینوں میں دن میں بھی اترا اور رات میں بھی فرمایا اور ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں اور لوگ اسے یاد کر لیں کیونکہ تھوڑا تھوڑا آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اور لوگوں نے کہا کہ ان پر قرآن اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا قرآن پاک اکٹھا بھی اترا اور تھوڑا تھوڑا کر کے ۲۳ سال میں بھی اترا اکٹھا تو رمضان میں شب قدر میں لوح محفوظ سے اتارا گیا اور نبیوی آسمان پر بیت العزت میں رکھا گیا پھر تھوڑا تھوڑا حضرت جبریل محمد رسول اللہ صلیم پر ۲۳ سال تک لیکر اترتے رہے اسی لئے حق تعالیٰ نے فرمایا: میں قرآن کے نجوم راہیوں کی قسم کھاتا ہوں۔

داؤد بن ابی ہند میں نے شہر رمضان الذي الا پڑھ کر شعبی سے پوچھا کیا قرآن آپ پر تمام سال نہیں اترا رہتا تھا پھر یہ کیوں فرمایا کہ رمضان میں قرآن اتارا گیا فرمایا ان قرآن تمام سال



بما انزل الله فيحكم الله ما يشاء وثبت ما يشاء  
ونسبته ما يشاء عن شهاب بن طارق عن ابو زر  
الغفاري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  
قال انزلت محف ابراهيم في ثلاث ليال مضين  
من شهر رمضان وانزلت توراة موسى عليه السلام  
في ست ليال مضين من شهر رمضان وانزل  
زابور داود عليه السلام في ثمانى عشرة ليلة  
مضت من شهر رمضان وانزل انجيل عيسى عليه  
السلام في ثلاث عشرة ليلة مضت من شهر  
رمضان وانزل الفرقان على محمد صلى الله عليه  
وسلم في الرابعة والعشرين من شهر رمضان  
ثم وصف عز وجل القرآن فقال هدى للناس  
من الضلالة وبينات من الحلال والحرام  
والحدود والاحكام من الهدى والفرقان  
يفصل بين الحق والباطل -

**فصل** : فيما يختص بشهر رمضان من القضا  
اخبرني ابو نصر عن والده قال ابانا ابن  
الفارس قال حدثنا ابو حامد احمد بن محمد  
بن الجلودى النيسابورى قال اخبرنا محمد  
ابن اسحاق بن خزيمه قال ابانا على بن حجر  
السعدى قال ابانا يوسف بن زياد قال اخبرنا  
همام بن يحيى عن على بن زيد بن جدعان عن  
سعيد بن المسيب عن سلمان رضى الله عنه  
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
في آخر يوم من شعبان وقال ايها الناس قد

اتلنا محف، ليكن تمام سال کا اترا ہوا قرآن رمضان میں  
حضرت جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو  
سنایا کرتے تھے آپ کے دل میں محکم و بحال رکھتا اور جتنا  
چاہتا آپ کو بھلا دیتا۔

ان شہاب بن طارق ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ از  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم : حضرت ابراہیم علیہ السلام پر  
صحیفے ۳ رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات چھ  
رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر ۱۸ رمضان المبارک  
کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ۳ رمضان المبارک کو  
اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم ۲۴ رمضان المبارک  
کو اترا پھر حق تعالیٰ اجل مجدہ نے قرآن پاک کی یہ صفت بیان  
فرمائی کہ قرآن گمراہی سے لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں حلال  
حرام احد و ذ اور احکام جو اصول ہدایت ہیں واضح طور پر بیان کر  
دئے گئے ہیں اور یہ فرقان بھی ہے کہ حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے  
اور حق کو باطل سے علیحدہ کر دیتا ہے۔

رمضان کے خصوصی فضائل | باخبا ابو نصر اپنے باپ سے، بخبر  
ابن فارس، بتجدیث ابو حامد احمد بن محمد بن جلودی نیشاپوری  
باخبا محمد بن اسحاق بن خزیمہ، باخبا علی بن حجر سعدی، باخبا  
یوسف بن زیاد، باخبا ہمام بن یحییٰ از علی بن زید بن جدعان  
از سعید بن مسیب از سلمان : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
ہمیں شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا  
لوگو! ایک عظیم مہینہ کی چھاؤں تم پر آگئی ہے تمہارے پاس ایک  
برکت والا مہینہ آگیا ہے ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے  
جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے حق تعالیٰ شانہ نے اس کا تیا  
تم پر فرض فرما دیا ہے اور اس کی رات میں بیدار رہ کر عبادت

اطلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلة  
 خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضة و  
 قیام لیلة تطوعا من تقرب فیہ بجملة من الخیر  
 اذی فریضة کان کم اذی سبعین فریضة  
 فیما سواہ و ہو شہر الصبر والصیر ثوابہ  
 الجنة وشہر المواساة وشہر یزاد فیہ فی  
 رزق المؤمن فمن افطر فیہ صائما کان مغفرة  
 لذنوبہ و عتق رقبتہ من النار و کان لہ مثل  
 اجرہ من غیر ان یتقص من اجرہ شیء قالوا  
 لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم قال یعطی اللہ  
 هذا الثواب لمن فطر صائما علی تمرۃ او شربة  
 ماء او مذقة لبن و ہو شہر اولہ رحمة و  
 وسطہ مغفرة و آخرہ عتق من النار فمن  
 خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ و اعتقہ  
 من النار فاستكثر و انیہ من اربع خصال  
 خصلتان ترضون بہما ربکم و خصلتان  
 لا غنی لکم عنہما فاما الخصلتان اللتان  
 ترضون بہما ربکم فشہادة ان لا اله الا  
 اللہ و تستغفرونہ و اما اللتان لا غنی  
 لکم عنہما فتسألون اللہ الجنة و تعوذون  
 بہ من النار و من اشبع فیہ صائما سقاہ اللہ  
 تعالیٰ من حوضی شربة لا یظما بعد ہا ابد  
 و عن الکلبی عن ابی نصرۃ عن ابی سعید  
 الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم ان البواب الجنة و البواب

مستحب فرمادی ہے جو شخص اس میں کوئی نیک عمل انجام دے کر اللہ تعالیٰ  
 کا قرب حاصل کرنا چاہے یا اس میں کوئی فرض ادا کرے تو وہ اس کی  
 طرح ہوگا جس نے رمضان کے علاوہ ستر فرض ادا کئے۔ یہ مہینہ صبر کا  
 ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے اور یہ مہینہ خیر خواہی کا ہے اور اس  
 مہینہ میں حق تعالیٰ شانہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے لہذا اس  
 مہینہ میں اگر کوئی کسی روز دار کا روزہ کھلوائے تو روزہ کھلوانے  
 سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جہنم سے اس کی گردن  
 آزاد ہو جائے گی اور اسے بھی روزہ دار کے روزے کی برابر ثواب  
 ملے گا۔ اور اس کا اجر ذرا سا بھی کم نہیں کیا جائے گا صحابہ نے عرض  
 کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں کہ روزہ دار کا روزہ کھلوانے  
 کے لئے افطاری مہیا کر سکے فرمایا: حق تعالیٰ یہی ثواب اسے بھی  
 عطا فرمائے گا جو روزہ دار کا روزہ ایک کھجور یا پانی کے ایک  
 گھونٹ سے یا ایک گھونٹ دو دھ سے کھلوادے اس مہینہ کا آغاز  
 رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ ہے  
 آزادی ہے اگر کوئی اس مہینہ میں اپنے غلام کا کام دیکھا کر دے  
 حق تعالیٰ شانہ اسے بخش دیگا اور اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیگا  
 اس لئے اس مہینہ میں کثرت سے چار دعائیں مانگو دو دعاؤں سے تو  
 تم اپنے رب کو راضی کر لو گے اور دو دعاؤں سے تمہیں چارہ نہیں  
 وہ دو دعائیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے یہ ہیں کہ کثرت  
 سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اور حق تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو  
 اور وہ دو دعائیں جن کے بغیر تم کو چارہ نہیں یہ ہیں کہ کثرت سے  
 اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے اس کی پناہ طلب کرو اور اگر  
 کوئی اس مہینہ میں روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے حق تعالیٰ  
 اسے میرے حوض کوثر سے ایسا مشروب پلائے گا جسے پینے کے بعد  
 اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔



السَّاءُ تَبْتَدَأُ لَيْلَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَا  
 تَخْلُقُ إِلَى آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ عِيدِ أُمَّةٍ  
 يَصِلُ فِي لَيْلَةٍ مِنْهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ  
 أَلْفًا وَسَبْعِينَ حَسَنَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ  
 مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ لَهُ سَبْعُونَ الْفَبَابَ لِكُلِّ  
 بَابٍ مِنْهَا مَصْرَاعَانِ مِنْ ذَهَبٍ مَوْشَجٍ مِنْ  
 يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ فَأَخْلَصَ مَا أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ  
 غُفِرَ اللَّهُ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ  
 وَكَانَ كَفَّارَةً إِلَى مِثْلِهَا وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ  
 يَصُومُهُ تَصَرُّفٌ فِي الْجَنَّةِ لَهُ الْفَبَابَ مِنْ ذَهَبٍ  
 وَاسْتِغْفَرُ لَهُ سَبْعُونَ الْفَبَابَ مِنْ عَذَابِ الْإِ  
 نِّانِ تَتَوَارَى بِالْحِجَابِ وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ  
 سَجْدَةٍ هَامِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ شَجْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ  
 سِيرَ الرَّكِبِ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا  
 وَآخِرُ فِي الْوَلَدِ عَنْ وَالِدِهِ بِإِسْنَادٍ عَنْ  
 الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَوَّلُ  
 لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ وَإِذَا  
 نَظَرَ إِلَى عَبْدٍ لَمْ يَعْزِبه إِذَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
 فِي كُلِّ يَوْمٍ الْفَبَابَ مِنْ النَّارِ وَآخِرُ فِي  
 الْوَلَدِ عَنْ وَالِدِهِ بِإِسْنَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ  
 أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا  
 جَاءَ رَمَضَانَ فَتَحَّتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغَلَقَتْ  
 أَبْوَابُ النَّارِ وَصَفَدَتْ الشَّيَاطِينُ وَعَنْ خَافِعِ

از کلبی از ابو النضرۃ از ابو سعید خدری: رسول اکرم صلعم نے  
 فرمایا کہ جنت کے اور آسمان کے دروازے رمضان کی پہلی رات ہی کو  
 کھل جاتے ہیں اور رمضان کی پچھلی رات تک بند نہیں ہوتے جو  
 بھی اللہ کا بندہ اور اس کی کینز اس کی رات میں نماز پڑھے گی  
 حق تعالیٰ اس کے لئے ہر سجدے کے عوض ایک ہزار سات سو نیکیاں  
 لکھے گا اور اس کے لئے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنائے گا جس  
 کے ستر ہزار دروازے ہوں گے جس کے چوکھے طے سونے کے سرخ یاقوت  
 سے جڑاؤ ہوں گے پھر جب کوئی رمضان کا پہلا روزہ رکھ لیتا ہے  
 حق تعالیٰ اس کے رمضان کے پچھلے دن تک کے سب گناہ معاف  
 فرما دیتا ہے اور یہ روزہ اگلے رمضان کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو  
 جاتا ہے اور ہر روزہ کے عوض روزہ والے کے لئے جنت میں ایک محل  
 تیار ہوتا ہے جس کے سونے کے ایک ہزار دروازے ہوتے ہیں اور  
 روزہ دار کے لئے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ستر ہزار فرشتے  
 دعائے مغفرت مانگتے رہتے ہیں اور اس کے لئے ہر سجدے کے عوض  
 خواہ دن میں کیا ہو یا رات میں جنت میں ایک درخت عطا کیا جاتا  
 ہے جس کے سایہ میں ایک سو اور سو سال تک چلنے کے باوجود اسے  
 طے نہیں کر سکتا۔ بخبر ابو نصر اپنے والد سے وہ اعرج سے اور وہ حضرت  
 ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: رمضان المبارک کی پہلی  
 ہی رات میں حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اور حق تعالیٰ اپنے  
 کسی بندے کو دیکھنے کے بعد کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا اور  
 حق تعالیٰ شانہ روزانہ دس لاکھ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ابو نصر نے  
 اپنے والد سے اپنی سند سے انہوں نے سہل سے انہوں نے اپنے والد  
 سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے ہمیں اطلاع دی کہ سرور  
 عالم صلعم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے  
 کھول دئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں

بن بردہ عن ابی مسعود الغفاری رضی اللہ عنہ  
انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول  
ما من عبد یصوم لیومنا من رمضان الا زوج  
زوجۃ من الخورالعین فی خیمۃ من درۃ عجوفۃ  
ما نعت اللہ عزوجل خور مقصورات فی الخیمۃ  
علی کل امرأۃ منهن سبعون حلۃ لیس منها  
حلۃ علی لون الاخری و یعطی سبعین لونا من  
الطیب لیس منها لون علی لون الاخری و یعطی سبعین  
سریرا من یاقوتۃ حمراء موشحۃ بالدر علی  
کل سریر سبعون فراشا علی کل فراش اربعة  
لکل امرأۃ سبعون ألف و صیف لحاجتها  
و سبعون ألف و صیفۃ لزوجہا مع کل و صیفۃ  
صحفۃ من ذهب فیہا لون من طعام فیجد  
لاخر لقمۃ منها الذ لا لم یجدہا الا ولہ و یعطی  
زوجہا مثل ذلک علی سریر من یاقوت  
احمر ہذا کل یوم صامہ من رمضان  
سوی ما یعمل من الحسنات۔

**فصل:** اخبرنی ابو نصر عن والدہ  
باسنادہ قال حدثنا محمد بن احمد قال  
حدثنا عبد اللہ بن محمد قال حدثنا  
ابو القاسم بن عبد اللہ بن محمد قال  
حدثنا الحسن بن ابراہیم بن یسار و ابراہیم  
بن محمد بن حارث قال حدثنا سلمۃ بن  
شبيب قال حدثنا القاسم بن محمد قال  
حدثنا ہشام بن الولید قال حدثنا حماد

اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نافع بن بردہ ابو مسعود غفاری  
سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلعم سے سنا آپ  
فرماتے تھے کہ جو اللہ کا بندہ رمضان کا ایک روزہ رکھ لے گا اس  
کا عقد کسی نہ کسی حور سے ضرور ہوگا جو ایک خولدار موتی کے خیمہ  
میں ہوگی جیسا کہ حق تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی ہے چنانچہ فرمایا  
حوریں خیموں میں محفوظ ہیں ہر حور کے جسم پر رنگ برنگ کے ستر جوڑے ہیں  
ہر جوڑے کا رنگ نرالا ہے اور اسے ستر قسم کی علیحدہ علیحدہ خوشبو  
دی جائے گی اور سرخ یا قوت کے ستر تخت جن میں موتی جوڑے ہو گئے دئے  
جائیں گے ہر تخت پر ستر قسم کے فرش ہوں گے اور ہر فرش پر  
دلہن کی مسند ہوگی ہر حور کی خدمت کے لئے ستر بزرگین ہیں ہوں  
گی اور ستر بزرگین ہیں اس کے شوہر کی خدمت کے لئے بھی ہوں گی  
ہر کینز کے ہاتھوں میں سونے کا ایک طباق ہوگا جس میں ایک علیحدہ  
نوع کا کھانا ہوگا اسی کھانے کے آخری نوالہ میں ایسی لذت ہوگی جو  
اول نوالہ میں نہ تھی اور یہی سب کچھ سامان شوہر کو بھی ملے گا اور  
وہ بھی سترخ یا قوت کے تخت پر ہوگا یہ سب کچھ ساز و سامان  
رمضان کے ہر روز کے عوض ملے گا، دیگر نیکیوں کا اجر  
اس کے علاوہ ہوگا۔

**برکات رمضان المبارک** | مجھے ابو نصر نے اپنی اسناد سے  
اپنے والد سے انہوں نے کہا ہم سے عبد اللہ بن محمد نے بیان کیا  
انہوں نے کہا ہم سے ابو القاسم بن عبد اللہ بن محمد نے بیان کیا،  
انہوں نے کہا ہم سے حسن بن ابراہیم بن یسار اور ابراہیم بن محمد  
بن حارث نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سلمۃ بن شبيب نے  
بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا انہوں نے  
کہا ہم سے ہشام بن الولید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حماد  
بن سلیمان درسی حسن سے بیان کیا انہوں نے صفاک بن مزاحم سے



بن سلیمان الدوسی عن الحسن عن الضحاک  
بن مزاحم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه  
سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الجنة  
لتنجد وتزین من الحول الی الحول بدخول شهر  
رمضان فاذا کان اول لیلۃ من شهر رمضان  
هبّت ریح من تحت العرش یقال لها المثیرة  
تصفق اوراق اشجار الجنة وحلق المصاریع  
فیسمع لذلك طنین لم یسمع السامون احسن  
منه فتزین الحور العین حتی یقفن بین شرف  
الجنة فینادین هل من خاطب الی اللہ عزوجل  
فیزوجہ ثم یقلن لرضوان ما هذا اللیلۃ  
فیجیبہن بالتلییة یا خیرات حسان هذا اول  
لیلۃ من شهر رمضان فتحت البواب الجنة  
للصائین من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول  
اللہ تعالیٰ یا رضوان افتح البواب الجنان یا مالک  
اغلق البواب الجحیم عن الصائین من امة  
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل اھبط  
الی الارض وصفد مردة الشیاطین وغلہم  
بالاغلال ثم اقدف بہم فی لجم البحار  
حتی لا یفسد وعلی امة محمد جیبی صیامہم  
قال ویقول اللہ عزوجل فی کل لیلۃ من شهر  
رمضان ثلاث مرات هل من سائل فاعطیہ  
سؤلہ هل من تائب فاتوب علیہ هل من مستغفر  
فاغفر لہ من یقرض الغنی غیر المعدم والوفی  
غیر الظوم قال ولہ فی کل یوم من شهر رمضان

اور انہوں نے ابن عباسؓ سے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ  
جنت سال سے لے کر سال تک رمضان کے لئے سنواری جاتی ہے  
اور اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے پھر جب ماہ رمضان کی پہلی  
رات ہوتی ہے تو ایک ہوا جیسے مٹیرو کہا جاتا ہے عرش کے نیچے سے  
چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے  
رکڑے ہونے لگتے۔ جن سے اس قدر سر ملی دلا دیتا ہے پیدا ہوتی  
ہے جس سے مٹی تان سننے والوں نے کبھی سنی ہی نہ تھی پھر بڑی  
بڑی آنکھوں والی حوریں بن سنور جاتی ہیں اور جنت کے بالاخانوں  
میں کھڑکیوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں  
ہے کوئی حق تعالیٰ شانہ کے پاس بہار سے واسطے پیام لے جانے والا  
کہ حق تعالیٰ اس سے بہارا عقد کرادے پھر رضوان سے پوچھتی ہیں  
کہ یہ کونسی رات ہے؟ رضوان فوراً انہیں جواب دیتا ہے کہ اے  
پیکر ان حسن و جمال یہ ماہ رمضان کی پہلی شب ہے آج کی شب  
امت محمدیہ کے روزے داروں کے لئے جنت کے دروازے کھول  
دئے گئے حق تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے رضوان جنتوں کے دروازے  
کھول دے اے مالک! امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لئے جہنم کے  
دروازے بند کر دے، اے جبریل زمین پر اتر جا اور سرکش شیطانوں  
کو جکڑ دے اور ان کی گردنوں میں طوق ڈال دے پھر انہیں سمندر  
کی بھنور میں پھینک دے تاکہ وہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کی امت کے روزوں میں خلل نہ ڈال سکیں، فرمایا: حق تعالیٰ جل مجدہ  
رمضان کی ہر رات میں تین بار فرماتا ہے: ہے کوئی سائل کہ میں اس کا  
سوال پورا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول  
کروں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ  
معاف کروں۔ کون ایسے مالدار کو جو کبھی ناوار ہونے والا نہیں۔  
قرض دیتا ہے اور کون اسے قرض دیتا ہے جو پورا پورا قرض ادا

عند الافطار الف الف عتيق من النار كلهم قد  
استوجبوا العقاب فاذا كان ليلة الجمعة ويوم  
الجمعة اعتق الله تعالى في كل ساعة الف الف  
عتيق من النار كلهم قد استوجبوا العذاب فاذا  
كان في آخر يوم من شهر رمضان اعتق الله  
في ذلك اليوم بعد ما اعتق من اول الشهر  
الى آخره فاذا كان ليلة القدر يا مر جبريل  
عليه السلام فيهبط في كعبة من الملائكة  
ومعه لواء اخضر الى الارض فيركزه على  
ظهر الكعبة وله ستماية جناح لا ينشرها  
الا في ليلة القدر فينشرها في تلك الليلة فيجاز  
المشرق والمغرب ويا مر جبريل عليه السلام  
الملائكة بالدخول بين يدي الامم فيدخلون  
بينهم فيسلمون على كل قائم ومصل وذاكر  
ويصا فحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى  
مطلع الفجر ثم ينادي جبريل عليه السلام  
يا معشر الاولياء الرحيل فيقولون يا جبريل  
ما صنع الله في حوائج المرمنين من امه محمد  
صلى الله عليه وسلم فيقول ان الله تعالى نظر  
اليهم وعفاهم وغفر لهم الاربعة  
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هولاء  
الاربعة من من خسر وعاق والديه وقاطع  
رحم ومشاحن قبيل يا رسول الله من المشاحن  
قال المصارم فاذا كان ليلة الفطر سميت  
تلك الليلة ليلة الجائزته فاذا كان غدا

کرنے والا ہے اور ظالم نہیں فرمایا: رمضان میں روزانہ افطار  
کے وقت حق تعالیٰ دس لاکھ ایسے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا  
ہے جن میں سے ہر ایک پر عذاب واجب ہو چکا تھا پھر جب جمعہ  
کی شب آتی ہے تو حق تعالیٰ جمعہ کی ہر ساعت میں دس دس لاکھ  
انسانوں کو جہنم سے آزاد فرمادیتا ہے جن پر عذاب واجب ہو  
چکا تھا پھر جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اس دن حق تعالیٰ  
اول سے لے کر آخر تک جس نذر بجھے گئے ہیں ان سب کی تعداد میں لوگوں کو  
بخشتا ہے جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین  
پر اتر جاؤ چنانچہ آپ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ سبز جھنڈا لیکر  
زمین پر اترتے ہیں آپ کعبہ اقدس کی چھت پر یہ جھنڈا اگاڑ دیتے ہیں  
آپ کے چہ سو پر ہیں جن کو آپ شب قدر ہی میں پھیلاتے ہیں اور مشرق  
و مغرب سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور حضرت جبریل فرشتوں کو حکم  
دیتے ہیں کہ تمام فرشتے امت محمدیہ میں پھیل جائیں چنانچہ فرشتے امت محمدیہ  
میں پھیل جاتے ہیں اور ہر صاحب قیام کو اور ہر نمازی کو اور ہر ذکر گزار کو  
کو سلام کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر  
صبح تک آمین کہتے ہیں پھر حضرت جبریل اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ  
والو! اچھا خدا حافظ، وہ عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل علیہ السلام  
امت محمدیہ کی ضرورتوں کے سلسلہ میں حق تعالیٰ شانہ نے کیا کیا فرماتے  
ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان پر نگاہ رحمت ڈالی اور ان سے درگزر کی اور  
بجز چارہ کے ان سب کو بخش دیا یہ چارہ دائمی شرابی، والدین کی نافرمانی  
کرنے والا، ارشنتہ کو توڑنے والا اور کینہ ور ہیں، پوچھا گیا: یا رسول  
مشاحن رکینہ ور کون ہے فرمایا: لڑنے والا، پھر جب شب الفطر  
آتی ہے تو اسے تحفہ والی شب (لیلة الجائزہ) کہا جاتا ہے پھر عمید الفطر  
کی صبح کو حق تعالیٰ تمام شہروں میں فرشتے پھیلا دیتا ہے فرشتے زمین پر  
پراتر آتے ہیں اور ہر گلی کے کون پر کھڑے ہو کر ایسی آواز سے امت محمدیہ



الفطرت اللہ تعالیٰ الملائکۃ فی کل البلاد  
یہبطون الی الارض فیقومون علی افواہ السکک  
فینادون بصوت یسمعه کل من خلق اللہ تعالیٰ  
الاجن والانس فیقولون یا امة محمد صلی اللہ  
علیہ وسلم اخرجوا الی رب کریم یعطی الجزیل  
ولیفیر الذنوب العظیم فاذا برزوا الی مصلاہم  
یقول اللہ تعالیٰ لَمَلائِکَتَہُ بِمَا کُنتُمْ مَاجِزَاءَ الْاِجِیْر  
اذا عمل عملہ قال فتقول الملائکۃ الہنا وسیدنا  
توفیہ اجرته فیقول فانی اشہدکم یا ملائکۃ  
انی قد جعلت ثواب صیامہم من شہر رمضان  
وقیامہم رضای ومغفرتی ثم یقول یا عبادی  
سلونی فی عزتی وجلالی لا تسألونی الیوم فی جمعکم  
ہذا لاخرتکم شیئا الا اعطیتکم ولا لدنیاکم  
الانظرت لکم وعزتی وجلالی لا سترن  
علیکم عثراتکم ما راقتہمونی وعزتی وجلالی  
لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحاب الحد  
انصرفوا مغفورا لکم لقد ارضیتہمونی ورضیت  
عنکم قال تتفرح الملائکۃ ویتبشرون بما  
یعطی اللہ عز وجل ہذا الامة اذا افطروا  
من شہر رمضان وعن الضحاک بن مزاحم عن  
ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم نحوہ واللفظ متقارب واخبر فی البوصیر  
عن والدہ باسنادہ عن نافع عن ابی مسعود  
الغفاری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم یقول یوما ہل شہر رمضان

کو آواز دیتے ہیں جسے بحر السالون اور جنوں کے تمام مخلوق سنتی ہے  
کہتے ہیں اے محمد رسول اللہ کے اُمیتو اپنے بزرگ و معزز پروردگار کی  
طرف گھروں سے نکل آؤ تاکہ وہ تم کو ثواب جزیل عطا فرمائے اور تمہارے  
عظیم گناہ بخش دے پھر جب مسلمان نماز کے لئے ایک میدان میں جمع  
ہو جاتے ہیں تو حق تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتو  
جب مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اسے کیا جزا ملنی چاہیے فرشتے عرض  
کرتے ہیں اے ہمارے سچے معبود و سرور اسے آپ پوری پوری مزدور کی  
عطا فرمائیں حق تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتو! میں تم کو گواہ بناتا  
ہوں میں نے انہیں رمضان کے روزوں کے اور شب بیداری کے  
ثواب میں اپنی رضا اور منفعت عطا فرمادی پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ  
اے میرے بند و مجھ سے مانگ لو جو کچھ تم کو مانگنا ہے مجھے اپنی عزت  
وجلالی کی قسم آج اپنے اس اجتماع میں تم اپنی آخرت کے لئے مجھ سے  
جو کچھ مانگو گے میں تم کو وہی دوں گا اور دنیا کے لئے جو کچھ مانگو  
گے وہ بھی حسب مصلحت دوں گا مجھے اپنے عزت وجلالی کی قسم میں  
تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا جب تک تم مجھ سے دعا نہیں  
مانگتے رہو گے اور مجھے اپنی عزت وجلالی کی قسم میں تم کو حد و والوں  
میں ذلیل و خوار نہ کروں گا اب تم اس حال میں گھر لوٹ کر جاؤ کہ تم  
سب کو بخش دیا گیا ہے تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی  
ہو گیا، فرمایا فرشتے خوش ہوتے ہیں اور جو کچھ حق تعالیٰ رمضان میں انطا  
کے وقت اس اُمت کو عطا فرماتا ہے کھل اُٹھتے ہیں۔

ضحاک بن مزاحم ابن عباس سے اور وہ نبی صلعم سے اس روایت  
کے ہم معنی بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں اس کے الفاظ قریب  
قریب ملتے جلتے ہیں۔ مجھے ابونصر نے اپنی اسناد سے اپنے والد سے  
انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابومسعود غفاری سے خبر دی  
ابومسعود نے رسول اللہ صلعم سے سنا کہ جس شام ہلال رمضان کی

لو يعلم العباد ما في شهر رمضان لتمنى العباد ان  
يكون شهر رمضان سنة فقال رجل من خزاعة  
يا رسول الله حدثنا فقال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم ان الجنة لتزين لشهر رمضان من رأس  
الحول الى الحول حتى اذا كان اول ليلة منه  
هبت ريح من تحت العرش فصفقت اوراق  
اشجار الجنة فنظرت الجور العين الى ذلك فقلن  
يا رب اجعل من عبادك في هذا الشهر لنا ازواجا  
تقرا عيننا بهنم وتقرأ عينهم بنا فما من عبد صام  
شهر رمضان الا زوجته الله زوجة من الجور  
العين في خيمة من درة مجوفة ما نعت الله  
به حور مقصورات في الخيام على كل امرأة  
منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون  
الآخرى وتعطى سبعين لونا من الطيب ليس منه  
لون يشبه الاول كل امرأة منهن على سرير من  
ياقوت موشع بالدر عليه سبعون فراشا بطائنها  
من استبرق وفوق كل فراش سبعون اريكة  
ولكل امرأة منهن سبعون الف وصيف يخدمها  
وسبعون الف وصيف لزوجها بيد كل وصيف  
محفة من ذهب فيها لون من الطعام يجبل  
لاخره من اللذة ما يجبل لاوله ويعطى زوجها  
مثل ذلك على سرير من ياقوت تصمراء عليه  
سواران من ذهب مرصع بالياقوت هذا الكل  
من صام شهر رمضان سوى ما عمل من الحسنات  
وعن قتادة عن النس بن مالك رضى الله عنه

گیا اس شام کو آپ فرما رہے تھے اگر بندوں کو رمضان المبارک کے مہینہ کا  
ثواب معلوم ہو جائے تو وہ یہی تمنا کریں کہ کاش رمضان پورے سال  
سے ایک خزاعی نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا ثواب ہم سے بیان  
فرمادیں فرمایا: رمضان المبارک کے لئے شروع سال سے لے کر اخیر  
سال تک جنت بنائی سنواری جاتی ہے حتیٰ کہ رمضان کی پہلی رات کو  
عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور جنت کے درختوں کے پتوں کو  
ہلاتی ہے جن سے ایک مسزلی تان نکلتی ہے پھر خوبصورت آنکھوں  
والی حوریں انہیں دیکھ کر کہتی ہیں اے پروردگار اس مہینہ میں اپنے بندوں  
میں سے ہمارے شوہر مقرر فرما کہ ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی  
آنکھیں ٹھنڈی ہوں لہذا کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے رمضان کے روزے  
رکھے ہوں اور حق ثقلا نے اس کا ایک حور سے عقد نہ فرمادیا ہو جو ایک  
جوف دارموتی کے شبھے میں محفوظ ہے انہیں حوروں کے بارے میں حق تعالیٰ  
نے فرمایا وہ حوریں شبھوں میں محفوظ ہیں ان میں سے ہر حور پر زنگارنگ  
کے ستر جوڑے ہیں اور ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہے اور اسے ستر قسم کی  
خوشبوئیں دی جاتی ہیں جن میں سے ہر ایک نرالی اور الگ ہے یہ حور  
موتیوں سے جڑاؤ یا قوت کے ایک تخت پر ہے ہر تخت پر ستر  
نرش بچھے ہوئے ہیں جن کے ابر سے خالص ریشم کے ہیں اور ہر فرش پر  
ستر مسندیں ہیں اور ہر حور کی خدمت کے لئے ستر سزار کینزیں ہیں اور  
اس کے شوہر کی خدمت کے لئے بھی ستر سزار لونڈیاں ہیں اور ہر لونڈی  
کے ہاتھ میں سونے کا ایک طباق ہے جس میں اس قسم کا کھانا ہے کہ ہر  
نوالہ کا ذائقہ جدا گانہ اور لذت افزا ہے اور اس کا شوہر بھی سرخ یا قوت  
کے تخت پر سوگا اور اسے بھی اسی جیسا ساز و سامان ملے گا اس کے  
ہاتھوں میں یا قوت سے جڑاؤ سونے کے دو گنگن ہونگے یہ تمام  
ساز و سامان ہر اس شخص کو ملے گا جس نے رمضان کے روزے رکھے  
دیگی نیکوں کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ قتادہ انس بن مالک سے



قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا  
كان اول ليلة من شهر رمضان نادى الجليل  
جلت عظمته رضوان خازن الجنان فيقول  
لبيك وسعديك فيقول نجد جنتي وزينيتها للصائمين  
من امة احمد ولا تغلقها عنهم حتى يتقضى شهر  
هم ثم ينادى مالكا خازن النار يا مالكا  
فيقول لبك وسعديك فيقول اعلق البواب الجحيم  
عن الصائمين من امة احمد ثم لا تفتحها عليهم  
حتى يتقضى شهرهم ثم ينادى جبريل عليه  
السلام فيقول لبك وسعديك فيقول انزل الى  
الارض ففعل مردة الشياطين عن امة احمد  
حتى لا يفسدوا عليهم صيامهم وافتارهم  
ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان  
عند طلوع الشمس وعند وقت الافطار عتقاء  
اعتقهم من النار عبيدا واما اوله في كل  
ساعة مناد فيهم ملك له عرف تحت عرش  
رب العالمين وفرائضه في تخوم الارض الساعة  
السفلى له جناح بالشرق وجناح بالمغرب  
مكمل بالمرجان والدار والجواهر ينادى  
هل من تائب يتاب عليه هل من داع يتجاب  
له هل من مظلوم يهيى الله له هل من مستغفر  
يعف الله له هل من سائل يعطى سؤله قال  
وينادي الرب تعالى ذكره في الشهر كله  
عمادي وامائي البشر وادمي وادموا  
لوشك ان ارفع عنكم المونات وتفضوا الى

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک  
کی پہلی شب آتی ہے تو حق تعالیٰ اجل عظمتہ رضوان کو جو جنتوں کا محافظ  
ہے آواز دیتا ہے رضوان حق تعالیٰ کی آواز سن کر لبیک وسعدیک  
عرض کرتا ہے یعنی میں حاضر ہوں اور جو حکم ہو اسے بجالانے کو تیار ہوں  
حق تعالیٰ فرماتا ہے جنت کو امت احمد کے روزہ داروں کے لئے بنا  
سنوار اور خوبصورت بنا اور ان سے بند نہ رکھ جب تک ان کا یہ مہینہ  
گزر نہ جائے پھر مالک دار دغہ جہنم کو آواز دیتا ہے کہ اے مالک مالک  
بھی لبیک کہہ کر آ موجود ہوتا ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ امت احمد کے  
روزہ داروں سے جہنم کے دروازے بند کر دے اور جب ان کا یہ مہینہ  
گزر نہ جائے دروازے نہ کھول پھر حق تعالیٰ حضرت جبریل کو آواز  
دیتا ہے جبریل لبیک وسعدیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں حق تعالیٰ  
فرماتا ہے کہ زمین پر اتر کر امت احمد سے سرکش شیطانوں کو جگڑے  
تاکہ وہ ان کے روزوں میں اور افطاریوں میں خلل نہ ڈالیں حق تعالیٰ  
رمضان المبارک میں روزانہ سورج نکلنے کے اور ڈوبنے کے وقت  
لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی  
حق تعالیٰ شانہ کا ہر آسمان میں ایک منادی ہے جو فرشتہ ہے اسکی پیشانی  
رب العالمین کے عرش کے نیچے ہے اور اس کے کندھے ساتویں زمین کے  
نیچے ہیں اور اس کا ایک پیر مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں جو مرجان  
مردارید اور جواہر سے آراستہ ہے یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے  
والا کس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی مراد میں مانگنے والا کس کی مراد میں  
بر لائی جائیں؟ ہے کوئی مظلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے؟ ہے کوئی گناہ  
کی معافی مانگنے والا کہ حق تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے؟ اور ہے کوئی  
سوال کرنے والا کہ حق تعالیٰ شانہ اس کا سوال پورا فرمائے؟ فرمایا اور  
حق تعالیٰ پورے مہینہ یہ اعلان فرماتا رہتا ہے کہ اے میرے بند اور  
اے میری کنیز و خوش ہو جاؤ، صبر کرو اور عملوں پر جمے رہو عنقریب

رحمتی و کرامتی فاذا كان ليلة القدر نزل  
جبريل عليه السلام في كعبة من الملائكة  
يصلون على كل عبد قائما وقاعدا يذكر الله  
عز وجل وعن انس بن مالك رضي الله عنه  
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اذن  
الله للسوات والارض ان تتكلما لبشرتا من صام  
رمضان بالجنة وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله  
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لوم الصائم عبادة وصنعة تسبيح ودعاء ولا  
مستجاب وعمله مضاعف وعن الاعشى عن  
ابي خيثمة رضي الله عنه انه قال كانوا يقولون  
رمضان الى رمضان والحج الى الحج والجمعة  
الى الجمعة والصلاة الى الصلاة كفارات  
لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وعن امير  
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه  
كان يقول اذا دخل شهر رمضان مرحبا بشهر  
خير كله ميامنهارا وقيام ليلا والنفقة فيه كالنفقة في  
سبيل الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه  
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
من صام رمضان وقامه اياما واحتسابا  
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وعن ابي  
هريرة رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله  
عليه وسلم انه قال كل حسنة يعملها  
ابن آدم من امتي تتضاعف عشر الى سبع مائة  
ضعف الا الصوم فان الله تعالى يقول الصوم

میں تم سے مشقتیں اٹھالوں گا تم میری رحمت و کرامت میں آجاؤ گے شب  
میں حضرت جبریل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اتر کر (عالم اسلام  
میں) پھیل جاتے ہیں اور ہر بندے کے لئے خواہ وہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر  
رہا ہو یا بیٹھ کر، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حق تعالیٰ آسمان و زمین کو زبان دیتا تو وہ  
بہم یعنی رمضان کے روزے رکھنے والوں کو جنت کی بشارت دیتے۔  
عبد اللہ بن ابی اوفی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والوں  
کی نیند عبادت ہے اس کی خاموشی تسبیح ہے اس کی دعا مقبول ہے اور اس کے  
عمل کا ثواب بڑھا ہوا ہے۔

اعش ابو خيثمة سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کما کرتے  
تھے کہ رمضان دوسرے رمضان تک، حج دوسرے حج تک، جمعہ دوسرے  
جمعہ تک اور نماز دوسری نماز تک درمیان گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک  
انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔

جب رمضان آتا تو حضرت عمر فرماتے مرحبا ہے اس مہینہ کو جو میرا  
خیر ہے اس کے دن کا روزہ بھی خیر ہے اور رات کا قیام بھی اور اس میں  
خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ثواب پر  
ایمان و یقین لاکر ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں  
میں نوافل پڑھے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل جو میرا امتی کرتا ہے علاوہ روزے کے دس سے  
بیکہ سات سو تک بڑھتا ہے اور روزے کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے  
کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا بندہ میری خاطر  
اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور روزہ ڈھال ہے اور  
اور روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک خوشی روزہ رکھنے  
کے وقت اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب رب سے ملاقات ہوگی۔



لی وانا اجزی به بیدع شهوته واکله وشربه من اجلی والصر  
حبة وللصائم فرحان فرحة عند افطاره وفرحة عند  
لقاء ربه واخبرنا ابو البركات النقطی باسنادة عن يزيد  
بن هارون قال حدثنا المسعودی قال بلغنی ان من قرأ فی  
ليلة من شهر رمضان فی التطوع انا فتحنا لك فتحا مبینا  
حفظ فی ذلك العام۔

**فصل:** رمضان خمسة احرف الراء رمضان  
الله والميم محاباة الله والصاد ضامن الله والالف  
الفة الله والنون نور الله فهو شهر رضوان و  
محاباة وضمان والفة ونور ونوال وكرامة  
للاولياء والابرار وقيل مثل شهر رمضان فی  
الشهور كمثل القلب فی الصدور وكالانبياء  
فی الايام وكالحرم فی البلاد فالحر مبین منه  
الرجال اللعين وشهر رمضان تصفد فيه مردة  
الشیطان وتكون الانبياء شفعا للمجرمین  
وشهر رمضان شفیع للصائمین والقلب مزین  
بنور المعرفة والایمان وشهر رمضان مزین بنور  
تلاوة القرآن فمن لم یغفر له فی شهر رمضان  
نفی اى شهر یغفر له فلیتب العبد الی الله عزو  
جل قبل ان تغلق البواب التوبة ولیتب الیه عزوجل  
قبل ان یفوت وقت الاثابة ولیبک قبل ان ینقضی  
وقت البكاء والرحمة وقد قال النبی صلی الله علیه  
وسلم ان امتی لم یجزوا ما اقاموا شهر رمضان  
فقال رجل یا نبی الله وما خزیهم قال من انتم  
فیه محرما او عمل سیئة او شرب خمر او زنی لم تقبل

ہیں ابو البركات سقطی نے اپنی اسناد سے یزید بن ہارون  
سے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے مسعودی نے بیان کیا  
انہوں نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ جو ماہ رمضان کی رات کی  
نفسی نماز میں انا فتحنا پڑھ لے اس سال وہ تمام برائیوں  
سے محفوظ رہے گا۔

★


**رمضان کے حرفوں کے اشارے** | رمضان میں پانچ حرف ہیں را  
سے اللہ کی رضا کی طرف، میم سے اس کی محبت کی طرف، ض سے اسکی ضمانت  
کی طرف، الف سے اسکی الفت کی طرف اور ن سے اسکے نور کی طرف اشارہ  
ہے لہذا رمضان اللہ کی رضا کا اس کی محبت کا اس کی ضمانت کا، اس کی  
الفت کا اور اس کے نور کا اور اولیاء ابرار کے لئے بخشش و عطیات کا  
مہینہ ہے، کہتے ہیں مہینوں میں ماہ رمضان سینوں میں بمنزلہ دل کے ہے۔  
مخلوق میں بمنزلہ انبیاء کے ہے اور شہروں میں بمنزلہ حرم کے ہے حرم میں  
دجال داخل نہ ہوگا اور رمضان میں بھی سرکش شیطان جگر ڈٹے جاتے ہیں  
اور انبیائے کرام گنہگاروں کی شفاعت کرتے ہیں اور رمضان روزہ داروں  
کی شفاعت کرتا ہے اور دل نور معرفت و ایمان سے چمک جاتا ہے اور ماہ  
رمضان نور تلاوت قرآن سے درخشاں ہو جاتا ہے لہذا جس کے گناہ  
ماہ رمضان میں معاف نہ ہوئے تو پھر کس مہینہ میں معاف ہوں گے اس  
لئے بندے کو اس سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے کہ توبہ کے دروازے بند  
ہوں اور وقت انابت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے سچے دل سے اللہ کے آگے  
جھک جانا چاہیے اور گریہ و رحمت کا وقت گزر جانے سے پہلے اللہ سے  
تعالیٰ کے آگے رونا اور گرتا گرتا چاہیے۔ نبی صلعم نے فرمایا کہ میرے امتی  
رسوا نہ ہوں گے جب تک رمضان کے روزوں کے پابند رہیں گے۔  
نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی رسوائی کیا ہے؟ فرمایا جو اس مہینہ میں اللہ کی  
کسی حرمت کا پروہ پھاڑے یا بدی کرے یا شراب پیے یا زنا کرے اسکے

منہ رمضان ولعنہ اللہ وملائکتہ واهل  
السوات الی مثلہ من الحول وان مات فیما بینہ  
وبین رمضان فلیس لہ عند اللہ حسنة۔

**فصل:** قیل ان سید البشر آدم علیہ السلام  
وسید العرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و  
سید الفرس سلمان وسید الروم صہیب وسید  
الحبش بلال وسید القری مکة وسید الاودیة  
وادی بیت المقدس وسید الایام یوم الجمعة  
وسید الیالی لیلة القدر وسید الکتب القرآن  
وسید القرآن البقرة وسید البقرة آية الكرسی  
وسید الاحجار الحجر الاسود وسید الآبار  
زمزم وسید العصی عصا موسی وسید الحیتان  
الحوت الذی کان یونس علیہ السلام فی  
بطنه وسید النوق ناقة صالح وسید الانراس  
البراق وسید الخواتم خاتم سلیمان علیہ  
السلام وسید الشہور شہر رمضان۔

رمضان کے روزے قبول نہ ہوں گے اور اس پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی  
اور تمام آسمان والوں کی اگے رمضان تک لعنتیں پڑتی رہیں گی اور اگر  
اس اثنا میں وہ مرجائے تو اس کے پاس اللہ کے نزدیک ایک نیکی بھی نہیں۔  
چیزوں کے سردار انسانوں کے سردار رحمت عالم صلعم ہیں  
پارسیوں کے سردار سلمان فارسی ہیں رومیوں کے سردار صہیب  
رومی ہیں حبشیوں کے سردار بلال حبشی ہیں آبادیوں کا سردار  
مکہ ہے، وادیوں کی سردار وادی بیت المقدس ہے، دنوں کا  
سردار جمعہ کا دن ہے، راتوں کی سردار شب قدر ہے، کتابوں  
کا سردار قرآن حکیم ہے، سورہ بقرہ کی آیتوں کی سردار  
آیۃ الکرسی ہے پتھروں کا سردار حجر اسود ہے، کنوؤں  
کا سردار زمزم کا کنواں ہے لاکھٹیوں کی سردار موسیٰ  
علیہ السلام کی لاکھی ہے پھلیوں کی سردار یونس علیہ السلام  
کو ننگے والی پھلی ہے اونٹوں کی سردار حضرت صالح علیہ السلام  
کی اونٹنی ہے، گھوڑوں کا سردار براق ہے، انگوٹھیوں کی  
سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے اور مہینوں کا  
سردار ماہ رمضان ہے۔





عَدِيَّةُ الطَّالِبِينَ

حَضْرَتِ دَوْم





## فہرست عنوانات

## غنیۃ الطالبین حصہ دوم

\*

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۵۲	عشرہ ذی الحجہ کی تعظیم کی فضیلت	۱۱	شب قدر کے فضائل
۵۵	حق تعالیٰ کی نجر وغیرہ کی قسموں کے بارے میں	۱۲	شب قدر کن راتوں میں ڈھونڈھی جائے
۵۵	یوم الترویہ	۱۶	شب قدر افضل ہے یا شب جمعہ
۵۶	حج اور احرام اور تلبیہ کے فضائل	۱۸	شب قدر کیوں پوشیدہ رکھی گئی
۶۲	ترویہ کی وجہ تسمیہ	۱۹	پانچ راتوں کی فضیلت
۶۲	دعوتیں چار ہیں	۲۲	شب قدر کی نشانی
۶۵	اسٹھویں مجلس	۲۳	نماز تراویح
۶۵	عرفہ کی فضیلت	۲۵	تراویح باجماعت
۶۶	بکھیل دین کی وضاحت	۲۶	متعلقات شب قدر و ماہ رمضان
۶۸	موقف کو عرفات اور روزِ موقف کو عرفہ کہنے کی وجہ	۳۰	عید الفطر
۶۲	عرفہ کی رات کی اور دن کی فضیلت	۳۱	عید کی وجہ تسمیہ
۶۶	عرفہ کے روزے کی فضیلت	۳۲	چار قوموں کی چار عیدیں
۸۱	عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا	۳۹	مسلمانوں کی عید
۸۲	حضرت جبریلؑ، میکائیلؑ اور ہضرت کی عرفہ کی دعا	۴۰	عید کیا ہے؟
۸۲	عرفات کی دعائیں	۴۳	ساتویں مجلس
۸۶	توبہ کی مجلس	۴۳	ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت
۸۶	عید الفضحیٰ اور یوم النحر کی فضیلت	۴۵	عشرہ ذی الحجہ میں انبیائے کرام کے مجزے
۸۸	نماز و قربانی	۴۹	عشرہ ذی الحجہ کے نماز کے آداب
۸۹	ذکر اللہ	۵۰	پانچ پینچروں کے الگ الگ عشرے



۱۲۳	جمعہ کے دن سرکار رسالت پر درود	۹۶	دعا
۱۲۴	جمعہ کے وظائف	۹۸	قربانی
۱۲۶	جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟	۱۰۱	عید کی نماز
۱۲۸	اخلاص	۱۰۲	بقدر عید کی اور قربانی کی فضیلت
۱۵۲	تطہیر قلب	۱۰۵	بقدر عید کی رات کی نماز
۱۰۵		۱۰۵	قربانی مسنون ہے
۱۰۵		۱۰۵	قربانی کے لئے کونسا جانور افضل ہے؟
۱۰۸	فضائل ایام ہفتہ و ایام بیض، ان دنوں کے روزوں کی	۱۰۸	ایام تشریق
۱۱۰	تخصیص والی روایتیں اور شب و روز کے دراد و وظائف	۱۱۰	ذکر کے معانی
۱۱۱	فضائل ایام ہفتہ	۱۱۱	ایام تشریق کی وجہ تسمیہ
۱۱۲	ایام بیض کے روزے	۱۱۲	ایام تشریق میں تکبیریں
۱۱۳		۱۱۳	تکبیر کے صیغے
۱۱۴		۱۱۴	حالت احرام میں تکبیریں
۱۱۴		۱۱۴	عید کی تکبیریں
۱۱۵		۱۱۵	عاشوراء کی فضیلت
۱۲۰	وظائف شب اور شب بیداری	۱۲۰	عاشوراء کی وجہ تسمیہ
۱۲۱	رحمت عالم کا تہجد	۱۲۱	عاشوراء میں اختلاف
۱۲۳	نبی صلعم کی رات کی نماز	۱۲۳	عاشوراء کے دن کے فضائل
۱۲۴	تہجد کی فضیلت	۱۲۴	عاشوراء کے دن روزے پر اعتراض
۱۲۶	عشاء اور مغرب کے درمیان نماز کی فضیلت	۱۲۶	گیارہویں مجلس
۱۲۶	مغرب کی نماز سے قبل سنتیں	۱۲۶	جمعہ کی فضیلت
۱۲۸	مغرب و عشاء کے درمیان نیک عملوں کی فضیلت	۱۲۸	دوسرے اعتبار سے جمعہ کی فضیلت
۱۳۷	عشاء کے بعد نماز	۱۳۷	جمعہ کی نماز کی تیاری
۱۳۸	وتر	۱۳۸	جمعہ کے دن کے فضائل
۱۴۰	اگر کوئی عشاء کے بعد وتر پڑھے پھر اخیرات میں جاگ	۱۴۰	جمعہ کی قبولیت والی ساعت

## بارھواں باب

فضائل ایام ہفتہ و ایام بیض، ان دنوں کے روزوں کی  
تخصیص والی روایتیں اور شب و روز کے دراد و وظائف  
فضائل ایام ہفتہ  
ایام بیض کے روزے

## تیرھواں باب

عمر بھر کے روزے اور ان کا ثواب  
روزے کی اجمالی فضیلت  
وظائف شب اور شب بیداری  
رحمت عالم کا تہجد  
نبی صلعم کی رات کی نماز  
تہجد کی فضیلت  
عشاء اور مغرب کے درمیان نماز کی فضیلت  
مغرب کی نماز سے قبل سنتیں  
مغرب و عشاء کے درمیان نیک عملوں کی فضیلت  
عشاء کے بعد نماز  
وتر  
اگر کوئی عشاء کے بعد وتر پڑھے پھر اخیرات میں جاگ

جائے تو کیا کرے؟

قنوت وتر

۱۹۷

اگر کسی پر نیند کا غلبہ ہو تو کیا وہ تہجد چھوڑ کر سو جائے؟

۱۹۸

تمام رات کا قیام

۲۰۳

رات میں وقت پراٹھنے کا عمل

۲۰۳

تہجد کی نماز

۲۰۴

تہجد کے وظائف وغیرہ

۲۰۵

مستحبات تہجد

۲۰۶

سونے سے قبل کی دعائیں

۲۰۷

تہجد کے لئے امدادی عمل

۲۰۸

تہجد گزار کو کس وقت سونا مستحب ہے؟

۲۱۰

نوت شدہ تہجد دن میں کب پڑھا جائے؟

۲۱۲

اوراد شب کے اوقات

## پہلو ہواں باب

اوراد دن کے اوقات

۲۱۳

دن کا پہلا ورد

۲۱۳

چاشت کی نماز (صلوۃ الادابین)

۲۱۷

چاشت کی نماز کی رکعتوں کی تعداد

۲۱۹

چاشت کی نماز کا وقت

۲۲۱

چاشت کی نماز میں کن سورتوں کو پڑھنا چاہیے

۲۲۱

کیا چاشت کی نماز منع ہے

۲۲۲

قبل و بعد از ظہر اوراد

۲۲۳

ظہر و عصر کے درمیان کا ورد

۲۲۳

اوقات مذکورہ میں نوافل کا ثبوت

۲۲۴

عصر و غروب آفتاب کے درمیان کا ورد

## پندرہواں باب

۲۲۷

پنجگانہ نمازیں، نمازوں کے اوقات و سنن

۲۲۸

نمازوں کے فضائل

۲۲۹

پانچ نمازیں

۲۳۰

وجوب نماز

۲۳۱

رحمت عالم صلعم سے قبل کس نے یہ نمازیں پڑھیں؟

۲۳۲

شروع میں کس وقت کی نماز فرض ہوئی؟

۲۳۳

نماز فجر کا وقت

۲۳۴

نماز ظہر کا وقت

۲۳۵

زوال کی پہچان

۲۳۶

مزید وضاحت

۲۳۷

قدموں کی پہچان

۲۳۸

زوال خوردشید کی دوسری صورت

۲۳۹

تیسرے طریقہ سے سائے کی پہچان

۲۴۰

کیا زوال کی پہچان واجب ہے؟

۲۴۱

زوال کی پہچان مشکل ہے

۲۴۲

قبلہ کی سمت کی پہچان اور وقت عصر

۲۴۳

عصر کا اول وقت

۲۴۴

مغرب کا وقت

۲۴۵

عشاء کا وقت

۲۴۶

پنجگانہ نمازوں کے سنن و رواتب

۲۴۷

نماز پنجگانہ کے فضائل

۲۴۸

نماز کے لئے مسجد میں حاضری، نماز میں خشوع و خضوع



اور نماز باجماعت کی فضیلت

نماز کی محافظت اور نماز صانع کرنے والوں کو سزا

نماز کی اہمیت اور جلالت قدر

مکروہات نماز

آداب نماز

خصوصیات امام

کیا امام مقتدیوں کی نیت کرے؟

مقتدیوں کو ہدایات

مقتدیوں کے آداب

خلاف شرع نمازیوں کو نصیحت کرنے کا حکم

مؤذن کے فرائض

نمازی کے اوصاف

خواص کی نماز

## سولھواں باب

نماز جمعہ، نماز عید و بقر عید، نماز استسقاء

نماز کسوف و خسوف، نماز قصر، نماز جمع اور

نماز جنازہ

نماز جمعہ

عید و بقر عید کی نماز

نماز عید کا اول وقت

نماز استسقاء

نماز کسوف یا خسوف

نماز خوف

نماز قصر

دو نمازیں ملا کر پڑھنا

نماز جنازہ

مرنے والے کے پاس کیا کیا جائے اور مرنے کے بعد غسل

اور تجہیز و تکفین وغیرہ

بیمار کی بیمار پرسی

تجہیز و تکفین

غسل میت کا طریقہ

کفن

کفنانے کا طریقہ

عورت کے کپڑے

## سترھواں باب

ہفتہ کے دنوں میں دن کی اور رات کی نمازوں کے فضائل

دن کی نمازوں کے فضائل

اتوار کے دن کی نماز کی فضیلت

پیر کے دن کی نماز کی فضیلت

منگل کے دن کی نماز کی فضیلت

بدھ کے دن کی نماز کی فضیلت

جمعرات کے دن کی نماز کی فضیلت

جمعہ کے دن کی نماز کی فضیلت

ہفتہ کے دن کی نماز کی فضیلت

## اٹھارھواں باب

راتوں کی نمازوں کے فضائل

اتوار کی رات کی نماز کی فضیلت

۲۵۲  
۲۵۵  
۲۵۸  
۲۶۲  
۲۶۸  
۲۶۴  
۲۷۸  
۲۶۹  
۲۸۴  
۲۸۸  
۲۸۹  
۲۹۲  
۲۹۶  
۲۹۶  
۲۹۶  
۲۹۸  
۲۹۸  
۳۰۰  
۳۰۴  
۳۰۶  
۳۰۹

۳۱۱  
۳۱۳  
۳۱۵  
۳۲۱  
۳۲۳  
۳۲۳  
۳۲۵  
۳۲۱  
۳۲۱  
۳۳۰  
۳۳۰  
۳۳۱  
۳۳۲  
۳۳۳  
۳۳۳  
۳۳۴  
۳۳۴  
۳۳۴  
۳۳۸  
۳۳۸

۳۵۶	صبح و عصر کی نمازوں کے بعد کی دعائیں	۳۳۹	شب و دو شنبہ کی نماز کی فضیلت
۳۵۸	دوسری دعا	۳۴۰	منگل کی رات کی نماز کی فضیلت
۳۵۹	تیسری دعا	۳۴۰	بدھ کی رات کی نماز کی فضیلت
۳۶۱	ختم قرآن حکیم کی دعا	۳۴۰	جمعرات کی رات کی نماز کی فضیلت
۳۶۰	وصیت	۳۴۱	جمعہ کی رات کی نماز کی فضیلت
		۳۴۱	ہفتہ کی شب کی نماز کی فضیلت
		۳۴۲	نوافل تکبیل فرائض کے لئے ہیں
		۳۴۲	صلوٰۃ التسبیح کی فضیلت
			نماز و دعائے استخارہ
		۳۴۸	چوروں، درندوں اور موزیلوں سے محفوظ رہنے کی دعا
		۳۴۹	نماز کفایہ
		۳۵۰	خصومت دور کرنے والی نماز
		۳۵۰	شوال میں آزادوں کی نماز
		۳۵۱	عذاب تبرک و دفع کرنے والی نماز
		۳۵۲	نماز حاجت
		۳۵۳	ظلم دفع کرنے کی دعا
		۳۵۴	دوسری دعا
		۳۵۴	پریشانیوں دور کرنے کی اور قرض سے بچکدوشی کی دعا
		۳۵۵	اسی سلسلہ کی دوسری دعا
		۳۵۶	اسی سلسلہ کی تیسری دعا
		۳۵۶	اسی سلسلہ کی چوتھی دعا
			<b>باب</b>
			دعائیں، بیچگانہ فرائض کی دعائیں اور ختم قرآن وغیرہ کی دعائیں۔
		۳۵۶	
			<b>باب</b>
			اقارب و اغیار کے ساتھ دار مال دار و فقیروں کے ساتھ
			بیل جول

**پیسواں باب**

**اکیسواں باب**

**اٹیسواں باب**

**باٹیسواں باب**

مبتدی کے فرائض، شیخ کا ۱۱ بہ تربیت کے سلسلے میں  
 شیخ کے فرائض  
 مبتدی کے فرائض  
 شیخ کے لئے مرید کے آداب  
 شیخ سے آداب سیکھنا  
 شیخ کے فرائض

دعائیں، بیچگانہ فرائض کی دعائیں اور ختم قرآن وغیرہ کی دعائیں۔

اقارب و اغیار کے ساتھ دار مال دار و فقیروں کے ساتھ  
 بیل جول



۲۴۹	مجاہدہ کا تتمہ مراقبہ	۲۱۰	احباب و انارب کے ساتھ میل جول
۲۵۰	حق تعالیٰ کی معرفت	۲۱۱	بیگانوں سے میل و جول
۲۵۱	ابلیس کی پہچان	۲۱۱	مال داروں سے میل و جول
۲۵۵	نفس امارہ کی پہچان	۲۱۳	فقراء سے میل و جول
۲۵۸	حق تعالیٰ کی رضا کے عملوں کی پہچان	۲۱۸	حالت فقر میں فقیر کے آداب
۲۶۰	اصحاب مجاہدہ کی دس عادتیں	۲۲۲	کیا فقیر سوال کر سکتا ہے؟
۲۶۵	توکل	۲۲۳	فقیر کے آداب معاشرت
۲۶۶	توکل کی حقیقت	۲۲۷	فقراء کے لئے کھانے کے آداب
۲۶۷	توکل کے درجے	۲۲۸	فقراء کے باہمی آداب
۲۶۸	حسن اخلاق	۲۳۱	فقراء کے بیوی بچوں کے ساتھ آداب
۲۶۹	اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق	۲۳۲	فقراء کے آداب سفر
۲۷۰	شکر	۲۳۸	فقراء کے سماع کے آداب
۲۷۰	صبر		<b>خاتمہ</b>
۲۷۰	صبر کے اقسام		مجاہدہ، توکل، حسن خلق، شکر، صبر، رضا،
۲۷۳	رضائے الہی	۲۴۴	صدق
۲۷۸	رضائے الہی کے اقسام	۲۴۴	مجاہدہ
۲۹۲	صدق	۲۴۹	مجاہدہ کی حقیقت



# محبوب سبحانی

الحمد لله وحده والصلاة على النبي الذي لا نبي بعده -

شکر ہے اس اللہ رحیم و رؤف کا جس کے فضل و احسان سے آج ہم حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور و معروف کتاب عنایت الطالبین لطریق الحق کے اردو ترجمہ کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو سکے۔ اس عظیم کتاب کا پہلا حصہ اس سے پہلے شائع کیا جا چکا ہے۔

کتابیں ہر زبان میں اور ہر موضوع پر لکھی جاتی رہی ہیں۔ روز بروز زیادہ ہی کتابیں تصنیف ہوتی رہیں گی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر کتاب ایسی نہیں ہوتی جو پڑھنے والے کے دماغ کو متاثر کر کے سیدھی راہ پر لگا دے یہ فخر صرف چند ہی تصنیفات کو حاصل ہے کہ ان کے مطالعہ سے زندگیاں سنور گئی ہوں اور ان کے مضامین پر غور کرنے سے آدمی کے ذہن و دماغ میں روشنی و آگہی کی راہیں کھل گئی ہوں جو آنکھ رکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتے تھے وہ دیکھنے لگے ہوں گے اور کان رکھتے ہوئے بھی سن نہیں سکتے تھے وہ سننے لگے ہوں۔ حضرت غوث اعظم شیخ اکمل سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ایسی ہی چند کتابوں میں سے ایک عظیم المرتبت کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے عنایت الطالبین لطریق الحق یعنی ہر اس شخص کے لئے جو حق و صداقت کی راہ کا طالب ہو، یہ کتاب کافی ہے اور اس مقصد کے لئے کسی دوسری کتاب کا محتاج نہیں رہنے دیتی یقیناً یہ کتاب ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص سچائی اور حق کی راہ کا پیروں تو اللہ و رسول کے احکام و فرامین کے علاوہ اور کسی انسانی تصنیف کی اس کتاب کے بعد کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی اسے غور سے مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے سے سچائی اور حق کا راستہ اس کو مل جائے گا۔

حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ کی زندگی علم و عرفان اور زہد و تقاد کا ایک کامل نمونہ تھی۔ نہ صرف اپنے زمانہ رسالت میں بلکہ آنے والی نسلوں کے لئے رہتی دنیا تک۔ اس کتاب میں حضرت نے حق و صداقت کی سیدھی راہ دکھائی ہے۔ بدعت۔ زندقہ۔ الحاد اور اعتقادی و عملی فسادات کے پوشیدہ سے پوشیدہ گوشوں کو اس کتاب میں نمایاں کر کے اور وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ ہواؤ ہوس کے چہرے پر سے ہر نقاب کو




ہٹا دیا ہے۔ شیطان کی ہر گمراہی کو دینے والی ترکیب کو واٹھکٹان انگلیوں میں دکھلا دیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ جب تک اس دنیا میں رہے مخلوق خدا کو صحیح تعلیم دینے والوں اور ماعنوں کو ہر آلودگی سے پاک کرنے اور ایمان کو جلا دینے میں اپنا سارا وقت صرف کرتے رہے اور اب ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی کتابوں سے ہم سب یہ فوائد جلیلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت غوث اعظم کی تحریروں سے فائدہ حاصل کریں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں اور قرب ربانی پر فائز ہوں جو ہر انسان کا مقصود حقیقی ہے۔ بلاشبہ ہر ذی عقل کے لئے مقصود حقیقی یہی ہونا چاہیے۔

فقیر سے اکیڈمی کے لئے جن کتابوں کا انتخاب کیا جاتا ہے ان میں اولین اصول کتاب کی افادیت کا خیال ہوتا ہے۔ ہم نے اب تک جتنی کتابیں شائع کی ہیں وہ اس پر شاہد ہیں کہ ہم کتاب کے افادے پہلو پر سب سے پہلے اور گہری نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اہل علم و دانش سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب اپنے مضامین کے اعتبار سے کتنی مفید ہو سکتی ہے گویا کہ ہم یہ پہلے متعین کر لیتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو کیا اور کتنا فائدہ اس کے مطالعہ سے حاصل ہوگا اور جب ہمیں اس کا پوری طرح اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب یقیناً مفید ثابت ہوگی تب ہم اس کتاب کی طباعت و اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں۔

ہمیں یقین ہے کہ ناظرین اس کتاب کے مطالعہ کے بعد پوری طرح اس کے مطابق یقین و عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سنواریں گے اور ہمارے حق انتخاب کی داد دیں گے۔

یہ حضرت کا فیض روحانی ہے کہ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کتاب کا پہلا حصہ پیش کیا۔ کیونکہ درجنوں ناشروں نے اسے شائع کر رکھا تھا بڑی آب و تاب جلد کے علاوہ پلاسٹک کو رگولڈن اور پھر قیمت بھی کم مگر چند مہینے ہی میں اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ دوسرے حصہ کی مانگ پیدا ہوئی۔ باوجود دشواریوں کے ہم طالبان حق اور اہل ذوق کے لئے اب الٹریچر دو میں پیش کر رہے ہیں جس کا مدلول سے انتظار ہے۔ ہمارے سامنے سامان طباعت کی گرانی اور عام گرانی کا دلو بھی موجود ہے۔ اہل نظر پر بھروسہ ہے کہ جنہوں نے پہلے قدر افزائی کی اب بھی نوازیں گے۔ ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔

اللَّهُمَّ وَفَّقْنَا مَا هُوَ مَرْضَاكَ



**فصل :** فی فضائل لیلة القدر قوله تعالیٰ انا  
انزلنا فی لیلة القدر الی آخر السورة فانزلنا کتابة  
عن القرآن انزلہ اللہ تعالیٰ من اللوح المحفوظ الی  
سواء الدنیا الی السفرۃ وهم الکتابۃ من الملائکة  
نکان ینزل فی تلك اللیلة من اللوح علی قدر  
ما ینزل بہ جبریل علیہ السلام باذن اللہ  
تعالیٰ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السنة  
کلها الی مثلها من قابل حتی نزل القرآن  
کلها فی لیلة القدر من شهر رمضان الی سواء  
الدنیا وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ  
انا انزلنا فی لیلة القدر یعنی انزلنا جبریل بہذا  
السورة وجبلۃ القرآن فی لیلة القدر علی الکتابۃ  
ثم نزل بعد ذلك نجما نجما علی رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم فی ثلاث وعشرين سنة فی سائر الشهور  
والایام واللیالی والاقوات قوله تعالیٰ فی لیلة  
القدر ای فی لیلة عظیمة وقیل فی لیلة المحکم

**شب قدر کے فضائل** | اس سلسلہ میں سورہ قدر پڑھئے اس سورت  
میں قرآن حکیم کے اتارنے کی طرف اشارہ ہے یعنی حق تعالیٰ نے لوح محفوظ  
سے دنیوی آسمان پر لکھنے والے فرشتوں کی طرف اتنا قرآن پاک اتارا جتنا  
اگلی شب قدر تک حق تعالیٰ کو لوگوں پر اتارنا منظور تھا اسی طرح تمام  
قرآن ماہ رمضان میں دنیوی آسمان پر اترا۔

حضرت ابن عباسؓ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی ہم نے جبریل  
کو اس سورت کے اور تمام قرآن کے ساتھ شب قدر میں لکھنے والے فرشتوں  
پر اتارا پھر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے ۲۳ سال تک ہر مہینہ میں  
دن رات وقتاً فوقتاً نبی صلعم پر اتارنا ہوا۔ قدر بمعنی عظیم ہے یعنی شب قدر  
عظمت والی شب ہے یا قدر بمعنی تقدیر ہے یعنی شب قدر فیصلہ والی  
شب ہے یعنی اس شب حق تعالیٰ تمام سال کے واسطے اندازہ فرماتا ہے  
پھر فرمایا، اے محمد! صلعم کس چیز نے آپ کو شب قدر تائی یعنی اگر  
شب قدر کو اور اس کی شان عظمت کو حق تعالیٰ آپ کو نہ بناتا تو آپ کو  
اس کا علم ہرگز ہرگز نہ ہو سکتا تھا قرآن پاک میں جہاں و ما اور اک آیا ہے  
حق تعالیٰ نے اسے اپنے نبی کو بتا دیا ہے اور جہاں و ما یدربک ہے اس کی  
اطلاع آپ کو نہیں دی گئی ہے چنانچہ ایک جگہ فرمایا اور آپ کو کیا خبر



وسيت ليلة القدر تعظيما لها ولقد رها لان الله  
 تعالى يقدر قبها ما يكون من امر السنة الى مثلها  
 من العام المقبل ثم قال وما ادراك ما ليلة القدر  
 يا محمد لولا ان الله اعلمك بعظمتها فكل ما في  
 القرآن وما ادراك فقد اعلمه الله اياها وما  
 فيه وما يدريك فلم يدركه ولم يطلع عليه  
 كقوله عز وجل وما يدريك لعل الساعة تكون  
 قريبا وما تبين له وقتها قوله تعالى ليلة القدر  
 اي ليلة العظمة والحكمة وقيل هي ليلة المباركة  
 التي قال الله عز وجل انا انزلناها في ليلة مباركة  
 فيها يفرق كل امر حكيم ثم قال عز وجل ليلة القدر  
 خير من الف شهر يعني العسل فيها خير من  
 الف شهر ليس فيها ليلة قدر ويقال ان المعاني  
 رضى الله عنهم لم يفرحوا بشيء كفرحهم بقوله  
 تعالى خير من الف شهر وذلك ان رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم ذكر ليو ما لا يحاسبه اربعة  
 من بنى اسرائيل بانهم عيدوا الله ثمانين سنة  
 لم يعصوا طرفة عين وذكروا يوب وذكروا  
 حزقييل و يوشع بن نون عليهم السلام فعجب  
 اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك  
 فان قال جبريل عليه السلام وقال له يا محمد  
 عجبت انت واصحابك من عبادة هؤلاء القدر  
 ثمانين سنة ثمانين سنة لم يعصوا الله تعالى  
 فيها طرفة عين فقد انزل الله عليك خيرا من ذلك  
 ثم قرأ عليه انا انزلناها في ليلة القدر الى آخرها وقال

شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے وقت  
 کی آپ کو اطلاع نہیں دی گئی۔

شب قدر یعنی عظمت و حکمت والی رات یا وہ برکت والی  
 رات جس کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم نے قرآن پاک  
 برکت والی رات میں اتارا۔ جس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ  
 کیا جاتا ہے پھر حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ شب قدر ہزار ماہ سے بہتر  
 ہے یعنی اس رات کی عبادت ان ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر  
 ہے جن میں شب قدر نہ ہو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کو جس قدر مسرت خیر من الف  
 سے ہوئی ایسی مسرت کسی چیز سے نہیں ہوئی، اس کی وضاحت یہ  
 ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلعم نے صحابہ کرام کے سامنے چار  
 اسرائیلی حضرات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ اجل مجسدہ کی  
 اسی سال لگاتار عبادت کی اور ذرا سی دیر کے لئے بھی نافرمانی نہیں  
 کی یہ تھے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقییل اور  
 حضرت یوشع بن نون علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ ان کی عبادت کا  
 حال سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں رہ گئے اتنے میں رحمت عالم  
 صلعم پر حضرت جبرئیل وحی لے کر آئے اور فرمایا کہ اے محمد  
 تم نے اور تمہارے اصحاب نے ان لوگوں کی اسی سالہ عبادت  
 پر حیرت و استعجاب کا اظہار فرمایا جس میں ان بزرگوں نے  
 ایک گھڑی بھر کے لئے بھی بلکہ ایک منٹ کے لئے بھی حق تعالیٰ  
 شانہ کی نافرمانی نہیں کی، حق تعالیٰ شانہ نے آپ پر اس سے  
 بھی بہتر ایک چیز اتاری ہے پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام  
 نے آپ کو انا انزلنا پڑھ کر پوری سورت سنائی اور فرمایا یہ شب  
 کی عبادت، ۸۳ سال چار ماہ سے افضل ہے تم ان کی ۸۰ سالہ عبادت  
 پر حیرت میں ہو تمہیں تو حق تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم رات عطا  
 فرمائی ہے کہ اس ایک رات کی ۸۳ سال چار ماہ عبادت سے

له هذا افضل مما عجزت انت واصحابك منه  
 فترى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحيى  
 ابن يحيى انه كان في بني اسرائيل رجل لبس السلاح  
 الف شهر في سبيل الله تعالى لم يضعه عنه  
 فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهما به  
 فتعجبوا من قول ذلك فانزل الله عز وجل  
 ليلة القدر خير من الف شهر يعني خير لكم  
 من تلك الالف شهر التي لبس فيها ذلك  
 الرجل السلاح في سبيل الله ولم يضعه عنه  
 وقيل انه كان اسمه شمعون العابد في بني  
 اسرائيل وقيل شمسون تنزل الملائكة يعني  
 تنزل من غروب الشمس الى طلوع الفجر  
 والروح يعني جبريل عليه السلام وقال  
 الصحاك عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال  
 الروح على صورة الانسان عظيم الخلق وهو  
 الذي قال الله عز وجل وبسالونك عن الروح  
 وهو الملك يقوم مع الملائكة صفا وحدا  
 يوم القيامة وقال مقاتل هو اشرف الملائكة  
 عند الله تعالى وقال غيره انه ملك وجهه على  
 صورة الانسان وجسده جسد الملائكة وهو  
 اعظم مخلوق عند العرش يقوم صفا وتقوم الملائكة  
 صفا قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة  
 صفا فيها يعني في ليلة القدر باذن ربهم أي بامر  
 ربهم من كل امر يعني بكل خير سلام هي  
 أي هي سلام أي سليمة حتى مطلع الفجر لا يجد

بھی افضل ہے اس سے رحمت عالم صلعم کو مسرت ہوئی۔

یحییٰ بن صالح: بنی اسرائیل میں ایک شخص گزارا ہے جس نے ایک  
 ہزار ماہ تک اللہ کی راہ میں گناہ جہاد کیا اور کبھی اسلحہ نہیں اتارے  
 رسول اللہ صلعم نے ایک دن ان کا ذکر صحابہ کرام سے فرمایا ان کا  
 ذکر سن کر صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری  
 کہ تمہارے لئے شب قدر کی عبادت ان ایک ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر  
 ہے جن میں اس اللہ کے بندے نے اسلحہ نہیں اتارے اور برابر جہاد کرتے  
 رہے کہتے ہیں ان کا نام شمعون یا شمسون تھا یہ اسرائیلیوں میں ایک مشہور  
 عابد ہیں پھر فرمایا اس رات میں سورج ڈوبتے ہی فرشتے اترتے  
 ہیں اور حضرت جبریل بھی اور صبح صادق تک رہتے ہیں۔

صحاک از ابن عباس: روح النسانی شکل پر ایک عظیم الجثہ فرشتہ  
 ہے یہ فرشتہ وہی ہے جس کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ  
 لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ ایک فرشتہ ہے  
 جو قیامت کے دن تنہا فرشتوں کی ایک قطار کے بالمقابل کھڑا ہوگا  
 مقابل روح اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انتہائی شریف فرشتہ  
 ہے دوسرے علماء: یہ ایک فرشتہ ہے جس کا چہرہ انسان کے چہرے کی  
 طرح ہے اور جسم فرشتوں کے جسم کی طرح ہے اور یہ فرشتہ عرش کے  
 پاس سب سے بڑی مخلوق ہے جو فرشتوں کی صف کے بالمقابل تنہا  
 کھڑا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وہ دن یاد کرو جس دن روح اور  
 فرشتے قطار بنا کر کھڑے ہوں گے پھر فرمایا اس رات میں اس  
 سے شب قدر مراد ہے پھر فرمایا اپنے ذہن کی اجازت سے یعنی حکم سے  
 من کل امر یعنی فرشتے زمین ہر طرح کی خیر لے کر اترتے ہیں اسلام  
 یعنی وہ رات سلامتی والی ہے حتیٰ بمطلع الفجر یعنی طلوع صبح صادق  
 تک اس میں سلامتی رہتی ہے اس میں بیماری اور کائنات پیدا نہیں ہوتی  
 مطلع لام کے زبر طلوع ہونے کی جگہ اور لام کے ویر سے یعنی طلوع



فيها داع ولا كهانة مطلع الفجر يسرا من يريد الطلوع و  
بالتقم يريد الموضع الذي يطعم فيه وقيل سلام يعني  
سلام الملائكة على المؤمنين من اهل الارض  
يقولون سلام سلام حتى يطعم الفجر۔

### فصل : وثلاثس ليلة القدر في العشر

الاواخر من شهر رمضان و آكد ها ليلة سبع و  
عشرين وعند مالك رحمه الله جميع ليالي العشر  
ليس بعض باكد من بعض وعند الشافعي رحمه الله  
آكد ها احدى وعشرون وقيل انها ليلة التاسع  
عشر وهو مذ هب عائشة رضي الله عنها  
وقال ابو بردة الاسلمي رضي الله عنه هي ليلة  
ثلاث وعشرين وقال ابو ذر والحسن رضي الله  
عنهما انها ليلة خمس وعشرين وروى بلال  
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  
انها ليلة اربع وعشرين وقال ابن عباس و ابي  
بن كعب رضي الله عنهم انها ليلة سبع و  
عشرين والدليل على ان آكد ها ليلة سبع وعشرين  
والله اعلم ما روى ابن حنبل رحمه الله باسناد  
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا لا يزالون  
يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا  
من العشر الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم  
اروي رؤياكم فتواترت انها ليلة سابعة من  
العشر الاواخر من كان متحررا فليتحرها الليلة  
السابعة من العشر الاواخر و يروي ان  
ابن عباس قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم

هو نايعي مصدر ميمي ہے۔

ایک یہ بھی تفسیر ہے کہ فرشتے رات بھر روئے زمین کے  
اہل ایمان کے لئے سلامتی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ  
صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے۔

شب قدر کن راتوں میں طھونڈ ٹھھی جائے؟ شب قدر

ماہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جائے

۲۶ میں شب کی زیادہ تاکید آئی ہے امام مالک کے نزدیک پچھلے

عشرے کی ساری راتوں میں شب قدر کا احتمال ہے خواہ طاق ہوں

یا جفت اور کوئی رات کسی رات پر فضیلت نہیں رکھتی امام شافعی

کے نزدیک ۲۱ میں شب قدر کا زیادہ احتمال ہے یہ بھی کہا

گیا ہے کہ ۲۹ میں شب قدر ہے یہ حضرت عائشہ رضی کا قول ہے

ابو بردہ اسلمی نے نزدیک ۲۳ میں شب قدر ہے ابو ذر اور حسن کے

دیکھئے کہ ۲۵ میں شب قدر ہے حضرت بلال نبی صلعم سے روایت کرتے ہیں

کہ ۲۲ میں شب قدر ہے حضرت ابن عباس اور ابی بن کعب نے نزدیک

۱۷ میں شب قدر ہے الغرض ۲۷ میں شب کی طرف اکثر علماء گئے ہیں اس

کی دلیل کہ ۲۷ میں شب قدر کا زیادہ احتمال ہے وہ روایت

ہے جو امام احمد بن حنبل اپنی اسناد سے ابن عمر سے روایت کرتے ہیں

کہ رسول اللہ صلعم سے صحابہ کرام اپنے خواب اخیر عشرے کے بارے میں

بیان کیا کرتے تھے بالآخر نبی صلعم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ ۲۷ میں

شب قدر کے بارے میں تمہاری خوابیں تو اتنی کھینچ گئی ہیں لہذا جو شب قدر

تلاش کرنا چاہے اسے شب قدر ۲۷ میں شب کو تلاش کرنی چاہیے

منقول ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا

کہ میں نے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں غور کیا تو شب قدر کے لئے

سات سے زیادہ لائق کسی رات کو نہیں پایا اب آپ سات کے

عدد کے بارے میں غور کریں آسمان سات ہیں زمین سات ہیں



انی نظرت فی الافراد قلما رقیها احرى من  
 السبعة مذکر بعض ما تذکره فی السبعة فقال  
 السوات سبع والارضون سبع واللیالی سبع  
 والافلاک سبع والنجوم سبع والسعی بین الصفا  
 والطروة سبع والطواف بالبيت سبع ورحی الجبار  
 سبع وخلق الانسان من سبع ورزقه من سبع  
 وخلق فی وجیهه سبع والخواتیم سبع والحمد  
 سبع آیات وقراءۃ القرآن علی سبعة احراف  
 والسبع المثانی والسجود علی سبعة اعضاء  
 والابواب جہنم سبع واسماءها سبع ودرکات  
 سبع وامحاب الکھف سبع واهلک  
 عاد بالریح فی سبع لیال ومکت یوسف علیہ  
 السلام فی السجن سبع سنین و البقرات  
 سبع والسنون الجدیة سبع والسنون الخصبۃ  
 سبع والصلوات الخمس سبع عشرة رکعة  
 وقال اللہ عزوجل وسبعة اذارجعتم وحرم  
 من النساء النسب سبع ومن الصهر سبع و  
 جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارة  
 الاثاء اذا ولغ فیہ الکلب سبع مرات احد  
 بالتراب وعدد حروف سورۃ القدر الی قوله  
 سلام ہی سبع وعشرون حرفا ومکت الوب  
 علیہ السلام فی ثلاثہ سبع سنین وقالت  
 عائشۃ رضی اللہ عنہا تزوجنی رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت سبع سنین  
 وایام العجوز یعنی الحسوم سبعة ثلاثة من شبا

ہفتہ کے دن سات ہیں، آسمان سات ہیں، سمندر سات ہیں، اصفا  
 مروہ کے درمیان چکر سات ہیں، طواف میں چکر سات ہیں شیطان  
 پر سات سات کنگریں ماری جاتی ہیں انسان کی پیدائش سات  
 اعضاء سے ہے، اس کی روزی سات والوں سے ہے، اس کے چکر  
 میں سات سوراخ ہیں، خم والی سورتیں سات ہیں، سورہ فاتحہ کی  
 سات آیتیں ہیں، قرانتیں سات ہیں اور بار بار پڑھی جانے والی  
 سورتیں سات ہیں، سجدہ سات اعضاء پر کیا جاتا ہے، جہنم کے  
 دروازے سات ہیں، اس کے نام سات ہیں، اس کے طبقے سات  
 ہیں، اصحاب کھف سات ہیں، عادی لگاتار سات دن کی آندھی  
 سے تباہ ہوئے، حضرت یوسف قید خانہ میں سات سال رہے، ہوشیار  
 نے خواب میں بیل سات ہی دیکھے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام  
 کے زمانہ میں سات سال کا قحط پڑا، پھر رزانی کے سال بھی سات  
 ہی ہیں اور پنجگانہ نمازوں کی رکعتیں بھی ستروہی ہیں کہ دہائی نکال  
 کر سات ہی رہ جاتی ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا اور گھر جا کر سات  
 روز سے رکھ لو، نسب سے، رضاعت سے اور سرال سے  
 سات سات رشتے حرام ہیں اگر برتن میں کتا منہ ڈال دے تو  
 اسے سات بار دھویا جاتا ہے اور سورہ قدر کے حرفوں کی تعداد  
 سلام تک، ۲۷ ہے حضرت ایوب سات سال بیمار رہے حضرت  
 عائشہ سے سات سال کی عمر میں نکاح کیا گیا اور موسم گرما کے  
 پچھلے دن سات ہیں تین ماہ شباط کے اور چار آزر کے نبی صلعم  
 نے فرمایا کہ میرے امت کے شہید سات ہیں، اللہ کی راہ میں لڑ کر  
 مرنے والا، طاعون کی گلٹی سے مرنے والا، مرض سل میں مرنے  
 والا، ڈوب کر مرنے والا، جل کر مرنے والا، دستوں سے مرنے  
 والا اور نفاس میں مرنے والا  
 حق تعالیٰ شانہ نے سات چیزوں کی قسم کھائی ہے، سورج



واربعة من اذار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
شهداء امتي سبعة القليل في سبيل الله والمطعون  
والمسلول والشرقي والمخرق والميطون والنساء من  
النساء واقسم الله عز وجل بسبع والشس وضحاها  
الى قوله وما سواها وكان طول موسى عليه السلام  
سبعة اذرع بذر اذرع ذلك القرن وطول عصي موسى  
سبعة اذرع فاذا اثبتت ان اكثر الاشياء سبع فقد  
نبتت الله تعالى عباد على ان ليلة القدر السابعة  
والعشرون بقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر  
وعلمنا بذلك انها ليلة السابعة والعشرين.

**فصل:** فصل ليلة الجمعة افضل ام ليلة  
القدر اختلف اصحابنا في ذلك فاختر الشيخ  
ابو عبد الله بن بطه والشيخ ابو الحسن الجزري  
وابو حفص عمر البرمكي رحمهم الله ان  
ليلة الجمعة افضل واختر ابو الحسن القمبي  
رحمه الله ان الليلة التي انزل فيها القرآن  
من ليالي القدر افضل من ليلة الجمعة فاما  
امثال تلك الليلة من ليالي القدر فليلة الجمعة  
افضل وقال اكثر العلماء ليلة القدر افضل من  
ليلة الجمعة وغيرها من الليالي وجه اختيار  
اصحابنا ما روى القاسمي الامام ابو يعلى رحمه الله  
باسناد دا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله  
ليلة الجمعة لاهل الاسلام اجمعين وهذا  
فضيلة لم تنقل عنه عليه الصلاة والسلام

کی چاند کی دن کی رات کی آسمان کی زمین کی اور  
نفس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طول اس صدی  
کے لوگوں کے ہاتھ سے سات ہاتھ تھا اور آپ کا عصا بھی  
سات ہاتھ کا تھا۔

نتیجہ صاف ہے کہ اکثر چیزیں سات ہیں لہذا اللہ تعالیٰ  
نے ہی حتیٰ مطلع الفجر سے اپنے بندوں کو بیدار فرمایا کہ  
شب قدر ۲۷ میں شب ہے اور ہمیں علم ہو گیا کہ شب قدر  
۲۷ میں شب ہی ہے کیونکہ سلام ۲۷ لکھے ہیں اور ہی حتیٰ  
مطلع الفجر والا جملہ ۲۷ کلمات کے بعد ہے۔

★

**شب قدر افضل ہے یا شب جمعہ** | اس بارے میں  
ہمارے علماء میں اختلاف ہے شیخ ابو عبد اللہ بن بطه شیخ ابو الحسن  
جزری اور ابو حفص عمر برمکی کے نزدیک شب جمعہ افضل ہے اور  
ابو الحسن تمیمی کے نزدیک یہ پسندیدہ بات ہے کہ جس شب قدر  
شب جمعہ سے افضل ہے اور باقی قدر والی راتوں سے شب جمعہ  
افضل ہے۔

اکثر علماء کا قول ہے کہ شب قدر جمعہ وغیرہ کی راتوں سے افضل  
ہے۔

ہمارے اصحاب نے جو یہ قول اختیار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے  
کہ قاضی امام ابو یعلیٰ اپنی سند سے حضرت ابن عباس سے روایت  
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ  
جمعہ کی شب کو تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔

یہ فضیلت نبی صلعم سے جمعہ کی شب کے علاوہ کسی اور شب  
کے لئے منقول نہیں۔

نبی اکرم صلعم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر روشن بنا

لغيرها من الليالي وروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اكثر واعلى من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الازهر ليلة الجمعة ويومها والغرة من الشيء خياره ولان ليلة الجمعة تابعة ليومها وقد جاء في فضل يومها ما لم يجيء في فضل يوم ليلة القدر من ذلك ما روى انس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما طلعت الشمس على يوم اعظم عند الله من يوم الجمعة ولا احب اليه منه وروى ابو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعة وما من دابة الا وهى تفرح ليوم الجمعة الا هذين الثقيلين من الجن والانس وروى ابو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يبعث الايام ليوم القيامة على هيئتها ويبعث الجمعة وهى زهراء منيرة واهلها يجتهدون بها كالعروس تهدي الى كريمها تضيء لهم ويثرون في نورها والوانهم كالثلج ويحيمون كالسك يخوضون في جبال الكافور وينظر اليهم اهل الموقف الثقلان ما يطفرون تعجبا حتى يداخلون الجنة فان قيل فما جوابكم عن قوله عز وجل ليلة القدر خير من الف شهر قيل المراد بها خير من الف شهر ليس فيها ليلة الجمعة كما ان تقديرها عند هم خير من الف شهر

میں اور ممتاز دن (شب جمعہ و یوم جمعہ) میں کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے کی پیشانی اس میں سے بہترین چیز کو کہتے ہیں علاوہ ان میں شب جمعہ جمعہ کے دن کے تابع ہے اور جمعہ افضل ہے لہذا شب جمعہ بدرجہ اولیٰ افضل ہوئی۔ جمعہ کے دن کی نفیست میں ایسی روایتیں آئی ہیں جو شب قدر کی نفیست میں نہیں آئیں غور کیجئے۔

حضرت انس نبی اکرم صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سے کوئی دن اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم و محبوب نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ کسی ایسے دن پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوتا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو اور کوئی جاندار بجز انسانوں اور جنوں کے ایسا نہیں جو جمعہ کے دن گھبرا یا ہوا نہ رہتا ہو یعنی جمعہ کے دن قیامت آئیگی اور قیامت کے ڈر سے ہر جاندار گھبرا جائے پھر جب سورج نکل آتا ہے تو اطمینان کا سانس لیتا ہے کہ آج قیامت نہیں آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن دنوں کو ان کی موجودہ ہیئت پر ظاہر فرمائے گا لیکن جمعہ کو پھول کی طرح کھلا ہوا اور چمکتا ہوا ظاہر فرمائے گا اور لوگ جمعہ کو اس طرح گھبرے ہوئے ہوں گے جیسے دلہن اپنے شوہر لوگوں کے جھرمٹ میں بھیجی جاتی ہے جمعہ لوگوں کو روشنی بخشنے کا اذوہ اس کی روشنی میں چلیں گے اور لوگوں کے رنگ جمعہ کی روشنی میں برف کی طرح سفید نظر آئیں گے اور ان سے مشک جیسی خوشبو کی لپٹیں آتی ہوں گی اور کافور کے پہاڑوں میں گھس جائیں گے اور انہیں موقف والے جن اور انسان تعجب سے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ناز و انداز سے چل رہے ہیں حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔



ليس فيها ليلة القدر وايضا ان ليلة الجمعة  
 باقية في الجنة لان في يومها تقم الزيادة الى  
 الله سبحانه وتعالى وهي معلومة في الدنيا بعينها  
 على القطع وليلة القدر مظنون عينها وجه  
 اختيار التيمم وغيره من العلماء ان ليلة القدر  
 افضل قوله تعالى خير من الف شهر والف شهر  
 ثلاث وثلاثون سنة <sup>ربعية</sup> اشهر وقيل  
 انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم اعمار  
 امته فاستقلها فاعطى ليلة القدر وعن مالك  
 بن انس رحمه الله انه قال سمعت من اتق  
 به يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 رأى اعمار الناس قبله او ما شاء الله تعالى  
 من ذلك فكانه تصاغرا اعمار امته بأن  
 لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم  
 في طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير  
 من الف شهر وقال انس بن مالك رحمه الله  
 بلغني ان سعيد بن المسيب قال من حضر صلاة  
 العشاء ليلة القدر اصاب منها حظا عن  
 النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى  
 العشاء والمغرب في جماعة فقد اخذ بحظه  
 من ليلة القدر ومن قرأها يعني سورة القدر  
 فكانها قرأ ربع القرآن ويستحب ان يقرأها  
 في العشاء الاخيرة من شهر رمضان -

**فصل** : فان قال قائل لم لم يطعم الله عباده  
 على ليلة القدر يقينا وقطعا كما اطعمهم على

اگر کوئی کہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے  
 اور ان ہزار مہینوں میں متعدد جمعات ہیں تو شب قدر ان تمام جمعوں  
 سے افضل ہوئی۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس آیت سے وہ ہزار  
 مہینے مراد ہیں جن میں شب جمعہ شامل نہیں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہزار  
 مہینوں میں شب قدر شامل نہیں ہے۔

علاوہ ازیں شب جمعہ جنت میں باقی رہے گی کیونکہ جمعہ کے دن حق  
 تعالیٰ شانہ کی زیارت ہوا کہ یگی اور شب جمعہ دنیا میں یقینی طور پر معلوم ہے  
 اور شب قدر کی ذات میں دنیا میں احتمال ہے معلوم نہیں۔ اب شب قدر  
 کو افضل بنانے والوں کے دلائل ملاحظہ ہوں حق تعالیٰ نے شب قدر  
 ایک ہزار مہینوں سے افضل بتایا ہے اور ایک ہزار مہینے ۸۳ سال اور  
 چار مہینے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلعم پر آپ کی امت کی عمر میں پیش کی گئی  
 تو آپ نے عمروں کو کم خیال کیا پھر آپ کو شب قدر عطا کی گئی امام مالک  
 فرماتے ہیں کہ میں ایک معتبر شخص سے سنا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلعم نے اپنی امت  
 کی عمروں وغیرہ کا مقابلہ پہلے لوگوں کی عمروں وغیرہ سے کیا تو آپ کو اپنی امت  
 کی عمر میں حقیر معلوم ہوئیں اور آپ نے سوچا کہ میرے امتی اتنے عمل کرنے پر  
 قادر نہ ہونگے جتنے عملوں پر پہلے لوگ اپنی طویل عمروں کی وجہ سے قادر تھے  
 اس پر حق تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمادی جو ایک ہزار مہینوں  
 بہتر ہے۔ امام مالک بن انس فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ سعید بن مسیب  
 نے مرابا کہ جو آدمی شب قدر میں عشاء کی نماز میں حاضر ہوا تو اسے شب قدر  
 میں حصہ مل گیا۔ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ جس نے مغرب و عشاء جماعت  
 سے پڑھ لی اس نے شب قدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا اور جس  
 نے سورہ قدر پڑھی گو یا اس نے چوتھائی قرآن پڑھا۔ ماہ رمضان  
 میں عشاء میں سورہ قدر کا پڑھنا مستحب ہے۔

شب قدر کیوں پوشیدہ رکھی گئی؟ اگر کوئی کہے کہ شب قدر  
 جمعہ کی طرح یقینی اور قطعی طور پر بتائی کیوں نہیں گئی؟ تو اس کا یہ جواب

ليلة الجمعة وبينها لهم قيل له لئلا يتكلموا على  
علمهم فيها فيقول قد عملنا في ليلة خير من الف  
شهر فقد غفر الله لنا وحصل لنا عند درجات وحنان  
فلا يعملوا عملا واطمانوا فيغلب عليهم الرجاء  
فيهلكوا وهذا كما لم يطلعهم على فناء آجالهم  
لئلا يقول من كان في عمرة طول اتبع الشهوات  
والمذات والتعم في الدنيا فاذا قاربت فناء  
اجلى تبت واشتغلت بعبادة ربي واموت تائب  
مصلحا فغيب الله تعالى عنهم آجالهم ليكونوا  
ابدا على وجل وحذر من الموت فيحسنوا العمل  
ويبدوا موا على التوبة واصلاح العمل فياتيهم  
الموت وهم على خير حال فتصل اليهم الاقلام  
من المذات والشهوات في الدنيا وينجون من  
عذاب الله في الآخرة برحمة الله وقيل ان الله  
تعالى اخفى خمسة اشياء في خمسة الاول اخفى  
رضاء الله في الطاعات والثاني اخفى غضبه  
في المعاصي والثالث اخفى الصلاة الوسطى  
بين الصلوات والرابع اخفى وليه في خلقه  
والخامس اخفى ليلة القدر في شهر رمضان -  
**فصل** : وان الله عز وجل اعطى الممطفى  
صلى الله عليه وسلم خمس ليال الاولى ليلة  
المعجزة والقدر وهى الشقاق القمر قوله  
تعالى اقتربت الساعة والشق القمر وكان  
انفلاق البحر لموسى عليه السلام بضرب العما  
والانشقاق لمحمد صلى الله عليه وسلم

ہے کہ بتائی اس لئے نہیں گئی کہ لوگ اس میں کئے ہوئے عملوں پر  
بھروسہ نہ کر بیٹھیں اور یہ نہ سمجھنے لگیں کہ شب قدر میں ہم نے پوری رات  
عبادت کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا اور اللہ کے پاس ہمیں  
درجات و جنسیں مل گئے لہذا اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے  
یہ سوچ کر وہ عمل ترک کر دیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں  
اور ان پر امید غالب آجائے پھر آخر کار ہلاک ہو جائیں جیسے موت  
چھپا کر رکھی گئی ہے کیونکہ اگر لوگوں کو موت معلوم ہوتی تو لوگ  
کہہ دیا کرتے کہ ابھی تو میری عمر کے اتنے اتنے سال باقی ہیں میں خوب  
گلچھڑے کیوں نہ اڑاؤں اور شہوتوں اور لذتوں میں اور دنیاوی عبادتوں  
میں ڈوبا ہوا کیوں نہ رہوں جب میری موت کا وقت آئے گا تو  
کروں گا اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا اور توبہ کر  
اور اپنی اصلاح کر کے مر جاؤں گا اس لئے اللہ تعالیٰ موت کو چھپا  
دیا تاکہ ہر وقت موت سے ڈرنے رہیں اور پھونک پھونک کر قدم  
اٹھائیں اور خلوص سے عمل کرتے رہیں اور ہر وقت توبہ و اصلاح  
اعمال میں لگے رہیں اور اچھی حالت میں داعی اجل کو لبیک کہیں۔  
اس طرح انہیں دنیاوی لذتیں اور تمنا میں بھی حاصل ہو جائیں گی اور  
آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ہر بانی سے اللہ کے عذاب سے نجات بھی پا جائیگی  
کہ جانتے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ نے پانچ چیزوں میں پانچ چیزیں چھپا دی ہیں ظالمین  
میں مانگنا سہوں میں غضب نیچگانہ نمازوں میں بیانی نما، لوگوں میں اللہ کا دل اور رمضان میں  
**پانچ راتوں کی فضیلت** | حق تعالیٰ شانہ نے اپنے پیارے  
نبی محمد رسول اللہ صلعم کو پانچ راتیں عنایت فرمائی ہیں (۱) شب  
معجزہ (قدرت) یعنی وہ رات جس میں آپ نے اپنی انگلی کے اشارے  
سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے فرمایا: قیامت قریب آگئی اور  
چاند پھٹ گیا حضرت موسیٰ نے عصا مار کر دریا کا پانی پھاڑ دیا  
اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے



بأشارة اصبع المصطفى صلى الله عليه وسلم  
 فهو اعظم في المعجزات والاعجاز والقدرة  
 والثانية ليلة الاجابة والدعوة قوله تعالى  
 واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن  
 والثالثة ليلة المحكم والقسية قوله تعالى  
 انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين  
 فيها يفرق كل امر حكيم والرابعة ليلة الدعاء  
 والقربة هي ليلة المعراج قوله تعالى سبحان  
 الذي اُسرى بعبد لا يبلا من المسجد الحرام  
 الى المسجد الاقصى الآية واما الخامسة فليلة  
 السلام والتحية قوله انا انزلناه في ليلة القدر  
 الى قوله تنزل الملائكة والروح فيها يعني  
 ليلة القدر وروى عن ابن عباس رضی اللہ  
 عنہما انه قال اذا كان ليلة القدر يامر الله  
 سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ان ينزل  
 الى الارض ومعه سكان سدرة المنتهى وهم  
 سبعون الف ملك ومعهم الحية من نور فاذا  
 هبطوا الى الارض ركز جبريل عليه السلام  
 لواءه والملائكة الوثيم في اربع مواطن  
 عند الكعبة وعند قبر النبي صلى الله عليه  
 وسلم وعند مسجد بيت المقدس وعند  
 مسجد طور سيناء ثم يقول جبريل عليه  
 السلام للملائكة تفرقوا فيتفرقون فلا تبقى  
 دار ولا حجرة ولا بيت ولا سفينة فيها  
 مومن او مؤمنة الا دخلت الملائكة فيها

چاند چھاڑ دیا لہذا یہ معجزہ تمام معجزات میں اعجاز میں ایک عظیم معجزہ  
 ہے (۲) شب قبولیت دعا فرمایا اور جب ہم نے آپ کی طرف  
 جنوں کی ایک جماعت پھیر دی کہ وہ قرآن سن رہے تھے (۳)  
 شب حکم و فیصلہ فرمایا ہم نے قرآن ایک برکت والی رات میں اتارا  
 بلا شبہ ہم ڈرنے والے ہیں اس رات میں مستحکم کام کا فیصلہ کر دیا  
 جاتا ہے (۴) شب قرب (شب معراج) فرمایا وہ پاک ہے جو  
 راتوں رات اپنے بندے کو عزت والی مسجد سے مسجد اتنی تک  
 لے گیا (۵) شب سلام و تحیت فرمایا ہم نے قرآن شب قدر میں  
 اتارا (آخر سورت تک)

حضرت ابن عباس: جب شب قدر آتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ  
 حضرت جبرئیل کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ سدرہ پر رہنے والے  
 ستر ہزار فرشتوں کو لے کر زمین پر اترا جاؤ فرشتوں کے پاس نور  
 کے جھنڈے ہوتے ہیں پھر جب یہ فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں  
 تو حضرت جبرئیل اور تمام فرشتے چار جگہ جھنڈے گاڑ دیتے  
 ہیں کعبہ اقدس کے پاس اور فتح اطرق کے پاس مسجد بیت المقدس  
 کے پاس اور مسجد طور سیناء کے پاس پھر جبرئیل فرشتوں کو دنیا میں پھیل جانے  
 کا حکم فرماتے ہیں فوراً فرشتے دنیا کے اسلام میں پھیل جاتے ہیں  
 اور کوئی محلہ گھر گھر اور کشتی جس میں مومن مرد اور مومنہ خواتین  
 ہوں باقی نہیں رہتا کہ فرشتے وہاں نہ گئے ہوں ہاں جس گھر میں کتا یا سوسر  
 یا شراب یا ناپاک آدمی یا تصویر ہو وہاں نہیں جاتے فرشتے  
 اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں اور لا الہ الا اللہ  
 پڑھتے رہتے ہیں اور امت محمدیہ کی امت کے لئے استغفار کرتے  
 رہتے ہیں جتنے کہ جب صبح صادق کی پوچھنے لگتی ہے تو آسمان پر  
 چڑھ جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں  
 اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائیو! آپ حضرات کہاں سے آ رہے

الابیت فید کلب او خنزیر او خیر او جنب من  
 حرام او صورۃ فیسبحون ولقد سون ویهللون  
 ویستغفرون لامۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
 حتی اذا کان وقت الفجر یعدون الی السماء  
 فیستقبلہم سکان السماء الدنیا فیقولون لہم  
 من این اقبلتم فیقولون کنا فی الدنیا لان اللیلۃ  
 لیلۃ القدر لامۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال  
 سکان سماء الدنیا ما فعل اللہ بہم وجواجرہم  
 فیقول جبریل علیہ السلام ان اللہ غفر لہم اجمعہم  
 وشفعہم فی طالعہم فترفع ملائکۃ سماء الدنیا  
 اصواتہم بالتسبیح والتقدیس والثناء علی  
 رب العالمین شکرًا لما اعطاه اللہ ہذا الامۃ  
 من المغفرۃ والرضوان ثم تشیعہم ملائکۃ  
 سماء الدنیا الی السماء الثانیۃ ثم کذلک سماء  
 بعد سماء الی السابعۃ ثم یقول جبریل علیہ السلام  
 یا سکان السموات ارجعوا فترجع ملائکۃ کل  
 سماء الی مواضعہم ویرجع سکان سدرۃ  
 المنتہی الی السدرۃ فیقول سکان السدرۃ این  
 کنتم فیجیبون مثل ما اجابوا اهل السماء  
 الدنیا فترفع سکان السدرۃ فیقول سکان  
 السدرۃ اصواتہم بالتسبیح والتقدیس فتسبح  
 جنۃ المادی ثم جنۃ النعیم ثم جنۃ عدن  
 ثم الفردوس فیسبح عرش الرحمن فیرفع  
 العرش صوتہ بالتسبیح والتعلیل والثناء  
 علی رب العالمین شکرًا لما اعطی ہذا الامۃ

میں پھر دیوی آسمان پر رہنے والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ حق تعالیٰ  
 جل مجدہ نے بندوں کے اور ان کی ضرورتوں کے سلسلہ میں کیا کیا؟ حضرت  
 جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے نیک حضرات کو بخش دیا  
 اور بد نصیبوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کرنے کا وعدہ فرمایا  
 پھر حق تعالیٰ نے اس امت کو جو بخشش و رضا عطا فرمائی ہے اس سے  
 خوش ہو کر فرشتے شکر یہ کے طور پر حق تعالیٰ شانہ کی حمد و ثنا بیان فرماتے  
 ہیں اور بلند آواز سے سبح قدوس کے ذکر میں رطب اللسان ہو جاتے  
 ہیں پھر انہیں دیوی آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک رخصت  
 کرتے ہیں اسی طرح یکے بعد دیگرے ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں پھر  
 حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر پہنچنے والو اپنی اپنی جگہ لوٹ  
 جاؤ چنانچہ ہر آسمان کی فرشتے اپنی اپنی جگہ چلے جاتے ہیں اور سدرہ  
 کے فرشتے سدرہ پہنچ جاتے ہیں سدرہ کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں  
 کہ تم کہاں تھے؟ یہ فرشتے وہی جواب دیتے ہیں جو اب بھی آسمان  
 کے فرشتوں نے دیا تھا یہ سن کر سدرہ کے فرشتے بھی بلند آواز سے  
 تسبیح و تقدیس میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ان کی آواز میں جنّت  
 المادی، جنّت النعیم، جنّت عدن اور فردوس میں منیبتی میں پھر عرش  
 الرحمن تک پہنچ جاتی ہیں اور عرش بھی اس امت کو دئے گئے العالیات  
 کا شکر بجالانے کے لئے رب العالمین کی تسبیح و تقدیس میں اور حمد و ثنا  
 میں لگ جاتا ہے حق تعالیٰ نے پوچھنا ہیہ حالانکہ اسے سب کچھ معلوم ہے  
 کہ اسے عرش! تو نے اپنی آواز کیوں بلند کی عرش عرض کرتا ہے کہ اے  
 میرے رب مجھے خبر ملی ہے کہ کل آپ نے امت محمدیہ کے نیک حضرات  
 کو بخش دیا اور ان کے بدوں کے سق میں آپ نے ان کی شفاعت  
 قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے عرش  
 تو سچ کہتا ہے میرے پاس امت محمدیہ کے لئے ایسے ایسے اعزاز  
 ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ



فيقول الله عز وجل وهو اعلم باعرشي لم رفعت  
منونك فيقول الله بلغني انك قد غفرت البارحة  
لصالحى امة محمد صلى الله عليه وسلم و  
شفعت صالحها فى طالحها فيقول الله تعالى  
صدقت يا عرشي ولا امة محمد عندى  
من الكرامة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت  
ولا خطر على قلب بشر وقيل ان جبريل عليه  
السلام اذا نزل من السماء ليلة القدر لا يدع  
احدا من الناس الا سلم عليه وما فحه وعلامة  
ذلك اشفع ارجل لا وترقيق قلبه وتد ميع عينيه  
ولهذا روى ان النبى صلى الله عليه وسلم كان  
مهموما لاجل امته فقال الله تعالى يا محمد  
لا تغتم فاني لا اخرج امتك من الدنيا حتى اعطيهم  
درجات الانبياء وذلك ان الانبياء عليهم  
الصلاة والسلام تنزل عليهم الملائكة بالروح  
والرسالة والوحى والكرامة وكذلك انزل  
بالملائكة على امتك فى ليلة القدر بالتسليم  
والرحمة منى -

**فصل:** والامارة فى انها ليلة القدر

ان تكون ليلة طلاقة سحمة لا حارة ولا

بارحة وقيل لا يسمع فيها نباح الكلاب

وتطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع

كالطست وتكشف عجايبها لارباب

القلوب والولاية واهل الطاعة لمن يشاء

والله تعالى من المؤمنین من عباد الله على قدر

کسی انسان کے دل میں ان کا تصور ہی آیا۔

کہتے ہیں جب حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر

میں آسمان سے اترتے ہیں تو ہر مسلمان کو سلام

کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس وقت انسان

کا روگٹا روگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے، اور

آنکھوں میں آنسو ڈبڈباتے ہیں۔

اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول

ہے کہ آپ اپنی امت کی وجہ سے غمگین رہا کرتے تھے۔

حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

آپ اپنا دل میلانا کہیں، میں آپ کی امت کو دنیا سے

اس وقت نکالوں گا جب انہیں انبیاء کے درجات

عطا فرما دوں گا۔ جس طرح انبیائے کرام پر حضرت

جبریل علیہ السلام کتاب رسالت، وحی اور بزرگی لیکر

اترتے ہیں اسی طرح آپ کی امت پر شب قدر میں

نہشتے سلام اور میری رحمت لے کر اترتے

ہیں۔

☆

شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ وہ شب

شب قدر کی نشانی

نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ

مٹھتی بلکہ درمیانی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ شب قدر میں کتے

نہیں بھونکتے اور اس کی صبح کو سورج طشت کی طرح پھیکا

پھیکا نکلتا ہے گویا اس کی کہیں ہی نہیں جو اہل دل، اصحاب

ریاضت اور اطاعت گزار ہیں ان کے لئے شب قدر کے

عجایبات کھول دئے جاتے ہیں اور ان میں سے بھی ہر ایک کے

لئے نہیں بلکہ حق تعالیٰ اپنے جن مومن بندوں پر ان کے احوال

احوالهم واقسامهم ومنازلهم في القرب من الله عز وجل

**فصل:** وصلاة التراويح سنة النبي صلى الله

عليه وسلم ملاءيلة وقيل ليلتين وقيل ثلاثا ثم انظر ولا فله

يخرج وقال لو خرجت لغرضت عليكم ثم انها اسديت في ايام

عمره فلذلك اضعفت اليه لانه ابتداءها والحديث

المروى في ذلك عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها

ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل في شهر رمضان

فصلى في المسجد وصلى الناس بصلاة فلما كانت

الليلة الثانية كثر الناس حتى عجز المسجد

عن اهله فلم يخرج اليهم حتى خرج لصلاة الفجر

فلما صلى الفجر اقبل على الناس وقال لهم انه

لم يخيف على شانكم الليلة ولكن خشيت ان

تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عن ذلك

قالت وكان صلى الله عليه وسلم يرغبهم في

احياء رمضان من غير ان يامرهم بعزيمة

فتو في رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر

على ذلك في ايام خلافة ابي بكر الصديق رضي

الله عنه وصدا من خلافة عمر رضي الله عنه

وروى عن علي رضي الله عنه انه قال انما اخذ

عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هذه التراويح

من حديث سمعه مني قالوا وما هو يا امير

المؤمنين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول ان لله تعالى حول العرش مرفعا

يسمى حظيرة القدس وهي من النور فيها

ملائكة لا يحصى عددهم الا الله عز وجل

اقسام اور قرب وبعديں منازل کے اعتبار سے کھولنا چاہیے۔

**نماز تراویح** نماز تراویح نبی اکرم صلعم کی سنت ہے آپ

نے نماز تراویح ایک رات یا دو رات یا تین رات پڑھی پھر

صحابہ کرام نے آپ کا انتظار کیا لیکن آپ حج سے باہر تشریف

نہیں لائے اور فرمایا کہ اگر میں باہر آجاتا تو نماز تراویح تم پر فرض

ہو جاتی

پھر نماز تراویح عمدہ

فاروقی میں برابر پڑھی گئی اسی لئے یہ آپ کی طرف منسوب ہے

اور کہا جاتا ہے کہ اس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا کی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلعم رمضان

میں ایک رات کو کمرے سے باہر تشریف لے گئے اور آپ نے نماز

پڑھی اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی دوسری رات کو

لوگوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ پوری مسجد میں بھین نہ سما سکے لیکن

آپ ان کے پاس تشریف نہیں لے گئے بلکہ صبح کی نماز کے لئے

نکلے نماز پڑھ کر آپ نے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ آج

کی رات تمہارا جمع ہونا مجھے معلوم تھا لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں

ارات کی نماز فرض نہ ہو جائے پھر تم اسے ادا نہ کر سکو، صدیقہ

فرماتی ہیں کہ آپ لوگوں کو رمضان کی راتوں میں نیام کی ترغیب

دیا کرتے تھے لیکن بطور حرب و فرض کے نہیں پھر رحمت عالم

سدھار گئے اور عمدہ صدیقی میں اور ابتدا میں عمدہ فاروقی میں

اسی سنت پر قائم رہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے تراویح کا مسئلہ ایک حدیث سے لیا جسے آپ نے مجھ سے سنا تھا

لوگوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین وہ کیا حدیث ہے؟ فرمایا میں نے

اللہ کے رسول صلعم سے سنا: آپ فرماتے تھے کہ عرش کے ارد گرد

جو جگہ ہے اسے خضیرۃ القدس کہا جاتا ہے وہاں نور ہی نور ہے



يعبدون الله تعالى عبادة لا يفترون ساعة فاذا كان  
 ليالي شهر رمضان استاذنوا ربهم ان ينزلوا الى  
 الارض فيصلون مع بنى آدم فكل من مسلم من  
 امة محمد صلى الله عليه وسلم او مسرورا سعد  
 سعادة لا يثقي بعد ها ابد ا فقال عمر رضی اللہ  
 عنه اذ ذاك فنحن احق بهذا فجمع للتراويح  
 وسنها وروى عن علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ  
 انه خرج في اول ليلة من شهر رمضان فسمع  
 القرآن في المساجد فقال نور الله قبر عمر كما نور  
 مساجد الله بالقرآن وكذا لك يروى عن عثمان  
 ابن عفان رضی اللہ عنہ في لفظ آخر ان عليا  
 رضی اللہ عنہ اجتاز بالمساجد وهي تزهر بالقناديل  
 والناس يصلون التراويح فقال نور الله عز وجل  
 على عمر قبره كما نور مساجدنا وروى عن النبي  
 صلى الله عليه وسلم انه قال من علق في بيت من  
 بيوت الله قنديلا لم تنزل الملائكة تستغفر  
 له وتصلي عليه وهم سبعون الف ملك حتى  
 يطفأ ذلك القنديل وعن ابي ذر الغفاري  
 رضی اللہ عنہ انه قال صلينا مع رسول الله صلى  
 عليه وسلم فلما كانت الليلة الثالثة والعشرون  
 قام فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل ثم لما كانت  
 الليلة الرابعة والعشرون لم يخرج اليها فلما  
 كانت الليلة الخامسة والعشرون خرج وصلى  
 بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا له لو فلقنا ليلتنا  
 هذا لكان حسنا فقال صلى الله عليه وسلم

اور اس قدر فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور  
 سب اللہ تعالیٰ کی لگاتار عبادت میں مصروف رہتے ہیں وہ بھی  
 کے لئے بھی نہیں سہنتے یہ فرشتے رمضان المبارک کی راتوں میں  
 حق تعالیٰ شانہ سے زمین پر اترنے کی اجازت لے لیتے ہیں اور  
 نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں پھر اگر کوئی امتی نہیں  
 لیتا ہے یا فرشتے اسے چھو لیتے ہیں تو اسے ایسی دائمی سعادت  
 نصیب ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی بد نصیب و محروم  
 ہوتے ہی نہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا پھر تو ہم اس سعادت  
 کے بہت ہی حق دار ہیں چنانچہ آپ نے لوگوں کو جماعت کے  
 ساتھ تراویح پر جمع فرمایا اور یہ سنت جاری فرمادی حضرت  
 علیؓ جب رمضان کی اول رات میں باہر آئے اور مساجد میں  
 قرآن پاک سنتے تو فرماتے حق تعالیٰ عمرؓ کی قبر کو نور سے بھرے  
 جس طرح انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن پاک سے منور فرمایا  
 یہی حضرت عثمانؓ بن عفان سے منقول ہے

اس حدیث کے ایک لفظ میں ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک نعت مسجد  
 سے گزرے تو ان میں قندیلیں روشن تھیں اور لوگ تراویح پڑھ  
 رہے تھے تو آپ نے حضرت عمرؓ کے لئے حسب سابق دعا فرمائی۔  
 رحمت عالم صلعم نے فرمایا کہ جو اللہ کے کسی گھر میں قندیل لٹکاوے تو ستر  
 ہزار فرشتے برابر اسکے لئے دعائے مغفرت و رحمت کرتے رہتے ہیں جب  
 ایک وہ قندیل جلتی رہے، ابو ذر غفاریؓ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ  
 صلعم کے ساتھ تراویح کی، نماز پڑھی ۲۳ ویں شب کو آپ نے ہمیں  
 کھڑے ہو کر نماز پڑھائی حتیٰ کہ تہائی رات گزر گئی پھر آپ ۲۴ ویں  
 شب کو مسجد میں تشریف نہیں لائے اور ۲۵ ویں شب کو آپ تشریف لائے  
 اور ہمیں آدھی رات تک نماز پڑھاتے رہے ہم نے کہا کاش ہمیں پوری  
 رات نماز پڑھاتے تو کیا اچھا ہوتا فرمایا جو امام کیساتھ قیام کر لے جب امام

انه من قام مع الامم حتى ينعرف كعب له قيام  
ليلة ولم يصل بنا في الليلة السادسة  
والعشرين فلما كانت الليلة السابعة  
والعشرون قام بنا وجمع اهله وصلى بنا حتى  
نخشبنا ان يفوتنا الفلاح قبل وما الفلاح  
قال السحور ..

**فصل** : يستحب لها الجماعة والجمهر

بالقرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها  
هكذا في تلك الليالي ويكون ابتداءها في  
الليلة التي يسفر صباحها غرة رمضان لانها  
ليلة من شهر رمضان ولان النبي صلى الله  
عليه وسلم كذلك صلاها ويكون فعلها بعد  
صلاة الفرض وبعد ركعتين بتسليمة لان النبي  
صلى الله عليه وسلم هكذا صلاها وهي عشرون  
ركعة يجلس عقب كل ركعتين ويسلم فهي خمس  
تروحيات كل اربعة منها تروحية دينية في  
كل ركعتين اصل ركعتي التراويح المستوننة اذا  
كان فردا واذا كان اما ما او ما مومنا و  
يستحب ان يقرأ في الركعة الاولى منها  
في اول ليلة من شهر رمضان الفائتة و  
سورة العلق وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق  
لانها اول سورة نزلت من القرآن عند  
امانا احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله  
وكانت عند جميع الائمة رضوان الله عليهم  
ثم يسجد في آخرها ثم ينهض فيبدأ بسورة

رايس نه ہو تو اس کے لئے رات بھر کے تيام کا ثواب کھا جائے  
بے پھر آپ نے ہمیں ۲۶ دن شب کو نماز نہیں پڑھائی  
پھر ۲۷ دن شب کو آپ نے اپنے تمام گھر والوں کو بویا  
اور ہمیں رات بھر نماز پڑھانے رہے، حتیٰ کہ ہمیں فلاح  
رسمی کے فوت ہو جانے کا ڈر ہوا۔ فلاح سحری کہ  
کہتے ہیں۔

**تراویح باجماعت** | تراویح کے لئے جماعت اور زور سے

تراویح مستحب ہے کیونکہ ان راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی  
طرح نماز پڑھی تھی۔ تراویح کی ابتدا درمضان المبارک کی پہلی  
رات ہی ہے کی جانی چاہیے کیونکہ یہ رات رمضان ہی کی رات  
ہے اور اس لئے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھی ہے  
تراویح عشاء کے فرض اور دو سنتیں پڑھ کر پڑھتی چاہیں  
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز تراویح پڑھی ہے تراویح کی  
پس رکعتیں ہیں ہر دو رکعت پر سلام پھیرا جاتا ہے اور ہر چار  
رکعت پڑھ کر قدرے توقف کیا جاتا ہے اس لئے پانچ تراویح  
ہوئیں کیونکہ ہر چار رکعتیں ایک ترویجہ ہیں اور ہر دو رکعت کی  
دل میں یہ نیت کر لے کہ میں تراویح مسنونہ کی دو رکعت پڑھوں  
کا خواہ تھا ہو یا امام ہو یا مقتدی ہو ماہ رمضان کی پہلی  
رات کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ علق کا پڑھنا  
مستحب ہے کیونکہ سورہ علق اترنے کے اعتبار سے ہمارے امام  
احمد بن حنبل کے نزدیک قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے اور  
اور دیگر تمام ائمہ کرام کے نزدیک بھی حق تعالیٰ شانہ کی ان  
سب پہ رخصا ہو۔ پھر پہلی رکعت کے سجدے ادا کرنے کے  
بعد دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو اور سورہ بقرہ شروع  
کر دے تراویح پڑھانے والوں کے لئے ماہ رمضان المبارک



البقرة ويستحب له قراءة الختمة كاملة ليسمع  
الناس جميع القرآن فيقفوا على ما فيه من الادب  
والنواهي والمواعظ والزواجر ولا يستحب  
الزيادة على ختمة واحدة لئلا يشق ذلك  
على المأمومين فيضجروا وتلحقهم السامة  
ويكروهوا الجماعة وثقلوا بها فيفوتهم اجر  
عظيم وثواب جزيل فيكون ذلك بسبب الامام  
فيعظم اثمه فيكون من الاثمين وقد قال  
النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك لمعاد  
رضي الله عنه اذ ان انت يا معاذ وذلك لما  
صلى بقوم وطول في القراءة وقطع احد هم  
الصلاة والفرد ثم شك ذلك الى النبي صلى الله  
عليه وسلم ويستحب تاخير الترتي الى آخر صلاة  
التراويح ويقرأ في الركعة الاولى سبح اسم  
ربك الاعلى وفي الثانية سورة الكافرون و  
في الثالثة سورة الاخلاص لان النبي صلى الله  
عليه وسلم كذلك كان يصلي ويكراه التنفل  
بين كل ترويحين ويكراه ان يصلي التراويح  
في مسجدين وكذلك صلاة التوافل في  
جماعة بعد التراويح في احدي الروايتين لانه  
هو التعقب وذلك مكروه عند الامام  
احمد رحمه الله تعالى روى عن انس بن  
مالك رضي الله عنه انه كرهه بل ينام  
نومة خفيفة ثم يقوم ويأتي بها شاء من  
النوافل والتشهد ثم يرجع الى منامه وهي

۲۶  
میں پورے قرآن پاک کا سنانا مستحب ہے تاکہ لوگ تمام  
قرآن حکیم سن لیں اور قرآن پاک کے تمام اوامر و نواہی  
مواعظ اور توجیحات سے آگاہ ہو جائیں پورے ماہ مبارک  
میں ایک ہی قرآن ختم کرنا مستحب ہے زیادہ نہیں تاکہ مقتدیوں  
پر گراں نہ گزرے اور وہ تنگ آکر اکتانہ جائیں اور جماعت  
ان کے لئے بارگراں اور ناپسند ثابت نہ ہو اور اس طرح  
وہ اجر عظیم اور بڑے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں اور  
امام کی وجہ سے ایسا ہو بنا بریں امام گنہ گار ہو اور گناہ میں  
سنگینی پیدا ہو جائے اسی جیسی صورت میں سرور عالم  
صلعم نے حضرت معاذ رضی سے فرمایا تھا کہ معاذ کیا تم لوگوں  
کو فتنہ میں ڈال رہے ہو؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نماز  
پڑھائی تھی اور لمبی سورت کی قرأت شروع کر دی تھی  
اس پر ایک مقتدی نے نماز توڑ کر اپنی علیحدہ نماز پڑھ  
لی تھی اس کی شکایت نبی اکرم صلعم سے کی گئی تھی اس پر آپ نے  
حضرت معاذ رضی کو ان الفاظ سے ڈانٹا تھا۔

وترترویح کے اخیر میں پڑھنا مستحب ہے وتر کی پہلی رکعت  
میں سبح اسم اوسری میں قل یا ایہا الکافرون اور تیسری میں سورہ  
اخلاص پڑھی جائے کیونکہ نبی اکرم صلعم اسی طرح پڑھا کرتے  
تھے اہر دو ترویحوں کے درمیان نفل کا پڑھنا مکروہ ہے اسی  
طرح دو مسجدوں میں تراویح کا پڑھنا مکروہ ہے اسی طرح  
ایک روایت کی رد سے تراویح کے بعد جماعت سے نوافل پڑھنے  
مکروہ ہیں کیونکہ یہ کھار ہے اور یہ امام احمد کے نزدیک مکروہ  
ہے حضرت انس بن مالک سے بھی اس کی کراہت منقول ہے  
بلکہ تراویح پڑھ کر کچھ دیر سو جانا چاہیے پھر اٹھ کر جتنے چاہے  
نوافل پڑھے اور تہجد پڑھے پھر سو جائے یہی رات کا اٹھنا ہے

جن کا حق تعالیٰ نے سورہ منزل میں ذکر فرمایا ہے اور اٹھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے فرمایا بلاشبہ رات کا اٹھنا بڑا دشوار ہے جس سے نفس پائمال ہوتا ہے اور اس وقت ذکر براہ راست دل سے ہوتا ہے دوسری روایت کی رو سے وہ بلا کہ اہت کے جائز ہے لیکن پچھلی رات میں پڑھو کیونکہ حضرت عمر نے فرمایا تم آخر کی رات کی فضیلت چھوڑ بیٹھے ہو، رات کے جس حصہ میں سوتے ہیں وہ مجھے اس حصہ سے زیادہ پیارا ہے جس میں وہ تزاریح پڑھتے ہیں۔

متعلقات شب قدر و ماہ رمضان | حق تعالیٰ نے فرمایا شب

میں فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اس رات روح الامین و حضرت جبریل اکی سرگردگی میں ستر ستر فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت جبریل سب کے امیر ہوتے ہیں اور آپ تمام بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں اور دیگر فرشتے لیٹے ہوئے مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں اور حق تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں کو جو شب بیدار ہیں اور نماز میں مصروف ہیں سلام کہتے ہیں جیسے یہ مسلم ہے کہ حق تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں سلام فرمائے گا چنانچہ فرمایا کہ مہربان پڑو گا سلام کہیگا اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ حق تعالیٰ اپنے اولیاء و مقرب بندوں کو دنیا میں بھی سلام کرے جن کے لئے اللہ کی طرف سے جنت سبقت کر چکی ہے اور جن کے قدم ازل میں نوازش و سعادت چوم چکی ہے جو گویا مخلوق سے فنا ہو چکے ہیں اور اپنے رب سے وابستہ رہ گئے ہیں اور حق تعالیٰ کے ذکر سے انہیں آرام و چین حاصل ہوتا ہے۔

شب قدر میں کوئی ایسی جگہ ہانی نہیں رہتی جہاں کوئی نہ کرئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہو یا قیام میں کھڑا ہو نہ ہو اور مومن مردوں اور عورتوں کو اور عبادت گزاروں کو سلام کہے اور کھڑے اور کھڑے ہوں اور عبادت گزاروں کی رات میں رات بھر فرزند ان و دختران اسلام کے لئے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ

ناشئة الليل التي اثنى الله عليها وذكرها وقال ان ناشئة الليل هي اشد وطأ و اقوم قيل و الرواية الثانية ان ذلك جائز غير مكروه لکنه لو خرد لما روى عمر رضى الله عنه قال تدعون فصل الليل آخر الساعة التي تاملون احب الى من الساعة التي تقومون۔

فصل آخر | يجتمع به ما يتعلق بليلة القدر و جميع شهر رمضان قوله عز وجل تنزل الملائكة والروح الذي هو جبريل عليه السلام و معه سبعون الف ملك و هو امير عليهم و جبريل عليه السلام يسلم على من كان قاعدا و الملائكة تسلم على من كان قائما و الباري سبحانه و تعالیٰ يسلم على عبادا من كان قائما كما جازان يسلم الله عز وجل على عبادا المومنين من اهل الجنة في الجنة بقوله سلام قول من رب رحيم نجازان يسلم على عبادا الابرار في الدنيا الذين سبقت لهم منا الحسنى و العناية و السعادة في الازل فانين عن الخلق الباتين بالرب المطئنين الى الحق فلا يبقى في ليلة القدر رقيقة الا و عليها ملك ساجد او قائم يدعون للمومنين و المومنات الا ان نعون كنيسة او بيعة او بيت النار او بيت الوثن او بعض اماكنهم التي يطرحون فيها الخبث فلا يزالون يدعون ليلتهم تلك للمومنين و المومنات و اما جبريل عليه السلام فلا يدع احدا من المومنين و المومنات الا يسلم



عليه ويما نحه ويقول له ان كنت في الطاعة  
 نسلا مر عليك بالقبول والاحسان وان كنت في  
 المعصية نسلا مر عليك بالعفران وان كنت في  
 النوم نسلا مر عليك بالرضوان وان كنت في  
 القبر نسلا مر عليك بالروح والريحان فهو قوله  
 عز وجل من كل امرئ سلام وقيل ان الملائكة  
 تسلم على اهل الطاعات ولا تسلم على اهل  
 العصيان فمنهم الظلمة ليس لهم نصيب في  
 سلام الملائكة واكل الحرام وقاطع الرحم  
 والتمام واكل اموال اليتامى فهو لا وليس لهم  
 نصيب في سلام الملائكة فاي مهيبة اعظم  
 من هذه المهيبة يهني شهرا اوله رحمة  
 واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ولا يكون  
 ذلك حظ في سلام ملائكة رب العصاة والابرار  
 فهل كان ذلك الا بعدك من الرحمن وكونك  
 من اهل الطغیان وموافق الشيطان وتخليك  
 بحلية سالكي سبيل النيران وبعدك وتجانفك  
 عن سالكي سبيل الجنان وهجرانك لطاعة من  
 بيد الصرار والاحسان فشهر رمضان شهر  
 الصفا وشهر الوفا وشهر الذاهرين وشهر  
 الصابرين وشهر الصادقين فاذا لم يؤثر في  
 اصلاح قلبك واقلاعتك عن معاصي ربك و  
 مجانبة اهل الشقاء والمجرثم فما السدى  
 يؤثر في قلبك فاي خير يرجى فيك واي بقية  
 بقيت فيك واي صلاح يترقب منك فتنبه يا

ایک ایک مومن مرد اور عورت کو سلام و مصافحہ کے بغیر نہیں دیتے  
 آپ اس طرح سلام کہتے ہیں کہ اگر آپ اطاعت گزار بندے  
 ہیں تو آپ پر قبولیت و احسان کے ساتھ سلام ہو اور اگر فسق و  
 فجور میں مبتلا ہیں تو بخشش کے ساتھ سلام ہو اور اگر آپ سوریہ  
 ہیں تو آپ پر رفاقت و ہارمی تعالیٰ کے ساتھ سلام ہو اور اگر آپ غیر  
 میں ہیں تو آپ پر رحمت و رزق کے ساتھ سلام ہو اسی کی طرف  
 حق تعالیٰ امن کل امر سلام سے اشارہ فرما رہے ہے کہ ہر حال کی طرف  
 سے ایسا سلام ہے کہتے ہیں کہ فرشتے فرما کر آ رہے ہیں کہ سلام کہتے ہیں  
 غداروں کو نہیں انہیں غداروں میں سے ظالم میں لہذا ظالموں کے  
 لئے سلام میں ذرا سا بھی حصہ نہیں اسی طرح حرام خوردن کا رشتے  
 توڑنے والوں کا چغلی کھانے والوں کا اور یتیموں کا مال کھانے  
 والوں کا فرشتوں کے سلام میں حصہ نہیں لہذا اس سے بڑھ کر اگر  
 کوئی مہینہ ہوگی کہ رمضان کا مبارک و عظیم مہینہ جس کے اول  
 میں رحمت اور میان میں مغفرت اور اخیر میں آگ سے برکت ہے اگر  
 جائے اور تم کو ان فرشتوں کے سلام میں کچھ بھی حصہ نہ ہے جو فرما رہے ہیں  
 اور غداروں کے رب کے فرشتے ہیں اس کی وجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ  
 تم اپنے مشفق و مہربان اللہ سے بہت دور ہو اور سرکش و منکر اور مرد  
 ہو اور شیطان کے مرید ہو اور ہنرمند کی راہ پر چلنے والوں کے قدم بہ قدم  
 ہو اور جنت کے راستہ پر چلنے والوں سے کہ سون دور ہو اور تم اس کی  
 اطاعت سے روگرداں ہو جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے۔  
 ماہ رمضان کہا ہے ؟ رمضان طہارت و وفا کا مہینہ ہے، ذکر کرنے  
 والوں کا مہینہ ہے، صبر کرنے والوں کا مہینہ ہے اور سچ بولنے والوں  
 کا مہینہ ہے اگر اس مہینہ میں تمہارے دل کی اصلاح نہیں ہوئی تو  
 تم اپنے رب کے گناہوں سے باز نہیں آئے اور بد بختوں اور مجرموں کے  
 علیحدہ نہیں ہوئے تو پھر کونسا مہینہ اور کونسا وقت تمہاری اصلاح

مسعین لما حل بك واستيقظ من رقدتك و  
 غفلتك وانظر الى الذي دهاك وشيع بقية  
 شهرك بالتوبة والالتوبة وتمتع لربها بالاستغفا  
 والطاعة لعلك تكون ممن تناله الرحمة والرفقة  
 وتودعها باسبال العبرات وابك على نفسك  
 المشرمة بالعريل والويل والنيابات فكم من  
 صائم لا يصوم مغيرة ابد او كم من قائم لا  
 يقوم بعدة ابد او العامل يعطى اجرا عند  
 فراقه من عمله وقد فرغنا من العمل فليت  
 شعري امقبول صيامنا وقيامنا اممضوب بهما  
 وجوهنا ياليت شعري من المقبول منا فنهليه  
 ومن المرود منا فخرته وقال النبي صلى الله عليه  
 وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع  
 والعطش ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر  
 السلام عليك يا شهر الصيام السلام عليك يا  
 شهر القيام السلام عليك يا شهر الايمان  
 السلام عليك يا شهر القرآن السلام عليك يا  
 شهر الانوار السلام عليك يا شهر المغفرة  
 والغفران السلام عليك يا شهر الدرجات و  
 النجاة من الدركات السلام عليك يا شهر  
 التائبين العابدين السلام عليك يا شهر العات  
 السلام عليك يا شهر المجتهدين السلام عليك  
 يا شهر الامان كنت للعامين حيسا للمتعين  
 النساء السلام على الفناديل والمصابيح الزاهية  
 والعيون الساهرة والدموع المعاطلة والمخار

کہ چکا اور تم سے کس غیر کی امید کہم جاسکتی ہے اور کونسی بد نصیبی ہے جو تم سے  
 چھوٹ گئی ہو اور تم سے کس نلاح کی امید اندھی جاسکتی ہے؟ آقا بل ترم بحال  
 اس مبارک وقت کو غنیمت مان جو آج تجھ پر سایہ لگن ہے اور خواب غفلت  
 سے جاگ جا اور جس نعمت نے تیرے قدم پر سے ہیں اس کی قدر کر اور جتنا رمضان  
 باقی ہے اسے توجہ و استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے خواست  
 کر اور اس میں استغفار و عبادت سے جس قدر بھی فائدہ اٹھایا جائے فائدہ  
 اٹھائے اور ان سعادت مندوں کی جماعت میں شامل ہو جائے جن کی قسمت  
 میں رحمت و رأفت ہے اور رمضان کو موٹے موٹے آنسو بہا کر رخصت کر اور اپنی  
 بد نصیبی پر جتنا بھی روبا جاسکے رو پیچ چیر کر آپس بچھ کر اور کف آنسو سے بل کر  
 زرا غور تو کر کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ اس رمضان کے بعد انہیں کبھی  
 روزے نصیب نہ ہو گئے اور بہت سے ایسے شب بیدار ہیں کہ اس رمضان  
 کے بعد انہیں جاگنے کی راتیں نہ ملیں گی اور مزدور کو کام سے فارغ ہو کر  
 مزدوری دی جاتی ہے ہم کام سے فارغ ہو چکے کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ  
 ہمارے دن کے روزے اور رات کی عبادت درجہ قبولیت حاصل کر چکے یا  
 ہمارے سونہوں پر مارنے گئے کاش ہم جانتے کہ حق تعالیٰ کی نگاہ میں کون سے  
 مقبول ہیں کہ ہم انہیں مبارکبادیں اور کرنے مرو دہیں کہ ہم ان سے اظہار ہمدردی کریں  
 ہمارے پیارے پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے روزے داروں  
 کو بچھڑا دیا اور پیاسا رہنے کے کچھ نہیں اور بہت سے شب بیداروں کو بچھڑا دیا  
 شب بیداری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے روزوں کے مہینہ تجھ پر سلامتی ہو اور  
 شب بیداری کے مہینہ تجھ پر سلام ہو ایسا ایمان و قرآن کے مہینے تو سلامت ہے  
 اے انوار تجلیات کے مہینے ہمارا اسلام قبول کرے رحمت و بخشش کے مہینے ہم  
 تجھے سلام کرتے ہیں اے وہ ماہ جس میں مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں اور  
 اے درکات جہنم سے نجات ملی ہے ہمارا سلام عقیدت قبول فرمائے تو بر کرنے  
 والوں اور عبادت گزاروں کے مہینے تیرے لئے سلامتی کی دعا میں ہیں اے عار نور  
 کے مہینے کاش تو ہمیشہ رہنا مجتہدوں کے مہینے تو ہم سے کبھی جدا نہ ہوئے اس کے



المنورة والعبرات المشكبة المتفطرة والانفاس  
 الصاعدة من القلوب المحترقة اللهم اجعلنا  
 من قبلة ميامهم وصلاتهم وبدلت  
 سيئاتهم بحسناتهم وادخلته برحمتك في  
 جناتك ورفعته درجاته يا ارحم  
 الراحمين -

**فصل:** في ذكر الاصل قال الله تعالى قد افلح  
 من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قوله قد افلح  
 فالفلاح على وجهين احدهما الفوز بالحسنة  
 والنجاة من النيران في العقبى ومن الآفات  
 والبليات في الدنيا والثاني اليقين والسعادة  
 بالتوفيق للطاعة في الدنيا والخلود في الجنان  
 في الاخرة قال الله عز وجل قد افلح المؤمنون  
 يعني سعدوا ونظيروا قد افلح من تزكى اى  
 وفق للزكاة وتطهيره ايمانته وتقواه من  
 الآثام واما من لم يترك فلا فلاح له قال  
 الله عز وجل لا يفلح المجرمون اى لا يفوزون  
 ولا يسعدون واما قوله من تزكى فقل  
 اختلف في ذلك فقال ابن عباس رضى الله عنهما  
 يعني من تطهر من الشرك بالبيان وقال الحسن  
 رحمه الله من تزكى يعني من كان صالحا و  
 عمله زاكيا ناميا وقال ابو الاحوص اعنى  
 به زكاة الاموال كلها وقال قتادة وعطاء  
 رضى الله ادا به زكاة الفطر لا غير و  
 وقوله وذكر اسم ربه فصلى قد اختلف في

يسته جو فداؤں کیلئے جس سے اور فرما نبرد اوردن کیلئے انیس ہے مجھ پریشاں سلامتی  
 ہوں اے قندیوں اور روشن چراغوں کے بہار آنکھوں اور گرنے والے آنسوؤں کے  
 روشن مسدود کے آنکھوں سے بننے اور پکینے والے گرم گرم آنسوؤں کے اور دلوں سے  
 اٹھنے والی خلی ہوئی آہوں کے عینے خدا حافظ اے اللہ ہمیں بھی اس حمایت میں شامل  
 فرما لیجئے جن کے آپ نے روز سے اور نماز میں قبول فرمائی ہیں جنکی برائیوں کو نیکیوں سے  
 بدل دیا ہے اور جن خوش نصیبوں کو آپ نے اپنی رحمت سے اپنی جنتوں سے نواز  
 دیا ہے اور درجات بلند عطا فرمائے ہیں اے سب سے زیادہ مہربان معبود  
 ہماری یہ دعا قبول فرما آمین تم آمین -

**عبید الفطر** حق تعالیٰ جل مجدہ فرماتے ہیں اسے کامرانی مل گئی جو پاک ہو اور  
 اس نے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا نماز میں تکبیر زائد جو بارہ ہیں کسب  
 اور دو گانہ اکیا۔ فلاح کامرانی اکی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے  
 کہ انسان آخرت میں جہنم سے نجات پا جائے اور اسے جنت مل جائے اور دنیا میں  
 آفات و حوادث سے محفوظ رہے دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ  
 دنیا میں عبادتوں کی توفیق عطا فرمادے اور اس طرح اسے دنیا میں خوش نصیبی  
 اور سعادت مل جائے اور آخرت میں وہ نعمتوں سے بھرپور جنت مل جائے  
 جس کے لئے دنیا میں عمر بھر دوزخ و صوب کربا رہا یا مومن کامرانی حاصل  
 کر چکے یعنی مومن ہر طرح کی سعادت لوٹ چکے اسی آیت کے ہم معنی قدر افلح  
 من تزكى اے یعنی جن کو ایمان کے تزکیہ و تطہیر کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق  
 نہیں دی گئی ان کے لئے بدبختی ہی بدبختی ہے اور فلاح نہیں فرمایا مجرم  
 فلاح نہیں پاتے یعنی مجرم کامیاب نہیں ہوتے۔ اور سعادت میں ان کے فلاح  
 نہیں چوستی۔ تزکی میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی جو  
 ایمان لا کر شرک سے پاک ہوا۔ حسن؛ یعنی جو صالح ہوا اور اس کا عمل پاکیزہ  
 اور بظیفے والا ہوا ابو الاحوص؛ یعنی جس نے اپنے قسم کے مال کی زکوٰۃ  
 نکالی، قتادہ، عطاء؛ یہاں صرف فطرہ مراد ہے کچھ اور مراد نہیں۔  
 و ذکر اسم ربه فصلى میں بھی اختلاف ہے ابن عباس؛ یعنی توحید کا قائل

ذک ابیضا فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما معناه  
 وحسب اللہ تعالیٰ وصلى الصلوات الخمس وقال ابو سعید  
 الحدادی رضی اللہ عنہ ذکر اسم ربہ بالتکبیر  
 وصلى یعنی خرج الی العید فصلى وقال دکیع بن الجراح  
 رحمہ اللہ زکاة الفطر لرمضان کسجدۃ السهو  
 للصلاۃ وفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 زکاة الفطر طہرۃ للصائم من الرقت فکأتھا  
 جبران للصائم ما دخلہ من النقصان بالاثام  
 من اللغو والرقت والکذب والغیبة والنمیمۃ  
 واکل الشبهات والنظر الی المستحسنت فجعلت  
 الفطرۃ مکفرۃ لہا متممۃ للصیام جابرۃ  
 لہا کالتوبۃ للذنوب والاستغفار لہا والسجود  
 للسهو فکأنما السجود للسهو شرع ترغیما  
 للشیطان اذا کان هو السبب فی ذلک فذلک  
 التوبۃ من المعاصی والفطرۃ لرمضان شرعنا  
 ترغیما لہ لان المعاصی الرقت الحاصل فی الصیام  
 سیبہ الشیطان اعاذنا اللہ وجبیع المؤمنین  
 من مکایدہ ومصایدہ وغوائلہ وسلمنا  
 من آفات الدنیا وبلایئہا وأخرجنا منہا برحمتہ  
 ومنہ آمین۔

**فصل:** وانما سمي العيد عيدا لانه يعيد الله  
 الی عبادہ الفرح والسرور فی یوم عید ہم وقیل  
 انما سمي عید لانه فیہ عوائد الاحسان من  
 اللہ وفوائد الامتنان منه للعید وقیل  
 لانه یعود العید فیہ الی التفریح والبکاء والیوم

اور بیچگانہ نمازیں ادا کرتا رہا۔ ابو سعید خدریؓ؛ یعنی کمپیوں کتا ہوا  
 عید گاہ گیا اور دو گانہ ادا کیا۔

دکیع بن جراحؓ؛ رمضان کا فطرہ نماز کے سجدہ سو کی طرح ہے۔  
 سرور عالم صلعم نے فطرہ روزے داڑوں کو گناہوں سے پاک کرنے  
 کے لئے فرض فرمایا ہے، روزوں میں گناہوں رلتو، فحش، جھوٹ،  
 غیبت، چغلی، شبہ والے کھانا کھانے اور خوبصورتی کی طرف دیکھنے  
 سے جو کمی آتی ہے اس کی تلافی کے لئے فطرہ سے تاکہ روزوں کا ثواب  
 پورا پورا ملے اور فطرہ نقصانات کا کفارہ ہو جائے جیسے استغفار کر  
 کے گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے اور سہو کا سجدہ کیا جاتا ہے اور یہ توبہ  
 اور سجدہ سہو گناہوں کا اور نماز میں کسی بیسی کا کفارہ بن جاتا ہے پھر  
 جیسے سجدہ سہو شیطان کو ذلیل کرنے کے لئے ہے کیونکہ شیطان ہی  
 نماز میں بھول کا سبب ہے اسی طرح گناہوں سے توبہ اور رمضان کے  
 روزوں کا فطرہ ہے کہ شیطان ان سے ذلیل و خوار ہوتا ہے کیونکہ گناہوں  
 سے توبہ اور رمضان کے روزوں کا فطرہ ہے کہ شیطان ان سے  
 ذلیل و خوار ہوتا ہے کیونکہ گناہوں کا اور فحش کلامی کا سبب شیطان  
 ہی ہے حق تعالیٰ جل مجدہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شیطان کی  
 مکاریوں، پھندوں اور ہلاکتوں سے بچائے اور ہمیں دنیوی آفات  
 و حوادث سے محفوظ فرمائے، اور اپنے احسان و کرم اور لوازش  
 و مہربانی سے ہمیں صحیح و سالم دنیا سے نکال کر لے جائے آمین  
 ثم آمین۔

عید کی وجہ تسمیہ | عید کو عید اس لئے کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ عید کے  
 دن اپنے بندوں پر فرحت و سرور سال کے سال لوٹا کر لانا ہے یا اس لئے  
 کہ عید کے دن بندوں پر حق تعالیٰ کے احسانات و فوائد بار بار لوٹ کر  
 آتے ہیں یا اس لئے کہ بندے عید کے دن ہر سال اپنے اللہ کے سامنے روئے  
 اور گڑگڑاتے ہیں اور حق تعالیٰ انہیں بار بار صبات و عطیات سے لوازش



رہتا ہے یا اس لئے کہ عید کے دن اللہ کے بندے اپنی حسب سابق پاکی کی طرف لوٹ جاتے ہیں یا حق تعالیٰ شانہ کی اطاعت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف فرض روزوں سے سنت کی طرف اور ماہ رمضان کے روزوں سے شوال کے چھ روزوں کی طرف لوٹ آتے ہیں یا اس لئے کہ اس دن اہل انوار سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں لوٹ جاؤ یا اس لئے کہ یہ وعدوں اور وعیدوں کا دن ہے اور وعدے جانے کا اور مزید بخشش کا دن ہے اور کینزوں اور غلاموں کی آزادی کا دن ہے اور اس دن حق تعالیٰ شانہ اپنے قریب و بعید بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کمزور بندے اپنے بھٹنے والے اور عبت کرنے والے معبود کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے بھاگے ہوئے اس کے پاس لوٹ آتے ہیں۔

وہب بن منبہ: حق تعالیٰ نے جنت عید کے دن پیدا کی، درخت طوبیٰ عید کے دن لگایا، حضرت جبریل کو وحی کے لئے عید کے دن چنا اور عید ہی کے دن فرعون کے جاؤ گے بخشے گئے۔

رحمت عالم صلعم نے فرمایا کہ عید کے دن جب لوگ عید گاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ انہیں جھانک کر فرماتا ہے کہ اے میرے بند تم نے میرے ہی لئے روزے رکھے اور میرے ہی لئے نمازیں پڑھیں جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدرات کو حق تعالیٰ شانہ رمضان میں روزے رکھنے والوں کو پورا پورا اجر عطا فرماتا ہے اور عید کی صبح کو فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ زمین پر اتر کر جاؤ چنانچہ فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر گلی اور آباد راستے کے کھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عید کی آواز سے جسے انسان و جن کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہے اعلان کرتے ہیں اے امت محمدیہ اپنے عزت و جلال والے رب کی طرف نکل کر آؤ جو عمل قبیل قبول فرما کر اجر جزیل عطا فرماتا ہے اور ہر

الرب عزوجل نبيہ الى الرحمة والعطاء وقيل انهم عادوا الى مثل ما كانوا عليه من الطهارة وقيل معناه عادوا من طاعة الله الى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الفريضة الى السنة ومن صوم رمضان الى صوم سنة ايام من شوال وقيل انما سمي عيدا لانه يقال للمؤمنين فيه عودوا الى منازلكم مغفور لكم وقيل انما سمي العيد عيد الاذن فيه ذكر الوعد والوعيد ويوم الجزاء والمزيد ويوم عتق الامماء والعبيد واقبال الحق الى القريب من خلقه والبعيد ووجود الانابة والاقبنة من العبد الضعيف الى الغفور الوود وقال وهب بن منبه رحمه الله خلق الله الجنة ليوم الفطر وغرس شجرة طوبى ليوم الفطر وامطفى جبريل عليه السلام للروحى ليوم الفطر والسحرة وجدوا المغفرة ليوم الفطر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان يوم الفطر وخرج الناس الى الجبابة اطلع الله تعالى عليهم فيقول عبادي لي صمتتم ولي صليتتم انصروا مغفور لكم وروى عن انس بن مالك رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الفطر يوفى الله تعالى فيها اجر من صام شهر رمضان فيا امر الله تعالى عذابة الفطر ملائكته فيهبطون الى الارض ويقومون على افواه السكك ومحامع الطرق فينادون بصوت يسعه جميع الخلائق الا الانس والجن يا امة محمد اخرجوا الى ربكم عزوجل يقبل

القلیل و یعطی الجزیل و یغفر الذنب العظیم فاذا  
 برزوا الی مصلاتهم وصلوا و دعوا المیدع لهم  
 الرب تبارک و تعالی حاجۃ الافضاها و لا سوا  
 الا حاجہ و لا ذنبا الا غفرۃ فی نصر فون مغفور لهم  
 و فی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما فاذا كانت  
 لیلۃ الفطر سمیت تلك اللیلۃ لیلۃ المجائزۃ  
 و اذا كان عداۃ الفطر یث اللہ ملائکته  
 فی کل البلاد فیہبطون الی الارض فیقومون  
 علی افواہ السکک و ینادون بصوت یسعد  
 کل من خلق اللہ تعالی الا الجن و الانس فیقولون  
 یا امۃ محمد اخرجوا الی رب کریم یعطى الجزیل  
 و یغفر الذنب العظیم فاذا برزوا الی مصلاتهم  
 یقول اللہ تعالی ملائکته یا ملائکتی فیقولون  
 لیک و سعدیک فیقول لهم ما جزاء الاجیر  
 اذا عمل عملہ فیقولون الہنا و سیدنا و مولانا  
 توفیۃ اجرہ قال فیقول الجلیل جل جلالہ اشهد  
 کم یا ملائکتی انی قد جعلت ثواب صیامہم  
 من شہر رمضان و قیامہم رضائی و مغفرتی ثم  
 یقول یا عبادی سلونی فوعزتی و جلالی لا تسألونی  
 الیوم فی جمعکم ہذا شیئا الاخرتکم الا اعطیکم  
 و لا لدنیاکم الا نظرت لکم و عزتی و جلالی لا استر  
 علیکم عثراتکم ما راقتہونی و لا احزیکم  
 و لا افضحکم بین اصحاب الحدود و انصر فوا  
 مغفورا لکم قد رضیتہونی و رضیت عنکم  
 قال فتفرح الملائکۃ و تستبشرون بما یعطی اللہ عز و جل

سے بڑا گناہ بخش دیتا ہے پھر جب مسلمان عید گاہ پہنچ کر نماز پڑھ لیتے  
 ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو حق تعالیٰ سے جو مراد مانگتے ہیں حق تعالیٰ ان کی  
 وہی مراد بر لاتا ہے اور جو مانگتے ہیں وہی دیتا ہے اور جس گناہ سے توبہ  
 کرتے ہیں وہی معاف فرمادیتا ہے پھر وہ گناہ اس حال میں لوٹتے ہیں  
 کہ ان کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں اور بخشے ہوئے ہوتے ہیں حضرت  
 ابن عباس والی حدیث میں ہے کہ عید الفطر کی رات کو لیلۃ المجائزہ کہا جاتا  
 ہے اور عید الفطر کی صبح کو حق تعالیٰ شانہ تمام شہروں میں فرشتے بھیلا دیتا ہے  
 فرشتے زمین پر اتر کر ہر گلی اور ہر راستے کے کھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور  
 بلند آواز سے جسے بجز انسانوں اور جنوں کے اللہ کی ساری مخلوق سنتی  
 ہے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے امت محمد! اپنے عورت والے رب کی طرف  
 نکل کر آؤ جو اجر جزیل عطا فرماتا ہے اور عظیم گناہ بھی بخش دیتا ہے  
 پھر جب مسلمان عید گاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو حق تعالیٰ فرشتوں کو  
 آواز دیتا ہے کہ اے میرے فرشتو! فرشتے کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں،  
 فرماتا ہے جب مزدور اپنا کام کر چکے تو اس کی کیا جزا ہے؟ فرشتے عرض  
 کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود ہمارے سردار اور ہمارے آقا آپ سے  
 اس کی پوری پوری مزدوری دیں، فرماتا ہے: فرشتو! میں تم کو گواہ  
 بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے ماہ رمضان کے روزوں اور  
 شب بیداری کے صلہ میں اپنی رضا اور مغفرت مقرر کر دی پھر حق تعالیٰ  
 شانہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! مجھ سے مانگو مجھے اپنی عزت و جلال  
 کی قسم تم آج اس اجتماع میں اپنی آخرت کے سلسلہ میں جو کچھ مانگو گے وہ  
 میں تم کو ضرور دوں گا اور دنیا کے ہارے میں جو کچھ مانگو گے اسے میں تم  
 کو حسب مصلحت دوں گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہاری  
 لغزشوں پر پردہ ڈال دوں گا جب تک تم میری شریعت کے  
 پابند رہو گے اور گنہ گاروں میں تم کو ذلیل و رسوا نہیں کروں گا لہذا  
 اس حال میں گھروں کی طرف لوٹ جاؤ کہ تم بخش دئے گئے تم نے مجھے



هذه الامة اذا افطروا من شهر رمضان -  
**فصل** : واربعة اعياد لاربعة اقوام آخدها  
 عيد قوم ابراهيم قوله عز وجل فنظر نظرة في  
 النجوم فقال اني سقيم وذلك ان قومه خرجوا  
 الى عيد لهم فتخلف ابراهيم عليه السلام  
 عندهم واعتل بعله ولم يخرج معهم لانه لم  
 يكن على دينهم فلما خرجوا اخذ فأسا وكسر  
 اصنامهم وجاء بالفأس فوضعه في عنق الصنم  
 الكبير فلما رجوا قالوا من فعل هذا يا لهنتا  
 القصة الى آخرها فغار خليل الرحمن عليه  
 السلام لربه فأتعب بيدا بكر الامنام  
 وخاطر بنفسه في ولاية رب الانام فآكرمه  
 ربه بالخلعة واحيا على يد الطيور الملية واخرج  
 من ظهرا اهل الرسالة والنبوة وجعله ابا  
 المصطفى خير البرية صلى الله عليه وسلم واما  
 العيد الثاني فهو عيد قوم موسى كريم الرحمن عليه  
 السلام قوله عز وجل موعدكم يوم الزينة  
 قبيل سمى يوم الزينة لانه عز وجل زين موسى  
 وقومه باهلاك عدوهم فرعون وقومه  
 فخرج مع فرعون وقومه اثنان وسبعون ساحرا  
 وقيل ثلاثة وسبعون ومعهم سبعائة عصا  
 وجبل وجعلوا في وسط العصا الملتفة بالحبال  
 الزئبق والخلاتق قيام على الرمضاء واشد حر  
 الشمس فسال الزئبق فسعت العصا الملتفة بالحبال  
 فتخيل للناس انها حيات تسعى وهي لا تتحرك

راغبي كليا اور میں تم سے راضی ہو گیا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عیدوں کے  
 حق تعالیٰ اس امت کو جو کچھ عطا فرماتا ہے اس سے شے خوش ہوتے ہیں اور کھل اٹھتے ہیں  
**چار قوموں کی چار عیدیں** | چار قوموں کی چار عیدیں ہیں ایک عید  
 حضرت ابراہیم کی قوم کے فرمایا: پھر آپ نے تاروں پر ایک نگاہ  
 ڈالی اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں اس کی تفصیل یہ ہے کہ خلیل اللہ کی قوم  
 اپنی عید کے لئے میدان میں نکلی لیکن خلیل اللہ نہیں نکلے اور بیماری کا  
 عذر پیش کیا کیونکہ آپ قوم کے دین پر نہ تھے جب سب لوگ چلے گئے  
 اور سناٹا ہو گیا تو آپ نے کلہاڑی لیکر تمام بت توڑ ڈالے اور سب  
 سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی جب لوگ واپس آئے تو  
 پوچھنے لگے کہ اے ابراہیم یہ فعل ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے  
 خلیل اللہ کو اپنے رب کی وجہ سے غیرت آئی اور آپ نے بت توڑنے کی  
 زحمت گوارا کی اور رب العالمین کی محبت کی خاطر اپنی جان خطرے میں  
 ڈال دی بالآخر آپ کے رب نے آپ کو جلالت زدستی کی عزت سے  
 سرفراز فرمایا اور آپ کے ہاتھوں پر میرے ہوئے پندروں کو زندہ فرما  
 دیا اور آپ کی پشت سے ارباب رسالت و نبوت پیدا فرمائے اور آپ کو تمام  
 مخلوق میں بہترین انسان یعنی پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا والد بنایا  
 دوسری عید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہے فرمایا تمہارے رب سے  
 کا وقت زینت کا دن ہے اس دن کو زینت کا دن اس لئے کہا گیا کہ جو تمہارے  
 نے اس دن فرعون کو اور اس کی قوم کو تباہ کر کے حضرت موسیٰ کو اور  
 آپ کی قوم کو زینت بخشی اور اس دن کو ان کے لئے عید کا دن مقرر فرمایا  
 بالآخر فرعون کے اور اس کی قوم کے ساتھ ۲ یا ۳ یا ۴ جا دو گر حاضر ہوئے جن  
 کے ساتھ سات سو عصا اور رسیاں تھیں جن کے وسط میں پارہ بھرا  
 ہوا تھا لوگ دھوپ اور گرمی میں مقابلہ دیکھنے کے لئے کھڑے تھے  
 سورج کی گرمی زور پکڑ گئی تھی جس سے پارہ پھیل گیا تھا اور کڑیاں  
 جن پر رسیاں لپیٹی ہوئی تھیں دوڑنے لگی تھیں لوگوں کو وہم ہوا کہ یہ پتھر

فأوجس في نفسه خيفة موسى على قومه قال ربما  
 يتوهمون ان الذي فعلوا حق فينقص ايمانهم او  
 يرتدون فقال الله تعالى لموسى عليه السلام وائق  
 عمالك فالتقاها فاذا هي حية كأعظم جبل يكون  
 ولها عينان تتقدان ناراً ودمدمة وهيبة فاقبلت  
 على ما صنعوا من السحر والحبال والعصى فتلقفتها  
 يعني تلقفتها باسرها ولم تتغير بانفتاح بطن ونقصان  
 حركة ولا زاد في طولها ولا في عرضها فالتقى السحر  
 ساحدين له عز وجل وكان اكبرهم اسد شعون  
 فقالوا آمنا يعني صدقنا برب هارون وموسى ثم  
 اقبلت الحية على عسكر فرعون وقومه فانهمزوا  
 وقيل مات منهم حسون الفا القصة بطولها و  
 اما الثالث فهو عيس عيسى عليه السلام وقومه  
 قوله تعالى اللهم ربنا انزل علينا ما نؤذي من السماء  
 تكون لنا عيد الاولنا و آخرنا و آية منك الآية  
 وذلك ان الحواريين قالوا يا عيسى هل يستطيع  
 ربك ان يعطيك ان سالته ان ينزل علينا ما نؤذي  
 من السماء قال لهم عيسى عليه السلام اتقوا الله  
 فلا تسألوا البلاء ان كنتم مومنين فانها ان انزلت  
 ثم كذبتكم بها عوقبتكم قالوا نريد ان ناكل منها  
 فقد جعنا ونطمئن قلوبنا يعني تسكن قلوبنا الى ما  
 تدعونا اليه من الايمان والتصديق ونعلم ان قد  
 صدقتنا بانك نبي ورسول ونكون عليها يعني  
 على المائدة من الشاهد من عند بنى اسرائيل  
 اذا رجعنا اليهم والحواريون هم الذين اجابوا

دور ہے ہیں حالانکہ وہ اصل میں متحرک نہ تھیں حضرت موسیٰ بھی دل ہی  
 دل میں ڈرنے لگے جس کی آپ نے اپنی قوم کو خبر نہیں ہونے دی فرمایا  
 کہ جو لوگ یہ وہم کرتے ہیں کہ وہ اصلی سانپ تھے یا تو ان کے ایمان میں  
 نقص ہے یا مرتد ہیں حق تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا  
 کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دیجئے پھر پکاپک وہ ان جھوٹے سانپوں کو گل  
 جائے گا جو جادو گروں نے بنائے ہیں بالآخر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا  
 ڈال دیا پھر اچانک وہ ایک بڑے اونٹ کے برابر اڑدھا بن گیا اس کی  
 دونوں آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح روشن تھیں اور وہ بھنکار  
 مار رہا تھا پھر وہ جادو کے سانپوں کی طرف بڑھا اور ان سب کو نالہ  
 بنا لیا اور اس کا پیٹ نہیں بھرا اور نہ اس کی تیزی میں کمی آئی اور نہ وہ عرض  
 و طول میں بڑھا آخر کار جادو گروں نے اپنی ہار تسلیم کر لی اور رب العالمین  
 کے آگے سجدے میں گر گئے سب سے بڑے جادو گر کا نام شعون تھا تمام  
 جادو گروں نے اقرار کر لیا کہ ہم ہاروں اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے  
 آئے پھر یہ اڑدھا فرعون کی اور فرعونوں کی طرف بڑھا جس کے ڈر سے  
 تمام لوگ بدحواس ہو کر بڑی طرح سے بھاگے کتے ہیں اس دن بھیڑیں  
 پھل کر پچاس ہزار فوت ہوئے تھے۔ تیسری عید حضرت عیسیٰ کی اور عیسائیوں  
 کی ہے فرمایا کہ اے اللہ! ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خون اتارنا کہ  
 ہمارے اگلے پھلوں کے لئے وہ دن عید کا ہو اور تیری نشانی ہو اس  
 کی تفصیل یہ ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ کیا آپ کا  
 رب اس پر قادر ہے کہ اگر آپ اس سے دعا کریں تو وہ آپ پر آسمان سے  
 خون اتارے حضرت عیسیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ  
 ڈر جاؤ اور اس سے اپنی آزمائش کا سوال نہ کرو کیونکہ اگر تمہارے سوال  
 پر حق تعالیٰ خون اتار دے پھر تم اسے جھٹلاؤ تو تم کپڑے جاؤ گے انہوں نے  
 کہا ہم اس میں سے کھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم بھوکے ہیں اور آپ کی نبوت  
 و دعوت ایمان پر بھی اس معجزے کو دیکھ کر ہمارے دل مطمئن ہو جائیگی



عیسیٰ علیہ السلام حین مر بہم وہم بیت المقدس  
 یقرون الثیاب وبالنبطیۃ الحواریون المبیضون  
 للثیاب وھما ثنا عشر رجلاً لما قال لھم عیسیٰ  
 علیہ السلام من النصارى الى الله یعنی من  
 ینصرنی مع اللہ علی اھل الکفر والطغیات  
 فادعوھم الی طائفة اللہ تعالیٰ و توحیدہ  
 فقال الحواریون نحن انصار اللہ فترکوا معیشتھم  
 واتبوا عیسیٰ علیہ السلام یرجعون معہ ایما  
 توجہ من الارض فیرون العجائب والمعجزات  
 التی تجری علی یدہ علیہ السلام فامی وقت جاھوا  
 واطحوا الی الطعام اخرج عیسیٰ یدہ فاخرج  
 من الارض لکل واحد منھم رغیفین ولنفسہ  
 كذلك وكان جبرئیل علیہ السلام یمشی  
 معہ ویرید العجائب ویؤیدہ ویصوۃ بالاشیاء  
 فما زال عیسیٰ علیہ السلام یرمی بنی اسرائیل  
 العجائب ولم یزدھم ذلك الا بعد ان تعدی  
 واتباعہ حتی اخرج معہ یوما خمسة آلاف بطریق  
 من بنی اسرائیل وسألوا المائدۃ مع الحواریین  
 فقال عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عند ذلك  
 اللهم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون  
 لنا عیداً اولنا و آخرنا یقول تكون عید المن  
 كان فی زمانا عند نزول المائدۃ وتكون عیداً  
 لمن بعدنا تكون المائدۃ آیۃ منک وارضنا  
 یعنی المائدۃ وانت خیر الرازقین من غیرک  
 فانک خیر من یرزق قال اللہ تعالیٰ انی منزلھا

اور ہم اسرائیلیوں کے سامنے اس خوان کی گواہی بھی دے سکیں گے جب ان  
 کے پاس جائیں گے، حواری وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی  
 دعوت قبول کر لی تھی جب آپ بیت المقدس میں ان کے پاس سے گزرتے تھے  
 اور وہ کپڑے دھو رہے تھے نبطی زبان میں حواری کپڑے دھونے  
 کو کہتے ہیں یہ بارہ آدمی تھے جب حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ کی رضا  
 کے لئے کون میری مدد کرے گا؟ اور آپ نے انہیں اللہ کی اطاعت کی اور توحید  
 کی دعوت دی، اس پر حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے بلند کرنے  
 کے لئے آپ کی مدد کے لئے تیار ہیں پھر انہوں نے کپڑے دھونے چھوڑ دیے  
 اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو گئے جہاں آپ جاتے تھے وہیں یہ حواری  
 آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور جو عجائبات و معجزات آپ سے سرزد ہوتے  
 تھے حواری انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور جب انہیں بھول گئی  
 تھی اور کھانے کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت عیسیٰ اپنا دست مبارک  
 نکال کر زمین سے اٹھا کر ہر ایک کو درود و طیال دیر یا کرتے تھے اور  
 اپنے لئے بھی درود و طیال اٹھایا کرتے تھے اور حضرت جبرئیل آپ کے  
 ساتھ ساتھ آتے تھے اور آپ کو عجائبات دکھاتے رہتے تھے اور ضرورت  
 کی چیزوں سے آپ کی تائید و مدد کرتے رہتے تھے، حضرت عیسیٰ اسرائیلیوں  
 کو برابر معجزے دکھاتے رہے اور وہ آپ کی تصدیق و پیردی سے دور  
 ہٹتے رہے حتیٰ کہ ایک دن آپ کے ساتھ پانچزار پادری تھے ان سب  
 مع حواریوں کے حضرت عیسیٰ سے خوان کی درخواست کی ان کی درخواست  
 پر حضرت عیسیٰ نے حق تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان  
 سے خوان اتار کہ وہ خوان اترنے کا دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے  
 لئے عید کا دن ہو اور تیرے طرف سے ایک نشانی ہو یعنی جو لوگ خوان  
 کے اترنے کے وقت موجود ہیں ان کے لئے بھی اور بعد میں آمینوالوں کے  
 لئے بھی خوان نعمت کے اترنے کا دن عید کا دن مقرر ہوا اور ہمیں یہ خوان  
 بطور رزق کے دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے حق تعالیٰ نے



یعنی المائدة علیکم فمن یكثر بعد منکما ی بعد  
 نزولها منکم فانی اعذبه عذابا لای اعذبه احدا  
 من العالمین فانزلها الله علیهم یوم الاحد من  
 السماء سحبا طریبا وخبز ارقا وتمر وقیل کانت  
 سفرة فیها سحبة مشویة وعند رأسها صلح  
 وعند ذنبها حل و فیها خمسة الرغفة علی کل  
 رفیف زیتونة و خمس رمانات و تمرات  
 قد نقد حولها من البقول ما خلا الکرات و  
 قیل ان عیسیٰ علیہ السلام قال لا یجایبه و هم  
 جلوس فی روضة هل مع احد منکم شیء فجاء  
 شعون بسکتین صخیرتین و خمسة الرغفة  
 وجاء آخر بشیء من السویق فعمد عیسیٰ علیہ السلام  
 تطعمهما صغارا و کسر الخبز فوسعه فلقا و  
 وضع السویق و ثوما صلی رکعتین و دعاریه فالتقی  
 الله سبحانه و تعالیٰ علی اصحابه شبیه  
 السدات ففتح القوم اعینهم و زاد الطعام حتی  
 بلغ الرکب فقال عیسیٰ علیہ السلام للقوم کلوا  
 و سوا الله و لا ترفعوا و امنهم ان یجلسوا  
 حلقا حلقا فجلسوا و اکلوا و سوا الله تعالیٰ  
 حتی شبعوا و هم خمسة آلاف رجل و قیل  
 انهم كانوا الف رجل و ثمانمائة رجل و امرأة  
 من بین فقیر و جالع و بین من له قاعة الی  
 رفیف واحد او اکثر فصدروا کلهم شباها  
 یجمدون ربهم و اذا ما علیها کھیئتہ  
 و رفعت السفرة الی السماء و هم ینظرون قال

فرمایا کہ تم پر خوان اتار دوں گا لیکن خوان کے اترنے کے بعد تم میں سے جو  
 شخص اس کی ناشکری کیجے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا  
 جس عذاب میں میں نے دنیا میں کسی کو آج تک مبتلا نہ کیا ہوگا، چنانچہ  
 انوار کے دن حق تعالیٰ نے ان پر تازہ مچھلی اور چپا تیاں اور کجھوڑیں اتاریں  
 کتے ہیں کہ خوان اترا جس میں بھنی ہوئی مچھلی تھی اور مچھلی کے سر کے پاس  
 نمک تھا اور دم کے پاس سرکہ تھا اور پانچ روٹیاں تھیں اور ہر روٹی  
 پر دوغن زیتون تھا اور پانچ انار تھے اور کجھوڑیں تھیں اور ان کے چاروں  
 طرف گندنا کے علاوہ ساگ تھے کتے ہیں یہ سب حضرات ایک باغ میں  
 تشریف فرما تھے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا: کیا کسی کے پاس کچھ ہے یہ سن کر  
 شعون دو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور پانچ روٹیاں لائے اور ایک اور شخص  
 سٹولایا حضرت عیسیٰ نے ان دونوں مچھلیوں کا چھوٹی چھوٹی روٹیاں  
 بنائیں اور روٹیوں کے ٹکڑے کر کے انہیں علیحدہ علیحدہ رکھا اور سٹولے  
 رکھ لیا اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور اپنے رب سے دعا مانگی پھر  
 حق تعالیٰ نے آپ کے تمام ساتھیوں پر غنودگی طاری فرمادی پھر جب  
 لوگوں نے آنکھیں کھولیں تو کھانا اس قدر بڑھ گیا تھا کہ تمام حاضرین کو  
 کافی ہو گیا حضرت عیسیٰ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اس میں  
 سے خبردار اٹھانا نہیں اور آپ نے حکم فرمایا کہ حلقے باندھ کر بیٹھیں اور  
 کھا میں چنانچہ یہ حلقے باندھ کر بیٹھ گئے اور بسم اللہ کر کے سب کھانے  
 لگے حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے یہ سب پانچ ہزار تھے یا ۸ سو عورت مرد  
 جن میں فقیر بھی تھے، بھوکے بھی تھے اور ایک روٹی کے بھوکے بھی تھے  
 پھر سب بیٹ بھر کر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھے اور خوان  
 پر کھانا جوں کاتوں موجود رہا اور خوان ان کی نگاہوں کے سامنے آسمان  
 پر اٹھالیا گیا، فرماتے ہیں کہ جس فقیر نے اس دن خوان سے کھانا کھا  
 وہ مالدار ہو گیا اور میرنے وقت تک مال دار ہی رہا اور اسے کھا کر  
 اپنا بچ درست ہو گئے اور بیمار تندرست ہو گئے۔



فاستغنى كل فقير اكل منها ليو مئذ ولم يزل غنيا  
 حتى مات و برئى كل زمن وشفى كل مريض و قال  
 مقاتل فتادى عيسى عليه السلام للقوم اكلتم  
 فقالوا نعم قال فلا ترفعوا قالوا لا نرفع و رفعوا  
 فبلغ كل ما رفعوا من الفضل اربعة وعشرين  
 مكتلا فامنوا عند ذلك بعيسى عليه السلام  
 وصد قوا به ثم رجعوا الى قومهم اليهود يعنى  
 بنى اسرائيل و معهم فضل المائدة فلم يزل بهم  
 قوما حتى ردوهم عن الاسلام و كفروا بالله  
 تعالى و جحدوا بنزول المائدة لا فسخروهم الله  
 عز و جل و هم نيام خنازير و هم ذكور و ليس فيهم  
 صبي و لا امرأة و قيل فى ذلك مائدة و وضع عليها  
 طعام محدود و صدر عنها الجمر العفير و الجمع  
 الكثير و هى بحالها فكيف بانئذ الرضا و بساط  
 الرحمة التى لاحد لها و لا نهاية فى الخبر  
 ان لله عز و جل مائة رحمة و احدها انزلها  
 الى خلقه فيها يتراحمون و بها يتعاطفون  
 و اخر تسعة و تسعين عند لا يرحم بها عبدا  
 يوم القيامة و فى خير آخر ان يوم القيامة تبسط  
 الجليل جل جلاله بساطا ملجدا يدخل ذلوب  
 الاولين و الاخرين فى حواشيه و يبقى السباط  
 فارغا حتى يتناول اليه ابليس رجاء ان نصيبه  
 و مع ذلك لا ينبغي لكل عاقل لبيب ان يتجمل  
 على ذلك و يغتر به و لا يغلبه الرجاء فيهلك  
 بل يبذل مجهودة و يستفرغ وسعه فى اداء الواجبات

مقاتل، حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے بلند آواز سے پوچھا کیا تم سب  
 کا پیٹ بھر گیا؟ سب نے کہا جی ہاں فرمایا اس میں سے اٹھانا مت  
 لوگ بولے نہیں ایسا نہ ہو گا لیکن لوگوں نے کچھ چھپا کر اٹھا بھی لیا اور  
 انہوں نے اس سے ۲۴ ٹوکریاں بھر لیں یہ معجزہ دیکھ کر سب لوگ  
 حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے اور سب نے آپ کی نبوت کی تصدیق فرما  
 دی پھر یہ لوگ اپنی قوم اسرائیلیوں کے پاس گئے اور ان کے پاس  
 خوان کی چرائی ہوئی چیزیں موجود تھیں یہ اپنی قوم میں رہے سے  
 حتیٰ کہ قوم نے انہیں اسلام سے مزید کر دیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور  
 خوان کے اترنے کا انکار کر دیا پھر حق تعالیٰ نے انہیں سوتے سوتے سو رہے  
 بنا دیا سب مرد مسخ کر دیے گئے بچے اور عورتیں مسخ نہیں ہوئیں، کہتے  
 ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خوان پر تھوڑا سا محدود  
 کھانا تھا جس سے ایک بہت بڑی جماعت نے شکم سیر ہو کر کھایا  
 اور کھانا جوں کا توں باقی رہا پھر حق تعالیٰ کی رضا کے خوان کا کیا  
 ٹھکانہ اور اس کے رحمت کے فرش کی کیا حد و غایت ایسی صحیح حدیث میں  
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سوجھے کٹے ان میں سے ایک حصہ اپنی  
 مخلوق کی طرف اتار دیا جسکی وجہ سے تمام مخلوق آپس میں ایک دوسرے  
 سے محبت کرتی ہے اور ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ حصے  
 اپنے پاس محفوظ رکھے جن کے ذریعہ حق تعالیٰ قیامت کے دن اپنے  
 بندوں پر رحم فرمائے گا ایک حدیث میں ہے کہ جلیل جل جلالہ اس قدر وسیع  
 عزت و مجد کا فرش بچھائے گا جس کے کناروں پر تمام انگوں اور پھولوں  
 کے گناہ سما جائیں گے اور درمیان حصہ خالی رہے گا حتیٰ کہ ابلیس بھی اس  
 امید پر اس کی طرف سراٹھا کر دیکھے گا کہ شاید اسے بھی اس میں سے کچھ  
 مل جائے۔ اس وسیع رحمت کے باوجود ہوشیار و عاقل شخص کے لئے  
 لازم ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اور اسے آڑ بنا کر عمل کرنا  
 نہ چھوڑے اور انتہائی تیزی سے سرگرم عمل رہے اور اس پر امید غالب

وانتهاء النواهي وتسليم الامور الى الله عز وجل  
ويكثر من الاستغفار والتوبة ويكون دائماً على  
حذر لا خوف مؤلم من رحمة الله ولا رجاء  
يوقع في ارتكاب المحارم واهمال الاوامر بل  
يتبع بين ذلك سبيلاً كما قيل لو وزن خوف  
المومن ورجاؤه لا اعتد لا فليكن خوفه ورجاؤه  
كجناحي الطائر والطار لا يطير بجناح واحد  
واما العيد الرابع فهو عيد امة محمد صلى الله  
عليه وسلم وقد ذكرنا ما يتعلق به اول المجلس  
**فصل في** يشترك المومن والكافر في العيد  
ذكل له عيد، فالمومن عيداً لرضا الرحمن والكا  
عيداً لرضا الشيطان المومن يذهب الى عيداً  
وعلى راسه تاج الهداية وعلى عينيه علامة  
فكرة العبرة وعلى اذنيه استماع الحق وعلى  
لسانه الشهادة بالترجيد وفي قلبه المعرفة  
واليقين وعلى عنقه رداء الاسلام وفي وسطه  
منطقة العبودية ومعدنه المحاريب والجوامع  
والمساجد ومعبوده رب العباد والبرية ثم  
التضرع منه والسؤال ويقابله الرب بالاجابة  
والنوال ثم يحمله دار الكرامة والجنان والحق  
يذهب الى عيداً وعلى راسه تاج الخسران  
والضلال وعلى اذنيه ختم الغفلة والحجاب  
وعلى عينيه علامة السهو والشهوات وعلى  
لسانه ختم الشقاوة والابعاد وعلى قلبه  
ظلمة الذكوة والجحود وعلى وسطه زئجار

نہ آنے پائے ورنہ ہلاک ہو جائیگا بلکہ مقدر ربہ اور امر پر عمل پیرا ہے اور  
ممنوعات سے باز رہے اور تمام کام اللہ تعالیٰ کو سونپ دئے اور کثرت سے  
استغفار و توبہ کرتا رہے اور ہمیشہ احتیاط پیش نظر رکھے اور اللہ سے  
ڈرتا رہے اور اٹنا ڈرے بھی نہیں کہ اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جائے اور  
انہی امید باندھے جو ممنوعات میں جھونکے سے اور نیک عمل چھڑا دے بلکہ  
ایک درمیانی راہ اختیار کی جائے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر مومن کے  
خوف ورجا کا وزن کیا جائے تو دونوں بے برابر نکلیں اسلئے خوف ورجا کو  
ایک پر مسمے کے دونوں طرف کے بازوؤں کے قائم مقام سمجھنا چاہیے ظاہر ہے  
کہ پرندہ ایک بازو سے نہیں اڑا کرتا۔ چوتھا عید ہم مسلمانوں کی عید ہے ہم  
اس عید کے متعلقات اس مجلس کے آغاز میں بیان کر آئے ہیں۔

مسلمانوں کی عید۔ عید ہر قوم منائی ہے لیکن مومنوں کی عید رحمت کی  
راضی ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے اور کافروں کی عید شیطان کی خوش  
کرنے کے لئے ہوتی ہے ایک مسلمان جب عید گاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو  
اس کے سر پر ہدایت کا تاج، آنکھوں میں عبرت پر غور و فکر کی علامت  
اور کانوں پر حق بات سننے کے آثار، زبان پر توحید کا اقرار اور دل میں  
یقین و معرفت کندھوں پر اسلام کی سپادر اور کمر میں عبودیت و غلامی کا  
ٹپکا ہوتا ہے، اس کی قرار گاہ محراب و مسجد اور میدان عید گاہ ہے اور  
اس کا معبود رب العالمین ہے پھر وہ اپنے رب کے قدموں پر گر کر  
گر گڑ گڑا کر اور بلک بلک کر دعائیں مانگتا ہے اور رب سے اپنی مرادیں  
طلب کرتا ہے اور حق تعالیٰ جل مجدہ بھی اس کی دعائیں قبول فرماتے  
ہیں اور عطیات و تحائف سے نوازتے ہیں پھر آپ قیامت کے دن  
انہیں عزت والے گھروں میں اور جنتوں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔

کافر اس حال میں عید مناتے ہیں کہ ان گھروں پر گھاٹوں اور گرہوں  
کا تاج ہوتا ہے، کانوں پر غفلت و حجاب کی مہریں ہوتی ہیں آنکھوں  
پر غفلت اور شہوتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، زبان پر جھوٹی



الفرقة والشقاوة والشقاق وموضع  
البيعة والكنائس اوبیت النار ومعبودة  
الوثن والاصنام ومصيرة آخر الحی  
سند والنیران۔

**فصل:** لیس العید لبس الناعمات واکل  
الطیبات ومعانقة المستحسنات والتمتع باللذات  
والشهوات لکن العید یظهر علامۃ القبول  
للطاعات وتکفیر الذنوب والمخیطیات وتبذیل  
السیئات بالحسنات والبشارۃ بارتفاع الدرجات  
والخلع والطرف والہبات والکرامات و  
الشراح الصدر بنور الایمان وسکون القلب  
بقویۃ الیقین وما ظہر علیہ من العلامات  
والفجارجور العلوم من القلب علی الالسنۃ  
والنواع الحکم والفصاحة والبلاغۃ کما  
قیل ان رجلاً دخل علی علی رضی اللہ عنہ و  
کرما اللہ وجہہ فی یوم عید وهو یأکل الخبز  
الخشکار فقال له الیوم یوم العید وانت  
تأکل الخبز الخشکار فقال الیوم عید لمن قبل  
صومه وشکر سعیدہ وغفر ذنبہ الیوم لنا  
عید وغدا لنا عید وکل یوم لنا عید اللہ  
فیہ فہو لنا عید فینبغی لکل عاقل ان یتزک  
النظر الی الظاہر ولا یتقید بہ بل یکون نظراً  
فی یوم العید نظر التفکر والاعتبار فی شہ  
العید بیوم القیامۃ فلیذکر نفع الصور لوم  
القیامۃ عند سماع صوت بوق السلطان لیئلتہ

دردی کی مرثیت ہے، دلوں پر انکار و تمرد کی سیاہی چھائی ہوئی ہے اور کمر  
میں اختلاف و شقاق کا پتکا بندھا ہوا ہے اور اس کی قرار گاہ بندھ  
یاگر جایا آتش کہہ ہے اور اس کے معبود سر نیان اور بت ہیں اور آخر کار  
وہ لوٹ کر جہنم کا اور آگوں کا نوالہ بن جاتا ہے۔

عید کیا ہے؟ یہ عید نہیں کہ انسان نرم و نازک اور عمدہ پوشاک  
پہن لے عمدہ سے عمدہ اور لذیذ ترین کھانے کھائے احباب آواز  
کو گے لگائے، طرح طرح کی لذتوں سے فائدہ اٹھائے اور دل کے تمام  
ازمان پورے کر لے، مسلمانوں کی عید یہ ہے کہ عبادتوں کے مقبول ہونے  
کی آگاہی اور قصوروں کے مٹنے کی اور برائیوں کی نیکیوں میں بدل جانے  
کی نشانیاں ظاہر ہوں اور درجات بلند ہونے کی اور فخرانہ خلعت  
نوادرات، عطیات اور اعزازات کی بشارت ہو اور نور ایمان سے  
اور ایمان و یقین کی علامتوں سے دل چمک اٹھے اور قوت یقین  
سے اور اس کے متعلقات سے دل کو سکون حاصل ہو اور دلوں سے  
ذبانوں پر علوم کے سمندر موج مارنے لگیں اور رنگ برنگ کی حکمتوں  
کے اور فصاحت و بلاغت کے موتی زبانوں سے جھڑنے لگیں جیسا کہ  
منقول ہے کہ عید کے دن ایک شخص حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر  
ہوا آپ خشک روٹی کھا رہے تھے وہ حیرت میں رہ گیا اور بولا کہ  
آج تو عید ہے اور آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ  
عزیز بھائی، آج ان کی عید ہے جن کے حق تعالیٰ جل مجدہ نے روزے  
قبول فرمائے اور ان کے عملوں کی قدر و منزلت کا اور ان کے گناہ معاف  
کرنا ہے ہمارے لئے آج بھی عید ہے اور کل بھی عید ہوگی بلکہ ہمارے  
لئے تو ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں  
ہنا بریں ہر ذی ہوش انسان کا فرض ہے کہ ظاہر کی قید میں پھنس کر  
نہ رہ جائے بلکہ وہ عید غور و فکر اور عبرت و نصیحت کے ساتھ منائے  
اور عید کو قیامت کا دن سمجھ لے اور عید گاہ روزانہ ہونے سے کچھ برتر

العید و اذا بات الناس ليلة العید و رقدوا  
منتظرین عیدهم متاهبین له فینذکر الرقود  
بین النفتین و اذا رأى الناس صبیحة یوم  
العید وقد خرجوا من قصورهم و بیوتهم  
مختلفی الاحوال متفاوئی اللباس و الالوان کل  
ذی زی و حلیة واحد منهم مسرور و واحد  
مغموم و واحد راكب و آخر ماش  
و واحد غنی و آخر فقیر و واحد فی فرح  
و آخر فی ترحة فلیذکر تفاوت اهل  
القیامة اهل الطاعة مسرور و اهل المعصية  
مغموم المتقی راكب و المجرم الشریک متعثر  
مکروب علی وجهه مسحوب او ماش کما  
قال عز من قائل یوم نحشر المتقین الی الرحمن  
وفدا الی ربکنا علی النجائب و نسوق المجرمین  
الی جهنم و رد الی عطاشا و الزاهد و  
العارف و البذل کل واحد فی راحة و غنی  
عند ملیکهم و محبوبهم تحت ظل العرش  
علیهم الخلی و الحلل و النوار الطاعات و المعارف  
علی وجوههم طاهرة و هی نفس لا و مشرقة  
و بین ایدیم مراند علیها الواح الاطعمة  
والاشربة و الفواکح حتی یقضى حساب  
الخلائق ثم یسیرون الی الجنة الی منازلهم  
التي اعد الله تعالی لهم و فیها ما تشتهیه  
الانفس و تلتذ الاعین مسالین رأت و لا  
أذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر قال الله تعالی

پہلے شاہی بگل لی آواز سے تو اسے قیامت کے دن والا مور تصور کر لے  
اور جب لوگ شب عید میں سو جائیں اور علی الصبح عید کی تیاری  
کرنے کے لئے اٹھیں تو وہ دو صورتوں کے درمیان والی بند کویا  
کر لیں اور جب عید کی صبح کو لوگوں کو بن سنور کر عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے  
دیکھیں کہ وہ اچھے اچھے لباسوں میں اپنے اپنے محلوں اور گھروں سے نکل رہے  
ہیں اور ان کے احوال رنگ اور لباس مختلف ہیں اور طرح طرح کے بناؤ  
سنگھار کر کے اور آراستہ ہو سو کر گھروں سے باہر آ رہے ہیں اور ہر شخص غم  
و خنداں اور ہنسا ہنسا ہے جب کہ اللہ کا باغی کافر و مشرک بچہ  
مغموم ہیں جیسے ان پر اس پرانگی ہو اللہ کے دنا دار بندے سوار لہوں  
پر سوار ہیں اور غدار و مشرکوں سے چلا بھی نہیں جانا اور قدم قدم پر  
ٹھوکر پی کھا رہے ہیں اور مومنوں کے بل گرسے پٹسے ہیں اور انہیں  
گھسیٹا جا رہا ہے یا وہ پیدل گھسیٹ رہے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا  
وہ دن یاد کرو جس دن ہم پر ہیزگاروں کو اٹھا کر بطور مہمان کے رحمن کی  
طرف لے جائیں گے یعنی وہ انتہائی نفیس اونٹوں پر سوار ہوں گے اور  
بھروسوں کو پیاسے جہنم کی طرف بانک کر لے جائیں گے تو خیال کرے کہ دنا دار  
و غدار کے حالات میں کتنا عظیم تفاوت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو ٹھوکر  
دے لے اور اپنے اللہ سے لو لگانے والے اور اللہ کی رضا کو دل و جان سے  
چاہنے والے سب اپنے شہنشاہ اور محبوب کے پاس چین آرام کے ساتھ  
شان استغنا سے عرش بریں کے سایہ میں آرام فرما رہے ہیں اور ان پر  
زیورات جوڑے اور اطاعتوں کے نوار ہیں اور ان کے چروں سے  
معارف و انوار ٹپک رہے ہیں چہرے سگفتہ اور شاداب ہیں اور  
ان کے سامنے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں جن پر طرح طرح کے کھانے  
مشروب اور میوے چنے ہوئے ہیں جب تک ان کا یہی حال ہے جب تک  
لوگوں کا حساب و کتاب نہ ہو جائے پھر وہ اپنی اپنی منزلوں میں جو  
اللہ نے ان کے لئے تیار کی ہیں چلے سائیں گے جہاں وہ چیزیں گئی



فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة عين جزاء بما  
كانوا يعملون واما الراغب في الدنيا فهو في نياحة  
وبكاء وعناء متنوع عما فيه القوم من النعم بدنيا  
وتناوله الحرام والشبهات وتخليطه في طاعة ربه  
وهو يرى مكانه في الجنة فلا يصل اليه حتى  
يجرح ما عليه من الحقوق والكافر ينادى  
بالويل والثبور لساقدا عين وانكشف له من  
النواع العذاب والنكال والهوان والمهلك  
والخلود في النيران واذا رأى الاعلام قد نشرت  
والاولوية قد ضربت فليذكر اهل الاسلام  
امحاب الاعلام حين ينادى منادى الرحمن بالتوجه  
الى زيارة رب الانام الى دار السلام بامر السلام  
واذا رأى الصفوف قد استكملت والخلائق  
قد اجتمعت فليذكر وقوف الخلائق بين يدي  
الجبار وصفوف الفجار والابرار يوم النشر الذي  
فيه تظهر الاسرار واذا رأى الناس قد انصرفوا  
من الجبانة فكل يرجع الى ما قد قسم له من  
دار او مسجد او خان فليذكر منصرف الخلائق  
من بين يدي الملك المنان الديان الى الجنة  
او الى النار كما قال ذو العظمة والامتنان ويوم  
تقوم الساعة ليومئذ يفرقون فرليق في الجنة  
وفرليق في السعير۔

دنوں کو بھائے اور آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کرے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا  
نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں کھنکی، فرمایا وہ نعمتیں کسی کو معلوم  
نہیں جو اہل جنت کے لئے چھپا کر رکھی گئی ہیں اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک  
پہنچانے والی ہیں اور انہیں ان کے عملوں کے صلہ میں ملنے والی ہیں اس کے  
برعکس دنیا دار آہ و بکا میں اور شدت و تکلیف میں مبتلا ہیں اور ان  
پر تمام نعمتوں کے دروازے بند ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا میں نعمتوں سے  
ناگاہ اٹھالیا تھا اور حرام و شہہ والی چیزیں استعمال کرتے رہتے تھے  
اور رب کی اطاعت میں دوسروں کی اطاعت بھی ملالی تھی۔ یہ بد بخت  
جنت میں اپنے گھر دیکھیں گے لیکن ان تک پہنچنے والے نہیں جب  
دیکھ کہ ان حقوق سے سبکدوش نہ ہو جو ان کے ذمہ دار ہیں اور کافر اپنی  
ہلاکت و بربادی کے ثمرے لگائیں گے کیونکہ ان کے سامنے طرح طرح کے  
عذاب ہو گئے اور وہ قسم قسم کی ذلتیں اور رسوائیاں اپنی آنکھوں سے  
مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور دائمی آگ میں انہیں رہنا ہو گا اور  
جب مسلمان دیکھیں کہ جھنڈے گاڑ دئے گئے اور پھر پے اڑ رہے  
ہیں تو انہیں حشر کے دن کے جھنڈے والے یاد آجائے چاہئیں۔  
جبکہ رحمن کا منادی اعلان کریگا کہ رب العالمین کی زیارت کے لئے  
دارالسلام میں رب سلام کے حکم سے پہنچ جاؤ اور جب عید گاہ میں عظیم  
اجتماع میں صف بندی دیکھو تو یاد کرو کہ ایک دن جبار تمہارے  
آگے تمام انگلوں اور پھیلوں کو جمع ہونا ہے اور اس کے آگے کھڑا ہونا ہے  
گو یا عید گاہ کا اجتماع موقف کے اجتماع کو یاد دلانا ہے موقف میں  
غداروں، ناسنجاروں کی اور وفاداروں کی اور فرمانبرداروں اسب ہی  
کی قطاریں ہونگی یعنی اللہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھ اٹھ کر میدان

عشر میں جمع ہو گئے اور لوگوں کے تمام راز طشت ازہام سر جانیگے رے اللہ راقم الحروف کو معہ تمام توحید پرستوں کے اس دن کی رسوائی سے بچانا آمین اور جب دو گانہ سے  
تاریخ ہو کر لوگ عید گاہ سے اپنے اپنے گھر یا مسجد یا سرے کی طرف واپس جانے لگیں تو یاد کرو کہ ایک دن اللہ کی تمام مخلوق اسی طرح حسن اعظم شہشاہ حقیقی اور عادل  
معبود کی حضوری سے جنت یا بہنم کی طرف واپس جائیگی جیسا کہ حسن اعظم و عظیم معبود نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ متفرق ہوں گے ایک گروہ جنت میں

جائے گا اور ایک جہنم میں لے لے اللہ اپنی مریانی سے یہیں بھی جنتی بنا اور جہنم سے پناہ دے آمین۔

## ساتویں مجلس

فی فضائل ایام العشر قوله عز وجل والفجر  
ولیل عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی  
ذلك قسم لذی حجر قوله والفجر اختلف الناس  
فی ذلك فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما عنی بالفجر  
صلاة الصبح ولیل عشر ہی عشر ذی الحجۃ والشفع  
الخلق والوتر هو اللیل واللیل اذا یسر یعنی اذا ذهب  
هل فی ذلك قسم لذی حجر ای ان ذلك قسم  
لذی لب وعقل وجواب القسم قوله لعلی ان  
ربك لیامرصاد وقال مقاتل رحمه الله والفجر  
عنی به عداۃ جمع یوم النحر ولیل عشر وہی  
عشر لیل قبل الاضحی وانما سماها عز وجل لیل  
عشر لانها تسعة ایام وعشر لیل والشفع والوتر  
انما الشفع فآدم وحواء علیہما السلام والوتر فهو  
اللہ عز وجل واللیل اذا یسر اذا قبل وہی  
لیلۃ الاضحی فاقسم عز وجل بیوم الذکر والعشر  
وبآدم وحواء واقسم بنفسه تبارک وتعالی  
وبلیلۃ الاضحی فلما فرغ منها قال هل فی  
ذلك قسم لذی حجر یعنی هل فی ذلك قسم  
لذی حجر یعنی هل فی ذلك القسم کفایۃ لذی  
لب یعنی ذی عقل، فیعرف عظم هذا القسم  
ان ربك لیامرصاد وقیل المراد بالفجر فجر النہار

ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت | حق تعالیٰ جل مجدہ فرماتے ہیں  
صبح کی قسم، دس راتوں کی قسم اور جنت و طاق کی قسم اور جانیوالی رات  
کی قسم بلاشبہ ان میں عقل والوں کے لئے قسم ہے۔ والنجر صبح کی قسم میں  
علماء کا اختلاف ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فجر سے صبح کی نماز  
مراد ہے اور دس راتوں سے ذی الحج کا پہلا عشرہ مراد ہے اور جنت مخلوق  
اور طاق اللہ تعالیٰ ہے اور یسر یعنی جب رات چلی جائے پھر فرمایا کہ یسر  
وعقل والوں کے لئے قسمیں ہیں جو اب قسم ان ربك لیامرصاد ہے یعنی آپکا  
پروردگار تاک میں ہے۔ مقال؟ فجر سے مزدلفہ کی صبح یعنی ذی الحج کی  
دسویں تاریخ کی صبح مراد ہے اور دس راتوں سے عید الفضحی سے قبل کی  
دس راتیں مراد ہیں یہ نور دن اور دس راتیں ہوتی ہیں اور جنت آدم  
وحواء میں اور طاق اللہ ہے اور یسر یعنی جب بقر عید کی رات آئے حق  
تعالیٰ نے بقر عید کی ذی الحج کے پہلے عشرے کی آدم وحواء کی، اپنی ذات  
اندس کی اور بقر عید کی رات کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ان قسموں میں عقل  
دہوش والوں کے لئے نمانعت ہے اور انہیں ان قسموں کی عظمت کی پہچان  
ہے الغرض قسمیں کھا کر یقین دلایا گیا ہے کہ رب گھات میں ہے بعض کے نزدیک  
فجر سے عام صبح مراد ہے اور بعض کے نزدیک فجر سے دن مراد ہے اور فجر  
دن کو اس لئے تعبیر فرمایا کہ فجر دن کا پہلا حصہ ہے مجاہدؒ: یہاں خاص  
طور سے بقر عید کی صبح مراد ہے۔ حکمران؟ حق تعالیٰ نے چشموں سے پانی  
جاری ہونے کی اور نباتات و پھلوں کی قسم کھائی کہتے ہیں نبی کی انگلیوں  
سے پانی اُبلنے کی قسم کھائی گئی ہے بعض کے نزدیک حضرت صالح کی  
اڑٹنی جو چٹان پھٹ کر نکلی تھی اس چٹان کے پھٹنے کی قسم کھائی گئی



وقیل هو التجرار فعبّر عنه بالتجر لانه اوله  
 وقال مجاهد رحمه الله هو فجر ليوم النحر <sup>صحة</sup>  
 وقال عكرمة رحمه الله اقسم الله تعالى بالتجرار  
 المياه من العيون والنبات من الارض والثمار  
 من الشجر وقيل اقسم الله بانفجار الماء من  
 اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل اقسم الله  
 بانفجار الناقة من الصدح <sup>لا لعالم عليه السلام</sup>  
 وقيل اقسم الله تعالى بانفجار الماء من الحجر  
 بعصا موسى عليه السلام وقيل اقسم الله تعالى  
 بانفجار الماء من عيون العصاة وقيل اقسم الله  
 تعالى بانفجار المعرفة من القلب كما قال  
 الله تعالى او من كان ميتا فاحيينا <sup>يعني بالايان</sup>  
 والمعرفة والبقا قوله تعالى وليال عشر روى  
 جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي  
 صلى الله عليه وسلم انه قال والفجر  
 وليال عشر هي عشر الاضحى وقال ابن الزبير و  
 ابن عباس رضي الله عنهما عشر ذي الحجة  
 وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية اخرى  
 انه العشر الاواخر من شهر رمضان وقال  
 مجاهد رحمه الله انها عشر موسى عليه السلام  
 وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله انها  
 عشر اول المعرم قوله تعالى والشفع والتر  
 قال قتادة والسدي رحمهما الله الشفع كل  
 اثنين والتر هو الله تعالى وقيل هما آدم وحواء  
 وهو قول مقاتل وهو ان آدم كان وتر الشفع

بعض کے نزدیک عدائے رسول کی قرب سے پھر سے پانی نکلنے کی قسم  
 کھانی ہے بعض کے نزدیک ناقراؤں کی آنکھوں سے ندامت والے  
 جاری ہونے والے قطروں کی قسم کھانی ہے بعض کے نزدیک عارفوں  
 کے دلوں سے معرفت کے آئنے کی قسم کھانی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ جل مجدہ  
 نے فرمایا: کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ فرمادیا یعنی اس کے  
 دل میں ایمان و معرفت پیدا کر کے اسے زندہ فرمادیا۔

حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلعم نے  
 فرمایا کہ دس راتوں سے بقر عید کا عشرہ مراد ہے حضرت ابن عباس  
 اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ ہی  
 بتایا ہے ایک روایت میں ابن عباس سے رمضان کا اخیر عشرہ بھی  
 منقول ہے۔

مجاہد: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عشرہ مراد ہے محمد بن  
 جریر طبری: محرم کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ قتادہ اور سدی، جفت  
 سے ہر جوڑا اور طاق سے الشتر مراد ہے، مقاتل: جفت و طاق سے  
 آدم و حوا کا جوڑا مراد ہے، شروع میں آدم علیہ السلام طاق تھے  
 پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بیوی حوا سے جفت بنا دیا۔  
 بعض کے نزدیک نماز مراد ہے کیونکہ بعض نماز جوڑا ہے اور  
 بعض طاق ہے۔ ربیع بن انس و ابوالعالیہ: مغرب کی نماز  
 مراد ہے کیونکہ اس میں تین رکعتیں ہیں یعنی جفت بھی ہے اور طاق  
 بھی۔ بعض کے نزدیک بقر عید اور عرفہ کا دن مراد ہے کیونکہ  
 بقر عید جوڑا ہے اور عرفہ کا دن طاق ہے بعض کے نزدیک  
 جفت سے بقر عید کے بعد والے دو دن مراد ہیں اور طاق  
 سے تیرھویں تاریخ مراد ہے۔ یسر یعنی جب رات چلی جائے یا جب  
 رات میں اندھیرا ہو جائے یا اس رات سے خاص طور سے  
 مزدلفہ والی رات مراد ہے یا اس رات کی قسم کھانی گئی ہے

بزوجته حواء وقيل الصلاة منها شفع ومنها تز  
قال الربيع بن النس والبر العالبة رحمهم الله هي صلاة  
المغرب الشفع فيها ركعتان والوتر الثالثة وقيل هو يوم  
النحر لانه العاشر والوتر هو يوم عرفه لانه التاسع  
وقيل الشفع يومان بعد النحر والوتر اليوم الثالث  
قوله تعالى والليل اذا يسر يعني اذا ذهب وقيل اذا ظلم وقيل  
انه ليلة المزدلفة خاصة وقيل يعني اذا اسرى فيه  
اهله لان السرى هو سرى الليل وقوله تعالى هل  
في ذلك قسم لذي حجر يعني لذي عقل وهو قول  
ابن عباس رضي الله عنهما وقال الحسن والورجاء  
رحمهما الله الذي علم وقال محمد بن كعب رحمه الله  
لذي دين معناه ان في ذلك قسم لذي حجر و  
هل هاهنا في موضع ان ومعنى قوله عز وجل  
والفجر ولبال عشر وحق رب الذجر وحق رب ليل  
عشر الى آخر القسم وكذلك فيما شاكل ذلك كقوله  
تعالى والشمس وضحاها والسماء والطارق والسماء  
ذات البروج وغيرها۔

**فصل:** فيما ورد في عشر ذي الحجة من كرامات  
الانبياء وما نقل في ذلك من الاخبار والآثار وفضائل  
الاعمال اخبرنا الشيخ ابو البركات قال انما نا الشيخ  
الحافظ ابو بكر احمد بن علي الثابت الخطيب  
قال انبانا احمد بن احمد بن زرقونه قال انبانا  
محمد بن عبد الله الشافعي رحمه الله قال انبانا  
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن مجلب قال  
انبانا عمرو بن عثمان قال انبانا الوليد بن ابن المبارك

جس میں چلنے والے چلتے ہیں کیونکہ سسری کے معنی رات میں چلنے  
کے ہیں، ذی حجر سے بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ ذی عقل  
مراد ہے، اور بقول حسن بصری اور ابو جہاد کے ذی مسلم مراد  
ہے اور بقول محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کے ذی دین یعنی  
دیندار مراد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم میں  
خاص طور سے دینداروں کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں  
انہی آیتوں کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اور تا کبید کے لئے ہے  
اب پوری قسموں کا یہ مطلب نکلا کہ صبح کے رب کے حق کی  
قسم اور دس راتوں کے رب کے حق کی قسم اور جفت و طاق  
کے رب کے حق کی قسم اور جانے والی رات کے رب کے  
حق کی قسم۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں قسمیں آتی ہیں ان  
کا یہی مطلب ہوتا ہے جیسے سورج اور اس کی روشنی  
کی قسم یعنی سورج کے اور اس کی روشنی کے رب کے حق کی  
قسم اسی آسمان کی اور رات میں ٹوٹنے والے تارے کی قسم  
یعنی ان کے رب کے حق کی قسم اور برجوں والے آسمان کی  
قسم یعنی اس کے رب کے حق کی قسم۔ علیٰ هذا القیاس۔

\*

**عشرہ ذی الحج میں انبیائے کرام کے معجزے** اور اس سلسلہ  
میں اخبار و آثار اور فضائل اعمال کا بیان ہمیں شیخ ابو البرکات نے  
خبر دی کہ انہیں شیخ حافظ ابو بکر احمد بن علی ثابت خطیب نے خبر دی  
انہیں احمد بن زرقونہ نے خبر دی انہیں محمد بن عبد اللہ شافعی نے خبر  
دی، انہیں حلب میں محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحمن نے خبر دی انہیں  
عمرو بن عثمان نے خبر دی انہیں ولید نے خبر دی وہ ابن مبارک سے وہ  
خالد حذاد سے وہ عکرمہ سے اور وہ حضرت ابن عباس سے روایت  
کرتے ہیں کہ ابن عباس نے عشرہ ذی الحج کے بارے میں فرمایا کہ اس عشرہ



عن خاند الخداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله  
 عنهما انه قال في عشر ذي الحجة قبل الله توبة  
 آدم وقاب عليه بعرفة لانه اعترف بذنبيه  
 وفيه وجد ابراهيم الخليل عليه السلام الخلة  
 فبذل ماله للضيقات ونفسه للنيران وولد لا للقربان  
 وقلبه للرحمن ولم يصرح لاحد التوكل الا لابراهيم  
 خليل الرحمن وفيه بنى ابراهيم عليه السلام  
 الكعبة الشريفة قال الله تعالى واذ يرفع ابراهيم  
 القواعد من البيت واسماعيل الرية وفيه  
 اكرم الله موسى عليه السلام بالمناجاة وفيه  
 نزلت على داود المغفرة وفيه كانت ليلة المياهاة  
 وقيل ان فيه افتتح نزول القرآن بكرة يوم  
 الاضحى والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه الى  
 المصلى وفيه كانت بيعة الرضوان فانزل الله تعا  
 اذ يبايعونك تحت الشجرة وهي سمرة وكان ذلك  
 يوم الحديبية واصحاب رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم الف واربعمائة رجل وقيل الف وخمسة  
 رجل واول من اطلق يده للبايعة البوسنان  
 الاسدي عليه وعلى جميع الصحابة رحمة الله  
 تعالى وبركاته وتحياته والتابعين لهم باحسان  
 وفيه يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر  
 هو يوم الحج الاكبر واخبرنا الشيخ ابوالبركات  
 عن الفضل بن محمد عن احمد بن علي الحافظ  
 باسناد لا عن ابى سعيد الخدرى رضي الله عنه  
 عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيد

میں حق تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ عرفہ کے دن قبول فرمائی کیونکہ آپ  
 نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا اور اسی میں خلیل اللہ کو خلعت  
 خلعت (دوستی) ملا بلا آخر آپ نے اپنا مال مہمانوں پر خرچ کیا اور  
 اپنا نفس آگ پر پیش کر دیا اور اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی کی اور اپنا  
 دل اللہ کے حوالہ کیا اصل توکل کا مظاہرہ حضرت ابراهيم خلیل اللہ  
 ہی نے کیا اسی عشر سے میں حضرت ابراهيم نے کعبہ شریف بنایا حق  
 تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ وقت یاد کرو جب ابراهيم اور اسماعیل  
 علیہما السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اسی میں حق تعالیٰ  
 نے حضرت موسیٰ کو مناجاة کی توفیق عطا فرمائی اس میں حضرت داؤد  
 پر مغفرت اتری اور اس میں شب فخر ومبارکات واقع ہوئی کہتے  
 ہیں کہ اسی میں بقر عید کی صبح کو قرآن حکیم اتارنے کا آغاز ہوا جب کہ  
 رحمت عالم صلعم عید گاہ جانے کے لئے تیار بیٹھے تھے۔ اسی میں  
 بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا اور حق تعالیٰ نے یہ آیت اتاری  
 کہ جب لوگ آپ سے ایک درخت رہول کے نیچے بیعت کر رہے تھے  
 یہ حدیبیہ کا دن تھا اور صحابہ کرام چودہ سو یا پندرہ سو تھے سب  
 پہلے ابوسنان اسدی نے اپنا ہاتھ بیعت کے لئے بڑھایا تھا اسی  
 عشر سے میں یوم تردیہ (۱۰ ذی الحجہ) یوم عرفہ (۹ ذی الحجہ) یوم النحر  
 (۱۰ ذی الحجہ) عرفہ کے دن عرفات میں قیام کر کے حج ہوتا ہے اور سب  
 تاریخ کو قربانی کے بعد سر منڈوا کر احرام کھول دیا جاتا ہے اور منیٰ  
 سے مکہ میں طواف افاضہ کے لئے لوگ آتے ہیں۔

ہمیں شیخ ابوالبرکات نے فضل بن محمد سے انھوں نے حافظ احمد بن  
 علی سے انھوں نے ابوسعید خدری سے اور انہوں نے نبی صلعم سے خبر  
 دی کہ آپ نے فرمایا: حدیبیوں کا سردار رمضان ہے اور بہت بڑی حرمت  
 والا ذوالحجہ ہے۔  
 ہمیں شیخ ابوالبرکات نے فضل بن محمد تصار اصمغانی سے خبر دی انہیں

الشہور شہر رمضان واعظمها حرمة ذوالحجة  
واخبرنا الشيخ ابوالبركات عن الفضل بن محمد  
القصار الاصفهاني قال ابانا ابو سعيد الحسن بن  
علي بن سهدان قال اخبرنا عبد الله بن محمد  
الوراق قال اخبرنا ابوبكر البزار قال اخبرنا  
ابو كامل الفضل بن الحسين الجعدي قال  
ابانا ابو عاصم بن هلال عن ابوب عن ابن الزبير  
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه  
وسلم انه قال افضل ايام الدنيا ايام عشر ذي الحجة  
قيل ولا مثلها في سبيل الله قال ولا مثلها في  
سبيل الله الا رجل عفر وجهه في التراب واخبرنا  
الشيخ ابوالبركات عن القاضي ابى منصور هناد بن  
ابراهيم البخاري النسفي باسناد عن عطاء بن  
ابي رباح قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت  
كان علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  
رجل يحب السماع يعني الغناء وكان اذا اهل  
حلال ذي الحجة اصبح صائما فاتصل الحديث  
برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاحضروا  
الرجل فقال له ما حملك على صيام هذا الايام  
فقال يا رسول الله انها ايام مشاهروا ايام الحج  
فاحسبت ان يشركني الله تعالى في دعائهم  
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بعد كل  
يوم تصومه عتق مئة رقبة ومئة بدنة تهديها  
ومئة فرس تحمل عليها في سبيل الله فاذا كان  
يوم التروية فلك عتق الف رقبة والف بدنة

ابو سعيد حسن بن علي بن سهدان نے خبر دی انہیں عبد اللہ بن محمد وفاق  
نے خبر دی انہیں ابوبکر بزار نے خبر دی انہیں ابو کامل فضل بن حسین  
خدری نے خبر دی انہیں ابو عاصم بن ہلال نے ابو ایوب سے خبر دی  
ایوب ابوزبیر سے اور وہ جابر سے اور وہ نبی صلعم سے روایت کرتے  
ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں افضل دن ذی الحجہ کے پہلے  
عشرے کے دن ہیں کہا گیا: کیا جہاد کے ایام بھی ان کے مثل نہیں؟  
فرمایا جہاد کے ایام بھی ان کے مثل نہیں ہاں جو مجاہد جہاد میں کام  
آجائے اس کے جہاد کے ایام ان ایام کے مثل نہیں۔

ہمیں شیخ ابوالبركات نے قاضی ابوالمنظر ہناد بن ابراہیم  
بخاری نسفی سے خبر دی وہ عطاء بن رباح سے روایت کرتے  
ہیں عطاء کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا  
فرماتی تھیں کہ عند رسالت میں ایک شخص کو گیت سننے کا شوق تھا  
اور جب ذی الحجہ کا ہلال نظر آتا تو وہ روزے رکھا کرتا تھا۔  
سرور عالم صلعم کے پاس بھی اس کا ذکر آیا آپ نے اسے بلوا کر پوچھا  
کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ  
یہ مشاعر احکام حج کے اور حج کے دن ہیں میں نے یہ بات پسند  
کی کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کی دعاؤں میں مجھے شریک فرمائے رحمت  
عالم صلعم نے فرمایا: تمہارے لئے ہر روزے کے عوض سو غلاموں  
کو آزاد کرنے کا، سو اونٹوں کی قربانی کا اور سو گھوڑوں کو مجاہدوں  
کو دینے کا ثواب ہے اور ترویہ (ذی الحجہ) کے روزے کا ثواب  
ایک ہزار غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک ہزار اونٹ قربان کرنے کا  
اور ایک ہزار گھوڑوں کے دینے کا ثواب ہے اور عرفہ کے روزے  
کا ثواب اس سے دگنا ہے اور پہلے اور پچھلے ایک ایک سال کے  
روزوں کا بھی۔

ہمیں شیخ ابوالبركات نے اپنی اسناد سے سعید بن جبیر سے اور



والف فرس تحمل عليها في سبيل الله فاذا كان  
 يومعرفة فلك عتق الفى رقبة والذى بدنة تها  
 والذى فرس تحمل عليها في سبيل الله وصيام سنة  
 قبلها وسنة بعد ها واخبرنا الشيخ ابوالبركات  
 باسناد لا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله  
 عنهما قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب  
 الى الله عزوجل من رجل في هذا الايام يعنى  
 ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في  
 سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه  
 وماله فلم يرجع من ذلك بشىء واخبرنا الشيخ  
 ابوالبركات عن ابى بكر بن احمد بن على بن ثابت  
 المحافظ باسناد لا عن جبيرة بن خالد الخزامى عن  
 حفصة رضى الله عنها انها قالت اربع لم  
 يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهن صوم  
 عشر ذى الحجة وعاشوراء وثلاثة ايام  
 من كل شهر وركعتان قبل الغداة واخبرنا  
 الشيخ ابوالبركات عن حمزة بن عيسى بن الحسن  
 الوراق باسناد لا عن سعيد بن المسيب عن ابى  
 هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه  
 وسلم انه قال ما من ايام احب الى الله تعالى  
 ان يتعبده لهن فيهن من ايام عشر ذى الحجة  
 وان صيام يوم فيها يعدل صيام سنة وقيام  
 ليلة فيهن كقيام سنة واخبرنا الشيخ ابو  
 البركات عن الحسن بن احمد المقرئ باسناد لا  
 عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه

انہوں نے ابن عباس سے خبر دی کہ سرور عالم صلعم نے فرمایا نیک اعمال  
 اللہ تعالیٰ کو اور دنوں میں اتنے پیارے نہیں جتنے ان دنوں (ایام عشر  
 میں ہیں) صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد بھی؟ فرمایا: ہاں جہاد بھی  
 ہاں جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے اپنی جان و مال کو لیکر گیا اور  
 اس میں کچھ بھی لیکر واپس نہیں لڑا اس کا عمل ان دنوں کے عملوں کے برابر  
 ہمیں شیخ ابوالبركات حافظ ابوبکر بن احمد بن علی بن ثابت اور  
 انہوں نے جبیر بن خالد خزامی سے اور انہوں نے ام المؤمنین  
 حضرت حفصہ سے خبر دی کہ انہوں نے فرمایا: نبی صلعم چار چیزیں  
 نہیں چھوڑا کرتے تھے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے (عرفہ تک)،  
 عاشوراء (دس محرم) کا روزہ، ہر ماہ کے تین روزے اور فجر کی  
 نماز سے پہلے کی دو سنتیں۔

ہمیں شیخ ابوالبركات نے حمزہ بن عیسیٰ بن حسن وراق سے اپنی  
 اسناد سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے ابو ہریرہ  
 سے اور انہوں نے نبی صلعم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے  
 پہلے دس دن میں دوسرے دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت  
 زیادہ محبوب ہے اور اس عشرے کے ایک دن کا روزہ ایک سال  
 کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت ایک سال کی راتوں  
 کی عبادت کے برابر ہے۔

ہمیں شیخ ابوالبركات نے حسن بن احمد مقرئ سے خبر دی اور وہ  
 محمد بن منکدر سے، وہ جابر سے اور وہ سرور عالم صلعم سے روایت  
 کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو اس عشرے کے روزے رکھ لے تو  
 حق تعالیٰ ہر روزے کے عوض اس کے لئے سال بھر کے روزوں کا  
 ثواب لکھ لے گا۔ سعید بن جبیر فرمایا کرتے تھے کہ اس عشرے  
 کی راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ اور خدام کو جاگنے کا حکم فرمایا کرتے  
 تھے اور اس میں آپ کو عبادت میں بڑا لطف آتا تھا۔

عشرہ ذی الحجہ کے نماز کے آداب | ہمیں شیخ ابوالبرکات

نے شریف ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن یحییٰ مہدی سے انہوں نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے حفصہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کے عشرے کی راتوں میں سے کسی ایک رات میں جاگ کر عبادت کی گویا اس نے اس شخص کی سبھی عبادت کی جس نے پورے سال حج اور عمرے ادا کئے اور جس نے اس عشرے میں ایک روزہ رکھ لیا گویا اس نے پورے سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔

ہمیں شیخ ابوالبرکات نے محمد بن محمد بن عبدالعزیز شاہد سے انہوں نے جعفر بن محمد بن علی بن حسین سے انہوں نے اپنے والد محمد بن علی سے انہوں نے اپنے والد علی بن حسین بن علی سے انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا عشرہ آجائے تو عبادت میں سرگرم و تیز ہو جاؤ کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جن کو حق تعالیٰ شانہ نے فضیلت بخشی ہے اور ان کی راتوں کا احترام دلوں کے احترام کی مانند قرار دیا ہے اگر کوئی اس عشرے کی کسی رات کے پچھلے تہائی حصہ میں چار رکعت نماز پڑھ لے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار معوذتین ایک بار اور سورہ اخلاص تین تین بار اور آیتہ الکرسی تین تین بار اور نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ بٹھا کر یہ دعا مانگے عزت و جبروت والا معبود پاک ہے وہ معبود پاک ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور جسے کبھی فنا نہیں، اللہ پاک ہے جو تمام بندوں کا اور تمام شہروں کا مربی ہے اور ہر حال میں اللہ ہی کے لئے بہت بہت پاکیزہ اور برکت والی بڑائیاں ہیں اللہ بہت

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من صام ایام

العشر كتب الله له بكل يوم صوم سنة وعن سعید

ابن جبیر رحمہ اللہ انه کان یقول لا تطفئوا سرجکم

لیال العشر ویامریا یقاظ الخدم و تعجبه فیہ العبادۃ

فصل : فی الصلاة الواردة فی ایام العشر

اخبرنا الشیخ ابوالبرکات عن الشریف ابی عبد اللہ

محمد بن علی بن محمد بن یحییٰ المہدی باسناد

عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی

الله عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه

قال من اجاب لیلۃ من لیالی عشر ذی الحجۃ فکانما

عبد الله عبادۃ من حج و اعتمر طول سنتہ و من

صام فیہا یوما فکانما عبد الله تعالی سائر سنتہ

اخبرنا الشیخ ابوالبرکات عن محمد بن محمد

بن عبد العزیز الشاہد باسناد کا عن جعفر بن

محمد بن علی بن حسین عن ابیہ محمد بن علی

عن ابیہ علی بن حسین بن العابدین عن ابیہ

الحسین بن علی عن ابیہ علی رضی اللہ عنہ عن النبی

صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا دخل عشر

ذی الحجۃ فجد و ا فی الطاعة فانہا ایام فضلہا

الله تعالی و جعل حرمة لیلہا حرمة نہارہا

فمن صلی فی لیلۃ من لیالی العشر فی الثلث الاخیر

اربع رکعات یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب

مرة و المعوذتین و یکر سورۃ الاخلاص ثلاثا

و یقرأ آیتہ الکرسی و یکر ذلک ثلاثا فی

کل رکعة فاذا فرغ من صلاتہ رفع یدیه



وقال سبحان ذي العزّة والحبروت سبحان  
 ذي القدرّة والملهوت سبحان الحى الذى لا  
 يموت لا اله الا هو يحيى ويميت وهو حى لا يموت  
 سبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله كثيرا  
 طيبا مباركا على كل حال الله اكبر كبيرا ربنا جل  
 جلاله وقدرته بكل مكان قال الشيخ يعنى  
 علمه بكل مكان ثم يرد عو بما شاء فان له من  
 الاجر مائة الف حج بيت الله الحرام وزار قبر  
 النبى صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل الله  
 ولم يمال الله شيئا الا اعطاه اياها وان صلاها  
 في كل ليلة من ليالى العشر احله الله تعالى  
 الفردوس الاهلى ومحا عنه كل سيئة وقيل له  
 استأنت العمل فاذا كان يوم عرفة وصام  
 نهارها وصلى ليلا ودعا بهذا الدعاء  
 واكثر التضرع بين يدي الله تعالى يقول الله  
 يا ملائكتى اشهدوا انى قد غفرت له  
 واشركته بالحاج الى بيت الله قال فتستبشر  
 الملائكة بما يعطى الله تعالى ذلك العبد  
 المؤمن بصلاته ودعائه.

### فصل : والعشر لخمسۃ انبياء عليهم

السلام الا اول عشر آدم عليه السلام وهو  
 انه لما خلق الله حواء من ضلعه الايسر  
 القصير وهونائم فاستيقظ من سنته فرأى  
 حواء جالسة عند لا فقال لها لمن انت  
 قالت لك فاراد ان يسها فقيل له لانسها

ہی بڑا ہے ہمارا رب اس کا جلال اور اس کی قدرت ہر جگہ  
 ہے شیخ فرماتے ہیں کہ رب کے ہر جگہ ہونے سے اس کا علم مراد  
 ہے پھر جو چاہے وہ مانگے تو اس کے لئے اس شخص کی برابر ثواب  
 ہے جس نے بیت اللہ کا حج کیا ہو اور روضہ اطہر کی زیارت  
 کی ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو یہ بندہ جو کچھ حق تعالیٰ  
 جل مجدہ سے جو بھی سوال کرے گا حق تعالیٰ اس کا سوال ضرور  
 پورا فرمائے گا اور اگر وہ یہی چار رکعتیں اس عشرے کی ہر  
 پچھلی تہائی رات میں پڑھ لے حق تعالیٰ شانہ اسے فردوس  
 اعلیٰ میں داخل فرمادیں گے اور اس کی ہر برائی مٹا دیں گے  
 اور اس سے کہا جائے گا آج سے تمہارے عملوں کا نیا دور  
 پھر جب عرفہ کا دن آتا ہے اور وہ عرفہ کا روزہ  
 رکھتا ہے اور عرفہ کی رات میں عبادت کرتا ہے اور  
 نماز پڑھتا ہے اور مذکورہ بالا دعائے مانگتا ہے اور حق تعالیٰ  
 کے سامنے کثرت سے رزنا اور گڑ گڑاتا ہے تو حق تعالیٰ  
 فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو! گواہ رہو میں نے اسے  
 بخش دیا اور میں نے اسے حاجیوں کے ثواب میں شریک کر لیا  
 فرماتے ہیں کہ اس موسم بندے کو اس کی نماز و دعا کی  
 وجہ سے جو کچھ حق تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس سے فرشتے  
 بہت خوش ہوتے ہیں۔

### پانچ پیغمبروں کے الگ الگ عشرے | ایک عشرہ حضرت

آدم علیہ السلام کا ہے اس کی وصاحت یہ ہے کہ حضرت آدم سورج  
 تھے کہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کی بائیں طرف کی سب سے چھوٹی  
 پسلی سے حضرت حواء کو پیدا فرمادیا پھر جب آپ جاگے تو  
 آپ کے پاس حواء بیٹھی تھیں پوچھا آپ کس کے لئے ہیں؟  
 بولیں آپ کے لئے بالآخر آپ نے انہیں چھوڑنا چاہا تو آپ سے

حتى تعطى مهرها قال النبي وما مهرها قال الله  
تعالى هو ان نضلى على نبي آخر الزمان عشر خذ لك  
مهرها -

والثاني عشر ابراهيم خليل الرحمن عليه  
السلام قال الله تعالى واذا ابتلى ابراهيم ربه  
بكلمات فانتقم وهي عشر خصال خمس منها في  
الرأس الفرق وقص الشارب والسواك والمضمضة  
والاستنشاق وخمس في البدن وهي تغليم الاظفار  
ونف الابطين والحنان وحلق العانة وتخليل  
الاصابع فلما اتم ابراهيم عليه السلام هذا الخصال  
العشرة اكرمه الله تعالى بالخلعة قوله تعالى و  
اتخذ الله ابراهيم خليلا -

والثالث عشر شعيب النبي عليه السلام  
قوله عز وجل فان اتست عشر افمن عندك و  
هو انه اجره موسى عليه السلام نفسه عشر سنين  
فكان اجرته مهرانة شعيب النبي عليه السلام  
وقيل ان شعيبا عليه السلام بكي عشر سنين حتى  
ذهب بصره فرد الله لبصره عليه فادعى الله  
تعالى اليه يا شعيب ان كنت تخاف النيران فقد  
امنك منها وان كنت تريد الجنان فقد  
هبت لك وان كنت تطلب الرضوان فقد  
اعطيتك فقال يا حبرمى لئيب بكائى جبال الجنان  
ولا خوف من النيران ولكن شوقا الى لقاء الرحمن  
فقال الله عز وجل الان حق لك فابك ثم ابك  
ثم عرض بكائه ن اجعل الله نبيه موسى عليه  
السلام

کہا گیا کہ خبردار مہر داد کے بغیر تمہمت لگانا بولے لے میرے معبود  
ان کا مہر کیا ہے ؟ فرمایا پیغمبر آخر الزمان پر دس بار درود بھیجو  
یہی ان کا مہر ہے۔

ایک عشرہ حضرت ابراہیم کا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن  
یا دکر جب حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چند باتوں سے آزما یا  
پھر آپ ان باتوں میں پورے اترے یہ دس باتیں ہیں جن میں سے  
پانچ کا تو سر سے تعلق ہے مانگ نکالنا، سوچھیں کاٹنا، مسواک  
کرنا، غرغره کرنا اور ناک میں پانی چڑھا کر اسے سنکنا اور پانچ کا  
تعلق بدن سے ہے ناخن کاٹنا بغلوں کے بال اکھاڑنا، نختنے کرنا  
زیر ناف کے بال مونڈنا اور انگلیوں میں خلخال کرنا پھر جب حضرت  
ابراہیم ان دس باتوں میں یکے ثابت ہوئے تو حق تعالیٰ نے آپ کو خلت  
ردستی کا اعزاز بخشا فرمایا: اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل بنا لیا۔

اور ایک عشرہ حضرت شعیب کہے فرمایا: اور اگر آپ دس سال  
پورے کر لیں تو آپ کی خوشی ہے اس کی رضاحت یہ ہے کہ حضرت  
شعیب نے حضرت موسیٰ کو دس سال کے لئے مزدوری پر مقرر کر لیا  
تھا آپ کی مزدوری ہی حضرت شعیب کی بیٹی کا مہر تھا کہتے ہیں  
حضرت شعیب دس سال تک روتے رہے اور روتے روتے  
آپ کی بیٹی جاتی رہی پھر حق تعالیٰ نے آپ کو آپ کی بیٹی کو ٹامی  
اور وحی بھیجی کہ اے شعیب اگر تم کو آگوں کا خوف ہے تو میں نے ان  
سے تم کو مومن بنا دیا اور اگر تمہیں جنت کی طلب ہے تو میں نے  
تمہیں جنت بہہ کر دی اور اگر تم میری رضا کے امیدوار ہو  
تو میں تم کو اپنی رضا عطا فرما دی، بولے اے جبریل میں جہنم کے  
کے ڈر سے یا جنت کی طلب کے لئے نہیں رورہا میں تو اپنے مہربان  
معبود کی ملاقات کے شوق میں رنراق میں رہتا ہوں حق تعالیٰ نے  
نے فرمایا میں اب تمہیں حق ہے کہ تم سے جس قدر بھی روبا جا سکے



خادم له عشر سنين جزاء لما كان من بكائه على  
عقبه سوى ما قد اذخر له عندا من الكرامات  
والمنازل العاليات والقرب منه تبارك وتعالى  
والنظر الى وجهه الكريم وغير ذلك مما لا عين  
رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر-

والرابع: عشر موسى عليه السلام قوله  
عز وجل وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتمناها  
بعشر وذلك ان الله عز وجل وعد موسى عليه  
السلام المناجاة واعطاه النورا فقام موسى  
عليه السلام ثلاثين يوما وكان شهر ذي الحجة  
وقيل انه شهر ذي القعدة فلما قصد المناجاة  
وضع قطعة زيتون في فيه لما شاهد من تغير  
رائحة فيه فقال عز وجل يا موسى اما علمت ان  
خلوف فم الصائم عندى اطيب من ريح المسك  
ثم امره ان يصوم عشرة من المحرم آخرها  
يوم عاشوراء وعلى قول من قال الشهر كان  
ذا القعدة فيكون عشر ذي الحجة ثم قربه  
واكرمه بالمناجاة والقربة قوله عز وجل  
ولما جاء موسى لميقاتنا الآية-

والخامس: عشر نبينا المصطفى صلى الله  
عليه وسلم قوله تعالى والفجر وليال عشر  
يعني عشر ذي الحجة وقد ذكرنا لا-

نصلي: وقيل من اكرم هذه الايام  
العشرة اكرمه الله تعالى بعشر كرامات  
البركة في عمره والزيادة في ماله والحفظ

دو پھر آپ کو حق تعالیٰ نے رونے کا یہ صلہ دیا کہ اپنے نبی حضرت  
موسیٰ کو دس سال تک کے لئے آپ کا خادم بنا دیا یہ حق تعالیٰ  
شانہ کی محبت میں رونے کا بدلہ تھا اور جو عزتیں، اونچے منازل  
تقرب اور دیدار ہاری تعالیٰ آخرت کے لئے جمع کر کے رکھا گیا  
وہ اس کے علاوہ ہے اور ان کے علاوہ اور بھی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو  
نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سُنیں اور نہ ان کا تصور کسی انسان  
کے دل میں آیا اور چوتھا عشرہ حضرت موسیٰ کا ہے فرمایا کہ تم نے  
موسیٰ سے تیس دن کا وعدہ کیا اور اسے دس دن مزید ملا کر پورا کیا  
اس کی وضاحت یہ ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے حضرت موسیٰ سے باتیں  
کرنے کے لئے اور تورات دینے کے لئے تیس دن کا وعدہ فرمایا  
حضرت موسیٰ نے لگاتار ذی الحجہ کے یازدہی وعدہ کے روزے  
رکھے پھر جب آپ نے حق تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ارادہ کیا تو  
قدر سے روغن زیتون اپنے منہ میں رکھ لیا تاکہ منہ کی بو میں جو تیز  
گیا ہے وہ جاتا ہے حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! کیا تم کو معلوم  
نہیں کہ مجھے روزے داک کی منہ کی بھجھک شک کی خوشبو سے بھی زیادہ  
پیار سی ہے پھر فرمایا کہ محرم کے دس روزے اور رکھو اور دسواں روزہ  
عاشوراء کا ہو گا اور ذی قعدہ والے قول کی رو سے ذی الحجہ کے پندرہ عشر  
کے دس روزے ہو گئے پھر جب چل پورا ہو گیا تو حضرت موسیٰ نے اپنے  
قریب بلا یا اور باتیں کیں اور تقرب و مناجات کا اعزاز بخشا فرمایا اور جب  
ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان سے انکے پروردگار نے کلام فرمایا اور  
پانچواں عشرہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عشرہ ہے فرمایا فجر کی قسم اور دس  
راتوں کی قسم اس سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے جیسا کہ ہم روشنی ڈال آئے ہیں  
عشرہ ذی الحجہ کی تعظیم کی فضیلت | کما جاتا ہے کہ جو ان دس دنوں  
کا احترام و اکرام کرے یا حق تعالیٰ اجل مجدہ اسے دس اعزاز عطا  
فرمائیں گے عمر میں برکت ہوگی، مال میں زیادتی ہوگی، اولاد میں عیال کی حفاظت



لعیالہ والتکفیر لسیئاتہ والتضعیف لحسناتہ  
 والتسهیل لسکراتہ والفضیاء لظلماتہ والتثقیل  
 لمیزانہ والنجاتہ من درکاتہ والصعود علی  
 درجاتہ ومن تصدق فی ہذا الایام العشر  
 بصدقة علی مسکین فکان تصدق علی انبیائہ  
 ورسلہ ومن عارفیہا مریفنا فکانا عادا ولیاء  
 اللہ وبدالائہ ومن شیع جنازۃ فکانا شیع  
 جنازۃ شہدائہ ومن کسا مونا کساہ اللہ  
 تعالیٰ من حللہ ومن لطف فیہا یتیم لطف اللہ  
 تعالیٰ بہ فی القيامة تحت ظل عرشہ ومن حضر  
 مجلسا من مجالس العلم فکانا حضر مجلس انبیاء اللہ  
 ورسلہ وقال وھب بن منبہ رحمہ اللہ ان  
 آدم علیہ السلام لما اھبط الی الارض بکی  
 علی ذنبہ ستۃ ایام ثم اوحی اللہ الیہ فی الیوم  
 السابع وهو محزون کظیم منکس راسہ  
 یا آدم ما ہذا الجھد الذی بک فقال السہی  
 عظمت مصیبتی واحاطت بی خطیبتی وصرت  
 فی دار الھوان بعد الکرامۃ و فی دار الشقاوۃ  
 بعد السعادۃ و فی دار الموت والفاء بعد الخلد  
 والبقاء فکیف لا ابکی علی خطیبتی فاوحی اللہ  
 تعالیٰ الیہ یا آدم اما اصطغتک لنفسی ثم  
 اصطغیتک علی خلقی وخصمتک بکرامتی  
 والقیت علیک محبتی اما خلقتک بیدی  
 واسجدت لک ملائکتی المرنکن فی جمیوحۃ  
 کرامتی ومنتھی رحمتی فعصیت امری ونسیت

ہوگی برائیاں مٹادی جائیں گی، نیکیوں میں غیر معمولی حد تک اضافہ  
 کر دیا جائے گا سکرات موت آسان کر دی جائے گی، تارکیوں کے اوقات  
 میں روشنی ہے گی، میزان میں تو لیس بیماری ہوگی، طبقات جہنم سے  
 نجات ملے گی اور درجات بندہ ہوں گے اور جو ان دس دنوں میں  
 کسی مسکین پر صدقہ کرے گا گویا اس نے نبیوں اور رسولوں پر صدقہ  
 کیا اور جو ان دنوں میں کسی بیمار کی بیماری پر کسی کرے گا گویا اس نے  
 ابدال و اولیاء کی بیماری پر کسی کی اور جو جنازے کے ساتھ جائے گا  
 گویا وہ شہداء کے جنازوں کے ساتھ گیا اور جو کسی مومن کو کپڑے  
 پہنائے گا حق تعالیٰ اسے اپنے جوتے پہنائے گا اور جو کسی یتیم کے  
 سر پر ان دنوں میں دست شفقت پھرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے  
 دن عرش کے سایہ کے نیچے اس پر مہربان ہوگا اور جو کسی علمی مجلس  
 میں حاضر ہوگا گویا وہ نبیوں اور رسولوں کی مجلسوں میں حاضر  
 ہوا۔ وھب بن منبہ: جب حضرت آدمؑ زمین پر اتارے گئے تو  
 چھ دن تک اپنے گناہ پر روتے رہے ساتویں دن آپؑ ٹنگین و محزون  
 اور نگاہ سچی کئے بیٹھے اور گناہ کا رہ کے خیال کر کے گھٹ گھٹ  
 کے رورہے تھے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ اے آدم  
 آپ کس تکلیف و مشقت میں مبتلا ہیں؟ بولے اے اللہ میری  
 مصیبت اتنا کہ پہنچ گئی اور مجھے میرے گناہ نے چاروں طرف سے  
 گھیر لیا اور میں عزت والے گھر سے زلت والے  
 گھر میں بھیج دیا گیا اور مجھے سعادت والے گھر کے بعد شقاوت والے  
 گھر نصیب ہوا اور خلد و بقا والے گھر کے عوض مجھے موت و فنا کا  
 گھر مل گیا تو بھلا میں اپنے گناہ پر کیوں نرروں؟ پھر اللہ نے  
 آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اے آدم! کیا میں نے آپ کو اپنے نفس  
 کے لئے نہیں پیدا کیا یعنی کیا میں نے آپ کو اپنی عبادت کے  
 لئے نہیں پیدا کیا؟ پھر میں نے آپ کو اپنی مخلوق پر برگزیدہ بنا دیا



عہدی و کیف نیت رحمتی و نعمتی فوعزتی و جلالتی  
 لومات الارض رجالا کلہم مثلك یعبدوننی  
 ویسبحون فی اللیل والنہار لا یفترون عن عبادتی  
 طرفۃ عین ثمانہم عصوفی لانزلتہم منازل  
 العاصین قال فیکفی عند ذلک ثلاث منۃ عام علی  
 جبل الہند تجری دموعہ فی اودیۃ جبالہا  
 فنبتت من تلک الدموع اشجار طیبۃ فقال لہ  
 جبریل علیہ السلام اذہب الی بیت اللہ الحرام  
 واصبر حتی تدخل ایام العشر ثم تب الی اللہ  
 لعلہ یرحمہ فنعفک فمضی فکان یخطو خطوۃ وکان  
 موضع قدمیہ عمرانا وما بینہما مفاوز وقبیل  
 کان بین قدمیہ ثلاثۃ فراسخ حتی اتی البیت  
 فطاف بالبیت اسبوعا کاملا وکی حتی خاض  
 فی دموعہ الی رکتیہ وجری علی الارض فقل  
 لا الہ الا انت سبحانک اللہم وجمدک عملت  
 سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی وانت خیر الغافرین  
 وارحمنی وانت خیر الراحمین فاوحی اللہ الیہ  
 یا آدم قدر رحمتی ونعفک وغفرت ذنبک و  
 قبلت توبتک فذلک قولہ عزوجل فتلقى آدم  
 من ربہ علما فتاب علیہ فوجد آدم من برکات  
 ایام العشر التوبۃ وكذلك المؤمن الذی عصی  
 ربہ واتبع ہواہ فی معصیۃ مولاہ اذا تاب  
 وانا بوالقادر لطاعة اللہ فی ہذا الایام  
 تفضل علیہ بالرحمۃ والغفران وابدال  
 السیئات بالحسان برحمۃ منہ۔

اور میں نے آپ کو خاص طور سے عزت نہیں بخشی؟ اور میں نے آپ کے دل میں اپنی محبت  
 نہیں پیدا کی؟ کیا میں نے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں پیرا کیا؟ اور آپ کو اپنے  
 اپنے فرشتوں سے سجدہ نہیں کرایا کیا آپ میری عطا کردہ عزت کے اور میری انتہائی  
 رحمت کے عین وسط میں عیش کے جھولے نہیں جھولتے تھے؟ لیکن آپ نے میرے حکم  
 کی نافرمانی کی اور آپ میرے عہد کو بھول گئے آپ نے میری نعمت و رحمت کو کیوں  
 فراموش کیا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر رستے زمین آپ جیسوں سے بھر  
 چلے اور سب دن رات میری عبادت و تسبیح میں لگے رہیں اور ایک منٹ  
 کے لئے بھی سست نہ پڑیں لیکن ایک زمانہ کے بعد وہ میری نافرمانی کرنے لگیں تو  
 تو میں ان سب کو نافرمانوں کے مقامات پر اتار دوں گا کہتے ہیں یہ سن کر حضرت  
 آدمؑ ایک ہندی پہاڑ پر تین سو سال تک روتے رہے جسکی وادی میں آج  
 آنسو جاری ہو گئے اور ان آنسوؤں سے عمدہ اور پاکیزہ درخت پیدا ہوئے  
 گئے پھر آپ سے حضرت جبریلؑ نے کہا کہ بیت الحرام تشریف لیجائیے اور وہاں  
 عشرہ ذی الحجہ کا انتظار کیجئے اور ان دنوں میں توبہ کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو  
 کمزوری پر رحم فرمائے یہ مژدہ سن کر آپ چل پڑے پھر جہاں جہاں آپ کے  
 قدم پڑے ہیں آبادی ہو گئی اور قدموں کا درمیان حصہ غیر آباد رہا کہتے  
 ہیں آپ کے دونوں قدموں کا درمیان فاصلہ تین تین فرسخ رہا اور اس کا  
 ہونا تھا بالآخر آپ بیت اللہ پہنچے اور اس کا طواف ایک ہفتہ تک کرتے  
 رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ آپ کے آنسوؤں کا پانی آپ کے گھٹنوں تک آ گیا  
 اور زمین پر بہنے لگا آپ رو کر عرض کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ آپ کے  
 سوا کوئی حق دار عبادت نہیں آپ پاک ہیں اور آپ ہی کے لئے برائی  
 ہیں میں نے برائی کی اور اپنے اوپر ظلم کیا اے اللہ مجھے معاف فرمادیجئے  
 آپ بہترین معاف فرمایو اے ہیں اور مجھ پر رحم فرمائیے آپ تو انتہائی  
 مشفق و مہربان ہیں۔ آخر کار حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے آدم میں نے  
 تیری کمزوری پر رحم کیا، تیرا گناہ معاف کر دیا اور تیری توبہ قبول کی  
 فرمایا پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سکھے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

فرمانی حضرت آدم نے اس عشرے کی برکت یہ پائی کہ آپ کی توبہ قبول کر لی گئی اس طرح جو مومن اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو اور اپنی سہمی دہوس کا شکار ہو کر رب کی نافرمانی کر بیٹھے اگر وہ پر خلوص توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف صدق خلوص سے آجائے اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی پوری سرگرمی سے عبادت کرے اور اس کا مطیع و متقاربین کرے تو حق تعالیٰ اپنی ہرمانی اور بخشش کیساتھ اس پر احسان فرمائے اور اپنی ہرمانی سے اس کی بخشش

**فصل ۱۰** : وقد اقسم الله تعالى بالفجر وليال

عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر الى قوله

ان ربك لباظر ما دوہی ثمان تناظر علی جسر جہنم

فیسئل العبد فی اول موقف منها عن الایمان

بالله فان كان مؤمنا نجا والا تردی فی النار ثم

جاز الی الثانی فیسئل عن الوضوء والصلاة فان

قصر فیہا تردی فی النار وان اكمل رکوعها

وسجودها نجا ثم جاز الی الثالث فیسئل عن

الزکاة فان كان قد اداها نجا ثم جاز الی

الرابع فیسئل عن الصیام فان کمل صیامه

نجا ثم جاز الی الخامس فیسئل عن الحج والعمرة

فاذا كان اداها نجا ثم جاز الی السادس

فیسئل عن الامانة فان لم یخن فیہا نجا ثم

جاز الی السابع : من الغیبة والنسیمة

والبهتان فان لم یخن اغتاب نجا ثم جاز

الی الثامن فیسئل عن اكل الحرام فان لم

یکن اكل نجا والا تردی فی النار۔

**فصل ۱۱** : فی ذکر لیم التزویة قال الله سبحانه

وتعالى واذن فی الناس بالبح یا توك رجال الآیة

وهذا الآیة فی سورة الحج وهی من اعاجیب

سور القرآن العظیم فان فیہا مکبر او مدنیاً

وحضریاً وسفریاً ولیلیاً ونهاریاً وفیہا ناسخ

حق تعالیٰ کی فجر وغیرہ کی قسموں کے بارے میں | حق تعالیٰ شانہ

نے فجر کی دس راتوں کی، جفت و طاق اور جانے والی رات کی قسم

کھائی اور عادلوں، شہدوں اور فرعونوں کا عذاب بیان کر کے

فرمایا کہ آپ کا رب گھات میں رہتا ہے، دیکھیے جہنم کے پل پر چڑھنے

کے لیے آٹھ سیڑھیاں ہیں پہلی سیڑھی پر انسان سے ایمان کے بارے

میں پوچھا جائے گا اگر مومن ہوگا تو نجات پا جائے گا ورنہ جہنم کے

گڑھے میں گر جائے گا دوسری سیڑھی پر وضو اور نماز کے بارے

میں سوال ہوگا اگر ان دونوں میں کوتاہی ہوگی تو جہنم رسید ہو

جائے گا اور اگر صحیح صحیح نماز پڑھی ہوگی تو نجات پا جائے گا

تیسری سیڑھی پر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر زکوٰۃ ادا

کی ہوگی تو نجات پا جائے گا چوتھی سیڑھی پر روزوں کے بارے میں

پوچھا جائے گا اگر روزے کامل ہوں گے تو نجات پا جائے گا پانچویں

سیڑھی پر حج اور عمرے کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر ان دونوں

کو ادا کیا ہوگا تو نجات حاصل ہوگی چھٹی سیڑھی پر امانت کے بارے

میں پوچھا جائے گا اگر امانت میں خیانت نہ کی ہوگی تو نجات پا

جائے گا ساتویں سیڑھی پر غیبت، چغلی اور بہتان کے بارے میں

پوچھا جائے گا اگر ان سے بری ہوگا تو نجات پائے گا آٹھویں سیڑھی

پر حرام خوری کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر حرام نہ کھایا ہوگا تو نجات

پا جائے گا ورنہ جہنم میں گر جائے گا۔

**یوم الترویہ** | حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا آپ لوگوں میں حج کا اعلا

کر دیں لوگ آپ کے پاس پیدل اور دہلی سوار ہی پر ہر در کے مقام

سے آئیں گے یہ آیت سورہ حج کی ہے سورہ حج قرآن عظیم کی سورہ

یوم الترویہ کو تکبیروں سے بول دیتا ہے۔



ومنسوخ فاما المكي فمن رأس ثلاثين آية منها  
 الى آخرها واما الآيات المدنية فمن رأس خمسة  
 عشر الى رأس الثلاثين واما الليلى منها فمن  
 فمن اولها الى رأس خمس آيات واما النهاري  
 منها فمن رأس خمس الى رأس تسع واما الحضري  
 فالى رأس العشرين وتسب ذلك الى المدينة  
 لقربها منها واما الناسخ فقولہ تعالیٰ اذن للذين  
 يقاتلون الآياتہ واما المنسوخ فتلات آيات  
 و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى نسخت  
 بقوله تعالیٰ ستقرئك فلا تنسى والثانية قوله  
 تعالیٰ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم  
 فيه تختلفون فتسخت بآية السيف والثالثة  
 وجاهدوا في الله حق جهادة فتسخت بقوله  
 تعالیٰ فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالیٰ و  
 اذن في الناس بالبحر أى ناديا ابراهيم ذريتك  
 وغيرهم من بنى آدم من المومنين بالبحر ياتوك  
 رجالا أى يجيئون اليك رجالا على ارجلهم  
 وعلى كل منا مرعى ركبانا على الانبل ياتين  
 من كل فج عسيق يعنى من كل ارض بعيدة  
 وطريق بعيد قال الله تعالیٰ ذلك لابراهيم  
 عليه السلام حين فرغ من عمارة البيت  
 الحرام وقال الهى من يقصد هذا البيت فامر  
 ان يؤذن في الناس بالبحر فصعد ابا قبيس وهو  
 الجبل الذى الصفا فى اصله فنادى باعلى صوته  
 يا ايها الناس اجيدوا ربكم ان الله يامركم ان

میں ایک حیرت انگیز سورت ہے کیونکہ اس میں کی مدنی احقر والی اس سفر والی  
 رات والی اور دن والی اور ناسخ اور منسوخ ہر طرح کی آیتیں ہیں کی  
 آیتیں ۲۹ آیتوں کے بعد سے آخر سورت تک ہیں اور مدنی آیتیں ۱۵  
 سے ۲۹ تک ہیں اور آغاز سورت سے تک رات والی آیتیں ہیں اور  
 ۶ سے ۹ تک دن والی ہیں اور حضری ۲۰ تک ہیں اور یہ سورت مدینہ کی طرف  
 مدینہ کے قرب کی وجہ سے منسوب ہے اور اذن للذين يقاتلون الخ  
 ہے اور منسوخ تین آیتیں ہیں و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الخ  
 سنقرئك فلا تنسى سے منسوخ ہے فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم  
 فيه تختلفون آیتہ سے منسوخ ہے وجاهدوا في الله حق جهاده  
 فاتقوا الله ما استطعتم سے منسوخ ہے اب و اذن في الناس الخ کی  
 تفسیر یہ ہے یعنی اے ابراہیم آپ اپنی اولاد کو اور تمام دنیا کے مومن  
 مردوں کو اور عورتوں کو آواز دیں اور ان سے فرمائیں کہ حج کو آؤ  
 لوگ آپ کی طرف بغیر سواری کے چل کر آئیں گے اور اونٹوں پر سوار  
 ہو کر بھی ہر دور کے علاقہ سے لمبی مسافت طے کر کے آئیں گے مقرر تعالیٰ  
 نے حضرت ابراہیم کو اس وقت یہ حکم فرمایا تھا جب آپ بیت اللہ بنا کر  
 فارغ ہو گئے تھے اور حق تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اے مجھ کو کون اس گھر  
 کا قصد کرے اس کی زیارت کے لئے آئیگا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ  
 لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں پھر آپ نے ابو قبیس (یہ وہ پہلا  
 ہے جس کی جڑ میں کوہ صفا ہے) پر چڑھ کر بلند آواز سے یہ اعلان کیا لوگو  
 اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو دیکھو حق تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے  
 کہ تم اس کے گھر کا حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ  
 آواز ہر مومن مرد و عورت نے جو اس وقت زندہ تھے  
 اور انھوں نے بھی جو بالوں کی پشتوں میں اور ماؤں کے پیٹوں  
 میں تھے سنی آج جو حاجی لبیک کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم  
 علیہ السلام کی پکار ہی کا جواب ہے جو رب کے حکم سے

تخجوا بئيه فسمع نداء ابراهيم كل مؤمن ومؤمنة على وجه الارض ومن في اصلاب الرجال وارضام النساء فالتبىة اليوم هي جواب نداء ابراهيم عليه السلام عن امر ربه فاخبروا كلهم لبك فمن اجاب ذلك اليوم فلا يخرج من الدنيا حتى يزور هذا البيت -

**فصل ۳:** في فضائل من احرم بالحج والبي وقصد البيت واليه دناروى مجاهد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبلت طائفة من الیمن قالوا فداک الامهات والاباء اخبرنا بفضائل الحج قال نعم ای رجل خرج من منزله حاجا او معتمرا فکما رفع قدمه ووضعه قد ماتنا اثر الذنوب من قدمیه کما یثاثر الوریق من الشجر فاذا ورد المدينة ووافحنی بالسلام صافحته الملائکة بالسلام فاذا ورد ذا الحلیفة واغتسل طهرا لا الله من الذنوب واذا لبس ثوبین جدیدین جدد الله له الحسنات واذا قال لبیک اللهم لبیک اجابه الله تعالی بلبیک وسعدیک اسمع کلامک وانظر الیک واذا دخل مکة فطاف وسعی بین الصفا والمروة او صل الله له الخیرات واذا وقف بعرفات وفتحت له الاصوات بالحاجات باهى الله تعالی بهم ملائکة سبع سموات فیقول ملائکتی وسکان سمواتی اما ترون الی عبادی الوری من کل فج عمیق شعثا غبرا و قد انفقوا الاموال واتعبوا الابدان فوعزتی و

معرض وجود میں آئی تھی اور سب نے لبیک کہہ کر جواب دیا تھا لہذا جس نے اس روز لبیک کہہ دیا وہ حج کے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔

★

**حج، احرام اور تلبیہ کے فضائل** | مجاہد از ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک دفعہ ہم سرکار رسالت صلعم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں یمن سے ایک جماعت آئی اور انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے مانبا آپ پر قربان ہوں ہمیں حج کے فضائل بتا دیجئے فرمایا اچھا سنو جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرے کے ارادے سے نکلتا ہے تو جب وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے اور کوئی قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کے دونوں قدموں سے گناہ اسن طرح جھڑ جاتے جاتے ہیں جیسے (موسم خزاں میں) درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور جب وہ مدینہ میں آتا ہے اور سلام کر کے مجھ سے معافی کرتا ہے تو فرشتے اسے سلام کر کے اس سے معافی کرتے ہیں اور جب ذوالحلیفہ (مدینہ والوں کا میقات ہے جسے بڑھ علی کہا جاتا ہے) کے چشمہ پر پہنچتا ہے اور نہاتا ہے تو اسے حق تعالیٰ گناہوں سے پاک فرماتا دیتا ہے اور جب دو را احرام کے ہنٹے کپڑے پہن لیتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے لئے نیکیوں کی تجدید فرماتا ہے اور جب لبیک اللهم لبیک کہتا ہے تو حق تعالیٰ بھی لبیک وسعدیک فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں تیرا کلام سن رہا ہوں اور تجھے دیکھ رہا ہوں اور جب کہ میں پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو حق تعالیٰ نیکیوں سے اس سے رابطہ قائم فرمالتا ہے اور جب عرفات میں قیام کرتا ہے اور بلند آواز سے اپنی مرادیں مانگتا ہے تو حق تعالیٰ ان حاجیوں پر ساتویں آسمان والے فرشتے



جدلی و کرمی لا ھین مسیئہم بل حسنہم ولا ھرجہم  
 من الذنوب کیوم وضعتمہا مہاتہم  
 فاذا رموا الجمار وحلقوا الرؤس وزاروا البیت  
 نادى مناد من بطن العرش ارجعوا مغفور الکم  
 واستانفوا العمل وروی ان رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم اتاہ اعرابی وقال لہ یا رسول اللہ خرجت الی  
 الحج ففاتنی وانا رجل متزریع یعنی محرم فصرنی  
 بما اصنع فابلق بہ الحج او مثل اجرا الحج فالتفت  
 الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہ  
 انظر الی ابی تیس فلوان لك ابا تیس ذہبا احمر  
 وجعلتہ فی سبیل اللہ ما بلغت ما بلغ الحاج  
 ثم قال علیہ السلام ان الحاج اذا اخذ فی جہار  
 لم یرفع ثبثا ولا یضعہ الا کتب اللہ لہ عشر  
 حسنات ومجاعتہ عشر سیئات ورفع لہ عشر  
 درجات فاذا ركب بعیرہ لم یرفع البعیر خفا  
 ولا یضعہ الا کتب اللہ لہ مثل ذلک فاذا طاف  
 بالبیت خرج من ذنوبہ فاذا سعی بین الصفا  
 والمروة لا یرفع من ذنوبہ فاذا وقف بعرفات خرج  
 من ذنوبہ ثم قال اذا وقف بالمشعر الحرام  
 خرج من ذنوبہ فاذا رمى الجمار خرج من ذنوبہ  
 ثم قال للاعرابی انی لك ان تریب تبلغ ما تبلغ  
 الحاج وعن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ  
 انه قال کنت طائفامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 بالبیت الحرام فنقلت لہ یا رسول اللہ فذلک  
 ابی واما ما هذا البیت فقال یا علی أسس

کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو اور اے میرے  
 آسمانوں پر رہنے والو تم میرے بندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہر در  
 کے علاقہ سے آئے ہیں ان کے بال پرانگندہ ہیں چہروں پر غبار ہے  
 اور کافی مال خرچ کر کے اور سفر کی صعوبتیں اٹھا کر پہنچے ہیں مجھے اپنی  
 عزت و جلالت اور بزرگی کی قسم میں ان میں سے بروں کو ان کے  
 نیکیوں کو دے دوں گا یعنی نیکیوں کی وجہ سے بروں کو بخش دوں گا  
 اور انہیں گناہوں سے اس طرح پاک کر دوں گا جیسے وہ آج ہی  
 دنیا میں پیدا ہوئے ہیں پھر جب حاجی شیطانوں پر کنکریں مارے  
 اور سر منڈوا کر طواف افاضہ کرتے ہیں تو عرش کے نیچے سے  
 ایک اعلان کر نیوالا اعلان کرتا ہے رحما جیوا اللہ تعالیٰ نے تمہیں  
 بخش دیا ہے بچتے ہوئے اپنے اپنے گھر جاؤ آج سے تم از سر نو  
 عمل کرو۔ روایت ہے کہ نبی صلعم کے پاس ایک دیہاتی آکر آپ سے  
 پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حج کے ارادہ سے گھر نکلا تھا لیکن میرا  
 حج فوت ہو گیا اور میں محرم ہوں آپ مجھے کچھ کرنے کا حکم فرمائیں  
 تاکہ مجھے حج کا ثواب یا حج کے اجر کی مانند ثواب مل جائے آپ نے  
 اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کوہ البوقیس کو دیکھو اگر تیرے لئے  
 یہ پہاڑ سرخ سونا بن جائے اور تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے  
 تو تو حاجی کی برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا پھر آپ نے فرمایا کہ جب حج  
 حج کی تیاری کرتا ہے تو جو چیز اٹھاتا یا رکھتا ہے اسی کے عوض حق  
 تعالیٰ شانہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ لیتا ہے اور اس سے دس  
 برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجے بلند فرما دیتا ہے  
 پھر جب اونٹ پر سوار ہوتا ہے تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور  
 رکھتا ہے اسی کے بدلہ حق تعالیٰ حسب سالیکیاں لکھتا برائیاں  
 مٹاتا اور درجات بلند فرماتا ہے پھر جب بیت اللہ کا طواف  
 کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جب صفا اور مروہ



اللہ تعالیٰ هذا البيت في دار الدنيا كفارتا  
 لذنوب امتي فقلت فذاك ابي واهي يا رسول الله  
 ما هذا الحجر الاسود قال صلى الله عليه وسلم تلك  
 جوهرة كانت في الجنة فاهبط الله بها الى دار  
 الدنيا لها شعاع كشعاع الشمس فاشتد سوادها  
 وتغير لونها منذ منتهى ايدى المشركين وعن  
 ابن ابي مليكة عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما  
 انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم يقول ينزل على هذا البيت الحرام في كل  
 ليلة وليلة مائة وعشرون رحمة ستون منها  
 للطائفين بالبيت الحرام واربعون منها للعاكفين  
 حول البيت الحرام وعشرون منها للناظرين  
 اليها وعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن  
 عمر بن سلمة رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه  
 وسلم انه قال يقول الله تعالى ان عبدا صححت  
 له في جسده وفسحت له في عمره وتمضي عليه  
 ثلاثة اعوام لا يجد والى هذا البيت انه  
 محروم انه لمحروم وعن ابي سعيد الخدري  
 رضی اللہ عنہ قال حججنا مع عمر بن الخطاب  
 رضی اللہ عنہ في اول خلافته فدخل المسجد  
 حتى وقف عند الحجر فقال انك حجر لا تقدر  
 ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فقال له علي رضی  
 اللہ عنہ لا تقل هذا يا امير المؤمنين فانه  
 ليضي وينفع باذن الله ولو انك قرأت القرآن

کے درمیان سعی کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جب عرفات میں قیام  
 کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے پھر فرمایا کہ جب مشعر الحرام میں پھرتا ہے  
 تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جب شیطانون پر کنکریں مارتا ہے تو گناہوں  
 سے پاک ہو جاتا ہے پھر آپ نے اس بیہانی سے فرمایا پھر تو کیسے حاجی کے  
 درجہ کو پہنچنا چاہتا ہے۔ حضرت علی: میں نبی صلعم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف  
 کر رہا تھا طواف کرتے کرتے میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ  
 آپ پر قربان ہوں یہ گھر بیت اللہ کیا ہے؟ فرمایا: علی! حق تعالیٰ  
 نے اس گھر کی بنیاد دنیا میں میری امت کے گناہوں کے کفارے کے لئے رکھی  
 ہے، میں نے پوچھا: کہ میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں یہ حج اسود کیا ہے؟  
 فرمایا یہ جنت کا ایک جوہر ہے جسے حق تعالیٰ نے اس دنیا کے گھر میں  
 اتار دیا اس کی کڑی میں سورج کی کرنوں کی طرح قمیص یعنی سورج کی طرح روشن تھا  
 پھر جب سے اسے مشرکوں نے چھونا شروع کر دیا تو اس کا نور سلب ہونے  
 لگا اور اس پر سیاہی چھانے لگی اور سیاہی بڑھتی چلی گئی اور اس کے  
 رنگ میں تبدیلی آگئی۔ ابن ابی بلیکہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے  
 ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں نے نبی اکرم صلعم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اس  
 عزت والے گھر پر روزانہ ۱۲۰ رحمتیں اترتی ہیں۔ جن میں ۶۰ رحمتیں اس  
 گھر کے طواف کرنے والوں کے لئے ہیں اور چالیس اس کے ارد گرد رہنے  
 والوں کے لئے ہیں اور ۲۰ اس کی طرف دیکھنے والوں کے لئے ہیں۔  
 زہری از سعید بن مسیب از عمر بن ابی سلمہ از نبی اکرم صلعم: حق تعالیٰ  
 فرماتا ہے کہ میں نے اپنے جس بندے کو تندرستی دی اور عمر لمبی عطا فرمائی  
 اگر وہ تین سال تک اس گھر کے حج کے لئے نہیں آتا وہ بد نصیب ہے  
 وہ بد نصیب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت  
 عمرؓ کے ساتھ آپ کی خلافت کے شروع میں حج کیا آپ مسجد حرام میں داخل  
 ہوئے اور حجر اسود کے پاس جا کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تو ایک پتھر  
 ہے جو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں اگر میں رسول اللہ صلعم کو



وعلمت ما قیہ لنا انکرت علی فقال له عمر۔  
 رضی اللہ عنہ یا ابا الحسن وما تاویلہ فی کتاب  
 اللہ عزوجل فقال قوله تعالیٰ واذ اخذ ربک من  
 بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی  
 انفسہم الست بربکم فلما اقروا بالعبودیۃ  
 کتب اقرارہم فی ورق ثم دعا الحجر فالقمہ  
 ذلک الورق فہو امین اللہ تعالیٰ علی ہذا الملکا  
 لیشہد لمن وافر لا یوم القیامۃ فقال عمر  
 رضی اللہ عنہ یا ابا الحسن لقد جعل اللہ بین  
 ظہر انیک من العلم غیر قلیل وعن ابی صالح  
 عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم انه قال الحاج والعمار وفد اللہ  
 عزوجل ان دعوا اجابہم وان استغفروا  
 لغفرلہم وعن مجاہد رحمہ اللہ ان النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اغفر للحاج  
 ولمن استغفرلہ الحاج وروی عن الحسن رحمہ  
 اللہ انه قال فی الخبر ان الملائکۃ تیلقون  
 الحاج فیسلمون علی صاحب الجمال ویصافحون  
 اصحاب البغال والحمیر ویعانقون الرجالۃ  
 وروی عن الضحاک رحمہ اللہ عن النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم مرسلانہ قال ایما  
 مسلم خرج من بیتہ قاصدا فی سبیل اللہ  
 فواقضتہ الدابة قبل القتال اولدغته مات  
 او مات بای حنف فہو شہید وایما مسلم  
 خرج من بیتہ الی بیت اللہ تعالیٰ ثم نزل

چومتا ہوا نہ دیکھتا تو میں تجھے نہ چومتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا:-  
 امیر المؤمنین یہ نہ فرمائیے کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے نفع و نقصان پہنچاتا ہے  
 اگر آپ قرآن پڑھتے اور اس کے تمام مسائل آپ کو معلوم ہوتے تو آپ اس کا  
 انکار نہ کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو الحسن: اللہ کی کتاب میں اس کی  
 تفسیر کیا ہے؟ آپ نے آیت واذ اخذ ربک من بنی آدم الخ پڑھ کر سنائی  
 یعنی وہ وقت یاد کر جب آپ پروردگار نے اولاد آدم ان کی نیتوں سے  
 پیدا کی اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ کر کے ان سے پوچھا: کیا میں تمہارا  
 رب نہیں ہوں؟ پھر جب سب نے اپنی غلامی کا اقرار کر لیا تو ایک پرچہ رب  
 حق تعالیٰ نے ان کا اقرار نامہ لکھا پھر حجر اسود کو طلب فرما کر اس کے بیٹ  
 میں پرچہ محفوظ فرما دیا لہذا حجر اسود اس جگہ اللہ تعالیٰ کی امانت کا  
 امین ہے تاکہ قیامت کے دن ان کی طرف سے گواہی دے جنہوں نے  
 وہ عہد پورا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن! حق تعالیٰ نے  
 آپ کے اندر جو علم ودلیلت فرمایا ہے تمہارا نہیں ہے؟ یعنی آپ  
 علم کے معدن ہیں۔ ابوصالح حضرت ابو ہریرہ سے اور وہ نبی صلعم سے  
 روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے  
 حمان ہوتے ہیں اگر وہ حق تعالیٰ سے دعا کریں تو حق تعالیٰ ان کی دعا  
 قبول فرماتا ہے اور اگر وہ اس سے گناہوں کی مغفرت چاہیں تو حق تعالیٰ  
 ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا  
 اے اللہ حاجی کو بخش دے اور اسے بھی جس کے لئے حاجی دعائے مغفرت  
 کر دے۔ حسن سے روایت ہے کہ حدیث میں ہے کہ فرشتے حاجیوں کا  
 استقبال کرتے ہیں اور اونٹ سواروں کو سلام کہتے ہیں اور حجر اور  
 گدھوں والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور پیدل چلنے والے حاجیوں  
 کو گلے لگاتے ہیں صحاح نبی صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا  
 جو مسلمان اللہ کی راہ کا قصد کر کے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے قبل از جا  
 اس کی سواری نے کچل دیا یا اسے کسی زہریلے کیڑے نے ڈس لیا یا کسی

به الموت قبل بلوغه الا اوجب الله له الجنة  
 وعن سفیان بن عیینة رحمه الله عن ابی الزناد  
 عن اعرج عن ابی هريرة رضي الله عنه عن النبي  
 صلى الله عليه وسلم انه قال من حج هذا البيت  
 فلم يرفث ولم يفسق ولم يجهل عاديها ولدته  
 امه وروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله  
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال  
 من حج هذا البيت ثم عاد فلم يرفث ولم  
 يفسق ولم يجهل عاديها ولدته امه وقال  
 صلى الله عليه وسلم ليدخل ثلاثة نفر بالحجة  
 الواحدة الجنة الموصى بها والمنفذ لها والحاج  
 عنه والعمره والجهاد كذلك وعن علي بن عبد  
 رحمة الله قال كنت عدي لابي عبيد القاسم  
 بن سلام سنة من السنين فلما صرت الى الموقف  
 نصرت الى ركن جبل الرخمة فتطهرت ونسيت  
 نفقتي عنده فلما صرت الى المأزمين قال لي  
 ابو عبيد لو اشتريت لنا زيدا وتمرا فخرجت  
 لا يتباع ذلك فتذكرت النفقة ورجعت عودا  
 على بدء الى ان وافيت الموضع فاذا النفقة  
 بها فاخذتها ورجعت وكنت قد صادفت  
 الوادي مملوءا قرودا وخنازير وغير ذلك  
 فجزعت منهم ثم اني رجعت فاذا هم على  
 حالهم حتى دخلت على ابی عبيد قبيل الصبح  
 فبألتني عن امري فاخبرته وذكرت له القرود  
 والخنازير فقال تلك ذلوبي آدمي تركوها وانصرفوا

اور درجہ سے مرگیا تو وہ شہید ہے اور جو علم اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی زیارت  
 کے لئے نکلا پھر اسے بیت اللہ تک پہنچنے سے پہلے ہی موت آگئی تو حق  
 تعالیٰ یقیناً اس پر رحمت واجب فرمادیتا ہے۔

سفیان بن عیینة از ابو الزناد از اعرج از ابو هريرة از نبی صلعم جس نے  
 اس گھر کا حج کیا اور گناہ نہیں کیا اور نہ فسق میں مبتلا ہوا اور نہ جہالت میں  
 تو اس حال میں لوٹے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔

سعيد بن مسيب رسول الله صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا  
 کہ جس نے اس گھر کا حج کیا پھر گھر کو اس حال میں واپس ہوا کہ گناہ نسق  
 اور جہالت کی کوئی بات نہیں کی تو اس حال میں واپس ہوا جیسے آج  
 ہی پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ ایک حج سے تین آدمی  
 جنت میں جائیں گے حج کی وصیت کر نیوالا اور وصیت کو جاری کر نیوالا  
 اور وصیت کے مطابق حج ادا کر نیوالا اور جہاد و عمرہ کا بھی حکم یہی ہے

علی بن عبد العزیز: میں ایک سال ابو عبیدہ قاسم بن سلام کے مسافر تھا پھر  
 جب میں عرفات پہنچا تو جبل رحمت پر گیا۔ وہاں میں نے وضو کیا اور اپنا  
 بٹو اور پین بھول گیا جب ما زمین میں آیا تو مجھ سے ابو عبیدہ نے فرمایا کیا  
 ہوا اگر تم ہمارے لئے مکھن اور کھجوریں خرید لاؤ جب میں ان چیزوں کے  
 خریدنے کے لئے چلا تو مجھے اپنا بٹو یاد آیا اور میں فوراً جبل رحمت پر گیا  
 اور اسی جگہ پہنچا جہاں میں نے وضو کیا تھا بٹو اور پین رکھا ہوا تھا جہاں  
 میں اسے بھولا تھا میں اسے اٹھا کر واپس آیا میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے  
 بندروں اور دوسرے جانوروں سے بکھر ہوئی تھی میں ان جانوروں  
 سے خوفزدہ ہوا اور وہاں سے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا لیکن جانور اپنے  
 حال پر رہے اور کوئی جانور میری طرف نہیں آیا بالآخر میں صبح سے  
 کچھ پہلے ابو عبیدہ کے پاس پہنچا انہوں نے میرے لگانے کی وجہ پوچھی میں نے  
 انہیں اپنا سارا قصہ سنا دیا فرمایا یہ اولاد آدم کے گناہ ہیں کہ وہ  
 انہیں اس وادی میں چھوڑ کر چلے گئے۔



**فصل:** واختلفوا في تسمية يوم التروية  
 والتروية اسم اليوم الثامن من شهر ذي الحجة  
 وهو اليوم الذي يخرج الناس فيه من مكة الى  
 منى نسعى تروية لان الناس يرتون فيه من ماء  
 زمزم والتروية تفعلة من قولهم ارتوى اذا استقى  
 الماء وسقى وشرب واغتسل والناس يسقون  
 من ماء زمزم في ذلك اليوم مستكثرين وقيل  
 سميت التروية لان ابراهيم عليه السلام رأى  
 في المنام في ليلتها انه يدبح ولدا فلما اصبح تروى  
 وتفكر انه من العدا والشيطان ام من الحبيب  
 الرحمن فبقى ذلك اليوم متفكرا فيما رأى فلما  
 كان يومعرفة قيل له افعل ما تومر به  
 فعرف انه من الحبيب فلهذا اسمى يومعرفة  
 قوله عز وجل واذن في الناس بالحق امر خليلك  
 بدعوة عبادة الى بيته والدعوات اربعة دعوة  
 الله لعبادة قال الله عز وجل والله يدعو  
 الى دار السلام دعاهم من دار الى دار دعاهم  
 من دار التكليف الى دار الشرف من دار  
 الغيبة الى دار المشاهدة ومن دار الزوال  
 الى دار البقاء ومن دار البلوى الى دار المولى  
 دعاهم من دار اولها بقاء ووسطها اغناء  
 و آخرها فناء الى دار اولها عطاء ووسطها رضاء  
 و آخرها لقاء والثانية دعوة النبي صلى الله عليه  
 وسلم دعاهم الى دين الاسلام قوله عز وجل  
 ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

تروية کی وجہ تسمیہ علماء کا یوم الترویہ کے وجہ تسمیہ کے بارے میں  
 اختلاف ہے۔ ترویہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کو کہتے ہیں اسی دن  
 حاجی حج کا احرام باندھ کر کہ معطر سے منی جاتے ہیں اسے ترویہ  
 اس لئے کہا جاتا ہے کہ لوگ آج آب زمزم خوب سیراب ہو کر پیتے ہیں  
 ترویہ باب تفعیل کا مصدر ہے ارتوی فلان یعنی پانی خود بھی پیا،  
 دوسروں کو بھی پلا یا اور نہایا بھی لوگ اس دن آب زمزم خوب پیتے ہیں  
 بعض کے نزدیک اس دن کہ ترویہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس دن کی  
 شب کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا  
 صبح کو آپ نے اس خواب کے بارے میں غور کیا کہ آیا یہ خواب شیطان  
 کی طرف سے ہے جو ہمارا دشمن ہے یا محبوب رحمن کی طرف سے؟ اس  
 دن آپ اپنی خواب کے بارے میں غور و فکر میں رہے پھر آپ نے  
 عرفہ کی شب کو یہی خواب دیکھا آپ سے کہا گیا جس بات کا آپ کو  
 حکم ہے اسے کہ گزریے اب آپ پہچان گئے کہ یہ خواب حبیب کی طرف  
 سے ہے اسی بنا پر عرفہ کو عرفہ کہا گیا ہے یہ جو خلیل اللہ کو حکم دیا گیا کہ لوگوں  
 میں حج کا اعلان کر دیں اس میں حق تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم فرمایا ہے کہ  
 آپ اللہ کے بندوں کو بیت اللہ کی دعوت دیں۔

**دعوتیں چار ہیں** یاد رکھیے دعوتیں چار ہیں اللہ کی دعوت،  
 رسول کی دعوت، مؤذن کی دعوت اور حضرت ابراہیم کی دعوت اللہ  
 کی دعوت یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو دارالسلام کی دعوت دی  
 فرمایا اور اللہ تعالیٰ دارالسلام کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو  
 ایک گھر سے دوسرے گھر کی دعوت دی۔ تکلیف والے گھر سے عزت و  
 تشریف والے گھر کی طرف غیب والے گھر سے مشاہدہ والے گھر کی طرف  
 فنا کے گھر سے بقا کے گھر کی طرف اور آزمائش کے گھر سے مولیٰ کے گھر کی  
 دعوت دی انہیں ایسے گھر سے دل نہ لگانے کی دعوت دی جس کے آغاز  
 میں رونا اور میان میں تکلیف دکھ اور اخیر میں فنا ہے اور ایسے

الآیة فالدعوة الیہ صلی اللہ علیہ وسلم و  
 الهدایة لیست الیہ كما قال علیہ الصلاۃ و  
 السلام بعثت ہادیا و لیس الی من الہدایة  
 شیء و بعث ابلیس غاویا و لیس الیہ من الضلالة  
 شیء و قال اللہ عزوجل انک لا تہدی من احببت  
 و لکن اللہ یرہدی من یشاء و سأل النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم ہدایة عمہ ابی طالب فاجاب  
 ان یرہدی و ہدی و حشیا قاتل حمزة رضی اللہ  
 عنہما کانه عزوجل یقول لنبیہ علیہ السلام  
 یا محمد علیک الدعوة کما قال عزوجل یا  
 ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک و قال تعالی  
 انارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا  
 الی اللہ باذنہ و سر اجاب نبیرا الآیة و لک  
 الشفاعة و اما الاجابة و الہدایة فالی  
 قال اللہ عزوجل یرہدی اللہ لنورہ من یشاء  
 قوله تعالی و لو شئنا لا تیناکل نفس ہداھا  
 و الثالثة المؤذن یدعو الی الصلاۃ و الی دار  
 امر اللہ تعالی قال اللہ تعالی و من احسن قول  
 من دعا الی اللہ و عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ  
 عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه  
 قال ان المؤذنین و الملبین یوما القیامة یخرجون  
 من قبورہم المؤذن یؤذن و الملبی یلبی و یتغفر  
 للمؤذن مدی صوتہ و یشہد لہ کل رطب و  
 یابس من شجر و مدر سمع صوتہ و یکتب  
 للمؤذن بكل انسان صلی فی ذلک المسجد مثل

گھر کی رغبت دلائی جس کے آغاز میں عطا درمیان میں رضا اور اخیر میں اللہ سے  
 ملاقات ہے۔ دوسری دعوت نبی صلعم کی دعوت ہے آپ نے اپنی امت کو  
 اسلام کی دعوت دی فرمایا آپ حکمت اور اچھی نصیحت کیساتھ لوگوں کو اپنے  
 رب کی راہ کی طرف بلائیں لہذا نبی صلعم کا فرض صرف دعوت ہے منزل پر پہنچا دینا  
 آپ کا فرض نہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہادی بنا کر بھیجا گیا اور منزل پر پہنچا  
 پہنچانے میں میرا ذرا سا بھی حصہ نہیں اور ابیس غادی رگراہ کرنے والا ہے  
 بنا کر بھیجا گیا لیکن گمراہی میں اس کا ذرا سا بھی حصہ نہیں یعنی ہدایت و ضلالت  
 اللہ ہی کے اختیار میں ہے فرمایا آپ جسے چاہیں ہدایت پر نہیں لاسکتے ان اللہ ہی  
 جسے چاہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے نبی صلعم نے اپنے چچا ابوطالب کی ہدایت  
 کی دعا کی لیکن حق تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول نہیں فرمائی اور وحشی قاتل حمزہ کو  
 ہدایت عطا فرمادی گو یا حق تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے محمد آپ کے  
 ذمہ دعوت ہے فرمایا اے رسول آپ پوچھو کچھ اناراجائے آپ اسکی تبلیغ  
 کر دیں دوسری جگہ فرمایا ہم نے آپکو شہداء مژدہ سنانے والا اور ڈرانے والا اور  
 اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا آپ کے  
 شفاعت کا حق ہے اور شفاعت کا قبول کرنا اور لوگوں کو ہدایت پر لانا  
 ہمارا کام ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا  
 ہے اور فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت عطا فرما دیتے۔  
 تیسری دعوت مؤذن کی ہے جو نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی دعوت  
 دیتا ہے فرمایا اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے  
 اور نیک عملوں میں مصروف رہتا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے  
 فرمایا کہ مؤذن اور لیبیک کہنے والے قیامت کے دن اپنی قبروں سے  
 اذانیں دیتے ہوئے اور لیبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے مؤذن کی جہان تک  
 آواز جاتی ہے اس کے لئے ہر خشک و تر شے جس نے اس کی آواز سنی ہے  
 دعائے مغفرت کرتی ہے اور گو اسی بھی دیکھی خواہ وہ درخت ہوں یا پستی



حسانہ و یعطیہ اللہ تعالیٰ ما بین الاذان والاقا  
 کل شیء و سالہ امان یعجلہ فی الدنیا و البصرین  
 عنہ سواد اوید خولہ فی الآخرة و روی ان النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم جاء لا رجل فقال یا رسول  
 اللہ اخبر فی بعزل واحد ادخل به الجنة فقال  
 تكون مؤذن قومک یجمعون بک صلاتهم  
 قال یا رسول اللہ فان لم اطق قال تکون امام  
 قومک یتقیون بک صلاتهم قال فان لم اطق  
 قال فعلیک بالصف الاول وعن عائشة  
 اما المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت نزلت هذه  
 الآیة فی المؤمنین ومن احسن قول من دعا  
 الی اللہ وعمل صالحا یعنی دعا الخلق الی الصلوة  
 و صلی بین الاذان والاقامة وعن ابی امامة  
 الباہلی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 قال یغفر للمؤذن صدی صوتہ ولہ مثل اجر  
 من صلی معہ من غیر ان ینقص من اجرہم  
 شیئا وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ  
 ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المریض  
 ضیفت اللہ ما دام فی مرضہ یرفع لہ کل  
 یوم غسل سبعین شهید ا فان عافا فاللہ  
 من مرضہ فیخرج من ذنوبہ کیموم وضعته  
 امہ وان قضی علیہ بالموت ادخلہ الجنة  
 بغیر حساب وقال بعضہم المؤذن احلج  
 اللہ تعالیٰ یعطی بکل اذان ثواب الف نبی  
 والامام و زیر اللہ یعطی بکل صلاۃ ثواب

۶۲  
 ڈھینے اور مؤذن کو اس کی مسجد میں ہر نماز کی تکبیر کی برابر نیکیاں  
 ملتی ہیں اور حق تعالیٰ اس کی اذان و تکبیر کے درمیان ہر دعا قبول فرماتا  
 ہے یا تو دنیا ہی میں اس کی مرادیں بر لانا ہے یا اس سے برائی مٹا دیتا  
 ہے یا اس کی آخرت کے لئے ذخیرہ بنا کر رکھ چھوڑتا ہے۔  
 منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی صلعم کے پاس آکر کہا کہ اے اللہ کے  
 رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے مجھے جنت مل جائے فرمایا  
 تم اپنی قوم کے لئے مؤذن بن جاؤ تاکہ تمہارے سب سے لوگ نماز  
 پڑھنے کے لئے آئیں بولا یا رسول اللہ اگر مجھ میں اسکی طاقت نہ ہو  
 فرمایا تو اپنی قوم کے امام بن جاؤ کہ تمہاری وجہ سے وہ اپنی نماز میں  
 قائم کریں بولا اگر مجھ میں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو؟ فرمایا تو پھر تم  
 پہلی صف میں شامل ہونے کا اہتمام کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ  
 ومن احسن قول لمن دعا الخ مؤذنین کے بارے میں اتربی یعنی مؤذن  
 لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا ہے اور اذان و تکبیر کے درمیان نماز پڑھتا  
 حضرت ابوامامہ باہلی: سرور عالم صلعم نے فرمایا کہ مؤذن کو اس کی  
 آواز کی دوسری تکبیر یا جانا ہے اور جتنے نمازی اس کے ساتھ نماز  
 پڑھیں گے ان سب کے برابر اسے اجر ملتا ہے اور نمازیوں کے اجر نہیں  
 گھٹائے جاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلعم  
 نے فرمایا کہ مریض جب تک بیمار ہے اللہ کا سہاں ہے  
 اور اس کے لئے روزانہ ستر شہیدوں کا ثواب بلند کیا جاتا  
 ہے پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دیتا ہے اور تندرستی عطا  
 فرمادیتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا  
 ہوا ہے اور اللہ اسے موت دیدیتا ہے تو بلا حساب کے اس کو جنت میں  
 داخل فرمادیتا ہے۔ بعض علماء: مؤذن اللہ کا دربان ہے اسے ہر  
 اذان کے بدلہ ایک ہزار انبیاء کے عملوں کا ثواب دیا جاتا ہے اور امام  
 اللہ کا وزیر ہے اسے ہر نماز کے عوض ایک ہزار صدیقوں کے عملوں کا

الف صدیق والعالم وکیل اللہ تعالیٰ یعطی بكل حدیث  
 نوراً یوم القيامة وکتب له عبادۃ الف سنة و  
 المتعلمون من الرجال والنساء هم خدم اللہ فما  
 جزاؤهم الا الجنة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 اطول الناس اعناقاً یوم القيامة المؤمنون وقال  
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اذن سبع سنین  
 اعتقه اللہ من النار بعد ان یحسن نیتہ وقال  
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغفر اللہ تعالیٰ للمؤذن  
 مدی صوتہ ویصدقہ کل ما سمعہ من رطب  
 ویابس واما الدعوة الرابعة فدعوة ابراهیم  
 الخلیل علیہ السلام قوله عزوجل واذن فی  
 الناس بالحق الاية وقد ذکرنا ہا فی اول المجلس۔  
 میں روشنی ڈال آئے ہیں۔

ثواب دیا جاتا ہے اور عالم اللہ تعالیٰ کا دیکل ہے اسے ہر  
 حدیث کے بدلہ قیامت کے دن نور عطا کیا جائے گا اور اس کے  
 لئے ایک ہزار سال کی عبادت لکھی جائے گی اور طلبہ وخواہ مرد  
 ہوں یا عورتیں اللہ کے خدام ہیں ان کی جزا بجز جنت کے  
 کیا ہو سکتی ہے۔

نبی اکرم صلعم نے فرمایا: قیامت کے دن لوگوں میں سب سے  
 زیادہ لمبی گردنوں والے مؤذن ہوں گے، فرمایا: جو سات سال  
 تک نیک نیتی کے ساتھ اذان دیتا رہا حق تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد  
 فرمادے گا، فرمایا: حق تعالیٰ مؤذن کو جہاں تک اس کی آواز پہنچتی  
 ہے ثواب عطا فرماتا ہے اور اسکی آواز خشک و تر جو چیز سنتی ہے وہ  
 اس کے حق میں شہادت دیگی۔ چوتھی دعوت دعوت خلیل اللہ ہے،  
 فرمایا: آپ لوگوں کو حج کے لئے پکاریں ہم اس آیت پر آغاز مجلس

## اسٹوری مجلس

فی فضائل یومعرفة قال اللہ عزوجل الیوم  
 اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی  
 ورضیت لکم الاسلام دینا ہذا الاية نزلت  
 بعرفات دون سائر آیات ہذا السورۃ لانہا  
 نزلت بالمدينة وہی سورۃ المائدۃ وقوله  
 تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم یعنی شرائع  
 دینکم من الحلال والحرام واتممت علیکم  
 نعمتی ای منتی علیکم ای لا یجتبع معکم بجزائ  
 کافر ولا مشرک ورضیت لکم الاسلام دینا  
 یعنی اخترت لکم دین الاسلام نزلت ہذا

عرفہ کی تفصیلت | حق تعالیٰ نے فرمایا: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا  
 دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں تمہارے  
 لئے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔

یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جو عرفات میں اتری باقی تمام سورت  
 مدینہ میں اتری حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تم پر تمہارے دین کے  
 تمام احکام عموماً اور احکام حلت وحرمت خصوصاً مکمل کر دئے اور  
 میں تم پر اپنا احسان پورے طور پر ظاہر فرما دیا یعنی عرفات میں اب  
 کبھی تمہارے ساتھ کافر اور مشرک جمع نہ ہوں گے اور میں نے  
 تمہارے لئے دین اسلام منتخب کر لیا۔

یہ آیت عرفہ کے دن عرفات میں حجۃ الوداع میں اتری اس کے



الآية يوم معرفة بعرفات في حجة الوداع ثم مكث  
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزولها إحدى  
وثمانين يوماً ثم قبضه الله تعالى إلى رحمة ورضوانه  
مروى ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  
عنه وغيره من المفسرين وقال محمد بن كعب  
القرظي رحمه الله نزلت هذه الآية يوم فتم  
مكة وقال جعفر الصادق رحمه الله اليوم إشارة  
إلى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ويوم رسالته  
وقيل إن اليوم إشارة إلى يوم الأزل والانتقام إشارة  
إلى الوقت والرضا إشارة إلى الأبد وقيل إن كمال  
الدين في شيئين في معرفة الله تعالى وإتباع سنة  
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كمال الدين في  
الإيمان والفراخ لأنك إذا كنت آمناً بما تكفل الله  
تعالى لك صرت فارغاً لعبادته وقيل كمال الدين في  
التبري من الحول والقوة والرجوع من الكل إلى من  
له الكل وقيل إن كمال الدين حيث رجع الحج إلى يوم  
عرفة لأنهم كانوا يجعون كل سنة في كل شهر  
فلما رزق الله وقت الحج إلى الحليقات وجعله فريضة  
انزل اليوم أكملت لكم دينكم والدين على وجه  
عبادته في القرآن منها بمعنى الدنيا وهو قوله  
عز وجل ما كان لياخذ أخاه في دين الملك يعني  
في دنيا لا عبادته وسيرته ومنها الحساب  
قوله عز وجل ذلك الدين القيم يعني الحساب المستقيم  
ومنها الجزاء قوله عز وجل يومئذ يوفيهم الله  
وبينهم الحق أي الجزاء العدل ومنها معنى الحكم

اترنے کے بعد ۸۱ دن زندہ رہے پھر آپ کو حق تعالیٰ جل مجدہ  
نے اپنی رحمت ورضا کی طرف بلا لیا اور آپ اس دنیا سے سدا  
گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ مفسرین ہی تفسیر بیان  
کرتے ہیں۔

محمد بن کعب قرظی: یہ آیت فتح مکہ کے دن اترئی۔

جعفر صادق: ایوم سے نبی اکرم صلعم کی بعثت ورسالت کی طرف  
اشارہ فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایوم سے ازل کی طرف  
اور اتمام نعمت سے وقت کی طرف اور رخصت سے ابد کی طرف  
اشارہ ہے۔

کہا جاتا ہے کہ دین کمال دو چیزوں میں ہے یعنی حق تعالیٰ کی  
معرفت میں اور اتباع سنت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دین کمال  
امن و فراغت میں ہے کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ کی ضمانت کی وجہ  
سے بے خوف ہو گئے تو اس کی عبادت کے لئے فارغ البال ہو گئے  
یا کمال دین اپنی طاقت و قوت سے برأت کا اظہار کرنا اور سب  
کی طرف سے ہٹ کر اس کی طرف آنا ہے جو کائنات کا مالک ہے  
یا دین میں کمال اس وقت آیا جب حج عرفہ کے دن لوٹ کر  
آیا کیونکہ مشرک ہر سال ہرمینہ میں حج کیا کرتے تھے پھر جب حق  
نے حج کا وقت مقرر فرما دیا اور حج فرض کر دیا تو یہ آیت اتاری  
یعنی ایوم اکملت لكم الحج اتاری۔

قرآن حکیم میں دین کا اطلاق کئی معانی پر آیا ہے مثلاً  
ماکان لیاخذ الخ میں کہ حضرت یوسفؑ کے دین کی رو سے اپنے  
بھائی کو روک نہیں سکتے تھے یعنی شاہی قانون کے مطابق چور کو  
روک نہیں جاسکتا تھا۔ دین کا اطلاق حساب پر بھی آیا ہے فرمایا یہ  
سیدھا حساب ہے اور جزا پر بھی فرمایا جس دن حق تعالیٰ انہیں  
پوری پوری عدل والی جزا دیگا اور حکم پر بھی فرمایا اور بدکاروں

قوله عز وجل ولا تأخذكم بهما أرخة في دين الله  
يعني في حكم الله ومنها بعثي العيد قوله تعالى و  
ذرا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا يعني عيد هم  
ومنها الصلاة والزكاة قوله تعالى ذلك دين  
القيمة ومنها القيامة قوله تعالى اياك يوم الدين  
ومنها الشريعة قوله عز وجل اليوم اكملت لكم  
دينكم يعني شرايع دينكم۔

**فصل:** قوله اليوم اكملت لكم دينكم  
وذلك ان الله تعالى انزل الكتاب جملة واحدة  
وانزل الفرقان متفرقا فقبل ايها احسن نزولا  
قيل القرآن احسن لأن الله تعالى لما انزل  
التوراة جملة واحدة قبلها بنو اسرائيل فعلموا  
بها قليلا فتقلت عليهم تلك الاوامر والنواهي  
التي في التوراة فقالوا سغتنا وعصينا واما القرآن  
فانزله الله شيئا بعد شيء وعلى التدرج متفرقا  
فادل ما امر الله المؤمنين بقوله لا اله الا الله  
محمد رسول الله وضمن لهم اذا قالوها الجنة  
نسعوا واطاعوا ثم امرهم باقامة صلاتين  
ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غروبها  
ثم امرهم بالصلاة الخمس ثم امرهم بالجمعة  
على الجماعة بعد الهجرة ثم امرهم بالزكاة  
ثم امرهم بصوم عاشوراء ثم امرهم بصوم  
ثلاثة ايام من كل شهر ثم امرهم بصوم شهر  
رمضان ثم امرهم بالجهاد ثم امرهم بالجمعة  
ثم اذنت الاوامر والنواهي انزل الله على

اللہ تعالیٰ کے حکم میں نرمی نہ برتو۔ اور عید پر بھی فرمایا: آپ  
انہیں چھوڑ دیں جنہوں نے اپنی عید لہو و لعب بنالی ہے۔

اور نماز و زکوٰۃ پر بھی فرمایا: اور وہ نماز و زکوٰۃ  
سچا دین ہے یعنی اصل دین نماز و زکوٰۃ ہی ہے۔

اور قیامت پر بھی فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا  
مالک ہے اور شریعت پر بھی فرمایا آج میں نے تمہارا دین یعنی  
تمہاری شریعت مکمل کر دی۔

**تکمیل دین کی وضاحت** تکمیل دین کے سلسلے میں عرض ہے کہ

حق تعالیٰ شانہ نے قرآن حکیم سے پہلے تمام آسمانی کتابیں ایک ہی بار  
اکٹھی اتریں اور قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا کر کے ۲۳ سال میں اترا اب

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کونسا اترنا اچھا ہے اس کا جواب یہی ہے  
کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا اچھا ہے لہذا اس اعتبار سے پہلے قرآن

دیگر آسمانی کتابوں سے افضل ہے کیونکہ تورات ایک ہی بار اکٹھی اتری  
اور نبی اسرائیل نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر قدرے عمل بھی کیا

لیکن ان پر تورات کے اوامر و نواہی گراں گزرے اور انہوں نے  
طہیبت بن کر صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کے احکام سن کر اللہ

کی نافرمانی کی کیونکہ اس کے احکام پر عمل کرنا ہمارے بس کی نہیں لیکن  
قرآن حکیم بتدریج تھوڑا تھوڑا ۲۳ سال تک اترا تا کہ سب سے

پہلے حق تعالیٰ نے مومنوں کو توحید و رسالت کے اقرار و تسلیم کرنے کا  
حکم فرمایا اور ان دونوں باتوں کو تسلیم کرنے والوں کو جنت کی ضمانت

دی مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سن کر سزا طاعت چھوڑ  
دیا پھر دو نمازوں کا حکم ہوا کہ سورج نکلنے سے پہلے دو گانہ پڑھو اور سورج ڈوبنے کے بعد بھی

پڑھو۔ پھر نیچے نماز کا حکم ہوا پھر ہجرت کے بعد جمع ہو کر جمعہ کا حکم ہوا پھر زکوٰۃ ادا  
کرنے کا حکم ہوا، پھر عاشوراء کے روزے کا حکم ہوا، ہر ماہ تین دن روزوں کا حکم

ہوا، پھر رمضان المبارک کے روزوں کا حکم ہوا پھر جہاد کا حکم ہوا پھر حج و عمرہ کا



رسوله في حجة الوداع اليوم اكملت لكم دينكم  
 الآية وكان ذلك يوم الجمعة ويوم عرفة كذلك  
 نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال طارق  
 بن شهاب رحمه الله جاء رجل من اليهود الى عمر  
 بن الخطاب رضي الله عنه فقال له آية تقرأونها  
 لو كانت نزلت علينا وعلينا ذلك اليوم لا اتخذناه  
 عيد ا فقال له عمر رضي الله عنه اي آية فقال  
 اليوم اكملت لكم دينكم الآية فقال عمر رضي  
 الله عنه قد علمت في اي يوم نزلت وفي اي مكان نزلت  
 انها نزلت يوم عرفة ويوم الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم وقوف بعرفات وكلاهما يحمده الله  
 تعالى لنا عيد ولا يزال هذا اليوم عيد للمسلمين  
 ما بقى واحد وقال رجل من اليهود لابن عباس  
 رضي الله عنهما لو كان هذا اليوم فينا لا اتخذناه  
 عيد ا قال له ابن عباس رضي الله عنهما واتي  
 عيد اكمل من يوم عرفة.

**فصل:** واختلف العلماء في المعنى الذي ارجله

قيل للوقوف بعرفات وليوم الموقف به عرفة  
 فقال الفحاح ان آدم عليه السلام لما اهبط  
 الى الارض وقع بالهند وحواء بجدة فاجعل آدم  
 يطلب حواء وهي تطلبه فاجتمع بعرفات ليوم عرفة  
 وتعارفا سمي هذا اليوم عرفة والموضع عرفات  
 وقال السدي انها سميت عرفات لان هاجر  
 حملت اسماعيل عليه السلام فاخرجته من  
 عند سارة وكان ابراهيم عليه السلام غائبا

لا حكم هوا پھر جب یہ تمام ادا ہو کر وہاں پہنچے تو حق تعالیٰ نے  
 حجۃ الوداع میں اپنے رسول پر ایوم اکملت لکم دینکم کے دن  
 عرفات میں عرفہ کے دن اتاری اسی طرح حضرت عمر رضی عنہ سے منقول ہے  
 طارق بن شہاب: حضرت عمر رضی عنہ کے پاس ایک یہودی نے  
 آ کر کہا کہ ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو اگر وہ آیت ہم پر اتری اور  
 اس کے اترنے کا دن ہمیں معلوم ہوتا تو ہم اس دن کو عید کا دن  
 مقرر کر لیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا: کونسی آیت  
 اس نے کہا ایوم اکملت لکم الحجۃ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے  
 فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن اور کس جگہ اتری یہ آیت عرفہ  
 کے دن جو جمعہ کا بھی دن تھا اتری جب کہ ہم رسول اللہ صلعم کے ساتھ  
 عرفات میں کھڑے ہوئے تھے اور یہ دونوں دن بحمد اللہ ہمارے لئے  
 عید کے دن ہیں اور یہ دن مسلمانوں کے لئے برابر عید ہی کا دن ہے  
 گاجب تک ایک مسلمان بھی باقی رہے گا۔

ایک یہودی نے حضرت ابن عباس رضی عنہما سے کہا اگر یہ دن ہم میں تو  
 تو ہم اس میں عید منایا کرتے حضرت ابن عباس رضی عنہما نے فرمایا عرفہ کے  
 دن سے بڑھ کر کونسی عید ہو سکتی ہے؟

موقف کو عرفات اور روزہ موقف کو عرفہ کہنے کی وجہ اس میں

علماء کا اختلاف ہے۔

ضحاک: جب حضرت آدم زمین پر اتارے گئے تو آپ ہند میں  
 اور حواء جدہ میں اتریں اور حضرت آدم حواء کو اور حواء حضرت  
 آدم کو ڈھونڈنے لگیں پھر دونوں عرفہ کے دن عرفات میں جمع  
 ہو گئے اور ہر ایک نے دوسرے کو پہچان لیا لہذا اس دن کا نام  
 عرفہ اور جبکہ کا نام عرفات پڑ گیا۔

سیدی: عرفات کو عرفات اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم  
 اسماعیل کو لے کر حضرت سارہ کے پاس سے نکل گئیں حضرت ابراہیم

فلما قام لم ير اسما عيل عليه السلام وحدثته  
ساره بالذي صنعت هاجر فانطلق في طلب اسماعيل  
فوجداه مع هاجر بعرفات فعرفه نسبت عرفات  
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
ان ابراهيم عليه السلام عند امن فلسطين  
فحلفت ساره ان لا ينزل عن ظهر وابتدحت حتى  
يرجع اليها من الغيبه فاتي اسماعيل ثم رجع  
محبسته ساره سنة ثم استاذنها فاذنت له فخرج  
حتى بلغ مكة وجبالها فكان ليله يسير ويسعى  
حتى اذن الله عز وجل له في ثلث الليل الاخير  
عند سد جبل عرفات فلما اصبح عرف البلاد  
والطريق فجعل الله عز وجل عرفه حيث عرف  
فقال اللهم بيتك في احب بلادك اليك حيث  
تهوى اليه قلوب المسلمين من كل فج عميق وقال  
عطاء رحمه الله انما سببت عرفات لان جبريل  
عليه السلام كان يري ابراهيم عليه السلام  
المناسك فيقول له عرفت ثم يريه فيقول عرفت  
فسببت عرفات وروى سعيد بن المسيب  
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال  
بعث الله عز وجل جبريل الي ابراهيم عليهما  
السلام فحج به حتى اذا اتى عرفات قال له قد  
عرفت قال وكان قد اتاها مرة من قبل ذلك  
فسببت عرفات وروى ابو الطفيل رحمه الله  
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سببت  
عرفه لان جبريل عليه السلام اتى ابراهيم عليه  
السلام

موجود نہ تھے جب آپ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کو نہیں پایا اور سارہ نے  
تنبایا کہ ہاجرہ بچہ کو لے کر چلی گئیں آپ اسماعیل کو ڈھونڈنے نکلے اور  
انہیں ہاجرہ کے پاس عرفات میں پایا اور اسماعیل کو پہچان لیا اس لئے اس  
جگہ کا نام ہی عرفات ہو گیا۔

رحمت عالم صلعم نے فرمایا: حضرت ابراہیم فلسطین سے روانہ ہوئے  
تو حضرت سارہ نے ازراہ غیرت قسم دلا دی کہ آپ جب تک ہمارے  
پاس واپس نہ آئیں سواری سے نیچے نہ اتریں بالآخر آپ اسماعیل کے  
پاس آئے اور سواری سے اترے بغیر ہی واپس لوٹ گئے پھر حضرت  
سارہ نے آپ کو ایک سال تک روکے رکھا پھر آپ نے سارہ سے  
کہ جانے کی اجازت مانگی آپ نے اجازت دیدی آخر کار حضرت  
ابراہیم رات میں مکہ معظمہ کے پہاڑوں میں پہنچے آپ رات میں بھاگے  
جسے جازبے تھے حتیٰ کہ حق کی مشیت سے آپ پھیلی نہائی رات میں  
کوہ عرفات کے دامن میں پہنچ گئے صبح ہوئی تو آپ نے شہروں کو  
اور راستوں کو پہچان لیا تو حق تعالیٰ نے اس دن کا نام عرفہ رکھا کیونکہ  
اسی دن آپ نے شہر کو اور راہ کو پہچانا تھا پھر آپ نے دعا مانگی  
کہ اے اللہ! اپنا گھر اس شہر میں بنا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا  
ہو اور جہد و درود سے آنے والے مسلمانوں کے دل مائل ہوں۔  
عطاء: عرفات کو عرفات اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل  
حضرت ابراہیم کو عبادت کا ایک ایک مقام دکھا کہ ان سے پہنچے  
تھے پہچان گئے؟ پہچان گئے؟ لہذا اس مقام کا نام ہی عرفات پڑ گیا  
سعد بن مسیب از علی بن ابی طالب: حق تعالیٰ نے حضرت جبریل کو  
حضرت ابراہیم کی خدمت میں بھیجا آپ نے حضرت ابراہیم کو  
حج کرایا پھر جب عرفات آئے تو آپ نے حضرت خلیل سے پوچھا:  
پہچان گئے؟ فرماتے ہیں اس سے قبل حضرت ابراہیم ایک دفعہ عرفات  
میں پہنچے تھے بنا بریں اس جگہ کا نام عرفات رکھ دیا گیا۔



فاراہ بقاع مکتہ و مشاہدہا فکان یقول یا  
 ابراہیم ہذا موضع کذا و ہذا موضع کذا فیقول  
 قد عرفت قد عرفت و روی اسباط عن السد رحمہما اللہ  
 قال لما اذن ابراہیم علیہ السلام للناس بالحدیج اجابوا  
 بالتلبیۃ و اتوا من اتاہ فامرہ اللہ عزوجل ان  
 ینخرج الی عرفات و لغتہا لہ فخرج فلما بلغ الشجرۃ  
 استقبلہ الشیطان علی الجمرة الثالثة التي هی  
 جمرة العقبة فرماہ لا سبع حصیات و کبر مع  
 کل حصاة فطار فوق علی الجمرة الثانية فرماہ  
 و کبر فطار فوق علی الجمرة الاولى فرماہ فکبر  
 فلما رأى انہ لا یطيقہ ذهب فانطلق ابراہیم  
 حتی اتى ذوالمجاز فلما نظر الیہ لم یعرفہ فجار  
 فلذک سمي ذوالمجاز ثم انطلق حتی وقف بعرفات  
 فلما نظر الیہ بالنعۃ عرفہا فقال عرفت  
 فسمیت عرفات بذک و سمي ذک الیوم  
 یوم عرفۃ حتی اذا امسى ازدلف الی جمع فسمیت  
 مزدلفة و انما سمي جمعاً لانہ یجمع فیہ بین  
 الصلاتین المغرب والعشاء و انما سمي المشعر  
 الحرام لان اللہ اشعر الناس و اعلمہم بانہ  
 حرم کسائر بقاع الحرم کیلاً یا توافیہ بمحرم  
 و عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما  
 قال انما سمیت ترویۃ و عرفۃ لان ابراہیم  
 علیہ السلام رأى لیلۃ الترویۃ فی منامہ  
 انہ یومر بذبح ابنہ فلما اصبح روی یومہ اجتمع  
 ای تفکر من اللہ ہذا الحلم من الشیطات

ابو الطفیل از ابن عباس: اسے عرفات اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل  
 نے حضرت ابراہیم کے پاس آکر آپ کو مکہ کے مقامات و مشاہدات فرماتے  
 تھے ابراہیم یہ فلاں جگہ ہے اور یہ فلاں جگہ ہے اور پوچھتے تھے کہ یہاں گئے  
 نام سچان گئے یا نہیں لہذا عرفات نام پڑ گیا۔

اسباط از سدی: جب حضرت ابراہیم نے لوگوں کو حج کے لئے بلا یا تو  
 لوگوں نے آپ کی دعوت لبیک کہہ کر قبول کی اور انہوں نے حج کو آئے پھر حق تعالیٰ  
 نے آپ کو عرفات جانے کا حکم فرمایا اور عرفات کے نشان بتا دیے پھر جب  
 آپ رخت کے پاس پہنچے تو آپ کے سامنے تیسرے جربے کے پاس جسے  
 جمرة العقبة کہتے ہیں شیطان نمودار ہوا آپ نے اس کے سات کنکریں ماریں  
 اور ہر کنکر اللہ اکبر کہہ کر ماری شیطان اڑ کر دوسرے جمرہ کے پاس پہنچ گیا  
 آپ نے اس کے پاس بھی آکر شیطان کے اللہ اکبر کے ساتھ اتھ سات  
 کنکریں ماریں پھر وہ اڑ کر پہلے جمرہ کے پاس آیا آپ نے پھر حسب سابق  
 اس کے سات کنکریں ماریں جب شیطان نے دیکھا کہ مجھ میں ان کے مقابلہ  
 کی طاقت نہیں تو چلا گیا پھر حضرت ابراہیم آگے بڑھے اور ذوالمجاز  
 لیکن آپ اسے سچانے نہیں اور آگے بڑھ گئے اسی لئے اسے ذوالمجاز کہا گیا  
 پھر آپ عرفات پہنچ کر ٹھہر گئے اور نشانات دیکھ کر آپ عرفات کو سچانے  
 گئے اور آپ نے فرمایا میں نے بتایا ہوا مقام سچان لیا اس لئے اس مقام  
 کا نام ہی عرفات پڑ گیا اور اس دن نویں ذی الحجہ کا نام عرفہ ہو گیا  
 حتیٰ کہ آپ شام کے بعد جمع کے قریب پہنچ گئے اس لئے اس کا نام  
 مزدلفہ پڑ گیا۔

مزدلفہ کو جمع اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں دو نمازیں (مغرب و عشاء)  
 جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں اور مشعر الحرام اس لئے کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ  
 نے لوگوں کو خبردار دہاگاہ کیا اور ان کے خیال میں یہ بات ڈالی کہ یہ بھی  
 حرم میں شامل ہے تاکہ اس میں کسی حرام فعل کے ترک نہ ہوں۔

ابن صالح از ابن عباس: آٹھویں ذی الحجہ کو ترویہ اور نویں کو

فسمی الیوم من فکرتہ ترویة ثم رأی لیلۃ عرفۃ  
 ذلک ثانیاً فلما اصبح عرف ان ذلک من اللہ  
 سبحانہ وتعالیٰ فسمی ذلک الیوم یوم عرفۃ وقال  
 بعضهم سنیت بذلک لان الناس یعترفون  
 فی هذا الیوم علی الموقف بذنوبہم والاصل  
 فیہ ان آدم علیہ السلام لما امر بالحق فوقف  
 بعرفات یوم عرفۃ فقال ربنا ظلمنا انفسنا  
 الآیۃ وقیل ہی مأخوذة من العرف وهو الطیب  
 قال اللہ عزوجل عرفنا لہم اى طیبہا وقیل  
 ہی ضد منی لان منی موضع یمنی فیہ الدم اى  
 یصب ولذک سمیت منی فقیہ تکون الفرو  
 والدماء فہی لیست بطیبۃ وعرفات لیست  
 فیہا ملک الاخذ ارقہی طیبۃ فلذک سمیت  
 عرفات ویوم الوقوف بہا یوم عرفۃ و  
 قیل لان الناس یتعارفون بہا وقیل اصل  
 ہدین الاسمین من الصبر یقال رجل عارف  
 اذا کان صابراً خاضعاً خاشعاً ویقال فی المثل  
 النفس عروف ولاحملتھا تتحمل وقال ذوالرمة  
 عروف لما حطت علیہ المقادیر

ای صبور علی قضاء اللہ فسمی بہذا الاسم  
 لخضوع الحاج وتذللہم وصبرہم الدعاء  
 والنواع البلاء واخلتال الشدائد والمشقات  
 لاقامة هذا العبادۃ -

**فصل:** فی شرف یوم عرفۃ ولیلۃ اخیرنا  
 ہبۃ اللہ بن المبارک قال اثابنا ابو علی الحسن بن

عرفہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آٹھویں تاریخ کی شب کو  
 خواب میں دیکھا کہ آپ کو اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا حکم کیا جا رہا ہے  
 آپ آٹھویں تاریخ کو دن بھر اسی مسئلہ پر غور کرتے رہے کہ آیا یہ حکم  
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے اس لئے آپ کے  
 نزدیک فکر کی وجہ سے اس دن کو یوم الترویہ کہنے لگے پھر عرفہ کی شب کو  
 بھی یہی خواب دیکھا عرفہ کی صبح کو آپ پہچان گئے کہ یہ حکم اللہ ہی کا ہے  
 اس لئے اس دن کا نام عرفہ پڑ گیا۔

بعض علماء: عرفات اس لئے نام رکھا گیا کہ لوگ اس جگہ پہنچ کر اپنے گناہوں  
 کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو جحیم کا حکم  
 ہوا تو آپ نے عرفہ کے دن عرفات میں قیام فرما کر دعا مانگی کہ اے ہمارے  
 پروردگار! ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے  
 اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو یقیناً ہم گھاٹا پانی والے ہو گئے۔ بعض کے نزدیک  
 یہ لفظ عرف (خوشبو) سے بنا ہے جن تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے بہشت کو مسکن  
 کے لئے خوشبودار بنایا۔ بعض کے نزدیک یہ منی کی ضد ہے کیونکہ منی ایسا مقام  
 ہے جہاں قربانیاں کر کے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے اسی لئے اس کا  
 نام منی پڑا۔ چونکہ منی میں گوبر اور خون کی کثرت ہوتی ہے اس لئے یہ جگہ  
 خوشبودار نہیں اور عرفات میں یہ چیزیں نہیں ہوتیں اسی لئے وہ پاک  
 وصاف اور خوشبودار ہے بنا بریں اس کا نام عرفات ہوا اور عرفات میں  
 قیام کا دن عرفہ والا دن ہے۔ یا اس لئے عرفات کو عرفات کہتے ہیں کہ اس  
 لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں یا ان دونوں اسموں کی اصل صبر سے ہے  
 رجل عارف یعنی آدمی صبر والا اور خضوع و خضوع والا ہے ایک مثل ہے  
 النفس عروف یعنی نفس بڑا صابر ہے تمہارے ہر بوجہ کو برداشت کر لیتا ہے اور کہہ  
 کتاب سے عرف لما حطت علیہ المقادیر یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی قضا پر صبر کرنے والے  
 ہیں بنا بریں یہ انکساری والا نام حاجیوں کو انکی عاجزی کی وجہ سے اور دعاؤں  
 پر اور قسم قسم کے معائب پر اور حج ادا کرنے کے لئے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے



احمد ابنا علی بن محمد بن عبد اللہ المعدل ابنا ابنا  
 ابو علی بن الصوف ابنا عبد اللہ بن محمد بن ناجیة  
 ابنا عمر بن حفص ابو عمرو ابنا محمد بن مردان  
 ابنا ہشام الدستوائی عن ابی الزبیر عن جابر بن  
 عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم ما من یوم افضل من یوم عرفة بیاہی  
 اللہ تعالیٰ باهل الارض اهل السماء ليقول انظروا  
 الی عبادی شعنا غیر اجاہد فی من کل فج عمیق یرجون  
 رحمتی وینجفون عند ابی فلم یر یوم اکثر عتقا من  
 النار من یوم عرفة واخبرنا ہبة اللہ عن ابی محمد  
 الحسن بن محمد بن احمد الفارسی باسناد لا عن  
 الحسن العرفی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال  
 خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس یوم عرفة  
 فقال ایہا الناس انہ لیس البرقی ایجاب الابل ولا  
 فی ایضاح الخیل ولكن سیرا جمیلا توصلوا ضعیفا  
 دلا توخر ما مسلما وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ  
 عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 یقول ان اللہ تعالیٰ ینظر الی عبادہ یوم عرفة فلا  
 یرد احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان  
 الا غفر لہ فقلت لابن عمر للناس جمیعا ام لاهل  
 عرفة فقال بل للناس جمیعا واخبرنا ہبة اللہ  
 قال ابنا محمد بن الجحش المازنی بالبصریة  
 باسناد لا عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ  
 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا کان  
 یوم عرفة ینزل اللہ تعالیٰ الی سماء الدنیا

کرنے پر دیدیا گیا۔

عرفہ کی رات کی اور دن کی فضیلت | ہمیں سنتہ اللہ بن مبارک نے

خبر دی، انہیں ابو علی حسن بن احمد نے خبر دی انہیں علی بن عبد اللہ معدل نے

نے خبر دی، انہیں ابو علی بن صوف نے خبر دی انہیں عبد اللہ بن محمد بن

ناجیہ نے خبر دی انہیں ابو عمرو حفص نے اور محمد بن مردان نے خبر دی انہیں

ہشام دستوائی نے خبر دی اور وہ ابو الزبیر سے اور وہ جابر بن

عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے

افضل کوئی دن نہیں (اس دن حق تعالیٰ آسمان والوں میں زمین والوں پر

فخر فرماتا ہے، فرماتا ہے: میرے بندوں کو دیکھو انکے بھرے ہوئے بال ہیں

اور گرد آلود چہرے ہیں اور در در سے میرے پاس آئے ہیں یہ میری رحمت

کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ڈر رہے ہیں لہذا کوئی دن ایسا نہیں

پایا جاتا جس میں لوگ آگ سے اس قدر آزاد ہوں جس قدر عرفہ کے دن

آزاد ہوتے ہیں۔ ہمیں سنتہ اللہ نے ابو محمد حسن بن محمد بن احمد فارسی اپنی

اسناد سے انہوں نے حسن مغربی سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے

خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن خطبہ میں فرمایا: لوگو! دیکھو اونٹ

گھوڑے دوڑاتے ہیں، جس سے اونٹ لاغر ہوں اور گھوڑوں کو تکلیف

پہنچے، نیکی نہیں ہاں اس میں نیکی ہے کہ جانوروں کو درمیانی چال سے لے چلو

مزدوروں کا خیال رکھو اور کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچاؤ۔

نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

سنا آپ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کو دیکھتا ہے پھر

اگر کسی کے دل میں رائی کے دانہ کی برابر بھی ایمان ہوتا ہے تو اسے

بخشتے بغیر نہیں رہتا۔ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کیا یہ بخشش عام

لوگوں کے لئے ہے یا خاص عرفات والوں کے لئے؟ فرمایا تمام لوگوں

کے لئے ہے۔ ہمیں سنتہ اللہ نے خبر دی انہیں مکابر بن جحش مازنی نے لکھی

میں اپنی اسناد سے ابو الزبیر سے انہوں نے جابر سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

فبهاهي بالحاج الملائكة فيقول لهم عزوجل يا ملائكة  
انظروا الى عبادي كيف جاءوني من كل فج عميق  
مشعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي فحق  
على المزور ان يكرم تائرا وحق على المضيف  
ان يكرم ضيفه اشهدوا اني قد غفرت لهم  
وجعلت قراهم دخول الجنة قال فتقول الملائكة  
يا رب ان فيهم فلا فائز هو وفلانة تزهو  
فيقول الله عزوجل قد غفرت لهم فما من  
يوم اكثر عتقا من النار من يوم عرفة واخبرنا  
هبة الله باسنادا عن طلحة بن عبد الله رضي  
عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال  
ما رأيت ابليس يوما هو فيه اصغر ولا احقر ولا  
ادحض ولا اغيظ من يوم عرفة وذلك  
لما يرى من تنزيل الرحمة والعفو من الذنوب  
الا ما رأى يومئذ قالوا يا رسول الله وما  
رأى يومئذ قال اما انه رأى جبريل يدعو  
الملائكة وعن عكرمة عن ابن عباس  
رضي الله عنهما انه كان يقول ان يوم الحج  
الاكبر يوم عرفة وهو يوم المياهاة ينزل الله  
تعالى الى سماء الدنيا فيقول ملائكة انظروا  
الى عبادي في ارضي صدقوا في فليس من يوم اكثر  
عتقا من النار من يوم عرفة وعن ابي هريرة  
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم اليوم الموعود ليوم القيامة والشاهد  
يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وعن عطاء

سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا عرفہ کے دن حق تعالیٰ دنیوی آسمان پر اتر آتا ہے  
اور حاجیوں سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں  
میرے بندوں کو تو دیکھو کہ وہ کس طرح در در سے آئے ہیں جن کے بال  
پراگندہ ہیں اور جسم غبار سے اٹا ہوا ہے اور میری رحمت کی آس باندھ کر آئے  
ہیں اور میرے عذاب سے خوفزدہ ہیں میزبان کا فرض ہے کہ اپنے مہمان کی عزت  
کرے گواہ ہو کہ میں نے انہیں بخش دیا اور میں نے جنت میں داخل کر کے ان کی  
مہمان کو ازلی کی رسول اللہ صلعم فرماتے ہیں پھر فرشتے کہتے ہیں ہاں پروردگار  
ان میں نلال نلال مرد اور نلال نلال عورت تکبر بھی ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے  
کہ میں نے ان سب کو بخش دیا لہذا آگ سے آزادی دلانے والا عرفہ کے  
دن سے زیادہ کوئی اور دن نہیں۔ ہمیں ہیبتہ اللہ نے اپنی اسناد سے طلحہ  
بن عبد اللہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ شیطان نے عرفہ کے  
دن سے زیادہ خود کو انتہائی ذلیل و حقیر و شرمسار اور انگاروں پر لٹا ہوا  
کسی اور دن نہیں دیکھا کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ رحمت برس رہی اور  
گناہ دھل رہے ہیں ہاں اس نے اسی قدر ذلیل بدر کے دن اپنے کو دیکھا تھا  
کیونکہ اس نے ایک چیز دیکھی تھی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! شیطان نے  
بدر کے دن کیا دیکھا تھا؟ فرمایا: اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل فرشتوں  
کو جنگ کے لئے بلارہے ہیں۔ عکرمة از ابن عباس صحیح اکبر کا دن  
عرفہ کا دن ہے اسے فخر و مباہات کا دن بھی کہا جاتا ہے اس دن حق تعالیٰ  
پہلے آسمان پر اتر آتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دراز زمین پر میرے  
بندوں کو تو دیکھو کہ انہوں نے میری تصدیق کی لہذا عرفہ کے دن سے  
زیادہ آگ سے آزاد ہونے کے اعتبار سے کوئی اور دن نہیں۔  
حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا یا ایہم موعود  
قیامت کا دن ہے شاہد جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے۔  
عطاء از ابن عباس از نبی اکرم صلعم: حق تعالیٰ نے عرفہ کے دن  
عام مسلمانوں پر عموماً اور حضرت عمرؓ پر خصوصاً فخر کیا۔



عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم انه قال ان اللہ تعالیٰ باہی بالناس  
 یوم عرفۃ عامۃ ویاہی بعمر بن خطاب خاصۃ  
 وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اعظم الناس جرما  
 من النصف من عرفات ویری ان اللہ عزوجل  
 لم یغفر لہ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انه  
 قال ان اللہ تعالیٰ یغفر عشیۃ یوم عرفۃ لاهل  
 الجمع جمیعا الا اهل الکبائر فاذا کان غدا  
 المزدلفۃ غفر لاهل الکبائر والتبعات اخبرنا  
 ہبۃ اللہ ابن المبارک قال اخبرنا ابو الفتح محمد  
 بن احمد المطری یعرف بالباہر قال اخبرنا علی  
 ابن احمد بن الرقاء السامری ابنا ابراہیم بن  
 عبد الصمد الهاشمی ابنا ابو مصعب عن مالک  
 ابن انس عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما  
 قال وقف بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 عشیۃ یوم عرفۃ فلما قام عند الدفۃ استنمت  
 الناس فانصتوا فقال یا ایہا الناس ان ربکم  
 عزوجل قد تطول علیکم فی یومکم هذا  
 فوہب مسیئکم لمحسنکم واعطی لمحسنکم ما  
 سأله وغفر ذنوبکم الا التبعات ادفعوا بسم اللہ  
 فلما صرنا بالمزدلفۃ وقف بنا رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم فلما کان عند الدفۃ استوقف الناس  
 واستنصتہم فانصتوا ثم قال یا ایہا الناس  
 ان ربکم قد تطول علیکم فی یومکم هذا فوہب

ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ باہی بالناس یوم عرفۃ عامۃ  
 ویاہی بعمر بن خطاب خاصۃ  
 وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اعظم الناس جرما  
 من النصف من عرفات ویری ان اللہ عزوجل  
 لم یغفر لہ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انه  
 قال ان اللہ تعالیٰ یغفر عشیۃ یوم عرفۃ لاهل  
 الجمع جمیعا الا اهل الکبائر فاذا کان غدا  
 المزدلفۃ غفر لاهل الکبائر والتبعات اخبرنا  
 ہبۃ اللہ ابن المبارک قال اخبرنا ابو الفتح محمد  
 بن احمد المطری یعرف بالباہر قال اخبرنا علی  
 ابن احمد بن الرقاء السامری ابنا ابراہیم بن  
 عبد الصمد الهاشمی ابنا ابو مصعب عن مالک  
 ابن انس عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما  
 قال وقف بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 عشیۃ یوم عرفۃ فلما قام عند الدفۃ استنمت  
 الناس فانصتوا فقال یا ایہا الناس ان ربکم  
 عزوجل قد تطول علیکم فی یومکم هذا  
 فوہب مسیئکم لمحسنکم واعطی لمحسنکم ما  
 سأله وغفر ذنوبکم الا التبعات ادفعوا بسم اللہ  
 فلما صرنا بالمزدلفۃ وقف بنا رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم فلما کان عند الدفۃ استوقف الناس  
 واستنصتہم فانصتوا ثم قال یا ایہا الناس  
 ان ربکم قد تطول علیکم فی یومکم هذا فوہب

ہیں بہتہ اللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں ابو الفتح محمد بن احمد بن  
 مطری نے جو باہر کے لقب سے مشہور ہیں، خبر دی، انہیں ابن علی بن احمد  
 بن رفا سامری نے خبر دی، انہیں ابراہیم بن عبد الصمد ہاشمی نے خبر دی،  
 انہیں ابو مصعب نے مالک بن انس سے، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے  
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ عرفۃ کے  
 دن عرفات میں زوال کے بعد قیام فرمایا پھر جب آپ چلنے کے لئے  
 کھڑے ہوئے تو آپ نے لوگوں کو خاموش کیا یا جب لوگ خاموش ہو گئے  
 تو آپ نے فرمایا، لوگو! آج کے اس دن تمہارے عزت و جلال والے  
 پروردگار نے تم پر اپنا فضل فرمایا کہ اس نے تمہارے نیکیوں کے لئے تمہارے  
 برےوں کو مہرب کر دیا اور تمہارے نیکیوں کو جو کچھ انہوں نے مانگا وہی انہیں دیا  
 اور بجز حقوق العباد کے تمہارے گناہ معاف فرمادئے اچھا اب اللہ تعالیٰ  
 کا نام لے کر چلو پھر جب ہم مزدلفہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ  
 صبح تک قیام فرما رہے پھر وہاں سے چلتے وقت لوگوں کو کھڑا کیا اور  
 خاموش کیا یا پھر جب لوگ خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا لوگو!  
 تمہارے رب نے آج کے دن تم پر اپنا فضل فرمایا ہے اور تمہارے  
 برےوں کو تمہارے نیکیوں کو مہرب کر دیا اور تمہارے نیکیوں کی مرادیں پوری  
 فرمائیں اور تمہارے گناہ بخش دئے اور حقوق العباد بھی بخش دئے اور  
 اہل حقوق کے لئے ثواب کی ضمانت دی اچھا اب بسم اللہ کر کے آگے  
 بڑھو اس پر ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر اونٹنی کی نیل پکڑ کر کہا کہ  
 یا رسول اللہ اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے

مسيبكم لحسنكم واعطى عنكم ما سألته ف  
 غفر ذنوبكم وغفر التبعات وضمن لاهلها الثواب  
 ادفعوا بسم الله فقام اعرابي واخذ بزمام الناقة  
 فقال يا رسول الله والذي بختك بالحق ما بقى من  
 عمل الا وقد عملته واني لا حلف على اليمين  
 الفاجرة فهل دخلت فيمن وصفت فقال يا  
 اعرابي انك ان تحسن فيما تنالف يغفر لك فيما  
 مضى حل زمام الناقة واخبرنا هبة الله عن ابي  
 علي الحسن بن الحباب المقرئ باسناد لا عن ابن عباس  
 بن مرداس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم عشية عرفة لامته يا مغفرة  
 والرحمة فاجابه الله تعالى اني قد فعلت الا  
 ظلم بعضهم بعضا فاما ذنوبهم فيما بيني  
 وبينهم فقد غفرت لها فقال يا رب انك قادر  
 ان تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلومته  
 وتغفر لهذا الظالم قال فلم يجبه تلك العشية  
 فلما كان غدا لا مزدلفة اعاد الحديث فاجابه  
 الله تعالى اني قد غفرت لهم قال ثم تبسم رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعض اصحابه  
 يا رسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تبسم  
 فيها فقال تبسمت من عدو الله ابليس لانه  
 لما علم ان الله قد استجاب لي في امتي ما اهوى  
 يدعو بالويل والثبور ويحشو التراب على رأسه  
 وعن سعيد بن جبیر رحمه الله قال بينما رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفات في الموضع

میں نے کوئی بُرا عمل نہیں چھوڑا ہر گناہ کیا اور جھوٹی قسمیں بھی کھاتا رہا تو  
 کہا میں بھی اسی زمرہ میں شامل ہوں جس کا آپ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا  
 لئے دیہاتی! اگر تو آئندہ نیک عملوں میں مصروف رہا تو تیرے ماضی کے  
 تمام گناہ معاف کر دئے جائیں گے از غنی کی مہار چھوڑ دے۔

ہیں ہیئتہ اللہ نے ابو علی حسن بن حباب مقرئ سے اس کی اسناد سے  
 اور انہوں نے عباس بن مرداس سے خبر دی کہ رسول اللہ صلعم نے  
 عرفہ کے دن زوال کے بعد اپنی امت کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا  
 مانگی جن تعالیٰ نے آپ کو جواب دیا کہ میں نے آپ کی دعا قبول کی لیکن  
 باہمی مظالم کے سلسلہ میں میں ان میں نے ان کے وہ گناہ بخش دئے  
 جو میرے اور ان کے درمیان ہیں یعنی حقوق اللہ معاف کر دیئے گئے  
 حقوق العباد نہیں آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب آپ مظلوم کو ظالم  
 کے ظلم سے زیادہ ثواب عطا فرمائے پر قادر ہیں آپ نے فرمایا لیکن  
 عرفہ کے دن زوال کے بعد اس کا حق تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر جب  
 مزدلفہ کی صبح ہوئی تو پھر آپ نے وہی الفاظ دہرائے جن تعالیٰ نے  
 آپ کو جواب دیا کہ میں نے انہیں بخش دیا (فرماتے ہیں) پھر رسول اللہ صلعم  
 مسکرائے تو آپ سے آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلعم  
 آپ ایک ایسے وقت مسکرائے جس وقت مسکرایا نہیں کرتے تھے فرمایا  
 میں اللہ کے دشمن ابلیس پر مسکرایا تھا کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ حق تعالیٰ  
 نے میری امت کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی اور میری مراد پوری  
 کر دی تو وہ دادیلا اور فریاد اور شور و غل کرنے لگا اور اپنے  
 سر پر مٹی ڈالنے لگا۔

سعيد بن جبیر: اس حال میں کہ رسول اللہ صلعم عرفہ کے دن عرفات  
 میں اس جگہ تھے جہاں حاجی اللہ کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا  
 کرتے ہیں کہ اچانک آپ پر حضرت جبیر اترے اور بولے محمد! اوجھا  
 اور سب سے اونچا آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ حاجی میرے



الذی ترفع العباد فیہ اید بیہم الی اللہ تعالیٰ و  
 یجوز بالدعاء اذہبط علیہ جبریل علیہ السلام  
 وقال یا محمد ان العلی الاعلیٰ یقرأ علیک السلام  
 ویقول لک ہولاء حجاج بیتی وزواری وحق علی المزور  
 ان یکرم الزائر اشهدک واشهد ملائکتی انی  
 قد غفرت لہم جیبعا وھکذا افعل بزوار یوم  
 الجمعة وعن علی رضی اللہ عنہ انہ لما کان عشیة  
 یوم عرفة ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 واقف اقبل علی الناس بوجہہ فقال مرحبا  
 بوفد اللہ ثلاث مرات الذین اذا سألوا اعطوا  
 وتخلف علیہم نفقاتہم فی الدنیا وتجعل لہم  
 عند اللہ فی الآخرة مکان کل درہم الف الا  
 البشکم قالوا بلی یا رسول اللہ قال فانہ اذا  
 کان فی ہذا العشیة ینزل اللہ الی سماء الدنیا  
 ثم یرسل ملائکته فیہبطون الی الارض فلو  
 طرحت ابرة لمتسقط الی اعلیٰ رأس ملک فبقول  
 اللہ عزوجل یا ملائکتی انظروا الی عبادی جاءونی  
 شعثا غبرا من اطراف البلاد هل تسبحون ما  
 سألونی قالوا یا ربنا یشاہونک المغفرة فیقول  
 سبحانہ وتعالیٰ اشهدکم انی قد غفرت لہم  
 ثلاث مرات فانیضوا من موقفکم مغفورا لکم۔

**فصل** : فی تفضیل میامہ وماورد فیہ من  
 الصلوات وما امر بہ من صنوف الدعوات اخبثا  
 ہبتہ اللہ بن المبارک قال انبانا احمد بن محمد  
 باسناد لا عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن

گھر کے حج کے لئے اور میری زیارت کے لئے آئے ہیں اور میزبان کا فرض  
 ہے کہ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرے میں آپ کو اور اپنے فرشتوں کو اس  
 پر گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب حاجیوں کو بخش دیا اور میں یہ سلوک جمعہ  
 کے دن زیارت کرنے والوں کے ساتھ کروں گا۔

حضرت علی رضا جب عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں زوال کے بعد قیام  
 فرماتے تھے تو آپ نے لوگوں کی طرف رخ کر کے تین بار فرمایا اللہ کے وفد  
 کے لئے مرحبا ہو یعنی ان پر کہ اگر وہ مانگیں تو ان کو دیا جائے اور دنیا میں  
 بھی ان کے خرچ کا عوض دیا اور اللہ کے پاس آخرت میں ہر درہم کے  
 بدلہ ایک ہزار درہم ملیں گے کیا میں تم کو مژدہ نہ سناؤں؟ لوگ بولے کہ  
 ضرور سناؤ فرمایا جب اس دن کا زوال ہوتا ہے تو حق تعالیٰ دنیا کی  
 آسمان پر اترتا ہے پھر فرشتوں کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتا ہے تو  
 زمین پر بے شمار فرشتے اترتے ہیں اور اس قدر ہوتے ہیں کہ اگر سرتی  
 پھینکی جائے تو کسی نہ کسی فرشتے کے سر پر ہی گرے گی حق تعالیٰ فرماتا  
 ہے کہ اے میرے فرشتو! میرے بندوں کو دیکھو یہ شہروں کے اطراف سے  
 میرے پاس اس حال میں آئے ہیں کہ ان کے بال پراگندہ ہیں اور خود عیا  
 آلود ہیں کیا تم نے سنا کہ یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے  
 عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب یہ آپ سے بخشش مانگ  
 رہے ہیں؟ حق تعالیٰ تین بار فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں  
 کہ میں نے انہیں بخش دیا لہذا اپنے اس موقف سے بخشے ہوئے  
 واپس ہو جاؤ۔

★

**عرفہ کے روزے کی فضیلت** اور عرفہ کے دن جن نمازوں اور  
 دعاؤں کا حکم ہے ان کا بیان۔

یہیں ہبتہ اللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں احمد بن محمد نے اپنی اسناد  
 سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے اور انہوں نے زید بن اسلم سے خبر دی ہے

اسیہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال  
 من صام یوم عرفۃ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ  
 وما تاخر لسنۃ واخبرنا ہبۃ اللہ باسنادہ  
 عن ابی قتادۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم انه قال صیام یوم عرفۃ کفارتہ سنتین  
 سنۃ ما فیۃ و سنۃ مستقبلۃ واما الصلاۃ  
 فما اخبرنا بہ ہبۃ اللہ قال ابانا الشیخ ابو علی  
 الحسن بن احمد عبد اللہ المقرئ قال ابانا  
 ابو الفتح ہلال بن محمد بن جعفر الحفار قال  
 ابانا ابو الحسن علی بن احمد الحلوانی ابانا موسیٰ  
 بن عمران البلخی ابانا ابو یوسف بن موسیٰ القطان  
 ابانا عمرو بن نافع ابانا سعید بن واہب ابانا  
 النہاس بن فرہم عن قتادۃ عن سعید بن المسیب  
 عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یوم عرفۃ بین الظہر  
 والعصر اربع رکعات یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ  
 الكتاب مرة وقل هو اللہ احد حسین مرة  
 کتب لہ الف الف حسنة ورفعلہ بكل حرف  
 فی القرآن درجۃ فی الجنة ما بین کل درجۃ مسیرۃ  
 خمسمائة عام ویزوجہ اللہ بكل حرف فی  
 القرآن سبعین حوراء مع کل حوراء سبعون  
 الف مائۃ من الدار والیاقوت  
 علی کل مائۃ سبعون الف  
 لون بین لحم طیر خضی بردۃ برد الثلج وحرارۃ  
 حرارۃ العسل وریحہ ریح المسک لم تبسسه

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے اس کے ایک سال قبل کے  
 تمام گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔

ہمیں ہبۃ اللہ نے اپنی اسناد سے ابو قتادہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ اگلے پچھلے در سالوں کے گناہوں کے  
 کفارہ بن جاتا ہے۔

ہمیں ہبۃ اللہ نے خبر دی انہیں شیخ ابو علی بن حسن بن احمد بن عبد اللہ المقرئ

نے خبر دی انہیں ابو الفتح ہلال بن محمد بن جعفر حفار نے خبر دی انہیں ابو الحسن

علی بن احمد حلوانی نے خبر دی انہیں موسیٰ بن عمران بلخی نے خبر دی انہیں

ابو یوسف بن موسیٰ بن قطان بن عمر بن نافع نے خبر دی انہیں سعید بن

واہب نے خبر دی اور انہیں نہاس بن فرہم نے قتادہ سے خبر دی اور وہ

سعید بن مسیب سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان چار رکعت

نماز پڑھی اور ہر رکعت میں ایک بار فاتحہ اور ۵۰ بار سورہ اخلاص

پڑھی تو اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھی گئیں اور اس کے لئے قرآن

کے ہر حرف کے عوض جنت میں ایک ایک درجہ بلند کر دیا گیا اور ہر درجہ

درجوں کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت کا فاصلہ ہوگا اور قرآن

پاک کے ہر حرف کے عوض حق تعالیٰ اس کا نکاح ستر حوروں سے

کرائے گا اور ہر حور کے پاس مردارید و یاقوت کے ستر ہزار خوان

ہوں گے اور ہر خوان پر ستر ہزار قسم کے کھانے ہوں گے جن میں سبز

پرنڈوں کا گوشت بھی ہوگا جو برف کی مانند ٹھنڈا، شہد کی طرح

میٹھا اور مشک کی طرح خوشبودار ہوگا اور نہ وہ آگ میں بکایا گیا

ہوگا اور نہ چھری سے کٹا ہوگا اور اول و آخر کھانے ہم ذائقہ

ہوں گے پھر اس کے پاس دو پند سے آئیں گے جن کے دونوں بازو

سرخ یاقوت کے ہوں گے اور چونچ سونے کی ہوگی اور ہر پند سے

کے ستر ہزار پر ہوں گے پھر وہ انتہائی کیف انگیز آواز سے جسے آسمان



نار ولا حدید لا یجد لاخرہ طعما کما یجد لاولہ  
 ثم یاتیہم طائر جناحاً من یاقوتین حمرا وین  
 و منقارہ من ذهب لہ سبعون الف جناح فینادی  
 بصوت لذیلہ لم یسمع السامعون بشئہ ویقول  
 مرحبا باهل عرفۃ وقال یسقط ذلک الطیر  
 فی صحفۃ الرجل منہم فیخرج من تحت کل  
 جناح من اجنتہ سبعون لونا من الطعام  
 فیاکل منہا ثم ینتفض فیطیر فاذا وضع فی  
 قبرہ اضاء لہ بكل حرف فی القرآن نور حتی  
 یرى الطائفین حول البیت ویفتح لہ باب من  
 البواب الجنة ثم یقول عند ذلک رب اقم الساعۃ  
 رب اقم الساعۃ ما یرى من الثواب والکرامۃ  
 واخبرنا ہبۃ اللہ بن المبارک قال ابانا الحسن  
 یاسناد لا عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ  
 وعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یوم  
 عرفۃ رکعتین یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ کتاب  
 ثلاث مرات فی کل مرۃ یبدأ بسم اللہ الرحمن  
 الرحیم ویختمہا بآمین ثم یقرأ قل یا ایہا الکائنون  
 ثلاث مرات وقل هو اللہ احد مرۃ یبدأ  
 فی کل مرۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا قال اللہ  
 تعالیٰ اشهدوا انی قد غفرت لہ ذنوبہ۔  
 واما الدعوات فما خبرنا ہبۃ اللہ بن المبارک  
 عن القاضی الشریف ابی الحسن محمد بن علی  
 المہندی باللہ عن ابی الفتح یوسف بن عمر بن مسرود

ہم کسی نے نہیں سنا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں عرفہ والوں کے لئے  
 خوش آمدید ہو پھر یہ پرندہ ہر شخص کی رکابی میں گر جائے گا اور  
 اس کے ہر پر کے نیچے سے ستر ہزار قسم کے کھانے برآمد ہوں گے اور  
 وہ ان میں سے کھائے گا پھر وہ اپنے پر جھاڑ کر اٹھ جائیں گے اور  
 جب وہ شخص اپنی قبر میں اتارا جاتا ہے تو قرآن کے ہر حرف کے  
 عوض اس کے لئے نور روشن ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ کعبہ اقدس کے  
 طواف کرنے والوں کو دیکھتا ہے اور اس کے لئے جنت کا ایک دانہ  
 کھول دیا جاتا ہے پھر وہ اس وقت کتابے کرے پروردگار قیامت  
 لے آئے رب قیامت قائم فرما کیونکہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی  
 ہر بات پر اور ثواب دیکھتا ہے۔

ہمیں ہبۃ اللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں اپنی اسناد سے حسن  
 نے علی رضا اور ابن مسعود سے خبر دی کہ رسول اکرم صلعم نے فرمایا کہ  
 جو عرفہ کے دن دو گنا ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ معہ  
 بسم اللہ کے پچیس تین بار پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے لئے یہ ضرور فرمائے گا  
 ہے کہ فرشتہ گواہ رہو ہیں نے اس کے گناہ بخش دئے۔

ہمیں ابن مبارک نے قاضی شریف ابوالحسن محمد بن علی بن ہندی  
 باللہ سے انہوں نے ابوالفتح یوسف بن عمر سے اور انہوں نے مسرود  
 فراس سے خبر دی انہیں عبد اللہ بن احمد بن ثابت بزاز نے خبر دی  
 انہیں ایوب یعنی ابن ولید ضریر نے خبر دی، انہیں ابوالنضر یعنی  
 ہاشم بن قاسم نے محمد بن فضل عطیہ سے خبر دی اور وہ اپنے والد  
 عطیہ سے اور وہ عبد اللہ بن عمر لیبی سے اور وہ ابن عمر لیبی سے  
 روایت کرتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت  
 عیسیٰ کو بطور ہدیہ کے حضرت جبرئیل کے ذریعہ پانچ دعائیں بھیجیں  
 اور حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ ان پانچ دعاؤں کو پڑھنے والا کہہ دیکو  
 دس دن کی عبادتوں سے بہتر اور زیادہ محبوب اللہ کو کسی اور دن کی

القواس قال انبانا عبد الله بن احمد بن ثابت البراء  
انبانا ابوب یعنی ابن الولید الضریب انبانا ابوالنصر یعنی  
الہاشم بن القاسم عن محمد بن الفضل بن عطیة  
عن ابیہ عن عبد الله بن عمر اللیثی عن ابیہ رضی اللہ  
عنه قال بلغنا ان اللہ تعالیٰ اهدی الی عیسیٰ علیہ  
السلام خمس دعوات جاء بہن جبریل علیہ السلام  
وقال لعیسیٰ علیہ السلام ادع بہؤلاء الخمس دعوات  
فانہ لیس عبادۃ احب الی اللہ تعالیٰ من عبادۃ  
ایام العشر اولہن لا الہ الا اللہ ووجد لا شریک  
لہ لا الہ الا اللہ ولہ الحمد یحییٰ ویمیت بید الخیر  
وہو علی کل شیء قدیر والثانیۃ اشہد ان لا  
الہ الا اللہ ووجد لا شریک لہ الہا واحد  
مسد الم یتخذ صاحبة ولا ولدا والثالثۃ  
اشہد ان لا الہ الا اللہ ووجد لا شریک لہ  
لا الہ الا اللہ ولہ الحمد یحییٰ ویمیت وہو حی لا  
یبوت بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر  
والرابعۃ حسبی اللہ وکفی سمع اللہ لمن دعا  
لیس وراء اللہ منتہی والخامسۃ اللہم لک  
الحمد کما تقول وخیر مما تقول اللہم لک  
صلاتی ونسکی ومحبای ومہاتی ولک یارب  
تراقی اللہم انی اعوز بک من عذاب القبر  
ومن شتات الامر اللہم انی اسألك من  
خیر ما تجری بہ الریح فسأل الحواریون عیسیٰ  
ابن مریم علیہ السلام وقالوا ما ثواب  
من دعا بہذک الدعوات فقال اما من قال

عبادت نہیں۔ پہلی دعا یہ ہے: اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں  
وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ہلک ہے اور اسی  
کے لئے تعزیزیں ہیں، وہی حیات و موت پر قادر ہے، اسی کے ہاتھ  
میں تمام بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ دوسری دعا  
یہ ہے: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ کے علاوہ  
کوئی حق دار عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں  
وہ یکتا معبود ہے بے نیاز ہے اور بیوی اور بچوں والا نہیں، تیسری  
دعا یہ ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود  
نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہت ہے اور  
اسی کی تعزیزیں ہیں وہی حیات و موت کا مالک ہے، وہی زندہ  
ہے اس پر نانا نہیں، اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائیاں ہیں اور  
وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے چوتھی دعا یہ ہے: مجھے حق تعالیٰ کافی  
ہے اور بس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی جس نے اس  
سے دعا کی اور اس کے پیش نظر اللہ ہی ہے پانچویں دعا یہ ہے کہ  
اے اللہ تیرے ہی لئے وہ تعزیزیں ہیں جو تو بیان فرماتا ہے اور  
جو ہمارے بیان سے بہتر ہیں، اے اللہ تیرے ہی لئے میری  
نماز اور میری قربانی ہے اور میری زندگی اور میری موت ہے اور  
اے رب میری میراث تیرے ہی لئے ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے  
قبر کے عذاب سے اور اپنے کاموں کی پرگندگی سے تیری پناہ مانگتا  
ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اس چیز کی پناہ مانگتا ہوں جسے ہوا  
لے کہ خلتی ہے۔

حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ انہیں کیا ثواب ملے گا جو ان  
پانچوں دعاؤں کو پڑھ کر حق تعالیٰ سے دعائیں مانگیں فرمایا جو  
شخص سو بار پہلی دعا پڑھ لے تو اس جیسے دن میں اس جیسا عمل  
رہے زمین پر کسی کا نہ ہو گا اور قیامت کے دن اس کے پاس



الاولی مائة مرة فانه لا يكون لاحد من اهل الارض عمل مثل ذلك العمل في ذلك اليوم وكان اكثر العباد حسنات يوم القيامة و من قال الثانية مائة مرة كتب الله له الف الف حسنة وها عنه مثلها سيئات و رفع له عشر الآلاف درجة في الجنة و من قال الثالثة مائة مرة نزل سبعون الف ملك من سماء الدنيا راضی اید بهم یصلون علی من قالها و من قال الرابعة مائة مرة تلقاها ملك و يضعها بين يدي الرحمن عز وجل فينظر الی من قالها و من نظر الله تعالى الیه لم یشق و قالوا یا عیسی فما ثواب من قال الخامسة قال هی دعوتی و لم یؤذن لی فی تفسیرها۔

و اخبرنا هبة الله بن المبارك عن الحسن بن احمد بن عبد الله المقرئ باسناد لا عن خليفة ابن الحسين عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه انه قال كان اكثر ما یدعو به النبی صلی الله علیه و سلم عشية عرفة یقول اللهم لك الحمد كما تقول و خیرا مما تقول اللهم لك حسنة و نسکی و محیای و ماتی و لك یارب تراثی اللهم انی اعوذ بك من عذاب القبر و فتنة المصداق و شتات الامر اللهم انی اسألك من خیر ما تجری به الریح و اخبرنا هبة الله بن المبارك باسناد لا عن موسی بن عبیدة عن علی بن ابی طالب

سب سے زیادہ نیکیاں ہونگی اور جو دوسری دعا سو بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھے گا اور اس کی اتنی ہی برائیاں مٹا دے گا اور جنت میں دس ہزار درجے بڑھا دیگا اور جو تیسری دعا سو بار پڑھے تو ستر ہزار فرشتے دیوبی آسمان سے اپنے اپنے حصے ہوئے اور اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے اتریں گے اور جو چوتھی دعا سو بار پڑھے تو ایک فرشتہ اس دعا کو لے کر عزت و جلال کے مہربان اللہ کے آگے جا رکھے گا اور حق تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے پر نگاہ رحمت ڈالے گا اور جس کی طرف حق تعالیٰ نگاہ رحمت سے دیکھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔

لوگوں نے کہا کہ اے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اگر کوئی پانچویں دعا پڑھے تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا وہ میری دعا ہے اور اس کا ثواب بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں۔

ہمیں ہبتہ اللہ بن مبارک نے حسن بن احمد بن عبد اللہ مقرئ سے ان کی اسناد سے خبر دی اور وہ خلیفہ بن حسین سے اور وہ حضرت علی رضی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی نے فرمایا کہ عرفہ کے زوال کے بعد نبی صلعم کثرت سے جو دعائیں لگا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ اے اللہ تیرے ہی لئے تیرے بیان کے مطابق بڑا ثواب ہے اور ہماری ذکر کردہ تعریفوں تو بہت بہتر ہے اے اللہ! میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت تیرے ہی لئے ہے اور اے میرے پروردگار میری میراث بھی تیرے ہی لئے ہے اے اللہ میں تجھ سے عذاب تیرے دل کے تفتنوں سے اور پرانگندہ خیالات سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جسے ہوا لے کر چلتے ہیں ہمیں ہبتہ اللہ بن مبارک نے اپنی اسناد سے موسیٰ بن عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت علی سے خبر دی کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ عرفہ میں میری اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی کثرت سے یہ دعا ہے

رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
اکثر دعائی ودعاء الانبیاء من قبلی بعرفة لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو علی کل شیء عند یر اللہم اجعل فی قلبی نوراً و فی سمعی نوراً و فی بصری نوراً اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہم انی اعوذ بک من وسواس الصدر و فتنۃ القبر و شتات الامر اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلیم فی اللیل و من شر ما یلیم فی النهار و من شر ما تهب بہ الریاح و من شر لوائق الدھر و روی الفحاک رحمہ اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی حجۃ الوداع حین اجتمعوا بعرفۃ هذا یوم الحج الاکبر و لا حج لمن لم یواف عرفۃ الیوم و اللیلۃ فالیوم دعاء و سؤال الرب عزوجل و هو یوم تہلیل و تکبیر و تلبیۃ انہ من وافی هذا الیوم فی هذا المكان و حرم سؤال ربہ عزوجل فهو المحروم و انکم تدعون جوارا یرجل و حلینا لا یجھل و عالمنا لا ینسی انہ من صام یوم عرفۃ مقیم فی اہلہ فقد صام عاماً امامہ و عاماً خلفہ۔

**فصل:** واما ما اختص بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدعاء فی عشیۃ عرفۃ فهو ما اخبرنا بہ ہبۃ اللہ بن المبارک قال انبانا القاضی ابو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الکریم العسکری قال حدثننا علی بن

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کی تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اے اللہ میرے دل میں میرے کانوں میں اور میری آنکھوں میں نور پیدا فرما اے اللہ میرے لئے میرا دل کھول دے اور اور میرے لئے میرا کام آسان فرما دے اے اللہ دل کے دوسروں سے قبر کے فتنوں سے اور کام کی پراگندگی سے مجھے تیری پناہ اے اللہ میں تجھ سے اس چیز کی برائی سے جو رات میں داخل ہوتی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو دن میں داخل ہوتی ہے۔ اور اس چیز کی برائی سے جسے ہوائیں لے کر چلتی ہیں اور حوادث زمانہ کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

صحاك از نبی اکرم صلعم: حجۃ الوداع میں جب حاجی عرفۃ کے دن زوال کے بعد عرفات میں جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے اور اس کا حج نہ ہو گا جو آج کے دن اور رات میں عرفات میں نہیں پہنچا آج کا دن حق تعالیٰ سے دعا و سوال کا ہے اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعم۔ لک و الملک لا شریک لک پڑھنے کا ہے دیکھو جس نے یہ دن اس جگہ پایا اور اپنے عزت و جلال والے رب سے سوال سے محروم رہا وہی محروم ہے اور تم ایسے سخی سے مانگتے ہو جو تجھل نہیں اور ایسے حکیم سے جو جاہل نہیں اور ایسے علم والے سے جو کچھ تو نہیں دیکھو جس نے اپنے گھر رہ کر نہ کار روزہ رکھا تو اس نے ماضی اور مستقبل دو سال کے روزے رکھے۔

عرفات میں رسول اللہ صلعم کی خاص دعا ہے میں منۃ اللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں قاضی ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الکریم عسکری نے خبر دی ان سے علی بن محمد بن عبد اللہ نے ان سے محمد بن عبد اللہ بن ابراہیم نے ان سے ابو شیبہ محمد بن احمد نے ان سے علی نے ان سے مسلم نے حدیث بیان کی انہیں ابن ابی ندین نے خبر دی ان سے



محمد بن عبيد الله المعدل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم حدثنا محمد بن احمد البوشيبه حدثنا علي حدثنا مسلم ابنا ابنا ابني نديك قال حدثني ابراهيم بن فضل المخرومي عن سليمان بن زيد عن هرم بن جيان عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الموقف بعرفة قول ولا عمل افضل من هذا الدعاء واول من ينظر الله اليه صاحبه وهو انه صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف بعرفة استقبل القبلة بوجهه ولبسط يديه كهيئة الداعي ثم يلي ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيد الخبير وهو على كل شيء قدير مائة مرة ثم يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اشهد ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما يقول ذلك مائة مرة ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول ان الله هو السميع العليم يقولها ثلاث مرات ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات وبيد ا في كل مرة بسم الله الرحمن الرحيم ويختتمها بآمين ويقول اقل هو الله احد مائة مرة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي الامي ورحمة الله وبركاته مائة مرة ثم يدعوا الله عز وجل بما شاء فيقول الله تعالى ملائكته انظروا الى عبدى توجه الى بيتى وكبرنى وليانى وسجنى ووحدى وهلمنى وقرأ

ابراهيم بن فضل المخرومي نے حدیث بیان کی اور سلیمان بن زید سے اور هرم بن جیان سے اور وہ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن موقف میں کوئی قول اور عمل اس دعا سے افضل نہیں اور سب سے پہلے حق تعالیٰ شانہ جس کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے وہ اسی دعا کا پڑھنے والا ہے وہ میرے ذمہ ہے اگر صلعم جب عرفہ کے دن موقف میں قیام فرماتے تو قبلہ رخ کھڑے جاتے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے والے کی ہیئت بنا کر تین بار تلبیہ فرماتے پھر یہ دعا فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے بڑائیاں ہیں وہی حیات و موت کا مالک ہے اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے (سو بار) پھر فرماتے طاقت و قوت اللہ ہی کے ساتھ ہے جو بلند و عظیم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور اللہ کے علم نے ہر چیز کو سمجھ لیا ہے (سو بار) پھر فرماتے میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر تین بار فرماتے اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے پھر تین بار مع اسم اللہ اور آمین کے سورہ فاتحہ پڑھتے اور سو بار سورہ اخلاص تلاوت فرماتے پھر سو بار فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ امی نبی پر صلاۃ اور اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیج پھر حق تعالیٰ سے حسب مرضی دعائیں مانگتے رہتے تھے پھر حق تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کتاب ہے میرے بندے کو دیکھو کہ وہ میرے گھر کی طرف متوجہ ہے اور میری بڑائی بیان کر رہا ہے اور میرے لئے لبیک لبیک کہہ رہا ہے اور میری پاکی بیان کر رہا ہے اور میری توحید تسلیم کر کے اس کا اظہار کر رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کے ذکر میں مصروف ہے اور قرآن پاک کی جو سورتیں مجھے انتہائی پیاری ہیں ان کی تلاوت میں لگا ہوا ہے اور میرے رسول کے درود بھیج رہا ہے (فرشتوں) میں نہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے

باحب السورالی وصلى على رسولی اشهدکم  
اننى قد قبلت عمله وادجبت له اجره وغفرت  
له ذلوتیه وشفعتہ فیہ سألنی۔

**فصل** : فی دعاء جبریل ومیکائیل والخضر  
علیہم السلام عشیة عرفة اخبرنا هبة الله  
ابن المبارک قال انبانا الحسن بن احمد بن عبد الله  
المقمری قال اخبرنا الحسين بن عمران المودون  
قال حدثنا ابوالقاسم الفاعی قال حدثنا ابو  
الحسن بن علی قال حدثنا احمد بن عمار انبانا  
محمد بن مهدی قال حدثنی ابن جریر عن عطاء  
عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله  
صلی الله علیه وسلم یجتمع البری والبحری  
یعنی الیاس والخضر علیہما السلام کل عام  
بیکة قال ابن عباس رضی الله عنهما وبلغنا  
انه یخلق احدھما رأس صاحبہ فیقول احدھما  
للآخر قل بسم الله ماشاء الله لا یأتی بالخبیر  
الا الله بسم الله ماشاء الله لا یصرف السوء  
الا الله بسم الله ماشاء الله وما یکم من نعمة  
فمن الله بسم الله ماشاء الله ولا حول ولا قوة  
الا بالله قال ابن عباس رضی الله عنهما قال النبی  
صلی الله علیه وسلم من قالها کل یوم آمن  
من الغرق والحرق والسرقة ومن کل شیء یرھه  
حتى یرسی ومن قالها حین یرسی کان فی حرز  
الله حتی یربح واخبرنا هبة الله بن المبارک  
قال انبانا الحسن بن احمد الزھری قال انبانا

اس کا عمل قبول کر لیا اور اس کا اجر اس کے لئے واجب کر دیا اور  
اس کے تمام گناہ بخش دئے اور میں نے اس کی تمام مہرابوں  
پوری کی۔

**جبریل، میکائیل اور خضر کی عرفہ کی دعا** | ہمیں ہبۃ اللہ بن مبارک

نے خبر دی انہیں حسن بن احمد بن عبد اللہ مقمری نے خبر دی، انہیں حسین بن عمران  
مؤذن نے خبر دی ان سے ابوالقاسم فاعی نے حدیث بیان کی ان سے  
ابو علی حسن بن علی نے بیان کیا، ان سے احمد بن عمار نے بیان کیا، انہیں محمد  
بن مهدی نے خبر دی، ان سے ابن جریر نے بیان کیا اور وہ عطاء سے  
اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشکی اور تری والے یعنی حضرت الیاس  
و خضر علیہما السلام ہر سال کہ میں جمع ہوتے ہیں، ابن عباس فرماتے  
ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا سر موڑتا ہے  
اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ کو بسم اللہ ماشاء اللہ  
خیر کو اللہ ہی لاتا ہے بسم اللہ ماشاء اللہ برائی اللہ ہی بٹاتا ہے بسم اللہ  
ماشاء اللہ تمہارے پاس جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے  
بسم اللہ ماشاء اللہ اور توت و طاقت اللہ ہی کے ذریعہ ہے۔ ابن عباس  
فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا جس نے یہ دعا روزانہ صبح کو پڑھ  
لی وہ ڈرنے سے جلنے سے اجوری سے اور ہر ناگوار خاطر چیز سے شام  
تک محفوظ رہے گا اور جس نے شام کو پڑھ لی وہ صبح تک اللہ تعالیٰ  
کی حفاظت میں رہے گا۔

ہمیں ہبۃ اللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں حسن بن احمد زہری نے خبر  
دی، انہیں ابوطالب بن حمدان بکری نے خبر دی، انہیں اسماعیل نے خبر دی  
ان سے عباس درری نے بیان کیا۔ انہیں عبید اللہ بن اسحق عطار بن محمد  
بن بشر قیس نے خبر دی، وہ عبد اللہ حسن سے، وہ اپنے والد سے اور  
وہ اپنے دادا سے اور وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ علی نے



ابو طالب بن حمدان البکری قال انبانا اسما عییل  
قال حدیثا عباس الدوری قال انبانا عبید اللہ بن  
اسحاق العطار قال انبانا محمد بن المبشر القیسی  
عن عبد اللہ الحسن عن ابیہ عن جدہ عن علی  
رضی اللہ عنہ قال یجتمع فی کل یوم معرفة بعرفات  
جبریل ومیکائیل واسرافیل والخضر علیہم السلام  
فیقول جبریل ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا  
باللہ فیرد علیہ میکائیل فیقول ماشاء اللہ کل  
نعمة من اللہ فیرد علیہ اسرافیل فیقول ماشاء اللہ  
الخیر کلہ بید اللہ فیرد علیہم الخضر فیقول لا  
یبدفع السوء الا اللہ ثم یتفرقون ولا یجتمعون  
الی تا بل ذلک الیوم واللہ اعلم۔

**فصل** : قال ابن جریر بلغنی انه کان یومر  
ان یكون اکثر دعاء المسلم فی الموقف ربنا آتنا  
فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و فناء عذاب النار  
و روی مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال  
عند الرکن الیمانی ملک قائم منذ خلق اللہ تعالیٰ  
السوات والارض یقول آمین لمن یقول ربنا آتنا  
فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و فناء عذاب  
النار عن حماد بن ثابت قال انہم قالوا لانس بن  
مالک رضی اللہ عنہ ادع لنا فقال اللهم ربنا  
آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و فناء  
عذاب النار قالوا زدنا فاعادها قالوا زدنا  
قال ما تریدون قد سالت اللہ لکم خیر  
الدنیا والآخرة وقال انس رضی اللہ عنہ کان

فرمایا کہ ہر عرفہ کے دن عرفات میں جبریل علیہ السلام، میکائیل  
علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام  
جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں  
ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یعنی حق تعالیٰ کا چاہا ہوا  
ہوتا ہے اور طاقت و قوت اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعہ ہے۔  
اس کا جواب حضرت میکائیل علیہ السلام ان الفاظ میں دیتے  
ہیں اللہ کا چاہا ہوا ہوتا ہے اور ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے  
ہے ان کو حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ جواب دیتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ  
چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور ہر طرح کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا  
جواب حضرت خضر علیہ السلام یہ جواب دیتے ہیں اللہ کا چاہا ہوا ہوتا ہے اور ہر  
کو اللہ ہی دفع کرتا ہے پھر یہ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں اور آنے  
والے سال کے اس دن تک جمع نہیں ہوتے واللہ اعلم۔

**عرفات کی دعائیں** | ابن جریر : مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ فرماتے  
تھے کہ موقف میں مسلمانوں کی کثرت سے یہ دعا ہو ربنا آتنا فی الدنیا  
یعنی اسے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی  
دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

مجاہد از ابن عباس : رکن یمانی کے پاس ایک فرشتہ اس وقت سے  
کھڑا ہے جب سے کائنات عالم کی پیدائش ہوئی اور وہ دعاؤں پر  
آمین کہتا ہے لہذا یہاں ربنا آتنا فی الدنیا الخ پڑھا کر۔

حماد بن ثابت : لوگوں نے اپنے لئے انس بن مالک سے دعا کرنے  
کی درخواست کی آپ نے یہی دعا پڑھی لوگوں نے کہا اور دعا کیجئے  
آپ نے پھر یہی دعا لوٹا دی لوگوں نے کہا اور اضا نہ کیجئے فرمایا اب  
اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارے لئے حق تعالیٰ جل مجدہ سے  
دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہی دعا مانگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یكثر ان یدعو بہا  
 یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة وقتنا  
 عذاب النار فقل ذکر اللہ تعالیٰ من دعا بہذا الدعاء  
 جعل لہ نصیباً و خطاً من فضلہ و رحمته قال اللہ  
 عزوجل فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا  
 ای اعطنا ابلاً و غنماً و بقراً و عبیداً و اماً و ذہباً  
 و فضة ینوی الدنیا فی کل شیء و لہا ینفق و لہا  
 یعمل و لہا ینصب فہی ہمہ و سؤلہ و طلبتہ فقال  
 اللہ عزوجل و مالہ فی الآخرة من خلاق یعنی  
 خطا و لا نصیباً و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا  
 حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار و ہم  
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم و المؤمنون۔

و اختلف العلماء فی معنی الحسنین فقال  
 علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قولہ ربنا  
 آتنا فی الدنیا حسنة امرأۃ صالحۃ و فی الآخرة  
 حسنة الخور العین و قنا عذاب النار و ہی المرأۃ  
 السوء و قال الحسن رحمہ اللہ فی الدنیا حسنة العلم  
 و العبادۃ و فی الآخرة حسنة الجنة و قال السدی  
 و ابن حبان فی الدنیا حسنة ای رزقاً حلالاً  
 و اسعاداً و عملاً صالحاً و فی الآخرة حسنة ہی المغفرة  
 و الثواب و قال ابن عطیة رحمہ اللہ فی الدنیا  
 حسنة العلم و العمل بہ و فی الآخرة حسنة  
 تیسیر الحساب و دخول الجنة و قیل فی الدنیا  
 حسنة التوفیق و العصمة و فی الآخرة حسنة  
 النجاة و الرحمة و قیل فی الدنیا حسنة اولاد البرار

کرتے تھے فرماتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا  
 عذاب النار۔ حق تعالیٰ شانہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو یہ دعا  
 مانگے گا تو حق تعالیٰ اس کے لئے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت کا  
 ایک حصہ مقرر فرمادے گا فرمایا بعض لوگ دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں یعنی اپنے  
 اللہ ہمیں اونٹ، بکریاں، بیل، لونڈیاں، غلام، سونا اور چاندی  
 وغیرہ عطا فرما اور ان کی ہر دہا دنیا ہی کے لئے ہوتی ہے یہ دنیا ہی  
 کے لئے خرچ کرتے ہیں، دنیا ہی کے لئے کام کرتے ہیں اور دنیا ہی کے  
 لئے تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور دنیا ہی ان کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے  
 ہے اور ان کے سوالات و طلب کا مرکز ہی نقطہ دنیا ہی ہوتی ہے لیکن  
 حق تعالیٰ ان کے حق میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں  
 کوئی حصہ نہیں اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں کہ اسے  
 اللہ ہمیں دنیوی سعادت بھی عطا فرما اور آخری سعادت بھی اور ہمیں  
 جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومن ہیں  
 دنیا اور آخرت کی نیکی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت  
 علیؑ: دنیوی نیکی سے نیک عورت مراد ہے اور آخری نیکی سے بڑی  
 بڑی آنکھوں والی حور ہیں مراد ہیں اور آگ کے عذاب سے بری عورت  
 مراد ہے۔ حسن: دنیوی نیکی علم و عبادت ہے اور آخری نیکی جنت ہے  
 مسدٰی ابن حبان: دنیوی نیکی فراخ و حلال روزی اور نیک عمل ہیں  
 اور آخری نیکی ثواب و مغفرت ہے۔

عطیة: دنیوی نیکی عمل کے ساتھ علم ہے اور آخری نیکی آسان حساب  
 اور جنت کا ملنا ہے۔ بعض: دنیوی نیکی نیک عمل کرنے کی اور  
 گناہوں سے بچنے کی توفیق ہے اور آخری نیکی نجات و رحمت ہے۔  
 بعض: دنیوی نیکی سے نیک اولاد اور آخری نیکی سے انبیاء  
 کرام کی رفاقت مراد ہے۔ بعض: دنیوی نیکی مال و عیش ہے اور  
 آخری نیکی جہنم سے بچ جانا اور جنت کامل جانا ہے۔



وفي الآخرة حسنة مرافقة الانبياء وقيل في الدنيا حسنة المال والنعمة وفي الآخرة حسنة تمام النعمة وهو الفوز من النار ودخول الجنة وقيل في الدنيا حسنة الاخلاص وفي الآخرة حسنة الاخلاص وقيل في الدنيا حسنة الثبات على الانبياء وفي الآخرة حسنة السلام والرضوان وقيل في الدنيا حسنة حلاوة الطاعة وفي الآخرة حسنة لذة الروية وقال قتادة رحمه الله في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية والذي يؤيد هذا التاويل ما روى ثابت البناني عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد صار مثل الفرح المنتوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت قد عدت الله بشيء او تساله شيئا فقال كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله اذن لا تستطيعه ولا تطيقه هلا قلت اللهم ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتنا عذاب النار قال فدعا الله عز وجل بها فشفاها وقال سهل بن عبد الله رحمه الله في الدنيا السنة وفي الآخرة الجنة وعن الميبغ عن عوف رحمه الله انه قال في هذه الآية من اتاه الله عز وجل الاسلام والقرآن واهلك ومالا فقد اوتى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعن عبد الاعلى بن وهب

بعض :- دنیوی نیکی سے اخلاص اور آخر دوی نیکی سے خلاص مراد ہے۔

بعض :- دنیوی نیکی سے ایمان پر ثابت قدمی اور آخر دوی نیکی سے سلامتی و رضا مراد ہے۔

بعض :- دنیوی نیکی سے عبادت کی حلاوت اور آخر دوی نیکی سے ویدار کی لذت مراد ہے۔

قتادہ :- اس سے دنیا میں عافیت اور آخرت میں عافیت مراد ہے اس تفسیر کی تائید حضرت انس والی روایت سے ہوتی ہے کہ رسول

صلعم نے ایک ایسے بیمار کی عیادت کی جو سوکھ کر کاٹھا ہو گیا تھا، اور پر نوچے ہوئے چوزے کی مانند معلوم ہوتا تھا آپ نے پوچھا، کیا تم اللہ سے کچھ مانگا کرتے تھے؟ بولا میں یہ دعا مانگا کرتا تھا:-

کہ اے اللہ! اگر تو مجھے آخرت میں عذاب دینے والا

ہے تو وہ دنیا ہی میں دے دے۔ فرمایا سبحان اللہ تب تو

تم کو اس کے عذاب کی طاقت نہیں، تم نے یہ دعا

اللهم ربنا آتانا في الدنيا الخ کیوں نہیں

مانگی؟ فرماتے ہیں پھر اس نے حق تعالیٰ شانہ سے

یہی دعا مانگی اور حق تعالیٰ جل مجدہ نے اسے شفا

بخشی۔

سہل بن عبد اللہ :- دنیوی نیکی سنت پر چلنا اور آخر دوی

نیکی جنت کمال جانا ہے۔

مسیب از عوف :- اس آیت کی تفسیر میں، جسے حق تعالیٰ

شانہ نے اسلام، قرآن، اور اہل دمال سے نوازا اسے

دنیا میں نیکی دی گئی اور آخرت میں بھی نیکی عطا

کی گئی۔

قال : سعت سفیان الثوری رحمہ اللہ یحدث فی هذه الآیة قال فی الدنيا حسنة الرزق الطیب و فی الآخرة حسنة الجنة .

عبد العلیٰ ابن ابی وہب :- میں نے سفیان ثوری سے اس آیت کے بارے میں سنا فرماتے تھے کہ دنیاوی نیکی پاکیزہ روزی ہے اور اخروی نیکی جنت ہے۔

## نویں مجلس

فی فضائل یوم الاحمعی و یوم النحر قول اللہ عزوجل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابرار قال عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما الکوثر هو الخیر الكثير منه القرآن والنبوة والنهر الذی فی الجنة وهو نهر یجری من بطنان الجنة باطنہ الدر المجوف و علی حافتیہ قباب من الباقوت الخضراء ماؤة احلی من العسل والین من الزبد حماۃ المسک الاذفر و ترابہ الکافور الابيض و حصاۃ الدر والیاقوت یطرد مثل السهام اعطاه اللہ تعالیٰ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال مقاتل رحمہ اللہ انا اعطیناک الکوثر هو نهر فی بطنان الجنة وانما سمی الکوثر لانه اکثر انهار الجنة خیرا و ذلك النهر عجاج یطرد مثل السهم طینة المسک الاذفر و رضوانہ الباقوت والزبرجد واللؤلؤا شد بیا صا من الثلج و الین من الزبد و احلی من العسل جافا لا قباب الدر المجوف کل قبة طولها فرسخ فی فرسخ علیها اربعة آلاف مصراع من ذهب فی

عید الفعی اور یوم النحر کی فضیلت | حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا بلاشبہ ہم نے آپ کو (جو عرض) کوثر دیا لہذا آپ اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں دیکھئے آپ کی برائی کرنے والا ہی مقطوع النسل ہے۔

حضرت ابن عباسؓ : کوثر بمعنی خیر کثیر ہے جس میں قرآن و نبوت شامل ہیں اور وہ نر بھی جو جنت میں ہے کوثر اس نر کا بھی نام ہے جو وسط جنت میں جاری ہے اور خولد از موتیوں پر بہتی ہے اس کے دونوں ساحلوں پر سبز یا قوت کے گنبد ہیں اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم ہے اس کی کچھڑ خالص مشک ہے اور مٹی سفید کانور ہے اور اس کے سنگریزے موتی اور یا قوت ہیں اور اتنی تیز بہتی ہے جیسے تیر کمان سے نکل کر تیز جاتا ہے یہ نر حق تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔

مقاتل : کوثر وسط جنت کی نر ہے اور اسے کوثر اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی تمام نروں میں خیر کے اعتبار سے افضل ہے یہ نر موجیں مارتی ہوئی تیر کی طرح تیز بہتی ہے اس کی کچھڑ خالص مشک ہے اور سنگریزے یا قوت زبرجد اور مروارید ہیں۔ اس کا پانی برف سے زیادہ صاف و شفاف اور سفید ہے اور مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شیریں ہے اس کے دونوں ساحلوں پر خولد از موتیوں کے گنبد ہیں اور ہر گنبد کا طول و عرض میں مربع ہے



كل قبة زوجة من الحور العين لها سبعون خادما  
 فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء قلت  
 لجبريل ما هذه الخيام فقال جبريل عليه السلام  
 هذه مساكن لا زواجك في الجنة وتنفجر من  
 الكوثر اربعة انهار اهل الجنان التي ذكرها  
 الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم  
 احدها الماء والثاني اللبن والثالث الخمر والرابع  
 العسل قوله عز وجل فصل لربك وانحر قال  
 مقاتل رحمه الله يعني صل لربك الصلوات  
 الخمس وانحر البدن يوم النحر وقيل فصل لربك  
 يعني ملا لا العيد وانحر يعني انحر البدن بمعنى  
 وقيل ارفع يدك بالتكبير الى نحرك قيل وانحر  
 يعني استقبال القبلة بنحرك وقوله عز وجل  
 ان شانك هو الابرار وذلك ان النبي صلى الله  
 عليه وسلم دخل المسجد الحرام من باب بني  
 سهم بن عمرو بن حصيص والناس من قریش  
 جلوس في المسجد فمضى النبي صلى الله عليه وسلم  
 ولم يجلس حتى خرج من باب الصفا فنظروا اليه  
 حين خرج ولم يروا حين دخل فلم يعرفوا  
 فتلقاها العاص بن وائل ابن هشام بن سعيد  
 بن سعد بن سهم بن علي باب الصفا وهو يدخل  
 والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج وكان النبي  
 صلى الله عليه وسلم توفي ابنه عبد الله بن  
 محمد وكان الرجل اذا مات ولم يكن له  
 منه من بعدة ابن يرثه فليسونه ايتز فلما

جس میں چار ہزار سونے کے چوکھٹے ہیں ہر گنبد میں ایک حور ہے جس کے ستر  
 خادم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں حضرت  
 جبریل سے پوچھا کہ یہ خیمے کیا ہیں؟ فرمایا یہ جنت میں آپ کی بیویوں کے  
 گھر ہیں، کوثر سے جنت والوں کے لئے چار نہریں نکلتی ہیں جن تعالیٰ شانہ نے  
 ان نہروں کا ذکر سورہ محمد میں فرمایا ہے یعنی پانی کی آلودگی کی  
 شراب کی اور خالص شہد کی نہریں۔ مقال فرماتے ہیں دوسری آیت  
 میں نماز سے بچگانہ نماز میں مراد ہیں اور نحر سے ذی الحجہ کی دوسری  
 تاریخ کو اونٹوں کی قربانی مراد ہے۔

بعض علماء: نماز سے عید کی نماز اور نحر سے منیٰ میں اونٹوں کی  
 قربانی مراد ہے۔

بعض علماء: نماز سے سینہ تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کسنا مراد ہے  
 یعنی تہذیب کھڑے ہو کر تکبیر کہو۔ تیسری آیت کی تفصیل یہ ہے کہ ایک  
 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی سہم بن عمرو بن حصيص سے بیت اللہ میں  
 تشریف لے گئے قریشی مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 بیٹھے نہیں اور باب صفا سے نکل گئے جب آپ تشریف لائے تھے  
 تو آپ کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا لیکن جانتے ہوئے دیکھ لیا تھا  
 مگر پہچان نہ سکے کہ کون ہیں پھر صفا سے نکلے ہوئے آپکی عاص بن وائل  
 سے مدبھیٹ ہو گئی آپ مسجد سے جا رہے تھے اور عاص آ رہا تھا۔  
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند عبد اللہ فوت ہو گئے تھے اگر کسی کا بیٹا  
 مر جاتا اور اس کے کوئی اور بیٹا نہ ہوتا جو اس کا وارث ہو  
 تو عرب ایسے شخص کو ایتز (مقطوع النسل) کہا کرتے تھے پھر  
 جب عاص لوگوں میں پہنچتا ہے تو قریش اس سے پوچھتے ہیں  
 کہ تمہارے سامنے آنے والے کون تھے؟ عاص جواب دیتا ہے  
 کہ وہ ایتز تھے، اس پر آیت ان شانک ہو الا ایتز اتری یعنی آپ  
 کا دشمن اور آپ سے بغض رکھنے والا ہی ایتز ہے یعنی بر خیر و سعادت



انتھی العاص بن وائل الى القوم سالوا فقالوا له من  
 ذا الذي تلقاك فقال لهم لا يتزف نزل قوله عز وجل  
 ان شئت لك يعني عدوك ومبغضك هو لا يتزف يعني  
 مقطوع من الخير الذي هو العاص بن وائل واما  
 انت يا محمد فتذكر معي اذا ذكرت فرقع الله  
 عز وجل ذكرا عليه السلام في الناس عامة قال  
 الله تعالى الم نشرح لك صدرك ووفعنا عنك و  
 ذرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فتذكر  
 صلى الله عليه وسلم في كل عين وجبعة على المنابر  
 والمساجد والاذان والاقامة والصلاة وكل  
 المواطن حتى في خطبة النكاح وخطبة الكلام و  
 في الحاجات صلى الله عليه وسلم وجعل ما والا  
 الفردوس الاعلى وما ضره قول شائسته وعدوا  
 وجعل ماوى العاص بن وائل النار والنواع العذاب  
 والنكال لقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك و  
 كفره بالله عز وجل فهكذا يجازى الله عز وجل  
 كل محب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين  
 من امته بالجنة ومبغضه عليه السلام من  
 المنافقين والكفار بالنار۔

**فصل:** قوله عز وجل فصل لربك وانحر

اعلم ان الله عز وجل امر نبيه عليه الصلاة  
 والسلام وامتة بالصلاة ثم امرهم ثانيا  
 باشياء بعد الصلاة منها الذكر ومنها الدعاء  
 ومنها النحر۔

**فصل:** واما الذكر فقوله عز وجل يا ايها

سے کہا ہوا ہے اور محمد ہے اور وہ عاص بن وائل ہے اور انہی محمد  
 آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ساتھ رہے گا چنانچہ حق تعالیٰ شانہ  
 نے آپ کا ذکر عوام میں بند فرمایا چنانچہ فرمایا کیا ہم نے آپ کا سینہ  
 نہیں کھولا اور آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا نہیں کیا جس نے آپ کی کمر  
 چھکا دی تھی اور ہم نے آپ کا ذکر بند نہیں فرمایا چنانچہ نبی صلعم کا  
 ذکر ہر عید اور ہر جمعہ کو منبروں پر کیا جاتا ہے اور مسجدوں میں  
 اذانوں میں، تکبیروں میں نمازوں میں اور ہر مقام پر جتنے کہ  
 خطبہ نکاح میں، خطبہ تقریر میں اثنائے گفتار میں اور تمام ضرورتوں  
 کے وقت کیا جاتا ہے حق تعالیٰ آپ پر اپنی بے شمار رحمتیں بھیجے  
 اور فردوس اعلیٰ میں آپ کا راحت کردہ بنائے آمین اور آپ  
 کے دشمن اور برا کئے والے کے قول نے آپ کے مرتبہ کو نہیں گھٹایا  
 اور آپ کے دشمن عاص بن وائل کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہے  
 اور اسے گوناگوں عذاب اور سزا میں گھیرے ہوئے ہیں کہ اس نے  
 رحمتہ للعالمین کی شان اظہر میں گستاخی کی تھی اور عزت و جلال اللہ  
 اللہ کے ساتھ کفر کیا تھا۔ یہی جسذا عزت و جلال والا  
 اللہ ہر محب رحمتہ للعالمین کو دیتا ہے کہ اسے جنت اور اس  
 کے آرام عطا فرماتا ہے اور ان کے دشمنوں کو جو منافق و  
 کافر ہوتے ہیں۔ جہنم کے خوف ناک گڑھوں میں ڈال  
 دیتا ہے۔

**نماز و قربانی** | دیکھیے حق تعالیٰ شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کو اور آپ کی امت کو نماز کا حکم فرمایا ہے پھر نماز کے بعد چند  
 عبادتوں کے بجالاتے کا حکم ہے جن میں ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ سے  
 دعائیں مانگنا اور اس کی رضا کے لئے اس کے نام پر قربانی کرنا  
 بھی شامل ہے۔

**ذکر اللہ** | ذکر اللہ کے سلسلہ میں عزت و جلال والے اللہ تعالیٰ کا



الذین آمنوا ذکرُوا اللہ ذکراً کثیراً وقولہ عزوجل  
 فاذکرونی اذکرکم واشکروالی ولا تکفرون  
 اختلف العلماء فی ذلك فقال ابن عباس رضی اللہ  
 عنہما اذکرونی بطاعتی اذکرکم بمعونتی كما قال  
 اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنمہدینہم سبلنا  
 وقال سعید بن جبیر رحمہ اللہ اذکرونی بطا  
 اذکرکم بمعونتی كما قال اللہ تعالیٰ واطیعوا اللہ  
 والرسول لعلکم ترحمون وقال فضیل بن عیاض  
 رحمہ اللہ فاذکرونی بطاعتی اذکرکم بتواہجی  
 كما قال اللہ عزوجل ان الذین آمنوا وعملوا  
 الصالحات انا لانضیع اجر من احسن عملاً اولک  
 لهم جنات عدن الآیة وقال النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وان قلت  
 صلاتہ وصیامہ وتلاوتہ القرآن ومن عسی  
 اللہ فقد نسی اللہ وان کثرت صلاتہ وصیامہ  
 وتلاوتہ القرآن وقال ابو بکر الصدیق  
 رضی اللہ عنہ کفی بالتوحید عبادۃ وکفی  
 بالجنة ثواباً وقال ابن کثیر رحمہ اللہ  
 فاذکرونی بالشکر اذکرکم بالزیادۃ لقولہ  
 تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم وقیل اذکرونی  
 بالتوحید والایمان اذکرکم بالدرجات  
 والجنان لقولہ عزوجل ولبشر الذین آمنوا و  
 عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من  
 تحتہا الانهار الآیة وقیل اذکرونی علی  
 وطرہ الارض اذکرکم فی بطنہا اذا نسیتکم

فرمان ہے کہ اے ایمان والو! کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو فرمایا: تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو اس آیت کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابن عباس: تم میری اطاعت کر کے مجھے یاد رکھو میں تمہاری نذر کر کے تم کو یاد رکھوں گا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے ہمارے دین کی راہوں میں مجاہدہ کیا یقیناً ہم انہیں راہیں دکھا دیں گے۔ سعید بن جبیر: تم مجھے میری اطاعت کر کے یاد رکھو میں تمہیں تمہاری مغفرت کر کے یاد رکھوں گا جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فضیل بن عیاض: تم مجھے میری اطاعت کر کے یاد رکھو میں ثواب عطا فرماؤں کہ تمہیں یاد رکھوں گا جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ جو ایمان لاکر نیک عملوں میں لگے رہتے ہیں تو دیکھو ہم ان کا اجر صنایع کر نیوالے نہیں جو حسن انتہام سے عمل کرتے ہیں انہیں کے لئے عدن کے باغات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کا ذکر کیا اگرچہ اس کی نمازیں، روزے اور قرآن پاک کی تلاوتیں تھوڑی سی ہوں اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا اگرچہ اس کی نمازیں، روزے اور قرآن پاک کی تلاوتیں بہت ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ: عبادت میں توحید کافی ہے اور ثواب میں جنت کافی ہے۔ ابن کثیر: تم مجھے شکر سے یاد رکھو میں تمہیں نعمتوں میں زیادتی سے یاد رکھوں گا جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ بعض علماء: تم مجھے توحید و ایمان کے ساتھ یاد رکھو میں تم کو جنت عطا فرماؤں اور تمہارے دوسرے بڑھاکہ یاد رکھوں گا، فرمایا، آپ ایمان لاکر نیک عمل کر نیوالوں کو بشارت سنا دیں کہ ان کے لئے ایسے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نریں جاری ہیں۔ بعض دیگر علماء: تم مجھے زمین پر یاد رکھو میں تم کو زمین کے

اهلها كما قال الاصمعي رأيت اعرابيا واقفا يوم  
عرفته يعرفات وهو يقول اللهم عجت اليك  
الاصوات بصروب اللغات يسألونك الحاجات  
وحاجتي اليك ان تذكرني عند البلاء اذ انسيني  
اهلي وقيل اذكروني في الدنيا اذكركم في الآخرة  
وقيل اذكروني بالطاعات اذكركم بالمعافات  
دليله قوله تعالى من عمل صالحا من ذكرا وانثى  
وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة وقيل اذكروني  
بالخلاء والملاء اذكركم بالخلاء والملاء كما روى  
ان الله تعالى قال في بعض الكتب انا عند ظن  
عبدى بنى فليظن بى ما شاء وانا معه اذ اذكروني  
فمن ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسى ومن ذكرنى  
فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم ومن تقرب  
الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى  
ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتانى ماشيا  
اتيتته هرولة ومن اتانى بقراب الارض خطيتته  
اتيتته يمشلها مفقرة بعد ان الايشرك بنى شيئا  
وقيل اذكروني فى النعمة والرخاء اذكركم  
فى الشدة والبلاء كما قال الله عز وجل فلولا  
انه كان من المسيحين للبت فى بطنه الى يوم  
يبعثون وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه  
ان العبد اذا كان دعا فى السراء فينزل به  
البلاء فتقول الملائكة يا ربنا عبدك قد نزل  
به البلاء فيشفعون له فيجيبهم الله تعالى و  
اذ لم يكن دعا لا قالوا الا ان فلا يشفعون له

نیچے یاد رکھوں گا جب زمین والے تم کو بھول جائیں گے جیسا کہ اصمعی  
بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کے دن عرفات میں ایک دیہاتی کو کھڑا ہوا  
دیکھا وہ یہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اے میرے معبود! مختلف زبانوں میں  
تیری طرف آوازیں گونج رہی ہیں اور بلند میں لوگ تجھ سے اپنی اپنی مرادیں  
مانگ رہے ہیں میری مراد یہ ہے کہ تو مصیبت کے وقت مجھے یاد رکھنا کہ  
میرے آدمی مجھ کو بھول جائیں۔ بعض دیگر علماء: تم مجھے دنیا میں یاد  
رکھو میں تم کو آخرت میں یاد رکھوں گا۔ بعض دیگر علماء: تم مجھے  
طاعتوں سے یاد رکھو میں تمہیں معافی سے یاد رکھوں گا فرمایا: جو مرد  
یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتا رہا بلاشبہ ہم اسے پاکیزہ  
زندگی عطا فرمائیں گے۔ بعض دیگر علماء: تم مجھے خلوت و جلوت میں  
یاد رکھو میں بھی تم کو ظاہر و باطن میں یاد رکھوں گا جیسا کہ منقول ہے  
کہ حق تعالیٰ نے کسی کتاب میں فرمایا میں اپنے بارے میں اپنے بندے  
کے گمان کے نزدیک ہوں لہذا اسے اختیار ہے کہ میرے بارے میں  
جو گمان کرے کر لے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے  
پاس ہوتا ہوں جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل  
میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھے اجتماع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اسکی  
محفل سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھ سے ایک ہالنت  
تقریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ تقریب ہوتا ہوں اور جو مجھ  
ایک ہاتھ تقریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ تقریب ہوجاتا ہوں۔  
اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔  
اور جو میرے پاس زمین کی سینی بھر کر گناہ لاتا ہے تو میں اس کے  
پاس زمین کی سینی بھر کر بخشش لاتا ہوں بشرطیکہ وہ میرے ساتھ  
شکر نہ کرتا ہوگیں دیگر علماء: تم مجھے آسائش و تکلیف میں یاد رکھو  
میں تم کو شائد و مصائب میں یاد رکھوں گا جیسا کہ فرمایا کہ اگر وہ  
حضرت یونسؑ پر ٹھنے والے نہ ہوتے تو لوگوں کے زندہ



بیانہ قصۃ فرعون آلان وقد عصیت قبل  
 الآیۃ وقیل اذکرونی بالتسلیم والتفویض اذکرکم  
 بامام الاختیار بیانہ قولہ عزوجل ومن یشوکل  
 علی اللہ ذنہو حسبہ وقیل اذکرونی بالشوق  
 والمحبتہ اذکرکم بالوصل والقربۃ وقیل اذکرکم  
 بالمجد والثناء اذکرکم بالعطاء والجزاء وقیل  
 اذکرونی بالتوبۃ اذکرکم بغفران الحویبۃ  
 اذکرونی بالدعاء اذکرکم بالعطاء اذکرونی  
 بالسؤال اذکرکم بالنوال اذکرونی بلا غفلۃ  
 اذکرکم بلا مہلۃ اذکرونی بالندم اذکرکم  
 بالکرم اذکرونی بالمعذرتہ اذکرکم بالمخضرتہ  
 اذکرونی بالارادۃ اذکرکم بالافادۃ اذکرونی  
 بالنصل اذکرکم بالتفضل اذکرونی بالاخلاص  
 اذکرکم بالخلص اذکرونی بالقلوب اذکرکم  
 بکشف الكرب اذکرونی بلا نسیان اذکرکم  
 بالایمان اذکرونی بالافتقار اذکرکم بالافتقار  
 اذکرونی بالاعتذار والستغفار اذکرکم  
 بالرحمۃ والاعتقار اذکرونی بالایمان اذکرکم  
 بالجنان اذکرونی بالاسلام اذکرکم بالاکرام  
 اذکرونی بالقلب اذکرکم بکشف المحجب  
 اذکرونی ذکر افانیا اذکرکم ذکر ابقیا اذکرونی  
 بالاتبہال اذکرکم بالانصال اذکرونی بالتذلل  
 اذکرکم بغفرۃ الزلل اذکرونی بالاعتراف  
 اذکرکم بحوالا قتراف اذکرونی بصفتہ  
 السر اذکرکم بحالہ البر اذکرونی بالصدق

جانے تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سلمان فارسی: اگر حالت آسائش میں  
 میں بندہ حق تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے پھر وہ کسی مصیبت میں  
 گھر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیرا بندہ مصیبت میں  
 گھر گیا ہے اور فرشتے حق تعالیٰ سے اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں اور حق تعالیٰ  
 اکی سفارش قبول فرماتا ہے اور اگر کوئی حالت آسائش میں حق تعالیٰ سے دعائیں  
 نہیں مانگتا تو فرشتے کہتے ہیں اب رحمت کر رہے ہیں دعائیں مانگتا ہے اور اس کے  
 حق میں دعائیں نہیں کرتے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا  
 اب؟ (ایمان لاتا ہے) حالانکہ اس سے پہلے تو باغی رہا۔ بعض دیگر علماء  
 تم مجھے تسلیم و رضا کے ساتھ یاد کرو میں تم کو بہترین پسندیدگی کے ساتھ یاد  
 کروں گا۔ اسکی وضاحت قرآن حکیم کی اس آیت میں ہے اور جو اللہ پر توکل  
 کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ بعض دیگر علماء: تم مجھے شوق و محبت  
 کے ساتھ یاد کرو میں تم کو قرب و نزدیکی کے ساتھ یاد کروں گا۔ بعض دیگر  
 علماء: تم مجھے مجد و ثناء کے ساتھ یاد کرو میں تم کو جزا و عطاء کے ساتھ یاد  
 کروں گا یا تم مجھے سوال کے ساتھ یاد رکھو میں تمہیں عطیات کے ساتھ یاد  
 رکھوں گا یا تم مجھے بلا غفلت کے یاد رکھو میں تم کو بلا مہلت کے یاد رکھوں گا  
 یا تم مجھے ندامت کے ساتھ یاد رکھو میں تم کو منفعت کے ساتھ یاد رکھوں گا  
 یا تم مجھے عذر کے ساتھ یاد رکھو میں تمہیں بخشش کے ساتھ یاد رکھوں گا  
 یا تم مجھے ارادے کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں نادمہ پہنچانے کیساتھ یاد رکھوں گا  
 یا تم مجھے گناہ چھوڑنے کے ساتھ یاد رکھو میں تمہیں فضل و کرم کے ساتھ یاد  
 رکھوں گا یا تم مجھے اخلاص کے ساتھ یاد رکھو میں تمہیں ربانی کے ساتھ  
 یاد رکھوں گا یا تم مجھے دلوں سے یاد رکھو میں تمہیں تمہاری بے چینیاں  
 کھونے کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم مجھے بلا بھولے یاد رکھو میں تمہیں  
 ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم مجھے احتیاج کے ساتھ یاد  
 رکھو میں تمہیں افتقار کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم مجھے عذر و استغفار کے  
 ساتھ یاد رکھو میں تمہیں رحمت و مغفرت کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم

اذکرکم بالرفق اذکرونی بالصفو اذکرکم بالعفو  
 اذکرونی بالتعظیم اذکرکم بالتکریم اذکرونی  
 بالتکبیر اذکرکم بالنجاة من السعیر اذکرونی  
 بترك الجفاء اذکرکم بحفظ الوفاء اذکرونی  
 بترك الخطاء اذکرکم بالواضع العطاء اذکرونی  
 بالجهد فی الخدمة اذکرکم باتمام النعمة  
 اذکرونی من حیث انتم اذکرکم من حیث انا  
 ولذکر الله اکبر قال الربیع رحمہ اللہ فی ہذہ  
 الآیۃ ان الله تعالى ذاکر من ینذکرہ و زائد  
 لمن یشکرہ و معذب لمن ینکفرہ و قال السدی  
 رحمہ اللہ فیہا لیس من عبد ینذکر الله  
 تعالى الا ذکرہ لا ینذکرہ مر من الا ذکرہ  
 بالرحمة ولا ینذکرہ کافر الا ذکرہ بالعذاب  
 وقال سفیان بن عیینة رحمہ اللہ بلغنا  
 ان الله عز وجل قال اعطیت عبادی مالو  
 اعطیتہ جبریل و میکائیل کنت قد اجزلت  
 لہما فقلت لہما اذکرونی اذکرکم و قلت لموسی  
 قل للنظامة لا ینذکرونی فانی اذکر من ذکرنی  
 وان ذکرنی ایاہما ان العنہم وقال ابو عثمان  
 الشہدی رحمہ اللہ انی اعلم حین ینذکرنی  
 ربی قبیل لہ و کیف ذلک؟ فقال ان الله عز وجل  
 قال اذکرونی اذکرکم فاذا ذکرک الله  
 ذکرنی و قبیل اوحی الله عز وجل الی داود  
 علیہ السلام یا داود بی فاخرجوا و ینذکرنی  
 فتعبروا و قال الثوری رحمہ اللہ لکل شیء

مجھے ایمان کے ساتھ یاد رکھو میں تمہیں جنتوں کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم  
 مجھے اسلام کے ساتھ یاد رکھو میں تمہیں احترام و اکرام کے ساتھ یاد  
 رکھوں گا یا تم مجھے دلوں سے یاد رکھو میں پردے اٹھا کر تمہیں یاد  
 رکھوں گا یا تم مجھے نانی ذکر سے یاد رکھو میں تمہیں باقی ذکر سے یاد رکھوں  
 گا یا تم مجھے انکساری اور عاجزی کے ساتھ یاد رکھو میں تمہاری لغزشوں سے  
 درگزر کر کے یاد رکھوں گا یا تم مجھے اعتراف گناہ کے ساتھ یاد رکھو  
 میں تم کو تمہارے گناہ مٹانے کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم مجھے دل کی  
 صفائی سے یاد رکھو میں تم کو خالص نیکی کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم  
 مجھے صدق کے ساتھ یاد رکھو میں تمہیں نرمی کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم مجھے  
 کے ساتھ یاد رکھو میں تمہیں معافی کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم مجھے تعظیم کے ساتھ  
 یاد رکھو میں تمہیں عزت سے یاد رکھوں گا یا تم مجھے اللہ اکبر کے ساتھ یاد رکھو  
 میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دینے کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم مجھے  
 ترک جفا کے ساتھ یاد رکھو میں تمہیں حفظ و نفا کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم  
 مجھے ترک خطا کے ساتھ یاد رکھو میں تمہیں گوناگوں عطا کے ساتھ یاد رکھوں  
 گا یا تم مجھے اسلام میں پوری پوری سرگرمی سے یاد رکھو میں تمہیں تمہیں  
 نعمتیں پوری کر کے یاد رکھوں گا یا تم مجھے جہاں جہاں یاد رکھو میں تمہیں جہاں  
 میں ہوں یاد رکھوں گا اور دیکھو اللہ کا ذکر ایک عظیم ترین شے ہے۔  
 اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ سے یاد رکھنا ہے جو اسے یاد رکھتا ہے  
 اور اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اور ناکر  
 کو عذاب دیتا ہے۔ سدی: جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر  
 فرماتا ہے اگر مرد من اسے یاد کرتا ہے تو حق تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے یاد کرتا ہے  
 ہے اور اگر کافر اس کا ذکر کرتا ہے تو حق تعالیٰ اسے عذاب سے یاد کرتا ہے۔  
 سفیان بن عیینة: ہمیں خبر ملی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو  
 وہ نعمتیں دیں کہ اگر میں وہ نعمتیں جبریل و میکائیل کو دیتا تو بہت بڑی نعمتوں  
 سے انہیں نوازتا یعنی میں نے اپنے بندوں سے کہا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں



عقوبة وعقوبة العارف القطاعه عن ذكر الله  
 وقيل اذا تمكّن الذكر من القلب فاذا دنا منه  
 الشيطان صرع كما يصرع الانسان اذا دنا منه  
 الشيطان فيقولون ما لهذا فيقال قد مسه  
 الالس وقال سهل بن عبد الله رحمه الله  
 ما اعرف معصية اقبح من نسيان هذا  
 الرب الكريم وقيل الذكر الخفي لا يرفعه  
 الملك لانه لا اطلاع له عليه فهو سر  
 بين العبد وبين الله تعالى وقال بعضهم  
 وصف لي ذاكر في الاجمة فائتته فينبأ  
 نحن جلوس واذا سبغ عظيم اقبل فضربه  
 ضربته ونهش منه قطعة فغشي عليه  
 وعلى فلما افقت قلت له ما هذا فقال  
 قيفض الله على هذا السبع كلما دخلتني  
 فنت عن ذكرى جاع في فعضني كما رأيت  
**فصل** : واما الدعاء فقوله عز وجل  
 وقال رب كما دعوتني استجب لعم وقوله  
 تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فار  
 اى اذا فرغت من ملائكتك فانصب للدعاء  
 له تبارك وتعالى وقوله عز وجل واذا سأل  
 عبادى عني فاني قريب اجيب دعوة الداع  
 اذا دعان الآية اختلف المفسرون في نزول  
 هذه الآية فروى الكلبي عن ابي صالح  
 عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال  
 سألت يهود اهل المدينة النبى صلى الله عليه

رکھوں گا اور میں نے موسیٰ سے کہا آپ ظالموں سے کہہ دیں کہ وہ میرا ذکر نہ کریں  
 کیونکہ ذکر کہ نبیوں کا ذکر میں بھی کرتا ہوں اور میرا ذکر ظالموں کے لئے ان  
 لعنت ہے۔ ابو عثمان ہندی: جب مجھے میرا رب یاد کرتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا  
 جاتا ہے پوچھا گیا، کس طرح؟ فرمایا حق تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو تمہیں  
 یاد کرو لہذا جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرماتا ہے  
 یعنی ذکر اللہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد کیا۔ کتے میں جن  
 نے حضرت داؤد کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد! مجھ سے خوش رہ اور میرے  
 ذکر سے لذت حاصل کر۔ ثوری: ہر شے کی ایک سزا ہے اور عارف کی سزا  
 ہے کہ وہ ذکر اللہ چھوڑ دے: کہتے ہیں جب ذکر دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے تو  
 جب شیطان اس دل کے قریب آتا ہے تو اس طرح بیہوش ہو کر گر جاتا  
 جیسے انسان شیطان کے قریب آنے سے بیہوش ہو کر گر جاتا ہے شیاطین  
 ہیں کہ اسے شیطان کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسرے شیطان جواب دیتے ہیں کہ  
 کسی انسان کی جھپٹ میں آ گیا ہے۔ سهل بن عبد اللہ تستری: میں کوئی ایسا  
 گناہ نہیں پہچانتا جو عزت والے رب کی مہول سے زیادہ بڑا ہو۔ کہتے ہیں  
 پوشیدہ ذکر کو فرشتہ آسمان پر نہیں چڑھاتا کیونکہ فرشتہ اس سے آگاہ نہیں  
 ہوتا لہذا وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک راز ہی رہتا ہے بعض اللہ  
 والے فرماتے ہیں ہم سے کسی نے بیان کیا کہ ایک ذاکر بن میں رہتے ہیں میں انہیں  
 تلاش کرتے کرتے انکے پاس پہنچ گیا ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک بہت  
 بڑا درندہ نکلتا ہے اور اس ذاکر کے گوشت کا بچہ اٹار کر لیتا ہے اس سے ہم دونوں  
 بیہوش ہو جاتے ہیں وہ تو تکلیف کی وجہ سے اور میں دہشت سے بیہوش ہو جاتا ہوں  
 پھر جب ہمیں ہوش آتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟  
 فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ درندہ اس لئے مسلط فرمایا ہے کہ جب  
 سے ذکر میں سستی ہو تو یہ میرے پاس آ کر مجھے اسی طرح نوچے جس طرح تم  
 ویسا تاکہ میں سستی چھوڑ دوں۔

دعا دعا کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا: اور تمہارے پروردگار نے فرمایا

وسلم کیف یسبح ربنا دعاءنا وانت تزعم ان بیننا  
 وبين السماء مسیرة خمسمائة عام وان غلظ کل  
 ساء مثل ذلك و فنزلت هذه الآیة واذا سألک  
 عبادی عنی فانی قریب وقال الحسن رحمه الله سأل  
 اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ان  
 ربنا و فانزل الله هذه الآیة وقال عطاء و  
 قتادة رحمهما الله لما نزلت هذه الآیة وقال  
 ربکم ادعونی استجب لکم قال رجل یا رسول  
 الله کیف ندعو ربنا ومتی ندعو؟ فانزل الله  
 هذه الآیة واذا سألک عبادی عنی فانی قریب  
 وقال الضحاک رحمه الله سأل بعض الصحابة  
 رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرب ربنا  
 فاجابه ام لعیب فنادیه فانزل الله هذه  
 الآیة واذا سألک عبادی عنی فانی قریب قال  
 اهل المعانی فیہ اصابا ركانه قال فقل لهم  
 او فاعلمهم انی قریب منهم بالعلم وقال اهل  
 الاشارة رفع الواسطة اظهار القدره قوله  
 اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی  
 ای فلیستجیبوا لی بالطاعة یقال اجاب  
 واستجاب بمعنی واحد وقال البورجاء الخراسانی  
 رحمه الله یعنی فلیدعونی والاجابة فی اللغة  
 الطاعة واعطاء ما سئل یقال اجابت السماء  
 بالمطر واجابت الارض بالنبات ای سئلت  
 السماء المطر فاعطت وسئلت الارض النبات  
 فاعطت والاجابة من الله عز وجل هو الاعطاء

مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا دوسری جگہ فرمایا پھر جب  
 آپ نارغ ہو جائیں تو تکلیف گوارا کر کے اپنے رب ہی کی طرف راغب  
 ہو جائیں یعنی جب آپ نماز سے نارغ ہو جائیں تو حق تعالیٰ اجل مجھ  
 سے دعا کے لئے زحمت اٹھائیں، ایک آیت میں ہے اے پیغمبر! جب  
 آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتادیں  
 کہ میں قریب ہوں میں دعا کر نیوالے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ  
 مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ اس آیت کے ثبوت کے لئے مفسرین کا اختلاف  
 ہے۔ کلبی از ابو صالح از ابن عباسؓ مدینہ کے یہودیوں نے نبی صلعم سے  
 پوچھا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ زمین سے لیکر آسمان تک پانچ سو برس  
 کی مسافت ہے اور ہر آسمان کے عمق میں بھی پانچ سو برس کی مسافت ہے  
 تو ہمارا پروردگار ہماری دعا کس طرح سنتا ہے؟ اس پر یہ آیت اتری  
 حسن صحابہ کرام نے مزور عالم صلعم سے پوچھا کہ ہمارا رب کہاں  
 ہے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ عطاء قتادہ: جب دنال ربکم ادعونی  
 استجب لکم اتری تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم اپنے رب سے  
 طرح دعا کریں اور کب دعا کریں؟ تو حق تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت اتاری  
 ضحاک: کسی صحابی نے رسول اللہ صلعم سے پوچھا کہ آیا ہمارا پروردگار  
 قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ ہم اسے پکاریں؟ تو حق تعالیٰ  
 نے یہ آیت رواذا سألک عبادی الخ اتاری۔

اہل معانی: اس آیت میں عنی کے بعد ایک جملہ پوشیدہ ہے یعنی  
 آپ ان سے کہہ دیں یا آپ انہیں بتادیں کہ میں دعوت کے ذریعہ ان  
 سے قریب ہوں۔ اہل اشارہ: اللہ کے اور بندے کے درمیان  
 واسطہ کا اٹھا دینا قدرت کے ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ پھر فرمایا کہ  
 جب دعا کر نیوالا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اسکی دعا قبول کرتا ہوں  
 تو لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے قبولیت طلب کریں یعنی اطاعت و عبادت  
 کے ساتھ میری قبولیت طلب کریں اجابہ اور استجابة مترادف الفاظ ہیں



ومن العبد الطاعة قوله وليؤمنا بى لعلمهم يرشدون  
 اسی لکى بیعتد و افان سأل سائل عن قوله اجیب  
 دعوة الداع اذا دعان وقوله ادعونی استجب  
 لكم وقال قد نرى کثیرا من خلق الله تعالى  
 یدعون فلا یجاب لهم قیل: اختلف اهل العلم  
 فی وجه الآتیین و تاریلہما فقال بعضهم معنی  
 الدعاء ههنا الطاعة ومعنی الاجابة الثواب  
 کانتہ قال عزوجل اجیب دعوة الداع بالثواب  
 اذا اطاعنی وقال بعضهم معنی الآتیین خاص وان  
 کان لفظہما عاما تقدیرہما اجیب دعوة الداع  
 ان شئت اجیب دعوة الداع اذا وافق القضاء  
 اجیب دعوة الداع اذا المریال محالا اجیب  
 دعوة الداع اذا کانت الاجابة له خیر ایدل  
 علی ذلك ما روى عن علی بن ابی المتوکل عن ابی  
 سعید رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم ما من مسلم دعا اللہ عزوجل  
 بدعوة لیس فیہا قطیعة رحم ولا اثم الا اعطى  
 اللہ تعالیٰ بہا ما حببہا احدی ثلاث خصال  
 اما ان یعجل دعوتہ و اما ان یدخرہا لہ  
 فی الآخرة و اما ان یدفع عنہ من السوء مثلہا  
 قالوا یا رسول اللہ فاذا نکت من الدعاء قال  
 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکثر وقال بعضهم  
 ان الآتیعامۃ لیس فیہا اکثر من اجابة الدعوة  
 فاما اعطاء المنیة وقضاء الحاجة فلیس بمذکور  
 فی الآیة وقد یجیب السید عیدہ والوالد ولذ

ابو الرخاء خراسانی جو یعنی دعا مانگنے والوں کو مجھ سے دعا مانگنی چاہیے  
 اجابت بمعنی اطاعت اور بمعنی قبول کرنا بھی ہے محاورہ ہے اجابت السماء  
 بالمطر یعنی آسمان سے بارش مانگی گئی تو اس نے بارش دی اجابت الارض  
 بالنبات اور زمین سے نباتات مانگی گئی تو اس نے نباتات دی۔ اجابت  
 اللہ کی طرف سے دینے کے معنی میں ہے اور بندے کی طرف سے اطاعت  
 کرنے کے معنی میں ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ  
 صحیح راہ پالیں۔ اگر کوئی کہے کہ مذکورہ بالا آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ  
 دعائیں قبول کی جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں دعائیں قبول کرنے کا  
 وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ  
 بہت سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے  
 کہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک  
 یہاں دعا بمعنی عبادت ہے اور اجابت بمعنی ثواب ہے گویا حق تعالیٰ فرماتا  
 ہے کہ میں عبادت کرنے والوں کی عبادت انہیں ثواب عطا فرما کر قبول  
 کرتا ہوں، اور بعض علماء کے نزدیک اگرچہ ان دونوں آیتوں کے  
 الفاظ عام ہیں مگر معنی خاص ہیں یعنی معنی یہ ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں تو  
 دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں یا اگر دعا میری مصلحت کے  
 اور قضاء و قدر کے موافق ہوتی ہے تو قبول کر لیتا ہوں یا اگر ناممکن ہے  
 کا سوال نہ ہو تو قبول کر لیتا ہوں یا اگر دعا کرنے والے کے حق میں سبزی ہوتی  
 ہے تو دعا قبول کر لیتا ہوں اس معنی پر حدیث ابو سعید دلالت کرتی ہے  
 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں  
 قطع رحمی نہ ہو اور نہ گناہ ہو تو حق تعالیٰ اسے اس دعا کے عوض تین بار  
 میں سے ایک بات یقیناً عطا فرماتا ہے یا تو اس کی دعا نورا قبول کر  
 لی جاتی ہے یا آخرت کے ثواب کے لئے جمع کر دی جاتی ہے یا اس سے  
 اسکے ہم مثل برائی دور کر دی جاتی ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو  
 ہم کثرت سے دعائیں مانگیں گے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے اور کثرت سے دے دے گا



و لا یعیطہ سوالہ فالاجابۃ کائنۃ لا محالۃ عند  
 حصول الدعویۃ لان قولہ اجیب و استجیب خبر  
 والخبر لا یتراض علیہ النسخ لانه اذا نسخ ما  
 المخبر کا ذبا و تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبیرا و خبر  
 اللہ تعالیٰ لا یقع بخلاف مخبرہ و  
 الذی یؤید هذا التاویل  
 ماروی نافع عن ابن عمر رضی اللہ  
 عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم انه قال من فتح لہ باب فی الدعاء فتحت  
 لہ ابواب الاجابۃ و اوحی اللہ تعالیٰ الی داود علیہ  
 السلام قل للظلمۃ لا یدعون فی فانی اوجبت علی  
 نفسی ان اجیب وانی اذا اجبت الظالمین لعنتہم  
 وقیل ان اللہ تعالیٰ یجیب دعویۃ المؤمن فی الوقت  
 الا انه یؤخر اعطاء مرادہ لیدعوا فیسمع صوته  
 یدل علیہ ماروی عن محمد بن المنجد عن جابر  
 ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیدعوا اللہ عزوجل  
 و هو یغیبہ فیقول اللہ تعالیٰ یا جبریل افض لعبدی  
 هذا حاجتہ و اخرها فانی احب ان لا ازال  
 اسمع صوته وان العبد لیدعوا اللہ عزوجل  
 و هو یغیبہ فیقول یا جبریل افض لعبدی هذا  
 حاجتہ باخلاصہ و عجلها فانی اکرا ان اسمع  
 صوته وقیل ان یحیی بن سعید رحمہ اللہ قال  
 رایت رب العزلة فی المنام فقلت یا رب کم ادعواک  
 فلا تستجب لی قال یا یحیی انی احب صوتک

بعض علماء کے نزدیک آیتیں عام ہیں اور ان میں بعض دعاؤں کی قبولیت  
 کا وعدہ ہے لیکن یہ وعدہ نہیں کہ حاجت بر لائی جائے گی اور ارمان پورے  
 کر دئے جائیں گے کبھی مالک اپنے غلاموں سے اور والد اپنی اولاد سے  
 وعدہ کر لیتا ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا مگر فوراً کچھ نہیں دیتا۔  
 ہمارے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ دعاؤں کے بعد دعائیں ضرور  
 قبول ہوتی ہیں کیونکہ حاجت و استجابت خبریں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خبریں  
 پر شیخ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ اگر یہ منسوخ ہو جائیں تو حق تعالیٰ  
 کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے حالانکہ حق تعالیٰ کذب و افتراء سے پاک و  
 بندہ ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی خبر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اس معنی کی تائید  
 حضرت ابن عمرؓ والی حدیث کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے  
 لئے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لئے قبولیت کے دروازے  
 کھول دئے گئے۔ حق تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ پر وحی فرمائی کہ آپ ظالموں  
 سے فرمادیں کہ مجھ سے دعا نہ کریں کیونکہ میں نے دعا کی قبولیت اپنے  
 اوپر واجب کر لی ہے اور جب میں ظالموں کی دعائیں قبول کرتا ہوں  
 تو ان پر لعنت کرتا ہوں۔ بعض علماء: حق تعالیٰ مومنوں کی دعائیں  
 فوراً قبول فرماتا ہے لیکن مراد میں دیر سے بر لانا ہے تاکہ وہ بار بار  
 دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے گڑ گڑانے کی آواز سنے۔ اس کی تائید  
 جابر بن عبد اللہ والی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا کہ بندہ حق تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا  
 ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے: جبریل! میرے اس بندے کی حاجت پوری  
 کر اور دیر کر کے پوری کر کیونکہ اس کی دعا کی آواز مجھے محبوب ہے اور  
 میں چاہتا ہوں کہ اسے سنتا رہوں اور ایک بندہ اللہ سے دعا مانگتا  
 اور اللہ سے بغض رکھتا ہے تو فرماتا ہے: جبریل! اس کی مراد پوری کر  
 کیونکہ یہ خلوص سے دعا مانگ رہا ہے اور اس کی مراد پوری کرنے میں  
 جلدی کرے کیونکہ میں اس کی آواز کو مکروہ سمجھتا ہوں۔



وقال بعضهم ان للدعاء آداباً وشروطاً هي اسباب الاجابة ونيل المنى فمن راعاها واستكملها كان من اهل الاجابة ومن اغفلها او اخل بها فهو من اهل الاعتداء في الدعاء وقيل انه سئل ابراهيم بن ادوم رحمه الله فقبل له ما بالناشد عوان الله فلا يستجيب لنا فقال لاكم عرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته وعرفتم القرآن فلم تعملوا به واكلتم نعمة الله فلم تودوا شكرها وعرفتم الجنة فلم تطلبوها وعرفتم النار فلم ترهبوها ومنها وعرفتم الشيطان فلم تحاربوا وواقتموا وعرفتم الموت فلم تشعروا له ودفنتم الاموات فلم تعتبروا بهم وتركتم غيوبكم واشتغلتكم بعيوب الناس.

**فصل:** واما التحرف فقولہ عزوجل وانحر والاصل فی النحر امر الله تعالى لخليله ابراهيم عليه السلام لما انجاه الله تعالى من نار نمرود الجبار وسلمه من كيد لا وعذابه قال انى ذاهب الى ربى يعنى مهاجرا الى ربى يعنى الى ارض رجب بالارض المقدسة سيهدى بن لدينه وهو عليه السلام اول من هاجر من خلق الله في دين الله عزوجل فهاجر ومعه لوط وسارة اخت لوط وهو ابن خال ابراهيم عليه السلام فلما قدم الارض المقدسة سال ربه الولد قال رب هب لي من الصالحين يقول هب لي ولدا صالحا فاستجاب الله له فبشره بغلام حلیم يعنى عليم وهو العالم

کہتے ہیں: یحییٰ بن سعید نے حق تعالیٰ جل مجدہ کو خواب میں دیکھا فرماتے ہیں میں نے کہا: اے رب میں کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن آپ نے میری دعائیں قبول نہیں فرمائیں فرمایا: اے یحییٰ مجھے نیری آواز محبوب ہے۔ بعض علماء دعا کے آداب و شروط ہیں اور وہی آداب و شروط قبولیت کے اور امید برآری کے اسباب ہیں جو ان کی رعایت رکھے گا اسی کی دعائیں قبول کی جائیں گی اور جو انہیں ترک کر دیکھا یا ان میں خلل پیدا کر دیکھا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو دعاؤں میں حد سے آگے پھلنگتے ہیں۔ ابراہیم بن ادوم سے اس سلسلے میں پوچھا گیا اور کہا گیا کہ کیا بات ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں فرمایا: اسلئے کہ تم نے رسول کو پہچان لیا لیکن آپ کی سنت کے پیروکار نہ بنے اور تم نے قرآن پاک کو پہچان لیا لیکن تم اس پر عمل پیرا نہیں اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن ان کا شکر ادا نہیں کرتے اور تم نے جنت پہچان لی لیکن اسے طلب نہیں کرتے اور جہنم پہچان لی مگر اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے اور تم نے شیطان پہچان لیا مگر اسوس تم اس سے لڑتے نہیں اور اسکی موافقت کرتے اور تم نے موت پہچان لی لیکن اس کے لئے تیاری نہیں کرتے اور تم نے ہمتوں سے مردے دفن کئے مگر تم نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی اور تم نے اپنے عیب نظر انداز کر دئے اور وہ ستر میں عیب نکالنے میں مصروف رہتے ہو۔

**قربانی** | حق تعالیٰ نے فرمایا وانحر یعنی قربانی کر۔ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو قربانی کا حکم دیا تھا اسکی تفصیل یہ ہے کہ جب آپکو اللہ تعالیٰ نے سرکش اور سر بھڑے ایک بادشاہ نمرود کی آگ سے نجات بخشی اور اس کے کردہ عذاب سے آپکو محفوظ رکھا تو آپ نے ہجرت کا عزم کر لیا اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے ارض پاک فلسطین کی طرف ہجرت کر جاؤں گا مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ مجھے اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائے گا آپ سے سب سے عاجز ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لئے اپنا وطن مالوف چھوڑا آپ نے حضرت لوط کے ساتھ اور حضرت لوط کی ہمیشہ حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی

و هو اسحاق بن سارة فلما بلغ معه السعي يعني النبي  
الى الجبل قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك يعني  
اصرت في المنام بذبحك وذلك لندرك ان عينه  
فيه عليه السلام فانظر ما ذاترى فرد عليه السلام  
بقوله يا ابت افعل ما توروا طع ريك فمن ثم  
لم يقل اسحاق لا ابراهيم افعل ما رأيت في المنام  
ورأى ذلك ابراهيم عليه السلام ثلاث ليال  
متتابعات وكان ابراهيم صام وصلى قبل الذبح  
فقال ستجدني ان شاء الله من الصابرين هلى الذبح  
فلما اسلم يقول اسلم الامر الله تعالى وطاعته  
وتله للعين يقول كبه على حبه فلهما اخل  
بنا صيته ليد بجه لله علم الله منهما الصدق  
وقال الله عز وجل ونادينا انا يا ابراهيم قد  
صدقنا الرؤيا في ذبح ابنك فخذ الكبش  
واذبحه فداء ابنك قال الله عز وجل وفدينا  
بذبح عظيم واسم الكبش زبير كان من الوعول  
يرعى في الجنة اربعين سنة قبل ان يذبح وقيل  
انه هو الكبش الذي قرب به هابيل بن آدم  
المقتول شهيد اعليه السلام وكان يرعى في  
الجنة قد فدى به اسحاق النبي عليه السلام  
من الذبح قال الله عز وجل انا كذلك نجزي  
المحسنين يعني هكذا نجزي كل محب فجزاه  
الله خيرا باحسانه بطاعته لامر الله تعالى  
في الذبح لابنه اسحاق وقيل ان المأمور  
بذبحه انما هو اسعید عليه السلام ثم

حضرت لوط آپ کے ماموں کے بیٹے تھے پھر سب آپ اور پاک میں تشریف  
لے آئے اور پہاں بس گئے تو آپ نے اپنے پروردگار سے اولاد مانگی اور  
فرمایا کہ اے میرے رب مجھے ایک بیٹا میرا فرما۔ حق تعالیٰ نے آپ کی  
دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کو ایک سنجیدہ بیٹے کی بشارت دی  
علیم یعنی علیم ہے کیونکہ علم ہی سنجیدگی کا سبب ہے علیم عالم کو کہتے ہیں  
اور یہ بیٹا حضرت اسحاق ہیں جو حضرت سارہ کے فرزند ہیں پھر جب  
یہ بچہ آپ کے ساتھ پہاڑوں پر دوڑنے اور چلنے کے قابل ہو گیا تو آپ نے  
فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں یعنی  
مجھے خواب میں حکم ملا ہے کہ میں تم کو اللہ کی رضا کے لئے قربان کر دوں  
یہ حکم ایک سنت کے پورا کرنے کے لئے تھا جو حضرت ابراہیم نے  
مان لی تھی اب تم غور کر کے مجھے جواب دو کہ اس سلسلہ میں تمہاری کیا  
رات ہے حضرت اسحاق نے جواب دیا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہے  
اسے بجالائیے اور اپنے رب کے حکم کے آگے تسلیم خم کر دیجئے آپ نے  
نہیں فرمایا کہ جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس پر عمل کیجئے  
بلکہ یہ کہہ کر اپنے رب کے آگے سر جھکا دیجئے اور رب کے حکم کی تعمیل  
کیجئے یہ خواب حضرت ابراہیم نے لگانا تین رات دیکھا پھر حضرت  
ابراہیم نے آپ کو ذبح کرنے سے پہلے روزہ رکھا اور نماز پڑھی فرماتا  
نے کہا ابا جان اللہ اس موقع پر آپ مجھے صابر ہی دیکھیں گے یعنی  
میں سبر کے ساتھ ذبح ہو جاؤں گا پھر جب دونوں اللہ کے حکم کی تعمیل  
و اطاعت کے لئے تیار ہو گئے اور باپ نے پیشانی کے بل راڈرھا  
بیٹے کو ٹا دیا اور آپ نے انہیں ذبح کرنے کے لئے ان کی پیشانی پر ہتھی  
تو حق تعالیٰ نے دونوں کے صدق و اخلاص کو دیکھا اور فرمایا: اور  
ہم نے آواز دیکھی ان سے کہ اے ابراہیم کہ آپ نے اپنے بیٹے کو  
ذبح کرنے کے سلسلہ میں اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا آپ اپنے بیٹے  
کے ذریعہ میں مینڈھا لاکہ ذبح کر دیں فرمایا اور ہم نے انہیں



قال عز وجل ان هذا هو البلاء والمبين يعني  
التعيم المبين حين عفا عنه وقد الا بالكش وقيل  
انه لما وضع الخليل عليه السلام السكين على حلق  
ولده نودي ان يا ابراهيم خل ولدك فان مرادنا لم  
يكن قربانا للولد وانما كان مرادنا خلق القلب من  
محبته الولد ولهذا قيل انه ذكر في بعض الكتب  
ان ابراهيم عليه السلام لما اراد ان يذبح ولده  
قال في سورة يارب العرش لو كان هذا الذبح على يد  
غيري لكان خيرا قال الله تعالى لا يكون الاعلى  
بيدك فقالت الملائكة ياربنا لم فعلت هكذا  
قال حتى يزيد بلاء علي بلاء فقالت الملائكة  
لم ذلك قال حتى لا يجب احد اغيري فاني لا اقبل  
الشريك في الحب فابراهيم عليه السلام احب  
ولده فانتلي بذبحه ويعقوب احب يوسف فقاب  
عنه اربعين سنة وانتلي بفراقه ونبينا محمد  
صلى الله عليه وسلم احب الحسن والحسين  
رضي الله عنهما وعلقا بقلبه فجاء جبريل عليه  
السلام واخبره بان احد هما يسيما والآخر  
يقتل حتى لا يجب مع الجيب سواه -

بیٹے کے نزدیک میں ایک عظیم ذبیحہ دیا اس مینڈھے کا نام ذریعہ تھا یہ ان  
پہاڑی مینڈھوں میں سے تھا جو چالیس برس سے جنت میں چرتے تھے  
اور بعض کے نزدیک وہ مینڈھا تھا جو باہل بن آدم نے اللہ کی راہ  
میں قربانی کے لئے پیش کیا تھا اور آپ کو قابیل نے قتل کر دیا تھا جس سے  
آپ کو شہادت نصیب ہوئی اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ذبیحہ  
حضرت اسماعیل تھے یا حضرت اسمعیلؑ زیادہ تر علماء حضرت اسماعیلؑ ہی  
کو ذبیحہ مانتے ہیں اور دلائل وقرائن سے اسی قول کو ترجیح ہے (الغرض  
یہ مینڈھا جنت میں چرتا تھا اور اسے حضرت اسحاق کے نزدیک جنت  
سے بھیجا گیا تھا حق تعالیٰ نے فرمایا: ہم اسی طرح جن اہتمام سے نیک عمل  
کرنیوالوں کو بدلہ دیتے ہیں یعنی ہم ہر محسن کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں  
لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن اطاعت کے بدلہ بہترین بدلہ عطا فرمایا۔  
بعض کے نزدیک ذبیحہ حضرت اسماعیل تھے (بھی قول راجح ہے)  
پھر حق تعالیٰ نے فرمایا: دیکھو یہ ایک کھلی آزمائش ہے یعنی ایک کھلی  
نعمت ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کو یہ فعل معاف فرمادیا اور ایک  
مینڈھا نہ یہ میں دیکر آپ کے بیٹے کو بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت  
خلیل اللہ نے اپنے اکلوتے کے گردن پر چھری رکھ دی تو ایک غیبی  
آواز آئی کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو چھوڑ دو کیونکہ ہماری مراد یہ نہ تھی  
کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کر دو بلکہ ہماری مراد یہ تھی کہ بیٹے کی محبت سے  
اپنا دل خالی کر دو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کسی کتاب میں ذکر ہے کہ جب

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچہ ذبیحہ کرنا چاہا تو اپنے دل میں سوچا کہ اے پروردگار یہ کیا؟ اگر یہ ذبیحہ کسی اور کے ہاتھ سے ہوتا تو بہتر تھا تو حق تعالیٰ نے فرمایا  
کہ یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے فرشتوں نے پوچھا کہ اے رب ابراہیم کے ہاتھ سے ذبیحہ کیسے کی جائے؟ فرمایا تاکہ آزمائش پر آزمائش ہو جائے فرشتوں نے  
پوچھا کیوں؟ فرمایا تاکہ ابراہیم کو میرے سوا کسی اور سے محبت نہ رہے کیونکہ میں محبت میں شریک کو قبول نہیں کرتا۔ غرضیکہ حضرت ابراہیم نے بیٹے سے  
محبت کی تو آپ کو بیٹے کو ذبیحہ کر نیک حکم دیکر آزمایا گیا اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے محبت کی تو حضرت یوسف کو چالیس سال تک آپ سے  
غائب رکھا گیا اور انکی جدائی سے آپ کو آزمایا گیا اور سرور عالم صلعم نے حسن اور حسین سے محبت کی اور دل سے انہیں چاہا تو آپ کے پاس حضرت جبریل آئے اور  
آپ کو بتایا کہ ایک کوزہ ہر دیر یا جائیگا اور دوسرے کو قتل کر دیا جائیگا تاکہ آپ اپنے حبیب کے سوا کسی اور سے محبت نہ رکھیں۔

**فصل** : ویستحب إذا خرج المؤمن إلى صلاة العید فی طریق ان یرجع من طریق اخری لہما روی ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ یوم العید فی طریق ورجع فی طریق اخری و فی حدیث آخر انہ کان یخرج فی طریق فاختلف الناس فی ذلك فقال اکثرہم انہ اراد بذلک اختلاف حرز الشرحیین لفسکرۃ فخالف بین الطریقین لیختلف الحرز وقال آخرون انہا قصدتہ ذلک الاختصار فی الرجوع کما نہ سلك الطریق الاطول فی المسیر لکن الحسنات ورجع فی الاقصی وقال آخرون لما مضی فی طریق شہدت لہ الارض ثم رجع فی طریق اخری لتشهد لہ الارض الثانیة وقیل انہ علیہ السلام مضی علی حی من الاحیاء ثم رجع علی غیرہم لیسای بیئہم فی الاکرام لان ربتہ علیہ السلام کانت رحمۃ قال اللہ تعالیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقیل ان الارض تفتخر لوطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفیرۃ من الانبیاء والاولیاء وسعیہم علیہا فآراد صلی اللہ علیہ وسلم ان یسای بین البقیۃ لکی لا تفتخر بعضہا علی بعض وقیل انہ علیہ السلام کان قد سلك الی المصلی فی طریق وتمدد لا الحقیقۃ الی اللہ تعالیٰ ثم اراد الرجوع الی الاہل والوطن والظین والماء المعزوف المعہود فکرا ان یسلك الی اللہ تعالیٰ طریقاً ثم یسلك الی غیرہ فوجع فی طریق آخر وقیل

**عید کی نماز** | جب مومن عید کی نماز کے لئے جائے تو راستہ بدل کر آنا مستحب ہے کیونکہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو ایک راستہ سے تشریف لے گئے اور دوسرے راستہ سے واپس لوٹے۔ اس کی علت میں علماء میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اسلامی لشکر کی مشرکوں سے حفاظت پیش نظر ہے لہذا آپ نے راستہ اس لئے بدلا تاکہ حفاظت دہری ہو جائے اور بعض کے نزدیک آپ نے راستہ اس لئے بدلا تاکہ واپس آتے وقت راستہ مختصر رہے گو یا آپ نیکوں کو بڑھانے کی وجہ سے راستے سے تشریف لے گئے اور مختصر راستہ سے واپس آئے اور بعض کے نزدیک راستہ اس لئے بدلا کہ راستے گواہ بن جائیں اور بعض کے نزدیک بیرون سے کہ آپ جاتے وقت ایک قبیلہ سے گزرے اور آتے وقت دوسرے قبیلہ سے تاکہ احترام میں دونوں قبیلوں میں مساوات باقی رہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی صحابہ کے لئے موجب رحمت تھا۔ فرمایا: ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔

بعض کے نزدیک یہ علت ہے کہ زمین انبیاء اور اولیاء کے پیروں کے نیچے روندے جانے پر فخر کرتی ہے لہذا آپ نے راستہ بدلا تاکہ دونوں راستوں میں برابری ہو جائے اور ایک راستہ دوسرے راستہ پر فخر نہ کرے۔ بعض کے نزدیک یہ علت ہے کہ آپ اللہ کے لئے اللہ کی طرف قصد کر کے عید گاہ تشریف لے گئے تھے پھر لوٹتے وقت اپنے اہل و عیال اور گھر کا قصد کر کے لوٹے تھے تو آپ کو یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوئی۔ کہ جس راستے سے اللہ کی طرف قصد کر کے تشریف لے گئے اسی راستہ سے غیر اللہ کی طرف قصد کر کے تشریف لائیں لہذا آپ نے راستہ بدل دیا۔ بعض کے نزدیک یہ علت ہے کہ اگر آپ ایک ہی راستہ سے آتے تھے تو مسلمانوں پر آپ کی بیروی واجب ہو جاتی جس سے سخت دشواری پیش آتی اور عید کی نماز پر تھک کر لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانا دشوار ہو جاتا اس لئے آپ نے راستہ بدل کر امت کو تعلیم دی کہ جدھر سے



انہ علیہ السلام لو لم يرجع فی طریق آخر لوجب  
 علی الناس الاستئذان بہ علیہ السلام ولقد ر  
 علیہم التفرقة بعد صلاة العید الی منازلہم  
 فأراد أن یبین التوسعة علیہم فی الرجوع  
 فی ای طریق شاءوا وقیل انہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نزع من مکبدة الکفار والمنافقین و  
 قیل انہ کان یصدق علی من کان معه  
 مکان یرجع فی طریق آخر حتی تتوفر الصدقة  
 علی الفقراء وقیل انہ کان یفعل ذلك لاجل  
 ازوجام الناس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔  
**فصل ۷:** فی فقیلة یوما النحر والاضحیة۔  
 روی عبد اللہ بن قریظ رضی اللہ عنہ قال قال  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الايام  
 عند اللہ یوما النحر وروی ان النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم قال لفاطمة رضی اللہ عنہما قوی  
 الی اضحیتک فاشهد بیہا فانه یغفر لک باول  
 نظرة تظفر من دمہا کل ذنب عملت وقولی  
 ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب  
 العالمین وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 قال ان داود علیہ السلام قال الہی ما ثواب  
 من ضحی من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
 قال اللہ عز وجل ثوابہ ان یعطى بكل شعرة  
 منہا عشر حسنات ویعطى عنہ عشر سیئات  
 ویرفع لہ عشر درجات فقال الہی فما ثوابہ  
 اذا شق بطنہا قال اذا شق القبر عنہ اخرج

چاہیں جاسکتے ہیں اس میں اس کے لئے گنجائش ہے۔  
 بغض کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقوں کی عیاریوں  
 سے خطرہ تھا اس لئے آپ نے راستہ بدل لیا تھا۔ بعض کے نزدیک  
 آپ صدقہ کرتے ہوئے آتے جاتے تھے اس لئے راستہ  
 تبدیل کر لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فقراء و صدقہ سے فائدہ حاصل  
 کر سکیں۔ اور بغض کے نزدیک آپ نے اس لئے راستہ تبدیل کیا تھا  
 کہ ایک راستہ سے بھیڑ زیادہ ہو جاتی تھی کیونکہ چاروں طرف  
 سے لوگ آ رہے تھے ان میں جمع ہو جاتا کرتے تھے اب  
 اگر ایک ہی راستہ سے جاتے تو لوگوں کی بھیڑ ہو  
 جاتی۔

**بقرة عید کی اور قربانی کی فضیلت** | حضرت عبد اللہ بن قریظ

کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے  
 بڑا دن یوم النحر (بقرة عید کا دن) ہے۔ منقول ہے کہ نبی اکرم صلی  
 اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے پاس ذبح کرنے  
 وقت جا کر موجود رہو اور کھڑی رہو کیونکہ قربانی کے جانور کے پے  
 قطرے کے گرتے ہی تمہارے سارے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں اور  
 یہ دعا پڑھو ان صلواتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا  
 شریک لہ۔ یعنی میری نماز، میری قربانی میری زندگی اور میری موت  
 اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔  
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت  
 داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معبود اگر کوئی امت محمدیہ میں سے  
 قربانی کرے تو اسے کیا ثواب ہے؟ حق تعالیٰ نے جواب دیا اے جانور  
 کے ہریال کے بدلے دس نیکیاں دی جائیں گی، دس بڑا بڑا ثواب دی جائیں گی  
 اور دس درجے بلند کر دئے جائیں گے۔ پوچھا کہ اے معبود جب وہ  
 قربانی کے جانور کا پیٹ پھاڑے تو کیا ثواب ہے فرمایا جب وہ اپنی

الله تعالى آمننا من الجرع والعطش ومن احوال  
القيامة ياد اودله بكل بضعة من لحمها طير  
في الجنة كما مثال البخت ويكل ذراع منها مركب  
من مراكب الجنة ويكل شعرة على جسد هنا  
قصر في الجنة ويكل شعرة على رأسها جارية  
من الخور الغين اما علبت ياد اودان الفحايا  
هي المطايا وان الفحايا تمحو الخطايا وتدفع  
البلايا صر بالفحايا فانها فداء المر من كفداء  
اسحاق من الذبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم  
احسنوا فحاياكم فانها مطاياكم يوم القيامة  
وروي ان عليا رضی الله عنه قرا يوم نحر المتقين  
الى الرحمن وفدا ثم قال وهل يكون الوفد  
الاركابا على نجائبهم ونجائبهم ضحاياهم  
يوتون بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها الرحلة  
من الذهب وازمتها الزبرجد ثم تنطلق بهم  
الى الجنة حتى ترعوا بابها وروى عن النبي  
صلى الله عليه وسلم انه قال فحوا وطيبوا بها  
نفسا فانه من اخذ اضحيته فاستقبل بها القبلة  
كان دمها وشعرها محصورين له الى يوم القيامة  
فان الدم اذا وقع في التراب فانه يقع في خرز  
الله انفقوا سيرا توجروا كثير اوردى ان النبي  
صلى الله عليه وسلم دعا بكبشين املحين اقرنين  
عظيمين فانجم احدهما وقال بسم الله الرحمن  
الرحيم بسم الله والله اكبر اللهم هذا عن محمد  
وعن اهل بيته ثم بال آخر شي وقال بسم الله والله

قر سے اٹھے گا تو حق تعالیٰ اسے سبھوک، پیاس اور تیاست کے بولوں سے  
محفوظ فرمائے گا لے داؤد: اس کے لئے قربان کے جانور کی ہر بونہی کے  
بدلہ بخشتی اور نہٹ جینا ایک پزندہ ملے گا اور اس کے ہر پیر کے بدست  
کی سوار یوں ہیں سے ایک سواری ملے گی اور اس کے جسم کے ہر بال کے بدلہ  
جنت میں ایک ایک محل ملے گا اور اس کے سر کے ہر بال کے بدلہ ایک  
ایک در شیزہ حور ملے گی جس کا جسم سفید اور آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی۔  
داؤد ایک اتیم کہ معلوم نہیں کہ قربانیاں سوار یاں ہی ہیں اور قربانیاں  
گناہ مٹا دیتی ہیں اور مساہب و آفات کو طال دیتی ہیں قربانیوں کا حکم  
کر و کیونکہ یہ مومن کے لئے نذیر ہیں جیسے اسحق و صبیح اسماعیل کے  
لئے قربان نذیر بن گئی تھی۔ رحمت عالم صلعم نے فرمایا کہ قربانیاں عمدہ کہ  
کیونکہ قربانیاں تیاست کے دن تمہاری سواریاں ہوں گی۔ منقول ہے کہ حضرت  
علیؑ نے یوم نحر المتقین الخ پر طہ کر فرمایا نذیر عمدہ عمدہ سوار یوں سے  
سواروں ہی کو کہتے ہیں اور ان کی عمدہ اڑنیاں ان کے قربان کے جانور  
ہونگے پھر ان کے پاس ایسی عمدہ اور عجیب و غریب اڑنیاں لائی جائیں  
گی جن کی مانند کسی نے آج تک دیکھی نہ ہوگی ان پر سونے کے کجارس  
کے ہوئے ہونگے اور ان کی کیلیں زبرجد کی ہوں گی سی اڑنیاں انہیں  
جنت تک لے جائیں گی جتنے کو یہ جنت کا دروازہ جا کھٹکھٹائیں گے  
نہی صلعم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قربانیاں خوشا خوشی اور  
شوق کے ساتھ کر و کیونکہ جس نے اپنی قربانی کا جانور کپڑا کر لے قبلہ رخ  
کیا تو جانور کا خون اور بال دونوں قربانی کرنے والے کے لئے تیاست  
تک کے لئے محفوظ کر لئے جاتے ہیں کیونکہ خون جب زمین پر گرتا ہے  
تو وہ حق تعالیٰ کی حفاظت میں گرتا ہے تھوڑا سا خرچ کر اور کثرت  
سے اس کا ثواب لوٹو۔ روایت ہے کہ سرور عالم صلعم نے دو کبیرے  
سینگوں والے اور بڑے بڑے مینڈھے منگائے پھر ایک کو سپر کے بل  
لٹا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والشہ اکبر اللہم هذا من محمد و



اکس اللهم هذا عن محمد وعن امته وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه طعمی بکبشین یوما التحروا خیرنا هبة الله عن محمد بن احمد بن الحرث المعدل الکوفی قال انبانا القاضي محمد بن محمد بن عبد الله الجعفی انبانا محمد بن جعفر الاشجعی انبانا علی بن المنذر الطرینی انبانا ابن فضیل عن هشام عن عروة عن ابیه عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من قرب اضحیتہ یوما التحر لمن حرها قربہ اللہ تعالیٰ الی الجنة فاذا تحرها غفر اللہ له باقل قطرة تقطر من دمها وجعلها اللہ تعالیٰ له مرکبا یوما القيامة الی المعشر ویعطی بعدد شعرها وصورها حسنات وروی عن الشیخ بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعمی بکبشین اقرنین املحین فکان ینذج ویسجی و یضع رجله علی مفختها قال ابو عبیدة الاصلح ما فیہ بیاض و سواد و السواد اقلیہ و ینظر فی سواد و ینظر فی سواد و روت عائشة رضی اللہ عنہما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبش اقرن یطأ فی سواد و ینظر فی سواد و ینظر فی سواد فاتی بہ فطعمی بہ فا ضجعه و ذججه فقال کسب اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امة محمد و قال اصحاب الحدیث قوله یطأ فی سواد و ینظر فی سواد معنا لا کثرة شحمه و لحمه ما یظل الا فی ظل نفسه و ینظر

عن اہل بیتہ ابرہہ کہ ذبح کیا پھر دوسرے کو عن عمرو عن امته کہ کہ ذبح کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر ذری الحجہ کی دسویں تاریخ کو دو مینڈھوں کی قربانی کی۔

ہیں بنتہ اللہ تے محمد بن احمد بن حرث المعدل کوفی سے خبر دی انہیں تافضی محمد بن محمد بن عبد اللہ جعفی نے خبر دی انہیں محمد بن جعفر اشجعی نے خبر دی انہیں علی بن منذر طرینی نے خبر دی انہیں ابن فضیل نے ہشام سے خبر دی ہشام نے عروہ سے عروہ نے اپنے والد سے ان کے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بقرہ عید کے دن ذبح کرنے کے لئے اپنی قربانی کے جانور کے قریب جانا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے قریب فرمادیتا ہے پھر جب اسے ذبح کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قربانی کے پیدے قطرے پر جو ٹپکتا ہے بخشدیتا ہے اور حق تعالیٰ اس قربانی کو قیامت کے دن محشر تک اسکے لئے سواری بنا دیتا اور اس کے بالوں اور اون کی تعداد میں اسے نیکیاں دی جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چمکے سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی کی آپ بسم اللہ پڑھ کر اسے ذبح کرتے تھے اور اس کی گردن پر پاؤں رکھے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ: الخ وہ جانور کہلاتا جس میں سفیدی اور سیاہی ہو اور سیاہی کا غلبہ ہو اسکی آنکھیں بھی سیاہ ہوں اور پیٹ بھی سیاہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سینگوں والا ایک ایسا مینڈھا لایا جائے جس کے ہاتھ پر سیاہ ہوں۔ آنکھیں سیاہ ہوں اور پیٹ سیاہ ہو یا آخر سے آپ کے پاس لایا گیا آپ نے اسے لٹا کر اس کی قربانی کی اور اسے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا اور یہ دعا فرمائی کہ لے اللہ سے محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اس فرمان کے کہ وہ سیاہی میں چلے وغیرہ محدثین کے یہ معنی ہیں کہ خوب موٹا تازہ ہو اور گوشت چربی کی کثرت کی وجہ سے گویا وہ سیاہی میں چلتا ہے، سیاہی میں دیکھتا ہے اور سیاہی میں بیٹھتا ہے۔



فیہ و یرک فیہ وقال اهل اللغة معنی السواد فی  
 هذا الموضع انه كان اسود الیدین والعینین والركبتین۔  
**فصل:** فی صلاة لیلۃ الاضحیٰ وہی ان یصلی رکعتین  
 یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب خمس  
 عشرة مرة وقل هو الله احد كذلك وقل اعوذ  
 برب الفلق مثل ذلك وقل اعوذ برب الناس  
 كذلك فاذا سلم قرأ آية الكرسي ثلاث مرات  
 واستغفر الله خمس عشرة مرة ثم یبدع بما شاء  
 من خیر الدنیا والآخرۃ۔

**فصل:** والاضحیۃ سنة لا یتحب ترکها  
 لمن قدر علیہا عند الامام احد ومالك و  
 الشافعی رحمہم الله وعند غیرہم ہی واجبة  
 والاصل فی استحبہا بہا دون وجوبہا ما روی  
 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم انه قال امرت بالبحر وھو لکم سنة  
 وفی خیر آخر ثلاث علی نرض ولکم تطوع النحر  
 والوتر وركعتا الفجر وفی حدیث ام سلمة رضی اللہ  
 عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 اذا دخل العشر واراد احد کما ان یفعلی فلا  
 ییس من شجرة ولا بشرة شیئا نعلق صلی اللہ  
 علیہ وسلم الا ضحیۃ بالارادة وما كان  
 واجبا بالشرع لا یعلق بالارادة۔

**فصل:** وافضلھا الاہل ثم البقر ثم الغنم  
 ولا یجزی الا الجذع من الضان والثنی من غیرہ  
 اما الجذع فہو ما کمل لہ ستۃ اشھر والثنی

لیغویوں کے نزدیک یہ معنی ہیں کہ اس کے ہاتھ پیر، دونوں آنکھیں اور  
 دونوں گھٹے اور پیٹ سیاہ ہو۔

**بقرہ عید کی رات کی نماز** | بقرہ عید کی رات میں  
 دو گانہ پڑھا جائے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ۱۵ بار،  
 سورہ اخلاص ۵ بار، سورہ نلق ۱۵ بار، اور سورہ ناس ۱۵  
 پڑھی جائے۔ پھر سلام پھیر کر آیتہ الکرسی سو بار اور  
 استغفار ۵ بار پڑھی جائے۔ پھر جو مرضی ہو دعا  
 مانگی جائے۔ خواہ دنیا کے بارے میں دعا ہو یا آخرت  
 کے بارے میں۔

**قربانی مسنون ہے** | قربانی سنت ہے اور اس کا چھوڑنا مستحب  
 نہیں۔ خصوصاً اس کے لئے جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو  
 امام احمد، امام مالک اور امام شافعی کا یہی قول ہے اور دوسرے  
 ائمہ کے نزدیک قربانی واجب ہے۔

قربانی کے مستحب ہونے کی اور واجب نہ ہونے کی دلیل حضرت  
 ابن عباسؓ والی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نحر ذریع  
 کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لئے سنت ہے۔ دوسری حدیث میں  
 کہ تین چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لئے سنت ہیں قربانی، وتر  
 اور صبح کی سنتیں۔ حدیث ام سلمہؓ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی  
 کرنا چاہے تو وہ اپنے بال نہ چھوئے اور نہ اپنی کھال چھوئے یعنی بال و نا  
 وغیرہ نہ کاٹے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ارادے پر موقوف رکھی  
 اور جو چیز شرع میں واجب ہوتی ہے وہ ارادے پر موقوف نہیں ہوا  
 کہتی اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب نہیں ہے۔

**قربانی کے لئے کونسا جانور افضل ہے؟** | افضل اونٹ کی  
 قربانی ہے پھر بیل وغیرہ کا درجہ ہے پھر بکری وغیرہ کا درجہ ہے



من المفرا ما کمل له سنة ومن البقر ما کمل له سنتان  
 ومن الابل ما کمل له خمس سنين وتجزيء الشاة  
 عن واحد والبذنة من الابل والبقر عن سبعة و  
 افضل الفخا بالاشهب ثم الصفرة ثم السود والافضل  
 ان يذبحها بنفسه وان لم یحس فلیشا هسد  
 ذبحها ویاکل ثلثها ویهدی ثلثها ویصدق  
 ثلثها ویجنب فیها المغیبة والعیوب خمسة  
 فلا یفحی بعضباء القرن والاذن وهی ما ذهب  
 اکثر اذنها وقرنها وتیل ما ذهب ثلث  
 اذنها وقرنها وكذلك لا یفحی بالجباء لانها  
 كالعضباء فی اصم القولین ولا بالعوراء البین  
 عورها وهی ما انخسفت عینها وذهبت ولا  
 بالعجفاء التي لا تنقی وهی الهزیلة التي لا  
 مخ فیها ولا بالعرجاء البین عرجها وهی  
 التي لا تقدر علی المشی مع السرح ولا المشاركة  
 فی العلف لضعفها ولا بالمریضة البین مرفها  
 ولا بالجرباء لان جربها یفسد اللحم وقد  
 نهی النبی صلی الله علیه وسلم ان یفحی بالمقابلة  
 وهی ما قطع شیء من مقدم اذنها ولقی معلقا  
 ولا بالمد ابرتا وهی ما قطع شیء من خلف اذنها  
 ولا بالخرقاء وهی ما ثقب الکی اذنها ولا بالشراف  
 وهی ما شق الکی اذنها وذلك محمول علی نهی  
 تنزیه لاهلی نهی تحریم والاولی ان یجنب ذلك  
 وان ضعی بها جاز وایام النحر ثلاثة یوم العید  
 بعد الصلاة او قدرها ویومان بعدة وهو

بھیڑ کا چھ ماہ کا بچہ بھی کافی ہے بھیڑ کے علاوہ بکری کا ایک سالہ بچہ جو  
 دوسرے سال میں لگ گیا ہو کافی ہے یعنی بھیڑ کا جذع اور دوسرے  
 جانوروں کا تنہی کافی ہے جذع چھ ماہ بچے کو کہتے ہیں بکری کا تنہی بچہ  
 بچہ، بیل کا تنہی دو سالہ بچہ اور اونٹ کا تنہی پانچ سال کا بچہ ہوتا ہے بکری  
 وغیرہ ایک کی طرف سے اور اونٹ اور گائے وغیرہ سات کی طرف سے  
 کافی ہے افضل جانور سفید، پھر زرد پھر سیاہ ہے۔ افضل یہی ہے کہ  
 قربانی کرنے والا اپنے ہاتھ سے قربانی کرے اور اگر کوئی اچھی طرح سے  
 ذبح نہ کر سکتا ہو تو قربانی ذبح کئے جانے کے وقت اسے موجود رہنا چاہیے  
 اور گوشت کے تین حصہ کر لئے جائیں ایک حصہ گھروں میں رکھ لیا جائے  
 ایک حصہ خیرات کر دیا جائے اور ایک حصہ بدلیوں میں بانٹ دیا جائے  
 قربانی عیب دار جانوروں کی نہ کی جائے عیب پانچ ہیں اگر کسی جانور  
 میں ان پانچوں عیبوں میں سے کوئی سا بھی ایک عیب ہو تو قربانی نہ کی جائے  
 لہذا ٹوٹے ہوئے سینگ والے اور کٹے ہوئے کان والے جانور کی قربانی  
 نہ کی جائے یعنی جس جانور کے کان کا اور سینگ کا زیادہ تر حصہ ٹوٹ  
 جائے یا کٹ جائے اسے ذبح نہ کیا جائے بعض کے نزدیک جس جانور کا  
 تنہائی کان باسیگ جاتا ہے اس کی قربانی نہ کی جائے اسی طرح بے  
 کئے جانور کی قربانی نہ کی جائے کیونکہ صحیح قول کی رو سے ایسا جانور کٹے  
 ہوئے سینگوں والے جانور کی طرح ہے اور نہ اندھے جانور کی جزا پھر  
 طور پر اندھا ہو قربانی کی جائے یعنی جس کی آنکھیں دھنس گئی ہوں  
 اور بینائی جاتی رہی ہو اور نہ ایسا دبلا جانور ذبح کیا جائے جس کی بڑی  
 میں گودانہ ہو اور نہ لنگڑا جانور کیا جائے جو کزوری کی وجہ سے جنگل  
 ہی میں چھوڑ دیا گیا ہو اور نہ ایسے بیمار جانور کو کیا جائے جس کی بیماری  
 ظاہر ہو اور نہ غار نشینی جانور کو کیا جائے کیونکہ کبھی اس کا گوشت خراب  
 کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلعم نے مقابلہ کی قربانی سے بھی منع فرمایا ہے۔  
 یعنی جس جانور کے کان کا کچھ اگلا حصہ کٹ گیا ہو اور معلق رہ گیا ہو

مذہب اکثر الفقہاء وقال الشافعی رحمہ اللہ  
یوم العید وایام التشریق الثلاثة والذی ذکرناہ  
من انہ ثلاثۃ ایام منقول عن عمرو علی و ابن  
عباس و ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہم ومن غنی قبل  
صلاۃ الامام فہی شاة لحم لا یجمل بذلک  
ثواب الاضحیۃ لماری منصور عن الشعبي عن  
البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال خطبنا  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم التجر بعد  
الصلاۃ فقال من صلی صلاتنا ونسک نسکنا  
فقد اصاب النسک ومن نسک قبل الصلاۃ نلک  
شاة لحم فقام ابو بردۃ بن نیار رضی اللہ عنہ  
فقال یا رسول اللہ لقد نسکت قبل ان اخرج  
الی الصلاۃ وعرفت ان الیوم یوم اکل و شرب  
فعلت و اکت و اطعت اہلی و جیرانی فقال  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک شاة لحم  
فقال: ان عندی عناقا جذعة وھی خیر من  
شاتی لحم فهل تجزیء عنی فقال صلی اللہ علیہ  
وسلم نعم ولا تجزیء عن احد بعدک و عن  
الاسود بن قیس رضی اللہ عنہ قال شہدت النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر مر بقوم ذبحوا  
قبل الصلاۃ فقال صلی اللہ علیہ وسلم من  
ذبح قبل الصلاۃ فلیعد و فی بعض الاخبار  
من کان ذبح قبل ان یمسک فلیعد اخری مکانہا  
ومن لم یکن ذبح فلیذبح۔

**فصل:** فی ذکر ایام التشریق قال اللہ تعالیٰ

اور نہ برابرہ کیا جائے یعنی جس کے کان کا پھیلا حصہ تندرے کٹ گیا ہو اور نہ  
خترناہ کیا جائے یعنی داغ دینے کی وجہ سے جس کے کان میں سوراخ ہو  
گیا ہو اور نہ خترناہ کیا جائے یعنی جس کا کان داغ دینے کی وجہ سے چر گیا  
ہو لیکن یہ نہی تنزیہی ہے تو بھی نہیں اولیٰ یہی ہے کہ ان جانوروں سے بچا  
جائے تاہم اگر قربانی کر دی جائے تو جائز ہے۔ قربانی کرنے کے تین دن  
ہیں یعنی ذوالحجہ کی دسویں عید کی نماز کے بعد گیا رھو پس اور بارہویں تاریخ  
اکثر فقہاء کا یہی قول ہے لیکن شافعی کے نزدیک بقرہ عید کے دن کے علاوہ  
تین دن ایام تشریق کے ہیں یعنی چار دن قربانی کے ہیں لیکن تین دن عمرہ  
علی بن عباس اور ابو ہریرہ وغیرہ سے منقول ہیں مگر کوئی اہم کی تاریخ  
سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لے تو وہ جانور گوشت کے لئے ذبح کیا گیا اس  
قربانی کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ منصور شعبی سے اور وہ براء بن عازب سے روایت  
کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رحمت عالم صلعم نے بقرہ عید کے دن نماز کے بعد ہمیں  
خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری جیسی نماز پڑھی اور ہمارے  
جیسی قربانی کی اس نے قربانی والوں کا ثواب حاصل کر لیا اور جس نے  
نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو وہ گوشت کی بکری ہے یہ سن کر ابو بردہ بن  
نیار نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلعم! میں نے نماز سے پہلے اس خیال  
قربانی کر لی کہ یہ دن بھانے پینے کا ہے لہذا میں نے قربانی میں جلدی کی اور اس کا  
گوشت میں نے کھایا اور گھردالوں اور ہسالیوں کو بھی کھلایا آپ نے فرمایا  
کہ یہ گوشت کی بکری ہے پھر ابو بردہ عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس بکری کا چھ  
ماہ بچہ ہے اور اس میں گوشت والی دو بکریوں سے بھی زیادہ گوشت ہے کیا وہ مجھ سے  
کافی ہے فرمایا: ہاں لیکن تمہارے بعد کسی اور کی طرف سے کافی نہیں۔

اسود بن قیس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں بقرہ عید کے دن رسول اللہ  
خدمت میں حاضر تھا آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے نماز سے  
پہلے کچھ جانور ذبح کر لئے تھے آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانیاں کر لیں  
وہ قربانیاں لوٹائیں، ایک حدیث میں ہے کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے



واذكروا الله في ايام معدودات يعني بالذکر  
التكبير اذ بار الصلوات وعند الحجرات بکبر  
مع كل حصاة وغيرها من الاوقات يستحب  
ذلك من اول العشر الى آخر ايام التشريق قوله في  
ايام معدودات يعني ايام التشريق ايام منى  
الثلاث واما المعلومات فهي ايام العشر وعلی  
هذا اكثر العلماء لا يدل علیه قوله تعالى فمن  
تعجل في يومين فلا اثم علیه وانما يكون الصدر  
في ايام التشريق في يومين منها اوجميع الثلاث  
قال ابن عباس رضي الله عنهما امر الله تعالى  
بذكره في الايام المعدودات وهي ايام التشريق  
ثلاثة ايام بعد النحر وجعلها معدودات لقلتها  
في ايام عرك بقوله تعالى في شهر رمضان  
ايام معدودات لقلتها من بين الشهور و  
كما قال تعالى وشروا بثمن بخس دراهم  
معدودة وقيل انما سميت معدودة لانها  
تعد من ايام الحج فيفرغ فيها ما عليه من انفا  
الحج من البيوت بمزدلفة وهي الجبار بنى وقال  
الزجاج تستعمل المعدودات في اللغة للمشيء  
القليل نسيت بذلك لانها ثلاثة ايام  
فالايام المعدودات ثلاثة ايام التشريق  
والذكر المامور فيها التكبير وعن نافع عن  
ابن عمر رضي الله عنهما انه قال الايام المعدودات  
ثلاثة ايام يوم النحر ويومان بعده وقال  
ابراهيم النخعي رحمه الله الايام المعدودات

قربانی کر لی ہے تو اس کی جگہ دوسری قربانی کرے اور جس نے نماز سے قبل  
قربانی نہیں کی اسے نماز کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔

**ایام تشریق** حق تعالیٰ نے فرمایا کہ گنتی کے دنوں میں ذکر اللہ کرو  
ذکر سے بچنا نہ نمازوں کے بعد تکبیریں مراد ہیں اور حرات پر بھی تکبیر  
کے ساتھ تکبیر کسی جائے اور دیگر اوقات میں بھی۔ یہ تکبیریں ذی الحجہ کی دسویں  
تاریخ کے آغاز سے پندرہ ايام تشریق کے پچھلے دن کے اخیر عصر تک مستحب ہیں  
گنتی کے دنوں سے ايام تشریق یعنی منیٰ کے تین دن مراد ہیں اور معلوم دنوں  
سے ذی الحجہ کے اول عشرے کے دن مراد ہیں اکثر علماء کا یہی قول ہے اور قرآن  
پاک سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے فرمایا اور جو دو دن کے بعد منیٰ سے نکلنے میں  
جلد ہی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں حاجی ايام تشریق میں منیٰ سے دو یا تین دن  
کے بعد نکلتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گنتی کے دنوں  
میں اپنے ذکر کا حکم فرمایا اور وہ ايام تشریق ہیں یعنی بقرہ عید کے بعد تین  
دن ہیں اور انہیں گنتی کے دن اس لئے کہا کہ تمہاری عمر کے دنوں کے مقابلہ میں  
یہ دن تھوڑے سے ہیں اسی طرح سورہ یوسف میں فرمایا کہ انہوں نے  
کھوٹی پونجی سے اور گنتی کے دو ہموں سے یوسف کو خرید لیا۔ ايام تشریق کو  
گنتی کے دن اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ايام حج میں گنے جاتے ہیں اور ان دنوں  
میں حاجی حج کے انحال سے مزدلفہ میں رات گزار کر اور منیٰ میں شیطانوں  
پر کنکرین مار کر فارغ ہوتے ہیں۔ زجاج کہتے ہیں معدودات لغت میں  
تھوڑی سی شے کو کہتے ہیں اسی لئے ايام تشریق کو ايام معدودات گنتی  
کے دن کہا گیا کیونکہ یہ تھوڑے سے ہیں زمین دن ہیں لہذا گنتی کے دن  
ایام تشریق کے تین دن ہیں اور ان میں جس ذکر کا حکم ہے وہ تکبیریں ہیں  
نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ گنتی کے دن تین دن  
ہیں بقرہ عید کا دن اور دو دن اس کے بعد کے۔ ابراہیم نخعی: گنتی کے دن  
ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور معلوم دن قربانی کے دن ہیں۔

اس آیت میں اور اس سے پہلے کی آیت میں حق تعالیٰ کا مسلمانوں کو ذکر

ثلاثة ايام ليوم النحر و ليرمان بعد لا وقال ابراهيم  
 النخعي رحمه الله الايام المعدودات ايام العشر  
 والمعلومات ايام النحر وسبب امر الله تعالى  
 المسلمين بالذكري في هذه الآية والتي قبلها  
 قوله عز وجل فاذكروا الله كذكري اباؤكم  
 على ما ذكر المفسرون ان العرب كانوا اذا  
 فرغوا من حجهم وقفوا عند البيت وذكروا ما اثر  
 آباؤهم وما اخرهم وكان الرجل يقول ان  
 ابي كان يقري الضيف ويطعم الطعام وينحر  
 الحزور ويفك العاني ويميز النواصي ويفعل  
 كذا وكذا ويتفاخرون بذلك فامرهم الله  
 عز وجل بذكره فانزل الله عز وجل فاذكروا  
 الله كذكري اباؤكم واذكروا لي قوله  
 تعالى فاذكروا الله في ايام معدودات وقال  
 جل وعلا فاذكروني فانا الذي نعنت ذلك  
 بكم ويا اباؤكم واحسنت اليكم واليهم وقال  
 السدي رحمه الله كانت العرب اذا قفت  
 مناسكها واقاموا بمني يقوم الرجل فيسال الله  
 عز وجل ويقول اللهم ان ابي كان عظيم الجنة  
 عظيم العتبة كثير المال فاعطني مثل ذلك  
 وليس يذكر الله عز وجل انما يذكر اباة وبيال  
 ان يعطي في دنياه فانزل الله تعالى هذه الآية  
 وقال ابن عباس وعطاء والربيع والضحك معناه  
 فاذكروا الله تعالى كذكر الصبيان الصغار  
 الآباء وهو قول الصبي اول ما يفهم ويفقه كلام

کرنے کا حکم نہ پایا اور کہا کہ اپنے باپوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر اللہ  
 کرو، اس کا سبب مفسرین کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ عرب حج سے  
 فارغ ہو کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے بزرگوں کے فخریہ کا  
 بیان کیا کرتے تھے کوئی کتنا تھا کہ میرے والد صاحب مہمان نواز تھے  
 لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اونٹ نحر کیا کرتے تھے، اسیروں کو چھڑایا  
 کرتے تھے اور غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے اور فلاں فلاں رنہا عام  
 کے کام کیا کرتے تھے داد کوئی اپنے بزرگوں کے اور کارنامے بتاتا تھا  
 اور اپنے بزرگوں پر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے حق تعالیٰ نے  
 حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور یہ آیت اتاری کہ اپنے باپوں کے ذکر  
 کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو واذکروا اللہ فی  
 ايام معدودات (اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو) پڑھ  
 جائیے اور حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو کیونکہ میں نے  
 ہی ایسا تم کو اور تمہارے بزرگوں کو بنایا اور تمہارے اور ان کے  
 ساتھ احسان کیا۔

مندی، جب عرب احکام حج ادا کر چکے اور منیٰ میں نیا م کرتے  
 تو ایک شخص کھڑا ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا اور کہتا کہ اے اللہ  
 میرے والد بڑے باوید والے اور بڑی چوکھٹ والے تھے اور بہت  
 مالدار تھے اے اللہ مجھے بھی انہیں جیسا مال دے وہ اللہ کا ذکر نہیں  
 کرتا تھا اور اس کی طرح دنیا مانگا کرتا تھا پھر حق تعالیٰ نے یہ آیت اتاری  
 ابن عباس، عطاء، ربع، ضحاک، یعنی اللہ کو اس طرح یاد کرو  
 جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپوں کو یاد کیا کرتے ہیں بچے جب  
 بولنے لگتے ہیں تو آبی امی کہہ کر اپنے مانباپ کو پکارتے ہیں پھر فرط  
 محبت سے اپنے مانباپ کو لپیٹ جاتے ہیں۔

عمر بن مالک ابو الجوزاء سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت  
 ابن عباس سے کہا کہ مجھے فا ذکر اللہ الخ کی تفسیر سمجھائیے کیونکہ



ابیه و أمه ثم يلهم بأبيه عن عمر بن مالك  
 عن أبي الجوزاء قال قلت لآبن عباس رضي الله  
 عنهما أخبرني عن قول الله عز وجل فاذكروا  
 الله كما ذكرتم آباءكم وأشد ذكرا وقد يأتي  
 على الرجل يوم لا يذكر فيه آباء فتال ابن  
 عباس رضي الله عنهما ليس كذلك ولكن  
 ان تغضب لله عز وجل اذا عصي اشد من  
 غضبك لو ولدك اذا شئتما وعن محمد بن  
 كعب القرظي رحمه الله فاذكروا الله لذاته  
 آباءكم اشد ذكرا يعني بل اشد كقوله  
 اوزيدون اى بل يزيدون قال مقاتل  
 رحمه الله اشد ذكرا يعني اكثر ذكرا  
 كقوله ادا شد قسرة ادا شد خشيد.

**فصل:** وقد سمى الله عز وجل اشياء في  
 القرآن ذكرها من ذلك انه سمى التوراة ذكرا  
 فقال عز وجل فاسألوا اهل الذكرا ان كنتم  
 لا تعلمون وسمى القرآن ذكرا قوله عز وجل  
 وهذا ذكر مبارك انزلناه وسمى اللوح المحفوظ  
 ذكرا قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من  
 بعد الذكرا يعني من بعد اللوح المحفوظ وسمى  
 الموعظة ذكرا قوله عز وجل فلما سوا ما  
 ذكروا به وسمى الرسول ذكرا قوله عز وجل  
 قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا والخير  
 ذكرا قوله عز وجل هذا ذكر من معي وذكر  
 من قبلي والشرف ذكرا قوله عز وجل انه

کوئی دن ایسا بھی ہوتا ہے جس دن کوئی اپنے والد کو یاد نہیں کرتا۔ اس پر  
 حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں جرتم نے سمجھا ہے  
 بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ماں باپ کو گالیوں میں  
 تو تم کو غصہ آتا ہے اس سے زیادہ غصہ تم کو اس وقت آنا چاہیے  
 جب کسی کو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوا دیکھو۔

محمد بن کعب قرظی: اس آیت میں او بمعنی بل (بلکہ)  
 ہے ایک جگہ ہے اور یزیدون یعنی تم نے ایک لاکھ کی طرف  
 بلکہ زیادہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

مقاتل: اور اشد ذکرا یعنی بلکہ ان سے بھی زیادہ ذکر کر کے  
 جیسے فرمایا: بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، بلکہ اس سے بھی  
 زیادہ ڈر۔

**ذکر کے معانی** | قرآن حکیم میں ذکر کا اطلاق کئی معنی پر کیا گیا ہے  
 جیسے تورات پر فرمایا ایل ذکر و تورات سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں  
 قرآن پر فرمایا: اور یہ برکت والا ذکر ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ لوح  
 محفوظ پر فرمایا: اور ہم نے لوح محفوظ کے بعد زبور میں لکھا، وعظ  
 و نصیحت پر فرمایا: پھر جب وہ نصیحتوں کو بھول گئے، رسول پر فرمایا  
 اللہ نے تم پر ذکر یعنی رسول اتارا، خبر پر فرمایا: یہ اس کی خبر ہے جو  
 میرے ساتھ ہے اور اس کی خبر بھی جو مجھ سے پہلے ہے، اشرف و بزرگ  
 پر فرمایا: بلاشبہ یہ شرف آپ کے لئے ہے اور آپ کی قوم کے لئے بھی  
 تورات پر فرمایا: وہ تورات پڑھنے والوں کے لئے ذکر ہے، نماز پر فرمایا  
 پھر تم اللہ کے لئے نماز پڑھو جس طرح اللہ نے تم کو اس کی تعلیم دی ہے  
 عصر کی نماز پر فرمایا: میں نے اپنے رب کے ذکر و عصر کی نماز پر مال کی  
 محبت کو ترجیح دی، جمعہ پر فرمایا جمعہ کی نماز کے لئے چل کر جاؤ،  
 شفاعت پر فرمایا اپنے مالک کے پاس میری سفارش کر دینا، اطاعت  
 پر فرمایا تم میری اطاعت کرو میں تم کو بخش دوں گا، نہ امت پر فرمایا

لذکرک ولقومک والتوراة ذکر اوله عزوجل  
 ذلک ذکرى للذاکرین والصلاة ذکر  
 قوله عزوجل فاذکروا الله کما علیکم و  
 سى صلاة العصر ذکر اوله عزوجل انى  
 اجبت حب الخیر عن ذکر ربى یعنی صلاة  
 العصر والجمعة ایضا ذکر اوله عزوجل  
 فاسعوا الى ذکر الله والشفاة ذکر اوله  
 عزوجل اذکرتى عند ربک اوسمى الطاعة  
 والمغفرة ذکر اوله عزوجل فاذکرونى اذکر  
 کم معنای اذکرونى بالطاعة اذکر کم بالمغفرة  
 وسمى الندامة ذکر اوله تعالى اذ ظلموا  
 انفسهم وکروا لله اى ندموا بالقلب فاستغفروا  
 باللسان وسمى التکبیر ذکر اوله تعالى واذکروا  
 الله فى ایام معدودات یعنی ایام التشریق۔

**فصل** : واختلف لمسیب ایام التشریق  
 فقال قوم ان المشرکین كانوا یقولون اشرف  
 تیر کیسا تیر یعنی ادخل فى الشروق یا تیر و  
 هو اسم جبل کیسا تیر اى کیساند نع لانهم  
 كانوا لا یدفعون ولا یفیضون من المزدلفة  
 الا بعد ان تشرق الشمس فجاء الاسلام فابطل  
 ذلک وقیل انما سببت ایام التشریق لانهم  
 كانوا یشرقون قیہم لحرم لا مناحی والتشریق  
 اللحم ان یشرح ویشرق فى الشمس ویسمى لشدیدا  
 شران اللحم وقیل برسیب الصلاة یوم  
 النحر والتشریق صلاة العید وانما اخذ من

جب وہ اپنے اور پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے دل میں نادم ہوتے ہیں  
 اور زبان سے استغفار کرتے ہیں اور تکبیر پڑھ لیا اور گنتی کے دنوں میں  
 یعنی ایام تشریق میں تکبیریں کہو۔  
 ایام تشریق کی وجہ تسمیہ اس میں اختلاف ہے کہ ایام  
 تشریق کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟

بعض علماء مشرک کہا کرتے تھے کہ اسے کوہ تیر و صوب سے  
 چمک اٹھتا کہ ہم منیٰ کی طرف روانہ ہوں کیونکہ مشرک مزدلفہ  
 سے اسی وقت منیٰ کی طرف جاتے تھے جب کوہ تیر پر اچھی ٹھکانا  
 و صوب پھیل جایا کرتی تھی، اسلام نے آکر یہ رسم بالکل مٹا دی  
 اور حکم فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کر دو اور سورج نکلنے سے  
 پہلے منیٰ کو روانہ ہو جاؤ۔

بعض دیگر علماء چونکہ ان دنوں میں لوگ قربانیوں کا گوشت  
 سکھایا کرتے تھے اس لئے ان دنوں کو ایام تشریق کہا گیا۔ تشریق  
 یعنی گوشت کی بومیوں کو ذبح میں سکھانا۔ سو کھے ہوئے گوشت  
 کو تیر کہا جاتا ہے۔

کتنے ہیں کہ بقرہ عید کے دن دو گانہ کو تشریق کہتے ہیں یہ لفظ شروق  
 سے لیا گیا ہے جب سورج اچھی طرح سے چمکنے لگتا ہے تو بقرہ عید  
 کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور جہاں بقرہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے  
 اسے مشرق کہتے ہیں کیونکہ لوگ اس جگہ سورج نکلنے کے بعد پہنچتے ہیں  
 بنا بریں بقرہ عید کے دن کو تشریق کا دن کہا جاتا ہے پھر گیارہویں  
 بارہویں اور تیرھویں تاریخ کو بالبتبع ایام تشریق کہنے لگے یعنی صل  
 میں تشریق کا دن بقرہ عید کا دن ہے اور بالبتبع ایام تشریق ہیں  
 ذوالنون مصریٰ سے پوچھا گیا کہ موقع کو مشعر کیوں کہتے ہیں؟  
 حرم کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا، اس لئے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور  
 حرم اس کا پردہ ہے اور مشعر اس کا دروازہ ہے پھر جب



شروق الشمس لان ذلك وقتها وهي المصلى  
المشرق لان الناس يبرزون فيه للشمس فسهي  
يوم العيد يوم التثريق لهذا المعنى ثم منارت  
ايام التثريق تبع العيد وقيل لذي النون المصري  
رحمه الله لم يسمي الموقف بالمشعر ولم يسم بالحرم  
فقال لان الكعبة بينه والحرم حجاب والمشعر  
بابه فلما قصدوا الوافدون اوقفهم بالباب  
الاول يتفحصون اليه ثم اوقفهم بالحجاب  
الثاني وهو المزدلفة فلما نظر الى تصرفهم  
امرهم بتقريب قربانهم فلما ان قربوها  
وتطهروا من الذنوب امرهم بالزيارة  
على الطهارة فقبل له لمكرة الصيام في ايام  
التثريق قال لان القوم زوار الله تعالى وهم  
في ضيافته ولا ينبغي للضيف ان يصوم عند من  
امانه فليل له يا ابا الفيض ما معنى تعلق الرجل  
باستار الكعبة قال مثله كمثل رجل بينه  
وبين صاحبه جنابة فهو متعلق بذيل رجال  
يشفون له ان يهب له جرمه -

**فصل** : واختلف في قدر التكبير في هذه  
الايام قال نافع رحمه الله كان عمر وعبد الله  
ابنه رضي الله عنهما يكبران بنى هذا الايام  
عقيب الصلاة وفي المجلس وعلى الفرش و  
الفسطاط وفي الطريق ويكبران الناس بتكبيرهما  
وتيلوان هذا الآية فالإتفاق حاصل على  
كون التكبير سنة وانما الخلاف في قدره

زيارت کے لئے آئے حق تعالیٰ شانہ کے گھر کا قصد کر کے آئے ہیں  
تو حق تعالیٰ ان کو پیسے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا کرتا  
ہے تاکہ وہ بارگاہِ قدس میں روئیں اور گڑگڑائیں اور بلب بلب کر  
دعائیں مانگیں پھر دوسرے پردہ (مزدلفہ) میں کھڑا کرتا ہے  
پھر جب ان کی گڑگڑاہٹ کو دیکھتا ہے تو انہیں حکم فرماتا ہے  
کہ قربانی کی عبادت پیش کر میں پھر جب حاجی قربانیاں کر کے گناہوں  
سے پاک ہو جاتے ہیں تو اب انہیں کعبہ اقدس کی زیارت پاکی  
کی حالت میں حکم ملتا ہے۔

پھر ذوالنون مصریٰ سے پوچھا گیا کہ ایام تشریق میں روزے  
کیوں مکروہ ہیں؟ فرمایا اس لئے کہ لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے  
لئے آئے ہیں اور اللہ کے مہمان ہیں اور مہمان کے لائق یہ بات  
نہیں کہ میزبان کے گھر آکر روزہ رکھے۔

پوچھا گیا کہ لوگ کعبہ اقدس کے پردے سے کیوں  
چپٹے ہیں؟ فرمایا اس کو اس طرح سمجھو جیسے کوئی شخص اپنے  
مالک کی نافرمانی کر کے نادم ہو اور ایسے لوگوں کے دامن کو جا  
پڑے جو اس کی اس کے مالک سے سفارش کر دیں کہ اس کا قصور  
معاف کر دیا جائے۔

\*

**ایام تشریق میں تکبیریں** ایام تشریق میں تکبیروں کی تعداد میں

اختلاف ہے۔ نافع، عمر رضی اور ابن عمر رضی ان دونوں میں نمازوں کے  
بعد مجالس میں، بستروں پر، خیموں میں اور راستوں میں تکبیریں کہا  
کرتے تھے اور ان دونوں کی تکبیریں سن کر لوگ بھی تکبیریں کہا کرتے  
تھے اور اس آیت (مذکورہ بالا آیت) پر عمل پیرا تھے۔ لہذا تکبیروں  
یہ سنت ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے لیکن تکبیروں کی تعداد  
میں اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی عنہ کی صبح کی نماز سے لیکر ایام تشریق

وكان على رضى الله عنه يكبر من صلاة الغداة  
من يوم عرفة الى صلاة العصر من ايام التشریق  
وهو مذهب امامنا احمد بن محمد بن حنبل  
رحمه الله تعالى واحد اقوال الشافعی ومذهب  
ابي يوسف ومحمد بن الحسن وهو اولي الاقوال  
واجبها وكان عبد الله بن مسعود رضى الله  
عنه يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة الى صلاة  
العصر من يوم النحر وهو مذهب الامام الاعظم  
ابي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى وكان ابن عباس  
وزيد بن ثابت رضى الله عنهم يكبران من صلاة  
الظهر من يوم النحر الى صلاة العصر من آخر  
ايام التشریق وهو قول عطاء رحمه الله والظاهر  
من مذهب الشافعی رحمه الله ان يبدا  
بالتكبير من صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة  
الفجر من آخر يوم التشریق اقتداء بالحاج  
وهو مذهب الامام مالك وللشافعی قول  
ثالث اوله من صلاة المغرب ليلية النحر الى صلاة  
الصبح من آخر ايام التشریق واما لفظ التكبير  
فكان ابن مسعود رضى الله عنه يكبر اثنين الله  
اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله  
اكبر والله الحمد وهو مذهب امامنا احمد  
ابي حنيفة كجهما الله واهل العراق وعن مالك  
رحمه الله تعالى انه كان يقول الله اكبر الله  
اكبر ثم لقطع فيقول الله اكبر لا اله الا الله  
وكان سعيد بن جبير والحسن رحمهما الله

کے پھلے دن کی عصر کی نماز تک تکبیریں کہا کرتے تھے۔ یہی ہمارے امام  
احمد بن حنبل کا مذہب ہے اور شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے اور  
ابو یوسف اور محمد بن حسن کا بھی یہی مذہب ہے اور تمام اقوال میں یہی  
قول ادلی اور جامع تر ہے۔ عبد اللہ بن مسعود عرفہ کی نماز فجر سے  
لے کر بقرہ عید کی نماز عصر تک تکبیریں کہا کرتے تھے یہ امام اعظم  
ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ ابن عباس اور زید بن ثابت بقرہ عید  
کے دن کی نماز ظہر سے لیکر ایام تشریق کے پھلے دن کی نماز عصر تک  
تکبیریں کہا کرتے تھے۔ یہ عطاء کا قول ہے اور شافعی کا بھی ظاہر ہے  
قول یہ ہے کہ بقرہ عید کے دن کی نماز ظہر سے لے کر ایام تشریق کے  
پھلے دن کی نماز ظہر تک خاجیوں کی پیروی کرتے ہوئے تکبیریں  
جائیں یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ امام شافعی کا تیسرا قول  
یہ ہے کہ بقرہ عید کی شب کی نماز مغرب سے لے کر پھلے یوم تشریق  
کی صبح کی نماز تک تکبیریں کسی جائیں۔

**تکبیر کے صیغے** ابن مسعود کا یہ صیغہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ الحمد۔ یہی قول ہمارے امام احمد کا  
ابو حنیفہ کا اور اہل عراق کا ہے امام مالک کا صیغہ یہ ہے اللہ اکبر  
اللہ اکبر (ٹھہرتے پھرتے) اللہ اکبر لا اله الا الله۔ سعید بن  
جبیر اور حسین کا یہ صیغہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله  
کتے لا اله الا الله۔ یہ امام شافعی اور اہل مدینہ کا قول ہے۔  
قتادہ اس طرح کہا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر علی  
ما حدانا اللہ اکبر وللہ الحمد۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منیٰ کے دن کھانے پینے کے  
اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔

جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے



تعالى يقول ان الله اكبر الله اكبر ثلاثا نسقاهم  
يسوق التكبير الى آخره على ما ذكرنا اولاً و  
هو مذ هب الشافعي رحمه الله واهل المدينة  
وهن فتادة رحمه الله انه كان يقول الله اكبر كبيراً  
الله اكبر على ما هدا الله اكبر والله الحمد و  
روي ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله  
عليه وسلم قال ايام منى ايام اكل وشرب وذكر  
الله تعالى وهن جعفر بن محمد رحمه الله انه قال  
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث منادياً  
نادياً في ايام التثنية انها ايام اكل وشرب ولعالم  
**فصل** : وان كان محرماً من صلاة الظهر  
يوم النحر الى آخر ايام التثنية عند امامنا احمد  
رحمه الله تعالى وكذلك في الصحيح عنه لا يكبر  
الا اذا صلى الفرض في جماعة ولا يكبر اذا  
كان وحده ولا عقب النوافل  
**فصل** : وهذا التكبير الذي ذكرنا في  
عيد الاضحى مثله في عيد الفطر بل أكد في الفطر  
ليلة الفطر لقول الله عز وجل وتكملوا العدا  
وتكبروا الله على ما هداكم الآية غير ان  
ابتداءه من بعد غروب الشمس ليلة الفطر  
الى ان يفرغ الامام من خطبتي العيد يوم العيد  
ثم ينقطع وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله  
ليس في الفطر تكبير مسنون وقال مالك رحمه الله  
يكبر يوم الفطر دون ليلته ويكون وقته الى  
ان ياتي المصلي ويخرج الامام ويظهر الناس

نہ پایا کہ منی کے دن کھانے پینے کے اور ذکر اللہ کے دن  
ہیں۔

جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
نے ایک منادی سے ایام تشریق میں اعلان کرایا کہ یہ کھانے پینے  
کے اور سہستری کے دن ہیں۔

**حالات احرام میں تکبیریں** | اگر کوئی محرم ہو تو وہ بقرہ عید کی  
ظہر کی نماز سے لے کر پچھلے ایام تشریق تک ہمارے امام کے نزدیک  
تکبیریں نہ کہے ہاں جماعت سے فرائض ادا کرنے کے بعد تکبیریں کہے  
اگر تمنا فرائض ادا کرے یا نوافل پڑھے تو تکبیریں نہ کہے۔

**عید کی تکبیریں** | بقرہ عید کے دن جس طرح تکبیریں کہی  
جاتی ہیں اسی طرح عید کے دن کسی جاتی ہیں بلکہ عید رات  
ہیں سے تکبیروں کی تاکید ہے قرآن پاک میں اور تاکہ تم بعداً  
پوری کرو اور تاکہ تم تکبیریں جس طرح اللہ نے تم کو ہدایت  
نہائی ہے عید کی رات میں تکبیروں کی ابتداء غروب  
آفتاب کے بعد سے کی جائے اور اس وقت تک سلسلہ جاری رکھا

جائے جب تک امام عید کے دن عید کے دونوں خطبوں  
سے فارغ نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ ج کہتے ہیں عید کے دن تکبیریں  
مسنون نہیں اور امام مالک کہتے ہیں رات میں تکبیریں نہ  
کہی جائیں بل دن میں کہی جائیں اور تکبیروں کا وقت عید گاہ  
تک پہنچنے تک اور امام کے حاضر ہونے تک ہے۔ امام شافعی  
کے نزدیک عید رات کو غروب آفتاب کے بعد سے بیکر  
امام کے دونوں خطبوں تک ہے۔ امام موصوف کا ایک قول  
یہ بھی ہے کہ عید رات کو غروب آفتاب کے بعد سے لے کر  
عید کے دن عید گاہ میں امام کے حاضر ہونے تک ہے اور  
ایک قول یہ بھی ہے کہ نیت باندھنے تک ہے اور ایک قول

للمصلاة وقال الشافعي رحمه الله يكبر من غروب  
 الشمس ليلة الفطر الى ان يفرغ الامام من خطبتي  
 العيد يوم العيد وقال في قول يكبر من غروب الشمس  
 ليلة العيد الى ان يظهر الامام في المصلى وقال  
 في قول الى ان يجرم بالصلاة وفي قول الا ان يفرغ من الصلاة  
**فصل:** في فضائل يوم عاشوراء قال الله  
 تعالى ان عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في  
 كتاب الله الى قوله منها اربعة حرم وقد تقدم  
 ذكر ذلك وان منها المحرم فهدى الشهر من  
 الاشهر المحرمة عند الله تعالى وفيه يوم عاشوراء  
 الذي عظم الله تعالى اجر من اطاعه فيه من  
 ذلك ما اخبرنا به البرنصر عن والده باسنادة  
 عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام  
 يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما  
 ومن ذلك ما روى عن ميمون ابن مهران  
 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم من صام عاشوراء من المحرم  
 اعطى ثواب عشرة آلاف ملك ومن صام يوم  
 عاشوراء من المحرم اعطى ثواب عشرة آلاف  
 شهيد و ثواب عشرة آلاف حاج ومعتبر و  
 من مسح بيده على رأس يتييم يوم عاشوراء  
 رفع الله تعالى له بكل شعرة على رأسه  
 درجة في الجنة ومن فطر مومنا ليلة عاشوراء  
 كأنما فطر عنده جميع امة محمد صلى الله عليه

امام کے نماز سے فارغ ہونے تک ہے۔

**عاشوراء کی فضیلت** | حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا دیکھو

اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں بارہ ہے۔  
 و آخر تک پھر فرمایا، ان میں سے چار مہینے حرمت والے  
 ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا ذکر اوپر گزر چکا، اور یہ بھی کہ  
 محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ بنا بریں محرم اللہ کے  
 نزدیک حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی محرم الحرام کی دسویں  
 تاریخ کو عاشوراء کہتے ہیں، عاشوراء کے دن کی اطاعت  
 کا حق تعالیٰ نے اجر عظیم مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ

ابو نصر نے ہمیں اپنے والد سے اپنی اسناد سے مجاہد سے  
 اور انہوں نے ابن عباسؓ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے فرمایا کہ جس نے محرم میں عاشوراء کا روزہ رکھا۔

اسے دس ہزار شہداء کا اور دس ہزار حاجیوں کا اور عمرہ  
 کرنے والوں کا ثواب دیا گیا اور جس نے عاشوراء کے  
 دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو حق تعالیٰ اس یتیم کے سر

کے ہر بال کے بدلہ جنت میں ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ اور جس نے  
 عاشوراء کے دن کسی مومن کا روزہ کھلوا یا گویا اس نے اپنے  
 پاس تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوا یا اور سب کو پیٹ

بھر کر کھلایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حق تعالیٰ شانہ نے  
 عاشوراء کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے فرمایا

ہاں، حق تعالیٰ نے اس دن آسمان پیدا کئے، اسی دن پہاڑ  
 بنائے اسی دن سمندر پیدا فرمائے، اسی دن قلم پیدا کیا، اسی  
 دن لوح پیدا کی، اسی دن آدم کو پیدا کیا، اسی دن انہیں جنت

میں داخل فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اسی دن  
 آپ کے فرزند ولید کی طرف سے فدیہ دیا گیا، اسی دن فرعون



وسلم واشبع بطونهم قالوا یا رسول اللہ لقد  
 فضل اللہ تعالیٰ یوم عاشوراء وعلی سائر الايام قال  
 صلی اللہ علیہ وسلم نعم خلق اللہ تعالیٰ السموات  
 فی یوم عاشوراء وخلق الجبال یوم عاشوراء وخلق  
 البحار یوم عاشوراء وخلق القلم یوم عاشوراء وخلق  
 اللوح یوم عاشوراء وخلق آدم یوم عاشوراء وادخله الجنة  
 یوم عاشوراء وولد ابراہیم علیہ السلام یوم عاشوراء ونجا  
 الله من النار یوم عاشوراء وقدی ابنہ من الذبح یوم عاشوراء و  
 اغرق فرعون یوم عاشوراء وكشف الله تعالیٰ  
 البلاء عن الیوب یوم عاشوراء وقاب الله تعالیٰ  
 علی آدم یوم عاشوراء وغفر الله تعالیٰ ذنب  
 داؤد علیہ السلام یوم عاشوراء وولد عیسیٰ  
 یوم عاشوراء ویوم القيامة فی یوم عاشوراء  
 وفی لفظ آخر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال  
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام  
 یوم عاشوراء كتب الله له عبادۃ ستین سنة  
 بصيامها وقيامها ومن صام یوم عاشوراء  
 اعطى ثواب الف شهيد ومن صام یوم عاشوراء  
 كتب الله له اجر اهل سبع سموات ومن نظر  
 مؤمنا یوم عاشوراء فکانما انظر عندا جميع امة  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشبع بطونهم  
 ومسح رأس یتیم فی یوم عاشوراء رفعت له  
 بكل شعرة علی راسه درجة فی الجنة فقال  
 عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ لقد  
 فضلتنا الله تعالیٰ بیوم عاشوراء قال صلی اللہ

ذوباء، اسی دن حق تعالیٰ شانہ نے حضرت الیوب کو شفا بخشی  
 اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی، اسی دن حضرت داؤد  
 علیہ السلام کا گناہ بخشا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
 پیدا ہوئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ حضرت ابن عباس  
 رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے فرمایا کہ جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا تو عاشوراء  
 کے دن کے روزے اور رات کے قیام کے عوض حق تعالیٰ  
 ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب لکھ لیتا ہے جس نے عاشوراء  
 کا روزہ رکھا اسے ایک ہزار شہداء کا ثواب ملا جس  
 نے عاشوراء کا روزہ رکھا حق تعالیٰ نے اس کے  
 لئے ساتوں آسمان والوں کا اجر لکھ لیا اور جس نے  
 کسی مومن کا عاشوراء کا روزہ کھلوا یا گویا اس نے  
 تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوا یا اور سب کو پیٹ  
 بھر کر کھانا کھلایا اور جس نے عاشوراء کے دن کسی یتیم  
 کے سر پر ہاتھ پھیرا تو یتیم کے سر کے ایک ایک بال کے  
 عوض حق تعالیٰ جنت میں اس کے درجے بلند فرمائے  
 گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم، بلاشبہ حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں  
 عاشوراء کا دن عطا فرمایا کہ نفسیت عطا فرمائی ہے  
 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں حق تعالیٰ نے  
 عاشوراء کے دن سات آسمان بنائے اسی دن ساتوں زمینیں  
 بنائیں اسی دن پہاڑ اور تارے پیدا کئے اسی دن عرش  
 کو سی پیدا کی اسی دن لوح و قلم پیدا کئے۔ اسی دن حضرت  
 جبریل اور تمام فرشتے پیدا کئے۔ اسی دن حضرت آدم  
 علیہ السلام پیدا کئے اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام

علیہ وسلم خلق اللہ تعالیٰ السنوات یوم عاشوراء  
 والارض کتله وخلق الجبال یوم عاشوراء  
 والنجم کتله وخلق العرش یوم عاشوراء  
 والکرسی کتله وخلق اللوح یوم عاشوراء  
 والقلم کتله وخلق جبریل یوم عاشوراء  
 والبراق کتله وخلق آدم فی یوم عاشوراء  
 وولد ابراهیم فی یوم عاشوراء ونجاہ اللہ تعالیٰ  
 یوم عاشوراء وفدی اللہ ابنہ یوم عاشوراء  
 وغرق فرعون فی یوم عاشوراء ورفع ادریس  
 فی یوم عاشوراء وكشف الفرع عن الیوب فی  
 یوم عاشوراء ورفع عیسیٰ فی یوم عاشوراء  
 وولد عیسیٰ فی یوم عاشوراء وتاب اللہ علی  
 آدم فی یوم عاشوراء وغفر ذنب داؤد فی  
 یوم عاشوراء وادعی اللہ الملک لسلیمان فی  
 یوم عاشوراء واستوی الرب تبارک وتعالیٰ  
 علی العرش فی یوم عاشوراء و یوم الفیامة فی  
 یوم عاشوراء واول مطر نزل من السماء  
 یوم عاشوراء واول رحمة نزلت فی یوم  
 عاشوراء ومن اغتسل یوم عاشوراء لم یرض  
 مرینا الامر من الموت ومن اکتحل الاثمد  
 یوم عاشوراء لم ترمد عینہ تلك السنة کلھا  
 ومن عاید مرینا یوم عاشوراء فکانا عاید  
 ولد آدم ومن سقی شربة من ماء یوم عاشوراء  
 فکانا لم یجص اللہ طرفة عین ومن صلی الربع  
 رکعات یوم عاشوراء یقرأ فی کل رکعة فاتحة

پیدا کئے گئے۔ اسی دن حق تعالیٰ نے آپ کو نار نرود سے  
 نجات عطا فرمائی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرزند  
 دل بند کے فدیہ کے لئے جنت سے مینڈھا بھیجا، اسی دن  
 فرعون غرق ہوا۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو  
 اٹھایا، اسی دن حضرت الیوب علیہ السلام کی بیماری دفع کی،  
 اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اسی دن حضرت  
 عیسیٰ پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول  
 ہوئی، اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کا گناہ بخشا گیا، اسی  
 دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک ملا۔ اسی دن حق تعالیٰ  
 عرش پر بیٹھا، اسی دن قیامت آئے گی، اسی دن سب سے پہلی  
 بارش ہوئی اور اسی دن پہلی رحمت اتری۔ جو عاشوراء کے  
 دن نہائے گا اسے بجز مرض الموت کے کوئی بیماری لاحق نہ ہوگی  
 اور جو عاشوراء کے دن اٹھد کا سرمہ لگائے اس سال اس کی  
 آنکھیں نہیں دکھیں گی اور جو اس دن کسی بیمار کی عیادت کے  
 لئے جائے گا اس نے تمام اولاد آدم کی عیادت کی اور جو  
 اس دن کسی کو پانی پلا دے گا اس نے پک چھیننے کی برابر بھی  
 اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جو عاشوراء کے دن چار رکعت نماز  
 پڑھے اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور ۵۰ بار سورہ  
 اخلاص پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے پچھلے پچاس سالوں  
 کے اور اگلے پچاس سالوں کے گناہ معاف فرمادے گا۔  
 اور اس کے لئے ملا الاعلیٰ میں ایک ہزار محل نور کئے تیار  
 فرمائے گا۔

حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں یہ چار رکعت نماز دو  
 سلاموں سے آتی ہے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار  
 سورہ زلزال، ایک بار سورہ اخلاص پڑھے پھر سلام پھیرے۔



الکتاب مرة وخمسین مرة قل هو الله احد  
 غفر الله تعالى له ذلوب حسین عامامانیا  
 وحسین عامامستقبلا ونبی الله تعالى له فی الملأ  
 الاعلی الف. قصر من نور وقد ورد فی حدیث آخر  
 اربع رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل رکعة فاتحة  
 الكتاب مرة واحدة واذ ازلزلت الارض زلزالها  
 مرة وقل یا ایها الکافرین مسرتا  
 قل هو الله احد مرة ویصلی علی النبی صلی الله  
 علیه وسلم سبعین مرة اذا فرغ منها مروی  
 ذلک فی حدیث ابی هریرة رضی الله عنه وعن  
 ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله  
 علیه وسلم افترض علی بنی اسرائیل صوم یوم فی  
 السنة وهو یوم عاشوراء العاشر من المحرم  
 فهو صوم ووسعوا فیہ علی عیالکم ومن وسع  
 علی عیاله من ماله فی یوم عاشوراء وسع الله  
 علیه سائر سنته ومن صام هذا الیوم کان  
 له کفارة اربعین سنة وما من احد احیا  
 لیلۃ عاشوراء واصلح ما شامات ولم یدر  
 ما الموت و فی حدیث علی کرم الله وجهه قال  
 قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احیا  
 لیلۃ عاشوراء احیا الله تعالی ما شاء ومن  
 سفیان بن عیینة عن جعفر الکوئی عن ابراہیم  
 بن محمد بن المنتشر وکان من افضل ما روی  
 بالکوفة علی ما قبل فی زمانہ انه بلغه ان من  
 وسع علی عیاله فی یوم عاشوراء وسع الله تعالی

ببار نبی اکرم صلعم پر درود شریف پڑھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر پورے  
 سال میں ایک دن کا یعنی یوم عاشوراء جو محرم کی دسویں تاریخ  
 ہے روزہ فرض تھا لہذا تم بھی عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس  
 دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں فراخی کرو اور جس نے اپنے  
 مال سے اس دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں فراخی کی  
 حق تعالیٰ اس کی روزی میں پورے سال فراخی عطا  
 فرمائے گا۔ اور جس نے اس دن کا روزہ رکھا تو یہ روزہ  
 اس کے چالیس گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور جو  
 شخص شب عاشوراء جاگ کر عبادت میں گزارے اور دن  
 کا روزہ رکھے تو اس حال میں فوت ہوگا کہ اسے موت  
 کا پتہ نہیں چلے گا۔

حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہے کہ سرور عالم  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشوراء کی رات  
 جاگ کر گزار لی تو اسے حق تعالیٰ جب تک وہ جاگے گا زندہ  
 رکھے گا۔

سفیان بن عیینة جعفر کوئی سے اور وہ ابراہیم بن محمد بن  
 منتشر سے آپ اپنے زمانہ میں کوفہ میں سب سے افضل تھے  
 جیسا کہ لوگوں میں مشہور تھا) روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم نے فرمایا  
 کہ انہیں خبر ملی ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن اپنے گھر میں  
 فراخی کی، اس پر حق تعالیٰ پورے سال فراخی فرمائے گا۔  
 سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ہم پچاس سال سے اس کا  
 تجربہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم فراخی ہی دیکھتے ہیں۔

حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ

علیہ سائر سنتہ قال سفیان رحمہ اللہ فجر بنا  
 ذلك منذ حسين سنة فلم نر الا سعة وعن  
 عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم من وسع علی اہلہ فی یوم عاشوراء  
 وسع اللہ علیہ سائر سنتہ وقیل عن بعض السلف  
 انه قال من صام یوم الزینة یعنی یوم عاشوراء  
 ادرك ما فاتہ من صیام السنة ومن تصدق  
 فیہ یومئذ ادرك ما فاتہ من صدقة السنة  
 وقال یحیی بن کثیر رحمہ اللہ من احتحل یوم  
 عاشوراء بحل فیہ مسک لم یشک عینہ الی  
 قابل من ذلك الیوم واخبرنا ابو نصر عن والد  
 باسنادہ عن ابی غلیط بن امیة بن خلف الجمحی  
 قال رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بیٹی مرورا  
 فقال هذا اول طائر صام یوم عاشوراء وقال  
 قیس ابن عباد لا كانت الوحش تصوم یوم عاشوراء  
 وعن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم افضل صیام بعد شہر  
 رمضان شہر اللہ الذی یدعونہ المحرم و  
 افضل الصلاة بعد المفروضة وفي جوف الليل  
 الصلاة یوم عاشوراء وعن علی کرم اللہ وجہہ  
 قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی شہر  
 اللہ المحرم قاب اللہ علی قوم ویتوب علی  
 آخرین وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال  
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام آخر  
 یوم من ذی الحجۃ واول یوم من المحرم فقد

جس نے عاشوراء کے دن گھر والوں پر سزاخی کی حق تعالیٰ  
 اس پر تمام سال فراخی فرمائے گا۔

بعض سلف : جس نے زینت کے (عاشوراء کے) دن  
 روزہ رکھا تو یہ روزہ ان تمام روزوں کا کفارہ ہو جائے  
 گا جو روزے اس سے پورے سال میں روزے چھوٹ  
 گئے ہیں اور جس نے اس دن صدقہ کیا تو یہ صدقہ ان تمام  
 صدقوں کا کفارہ ہو جائے گا جو صدقہ اس سے پورے سال  
 میں چھوٹ گیا ہے۔

یحییٰ بن کثیر : جو عاشوراء کے دن وہ سرمہ لگائے جس میں  
 مشک بھی شامل ہو اس کی آنکھیں اگلے سال اس دن تک دکھنے  
 نہیں آئیں گی۔ ابو نصر نے ہمیں اپنے والد سے اپنی اسناد سے ابو  
 بن امیہ بن خلف جمحی سے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں  
 ایک مولادیکھا اور فرمایا کہ یہ پہلا پیرندہ ہے جس نے عاشوراء  
 کا روزہ رکھا تھا۔ قیس بن عبادہ وحشی جائز بھی عاشوراء  
 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے ہیں جسے  
 محرم کہا جاتا ہے اور فرض نمازوں اور رات کی نمازوں کے بعد  
 افضل نماز عاشوراء کے دن کی نماز ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ  
 نے اللہ کے مہینے، محرم، میں ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور  
 دوسروں کی توبہ قبول فرمائے گا۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے  
 ذی الحجہ کے پچھلے دن کا اور محرم کے پہلے دن کا روزہ رکھا یا اس  
 چلنے والے سال کو روزے پر ختم اور آنے والے سال کو روزے سے



ختم السنة الماضية بصوم واستفتح السنة المقبلة بصوم وجعل الله عز وجل له كفارة تحسین سنة وعن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان عاشوراء یوما تصومه قریش فی الجاهلیة وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومه بمکة فلما قدم المدینة فرض صیام رمضان فمن شاء صام یوم عاشوراء ومن شاء ترکہ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة فوجد الیہود تصوم یوم عاشوراء فسأل عن ذلك فقالوا هذا الیوم الذی اظهر اللہ فیہ عز وجل موسی علیہ السلام وبنی اسرائیل علی قوم فرعون فتحن تصومه تعظیما له فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بترسی منکم فامر بصومه۔

**فصل** : واختلف العلماء رحمہم اللہ فی تسمیة یوم عاشوراء فقال اکثرہم انما سُمی یوم عاشوراء لانه عاشور یوم من ایام المحرم وقال بعضہم انما سُمی عاشوراء لانه عاشی الکرامات التي اکرم اللہ عز وجل هذا الامة بیها اولها رجب وهو شهر اللہ تعالی الا صموا وانا جعله کرامة لهذا الامة لفضله علی سائر الشهور کفضل هذا الامة علی سائر الامم الکرامة الثانية شهر شعبان وفضله علی سائر الشهور کفضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سائر الانبیاء والثالثة شهر رمضان وفضله

شروع کیا اور یہ روزے اس کے لئے پچاس سال کا کفارہ ہونگے۔ عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: عاشوراء کا روزہ جاہلیت میں قریش بھی رکھا کرتے تھے اور نبی صلعم بھی کہ میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے پھر پھر جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے تو آپ پر رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے اب جو چاہتا تھا عاشوراء کا روزہ رکھ لیتا تھا اور جو چاہتا تھا چھوڑ دیتا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں پوچھا: کیوں رکھتے ہو؟ بولے: اس لئے کہ اس دن حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو قوم فرعون پر غالب فرمایا تھا اس لئے ہم لوگ تعظیم کے طور پر عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق دار ہیں لہذا آپ نے مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

**عاشوراء کی وجہ تسمیہ** | اس میں اختلاف ہے کہ عاشوراء کو عاشوراء کیوں کہتے ہیں؟ اکثر علماء کی رائے ہے کہ عاشوراء کو عاشوراء اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ محرم کا دسواں دن ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک دس بزرگیوں میں سے یہ دن بھی ایک بزرگی ہے حق تعالیٰ نے اس امت کو دس بزرگیاں عطا فرمائی ہیں ایک بزرگی ماہ رجب سے ملی رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ہر ماہ حق تعالیٰ نے اسے اس امت کو فضیلت کے طور پر بخشا ہے جیسے یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے اسی طرح رجب تمام مہینوں سے افضل ہے دوسری بزرگی ماہ شعبان سے ملی جیسے نبی اکرم صلعم تمام مہینوں سے افضل ہیں اسی طرح شعبان تمام مہینوں سے افضل ہے تیسری بزرگی رمضان سے ملی جیسے حق تعالیٰ تمام مخلوق سے افضل ہے

علی سائر الشہور کفضل اللہ تعالیٰ علی خلقہ  
والرابعة ليلة القدر وهي خير من الف شهر  
والخامسة يوم الفطر وهو يوم الجزاء والسادسة  
ايام العشر وهي ايام ذكر الله تعالى والسابعة  
يوم عرفة ومومہ كفارة سنتين والثامنة  
يوم النحر وهو يوم القربان والتاسعة يوم  
الجمعة وهو سيد الايام والعاشرة يوم عاشوراء  
ومومہ كفارة سنة وكل وقت من هذه  
الايام كرامة جعلها الله تعالى لهذا الامة  
تكبير الذنوبهم وتطهير الخطايا هم  
قال بعضهم انما سمى عاشوراء لان الله تعالى  
اكرم فيه عشرة من الانبياء عليهم السلام  
بعشر كرامات احداها انه عز وجل تاب على  
آدم عليه السلام فيه والثانية رفع الله  
عز وجل ادريس عليه السلام فيه مكانا عليا  
والثالثة استوت سفينة نوح عليه السلام  
فيه الجودي والرابعة ولد ابراهيم عليه  
السلام فيه واتخذ الله تعالى خيلا وانجاء  
من نار سدود فيه والخامسة تاب الله عز وجل  
على داود عليه السلام فيه ورزاه الملك على  
سليمان عليه السلام فيه والسادسة كشف  
الله قمر اليب عليه السلام فيه والسابعة  
نجى الله عز وجل موسى عليه السلام من البحر  
واغرق فرعون في البحر فيه والثامنة نجى الله  
عز وجل يونس عليه السلام من بطن الحوت

اسی طرح رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے چوتھی بزرگی شب قدر  
سے ملی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے پانچویں بزرگی عید سے ملی  
عید کا دن جزاء کا دن ہے پچھٹی بزرگی ذی الحجہ کے پچیسے عشرے سے ملی اس عشرے کے  
دس دن اللہ کے ذکر کے دن ہیں ساتویں بزرگی عرفہ سے ملی اس  
کے روزے سے دو سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں آٹھویں بزرگی  
بقرة عید سے ملی جو قربانی کا دن ہے نویں بزرگی جمعہ سے ملی جو سنت  
کے دنوں کا سردار ہے اور دسویں بزرگی عاشوراء سے ملی جس کے  
روزے سے ایک سال کے گناہ مٹتے ہیں اور ان دنوں کی ہر  
گھڑی اہم اور عظیم ہے۔ حق تعالیٰ نے ان دنوں کو امت محمدیہ کے  
گناہ مٹانے کے لئے اور انہیں گناہوں کی آلائش سے پاک کرنے  
کے لئے بنایا ہے۔

بعض کے نزدیک عاشوراء کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے  
اس دن دس نبیوں کو دس فضائل سے مخصوص فرمایا حضرت آدم  
کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اونچے  
مقام پر اٹھایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی  
پہاڑ پر بٹھرایا، حضرت ابراہیم کو پیدا کیا اور آپ کو حیل بنایا  
اور نمرود کی آگ سے محفوظ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام  
کی توبہ قبول فرمائی، حضرت سلیمان کو دوبارہ ملک عطا فرمایا،  
حضرت ایوب علیہ السلام کو پرانی بیماری سے شفا بخشی  
حضرت موسیٰ کو دریا سے نجات دی اور فرعون کو غرق فرمایا  
حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی  
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور ہمارے  
محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔  
عاشوراء میں اختلاف اس میں اختلاف ہے کہ عاشوراء  
محرم کا کون سا دن ہے؛ اکثر علماء کے نزدیک عاشوراء محرم کا



فیہ والتاسعة رفع الله عز وجل عیسیٰ علیہ السلام  
الی السباع فیہ والعاشرۃ ولد نبینا محمد صلی الله  
علیہ وسلم۔

**فصل** : واختلفوا فی ای یوم هو من المحرم

فقال اکثرهم الیوم العاشر من المحرم وهو

المعجم لما تقدم وقال بعضهم هو الحادی

عشر منه ونقل عن عائشة رضی الله عنها هو

التاسع منه وعن الحکیم بن الاعرج انه سأل

ابن عباس رضی الله عنهما عن ائمی یوم یصام

عاشوراء فقال اذا رأیت هلال المحرم

فاعدد ثم اصبح صائما من تاسعه قلت

كذلك كان یومہ محمد صلی الله علیہ

وسلم قال نعم و فی حدیث آخر عن ابن عباس

رضی الله عنهما ایضا انه كان یقول صام رسول

الله صلی الله علیہ وسلم یوم عاشوراء و امر

بصیامه قالوا یا رسول الله تعظمه الیہود والنصارى

فقال رسول الله صلی الله علیہ وسلم اذا كان

العام المقبل ان شاء الله تعالى فمنا یوم التاسع

فلم یات العام المقبل حتی توفی رسول الله صلی الله

علیہ وسلم قال ابن عباس رضی الله عنهما فی

لفظ آخر قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم

لئن عشت الی قابل ان شاء الله تعالى صیت

یوم التاسع مخافة ان یفرته یوم عاشوراء۔

**فصل** : وندکر من فضائل یوم عاشوراء

ان الحسین بن علی رضی الله تعالی عنهما قتل لیه

دسواں دن ہے اور یہی بات صحیح ہے اس سلسلہ میں ہم  
اوپر کافی روشنی ڈال آئے ہیں۔ بعض نے محرم کا گیارہواں  
دن بتایا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نواں دن  
بتایا ہے۔

حکیم بن اعرج سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت  
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عاشوراء کا کس دن  
روزہ رکھا جائے؟ فرمایا کہ جب تم محرم کا ہلال دیکھو  
تو تو گنوادرنویں تاریخ کو روزہ رکھو میں نے پوچھا کیا نبی  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح روزہ رکھا کرتے  
تھے؟ فرمایا: ہاں۔

ایک دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے  
منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء  
کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا صحابہ  
نے کہا: یا رسول اللہ! یہودی اور عیسائی اس دن کو عظیم سمجھتے  
ہیں فرمایا اگلے سال انشاء اللہ نویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے  
اور دسویں تاریخ کا بھی تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو جائے  
لیکن ابھی اگلا سال آیا بھی نہ تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے  
سدا رہ گئے، دوسرے لفظ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ  
عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا  
اگر میں اگلے سال زندہ رہتا تو انشاء اللہ نویں تاریخ کا اس  
طرز سے کہ عاشوراء کا دن فوت نہ ہو جائے، روزہ رکھوں  
گا۔

★

عاشوراء کے دن کے فضائل | محرم کی دسویں تاریخ شہادت  
امام حسین کا واقعہ پیش آیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا بیان ہے

کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس حسینؑ تشریف لے آئے فرماتی ہیں میں دونوں کو دیکھنے لگی حسینؑ نبی صلعم کے سینہ مبارک پر کھینتے لگے رحمت عالم صلعم کے ہاتھ قدر سے مٹی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر جب حسینؑ چلے گئے تو میں نے آپ کے پاس جا کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آپ رو رہے تھے فرمایا وہ میرے سینہ پر کھیل رہے تھے اور میں خوش تھا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے وہ مٹی دی جس پر انہیں قتل کر دیا جائے گا اس پر میری آنکھیں ڈبڈبائیں۔

حسن بھری: سلیمان بن عبد الملک نے نبی صلعم کو خواب میں دیکھا کہ آپ سلیمان کو خوشخبری دے رہے ہیں اور ان سے محبت بھری باتیں فرما رہے ہیں صبح کو سلیمان نے حسن سے اپنا خواب بیان کیا۔ حسن بولے شاید تم نے اہل بیت سے کچھ سلوک کیا ہے؟ بولا ہاں میں نے یزید بن معاویہ کے خزانہ میں امام حسینؑ کا سر دیکھا اور اسے ریشم کے پانچ کپڑوں کا کفن دیا اور اپنے رقعہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس پر نماز پڑھی اور قبر میں دفن کر دیا۔ حسن نے کہا: اسی وجہ سے نبی صلعم آپ سے خوش ہیں یہ تعبیر سن کر سلیمان خوش ہوئے اور حسن بھری کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کے لئے تحائف کا حکم صادر فرمایا۔

حمزہ بن زبیر: میں نے رحمت عالم صلعم کو اور حضرت ابراہیمؑ کو خواب میں دیکھا کہ دونوں حسینؑ بن علیؑ کی قبر پر نماز پڑھ رہے ہیں۔

روى عن امر سلمة رضى الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلي اذ دخل عليه الحسين رضى الله عنه فطالعت عليهما من الباب واذا الحسين رضى الله عنه على صدر النبي صلى الله عليه وسلم يلعب وفي يده النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من طين ودموعه تجري فلما خرج الحسين رضى الله عنه دخلت فقلت يا بني انت وامي يا رسول الله طالعت عليك وفي يدك طينة وانت تبكي فقال صلى الله عليه وسلم لي لما فرحت به وهو على صدرى يلعب انا في جبرئيل عليه السلام وانا لى الطينة التي يقتل عليها فلذلك بكيت وروى عن الحسن البهرى رحمه الله انه قال ان سليمان بن عبد الملك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يبشرك ويلاطفه فلما اصبح سأل الحسن رضى الله عنه عن ذلك فقال له الحسن رضى الله عنه لعلك فعلت الى اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف فقال نعم وحدث رأس الحسين بن علي رضى الله عنه في خزانة يزيد بن معاوية فكسرتة خمسة من الديباج وصليت عليه مع جماعة من اصحابي وقبرته فقال له الحسن رحمه الله وامر له بالجواز وروى عن حمزة بن الزيات قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابراهما الخليل عليه السلام في المنام يعلمان علي قبر الحسين بن علي رضى الله عنهما واخبرنا



الولع عن والده باسناد عن ابی اسامة عن جعفر بن محمد رحمه الله قال هبط على قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما يوما صيب سبعون الف ملك يكون عليه الي يوم القيامة۔

**فصل** : وقد طعن قوم على من صام هذا اليوم العظيم وما ورد فيه من التعظيم وزعموا انه لا يجوز صيامه لانه قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه وقال ينبغي ان تكون المصيبة فيه عامة لجميع الناس لفقده فيه وانتم تتخذونه يوم فرح وسرور وقاصرون فيه بالتوسعة على العيال والنفقة الكثيرة والصدقة على الفقراء والضعفاء والمساكين وليس هذا من حق الحسين رضي الله عنه على جماعة المسلمين وهذا القائل فخطيء ومن هبه قبيح فاسد لان الله تعالى اختار بسبط نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الشهادة في اشرف الايام واعظمها واجلها وارفعها عند العزيز لا يبدل لك رفعة في درجاته وكراماته مضافة الى كرامته وبلغه منازل الخلفاء الراشدين والشهداء والشهادة ولو جاز ان يتخذ يوم موته يوم مصيبة لكان يوم الاثنين اولى بذلك اختير من الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيه وكذا لك ابو بكر الصديق رضي الله عنه قبض فيه وهو ما روى هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال ابو بكر رضي الله عنه اي يوم توفي النبي

میں الولع نے اپنے والد سے ان کی اسناد سے ابوالسامہ سے انہوں نے جعفر سے انہوں نے محمد سے خبر دی کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے ہیں اس دن آپ کی قبر پر ستر ہزار فرشتے اترے جو قیامت تک آپ پر روتے رہیں گے۔

**عاشوراء کے دن روزے پر اعتراض** : کچھ لوگ اس عظیم دن کے روزے پر اور اس کی عظمت و اہمیت پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس دن امام حسین کو شہید کیا گیا تھا لہذا یہ دن عوام کے اظہار حسرت و افسوس کا ہے نہ کہ روزہ رکھ کر خوشی منانے کا، تم کہتے ہو یہ دن مسرت و فرح کا ہے اور اہل و عیال پر فراخی کہنے کا اور خوب خرچ کرنے کا حکم کرتے ہو اور کہتے ہو کہ آج فقراء، مساکین اور کمزوروں پر خوب خرچ کیا جائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا جائے حالانکہ مسلمانوں پر امام حسین کے حق میں سے یہ باتیں نہیں کیونکہ امام حسین سے اپنے اقارب کے سب کے پیار سے دنیا سے سدھار جن لوگوں کا ایسا خیال ہے وہ غلطی پر ہیں اور ان کی رائے قابل مذمت و غلط ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشرف و معظم اور جلیل القدر و رفیع المرتبت دن میں شہادت کے لئے چنا تا کہ آپ کے درجات و مراتب بلند ترین ہوں اور ان میں اور چار چاند لگ جائیں اور انہیں خلفائے راشدین کے جن کو شہادت کے درجات پر فائز کر کے کہا گیا تھا۔ منازل تک پہنچا دیا جائے۔ اگر امام حسین کے موت کے دن کو مصیبت و ماتم کا دن مان لیا جائے تو پھر کا دن سب سے بڑا ماتم کا دن ماننا بڑی بیجا کیونکہ اس دن اللہ کے آخری پیغمبر دنیا سے سدھارے۔ اسی طرح پیر کے دن حضرت ابو بکر بھی دنیا سے رخصت ہوئے چنانچہ ہشام بن عروہ حضرت عائشہ

صلی اللہ علیہ وسلم فیہ قلت یوم الاثنين قال  
 رضی اللہ عنہ انی ارجوان اموت فیہ فبات رضی  
 اللہ عنہ فیہ وفتقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 وفتقد ابی بکر رضی اللہ عنہ اعظم من فقد غیر  
 ہما وقد اتفق الناس علی شرف یوم الاثنين  
 وفضیلة صومہ وانه تعرض فیہ الاعمال وفی  
 یوم الخمیس ترفع اعمال العباد وکذلك یوم  
 عاشوراء لا یتخذ یوم مصیبة ولا یتخذ یوم  
 عاشوراء یوم مصیبة لیس باولی من ان یتخذ  
 یوم فرح و سرور لما قدمنا ذکرہ وفضلہ من انہ  
 نبی اللہ تعالیٰ فیہ انبیاء لا من اعدائہم واهلک  
 فیہ اعداءہم الکفار من فرعون وقومہ وغیر  
 ہم وانه تعالیٰ خلق السموات والارض والاشیاء  
 الشریفیة فیہ و آدم علیہ السلام وغیر ذلک وما  
 اعد اللہ تعالیٰ لمن صامہ من الثواب الجزیل  
 والعطاء الوافر وتکفیر الذنوب وتنجیص الیثا  
 نصار عاشوراء بمثابة بقیة الایام الشریفیة  
 کالعیدین والجمعة وعرفة وغیرہا ثم لوجاز  
 ان یتخذ هذا الیوم مصیبة لا یتخذ الصحابة  
 والتابعون رضی اللہ عنہم لانہم اقرب الیہ  
 منا واخص بہ وقد ورد عنہم الخت علی الترتیب  
 علی العیال فیہ والصوم فیہ من ذلک ما روی  
 عن الحسن رحمہ اللہ انه قال صوم یوم عاشوراء  
 فریضة وکان علی رضی اللہ عنہ یا مر بصیامہ  
 وقالت لہم عائشة رضی اللہ عنہا من یأمرکم

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی تھیں کہ ابو بکرؓ نے مجھ سے پوچھا کہ  
 کس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تھے؟ میں نے کہا پیر کے دن،  
 فرمایا امید ہے کہ میں بھی پیر ہی کے دن داعی اجل کو لبیک کہوں گا۔  
 آپ نے پیر ہی کے دن وفات پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلیفہ  
 کا پیر کے دن فوت ہونا اور رگم ہونا مسلمانوں کے لئے سب سے  
 بڑا سانحہ ہے اتنا بڑا المیہ امام حسینؓ کی شہادت بھی نہیں حالانکہ  
 پیر کے دن روزہ رکھنے پر اور اس کی فضیلت پر علماء کا اختلاف ہے  
 اور اس پر بھی کہ پیر کے دن اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور جمعرات کے  
 دن چڑھائے جاتے ہیں اسی طرح عاشوراء کے دن کو مصیبت کا  
 دن نہیں مانا جائے گا جب یہ فرحت و مسرت کا دن ہے کہ کسی کی  
 شہادت کی بنا پر اس دن کی نزع و مسرت پر اور فضیلت پر آہنج  
 نہیں آتی کیونکہ مصیبت کا دن تسلیم کرنا خوشی کا دن تسلیم کرنے  
 سے اولیٰ نہیں کیونکہ اگر ہم اس دن کی فضیلت بیان کر آئے ہیں  
 کہ اس دن حق تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ان کے دشمنوں سے نجات دی  
 اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا جیسے فرعون وغیرہ کو اور اس دن  
 حق تعالیٰ نے آسمان وزمین اور شریف ترین چیزیں پیدا کیں اور  
 آدم وغیرہ کو بھی پیدا کیا اور اس دن روزہ رکھنے والوں کے لئے  
 حق تعالیٰ نے عطا کئے بے عدیل اور ثواب جزیل تیار کر رکھا ہے  
 اور اس روزے سے حق تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور حیرانم کا  
 قلع قمع کر دیتا ہے۔ بنا بریں عاشوراء، بئزادہ دیگر شریف و افضل  
 ایام کے ہے یعنی عید، اتر عید جمعہ اور عرفہ وغیرہ کے قائم مقام ہے  
 علاوہ ازیں اگر اس دن کو مصیبت کا دن قرار دینا صحیح ہوتا  
 تو صحابہ اور تابعین اسے مصیبت کا دن قرار دیتے کیونکہ وہ لوگ  
 یہ نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھے اور آپ کی مصیبت  
 کا فیض یافتہ تھے حالانکہ اس کے برعکس ان سے منقول یہ ہے کہ اس



بصوم یوم عاشوراء قالوا علی رضی اللہ عنہ قال  
انہ اعلم من بقی بالسنة وروی عن علی رضی اللہ  
عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
من احیا لیلۃ عاشوراء احیاہ اللہ تعالیٰ ما شاء  
فدل علی بطلان ما ذهب الیہ القائل واللہ  
تعالیٰ اعلم۔

نئے شب عاشوراء جاگ کر عبادت میں گزارنی حق تعالیٰ جب تک چاہے گا اسے زندہ رکھے گا۔ لہذا ان لوگوں کا خیال جو اس دن کو مسیت  
کا دن بنانا چاہتے ہیں غلط ہے۔

## گیارہویں مجلس

جمعہ کی فضیلت | حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے  
دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو ذکر اللہ کی طرف چل کر آؤ اور  
کاروبار چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں باعث خیر و فلاح ہے بشرطیکہ  
تم کو اس کے ثواب پر یقین ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر  
میں، یعنی اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے  
اور اسے دل سے مان لیا ہے جب تم کو جمعہ کے دن اذان کے ذریعہ  
بلا یا جائے تو جمعہ کی نماز کے لئے چل کر جاؤ اور اذان کے بعد  
خرید و فروخت چھوڑ دو کیونکہ تمہارے لئے اس کسب و تجارت  
سے نماز بہتر ہے اگر تم دل سے اللہ پر یقین لے آئے ہو۔

اس حدیث کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے تین چیزوں  
سے مسلمانوں پر فخر کیا تھا کہ تم اللہ کے دوست اور اس کے پیارے  
ہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں  
اور ہمارے لئے ہفتہ کا دن مقرر ہے، تمہارا کوئی دین نہیں اس  
آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کی تردید فرمائی اور اپنے  
آخری محبوب نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اے یہودیوں

مجلس: فی فضائل یوم الجمعة قال اللہ تعالیٰ یا  
ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم  
الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذرُوا البیع ذلکم  
خیر لکم ان کنتم تعلمون قال عبد اللہ بن عباس  
رضی اللہ عنہما یا ایہا الذین آمنوا یعنی اقرؤا  
و صدقوا بوحدا نیۃ اللہ تعالیٰ اذا نودی للصلاة  
یعنی اذا دعیتم بالاذان یوم الجمعة فاسعوا  
الی ذکر اللہ یعنی فامشوا الی صلاة الجمعة وذرُوا  
البیع یعنی واترکوا البیع بعد النداء ذلکم یعنی  
الصلاة خیر لکم من الکسب والتجارة ان  
کنتم تعلمون یعنی تصدقون و سبب نزول ہذا  
الآیۃ ان الیہود اقتخروا علی المسلمین باشیاء  
ثلاثۃ احدھا قالوا نحن اولیاء اللہ و احباؤہ  
و انکم و الثانی لنا کتاب و لا لکم کتاب و الثالث  
لنا سبت و لا سبت لکم فرد اللہ علیہم و کذبہم

فی هذه الآية فقال لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء  
 للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقیں  
 لبقولکم نحن اولیاء اللہ من دونکم وانزل اللہ عزوجل  
 لقولہم انتم امیون لا کتاب لکم قوله جل و  
 علا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم  
 وذمہم فقال تعالیٰ مثل الذین حملوا التوراة  
 ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا  
 الآیة وانزل تبارک وتعالیٰ لبقولہم لنا سبت  
 ولا سبت لکم ویایہا الذین آمنوا اذا نودی  
 للصلاة من یوم الجمعة الی قوله تعالیٰ ذلکم  
 خیر لکم الآیة ثم قال عزوجل واذا راوا  
 تجارة اولعوا الفسوا الیہا الآیة وذلك ان  
 العیر اذا قدمت المدینة استقبلوها بالطبل  
 والتصفیق فیخرج الناس من المسجد فلما کان  
 ذات یوم جاءت العیر فخرجت الناس من  
 المسجد غیر اثنی عشر رجلا وامرأة ثم جاء  
 غیر اخری فخرجوا ایضا الا اثنی عشر رجلا و  
 امرأة ثمان وحیة بن خلیفة الکلبی من  
 بنی عامر بن عوف اقبل تجارة من الشام قبل  
 ان لیلم وکان یحمل معہ من التواع التجارة  
 وکان یتلقاہ اهل المدینة بالطبل والتصفیق  
 فوافق قدمہ یوم الجمعة والنبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم قائم علی المنبر یخطب فخرج الیہ الناس  
 فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا کم نقی فی

اگر تمہارا یہ زعم ہے کہ دوسرے لوگوں کے علاوہ تم اللہ کے دست  
 ہو تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی خواہش کرو اور اس  
 قول کی تردید میں کہ تم اتمی ہو اور تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں فرمایا  
 اللہ ہی نے ان پر پڑھ لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا اور  
 یہودیوں کی مذمت فرمائی کہ ان کی مثال جن پر تورات لادھی گئی  
 انہوں نے اسے اٹھایا نہیں گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ  
 اٹھائے ہوئے ہے اور اس قول کی تردید میں کہ ہمارے لئے ہفتہ  
 تمہارے لئے نہیں اس آیت سے تردید کی کہ اسے ایمان والو!  
 جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی  
 طرف چل کر آؤ اور کاروبار چھوڑ دو یہ ذکر تمہارے لئے بہتر ہے  
 رآخر آیت تک آگے حتی تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ تجارت یا  
 لہو لعب دیکھتے ہیں تو ان کے پاس آکر جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کو  
 کھڑا ہوا چھوڑ آتے ہیں یعنی جب تجارتی قافلہ مدینہ منورہ میں  
 آتا ہے تو لوگ ڈھول اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اس کا استقبال کرتے  
 ہیں اور مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں چنانچہ ایک دن یہی واقعہ پیش آیا  
 کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران ایک تجارتی قافلہ آگیا اور تمام لوگ مسجد  
 سے نکل کر قافلہ کے خیر مقدم کے لئے چلے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس  
 صرف بارہ مرد و عورت رہ گئے پھر دوسری بار یہی واقعہ پیش آیا  
 اور آپ کے پاس صرف بارہ اشخاص رہ گئے۔

پھر اسلام لانے سے قبل وحیہ بن خلیفہ کلبی عامری شام سے  
 مال تجارت لے کر آتا ہے یہ ضرورت کی عام چیزوں کا تاجر تھا۔  
 اور اسکے پاس گونا گوں سامان تجارت تھا مدینہ والے اس کا خیر مقدم  
 اور سٹیپیاں بجا بجا کر کیا کرتے تھے اتفاق سے جمعہ کے دن یہ مدینہ میں آیا  
 اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے  
 تمام سامعین وحیہ کی طرف چلے گئے آپ نے فرمایا دیکھو کتنے آدمی باقی



المسجد فقالوا اثنا عشر رجلا وامر آت فقال النبي  
صلى الله عليه وسلم لولا هولاء لقد سومت عليهم  
الحجارة يعني علم على الحجارة لهم فانزل الله عز وجل  
واذا رادوا تجارتهم اولهوا بالقضوا اليها وتركوك  
قائما على المنبر قل ما عند الله خير من اللغو يعني  
الطبل والتصفيق ومن التجارة التي جاء بها دحية  
والله خير الرازقين من غيره وقيل من الاثني  
عشر رجلا الذين بقوا في المسجد اليوم وعمر  
رضي الله تعالى عنهما۔

**فصل** : في فضائل يوم الجمعة من طريق  
الآثار من ذلك ما روى العلاء بن عبد الرحمن  
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي  
صلى الله عليه وسلم قال لم تطلع الشمس ولم  
تغرب على يوم افضل من يوم الجمعة وما من دابة  
الا وهي تفرع من يوم الجمعة الا الثقلان الجن  
والانس وعلى كل باب من ابواب المسجد ملكا  
يكتبان الناس الا اول فالاول كرجل قرب  
بدنة وكرجل قرب بقرة وكرجل قرب  
شاة وكرجل قرب دجاجة وكرجل قرب  
بيضة فاذا قام الامام طوت الصحف وعن  
ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن  
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خير يوم طلعت  
فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله تعالى آدم  
وفيه ادخله الجنة وفيه اهنط منها وفيه  
تقرم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن

رہ گئے لوگوں نے کہا مرد و عورت سب ملا کر بارہ باقی ہیں آپ نے  
فرمایا اگر یہ بھی یہاں موجود نہ رہتے تو ان پر ان کے نام زرد  
پتھر برستے اور ہلاک ہو جاتے پھر آیت و اذارا و تجارت الخ  
انہی اس آیت میں لہو سے مراد ڈھول اور سیٹی ہے اور  
تجارت سے وہ مال تجارت مراد ہے جسے وجہ لے کر  
آیا تھا۔ پھر فرمایا کہ غیر اللہ رزق نہیں دیتا بلکہ روزی را  
اللہ ہی ہے۔ کہتے ہیں ان بارہ باقی رہنے والوں میں حضرت ابو بکر  
و عمرؓ بھی تھے حق تعالیٰ ان سے راضی ہو۔

★

دوسرے اعتبار سے جمعہ کی فضیلت | علاء بن عبد الرحمن

اپنے والد عبد الرحمن سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے بیان کرتے ہیں  
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن جس میں سورج طلوع و غروب  
ہوتا ہے جمعہ کے دن سے افضل نہیں اور بجز انسانوں اور جنوں کے  
اللہ کی تمام مخلوق جمعہ کے دن و ہشت زدہ رہتی ہے اور مسجد کے  
دروازے پر دو فرشتے کھڑے ہوئے آبیواہوں کے ترتیب سے  
نام لکھتے رہتے ہیں سب سے پہلے آبیواہوں کو ایک ازٹ کی قربانی  
کا دوسری ساعت میں آنے والوں کو بیل کی قربانی کا تیسری ساعت  
میں آبیواہوں کو بکری کی قربانی کا چوتھی ساعت میں آنے والوں  
کو مرغی کا اور پانچویں ساعت میں آبیواہوں کو انڈے کا ثواب  
میتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے  
اپنے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں رادر لکھنا بند کر کے خطبہ سننے میں  
مشغول ہو جاتے ہیں۔ البوسلہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ نبی اکرم صلی  
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تمام دنوں میں جن  
میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے  
اسی دن حضرت آدمؑ کو پیدا کیا، اسی دن آپ کو جنت میں

يسأل الله تعالى فيها شيئاً الا اعطاه اياه قال  
ابو سلمة قال عبد الله بن سلام رضى الله عنه  
قد عرفت تلك الساعة هي آخر ساعة من النهار  
وهي الساعة التي خلق فيها آدم عليه السلام  
قال الله عز وجل خلق الانسان من عجل وروى  
عبد الله بن منذر قال قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم ليوم الجمعة سيد الايام واعظمها عند الله  
وهو اعظم عند الله تعالى من يوم الفطر وفيه  
خمس خلال فيه خلق الله تعالى آدم عليه السلام  
وفيه اتهم بطا الى الارض وفيه توفى وفيه ساعة  
لا يسأل العبد ربه فيها شيئاً الا اعطاه اياه  
ما لم يسأل حراماً وفيه تقوم الساعة وما من  
ملك مقرب عند ربه عز وجل الا وهو يفرغ  
من يوم الجمعة والاسباء ولا ارض الا وهي  
تشفق من يوم الجمعة وعن ابى هريرة رضى الله  
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه  
خلق آدم عليه السلام وفيه ادخل الجنة وفيه  
اخرج منها وفيه تقوم الساعة وعن ابى هريرة  
رضى الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم  
انه قال اليوم شاهد يوم الجمعة والمشهود  
يومعرفة والموعود يوم القيامة ما طلعت شمس  
ولا غربت على يوم افضل من يوم الجمعة فيه  
ساعة لا يوافقها عبد مر من يسأل الله تعالى فيها  
خير الا اعطاه او يستعبد من شر الا يعيد

داخل کیا، اسی دن آپ کو جنت سے اتارا گیا، اسی دن قیامت  
آئے گی اسی دن میں ایک ایسی ساعت کہ اگر اتفاق سے اسے کوئی مومن  
پالے اور اس میں اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کو ضرور  
دیتا ہے۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن سلام فرمایا کرتے تھے کہ  
وہ ساعت مجھے معلوم ہے یہ دن کی سب سے بھلی ساعت ہے اس ساعت  
میں حضرت آدم پیدا ہوئے حق تعالیٰ نے فرمایا: انسان جلدی سے  
پیدا کیا گیا۔ عبد المنذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا  
کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ کے نزدیک سب دنوں سے  
عظیم ہے اور یہ دن اللہ کے نزدیک عید کے دن سے بھی زیادہ عظیم  
ہے اس کی پانچ خصوصیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت  
آدم کو پیدا کیا اسی دن آپ زمین پر اتارے گئے، اسی دن آپ  
فوت ہوئے، اس میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو بندہ اس ساعت میں  
اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اسے عطا فرماتا ہے شکر  
حرام کا سوال نہ ہو، اسی دن قیامت آئیگی اور رب کے پاس کوئی  
ایسا مقرب فرشتہ نہیں جو جمعہ کے دن سے وشت زدہ نہ ہو اور  
زمین و آسمان سب جمعہ کے دن سے خوفزدہ رہتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ نبی صلعم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا  
دنوں میں سب سے بہتر دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن  
اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل کئے گئے  
اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔  
حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ شاہ جمعہ کا  
مشہور عرفہ کا اور موعود قیامت کا دن ہے کسی ایسے دن پر سورج  
طلوع و غروب نہیں ہوا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو یعنی جب جمعہ کا  
دن تمام دنوں سے افضل ہے اس میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر  
اسے کوئی مومن بندہ پالے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی مراد مانگے



اخبرنا ابو نصر عن والده باسنادہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال اذا كان يوم الجمعة خرجت الشياطين يزفون الناس الى اسواقهم ومعهم الرايات وتخرج الملائكة على ابواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه حتى يخرج الامام فمن دنا من الامام فنصت واستمع ولم يبلغ كان له كفلان من الاجر ومن نأى عنه فاستمع ونصت ولم يبلغ كان له كفل من الاجر ومن دنا من الامام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان له كفلان من الوزر ومن نأى عنه فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جبعة له ثم قال علی رضی اللہ عنہ هكذا سمعت من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وعن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جداه رضی اللہ عنہ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقف الملائكة على ابواب المساجد يوم الجمعة يكتبون محبي الناس حتى يخرج الامام فاذا خرج الامام طوت الصحف ورفعت الاقلام قال فتقول الملائكة بعضهم لبعض ما حبس فلانا وما حبس فلانا قال فتقول الملائكة بعضهم لبعض اللهم ان كان

تو حق تعالیٰ اس کی مراد مزدور بر لائے ہیں یا کسی چیز سے پناہ مانگے تو حق تعالیٰ اسے مزدور پناہ دے دیتے ہیں۔ یہیں ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن شیطان لوگوں کے پاس بازاروں میں نکل کر آتے ہیں اور مسجد سے لیکر تمام بازار میں پھیل جاتے ہیں اور فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر آنے والوں کو ترتیب وار لکھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں یہاں تک کہ امام منبر پر آئے پھر جو امام کے قریب آکر بیٹھے اور خاموش رہ کر غور سے خطبہ سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کے لئے دہرہ ثواب ہے اور جو امام سے دور رہے اور لغو کام نہ کرے اور خاموش ہو کر خطبہ سنے اس کے لئے اکرا ثواب ہے اور جو امام سے دور رہ کر لغو کرے اور نہ خاموش رہے اور نہ خطبہ سنے اس پر ایک حصہ گناہ ہے اگر کسی نے دوسرے سے کہا خاموش رہ اس نے کلام کیا لہذا اس کا جمعہ نہیں ہوا یعنی اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو کسی کو یہ کہو کہ خاموش رہ تو تم لغو کے ترکب ہو گے۔ عمرو بن شعیب از ابیہ از جدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کے آنے کو ترتیب سے لکھتے ہیں جب تک امام منبر پر نہیں آتا پھر جب امام منبر پر آجاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور قلم اٹھائے جاتے ہیں۔ فرمایا پھر فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں فلاں فلاں کو کس چیز نے روک لیا کہ وہ نماز میں نہیں آیا، فرمایا پھر فرشتے بعض بعض سے کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما اور اگر بھٹکا ہوا ہے تو صحیح

مریفا فاشفہ وان کان مالا فاھدہ وان کان  
غائبا فاعنہ وقال جعفر حدیثا ثابت قال بلغنا  
ان تعالی ملائکة معهم الواح من فضة  
واقلام من ذهب یکتبون من صلی لیلۃ الجعۃ  
ویوم الجعۃ فی جماعة اخبرنا الشیخ البرنصر عن  
والدہ باسنادہ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد  
رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم قال من کان یوم من یات اللہ والیوم الآخر  
فعلیہ الجعۃ فی یوم الجعۃ الامریضا و مسافرا  
او امرأۃ او صبیا او مملوکا ومن استغنی عنہا بلہو  
او تجارۃ استغنی اللہ تعالی عنہ واللہ غنی حمید  
وعن ابی الجعد الظہیری عن النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم انه قال من ترک الجعۃ ثلاثا تمنا و بنا  
بہا طبع اللہ تعالی علی قلبہ واخبرنا الشیخ البر  
نصر عن والدہ باسنادہ عن سعید بن المسیب عن جابر  
بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال سعت رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی منبرہ یا ایہا الناس  
تولوا الی اللہ تعالی قبل ان تموتوا وبادروا بال  
الصالحۃ قبل ان تشغلا و صلوا الذمی بینکم و بین  
ربکم بکثرۃ ذکرکم لہ تسعدوا و اکثروا من  
السدۃ فی السر و العلانیۃ توجروا و تحمدوا  
و ترزقوا و اعلموا ان اللہ تعالی قد فرغ من علیکم  
الجعۃ فریضۃ مکتوبۃ فی مقامی ہذا فی شہری  
ہذا فی عامی ہذا الی یوم القیامۃ من وجد  
الیہا سبیلک و ترکھا فی حیاتی او بعدی جعودا

راہ پرے آ اور اگر غائب ہے تو اس کی اعانت فرما۔ جعفر کہتے ہیں ہم  
سے ثابت ہے بیان کیا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ حق تعالیٰ کے کچھ بے فریب  
ہیں جن کے پاس چاندی کی تختیاں ہیں اور سونے کے کلمے ہیں اور انہیں  
لکھ لیتے ہیں جو جمعہ کی شب میں نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن جماعت  
سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں شیخ البرنصر نے اپنے والد سے ان کی سند  
سے ابو الزبیر سے خبر دی وہ جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں  
کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے  
اس پر جمعہ کے دن جمعہ واجب ہے الا یہ کہ وہ بیمار ہو یا مسافر  
ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا غلام ہو اور جو جمعہ کی نماز سے  
لہو و لعب یا کاروبار کی وجہ سے غافل رہا حق تعالیٰ کو اس کی  
پر وہ نہیں اللہ تو بے نیاز و محمود ہے۔ ابو الجعد ظہیری کا بیان  
ہے کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ جس نے سستی سے نہ ہو لی سمجھ کہ  
تین جمعہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مرگ لگا دیتے ہیں۔  
ہمیں شیخ البرنصر نے اپنے والد سے ان کی سند سے سعید بن مسیب  
سے خبر دی وہ جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں جابر فرماتے  
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلعم سے سنا کہ آپ اپنے منبر پر  
فرماتے تھے لوگو! مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ  
کر لو اور مشغول ہونے سے قبل نیک عملوں میں جلدی کرو اور  
اپنے اور اپنے رب کے درمیان کثرت ذکر اللہ سے رابطہ قائم  
رکھو تم کو سعادت نصیب ہوگی اور ظاہر کر کے اور چھپا کر خود  
صدقہ کر دو تم کو ثواب ملے گا لوگ تمہاری تعریف کریں گے اور تم کو  
رزق دی جائے گی دیکھو حق تعالیٰ نے تم پر جمعہ فرض فرمایا  
ہے جو اس جگہ اس مہینہ اور اس سال میں قیامت تک ان پر  
لکھ دیا گیا ہے جو اس کی طرف راہ پائیں پھر جو جمعہ کی نماز میں  
زندگی میں پامیرے بعد اس کا انکار کر کے یا اسے ہلکا سمجھ کر چھوڑ



دے اور امام ظالم یا عادل بھی موجود ہو تو اللہ اس کی پریشانیوں  
 دور نہ فرمائے اور نہ اس کے کسی کام میں برکت عطا فرمائے کان کول  
 کر سن لو اس کی نماز نہیں نہ اس کا وضو ہے سن لو نہ اس کی زکوٰۃ  
 ہے اور سنو نہ اس کا حج ہے اور سنو نہ اس کے لئے برکت ہے جب  
 تک وہ توبہ نہ کر لے پھر اگر توبہ کر لے تو حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول  
 فرمائیں گے سنو عورت مردوں کی امام نہ بنے نہ دیہاتی مساجر کا امام  
 بنے اور نہ فاجر و فاسق مومن کا امام بنے الا یہ کہ اس پر سلطان  
 جبر کرے اور وہ اس کی تلوار اور کوشے سے خوفزدہ ہو۔

ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے ان کی اسناد سے ثابت بنانی سے  
 خبر دی وہ طاؤس سے اور وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے  
 روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ  
 وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جل مجدہ قیامت کے دن دنوں کو  
 ان کی موجودہ ہیئت پر اٹھائے گا اور جمعہ کو اس حال میں اٹھائے  
 گا کہ وہ چمکتا دکھتا ہوگا اور اپنے ماننے والوں کو جگمگاتا ہوگا  
 اور اس کے ماننے والے اسے گھیرے ہوئے ہونگے جیسے دولہن بنا  
 سوار کر دو لہا کے پاس جو اس کا پیارا ہوتا ہے ابھی جاتی ہے  
 جمعہ ان کو روشنی بخشنے گا اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے ان کے  
 رنگ برف کی طرح سفید ہونگے اور ان سے ششک کی لپٹیں پھوٹ  
 رہی ہونگی جیسے کافور کے پہاڑوں میں سے گزر رہے ہیں اور  
 انہیں جن اور انسان دیکھیں گے اور حیرت و استعجاب کی وجہ سے  
 ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی حتیٰ کہ وہ اس شان سے جنت  
 میں داخل ہو جائیں گے اور ان میں بجز ان موزوں کے جو ثواب  
 کی نیت سے اذان دیا کرتے تھے دوسرے حضرات شامل نہ ہونگے  
 ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے ان کی اسناد سے ثابت بنانی سے  
 خبر دی وہ انس بن مالک سے اور وہ نبی صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ

بعار استغفانا بھا ولہ امام جائر عادل فلا  
 جمع اللہ لہ شملہ ولا باریک لہ فی امرہ الا فلا  
 صلاۃ لہ الا ولا وضوء لہ الا ولا زکاۃ لہ  
 الا ولا حج لہ الا ولا برکۃ لہ حتی یتوب فان  
 تاب تاب اللہ علیہ الا ولا تو من امرأۃ رجلا  
 ولا یومن اعرابی مهاجرا الا ولا یومن فاجر مؤمنا  
 الا ان یقہرہ سلطان یخاف سیفہ وسوطہ و  
 اخبرنا ابو نصر عن والدہ باسنادہ عن ثابت البنانی  
 عن طاؤس عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ  
 قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث  
 الیام یوم القیامۃ علی ہیئتہا ویبعث الجبۃ و  
 ہی زاہرۃ منیرۃ اہلہا یحفون بہا کالعروس  
 تہدی الی کریمہا تفیء لہم یشرون فی منوشہا  
 الواتہم کالتیم وریحہم کالسنک یخوضون فی  
 جبال الکافور وینظر الیہم الثقلان ما یظرفون  
 نعجیا حتی یدخلوا الجنة لا یخالطہم احد الا  
 المؤمنون المحسنون و اخبرنا ابو نصر عن والدہ  
 باسنادہ عن ثابت البنانی عن انس ابن مالک رضی  
 اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
 ان اللہ تعالیٰ ستائۃ الف عتیق من النار فی کل  
 یوم ولیلۃ الجمعۃ ولیوم الجمعۃ اربع وعشرون  
 ساعۃ فی کل ساعۃ ستائۃ الف عتیق من النار  
 کلہم قد استوجبوا النار و فی لفظ آخر عن ثابت  
 عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم قال ان اللہ فی کل ساعۃ من ساعات

الدنيا ستماية الف عتيق من النار يعققتهم كلهم  
 قد استوجبوا النار يوم القيامة وفي يوم الجمعة  
 وليلة الجمعة اربع وعشرون ساعة ليس فيها  
 ساعة الا والله عز وجل فيها ستماية الف عتيق  
 يعققتهم من النار كلهم قد استوجبوا النار وعن  
 عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي الدرداء رضی اللہ  
 عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من  
 صلی يوم الجمعة في جماعة كتبت له حجة  
 متقبلة وان صلی العصر كانت له عبرة وان تمسی  
 في مكانه لم یسأل اللہ تعالیٰ شیئا الا اعطاه  
 عن ابي امامة الباهلی رضی اللہ عنہ قال قال  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام يوم  
 الجمعة و صلی مع الامام وشهد جنازة وتصدق  
 بقصدقة وعاد مریفا وشهد نکاحا وحیت  
 له الجنة واخبرنا ابو نصر عن والده باسناد  
 عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضی اللہ  
 عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
 یحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها بلغوفذاک  
 خطه ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا اللہ  
 تعالیٰ فان شاء اعطاه وان شاء منعه ورجل  
 حضرها بانصات وسکوت ولم یخط رقبة  
 مسلم ولم یؤذ احدا فلهی كفارة الی الجمعة  
 التي تليها و زیادة ثلاثة ايام فان اللہ عز وجل  
 یقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وقد  
 ورد فی الحدیث عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال

آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ روزانہ ۶ لاکھ انسان آگ سے آزاد فرماتا ہے اور جمعہ کی ۲۴ ساعتیں ہیں اور اس کی ہر ساعت میں آگ سے چھ لاکھ وہ لوگ آزاد ہوتے ہیں جن پر آگ واجب تھی۔ اسی حدیث کے ایک لفظ میں ہے کہ حق تعالیٰ دنیا کی ساعتوں (دنوں) میں سے ہر ساعت میں ۶ لاکھ جہنمیوں کو جن پر تیا مرت کے دن آگ واجب ہو چکی تھی آزاد فرماتا ہے لیکن جمعہ کے ۲۴ گھنٹوں میں سے کوئی ایسا گھنٹہ نہیں جس میں ۶ لاکھ وہ لوگ آزاد نہ ہوتے ہوں جو آگ کے مستحق قرار پائے تھے۔

عبد الرحمن بن ابي ليلى، ابو الدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن جماعت سے جمعہ کی نماز پڑھی اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا اور اگر عصر کی نماز جماعت سے پڑھی تو عصر سے کا ثواب ملے گا اور اگر عصر کے بعد نماز پڑھے کہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تو حق تعالیٰ سے جو مانگے گا وہ اسے ضرور ملے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کا روزہ رکھے اور امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھے اور کسی کے جنازے میں شریک ہو اور صدقہ کرے اور بیمار کی بیمار پرسی کرے اور مجلس نکاح میں شامل ہو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے عمرو بن شعيب از ابيه از جده از نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لئے تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک شخص لغو کے لئے آتا ہے لہذا لغو ہی اس کا حصہ ہے اور ایک دعا کے لئے آتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اگر اللہ چاہے تو دعا قبول فرمائے اور نہ چاہے تو قبول نہ فرمائے اور ایک شخص خاموش اور چپ رہنے کے لئے آتا ہے اور کسی مسلمان کی گردن سے نہیں پھلانگتا اور نہ کسی کو ایذا دیتا ہے اس کے لئے یہ جمعہ منقطع



ما من دابة الا وهى قائمة على ساق يوم الجمعة  
 مشفقة من قيام الساعة الا الشياطين وشقى بنى آدم  
 ويقال ان الطير والهوام تلقى بعضها بعضا في  
 يوم الجمعة فتقول سلام عليكم يوم صالح وفي  
 خبر آخر ان جهنم تسع في كل يوم قبل الزوال عند  
 استواء الشمس في كبد السماء فلا تصلوا في هذه  
 الساعة الا يوم الجمعة فانها صلاتها وان  
 جهنم لا تسع فيه۔

**فصل:** روى عن ابى صالح عن ابى هريرة  
 رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم  
 قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة  
 الاولى فكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة  
 الثانية فكانما قرب بقرة ومن راح في الساعة  
 الثالثة فكانما قرب كبشا قرن ومن راح  
 في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة ومن  
 راح في الساعة الخامسة فكانما قرب ببيعة  
 فاذا خرج الامام حضرت الملايكة يستمعون  
 المذكور فالساعة الاولى تكون بعد صلاة  
 الصبح والساعة الثانية تكون عند ارتفاع  
 الشمس والثالثة عند انبساطها وهى الضحى  
 الاعلى اذ ارمضت الاقدام بجرا الشمس  
 والساعة الرابعة تكون قبل الزوال والخامسة  
 اذ زالت الشمس اذ مع استوائها وعن نافع  
 بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم من اغتسل في كل يوم جمعة

جمعة تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور تین مزید کا بھی کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے  
 ہے کہ جو ایک نیکی کرے اس کے لئے دس نیکیاں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے  
 کہ سرور کونین صلعم نے فرمایا کہ ہر جانور جمعہ کے دن اپنے پیروں پر کھڑا ہوا  
 قیامت سے خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں اسی جمعہ کو قیامت نہ آجائے  
 ہاں شیطان اور بد بخت انسان خوفزدہ نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ  
 پرندے اور کپڑے کھڑے جمعہ کے دن آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں  
 اور کہتے ہیں سلام علیکم یہ دن اچھا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ زوال  
 سے قبل جب سورج وسط آسمان میں ٹھہرتا ہے تو روزانہ جہنم بھڑک  
 جاتی ہے بنا بریں اسوقت نماز پڑھو البتہ جمعہ کا دن سارے کا سارا نماز  
 کا دن ہے اور جمعہ کے دن زوال سے قبل جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔  
 جمعہ کی نماز کی تیاری | ابو صالح ابو ہریرہ سے اور وہ نبی اکرم صلعم  
 سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن نہائے پھر  
 پہلی ساعت میں نماز کے لئے چلا جائے۔ تو گویا اس نے ایک اونٹ کی  
 قربانی کی اور دوسری ساعت میں گیا گویا اس نے ایک گائے کی قربانی  
 کی اور تیسری ساعت میں گیا گویا اس نے ایک سیگنوں والے عینڈھے  
 کی قربانی کی اور چوتھے گھنٹہ میں گیا گویا اس نے اللہ کے تقرب کے  
 ایک سرخی اللہ کی راہ میں دی اور جو پانچویں ساعت میں گیا گویا اس  
 نے ایک انڈانی سبیل اللہ دیا پھر جب امام منبر پر آجاتا ہے تو فرشتے  
 دُعا سننے کے لئے موجود ہوتے ہیں۔ پہلی ساعت نماز صبح کے بعد  
 شروع ہو جاتی ہے دوسری ساعت سورج کے بند ہونے پر  
 شروع ہوتی ہے تیسری ساعت کافی دھوپ پھیلنے پر ہوتی ہے چوتھی  
 چاشت کنا جاتا ہے جب کہ سورج کی گرمی سے پر جلنے لگتے ہیں چوتھی  
 ساعت زوال سے پہلے ہوتی ہے اور پانچویں ساعت سورج کے  
 ٹھہرنے پر زوال کے بعد ہوتی ہے۔ نافع از ابن عمر: رسول اللہ  
 صلعم نے فرمایا کہ جو ہر جمعہ کے دن نہائے حق تعالیٰ جل مجدہ اسے گناہوں

اخرجہ اللہ تعالیٰ من ذلوبہ ثم قیل لہ استأنف  
العسل وروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه  
قال من غسل وغتسل وغدا وابتکر ورفا من الامام  
ولم یلج کان لہ بكل خطوة صیام سنة وقیامہا  
قوله صلی اللہ علیہ وسلم من غسل بالتشدید ای غسل  
اہلہ کنایۃ عن الجماع ولہذا ینتخب عند اهل العلم  
ایان الزوجۃ فی یوم الجمعة وكان بعض السلف یفعلہ  
اتباعا لہذا الحدیث وروی بالتخفیف ای غسل راسہ  
ثم غسل جسدہ وعن الحسن عن ابی ہریرۃ رضی اللہ  
عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا  
ہریرۃ اغتسل کل یوم جمعة ولو سار ان تشرى الماء  
بقوت یومک فغسل الجمعة مستحب عند اکثر الفقہاء  
وواجب عند داؤد فلا ینبغی ان یترکہ من یاتی الجمعة  
قال ووقتہ بعد طلوع الفجر الثانی والاولی لہ ان  
یقبہ بالروح الی المسجد لیخرج من الخلف وان  
یتحفظ من نقض الطہارتہ حتی یصلی الجمعة وینوی  
بالغسل خدمۃ مولاہ فان اصبح جنباً فتوضا وغتسل  
ناویا بہما الجنابۃ والجمعة جاز ویتنظف بأخذ  
شعرا وظفرہ وقطع راسہ ای الکریۃ ویلبس احن  
ثیابہ وافضلها البیاض ویبعم ویرتدی فانہ جاء  
فی الحدیث ان الملائکۃ تصلی علی اهل العمام  
یوم الجمعة ویتطیب باطیب طیبہ مما ینظر رجیہ  
ویحیی لونه ویخرج من بیئہ الی الجامع وعلیہ السکینۃ  
والوقار خاشعاً متواضعاً مخبتاً مقترباً مكثر  
من الدعاء والاستغفار والصلاۃ علی رسول اللہ

سے پاک و صاف فرمادے گا پھر اس سے کہا جائیگا (کہ آج سے) از سر نو عمل کر  
رحمت عالم صلعم نے فرمایا جس نے غسل کر لیا، غسل کیا اور صبح سویرے گیا  
اور امام کے قریب جا کر بیٹھا اور لغویات سے بچا رہا اسے ہر قدم کے عوض سال  
بھر کے روزوں کا اور ایک سال کی راتوں کی عبادتوں کا ثواب ملے گا۔  
جس نے غسل کر لیا یعنی جمعہ کی شب کو اپنی بیوی یا لڑکی سے ہمبستری کی  
تاکہ خود بھی غسل کرے اور اسے بھی غسل کر لے اسی لئے علماء کے نزدیک جمعہ  
کی شب کو بیوی کے ساتھ ہمبستری مستحب ہے۔ بعض سلف اس حدیث  
پر عمل کرتے ہوئے جمعہ کی شب کو ہمبستری کیا کرتے تھے یہ معنی غسل کی رو  
سے ہے لیکن اگر غسل تخفیف کے ساتھ ہو تو یہ معنی ہے کہ جس نے اپنا سر  
وہو یا پھر نہایا۔ حسن از ابو ہریرہ: رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ  
ہر جمعہ کو غسل کیا کہ اگر چہ جمعہ روزانہ غذا کی قیمت کے عوض پانی خریدنا پڑے  
بنا بریں اکثر علماء کے نزدیک جمعہ کا غسل مستحب ہے بلکہ داؤد ظاہری  
کے نزدیک تو واجب ہے اس لئے جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہو سیرا لوں کو  
غسل کا چھوڑنا لائق نہیں۔ فرمایا غسل کا وقت صبح صادق کے بعد سے  
شروع ہوتا ہے لیکن اولی یہ ہے کہ مسجد میں جانے سے پہلے غسل کیا جائے  
پھر بلا تاخیر کے مسجد میں چلا جانا چاہیے تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ اور  
پاکی کے تحفظ کا خیال رکھے جب تک جمعہ کی نماز نہ پڑھے اور غسل سے  
اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کرے اگر ناپاک ہو جائے اور وضو اور غسل  
دونوں کرے اور جنابت و جمعہ کی نیت کر لے تو جائز ہے اور رکھوں وغیرہ  
کے بال اور ناخن کاٹ کر مزید پاک و صاف ہو جائے اور جسم سے مکروہ بو  
دور کرے اور ہنتریں کپڑے پہنے، تمام کپڑوں میں انفل کپڑے سفید میں  
اور کپڑی باندھے اور چادر اوڑھے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ فرشتے  
جمعہ کے دن پگڑیوں والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں اور بہترین خوشبو  
لگائے جس کی خوشبو تو تیز ہو مگر رنگ نہ ہو اور پورے سکون و وقار سے  
نیچے نگاہ کئے ہوئے عاجزانہ خاموش اللہ تعالیٰ کا محتاج بن کر کثرت سے



صلى الله عليه وسلم ونبري بخروجه زيارته مولانا في  
 بينه والتقرب الى الله تعالى باداء فرائضه والعرف  
 في المسجد الى حين انقلابه الى بينه ونوي كف  
 جوارحه عن اللهو واللغو في الطريق والجامع  
 وليترك راحته يوم الجمعة وحفظ دنياه وليواصل  
 الاداء والعبادة فيه فيجعل اول نهاره الخ  
 انقضاء صلاة الجمعة للخدمة ثم يجعل وسط  
 النهار الى صلاة العصر لاستماع العلم ومجالس  
 الذكر وبعد صلاة العصر الى غروب الشمس للتسبيح  
 والاستغفار وفضل ما يشتغل به في هذا الوقت و  
 في كل يوم وليلة من الاذكار ان يقول لا اله الا  
 وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت  
 وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير  
 مائتي مرة سبحان الله العظيم ومحمد لا اله الا الله  
 سبحان الله الملك الحق المبين مائة مرة اللهم  
 صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي مائة  
 مرة واستغفر الله الخي التيرم واسالنه التوبة مائة  
 مرة وما شاء الله لا قوة الا بالله مائة مرة فذلك  
 سبع مائة مرة من الواجبات والاذكار وقد نقل عن بعض  
 الصحابة رضي الله عنهم انه كان يسبح في كل  
 يوم اثنى عشر الف تسبيحة وعن بعض التابعين انه  
 كان يسبح كل يوم ثلاثين الفا كل صلاة لله و  
 تسبيحه فاخذ ان تكون من المحرومين فلا  
 تذكر ولا تذكر والبر من اوليكون ذاكر الله  
 عز وجل ثم ذكر ان له قال الله تعالى فاذا ذكرني

و عابئس ما كفاها اور نبی اکرم صلعم پر درود پڑھنا ہوا جامع مسجد کی طرف  
 جائے اور جاتے ہوئے اپنے مالک کی اس کے گھر میں زیارت کی نیت کرے  
 اور فرانس سے اور مسجد میں ٹھہرنے سے آقا کا تقرب پیش نظر ہو اور اس  
 میں اور جامع مسجد میں اپنے اعضاء کو لود و لعب اور لغویات سے بچانے کا  
 عزم بالجزم کرے اور جمعہ کے دن اپنے آرام کو اور دنیوی لطف اندوز  
 کو چھوڑ دے اور درود و عبادت کا خاص طور سے اہتمام کرے اور صبح  
 کے جمعہ کی نماز تک عبادت میں سرگرم رہے پھر جمعہ کی نماز سے لے کر  
 عصر کی نماز تک وعظ و نصیحت سنتا رہے اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر  
 غروب آفتاب تک تسبیحات و استغفار میں لگا رہے نہ صرف اس وقت  
 بلکہ روزانہ ہر وقت افضل ذکر یہ ہے لا اله الا الله الخ یعنی اللہ تعالیٰ  
 کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی  
 کا ملک ہے اور اسی کے لئے بڑائیاں ہیں، وہی موت و حیات کا  
 مالک ہے اور وہ ازلی اور ابدی زندہ ہے جسے فنا نہیں، اسی کے ہاتھ  
 میں بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے و درود سوار غفلت  
 والا اللہ تعالیٰ بڑائیوں کے پاک ہے (ابا بار) اللہ کے سوا کوئی  
 سچا معبود نہیں وہی بادشاہ ہے وہی برحق ہے اور وہی روشن ہے  
 اے اللہ! محمد و صلعم پر اپنی رحمتیں بھیج جو تیرے بندے، تیرے رسول  
 اور تیرے نبی ہیں (سوار) میں اللہ سے جو زندہ ہے اور کائنات کو سنبھالتے  
 والا ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اس کے آگے توبہ کرتا ہوں  
 (سوار) ماشاء اللہ لا قوة الا بالله (سوار) لئلا یتفرق اذکار  
 سو بار ہوئے۔ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ ان اذکار کی روزانہ  
 بارہ ہزار تسبیحات کا ورد رکھا کرتے تھے اور بعض تابعین سے منقول ہے کہ  
 وہ روزانہ بیس ہزار بار پڑھا کرتے تھے الغرض ہر ایک کو اپنی نماز اور  
 تسبیح معلوم ہے لئلا ہوشیار ایسا نہ ہو کہ تم ان اذکار سے محروم ہو اور  
 اللہ کے ذکر سے اللہ سے رابطہ قائم نہ رکھو جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرو گے

اذکرھما قبل الصلاة فلا یستحب لہ حضور القاص  
لان القمص بدعة وکان ابن عمر وغیرہ من الصحابة  
رضی اللہ عنہم ینخرجون القصاص من الجامع اللہم الا  
ان ینکون عالما باللہ تعالیٰ من اهل المعرفة والیقین  
نیکون حضور مجلسہ افضل من صلواتہ لحدیث ابی ذر  
رضی اللہ عنہ حضور مجلس العلم افضل من صلاة الف  
رکعة واذا اتی الجامع لا یتخطی رقاب الناس الا  
ان ینکون اماما او مؤذنا لما روی عن النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم انه قال لرجل را لا یتخطی رقاب الناس  
یا فلان ما منعک ان تصلى معنا الجمعة فقال اولم  
ترى ینا رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم رأیتک  
تلبثت واذیت اى تأخرت من البکور واذیت  
بالحضور و فی حدیث آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
ما منعک الیوم ان تجتمع قال یا نبی اللہ قد جمعت  
قال صلی اللہ علیہ وسلم اولم اراک تتخطی رقاب  
الناس وقد قیل ان من فعل ذلك جعل حیر الیوم  
القیامة علی ظہر جہنم یتخطاہ الناس ولا تمرون بین  
یدی المصلی لان فی الخبر لان یقف احد کما راجعین  
سنة خیر له من ان ینیر بین یدی المصلی و فی لفظ آخر  
لان ینکون الرجل رما داتذروہ الریاح خیر له  
من ان ینیر بین یدی المصلی ولا یقیمن احد من منعه  
و مجلس مکانہ لما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
انه قال لا یقیمن احد کما اذا من مجلسہ ثم مجلس  
نیہ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا قام له  
الرجل من مجلسہ لم یجلس نیہ حتی یعود الیہ وان

تو اللہ تعالیٰ تم کو کیوں یاد کرے گا مومن شروع میں ذکر کرتا ہے پھر ذکر  
بھی بن جانا ہے یعنی حق تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا  
مجھے یاد کرو۔ میں تم کو یاد کروں گا۔

نماز جمعہ سے قبل قعدہ گو کہ مجلس میں بیٹھنا مستحب نہیں کیونکہ قعدہ گوئی بدعت  
ہے ابن عمر اور دیگر صحابہ قعدہ گو کہ مسجد سے نکال دیا کرتے تھے ہاں اگر وہ عظیم  
عالم ہا عمل ہو اور صاحب معرفت و یقین ہو تو ان کے وعظ میں حاضر ہونا  
نوافل سے بہتر ہے کیونکہ حدیث ابو ذر میں ہے کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہزار  
رکعت نماز سے بہتر ہے۔ جب جامع مسجد میں داخل ہو جاؤ تو لوگوں کی  
گردنوں سے پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ البتہ امام یا موزن کو  
اجازت ہے کیونکہ منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جسے آپ نے  
گردنوں سے پھلانگ کر آگے جانا ہوا دیکھا تھا فرمایا کہ اسے فلاں تو نے بہار  
ساتھ جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ بولا: یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے دیکھا  
فرمایا: ہاں میں نے تجھے دیکھا تھا تو اول وقت نہیں آیا تھا اور جب آیا  
تو حاضرین جماعت کو ایذا پہنچاتا ہوا آیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم  
صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تو نے جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا اے  
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو جمعہ پڑھا ہے فرمایا: کیا میں نے تجھے لوگوں  
کی گردنوں سے پھلانگتا ہوا نہیں دیکھا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایسا  
کیا وہ قیامت کے دن جہنم کی پشت پر پل بنایا جائے گا جس سے لوگ  
گزریں گے۔ خبردار نماز پڑھنے والے کے سامنے سے نہ گزرنا کیونکہ ایک  
حدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں  
سے کسی کا چالیس سال تک ٹھہرا رہنا نماز کی آگے سے گزرنے سے  
بہتر ہے۔ دوسرے لفظ میں ہے کہ انسان کا راکھ بن جانا جسے ہوا اڑا  
اڑائے پھر نماز کی آگے سے گزرنے سے بہتر ہے اور نہ کوئی کسی کو  
اس کی جگہ سے اٹھائے کہ اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمائی  
ہے کہ آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے



رأى بين يديه فرجة فهل يجوز له ان يتخطى رقاب  
الناس فيجلس فيها على روايتين عند امامنا احمد  
رحمه الله تعالى فان قدم صاحبنا له فجلس في موضعه  
فاذا جلس هناك جاز وان لبسط له شيئاً فهل  
لغيره ان يرفعه ويجلس هناك على وجهين عند  
امحاننا ويحتمل ان يبدل من الامام فينتصت الى  
الخطبة فلا يتكلم فان تكلم اثم في احدى الروايتين  
ولا يجرم الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد  
الفراغ منها۔

**فصل:** اخبرنا الشيخ ابو نصر عن والده قال ابانا  
الواقاسم عبد الله بن عمر الفقيه الشافعي رحمه الله  
تعالى قال حدثنا حبيب بن الحسن القزاز قال حدثنا  
جعفر بن محمد الخراساني قال حدثنا ابو الريب سليمان  
بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب  
عن عمر بن عبد الله مولى عفرة عن انس بن مالك  
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
اتاني جبريل عليه السلام في كفة كما لا يبضاء  
فيها نكتة سوداء فقلت ما هذا يا جبريل قال  
هذا الجمعة لكم فيها خير كثير قلت وما هذا  
النكتة السوداء قال هذا الساعة تقوم يوم  
الجمعة وهو سيد الايام ونحن نسيبه عندنا يوم  
المزيب قلت ولم تسهونه يوم المزيب يا جبريل  
قال ذلك لان ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا  
افيح من مسك ابيض فاذا كان يوم الجمعة من  
ايام الآخرة هبط الجبار تبارك وتعالى من عرشه

پھر اس جگہ خود بیٹھ جائے اگر حضرت ابن عمر کے لئے کوئی شخص اپنی جگہ سے  
اٹھ کھڑا ہوتا تو صاحب موصوف اس کی جگہ نہیں بیٹھا کرتے تھے حتیٰ کہ  
وہ خود ہی اپنی جگہ پر نہ بیٹھا جاتا اگر کوئی اگلی صف میں خالی جگہ دیکھ  
تو آیا لوگوں کی گردنوں سے پھلاگ کہ آگے بڑھنا اس کے لئے جائز  
ہے؟ اس سلسلہ میں ہمارے امام احمد سے دو روایتیں آتی ہیں اگر کوئی  
اپنے کسی رفیق کو آگے بڑھا دے اور وہ اسکی جگہ بیٹھ جائے تو اسے وہ  
بیٹھنا جائز ہے اگر کوئی اپنے لئے کچھ بچھا دے تو کیا اسے سمیٹ کر اس  
جگہ بیٹھنا جائز ہے؟ ہمارے اصحاب کے نزدیک اس میں بھی دو روایتیں  
ہیں جہاں تک ممکن ہو یہی کوشش کی جائے کہ امام کے قریب جگہ ملے اور  
خاموش رہ کر خطبہ سنا جائے اور بات نہ کی جائے اگر بات کرے گا تو وہ  
روایتوں میں سے ایک روایت کی رو سے گنہگار ہوگا۔ خطبہ شروع کرنے  
سے قبل اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد بات کرنا حرام نہیں۔

**جمعہ کے دن کے فضائل** | ہمیں شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے ان کی  
اسناد سے خبر دی، انہیں ابو القاسم عبد اللہ بن عمر فقیہ شافعی نے خبر دی  
ان سے حبیب بن حسن قزاز نے بیان کیا، ان سے جعفر بن محمد خراسانی  
بیان کیا، ان سے ابو الريب سليمان بن عبد الرحمن دمشقي نے بیان کیا اور  
ان سے محمد بن شعيب نے بیان کیا محمد بن عبد اللہ رعفرہ کے غلام سے  
وہ انس بن مالک سے اور وہ نبی صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا  
کہ میرے پاس حضرت جبریل تشریف لائے آپ کے دونوں ہاتھوں میں کوئی  
سفید چیز تھی اور اس میں ایک سیاہ نقطہ بھی تھا، میں نے پوچھا :-  
جبریل! یہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ جمعہ ہے اور اس میں تمہارے لئے بہت خیر  
وفلاح ہے، میں نے پوچھا: یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ قیامت ہے  
جو جمعہ کے دن آئے گی جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے ہم (فرشتے)  
اسے آپس میں یوم مزید کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا: اس لئے  
کہ آپ کے پروردگار نے جنت میں سفید مشک کا ایک وسیع میدان

الى كرسية الى ذلك الوادي وقد حفت الكرسي بنابر  
 من نور يجلس عليها النبيون وحفت المناير بكراسي  
 من ذهب مكللة بالجواهر يجلس عليها الصديقون  
 والشهداء ثم جاء اهل الغرف حتى حفوا بالكتيب  
 فيقول الله عز وجل انا الذي صدقتكم وعدى و  
 اتيت عليكم نعمتي واهللتكم كرامتي ثم يقول  
 فسورني فيقولون باجمعهم نسألك الرضا عنا فيقول  
 رضاي عنكم احلکم داری واني لكم كرامتي ثم  
 يقول سورني فيعيدون فيقولون ربنا انالك الرضا  
 ثم يقول سورني فيساوونك حتى تنتهي امية كل  
 عبد منهم ثم يقولون حسينا ربنا فيفتحم لهم بقدر  
 انصرا نهم من يوم الجمعة مالا عين رأت ولا  
 اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويرجع اهل  
 الغرف الى غرفهم وكل غرفة من لؤلؤة بيضاء  
 وياقوتة حمراء وزمردة خضراء ليس فيها  
 قصب ولا وسم مطردة فيها الا نهار متدليلة  
 فيها ثمارها وفيها ازواجها وخدمها ومسالكها  
 فليسوا الى شيء اخرج منهم الى يوم الجمعة ليز  
 داود افضل من ربهم ورضوانا واخبرنا ابو نصر  
 عن والده قال حدثنا محمد بن احمد الحافظ  
 قال حدثنا ابو علي محمد بن احمد الصراف قال  
 حدثنا ابو العباس عبد الله بن اسحق قال حدثنا  
 اسحق بن ابراهيم البوصالح الجزاري قال حدثنا  
 عمرو بن شمس عن سعد بن طريف الاسكافي  
 عن الاصمعي بن نباتة عن علي رضي الله عنه قال قال

ہے پھر جب آخرت کے دنوں میں جمعہ کا دن آتا ہے تو چار اور بلند و  
 برکت والا رب عرش رکھی سے اتر کر اس راہی میں آتا ہے اور جس رکھی  
 پر اجلاس فرماتا ہے وہ نورانی ممبروں سے گھری ہوئی ہوتی ہے جن پر  
 انبیائے کرام رونق افزہ ہوتے ہیں اور منبر سونے کی کرسیوں سے گھرے  
 ہوئے ہوتے ہیں جو جواہرات سے مرصع ہوتی ہیں اور ان پر صدیق و  
 شہداء جلوہ فرما ہوتے ہیں پھر بالا خانوں والے چاروں طرف ہوتے  
 ہیں اور رینت کے ٹیلوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر حق تعالیٰ جل مجدہ  
 فرماتا ہے کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور تم پر اپنی  
 نعمتیں مکمل فرمادیں اور تمہارے لئے اپنی بزرگی حلال کر دی پھر فرماتا  
 ہے کہ مجھ سے مانگو سب کے سب کہتے ہیں کہ ہماری یہی التجا ہے کہ آپ  
 ہم سے راضی ہو جائیں فرماتا ہے کہ میری رضا ہی نے تمہیں میرے گھر  
 میں اتارا ہے اور تمہاری بزرگی کا میں ضامن ہوں پھر فرماتا ہے کہ  
 مجھ سے مانگو لوگ پھر وہی التجا دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے  
 رب ہم آپکی رضا کے جو یاں ہیں پھر فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو بالآخر  
 لوگ اپنی اپنی مرادیں مانگتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے ہر بندے کی مراد  
 ختم ہو جاتی ہے پھر بندے کہتے ہیں بس بس ہمیں اپنا رب کافی ہے  
 پھر انکے لئے جمعہ کے دن بقدر زمانہ سے نارغ ہونے کے ایسی ایسی نعمتیں ملتی  
 ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور  
 آیا اور بالا خانوں والے اپنے اپنے بالا خانہ کی طرف بیعتیں لے کر  
 لوٹ جاتے ہیں اور ہر بالا خانہ سفید موتی کا، سرخ یا قوت کا اور  
 سبز زرد کا ہوتا ہے جس میں بال تک نہیں ہوتا اور نہ نکست اور لوٹ  
 پھوٹ ہوتی ہے کہ قابل مرمت ہو، ان میں نہریں جاری ہیں اور پھل  
 ٹکے ہوئے ہیں اور ان میں ان کی بیویاں، خدام اور رباؤں گاہیں  
 ہیں لہذا بالا خانوں والے جمعہ سے زیادہ کسی چیز کے مشتاق نہیں ہوتے  
 تاکہ اپنے پروردگار کے فضل و کرم میں مزید اضافہ کریں۔



رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة  
 هذا أمين الله جبريل عليه السلام الى المسجد  
 الحرام فركز لواءه فيه وغدا سائر الملائكة الى  
 المساجد التي يجتمع فيها فركزوا الرقيم <sup>تتم</sup> ورايا  
 بابواب المساجد ثم ينشرون قراطيس من نقبة  
 واقلاما من ذهب ثم يكتبون الاول فالاول  
 ممن بكر الى الجمعة فاذا دخل كل مسجد سبعون  
 ممن بكر الى المساجد طويت القراطيس وكان  
 اولئك السبعون الذين بكروا الى الجمعة كالذين  
 اختار موسى واختار موسى قومه سبعين رجلا  
 والذين اختارهم موسى من قومه كانوا انبياء  
 ثم يتخلل الملائكة الصفوف فيتفقرون الرجال  
 ويقول بعضهم لبعض ما فعل فلان فيقولون ما  
 فيقولون رحمہ اللہ تعالیٰ فانه كان صاحب  
 جمعة ويقولون ما فعل فلان فيقولون غائب  
 فيقولون حفظه الله فانه كان صاحب جمعة  
 فيقولون ما فعل فلان فيقولون مريض فيقولون  
 عافاه الله فانه كان صاحب جمعة۔

**فصل:** وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها  
 عبد يدعو الله تعالى الا استجيبت دعواته  
 اخبرنا ابو نصر عن والده باسناد لا عن محمد  
 بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله  
 عنه قال اتيت الطور فوجدت فيه كعبا فحدثته  
 عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وحدثني عن التوراة  
 قال فما اختلفنا في شيء حتى انتهينا الى حديث

ہیں ابو نصر اپنے والد سے اپنی اسناد سے خبر دی ان سے حافظ محمد بن احمد نے  
 بیان کیا ان سے ابو علی محمد بن احمد صوفی نے بیان کیا ان سے ابو العباس  
 عبد اللہ بن اصف نے بیان کیا ان سے ابو صالح اسحاق بن ابراہیم جزائری نے بیان  
 کیا ان سے عمر بن شمس نے بیان کیا وہ سعید بن طریق سے وہ اصبع بن بنات سے  
 سے اور وہ حضرت علی رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن حق تعالیٰ کے امین حضرت جبریل سجدہ  
 میں تشریف لاتے ہیں اور اس میں اپنا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور باقی تمام  
 فرشتے ان مسجدوں میں چلے جاتے ہیں جن میں جمعہ ہوتا ہے اور مسجدوں کے  
 دروازوں پر اپنے اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں پھر چاندی کے کاغذ پھیلا کر  
 سونے کے قلموں سے بالترتیب آنے والوں کو لکھتے ہیں پھر جب مسجد  
 میں صبح صبح آنے والے ستر آدمی لکھ لئے جاتے ہیں تو دفاتر لپیٹ لئے جاتے  
 ہیں اور اول وقت یہ ستر آدمی بسنے لے ان ستر لوگوں کے ہوتے ہیں جن  
 کو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے چن لیا تھا اور حضرت موسیٰ نے جن  
 ستر حضرات کو اپنی قوم سے چنا تھا وہ سب انبیاء تھے پھر فرشتے صفوں میں  
 گھس کر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر حاضر نہیں اور کچھ لوگوں کو گم پاتے ہیں اور  
 آپس میں پوچھتے ہیں کہ نہ معلوم فلاں فلاں کیوں نہیں آئے جاتے والے کتے ہیں فلاں  
 فوت ہو گیا فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے وہ صاحب جمعہ تھا  
 یعنی برابر جمعہ میں حاضر رہا کرتا تھا کسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ باہر گیا ہوا  
 ہے فرشتے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ اسکی حفاظت فرمائے کیونکہ وہ جمعہ میں آیا ہوا ہے  
 سے تھا کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے فرشتے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ اسے  
 اچھا کر دے وہ جمعہ میں آیا ہوا ہے۔

جمعہ کی قبولیت والی ساعت | جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی  
 ہے کہ اگر اسے کوئی بندہ پالے اور اس میں حق تعالیٰ شانہ سے دعا کرے تو  
 اسکی بالیقین قبول کی جاتی ہے۔ ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے  
 محمد بن ابراہیم سے خبر دی وہ ابو سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے

نقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مؤمن يبلى فيسأل الله تعالى فيها خيرا الا اعطاه اياه فقال كعب في كل سنة قال فقلت بل في كل جمعة كذلك قال صلى الله عليه وسلم فذهب قليلا ثم رجعت فقال صدقت والله انها لكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة وانما لسيد الايام واحبها الى الله تعالى فيه خلق آدم عليه السلام وفيه اسكن الجنة وفيه اهبط منها وفيه تقوم الساعة ما من دابة الا وهي مصيخة تنتظر ما يكون في يوم الجمعة الا الثقلين فرجعت فلتقت عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ فحدثني بحديث كعب قال فقال عبد الله رضی اللہ عنہ كذب كعب هو كما قال رسول الله عليه وسلم وهو في التوراة قال فقلت انه قد رجعت فقال عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ اني لاعلم تلك الساعة قلت اى ساعة هي قال اخر ساعة من نهار يوم الجمعة قال فقلت وكيف وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها مؤمن يبلى ولا تحين صلاة قال اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتظر صلاة فرض فهو في صلاة قلت بلى قال فهي كذلك وفي لفظ عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه

ہیں کہ میں طور پر گیا تو میں نے وہاں کعب کو پایا میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیں اور انہوں نے مجھے تورات کی آیتیں سنائیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک مشد میں بھی اختلاف نہیں پیدا ہوا حتیٰ کہ ہم ایک حدیث پر پہنچے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کسی کوئی مومن نماز کی حالت میں پائے اور اللہ تعالیٰ سے اس ساعت میں خیر و نفع کی دعا مانگے تو حق تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں کعب بولے کہ یہ ساعت پورے سال کے کسی ایک جمعہ میں آتی ہے میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ میں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے کعب کہو دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے اللہ کی قسم تم ٹھیک کہتے ہو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی ہر جمعہ میں ہوتی ہے واقعی جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کو بہت ہی پیارا ہے حضرت آدم جمعہ ہی کے دن پیدا کیے گئے، اس دن جنت میں بسائے گئے اسی دن جنت سے آمانے گئے اور اسی دن قیامت آئیگی بجز انسانوں اور جنوں کے جو باہر ایسا نہیں جو جمعہ کی شب میں تانہ ہو اور جمعہ دن کے حادثہ (قیامت) کا منتظر نہ رہتا ہو پھر میں واپس لوٹ کر عبد اللہ بن سلام سے ملا اور آپ کو اپنی اور کعب کی گفتگو بتائی فرماتے ہیں کہ عبد السلام نے کہا کہ کعب غلطی پر ہیں تورات میں بھی یہی ہے کہ وہ ساعت ہر جمعہ میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے کہا کعب نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا، عبد اللہ بن سلام بولے کہ مجھے وہ ساعت معلوم ہے میں نے پوچھا کہ وہ کونسی ساعت ہے؟ فرمایا: وہ جمعہ کے دن کی پچھلی ساعت ہے فرماتے ہیں میں نے کہا پچھلی ساعت کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اگر اسے نماز کی حالت میں کوئی مومن پائے اور پچھلی ساعت میں تو نماز ہی منع ہے فرمایا کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا جو فرض نماز کا انتظام کرے وہ نماز ہی میں ہے میں نے کہا: کیوں نہیں فرمایا لہذا اس حدیث کا وہی مطلب ہے۔ ایک لفظ میں محمد بن سیرین ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے



ایا وقال بيد لا يقللها وقد روى عن بعض السلف  
 انه قال ان الله فضل من الرزق سوى رزاق العباد  
 لا يعطى من ذلك الفضل الا لمن ساله عشية  
 الخميس ويوم الجمعة واخبرنا ابو نصر عن والدا  
 باسناد عن سعيد ابن راشد عن زيد بن علي عن  
 مرجانة عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه  
 وسلم رضى الله عنهما عن ابيها صلى الله عليه  
 وسلم قال ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد  
 مسلم يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياها قلت  
 يا ابت اية ساعة هي قال صلى الله عليه وسلم اذا  
 تدلى نصف الشمس للغروب قالت فكانت فاطمة  
 رضى الله عنها اذا كان يوم الجمعة امرت غلاما  
 لها يقال له زيد تقول امعد الى الطراب فاذا تدلى  
 نصف الشمس للغروب فاذني واعلمني فكان  
 يمعد فاذا كانت تلك الساعة آذنها واعلمها  
 فتقوم وتدخل المسجد حتى تغرب الشمس وتصلي  
 وفي حديث كثير بن عبد الله المزني عن ابيه عن  
 جداه رضى الله عنه قال ان رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم قال في الجمعة ساعة من نهار لا  
 يسأل الله فيها عبد شيئا الا اعطاه سؤلة قيل  
 له واية ساعة هي يا رسول الله قال صلى الله عليه  
 وسلم حين تقام الصلاة الى الانصراف منها  
 قال كثير بن عبد الله المزني يعني بذلك رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة -  
 واخبرنا ابو نصر عن والدا باسناد عن محمد

کہ اگر کوئی مومن بندہ اسے پالے اور اس میں اللہ سے کسی بھلائی کی دعا مانگے  
 تو حق تعالیٰ ضرور اس کی مراد پوری فرماتے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھ سے  
 اشارہ کر کے بتایا کہ وہ بہت تھوڑا وقت ہے۔ بعض سلف کا قول ہے  
 کہ بندوں کے رزق کے علاوہ اللہ کے پاس مزید رزق ہے اور وہ مزید رزق  
 اسی کو دیا جاتا ہے جو جمعہ کی شب کو اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے اسے مانگتا ہے  
 ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے سعید بن راشد سے خبر دی وہ  
 زید بن علی سے وہ مرجانہ سے اور وہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ سے  
 روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد صلعم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے  
 فرمایا کہ جمعہ میں ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کا بندہ اسے  
 پالے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں کسی بھلائی کی دعا مانگے تو حق تعالیٰ اس کی  
 دعا ضرور قبول فرما کر اس کی مراد پوری کرتے ہیں میں نے پوچھا: اباجان  
 وہ کونسی ساعت ہے؟ فرمایا جب سورج آدھا ڈوبنے والا ہوتا ہے  
 فرماتی ہیں جمعہ کے دن حضرت فاطمہؑ اپنے غلام زید کو حکم فرمایا کرتی  
 تھیں کہ ٹیلوں پر چڑھ جا اور جب آدھا سورج ڈوبنے والا ہو تو مجھے  
 اطلاع دے چنانچہ غلام ٹیلوں پر چڑھ جاتا اور جب سورج ڈوبنے  
 والا ہوتا تھا تو حضرت فاطمہ کو اطلاع دے دیا کرتا تھا آپ مسجد میں  
 جاتیں اور اس وقت نماز پڑھتیں۔ کثیر بن عبد اللہ مزنی عبد اللہ  
 اور عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا  
 کہ جمعہ کے دن ایسی ساعت آتی ہے کہ اگر اس میں کوئی اللہ کا بندہ اللہ  
 تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور پورا فرماتے ہیں آپ  
 سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کونسی ساعت ہے؟ فرمایا جب نماز  
 کھڑی ہوتی اس وقت سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک۔ کثیر بن عبد اللہ  
 مزنی فرماتے ہیں کہ اس سے رسول اللہ صلعم کی جمعہ کی نماز مراد ہے۔  
 ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے محمد بن منکدر سے خبر  
 دی انہوں نے کہا میں نے کہا میں نے جابر بن عبد اللہ سے سنا فرماتے

بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله  
عنهما يقول عرض هذا الدعاء على رسول الله صلى الله  
عليه وسلم فقال لودعي به على شيء بين المشرق  
والمغرب في ساعة يوم الجمعة لا تستجيب لصاحبه  
سبحانك لا اله الا انت يا حنان يا منان يا ابد يع  
السبوات والارض يا ذا الجلال والاکرام وقال  
صفوان ابن سليم بلغني ان من قال حين يجلس  
الامام على المنبر يوم الجمعة لا اله الا الله وحده  
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت  
وهو على كل شيء قدير غفر له وقال البراء بن  
عازب رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى  
الله عليه وسلم يقول فضل الجمعة في رمضان  
على سائر الايام كفضل رمضان على سائر  
الشهور۔

**فصل:** في الصلاة على النبي صلى الله عليه  
وسلم في يوم الجمعة اخبرنا ابو نصر عن والدة  
باستادها عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر وامن  
الصلاة على يوم الجمعة فانه يوم تضاعف فيه  
الاعمال وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة قيل  
يا رسول الله وما الدرجة الوسيلة من الجنة  
قال هي اعلى درجة في الجنة لا ينالها الا نبي و  
ارحون اكون هو ومن محمد بن المنكدر عن  
جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم

کہ یہ دعا رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر پیش کی گئی اور فرمایا کہ اگر یہ دعا جمعہ کی  
قبولیت والی ساعت میں پڑھے کہ مشرق و مغرب کے درمیان والی  
جو چیز بھی مانگی جائے تو دعا ضرور قبول کی جائے گی وہ متبرک دعا ہے  
سبحانک لا اله الا انت يا حنان يا منان يا ابد يع السموات والارض  
يا ذا الجلال والاکرام یعنی اے اللہ تو پاک ہے تیرے سوا کوئی سچا  
معبود نہیں ہے انتہائی مشفق و مہربان ہے سچا احسان و کرم والے  
اے آسمانوں کو اور زمینوں کو اے نبی کے اور اے جلال و اکرام والے۔  
صفوان بن سلیم: مجھے خبر ملی ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے دن اس  
وقت جب امام منبر پر بیٹھے لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لے لے  
ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کے  
گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔

براء بن عازب: میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے  
تھے کہ رمضان کے جمعہ کی فضیلت تمام دنوں پر اسی طرح ہے جیسے  
رمضان کی فضیلت تمام دنوں پر ہے۔

جمعہ کے دن سرکار رسالت پر درود ہمیں ابو نصر نے اپنے  
والد سے اپنی اسناد سے حضرت علی رضا سے خیروی کہ رسول اللہ صلی  
نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کر دیکھو کہ یہ وہ  
دن ہے جس میں عملوں کا ثواب دو چند کر دیا جاتا ہے اور میرے  
لئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا کر دکھا گیا: یا رسول اللہ اجنت ہیں  
درجہ وسیلہ کہا ہے؟ فرمایا کہ وسیلہ جنت ہیں ایک بہت اونچا درجہ  
ہے جس کو کوئی نہیں ہی حاصل کر سکا اور مجھے امید ہے کہ وہ نبی میں ہی ہوں  
محمد بن منکدر جابر سے اور وہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے روایت کرتے  
ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر اللہم رب  
هذا الدعوة التامة الخ پڑھے تو اس کے لئے قیامت کے دن میری  
شفاعت حلال ہو جائے گی اس دعا کا ترجمہ پڑھے اے اللہ



رب هذا الدعوى التامة والصلاة القائمة آت  
 محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة  
 وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له  
 الشفاعة يوم القيامة وعن عبد الله بن عباس  
 رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم يقول اكثروا الصلاة على نبيكم  
 في الليلة الغراء واليوم الا زهر ليلة الجمعة  
 ويوم الجمعة وعن عبد العزيز بن مسعود عن  
 انس بن مالك رضى الله عنه قال كنت واقفا  
 بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  
 من صلى على في كل جمعة ثمانين مرة غفر الله  
 تعالى له ذنوب ثمانين سنة قلت يا رسول الله  
 كيف الصلاة عليك قال صلى الله عليه وسلم  
 تقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك  
 النبي الامي وتعد واحدة وعن معجول الشامي  
 عن ابي امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة على  
 في يوم الجمعة فان صلاة امتي تعرض علي في  
 كل يوم جمعة فمن كان اكثرهم على صلاة  
 كان اقربهم مني منزلة يوم القيامة -

**فصل** : فيما ينبغي ان يقرأ في صلاة

الصبح يوم الجمعة اخبرنا البرنصر عن والدا  
 باسناد دة عن ابي الاحوص عن عبد الله رضى الله  
 عنه قال كان النبي صل الله عليه وسلم يقرأ  
 يوم الجمعة الم السجدة وهل اتي وروى عنه

اسے اس کمال دعوت کے اور قائم رہنے والی نماز کے پروردگار  
 آپ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلت اور بلند مقام عطا  
 فرمائیں اور آپ انہیں مقام محمود میں بھیجیں جس کا آپ نے ان سے  
 وعدہ فرمایا ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے تم لوگ اپنے نبی پر جب گناہی رات  
 میں شب جمعہ میں اور شگفتہ دن میں جمعہ کے دن کثرت سے درود  
 بھیجا کرو۔ عبد العزیز بن مسعود حضرت انس بن مالک سے روایت  
 کرتے ہیں کہ انس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا کہ آپ نے  
 فرمایا جو جمعہ کے دن مجھ پر اسی بار درود بھیجے گا حق تعالیٰ شانہ اس کے  
 ۸۰ سال کے گناہ معاف فرمادے گا میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر  
 کن الفاظ میں درود بھیجنا چاہیے فرمایا اس طرح بھیجو اللهم صل علی  
 محمد عبدک ورسولک النبی الامی یعنی اسے اللہ آپ محمد پر  
 جو آپ کے بندے آپ کے رسول اور امی نبی ہیں اپنی رحمتیں  
 بھیجیں۔ اور ایک ایک گنتے رہو۔

محول شامی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں  
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر  
 کثرت سے درود بھیجو کیونکہ مجھ پر میری امت کے درود ہر جمعہ کو  
 پیش کئے جاتے ہیں بنا بریں مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والے تیار  
 کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے۔

★

**جمعہ کے وظائف** | جمعہ کے دن صبح کے فرضوں میں مخصوص سورتوں

کا پڑھنا مستحب ہے۔ ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے  
 ابو الاحوص سے اور انھوں نے عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ  
 کے دن صبح کے فرضوں میں پہلی رکعت میں (آلم السجدة اور درود  
 میں) اہل اناک پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ

صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في المغرب بقل  
يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وفي العشاء بسورة  
الجمعة والمنافقين وقيل انه صلى الله عليه وسلم  
كان يقرأ ذلك في صلاة الجمعة وعن الحسن عن  
ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم من قرأ ليلة الجمعة سورة يس  
وحمد الله ان اصبح مغفورا له وقيل ان من  
قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كان كمن  
تصدق بعشرة آلاف دينار ويستحب أن  
يسلي ليلة الجمعة ويوم الجمعة ركعات بأربع  
سور سورة الانعام وسورة الكهف و  
سورة طه وسورة الملك فان لم يحسن القرآن  
قرأ جميع ما يحسن منه فذلك له ختمة فقد  
قيل ختمه من حيث علمه وان كان يحسن  
القرآن يستحب له ان يختم في يوم الجمعة فان  
لم يقدر يشفع اليه ليلة الجمعة فان جعل آخر  
ختمته في ركعتي المغرب او ركعتي الفجر كان  
احسن وكذلك ان جعل ختمته بين الاذان  
والاقامة يوم الجمعة كان فيه فضل كبير وان  
قرأ الف مرة قل هو الله احد يوم الجمعة في  
عشر ركعات او عشرين او في غير صلاة كان  
افضل من ختمه القرآن ويستحب الصلاة على  
النبي صلى الله عليه وسلم الف مرة يوم الجمعة  
وكذلك التسبيح الف مرة وهي الكلمات الأربع  
التي تقدمت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا

مغرب میں قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد اور عشاء میں  
سورہ جمعہ اور سورہ منافقین پڑھا کرتے تھے۔

کہا گیا ہے کہ رحمت عالم صلعم یہی سورتیں جمعہ کی نماز میں  
پڑھا کرتے تھے۔

حسن ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کی شب کو سورہ یسین اور حم السجدة  
پڑھ لیگا بخش دیا جائے گا۔

کہا جاتا ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے گویا اس نے دس ہزار  
دینار اللہ کی راہ میں خیرات کئے جمعہ کی رات کو اور دن میں چار  
رکعت نماز چار سورتوں سورہ النعام سورہ کہف سورہ طہ  
اور سورہ ملک کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے لیکن اگر قرآن پاک اچھی  
طرح یاد نہ ہو تو جہاں سے قرآن پاک اچھی طرح یاد ہو وہ پڑھ لے  
اس طرح گویا اس نے ایک قرآن ختم کر لیا یعنی علم کے اعتبار سے  
قرآن ختم کر لیا اور اگر حافظ قرآن ہے اور قرآن پاک اچھی طرح  
جانتا ہے تو جمعہ کے دن ایک قرآن کا ختم کرنا مستحب ہے اگر جمعہ کے  
دن ختم قرآن پر قادر نہ ہو تو جمعہ کی شب کو بھی ملا لے اگر مغرب کی  
یا فجر کی رکعتوں میں ختم قرآن کا پچھلا حصہ پڑھ لے تو بہت ہی اچھا  
ہے اسی طرح اگر جمعہ کے دن اذان و تکبیر کے درمیان ختم کیا جائے  
تو اس میں زبردست فضیلت ہے اگر دس یا بیس یا زیادہ  
رکعتوں میں جمعہ کے دن سورہ اخلاص ایک ہزار بار پڑھ لے  
تو یہ ختم قرآن سے بھی افضل ہے۔

جمعہ کے دن نبی اکرم صلعم پر ایک ہزار بار درود بھیجنا  
مستحب ہے اسی طرح ایک ہزار بار تسبیح پڑھنا مستحب ہے  
تسبیح ان چار کلموں کو کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ  
ولا اله الا اللہ واللہ اکبر ان کلموں کا بیان اوپر گزر



اللہ، واللہ اکبر۔

فصل: فی تسمیۃ یوم الجمعة - اخبرنا ابو

نصر عن والدہ باسنادہ عن سلمان رضی اللہ

عنه قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انذر

لم سمی یوم الجمعة قلت لا قال لان فیہ جمع

البرکاء آدم ثم قال لا یتطهر رجل یوم الجمعة

فیتوضأ ویحس وضوءه ثم یأتی الجمعة الا

عقر له ما بینہما و بین الجمعة الاخری ما

اجتنب الکبائر وقال بعضهم هو من الاجتماع

وهو اجتماع قلب آدم و روحہ بعد ان کان

ملقی اربعین سنة وقال آخرون لا اجتماع

آدم و حواء بعد الفرقة الطویلة و قيل انما

سمی بذلك لا اجتماع اهل البلد و الرسا یتق فیہ

و قيل لانه تقوم فیہ القیامة و هو یوم الجمع

قال اللہ عزوجل یوم یجمعکم لیوم الجمع

فصل: و جیب ما ذکرنا من صیام الا شہر

والا من حیة و العبادات من الصلاة و الاذکار

و غیر ذلك و ما سئد کر ان شاء اللہ تعالیٰ

لا یقبل الا بعد التوبة و طهارة القلب و

اخلاص العمل للہ تعالیٰ و ترک الریاء و السعة

اما التوبة فقد تقدم بیانها و نزیل علیہ

بان اللہ یحب التوابین و یحب کل قلب طاهر

من الذنوب فقال عزوجل ان اللہ یحب التوابین

و یحب المتطهرین قال عطاء و مقاتل و الکلبی

رحمہم اللہ ان اللہ یحب التوابین من الذنوب

چکا ہے۔

جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے | ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے

اپنی اسناد سے سلمان سے خبر دی کہ سلمان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: جمعہ کی وجہ تسمیہ کیا

ہو؟ میں نے کہا: نہیں، فرمایا لیکن میں گناہوں کو جو جو شخص جمع کے دن

کرتا ہے پھر اچھی طرح سے پورا پورا وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز میں

شامل ہوتا ہے تو یقیناً یہ جمعہ اس کے گناہوں کے لئے جو اس جمعہ سے

لیکر دوسرے جمعہ کے درمیان سرزد ہو چکے ہیں کفارہ بن جاتا ہے۔

بشرطیکہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ بعض کے نزدیک جمعہ اجتماع

سے بنا ہے یعنی اس دن حضرت آدم کے جسم سے جو چالیس سال بلا روح کے پڑا

رہا روح کا اجتماع ہوا بعض کے نزدیک جمعہ کو جمعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس

دن حضرت آدم حضرت حوا کا ایک لمبی جدائی کے بعد اجتماع ہوا یا اس لئے کہا

جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں شہری اور دیہاتی سب جمع ہوتے ہیں یا اس لئے کہ اس

دن قیامت ٹھیک اور اگلے پھیلے جمع ہونگے قیامت کا ایک نام یوم الجمع بھی ہے

مزہ بابا وہ دن یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم کو جمع کے دن جمع فرمائے گا۔

توبہ | ہم نے اب تک جنہی عبادتیں بیان کی ہیں جیسے ہر ماہ کے روزے

قرابانیاں، نماز، روزہ وغیرہ اور اذکار وغیرہ، اور جن کو آئندہ بیان

کرنے والے ہیں یہ تمام عبادتیں پر خلوص توبہ کے، تطہیر قلب کے اعمال

میں اخلاص کے اور نام و نمود، ایسا کاری اور شہر کو چھوڑنے کے بعد

ہی درجہ قبولیت حاصل کرتی ہیں۔ توبہ پر ہم اوپر روشنی ڈال آئے ہیں

اور اس جگہ بھی تدریس روشنی ڈال دیتے ہیں دیکھئے حق تعالیٰ اجل مجزہ

توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے اور اسی دل سے محبت کرتا ہے جو گناہوں سے

پاک و صاف ہو، چنانچہ فرمایا کہ یقیناً مانو کہ اللہ کو توبہ کرنے والوں سے اور

پاک دلوں والوں سے محبت ہے۔ عطاء، مقاتل اور کلبی: یعنی اللہ

تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اور حدت، حیض، جنابت اور

والمطهرين بالماء من الاحداث والمحيض والجنابا  
 والنجاسات بيانه قصة اهل قباء حيث ذكرهم الله  
 عز وجل بقوله تعالى فيه رجال يحبون ان  
 يتطهروا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما  
 يعملون فقالوا تتبع الماء الاحجار في الاستنجاء  
 وقال مجاهد رحمه الله يجب التوابين من الذنوب  
 والمطهرين عن ادبار النساء ان ياتوها من اتي  
 امرأة في دبرها فليس من المطهرين فان دبر  
 المرأة مثله من الرجل وقيل التوابين من الذنوب  
 والمطهرين من الشرك روى عن ابي المنهال رحمه الله  
 انه قال كنت عند ابي العالية فتوفنا وضوءا  
 حسنا فقلت ان الله يجب التوابين ويجب المطهرين  
 فقال الطهور ممة ان الطهور حسن ولكنهم  
 المطهرون من الذنوب وعن سعيد بن جبیر  
 رحمه الله قال ان الله تعالى يجب التوابين  
 من الشرك والمطهرين من الذنوب وقيل  
 التوابين من الكفر والمطهرين بالايمان  
 وقيل التوابين من الذنوب لا يعودون فيها  
 والمطهرين من عالم يصيبونها وقيل التوابين  
 من الكبائر والمطهرين من الصغائر وقيل التوابين  
 من الافعال والمطهرين من الاقوال وقيل  
 التوابين من الاقوال والافعال والمطهرين من  
 العقود والامثال وقيل التوابين من الآثام  
 والمطهرين من الاجرام وقيل التوابين من  
 الجرائر والمطهرين من خبث السرائر وقيل

نجاست سے پانی کے ذریعہ پاک ہو نیوالوں کو پسند فرماتا ہے اور ان سے محبت  
 کرتا ہے قبا والوں کے دافع سے اس کی تائید ہوتی ہے حق تعالیٰ نے قبا  
 والوں کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو انتہائی  
 پاک پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلعم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟  
 بولے تمہارے سے استنجاء کر کے پانی سے استنجاء کر لیتے ہیں۔

مجاہد: یعنی وہ گناہوں سے پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور انہیں  
 بھی جو عورتوں کی دبر سے پاک رہتے ہیں یعنی ان میں نہیں آتے کیونکہ جو  
 عورت کی دبر میں صحبت کرے وہ پاک رہنے والوں میں سے نہیں کیونکہ  
 عورت کی دبر مرد کی طرح گندی ہے اور گندی جگہ کو گند سے ہی  
 استعمال کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک گناہوں سے توبہ کر نیوالے اور  
 شرک سے پاک و محفوظ رہنے والے مراد ہیں۔

ابو المنہال:۔ میں ابو العالیہ کے پاس تھا انہوں نے اچھی طرح سے وضو  
 کیا میں نے یہی آیت پڑھی فرمایا وضو کو کسی بڑی بات ہے بس اتنا ہی  
 توبہ کر وضو اچھا ہے اس آیت میں گناہوں سے پاک رہنے والے مراد ہیں  
 سعید بن جبیر:۔ حق تعالیٰ شرک سے توبہ کر نیوالوں کو اور گناہوں  
 سے پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بعض کے نزدیک کفر سے  
 توبہ کر نیوالے اور ایمان سے پاکی حاصل کر نیوالے مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک  
 تواب وہ ہیں جو گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کریں اور منظر  
 وہ ہیں جو گناہوں سے پاک رہیں اور ان میں نہ لتھریں۔ بعض بڑے گناہوں  
 سے پاک رہنے والے مراد ہیں بعض کے نزدیک افعال سے توبہ کر نیوالے  
 اور اقوال سے پاک رہنے والے مراد ہیں بعض کے نزدیک افعال و اقوال  
 سے توبہ کرنے والے اور بد عقائد و ادا مہ سے پاک رہنے والے مراد ہیں  
 بعض کے نزدیک گناہوں سے توبہ کر نیوالے اور جرائم سے پاک رہنے  
 والے مراد ہیں بعض کے نزدیک گناہوں سے توبہ کر نیوالے اور دلوں  
 کی گندگی سے پاک رہنے والے مراد ہیں بعض کے نزدیک گناہوں سے



التوابین من الذنوب والمتطهرین من العیوب و  
 قیل التواب الذی كلما اذنب تاب قال اللہ عزو  
 جل فانه كان للوا بین غفورا وعن محمد بن  
 المنکدر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال  
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رجل  
 من کان قبلكم بجمجمة فنظر اليها فقال  
 ای رب انت انت وانا انت العواد بالمغفرة  
 وانا العواد بالذنوب ثم خر ساجدا فقیل له  
 ارفع رأسك فانا العواد بالمغفرة وانت العواد  
 بالذنوب فرفع رأسه فغفر له۔

واما الاخلاص فقد قال عز وجل  
 وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصين له  
 الدين وقال جل وعلا اللہ الدين الخالص  
 وقال تعالیٰ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها  
 ولكن يناله التقوى منكم وقال جل جلاله  
 لنا اعبالنا ولكم اعبالكم ونحن له مخلصون  
 اختلف الناس فی معنى الاخلاص قال الحسن  
 رحمه اللہ سألت حذيفة رضی اللہ عنہ  
 عن الاخلاص ما هو قال سألت النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم عن الاخلاص ما هو قال صلی اللہ  
 علیہ وسلم سألت جبریل علیہ السلام عن  
 الاخلاص ما هو قال سألت رب العزة جل  
 وعلا عن الاخلاص ما هو قال سبحانه و

تعالیٰ هو سر من سری استور عه قلب من اجبت  
 من عبادی ومن ابی ادريس الخولانی رحمه اللہ

توبہ کرنے والے اور عیبوں سے پاک رہنے والے مراد ہیں۔ بعض کے  
 نزدیک تو توبہ وہ ہے کہ جب کبھی گناہ کر بیٹھتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے  
 حق تعالیٰ جل مجدہ نے فرمایا: دیکھو حق تعالیٰ کثرت سے گناہوں  
 سے توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔

محمد بن منکدر جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  
 صلعم نے فرمایا کہ تم سے پہلوں میں سے ایک شخص ایک کھوپڑی کے  
 پاس سے گزرا اور اس نے اسے دیکھ کر کہا اے رب تو توبہ ہے اور میں  
 ہوں تو مغفرت کا عادی ہے اور میں گناہوں کا پھروہ سجدے  
 میں گر گیا پھر اس سے کہا گیا کہ اپنا سراٹھا کیونکہ میں مغفرت کا عادی  
 ہوں اور تو گناہوں کا۔ چنانچہ اس نے اپنا سراٹھایا اور اسے بخش دیا گیا۔

**اخلاص** فرمایا انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں  
 اور اسی کے لئے عبادت خالص کر لیں۔ فرمایا اللہ کو قربانیوں کا  
 گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہاں اسے تقویٰ پہنچتا ہے، فرمایا: کان  
 کھول کر سخن لو کہ عبادت اللہ ہی کے لئے ہے، فرمایا ہمارے لئے ہمارے  
 عمل ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اور ہم اس کے مخلص بندے ہیں۔  
 اخلاص کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے۔ حسن: میں نے حذیفہ سے  
 اخلاص کے بارے میں پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے بھی یہی  
 سے اخلاص کے بارے میں پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا  
 کہ میں نے بھی حضرت جبریل سے اخلاص کے بارے میں پوچھا تھا کہ  
 اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے بھی حق تعالیٰ سے اخلاص کے  
 بارے میں پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اخلاص میرا ایک  
 راز ہے میں اخلاص اپنے ان بندوں کے دلوں میں دلچسپی فرماتا ہوں  
 ہوں جن سے مجھے محبت ہوتی ہے۔

ابو ادريس خولانی سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم نے فرمایا: ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی بندہ اخلاص

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل  
 حق حقيقة وما يبلغ عبد حقيقة الا خلاص حتى  
 لا يجب ان يجهد على شيء ومن عمل عمله لله عزو  
 جل وقال سعيد بن جبیر رحمه الله الا خلاص  
 ان يخلص العبد دينه لله وعمله لله تعالى ولا  
 يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله احد اوقال  
 الفضيل رحمه الله تعالى ترك العمل من اجل الناس  
 رياء والعمل من اجل الناس شرك والا خلاص  
 هو الخوف من ان يعاقبك الله تعالى عليهما وقال  
 يحيى بن معاذ رحمه الله الا خلاص تمييز العمل  
 من العيوب كتبيين اللبن من الفرث والدم وقال  
 ابو الحسين البوشنجي رحمه الله هو ما لا يكتبه  
 الملكان ولا يفسد لا الشيطان ولا يطعم عليه  
 الانسان وقال روي رحمه الله هو ارتفاع  
 رؤيتك من الفعل وقيل هو ما يرا دبه الحق و  
 يقصد به الصداق وقيل هو ما لا تشوبه الآفات  
 ولا يتبعه رخص التاويلات وقيل هو ما استتر  
 عن الخلاق واستصفي من العلائق وقال حذيفة  
 المرعشي هو ان تستوي افعال العبد في الظاهر  
 والباطن وقال ابو يعقوب المكفوف هو ان يكتف  
 حسنا كما يكتف سيئاته وقال سهل بن  
 عبد الله هو الافلاس عن الناس بن مالك رضي الله  
 عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 ثلاث لا يغفل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل  
 لله ومناجحة ولا الاصر ولزوم جماعة السليين

کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ یہ بات پسند نہ کرے کہ اس کی  
 اس کے ذاتی عملوں پر تعریف کی جائے جو اس نے اللہ کی رضا کے لئے  
 کئے ہیں۔

سعد بن جبیر: اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت اور عمل خالص  
 اللہ ہی کے لئے انجام دے اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ  
 نہ کرے اور نہ کسی کو دکھانے کے لئے عمل کرے۔

فضیل بن عیاض: لوگوں کی وجہ سے عمل کا چھوڑنا ریا ہے اور لوگوں  
 کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ عمل و ترک عمل کے  
 وقت اللہ کے عذاب کا ڈر پیش نظر رکھا جائے۔

یحییٰ بن معاذ: اخلاص عملوں کو عیبوں سے علیحدہ کرنا ہے  
 جیسے دودھ کو برادر خون سے علیحدہ ہوتا ہے۔

ابو الحسین بوشنجی: اخلاص وہ ہے جسے نہ کرانا کاتبین لکھتے ہیں  
 اور نہ شیطان اسے خراب کر سکتا ہے۔ اور نہ انسان اس آگاہ ہوتا  
 کر دیکھ: اخلاص یہ ہے کہ تم اپنے عملوں کی طرف نہ دیکھو۔

بعض علماء: اخلاص وہ عمل ہے جس سے حق و صداقت مقصود  
 بعض علماء: اخلاص وہ ہے جس میں آفتوں کا گز نہیں  
 اور تاویلات کو دخل نہیں۔ بعض علماء: اخلاص مخلوق سے  
 پوشیدہ رہنا ہے اور آلائشوں سے محفوظ رہنا ہے۔

حذیفہ مرعشی: اخلاص یہ ہے کہ تمہارا ظاہر و باطن ایک ہو۔  
 ابو یعقوب مکفوف (ناہینا) اخلاص یہ ہے کہ انسان نیکیوں کو  
 اس طرح چھپائے جس طرح برائیوں کو چھپاتا ہے۔

سہل بن عبد اللہ تشری: اخلاص افلاس ہے یعنی انسان اپنے  
 عمل کا لعدم سمجھے۔ انس بن مالک: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین  
 چیزیں ایسی ہیں جن پر کسی مسلمان کا دل خیانت نہ کرے: اللہ کے لئے  
 خالص عمل، اسرار و حکام کی غیر خواہی اور مسلمانوں کی جماعت سے چھٹ جانے کا



وقیل الاخلاص افراد الحق فی الطاعة بالقصد  
 وهو ارادة العبد بطاعته القرب الی مولا لا  
 دون احد من خلقه فلا یتصنع للخلق ولا  
 یتکسب منهم الحمد ولا یتجلب منهم الحب  
 ولا یدفع بهما عن نفسه اللوم والذم وقیل الاخلاص  
 تصفیة الفعل عن ملاحظة المخلوقین قال  
 ذوالنون المصری رحمہ اللہ الاخلاص لا یتیم  
 الا بالصدق فیہ والمیز علیہ والصدق لا یتیم  
 الا بالاخلاص فیہ والمداد مئة علیہ وقال  
 ابو یعقوب السوسی متی شہدا وافی اخلاصہم  
 اخلاصا احتاج اخلاصہم الی اخلاص وقال  
 ذوالنون رحمہ اللہ ثلاث من علامات الاخلاص  
 استواء المدح والذم من العامة ونسیان  
 رویة الاعمال واقتضاء ثواب العمل فی الآخرة  
 وقال الیفا رحمہ اللہ الاخلاص ما حفظ من  
 العدو ان یفسد لا قال ابو عثمان المغربی رحمہ  
 اللہ الاخلاص ما لا یكون للنفس فیہ حظ بحال  
 وهو اخلاص العوام وما اخلاص الخواص  
 فهو ما یجری علیہم لا بہم فیتبد وعینہم  
 الطاعات وهم عنہا بعزل ولا یقع علیہم  
 رویة بہا اعتداد فذلک اخلاص الخواص  
 وقال البرک الدقاق رحمہ اللہ لقمان کل  
 مخلص فی اخلاصہ رویة اخلاصہ فاذا اراد  
 اللہ تعالیٰ ان یخلص اخلاصہ یسقط عن اخلاصہ  
 رویة اخلاصہ فیکون مخلصا لا مخلصا

بعض علماء: اخلاص یہ ہے کہ قصد و ارادے کے ساتھ فرمانبرداری میں  
 حق تعالیٰ کو منقاد تسلیم کرنا اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہ ماننا۔ قصد یہ  
 ہے کہ بندہ اپنی اطاعت سے اپنے آقا کے قرب کا ارادہ کرے مخلوق میں سے  
 کسی کے قرب کا نہیں لہذا غیر اللہ کے لئے عمل نہ کرے اور نہ ان سے  
 اپنی تعریف کی توقع رکھے اور نہ یہ لاپرواہ رکھے کہ ان کو مجھ سے محبت ہو  
 جائے اور نہ یہ طمع رکھے کہ اس عبادت کی وجہ سے مجھ سے ملامت و  
 مذمت دور ہو جائے گی۔ بعض علماء: اخلاص مخلوق کو دکھانے سے  
 اپنے عملوں کو پاک کرنا ہے۔ ذوالنون مصری: اخلاص اسی وقت  
 پورا ہوتا ہے جب بندہ اس میں سچا ہو اور اس پر جہاں ہے اور اخلاص  
 پر صبر و صدق کی ہمیشگی چاہتا ہے۔ ابو یعقوب سوسی: جب لوگ  
 اخلاص کو اخلاص سمجھنے لگیں تو ان کے اخلاص کو اخلاص کی ضرورت  
 ہے۔ ذوالنون مصری: اخلاص کی تین نشانیاں ہیں مخلص کے نزدیک  
 عوام کی ستائش و خدمت یکساں ہو، عمل کر کے انہیں بھول جائے اور  
 آخرت میں اپنے عملوں کے ثواب کی امید رکھے۔ صاحب موصوف نے  
 فرمایا کہ اخلاص وہی ہے جسے دشمن خراب کرنے پر قادر نہ ہو۔  
 ابو عثمان مغربی:۔ اخلاص میں نفس کو لذت کسی حال میں نصیب نہیں  
 ہوتی یہ عوام کا اخلاص ہے اور خواص کا اخلاص یہ ہے کہ وہ عبادتیں  
 کر کے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کی طرف دیکھتے نہیں بلکہ انہیں  
 ہیچ سمجھتے ہیں۔  
 ابو بکر دقاق:۔ ہر مخلص کے اخلاص میں کمی اخلاص کی طرف دیکھنے  
 سے آتی ہے پھر جب حق تعالیٰ کسی کے اخلاص کو خالص کرنا چاہتا ہے  
 تو اس کی توجہ ذاتی اخلاص کی طرف دیکھنے سے ہٹا دیتا ہے لہذا  
 وہ مخلص ہو جاتا ہے اور مخلص نہیں رہتا۔  
 سہل:۔ رہا کو مخلص ہی پہچانتا ہے۔ ابو سعید خزاز: عرفاء کی  
 رہا مریدوں کے اخلاص سے افضل ہے۔

وقال سهل رحمه الله لا يعرف الرياء الا المخلص  
وقال ابو سعيد الخراساني رحمه الله رياء العارفين  
افضل من اخلاص المريدين وقال ابو عثمان رحمه  
الله الاخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر  
الى الخالق وقيل الاخلاص ما اريد به الحق و  
قصد به الصدق وقيل هو الغياض عن رؤية  
الاعمال وقال سري السقطي رحمه الله من تزين  
للناس بما ليس فيه سقط من عين الله تعالى و  
قال الجنيد رحمه الله الاخلاص سر بين الله  
تعالى وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه ولا  
شيطان فيفسده ولا هوى يبيله وقال روم  
رحمه الله الاخلاص في العبد هو الذي لا يريد  
صاحبه عليه عوضا في الدارين ولا حظا  
من الملكين وسئل ابن عبد الله رحمه الله  
أى شيء أشد النفس فقال الاخلاص لانه ليس  
لعامله نصيب وقيل هو أن لا تشهد على  
عملك احد غير الله عز وجل وقال بعضهم  
دخلت على سهل بن عبد الله رحمه الله  
يوم جمعة قبل الصلاة فرأيت في البيت حية  
فجعلت اقدم رجلا واؤخر رجلا اخرى  
فقال ادخل لا يبلغ احد حقيقة الايمان  
وعلى وجه الارض شيء يخافه ثم قال هل  
لك في صلاة الجمعة فقلت بينا وبين المسجد  
مسيرة يوم وليلة فأخذ بيدي فما كان الا  
قليل حتى رأيت المسجد فدخلنا وصلينا

ابو عثمان: اخلاص یہ ہے کہ مخلوق خالق کی دائمی نگاہ کر مہ کی وجہ سے  
اپنے عملوں کو بھول جائے۔ بعض علماء: اخلاص وہ ہے جس سے حق و  
صدق مقصود ہو۔ بعض علماء: اخلاص اعمال کی طرف دیکھنے سے چشم پوشی  
کرنا ہے۔ سری سقطی: جو دکھاوے کی غرض سے کسی ایسی چیز کا اظہار کرے  
جو اس میں نہیں پائی جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گرجاتا ہے۔

جنید: اخلاص اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان ایک ایسا راز  
ہے جسے نہ فرشتہ جانتا ہے نہ لکھ لے اور نہ شیطان جانتا ہے کہ اس کو بگاڑ دے  
اور نہ ہوائے نفسانی اسے ٹھاسکتی ہے۔

روم: عمل میں اخلاص یہ ہے کہ صاحب عمل اپنے عمل پر دنیا اور آخرت  
میں عوض نہ چاہے اور نہ اس میں کراہا کاتبین کا حصہ ہے۔ ابن عبد اللہ  
سے پوچھا گیا کہ نفس پر کونسی چیز انتہائی بھاری ہے؟ فرمایا: اخلاص  
کیونکہ اس میں نفس کا کچھ حصہ نہیں۔ بعض علماء: اگر کسی کے عملوں کی  
بجز اللہ کے کسی اور کو خبر نہ ہو تو یہی اخلاص ہے۔ بعض علماء: ایک دفعہ  
میں حجہ کے دن نان سے پہلے سہل بن عبد اللہ سے ملاقات کے لئے گیا  
نے آپ کے گھر میں ایک سانپ دیکھا سانپ دیکھ کر میں کبھی قہم آگے بڑھاتا  
تھا اور کبھی پیچھے ہٹا لیتا تھا آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ انسان ایمان کی  
حقیقت کی تمہارے نہیں پہنچ سکتا جب تک روئے زمین کی ہر مخلوق کا دل اس  
کے دل سے نہیں نکل جاتا یعنی حقیقی مومن دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا  
نہ ڈرتا نہیں دنیا میں مسلمان کسی سے ڈرتا ہے جب ملت ایمان ہی  
پھر فرمایا کیا جمعہ کی نماز میں جانے کی خواہش ہے؟ میں نے کہا ہاں  
اور مسجد کے درمیان ایک دن رات کی مسافت ہے پھر آپ نے میرے  
دونوں ہاتھ پکڑ لئے تھوڑی سی دیر کے بعد ہم نے اپنے کو مسجد کے پاس  
دیکھا ہم نے مسجد میں جا کر جمعہ کی نماز پڑھی پھر ہم باہر آئے آپ کھڑے  
ہو کر مسجد سے باہر آئے لوگوں کو دیکھنے لگے پھر فرماتے لگے کہ لا الہ  
الا اللہ والے تو بہت ہیں لیکن ان میں اللہ کے مخلص بندے تھوڑے



الجمعة ثم خرجنا فوق ينظر الى الناس وهم يخرجون  
فقال اهل لاله الا الله كثير لكن المخلصون  
منهم قليل كنت مع ابراهيم الخراس رحمة الله  
في سفر فجننا الى موضع فيه حيات كثيرة فوضع  
ركوته وجلس وجلست فلما كان برد الليل  
وبرد الهواء خرجت الحيات فصحت بالشيخ  
فقال اذكر الله تعالى فذكرت فرجعت ثم عادت  
فصحت به فقال مثل ذلك فلما ازل الى الصباح  
في مثل تلك الحالة فلما اصبحت انا ومشي  
ومشيت معه فسقطت من وطائه حية عظيمة  
قد تطوقت فقلت ما احسست بها فقال لا منذ  
زمان ما بت ليلة اطلب من البارحة وقال ابو عثمان  
رحمه الله تعالى من لم يثق وحشة العقلة لم يجد  
طعم الن ذكر-

**فصل** : وينبغي لكل متعبد وعارف ان يجذر  
في جميع احواله من الزيادة ورؤية الخلق والعجب  
فان النفس خبيثة وهي منشاء الاهوية المفضلة و  
الشهوات المردية واللذات الحائلة بين العبد  
وبين الحق عز وجل لا طريق الى الامن من غوائلها  
مادام الروح في جسد ابن آدم وان بلغ العبد  
الى حالة البدلية والصدقية وان كانت هذا  
الحالة اسلم من الابتداء وامن من شرها  
ودواهيها والخير اغلب والنوراكثر والهداية  
متحققة بسبيل الله والتوفيق شامل والحفظ  
موجود غير ان العظمة ليست لنا انها ذلك

ہیں ایک دفعہ میں ایک سفر میں ابراہیم خراس کے ساتھ تھا، ہم  
ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کثرت سے سانپ تھے آپ اپنی ڈوپٹی زمین  
پر رکھ کر بیٹھ گئے میں بھی بیٹھ گیا پھر جب رات میں ٹھنڈ ہو گئی اور  
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو سانپ نکلنے لگے میں نے شیخ کو آواز دی  
فرمایا ذکر اللہ میں لگے رہو میں نے ذکر اللہ شروع کر دیا سانپ چلے  
گئے۔ سمقوڑی دیر کے بعد سانپ پھر آنے لگے پھر میں نے شیخ کو  
آواز دی فرمایا اللہ کے ذکر میں لگے رہو الغرض رات بھر صبح تک یہی  
حال رہا صبح کو شیخ کھڑے ہو کر چلنے لگے میں بھی ان کے ساتھ ساتھ  
چلنے لگا کاتبے میں آپ کے بستر سے ایک طوقدار بڑا سانپ گرا میں نے پوچھا  
کیا آپ کو بستر میں یہ سانپ معلوم نہیں ہوا؟ فرمایا نہیں مجھے  
ایک زمانہ سے ایسی لذیذ نیند نہیں آئی تھی جیسے اس رات میں  
آئی تھی۔

ابو عثمان: جس نے غفلت کی وحشت کا ذائقہ نہیں چکھا اس  
نے ذکر کی لذت والنیت کا مزہ نہیں پایا۔

**تطہیر قلب** بر عبادت گزار و عارف کے لئے ضروری ہے کہ اپنے تمام  
احوال میں رہا کاری سے، غرور سے اور دنیا کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرے  
کیونکہ نفس گندہ ہے اور گمراہ کن خواہشات کا ہلاک کر دینے والی شہوتوں  
کا اور ایسی لذتوں کا جو بندے اور حق تعالیٰ میں حائل ہیں، منشاء  
ہے اور جب تک جسم میں روح ہے انسان کے پاس نفس کی ہلاکت  
کر دینے والی آفتوں سے محفوظ رہنے کی کوئی راہ نہیں اگرچہ وہ درجہ  
ابدال و صدیقین تک پہنچ جائے اگرچہ یہ حالت نسبت ابتدائی  
حالت کے سلامتی والی ہے اور نفس کی براہیوں اور مضرت سے محفوظ  
ہے اور اس حالت میں جبر کا قلب ہے، نور کی کثرت ہے، ہدایت  
موجود ہے، توفیق شامل حال ہے اور حق تعالیٰ کی حفاظت ثابت ہے  
تاہم ہمارے لئے عصمت کی ضمانت نہیں عصمت تو انبیائے کرام



مختص بالانبياء عليهم السلام ليقع الفرق  
بين النبوة والولاية وقد توعد الله عز وجل  
اهل الرياء والسبعة ونبه على شوم النفس و  
عوائدها ونهى عن اتباعها وامر ببغالفتها  
في القرآن تارة وفيما نطق به رسول الله صلى الله  
عليه وسلم من الاخبار والستة اخرى من ذلك  
قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم  
عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون  
ويبينون الماعون وقال جل وعلا يقولون  
يا فواهم ما ليس في قلوبهم والله اعلم  
بما يكتنون وقال تعالى واذا قاموا الى الصلاة  
قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون  
الله الا قليلا مذنبين ذلك لادى هولاء  
ولا الى هولاء وقال تعالى ان كثير من الاحباب  
والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل  
ويصدون عن سبيل الله الاحبار هم العلماء  
والرهبان العباد وقال عز وجل يا ايها الذين  
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا  
عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقال تعالى  
واسروا قولكموا واحصوا به انه عليم بذات  
الصدور وقال جل وعلا من كان يرد جوف لقاء  
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة  
ربه احدا وقال تعالى ان النفس لامارة  
بالسوء الا ما رحم ربي وقال تعالى واحفوت  
الانفس الشح وقال عز وجل لداؤد عليه السلام

عليهم الصلوة والسلام کے لئے مخصوص ہے تاکہ نبوت و ولایت میں فرق  
ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے ریاکاروں کو اور شہرت پسندوں کو ڈرایا اور  
دھمکایا ہے اور نفس کی نحوست اور مغزوں سے خبر دیا کیا ہے اور نفس کی  
پیروی سے منع کیا ہے اور نفس کی مخالفت کا حکم فرمایا ہے یہ باتیں قرآن  
پاک میں بھی ہیں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں ایک جگہ  
حق تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لئے بڑی  
خرابی ہے جو نمازوں میں غفلت برت رہے ہیں اور جو ریاکاری کے طور  
پر نمازیں پڑھتے ہیں اور برتنے کی چیزوں کو روک کر رکھتے ہیں۔ ایک جگہ  
فرمایا کہ زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں اور اللہ ان  
باتوں کو خوب جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں ایک جگہ فرمایا کہ جب  
نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو  
دکھانے کے لئے نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر شاید کچھ کر لیتے  
ہوں بلکہ کرتے ہی نہیں نذذب میں ہیں نذہر میں ادھر میں بکا ادھر میں میں ایک  
جگہ فرمایا کہ بہت سے عالم و درویش باطل سے لوگوں کا مال کھا جاتے  
ہیں اور ان کو اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ احبار سے علماء اور  
رہبوں سے عبادت کر نیوالے مراد ہیں ایک جگہ فرمایا کہ اے ایمان والو  
تم وہ باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہو جن پر تم خود عمل نہیں کرتے یہ فعل  
اللہ کے نزدیک اللہ کے زبردست قصہ کا موجب ہے ایک جگہ فرمایا  
اپنے قول کو چھپاؤ یا ظاہر کرو بلاشبہ اللہ دل کے بیدار خوب جاننے  
والا ہے ایک جگہ فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے  
اسے نیک عمل کرنے چاہئیں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک  
نہ کرے ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو نفس برائی پر کثرت سے ابھارنے والا  
ہے الا یہ کہ کسی وقت میرا پروردگار رحم فرمائے ایک جگہ فرمایا کہ نفس  
میں نخل حاضر کر دیا گیا ہے ایک جگہ حضرت داؤد سے فرمایا کہ اے داؤد  
اپنی خواہش کو چھوڑ دے کیونکہ مجھ سے میرے ملک میں بجز ہوائے



یاد اودا ہجر ہواک ذانہ لا منازع بینا زعنی  
فی ملک غیر المہوی وقال تعالیٰ ولا تتبع المہوی  
فیضلك عن سبیل اللہ۔

واما السنۃ فمن ذلك ما روى عن شداد بن  
اوس رضی اللہ عنہ انہ قال دخلت علی النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم فرأیت فی وجہہ ماساوی  
فقلت ما الذی بک یا رسول اللہ فقال صلی اللہ  
علیہ وسلم اخاف علی امتی الشریک بعدی فقلت  
الشرکون من بعدک یا رسول اللہ فقال صلی اللہ  
علیہ وسلم اما انہم لا یعبدون شسا ولا  
تمرا ولا ثننا ولا حجرا ولکنہم یراءون فی  
اعمالہم والریاء هو الشریک ثم تلا قولہ تعالیٰ فمن کان یرجو لقاء  
ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشریک بعبادۃ ربہ احدًا وقال  
صلی اللہ علیہ وسلم یجاء یوم القیامۃ بصحف مکتومة فیقول  
اللہ عزوجل ملائکة القوا هذا واقبلوا هذا فیقولون وعزتك  
جلالک ما علمنا الا خیرا فیقول تعالیٰ نعم  
ولکن هذا عمل لغیری ولا اقبل الا ما تبغی  
بہ وجہی وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
یقول فی دعائہ اللہم طهر لسانی من الکذب  
وقلبی من التفاق وعملی من الریاء وبصری من  
الخیانة فانک تعلم خائنة الاعین وما تخفی  
الصدور وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تقعدوا  
الا علی عالم یدعوکم من حبس الی حبس من  
الرغبة الی الزهد من الریاء الی الاخلاص  
ومن الکبر الی التواضع ومن المداہنة الی

نفسانی کے کوئی اور جھگڑنے والا نہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہوئی کی  
پیروی نہ کرو ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ اب اس  
سلسلہ میں حدیثیں پڑھیے۔

شداد بن اوس :- میں سرور کائنات صلعم کی خدمت میں حاضر  
ہوا تو میں نے آپ کے چہرے میں ملال کے آثار دیکھے جن سے مجھے مدد  
ہوا میں نے کہا: یا رسول اللہ! صلعم آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا:  
مجھے ڈر ہے کہ میری امت میرے بعد شرک میں نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا:  
یا رسول اللہ! کیا آپ کے بعد لوگ شرک بھی کریں گے؟ فرمایا: کیوں  
وہ سورج کو، چاند کو، مورتی کو اور پتھر کو نہیں پڑھیں گے ہاں عمل  
دکھاوے کے لئے کریں گے اور ریاء شرک ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھ  
کر سنائی کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے نیک عمل کرنے  
چاہئیں اور وہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

نبی اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شدہ صحیفے لائے جائیں  
گے پھر حق تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ انہیں پھینک دو اور انہیں  
قبول کر لو فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کی عزت و جلال کی قسم! ہمیں  
تو ان میں خیر ہی معلوم ہے حق تعالیٰ فرمائے گا: ہاں، لیکن یہ عمل غیر  
کے لئے ہے میں تو وہی عمل قبول کرتا ہوں جس سے میری رضا تلاش کی  
گئی ہو۔ رحمت عالم صلعم ایک دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میری  
زبان کو جھوٹ سے، میرے دل کو لفاق سے، میرے عمل کو ریاء سے اور  
میرے آنکھ کو خیانت سے پاک رکھ کیونکہ تو خیانت کرنے والی آنکھوں کو  
اور ان رازوں کو جو دلوں کے اندر مخفی ہیں جانتا ہے۔

سرور عالم صلعم نے فرمایا کہ تم عالم ہی کے پاس اٹھو بیٹھو وہ تم کو  
پانچ چیزوں سے ہٹا کر پانچ چیزوں کی طرف لائے گا: دنیا کی رغبت  
سے اس کی بے رغبتی کی طرف، ریاء سے اخلاص کی طرف، غرور سے  
عاجزی کی طرف، ہستی سے خیر خواہی کی طرف اور جہالت سے علم کی طرف۔

المناجحة ومن الجهل الى العلم وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول انا خير شريك من اشرك معي شريكاني عمله فهو لشريكى درى انى لا اقبل الا ما خلص لى يا ابن آدم انا خير تقسيم فانظر عملك الذى عملت لغيرى فانما اجرک على الذى عملت له وقال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الامم بالسنا والرفعة فى الدين والتكفين فى البلاد ما لم يعملوا عمل الآخرة للدينيا ومن يعمل عمل الآخرة للدينيا لم يقبل منه وماله فى الآخرة من نصيب وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يعطى الدنيا على نية الآخرة ولا يعطى الآخرة على نية الدنيا وعن النس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة اسرى بي بقوم تفرض شفاهم بمقار<sup>بعض</sup> من نار فقلت لجبريل عليه السلام من هؤلاء قال خطباء امتك الذين يقولون الشىء ولا يعملون به يقولون ما يعرفون ويفعلون ما ينكرون يا مرون الناس بالبر وينسون الفسهم وقال صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف على امتى كل منافق عليم اللسان والذى نفسى بيد لا تقوم الساعة حتى يكون عليكم امراء كذبة ووزراء فجرية واعوان خوننة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة وعباد جهال يفتح الله تعالى عليهم فتنة غبراء مظلمة فيتهوكون تهوك اليهود الظلمة فحينئذ ينقض الاسلام عرو<sup>ن</sup>

سرد عالم صلعم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرکاء میں بہتر ہوں اگر کوئی کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اس کا عمل اسی شریک کے لئے ہے میرے لئے نہیں میں تو وہی عمل قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لئے ہو اسے فرزند آدم میں بہترین تقسیم کرنے والا ہوں لہذا تو اپنے عمل کو دیکھ جو تو نے میرے غیر کے لئے کیا ہے تیرے عمل کا اجر اسی کے ذمہ ہے جس کے لئے تو نے عمل کیا ہے۔

رحمت عالم صلعم نے فرمایا کہ اس امت کو عزت و بزرگی کی دین کی بندگی کی اور دنیا پر حکومت کی بشارت دی گئی ہے بشرطیکہ یہ آخرت کے عمل دنیا کے لئے نہ کرے اور جو آخرت کے عمل دنیا کے لئے کرتے ہیں ان سے وہ عمل قبول نہیں کئے جاتے اور ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ آخرت کی نیت پر دنیا دیتا ہے لیکن دنیا کی نیت پر آخرت نہیں دیتا۔

انس بن مالک بہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ شب معراج میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جس کے ہونٹ آگ کی تینچپیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے حضرت جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے خطباء ہیں جو لوگوں کو عملوں کی ترغیب دیا کرتے تھے اور خود عمل نہیں کیا کرتے تھے لوگوں کو شریعت کے مطابق باتیں بتایا کرتے تھے اور خود شریعت کے خلاف کیا کرتے تھے لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھول جایا کرتے تھے۔

سرد عالم صلعم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ اس منافق کا ہے جو زبان کا عالم ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت نہیں آئیگی جب تک تمہارے امراء جھوٹے، وزراء فاسق و ناجر، مددگار خائن و غدار، عرفاء ظالم، علماء فاسق اور عبادت گزار جاہل نہ ہوں گے، حق تعالیٰ ایک ایسا سیاہ فتنہ ان پر نازل فرمائے گا جس میں پھنس کر ظالم یہودیوں کی طرح متغیر و متبدل رہے۔



عروۃ حتی لا یقال اللہ عن عدی بن حاتم رضی اللہ  
 عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تری  
 بناس یوم القیامۃ فی اعظم نکال ینقول اللہ تعالیٰ  
 انکم کنتم اذا اخلوتم بارزتمونی بالعظائم واذا  
 لقبتم الناس لقیتموهم مخبتین هبتم الناس ولم  
 تعالونی واجلنتم الناس ولم تجلونی وعزتی لا  
 ذیقنکم الیم العذاب و عن اسامة بن زید  
 رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم یقول یلقى رجل فی النار فتندلق اُتبان  
 یطنه فیدار به کما تدور الریحی بها حبا فیتقا  
 له الیس کنت تامر بالمعروف وتنهی عن المنکر  
 ینقول کنت امر بالمعروف ولا آتیہ وانہی  
 عن المنکر و آتیہ ولا اجتنبه وقال النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم رب ما لم یس له من صیامہ الا  
 الجوع والعطش ورب قائم لیس له من قیامہ الا  
 السهر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اھتزلذک  
 العرش وغضب له الرب تبارک وتعالیٰ وقال النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم یبئس العبد عبد حال بیئہ  
 و بین ثواب اللہ عبد من خلق اللہ تعالیٰ یتعبد له  
 رجاء ما فی ید ید یتعبد بدنہ فی مرماتہ  
 فیخرج دینہ ینفسخ ویفیح مروءتہ حتی یجول بیئہ  
 و بین ربہ یرجو اللہ تعالیٰ فی الکبیر و یرجو العبد  
 فی الصغیر یعطى العبد من خدمتہ ما لا یعطى اللہ  
 تعالیٰ من طاعتہ و عن مجاہد رحمہ اللہ انہ قال  
 جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال

جائیں گے اس وقت اسلام کی بخیہ او صہرٹی چلی جائیگی حتیٰ کہ زمین سے  
 کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا۔ عدی بن حاتم: رسول اللہ صلی  
 نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو انتہائی سخت و عظیم عذاب  
 میں لایا جائے گا پھر حق تعالیٰ ان سے فرمایگا کہ جب تم خلوت میں جاتے  
 تھے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے عذاب کو لگا کر کرتے تھے اور  
 جب تم لوگوں سے ملا کرتے تھے تو عاجزی کے ساتھ ملا کرتے تھے تم  
 کو لوگوں کا ڈر تھا میرا ڈر نہ تھا تم لوگوں کو عزت دار سمجھتے تھے مجھے نہیں  
 مجھے اپنی عزت کی قسم میں تم کو دردناک عذاب چکھائے بغیر نہ رہوں گا۔  
 اسامہ بن زید: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے  
 کہ ایک شخص جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے پیٹ کی آنتیں نکل  
 پڑیں گی پھر اسے گھمایا جائے گا جس طرح چکی اپنے گھمانے والے کے  
 ساتھ گھومتی ہے اس سے کہا جائے گا کیا تو اچھی باتوں کا حکم نہیں کیا  
 کرتا تھا اور بری باتوں سے نہیں روکا کرتا تھا وہ جواب دے گا کہ میں  
 لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود ان پر عمل نہیں کیا کرتا  
 تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکا کرتا تھا اور خود باز نہیں آتا تھا  
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روز بیداروں کے لئے ان روزوں کا  
 اجر بجز بھوک و پیاس کے کچھ نہیں اور بہت سے شب بیداروں کے  
 بجز جاگنے کے کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کہ تو توں کی وجہ سے  
 عرش حرکت میں آیا اور رب العزت کو غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین  
 وہ بندہ ہے کہ جس کے اور اللہ کے ثواب کے درمیان اللہ کی مخلوق میں  
 سے کوئی بندہ حائل ہو گیا وہ اس امید پر اسکی عبادت کرتا ہے کہ اسے  
 بھی کچھ اختیارات حاصل ہیں (حالانکہ اس کے اختیار میں کچھ ہی نہیں  
 لہذا اس کا پرستار اسکی رضا کے لئے اپنے جسم کو ناحق مشقت میں  
 ڈالتا ہے لہذا اس کا دین نکل جاتا ہے اور وہ نسخ ہو جاتا ہے اور  
 بدروت ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان آڑ ہو



یا رسول اللہ انی اتصدق بصدقہ فالتمس بہما  
اللہ تعالیٰ و احب ان یقال لی خیرا فنزل قوله سبحانہ  
من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا  
یشرك بعبادۃ ربہ احد ا قال النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان اقوام یختلون  
المدنی بالمدین فیلبسوا للناس حلورا الفسان  
من اللین والسنتمہما حلی من السكر وقلوبہم  
قلوب الذئاب یقول اللہ تعالیٰ ابی یغترون  
ام علی یجتزؤون بی حلفت لا بعثن علی اولئک  
فتنة تدعو الخلیم فیہا حیران و عن منسوخ  
عن ابی حبیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکة یرفعون عمل  
عبد من عباد اللہ فیستکثرونہ ویزکونہ  
حتى ینتھوا بہ الی حیث یشاء اللہ تعالیٰ من  
سلطانہ فیوحی اللہ تعالیٰ الیہم انکم حفظة  
علی عمل عبدی و ان ارقیب علی ما فی نفسہ ان  
عبدی هذا المخلص عملہ فاکتبروا فی سبعین  
و یبعثون بعمل عبد من عبادہ یتقلونہ  
و یحقرونہ حتی ینتھوا بہ الی حیث یشاء اللہ  
من سلطانہ فیوحی اللہ الیہم انکم حفظة علی  
عمل عبدی و ان ارقیب علی ما فی نفسہ ان عبدی  
هذا اخلص لی عملہ فاکتبروا فی علیین و عن  
ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم انه قال ان اللہ تبارک و تعالیٰ  
اذا کان یوم القیامة یقضى بین خلقہ و کل

جاتی ہے بڑی باتوں میں اللہ سے امیدوار ہوتا ہے اور چھوٹی باتوں  
میں بندے سے اور اس معبود (بندہ) کی ایسی خدمت کرتا ہے کہ اللہ  
کی اطاعت بھی ایسی نہیں کرتا۔ مجاہد :- ایک شخص نے رسول اللہ صلی  
کے پاس آکر آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ! میں اللہ کی رضا کے لئے خیرات  
کرتا ہوں اور میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو اس پر حق تعالیٰ  
نے آیت من کان یرجو لقاء ربہ یعنی جو اپنے رب سے ملاقات کا  
امیدوار ہے اسے نیک عمل کرنے چاہئیں اور وہ اپنے رب کی عبادت  
میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ  
میں ایسے لوگوں کا ظہور ہوگا جو دین کے حیلہ سے دنیا کمائیں گے اور  
لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نرمی ظاہر کرنے کے لئے بھیڑ کی کھالیں  
پہنیں گے اور ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہونگی مگر ان کے  
دل بھیڑیوں جیسے ہونگے حق تعالیٰ فرمائے گا کیا وہ میرے عفو و حلم پر  
مغرور ہو گئے ہیں یا مجھ پر جرات و جسارت کر رہے ہیں میں تم کھا  
کہہتا ہوں کہ میں یقیناً ان میں ایک ایسا فتنہ پیدا کروں گا جس سے  
ان سنجیدہ شخص بھی حیران رہ جائیں گے۔ منسوخ از حبیب :- رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کا عمل اسے  
کثیر و پاکیزہ سمجھ کر آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں اور جہاں تک اللہ  
کو منظور ہوتا ہے لے جاتے ہیں پھر حق تعالیٰ ان کے دل میں یہ  
بات ڈالتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل کو محفوظ کرنے والے ہو اور  
میں اس کی باتوں پر نگران ہوں میرے اس بندے کے عمل میں  
خلوص نہ تھا لہذا اسے سجد میں لکھ لو اور فرشتے اللہ کے بندوں میں  
سے کسی بندے کا عمل اسے حقیر سمجھ کر اوپر لے کر چڑھتے ہیں اور  
جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے لے کر چڑھ جاتے ہیں پھر اللہ  
تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم میرے بندے کے  
عمل کو محفوظ کرنے والے ہو اور اس کے دل کے کھٹکوں پر بھی نگران



امۃ جائیۃ فاول من یدعی بہ رجل جمع القرآن  
 ورجل قتل فی سبیل اللہ ورجل کثیر المال  
 فیقول اللہ تعالیٰ للمقاریء ماذا عملت فیما  
 علمت فیقول کنت اقربہ آناء اللیل واطراف  
 النهار فیقول تبارک وتعالیٰ کذبت وتقول الملائکۃ  
 کذبت بل اردت ان یقال فلان قاریء فقد  
 قیل ذلک ویقال لصاحب المال ماذا عملت  
 فیما آتیتک فیقول کنت اصل الرحم والصدق  
 بہ فیقول اللہ تبارک وتعالیٰ کذبت وتقول  
 الملائکۃ کذبت بل اردت ان یقال فلان  
 جواد وقد قیل ذلک ویؤتی بالذی قتل فی سبیل  
 اللہ تعالیٰ فیقول اللہ تعالیٰ لماذا قاتلت فیقول  
 قاتلت فی سبیلک حتی قتلک فی سبیلک فیقول  
 اللہ تبارک وتعالیٰ کذبت وتقول الملائکۃ  
 کذبت بل اردت ان یقال فلان جرمیء وقد  
 قیل ذلک ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم بیدہ علی رکتیہ وقال یا ابا ہریرۃ  
 اولئک الثلاثة اول خلق اللہ عزوجل تسعر  
 بہم النار یوم القیامۃ قال فیبلغ هذا الخبر  
 الی معاویۃ رضی اللہ عنہ فبکی بکاء شدیداً  
 وقال صدق اللہ تعالیٰ وصدق رسولہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم وقرأ هذه الآیۃ من کان یرید  
 الحیاۃ الدنیا وزینتھا نوف الیہم اعمالہم  
 فیہا وہم فیہا لا ینحسون اولئک الذین لیس  
 لہم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا

ہوں میرے بندے کے اس عمل میں خلوص ہے لہذا اس کا یہ عمل عظیم میں  
 لکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن  
 حق تعالیٰ شانہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور ہر امت گھٹنوں کے  
 بل بیٹھی ہوئی ہوگی سب سے پہلے عالم کو اللہ کی راہ میں شہید کو اور مالدار  
 کو بلا یا جائے گا پھر حق تعالیٰ عالم سے پوچھے گا تبا کیا تو نے اپنے علم کے تقاضوں کے  
 پر عمل کیا؟ عالم عرض کرے گا کہ میں ہر وقت وہ لحد علم کے تقاضوں پر عمل  
 کرتا رہا حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے کہ آپ  
 جھوٹے ہیں بلکہ تمہاری نیت (ان عملوں سے) یہ تھی کہ لوگوں میں تمہاری  
 تعریف ہو کہ مفلان مولوی صاحب بڑے عالم ہیں چنانچہ لوگوں میں  
 تمہاری تعریف ہوئی اور مالدار سے کہا جائے گا، میں نے جو کچھ تجھے دیا  
 تھا تو نے اس میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور  
 صدقہ دیا کرتا تھا حق تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے  
 کہ تو غلط کتاب ہے بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے سخی کہا جائے اور لوگوں نے  
 تجھے سخی کہا پھر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو بلا یا جائے گا اور حق تعالیٰ  
 اس سے پوچھے گا کہ تجھے کس لئے قتل کیا گیا وہ عرض کرے گا کہ میں نے آپ کی  
 راہ میں دکاندار سے جنگ کی اور جنگ کرتے کرتے مجھے قتل کر دیا  
 گیا حق تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا  
 ہے بلکہ تو نے اس ارادے سے جنگ کی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، چنانچہ  
 لوگوں نے تجھے بہادر کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے  
 گھٹنوں پر مار کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ اللہ کی مخلوق میں یہی تین قسم کے  
 لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے  
 گی۔ پہلے وہ جس سے یہ حدیث حضرت معاویہؓ کو بھی پہنچی اور آپ خوب  
 پھوٹ پھوٹ کر روئے اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے  
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور آپ نے یہ آیت من کان یرید الحیاۃ الدنیا  
 پڑھ کر سنائی، یعنی جو دنیاوی زندگی اور اسکی زینت چاہتا ہے ہم اسے



رباطل ما كانوا يعملون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسررون وعن عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یومریناس یوم القیامة من اهل النار الی الجنة حتی اذا دلوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا الی قصورها و الی ما اعد اللہ تعالیٰ لاهلها نودوا امرؤهم لا نصیب لہم فیہا فیرجعون بحسرة وندامة ما رجح الاولون والآخرون بثملہا فیقولون یا ربنا لو ادخلتنا النار قبل ان تبرینا ما اریتنا من ثواب ما اعدت لاولیائک فیقول اللہ تعالیٰ ذلک اردت بکم کنتم اذا خلوتتم بارزتمونی بالعظائم واذ القیتم الناس لقیتموہم محبتین متواضعین تراؤن الناس باعمالکم خلاف ما تنظرونی علیہ قلوبکم ہبتم الناس ولم تنہا لونی و احببتم الناس ولم تنجونی و ترکتم للناس ولم تنزکوا الی فالیزم اذ یفکم الیم عذابی مع ما حرمتکم من حزیل ثوابی وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لما خلق اللہ تعالیٰ حبة عدن خلق فیہا مال العین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ثم قال لہا تکلی فی قالت قد افلم المؤمنون ثلاثا ثم قالت انی حرام علی کل نجیل و مرأ و سال رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما النجاة لا غلدا

میں اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیں گے اور دنیا میں ان کے اجر میں کمی نہیں کی جائیگی یہی وہ ہیں جن کے لئے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور انہوں نے دنیا میں جس قدر نیک عمل کئے تھے وہ سب برباد ہو گئے اور ان کے عمل باطل ہیں انہیں لوگوں کے لئے بدترین عذاب ہے اور یہ آخرت میں بڑے گھلٹے والے ہیں۔ عدی بن حاتم طائی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ جہنمیوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ جنت کے قریب آجائیں گے اور انہیں جنت کی خوشبو آنے لگے گی اور اس کے محل دکھیں گے اور وہ نعمتیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے تیار کی ہیں تو پکار کر کہا جائیگا کہ اے ریح جنت سے پھر دو ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں بچھو وہ اس قدر حسرت و ندامت کو بیکر لوٹیں گے جس قدر حسرت و ندامت تمام موقوف والوں کو ہو گی عرض کریں گے کہ اے پروردگار کاش اس ثواب کو دکھانے سے پہلے جو تو نے ہمیں دکھایا اور جو تو نے اپنے اولیاء کے لئے تیار کیا ہے تو ہمیں جہنم میں داخل فرما دیتا حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ وہ تم کو دکھاؤں جب تم تنہا ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے عذاب کو لگا کر کرتے تھے اور جب تم لوگوں سے ملا کرتے تھے تو عاجز و مسکین بن کر ان سے ملا کرتے تھے تم اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لئے انجام دیا کرتے تھے اور تمہارے دلوں میں ان کے خلاف ہوتا تھا تم لوگوں سے ڈرا کرتے تھے مجھ سے نہیں۔ تم لوگوں کی عورت کیا کرتے میری نہیں اور بڑے عمل لوگوں کے ڈر سے چھوڑا کرتے تھے میرے ڈر سے نہیں آج میں نہیں اپنا درخاک عذاب چکھاؤں گا اور تم میرے عظیم ثواب سے بھی محروم رہو گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کہ جب حق تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس میں ایسی ایسی نعمتیں پیدا کیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے ان کے بارے میں کسی سے کچھ سنا اور نہ کسی بشر کے



قال لا تخادع الله تعالى قال وكيف اخادع الله عز وجل قال ان تعمل بما امرك وتريد به غير وجه الله تعالى فالقرا الرياء فانه الشرك بالله تعالى فان المرأى ينادى يوم القيامة باربعة اسماء على رؤوس الخلائق يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر فل عملك وبطل اجرک فلا خلاق لك اليوم فالتمس بحسبك من كنت تعمل له يا مخادع فتعزى يا الله من الرياء والسبعه والنفاق فان ذلك عمل اهل النار قال الله عز وجل ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار يعنى فى الهاوية مع فرعون وهامان وقومهما فان قيل قد جاء فى بعض الاخبار ما يدل على ان رؤية الخلق للعمل لا تصرف وهرماروى عن وكيع عن سفیان عن حبيب عن ابى صالح عن ابى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى اعمل العمل أسترة فيطلع عليه فيعجبني الى نية اجر فقال لك اجر ان اجر السر وأجر العلانية قيل هذا المحمول على أن ذلك الرجل كان يعجبه اقتداء الناس به فى عمله وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فقال له لك اجر ان اجر لعملك واجر لاقتداء الناس بك كما قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة

دل میں ان کا تصور آیا پھر حنت عدن سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کلام کر تو حنت عدن نے تین بار یہ جملہ کہا کہ مومنوں کو فلاح رہر طرح کی کامرانی حاصل ہوگئی پھر کہا کہ میں ہر کچھ س اور دیا کار پر حرام ہوں۔ ایک شخص نے نبی صلی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کل کس چیز پر نجات ملے گی؟ فرمایا اللہ کو دھوکا نہ دے اور اس پر نجات ہے، بولایم اللہ کو کیسے دھوکا دے سکتے ہیں فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو اور اس سے اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو۔ لہذا ریاء سے بچو کیونکہ ریاء اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ریاء کار چار ناموں کے ساتھ پکارا جائیگا، اسے کافر، اسے فاسق و فاجر، اسے غدار و نیک حرام اور اسے گھٹائے والے نیرا عمل مگم ہو گیا اور تیرا اجر گر ادا کیا لہذا آج تیرے لئے کچھ نہیں اسے دھوکا بنا اپنا اجر اسی سے طلب کر جس کے لئے تو عمل کیا کرتا تھا۔ ہمیں ریاء، شہرت اور نفاق سے اللہ کی پناہ کیونکہ یہ جنیوں کے عمل ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا یقین مانو منافق آگ کے سب سے نیچے کا طبقہ ہو، فرعون، هامان کے اور ان دونوں کی قوموں کے ساتھ ہونگے۔ اگر کوئی کہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا عمل کو دیکھنا مفسر نہیں مثلاً وکیع از سفیان از حبيب از ابو صالح از ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس آکر کہا یا رسول اللہ میں ایک عمل کرتا ہوں اور اسے چھپاتا ہوں لیکن اس کی کسی طرح سے لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے اور اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے کیا اس عمل میں مجھے اجر ملے گا؟ فرمایا تمہیں دہرا اجر ملے گا چھپانے کا اجر بھی اور ظاہر ہو جانے کا اجر بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کو دیکھنا مفسر نہیں۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے اس عمل کے ظاہر ہونے سے اس لئے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ میری اس عمل میں اقتداء کریں گے یعنی عمل کے ظاہر ہونے سے تو رنج ہوا لیکن



الحديث الى آخره واما اذا تجرد العجب من  
 الاقتداء به فانه لا اجر له لان العجب يسقط  
 العبد من عين الله وقال الحسن البصري رحمه الله  
 اذا شئت لفيت ابيض فظا ذليق اللسان حديد  
 النظر ميت القلب ترمي ابد انا ولا قلوب وتسع  
 الصوت ولا انيس اخصب السنة واجد بقلوب  
 حتى لقد حدثني جماعة من اصحاب رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم انه لا تزال هذه الامة  
 تحت يد الله في كنفه ما لم تزل قراؤها امراد  
 وما لم تزل ملحاؤها فجارها وما لم يامن  
 خيارها شرارها فاذا هم فعلوا ذلك رفع الله  
 تعالى عنهم يدا وضربهم بالقاقة والفر  
 وملا قلوبهم رعبا وسلط عليهم جبارهم  
 نساموهم سوء العذاب وقال ايضاً رحمه الله  
 بس العبد عبد لئال المغفرة وهو يعمل  
 بالمعصية يخشع ليجسب عنده امانة وانما  
 يتضع بالخيانة ينهي ولا ينهي يا مرو ولا يفعل  
 ان اعطى قتر وان منع لم يعذر وان صح امن  
 وان سقم ندم وان اقتقر حزن وان استغنى  
 فتن يبرج النجاة ولا يعمل يخاف العذاب ولا  
 يجذر يربد الزيادة ولا لشكر ولوثر الثواب  
 ولا يصبر يعجل النوم ولوثر الثوم وقال ابو ما  
 لفرقد السبع وهو جالس في مجلسه وعليه ثياب  
 فاخره وعلی فرقد جبة صرف ثيابي ثياب اهل  
 الجنة وثيابك ثياب اهل النار وجعلوا زهدهم

یہ اقتداء کا خیال کہہ کے خوشی ہوئی اور کسی ترنہ سے اس کا یہ مطلب سول  
 صلعم کو معلوم ہو گیا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے لئے دیہل  
 اجر ہے عمل کا اجر بھی اور لوگوں کی اقتدار کا اجر بھی جیسا کہ رسول اللہ  
 صلعم نے فرمایا کہ جو کوئی نیک طریقہ رائج کرے اسے اس کا اجر ملے گا  
 اور اس پر عمل کرنے والوں کے برابر بھی تیاست تک اجر ملے گا۔  
 لیکن اگر اقتدار کے خیال کے بغیر محض عمل پر مسرت ہو تو عامل کے  
 لئے کوئی اجر نہیں کیونکہ یہ فخر و مسرت انسان کو اللہ کی نگاہ سے گسا  
 دیتی ہے۔ حسن بصریؒ: اگر تم بڑھاپے کو پہنچے تو تم کو ایسے لوگ ملیں گے جو  
 سفید کھڑے، چرب زبان، تیز نظر اور مردہ دل ہونگے تم ان کے بدن دیکھو  
 گے لیکن ان میں دل نہ ہونگے انکی آوازیں سنو گے مگر ان سے مانوس نہ ہو  
 زبانوں سے خوب باتیں بنائیں گے لیکن ان کے دل تھپ زرد ہونگے۔  
 حتی کہ مجھ سے صحابہ کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ یہ امت برابر اللہ تعالیٰ کی  
 رحمت میں اور اس کے زیر سایہ عاطفت رہیں گی جب تک اسکے علماء و امراد  
 کی طرف نہ بھکیں گے اور جب تک اسکے صلحاء برکاروں کی طرف درڑ کر  
 نہ جائیں گے اور جب تک اسکے اچھے لوگ بروں سے خوفزدہ نہ ہونگے لیکن  
 جب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو حق تعالیٰ ان سے اپنی رحمت اٹھائے گا  
 اور ان پر فاقہ و فقر ڈالے گا اور انکے دل دوسروں کے رعب سے بھر  
 دیگا اور ان پر جبار و سرکش حکام مستط فرما دیگا پھر وہ انہیں بدترین  
 عذاب چکھائیں گے۔ حسن بصریؒ: وہ بدترین بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے  
 اور مغفرت مانگتا ہے، عاجزی اس لئے کرتا ہے کہ لوگ اسے امانت دار  
 سمجھیں وہ تو محض خیانت والا اور مکار ہے لوگوں کو برے کاموں  
 روکتا ہے لیکن خود نہیں رکتا۔ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے لیکن  
 ان پر خود عمل نہیں کرتا اگر کچھ کسی کو دیتا ہے تو تنگی کر کے دیتا ہے اور  
 اگر نہیں دیتا تو عذر کا اظہار نہیں کرتا اگر ٹٹا کتا ہے تو اللہ کے عذاب  
 سے ڈرتا رہتا ہے اور اگر بیمار پڑتا ہے تو نادم و پشیمان ہوتا ہے فقر کی



فی ثیابہم وخبیرہم فی صدورہم واللہ لاخذ  
 اعجب بصوفہ من صاحب المطرف بطرفہ مالہ  
 تفاخر الا بسوا ثیاب الملوک وامیتوا فلو بکم  
 بالخشیة وقال عمر رضی اللہ عنہ البس من  
 الثیاب مالہ تستہزی بہ القراء ولا یزدریک  
 السفہاء وکان یقال کن صوفی القلب قطنی الثیاب  
 و فی الجملة الثیاب فی اللباس علی ثلاثۃ اصوب  
 الاتقیاء والاولیاء والبدلاء فلباس الاتقیاء  
 هو الحلال الذی لیس للخلق علیہ تبعۃ ولا  
 للشرع فیہ مطالبۃ فی کل حال سواء کان  
 لباسہم قطناً او صوفاً ازرقاً او بیضاً ولباس  
 الاولیاء ما وقع بہ الأمر وهو اذ فی ما یستتر  
 بہ العورتۃ والجسد ما لا بد منه وتدعو الیہ  
 الضرورۃ لیتحقق بذلک کسراً ہونیتہم فیبلغوا  
 درجۃ الابدال ولباس البدلاء ما جاء بہ  
 القدر مع حفظ الحدود قیص بقیراط او حلة  
 ببائۃ دینار فلا ارادۃ نسوا الی الاعلی ولا  
 ہوی یکسر بالادنی بل ما تفضل بہ المولی  
 من جمیع ما احل واعطى من غیر نصب ولا  
 عناء ولا بشرف من النفس ولا منی و ما سوی  
 ہذا الوجو لا فہو من الجاہلیۃ الاولی و  
 رعوتۃ النفس واتباع الهوی۔

حالت میں پریشانیوں کا شکار رہتا ہے اور تو نگری کی حالت میں نسنوں میں پھنسا  
 رہتا ہے نجات کا امیدوار رہتا ہے اور عملوں سے جی چراتا ہے، عذاب سے  
 خوفزدہ رہتا ہے لیکن احتیاط نہیں برتنا برکت زیادتی کا جو یاں رہتا ہے  
 لیکن شکر اور انہیں کرتا، ثواب کو ترجیح دیتا ہے لیکن صبر نہیں کرتا۔ جلدی  
 سو جاتا ہے اور روزوں میں تاخیر کر دیتا ہے۔ ایک دن حسن نے فرقد سنی  
 سے جو آپکی مجلس میں حاضر تھے، ناخراہ لباس پہنے ہوئے تھے اور ادنیٰ جہر  
 میں بیوس تھے، فرمایا: میرے کپڑے ارہاب جنت کے سے کپڑے ہیں اور  
 تمہارے کپڑے جہنمیوں کے سے ہیں لوگوں نے کپڑوں میں زہر سمجھ لیا ہے  
 حالانکہ ان کے دلوں میں غرور بھرا ہوا ہے اللہ کی قسم بعض انسان ادنیٰ کپڑوں  
 پر اتنا فخر دناز کرتے ہیں کہ اتنا فخر چادروں والے اپنی چادروں پر نہیں  
 کرتے انہیں کیا سو گیا کیوں فخر کرتے ہیں؟ لوگو! ایشا ما نہ لباس پہنوار  
 اپنے دل اللہ کے خوف سے مارو۔ عمرؓ: ایسے کپڑے پہن کر علماء نہیں  
 اور نادان حقیر نہ سمجھیں۔ کہا جاتا تھا دل کا صوفی رصاف بن اور سوتی  
 کپڑے پہن القرض لباس کے سلسلہ میں لوگ تین قسم کے ہیں، پارسا، اولیاء  
 اور ابدال۔ پارساؤں کا لباس حلال ہوتا ہے جس پر نہ کسی کا حق ہے  
 اور نہ شرع کا کچھ مطالبہ ہے وہ ہر قسم کا لباس استعمال کرتے ہیں خواہ  
 سوتی لباس یا نیلا یا سفید اور لباس۔ اولیاء کا لباس حق تعالیٰ کے  
 حکم کے مطابق ہوتا ہے یعنی معمولی لباس جس سے ستر چھپ جائے اور  
 جسم کا وہ حصہ بھی چھپ جائے جس کے چھپانے بغیر چار انہیں اور  
 ضرورت بھی اسے چاہتی ہوتی ہے تاکہ اس لباس سے ان کی خواہشوں کی  
 پائمالی ہو اور ابدال کے مقام تک پہنچ جائیں۔ اور ابدال کا لباس وہ  
 ہے جو انکے مقدر میں ہے اور اس میں تحفظ حدود کی رعایت بھی ہو خواہ  
 ایک قیراط کا ایک کرتہ ہو یا سو دینار کا جوڑا ہو نہ انہیں یہ تمنا ہے کہ ہمارا لباس پیش قیمت اور اعلیٰ ہو اور نہ ہوسکتی ہے کہ ادنیٰ لباس اسے پائمال کرے بلکہ  
 جیسا حلال لباس حق تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے وہی پہن لیتے ہیں اور بلا مشقت و تعب کے اور بلا لالچ و تمنا کے جیسا لباس مل جاتا ہے وہی استعمال کر  
 لیتے ہیں القرض مذکورہ بالا تین لباسوں کے علاوہ باقی لباس جاہلیت تدبیر کے نفس کی رعوت کے اور ہوسنی کی پیروی کے ہیں۔



## پارہواں باب

فضائل ایام ہفتہ و ایام بیض ان دنوں کے وزوں کی تخصیص والی روایات  
اور  
شب و روز کے اوراد و وظائف

\*

باب فی ذکر فضائل ایام الاسبوع و ایام البیض و ما ورد فی  
سیام ذلك من التخصیص و ذکر اوراد اللیل والنهار من  
ذلك ما اخبرنا ابو نصر من والده قال ابانا ابو الحسن علی بن احمد  
قال حدثنا ابو الحسن احمد بن عثمان بن یحییٰ الادعی قال حدثنا  
عباس بن محمد بن حاتم المدوری قال حدثنا حجاج بن محمد الهمدانی قال  
حدثنا ابن جریر قال اخبر فی اسماعیل بن امیة عن ابوبن خالد عن  
عبید اللہ بن رافع مولى ابی سلمة عن ابی هریرة  
رضی اللہ عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم بیوی فقال خلق اللہ تعالیٰ التربة یوم  
السبت وخلق فیها الجبال یوم الاحد وخلق  
الشجر یوم الاثنين وخلق المنکروة یوم الثلاثاء  
وخلق الخیر یوم الاربعاء وبت فیها الدواب  
یوم الخمیس وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر  
من یوم الجمعة آخر الخلق فی آخر ساعة من ساعات  
الجمعة فیما بین العصر الی اللیل وعن النس بن مالک  
رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم عن الایام فسئل عن یوم السبت فقال  
یوم مکر و خدیعة قالوا و کیف ذاک یا رسول اللہ

فضائل ایام ہفتہ ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے خبر دی  
انہیں ابو الحسن علی بن احمد مقری نے خبر دی ان سے ابو الحسن احمد بن  
عثمان بن یحییٰ آدمی نے بیان کیا ان سے عباس بن محمد بن حاتم مدوری نے  
بیان کیا ان سے حجاج بن محمد مدوری نے بیان کیا ان سے ابو جریر نے بیان  
کیا انہیں اسماعیل بن امیة نے خبر دی وہ ابوبن خالد سے اور وہ  
عبید اللہ بن رافع مولى ابی سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت  
کرتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دنوں  
میں تمہیں پڑھ کر فرمایا حق تعالیٰ نے زمین ہفتہ کے دن پیدا کی اور اس کے  
پہاڑے اور کھجور کے دن پیدا کیے اور رخت پیر کے دن پیدا کیے اور کھجور  
رانگ اور طبع اشیاء منگل کے دن پیدا کیے اور خیر بدھ کے دن  
پیدا کی اور زمین پر چار پائے جمعرات کے دن پیدا کیے اور آدم کو  
جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا آدم آخری مخلوق ہیں جو جمعہ کی  
آخری ساعت میں عصر و مغرب کے درمیان پیدا کیے گئے۔

انس بن مالک :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنوں کے بارے میں پوچھا  
کیا چند نچہ آپ سے ہفتہ کے دن کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا یہ  
مکر و فریب کا دن ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا  
اس لئے کہ اس دن قریش نے دارالندوہ میں مجھ سے مکر کیا تھا یعنی  
میرے قتل کی سازش کیا کرتے تھے۔ پھر آپ سے اتوار کے دن کے بارے میں



قال صلی اللہ علیہ وسلم لان فیہ مکرت  
 قریش بنی دار الندوة وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم عن یوم الاحد فقال صلی اللہ علیہ وسلم  
 یوم غرس وعمارۃ قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ  
 قال صلی اللہ علیہ وسلم لان فیہ ابتداء الدنیا  
 وعمارتها وسئل صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم  
 الاثنين قال صلی اللہ علیہ وسلم یوم سفر و تجارة  
 قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ  
 وسلم لان فیہ سافر شعیب النبی علیہ السلام  
 وانجر وسئل صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم  
 الثلاثاء قال صلی اللہ علیہ وسلم یوم دم  
 قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ قال صلی اللہ  
 علیہ وسلم لان فیہ حاضنت حواء وقتل  
 ابن آدم اخاه وسئل صلی اللہ علیہ وسلم  
 عن یوم الاربعاء قال صلی اللہ علیہ وسلم  
 یوم خمس وشؤم قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ  
 قال صلی اللہ علیہ وسلم لان فیہ اغرق اللہ  
 تعالیٰ فرعون وقومه واهلك عاد وثمود  
 وسئل صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الخمیس  
 فقال صلی اللہ علیہ وسلم فیہ قضاء الحوائج  
 والدخول علی السلاطین قالوا وکیف ذلک  
 یا رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم فیہ  
 دخل ابراهیم خلیل الرحمن علی نمرود فقتل  
 حوائجہ واخذ منه هاجر وسئل صلی اللہ علیہ  
 وسلم عن یوم الجمعة فقال صلی اللہ علیہ وسلم

میں پوچھا گیا، فرمایا یہ روشن دن ہے کیونکہ اس دن دنیا کی ابتدا ہوئی  
 اور آباد ہوئی۔ پھر پیر کے دن کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا:  
 یہ سفر و تجارت کا دن ہے لوگوں نے کہا، کس طرح یا رسول اللہ  
 صلعم؟ فرمایا اس لئے کہ اس دن اللہ کے نبی حضرت شعیب نے  
 سفر کیا اور تجارت کی پھر آپ سے منگل کے دن کے بارے میں پوچھا  
 گیا، فرمایا یہ خونِ دن ہے لوگوں نے کہا کس طرح یا رسول اللہ  
 فرمایا اس لئے کہ اس دن حوا، کو حیض کا خون آیا اور اسی دن  
 قابیل نے ہابیل کو قتل کیا۔ اور نبی صلعم سے بدھ کے دن کے بارے  
 میں پوچھا گیا فرمایا یہ کمی اور بے برکتی کا دن ہے، لوگوں نے کہا  
 یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا اس لئے کہ اس دن حق تعالیٰ نے  
 فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا اور عادیوں کو اور ثمود کو  
 کو ہلاک کیا تھا اور رسول اللہ صلعم سے جمعرات کے بارے میں پوچھا  
 گیا فرمایا یہ حاجتیں پوری ہونے کا اور سلاطین کے پاس جانے کا  
 دن ہے لوگوں نے کہا یہ کس طرح یا رسول اللہ؟ فرمایا اسی دن  
 حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے پاس گئے اور اس نے آپ کے گام  
 پورے کئے اور آپ نے اس سے ہاجرہ کو حاصل کیا۔ اور رسول اللہ  
 صلعم سے جمعہ کے دن کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا جمعہ خطبہ و  
 نکاح کا دن ہے لوگوں نے پوچھا کس طرح یا رسول اللہ؟ فرمایا  
 اس دن انبیاء و نکاح کیا کرتے تھے۔

ذہری از عبدالرحمن بن کعب از کعب اپنے والد سے :-

نبی صلعم جمعرات ہی کے دن سفر پیر روانہ ہوا کرتے تھے۔

معاویہ بن قرۃ از انس :- نبی صلعم نے فرمایا: جو مہینہ کی

ارتا ریخ کو منگل کے دن سینگیاں لگوائے حق تعالیٰ اس سے

پورے سال کی بیماری دور فرمادے گا۔

کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ہفتہ کا دن حضرت موسیٰ کو اور



یوم خطبۃ و نکاح قالوا و کیف ذلك یا رسول اللہ  
قال صلی اللہ علیہ وسلم لأن فیہ كانت  
الانبیاء تنکح و روی عن الزہری عن عبد الرحمن  
بن کعب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ  
قال ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
یخرج فی سفر الا یوم الخبیس و عن معاویۃ بن  
قرۃ عن انس رضی اللہ عنہ یرفعہ الی النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم قال من احتجم یوم  
الثلاثاء لسبعۃ عشر من الشهر اخرج اللہ  
تعالیٰ منہ داء سنۃ و قیل ان اللہ تعالیٰ اعطی  
یوم السبت لموسیٰ و الخمیس نبیا مرسلًا و  
اعطی یوم الاحد لعشرین نبیا و لعیسیٰ علیہ  
السلام و اعطی یوم الاثنين لمحمد صلی اللہ  
علیہ وسلم و الثلاثاء و ستین نبیا مرسلًا  
و اعطی یوم الثلاثاء لسلیمان علیہ السلام و  
الخمیس نبیا مرسلًا و اعطی یوم الاربعاء لیعقوب  
علیہ السلام و الخمیس نبیا مرسلًا و اعطی  
یوم الخبیس لادم علیہ السلام و الخبیس نبیا  
و یوم الجمعة لله عزوجل و تقدس قال النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم الہی ما حظ امتی قال  
تبارک و تعالیٰ یا محمد الجمعة لی و الجنة لی  
فاعطیت الجمعة لامتک و الجنة معها و انا  
مع الجنة لامتک و عن انس ابن مالک رضی اللہ  
عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
من صام یوم الاربعاء و الخبیس و الجمعة نبی اللہ

پچاس دیگر پیغمبروں کو دیا، التوار کا دن حضرت عیسیٰ کو اور پچاس دیگر  
پیغمبروں کو دیا، پیر کا دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر ۶۳ پیغمبروں کو  
دیا۔ منگل کا دن حضرت سلیمان کو اور دیگر پچاس پیغمبروں کو دیا۔ جمعرات کا دن  
حضرت یعقوب کو اور دیگر ۵۰ پیغمبروں کو دیا، جمعرات کا دن  
حضرت آدم کو اور دیگر پچاس پیغمبروں کو دیا اور جمعہ کا دن حق تعالیٰ  
جل مجدہ کے لئے مخصوص ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے  
رب میری امت کا حصہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ جل مجدہ نے  
فرمایا: اے محمد! جمعہ میرا ہے اور جنت بھی میری ہے میں  
نے آپ کی امت کو جمعہ معہ جنت کے دے دیا اور میں  
جنت کے ساتھ آپ کی امت کے لئے ہوں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ: رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ  
رکھے حق تعالیٰ جنت میں اس کے لئے مراد کا یا یا تو  
وزیرِ جبر کا محل بنا دیگا اور آگ سے برأت نامہ لکھ دے  
گا۔ ایک لفظ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے  
ہدایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرمت والے  
مہینوں کے تین دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روزے رکھے  
حق تعالیٰ اس کے لئے نو سو سال کی عبادت کا ثواب لکھ  
دیتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتہ اور التوار کا روزہ رکھا  
کر اور بیویوں اور عیسائیوں کی مخالفت کر۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر پیر و  
جمعرات کو آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور  
ان دنوں میں حق تعالیٰ ہر اس بندے کو بخش دیتا ہے جس نے



تعالیٰ له قصر فی الجنة من لؤلؤ و یاقوت و زمرد  
و کتب اللہ تعالیٰ له براءۃ من النار و فی لفظ  
آخر عن النضر بن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم من صام ثلاثة ایام من  
کل شهر الخمیس والجمعة والسبت کتب اللہ  
له عبادۃ تسعمائة سنة و قال صلی اللہ علیہ  
وسلم صوموا یوم السبت والاحد و خالفوا  
الیهود والنصارى و عن ابی ہریرۃ رضی اللہ  
عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
تفتح ابواب السماء کل اتین و خمیس فیغفر  
اللہ تعالیٰ فی ذلک الیوم لکل عبد لا یشرک  
باللہ تعالیٰ شیئا الا امرأ کان بینه و بین  
اخیه شحنا یتقول تعالیٰ انظر و اهد بن حتی  
بیطلحا و روی انه صلی اللہ علیہ وسلم لم  
یدع صومهما حضرا ولا سفرا و لیل و انهما  
یومان تعرض فیہما الاعمال۔

**فصل:** و اما صیام الایام البیض ففیہا  
نفل کثیر من ذلک ما احبرنا ابو نصر عن والدہ  
قال انہا ناہلال بن محمد قال حدثنا النفاش  
قال حدثنا الحسن بن سفیان قال حدثنا سلیمان  
ابن یزید مولیٰ بنی ہاشم قال حدثنا علی بن یزید  
عن عبد الملک بن ہرون عن سعید ابن عثمان  
عن علی بن الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ  
عنه قال صوم یوم الثالث عشر بعد صیام  
ثلاثة الاف سنة و صوم الرابع عشر بعد

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہاں وہ نہیں بخشا جاتا جس کی  
اپنے بھائی سے دشمنی ہو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں  
کو ڈھیل دے دو۔ حتیٰ کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔

منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں  
دونوں کے روزے نہیں چھوڑے نہ حالت قیام میں اور  
نہ سفر میں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دن ہیں جن میں  
اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔

**ایام بیض کے روزے** | ایام بیض یعنی بہراہ کی تیرھویں  
چودھویں اور پندرھویں تاریخوں کے روزوں کے فضائل بہت  
ہیں۔

بہیں ابو نصر نے اپنے والد سے خبر دی، انہیں ہلال بن محمد نے  
خبر دی ان سے نقاش نے بیان کیا، ان سے حسین بن سفیان  
بیان کیا، ان سے سلیمان بن یزید مولیٰ ابو ہاشم نے بیان کیا، ان  
سے علی بن زید نے بیان کیا وہ عبد الملک بن ہرون سے وہ  
سعید بن عثمان سے اور وہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب  
سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا تیرہ تاریخ کا روزہ  
تین ہزار سال کے روزوں کی برابر ہے، چودھویں کا روزہ  
دس ہزار سال کے روزوں کی برابر ہے اور پندرھویں کا  
روزہ ایک لاکھ سال کے روزوں کی برابر ہے۔

ابو اسحق جریر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
فرمایا کہ بہراہ کے تین دن زیزھویں، چودھویں اور پندرھویں  
کے روزے تمام عمر کے روزوں کی برابر ہیں۔

حدیث ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہراہ کے تین دن  
کے روزے رکھے اس نے عمر بھر روزے رکھے۔ اس کی  
تصدیق حق تعالیٰ نے اپنی معزز کتاب میں بھی فرمادی ہے چنانچہ



صوم عشرة آلاف سنة وصوم يوم الخامس عشر  
عشر يعدل صوم مائة الف سنة وثلاثة عشر  
الف سنة وعن ابي اسحاق عن جرير رضي الله عنه  
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام  
ثلاثة ايام من كل شهر ثالث عشر ورابع  
عشر وخامس عشر يعدل صوم الدهر كله  
وعن حفص بن غنيم رضي الله عنه قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة ايام  
من الشهر صام الدهر وقد صدقته الله  
في كتابه العزيز بقوله عز وجل من جاء بالحسنة  
فله عشر امثالها وعن ابن عباس رضي الله  
عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لا يدع صيام الايام البيض في سفر ولا حفر  
وعن الشعبي رحمه الله قال سمعت ابن عمر  
رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه  
وسلم يقول من صام ثلاثة ايام من كل شهر  
ومضى ركعتي الفجر ولم يترك الوتر في سفر ولا  
حفر كتب له اجر شهيد وعن سعيد بن ابي  
هند عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني  
جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث  
لا ادعهن حتى القاه صيام ثلاثة ايام من كل  
شهر والوتر قبل النوم وصلاة الفجر وعن  
عبد الملك بن هارون بن عنترة عن ابيه عن  
جداه قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله  
عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرمایا کہ جو ایک نیکی لائے اس کے لئے دس نیکیاں ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے کے سفر و حضر میں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔

شعبی: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ جو ہر ماہ کے تین دن کے روزے رکھے اور فجر کی سنتوں کو پڑھتا رہے اور سفر و حضر میں وتر نہ چھوڑے اس کے لئے ایک شہید کا اجر لکھا جائے گا۔

سعید بن ابی ہند از ابو ہریرہ: مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ مجھ سے ملنے تک تین بائیں نہ چھوڑنا، ہر ماہ کے تین دن کے روزے، سونے سے پہلے و تراویح چاشت کی نماز۔

عبد الملک بن مروان اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب سے سنا فرماتے

تھے کہ ایک دن میں نصف دن کے قریب سرکار رسالت کی خدمت میں آپ کے حجرے میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا کہ اے علی! یہ جبریل علیہ السلام ہیں اور تم کو سلام کر رہے ہیں، میں نے کہا:

آپ پر اور ان پر سلام ہو یا رسول اللہ! فرمایا: میرے قریب آ جاؤ میں آپ کے قریب ہو گیا فرمایا: علی! حضرت جبریل

علیہ السلام آپ سے فرماتے ہیں کہ ہر ماہ کے تین دن کے روزے رکھ لیا کر پچھلے دن کے روزے کے عوض تمہارے لئے دس ہزار

روزوں کا، دوسرے دن کے عوض تیس ہزار روزوں کا اور تیسرے دن کے عوض ایک لاکھ روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا یہ ثواب میرے ہی لئے خاص ہے یا تمام لوگوں کے لئے ہے؟ فرمایا: علی! یہ ثواب حق تعالیٰ تم کو



عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام  
الدهر ضيق عليه جهنم هكذا وعقد تسعين  
وعن شعيب عن سعد بن ابراهيم قال كانت عائشة  
رضي الله عنها تصوم الدهر وعن يعقوب قال  
حدثنا ابي قال سر سعد رضي الله عنه الصوم  
قبل ان يموت اربعين سنة وعن ابي ادريس عائد  
الله قال صام ابو موسى الاشعري رضي الله عنه  
حتى صار كانه خلال قال نقلت يا ابا موسى  
لو اجبت نفسك فقال اجسامها اريد اني رايت  
السابق من الخيل المضرة وعن ابي اسحاق  
ابن ابراهيم قال حدثني عمار الراهب قال  
رايت سكينۃ الطفارية في منامى وكانت تحضر  
معنا مجلس عيسى بن زاذان بالابلۃ تنحدر من  
البصرة حتى قاتبه قاصدا قال عمار نقلت  
لها يا سكينۃ ما فعل عيسى ففجحت ثم قالت  
قد كسى حلة البهاء وطاقات بباريق حوله  
الخدم ثم حلى وقيل يا قاري ارق فلعمري لقد  
براك الصيام وكان عيسى قد صام حتى انحنى  
واقطع صوته وعن انس رضي الله عنه قال  
كان ابو طلحة رضي الله عنه لا يصوم على  
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل  
الغزو فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لم ارا مفطرا الا يوم الفطر ويوم النحر وعن ابي  
بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قال  
حدثني من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الوادريين غابره۔ حضرت ابو موسیٰ اس قدر روزے رکھا کرتے  
تھے کہ ہلال کی مانند ہو گئے تھے، میں نے کہا ابو موسیٰ! کاش  
تم اپنے نفس کو آرام پہنچاتے، فرمایا روزہ ہی میں راحت ہے  
میں نے دیکھا ہے کہ گھڑ دوڑ میں سب سے آگے وہی گھوڑے  
رہتے ہیں جو ڈبے ہوتے ہیں۔

ابو اسحق بن ابراہیم:۔ مجھ سے عمار راہب نے بیان کیا کہ میں  
نے خواب میں سکینۃ طفاریہ کو دیکھا اور وہ عیسیٰ بن زاذان کی  
مجلس میں ہمارے ساتھ شہر ابلہ میں بصرہ سے آیا کرتی تھیں۔  
تاکہ عیسیٰ سے شرف ملاقات حاصل کریں میں نے ان سے پوچھا  
سکینۃ! عیسیٰ کا کیا حال ہے؟ سنس کہ بولیں انہیں رد لئی و  
نفیات کا جوڑا پہنا دیا گیا ہے اور خدام ان کے چاروں طرف  
لوٹے لے کر گھومتے رہتے ہیں اور وہ زیورات سے آراستہ کر  
دئے گئے ہیں اور اس سے کہہ دیا گیا ہے کہ اسے قاری چڑھ جا میرے  
ودام کی قسم تجھے روزوں نے بری کر دیا ہے۔ عیسیٰ روزے رکھتے  
رکھتے لاغر ہو گئے تھے اور ان کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔

انسؓ:۔ عہد رسالت میں ابو طلحہؓ جنگ کی وجہ سے روزے  
نہیں رکھا کرتے تھے پھر جب رسول اللہ صلعم فوت ہو گئے تو میں  
نے آپ کو عید و بقر عید کے علاوہ بے روزہ نہیں دیکھا۔  
ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام:۔ مجھ سے اس نے بیان  
کیا جس نے رسول اللہ صلعم کو دیکھا کہ آپ گدھی کے موسم میں  
روزے کی حالت میں فرط حرارت و پیاس کی وجہ سے سر  
پو پانی بہایا کرتے تھے۔

سفیان از ابو اسحاق از حارث از علیؓ:۔ رسول اللہ صلعم اللہ  
علیہ وآلہ وسلم ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن  
چھوڑ دیا کرتے تھے۔

جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اس کے بارے میں خبر دیں جو برابر روزے رکھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے یا نہیں؟ فرمایا اس نے روزے نہیں رکھے اور نہ روزے چھوڑے یہ حکم اس پر محمول ہے کہ اس نے عید الفطر اور ایام التشریق میں بھی روزے رکھے جیسا کہ امام احمد نے فرمایا ہے لیکن اگر ان ایام میں روزے چھوڑ دئے جائیں اور سال کے باقی تمام دنوں رکھے جائیں تو منع نہیں بلکہ فضائل سے بھرپور ہیں۔

**روزے کی اجمالی فضیلت** | ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے عمرو بن ربیعہ سے خبر دی اور وہ سلام بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک دن کا روزہ رکھے حق تعالیٰ اسے جہنم سے اتنی دور فرمائے گا جتنی کوسے کی عمر ہوتی ہے کہتے ہیں کوسے کی عمر پانچ سو سال کی ہوتی ہے۔

ابو الدرداء: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھے حق تعالیٰ شانہ اس کے اور آگ کے درمیان ایک خندق مائل فرمادے گا جس کا عرض آسمان زمین کی درمیانی مسافت کی برابر ہوگا۔

ابو سعید خدری: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اس کی ذات کو بقدر نتر سال کی مسافت کے آگ سے دور فرمادے گا۔

صدیقہ رضا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لئے یقیناً آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح خواں بن جاتے ہیں اور زمینوی آسمان کے فرشتے اس کے لئے

فی یوم صائف یصب علی راسہ الماء من شدۃ الحر والعطش وهو صائم وعن سفیان بن ابی اسحق عن الحرث عن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوما ویفطر یوما وما نقل فی حدیث جابر رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما سألہ عمر رضی اللہ عنہ یا نبی اللہ اخبیر فی عن رجل یصوم الدھر کلہ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا صام ذلک ولا افطر فمحمول علی رجل صام الدھر ولم یفطر یومی العیدین وایام التشریق وکذا قال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ واما اذا افطر ہذا الایام وصام بقیۃ السنۃ فلا نھی فی حقہ بل لہ ما ذکرنا من الفضائل۔

**فصل:** فی فضل الصیام علی الجملۃ من ذلک ما اخبیرنا ابو نصر عن والدہ باسنادہ عن عمرو بن ربیعۃ عن سلام بن قیس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما ابتغاء وجه اللہ تعالیٰ بعدہ من جہنم کبعد غراب طار و هو فرخ حتی مات ہرما وقیل ان الغراب یعیش مقدار خمسائۃ سنۃ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا عرضہ کما بین السماء والارض



وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک وجہہ عن النار سبعین خریفاً وعن عائشۃ رضی اللہ عنہا انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد اصبح صائماً الا فتحت له ابواب السماء وسبغت اعضاؤہ واستغفر له اهل سماء الدنیا الی ان تورات بالحجاب وان صلی رکعۃ او رکعتین تطوعا اضاعت له السماء لورا وقالت ازواجه من الحور العین اللهم اقبضہ الینا فقد اشتقنا الی رؤیتہ وان هلال اوسبح تلقاها سبعون الف ملک یکتبونہا الی ان تورات بالحجاب وعن ابی صالح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل حسنة بعد لہا ابن آدم فی بی عشر حسنات الی مئة او سبع مئة حسنة الا الصوم فان اللہ تعالیٰ قال فی بعض کتبه الصوم لی وانا اجزی بہ وخلقوا فمالمائم اطیب عند اللہ من ریح المسک وعن علی رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من منعہ الصیام من الطعام والشراب الذی یشتہیہ اطعمہ اللہ من ثمار الجنة وسقاه من شرابہا وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل اهل عمل باب من ابواب الجنة یدعون منه بذلک العمل ولاهل

سورج کے ڈوبنے تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ ایک یا دو رکعت نفل پڑھے تو اس کے لئے آسمان نور سے جگمگا اٹھتے ہیں اور اس کی حویں کھتی ہیں کہ اے اللہ ان کو سمیٹ کر ہمارے پاس لاہم ان کے دیدار کے مشتاق ہیں اور اگر لالہ الا اللہ یا سبحان اللہ کے تو اس کلمہ کو ستر سزا دہنتے لکھنے کے لئے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں حتیٰ کہ سورج ڈوب جائے۔

ابو صالح از ابو ہریرۃ:۔ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ جو کسی روز نماز آدم کرتا ہے اسے دس سے لے کر ستر تک یا سات سو تک نیکیاں ملتی ہیں علاوہ روزے کے کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں فرمایا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ دار کی منہ کی بھینک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ پیاری ہے۔

علی رضی اللہ عنہ:۔ میں نے رسول اللہ صلعم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جسے روزے حسب خواہش طعام و شراب سے روک دیں اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں سے اور اس کے مشروب سے کھلائے پلائے گا۔

ابو ہریرۃ:۔ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ ہر عمل کے لئے جنت کے دروازوں میں سے ایک مخصوص دروازہ ہے کہ اہل عمل اسی دروازے سے اس عمل کی وجہ سے بلائے جائیں گے اور روزے داروں کے لئے بھی ایک دروازہ ہے جس سے وہ بلائے جائیں گے اسے ریان کہا جاتا ہے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ فرمایا: ہاں ہے اور مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر ان میں سے تم بھی ہو۔

رحمت عالم صلعم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزے ہیں۔

انس بن مالکؓ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے سے تمہارے دل صاف ہو جاتے ہیں۔

ابو ہریرہؓ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزے سے ہے۔

ابو عوفیؓ :- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے سے دار کی نیند عبارت ہے۔ اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کے درجہ قبولیت حاصل کر چکے ہیں۔

ابن عباسؓ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ داروں کے لئے سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا جس پر شہدے ہو گا وہ اس شہدے سے کھائیں گے اور لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے احمد بن ابی الجواری سے روایت ہے کہ مجھ سے ابوسلیمان نے بیان کیا کہ مجھے ابو علی اصم نے ایک بہترین حدیث سنائی، ایسی دل خوش کن حدیث میں نے کبھی نہیں سنی تھی فرمایا کہ روزہ داروں کے لئے خوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھاتے ہوں گے اور لوگ حساب میں مصروف ہوں گے لوگ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم سے تو حساب لیا جا رہا ہے اور یہ لوگ کھانے میں مصروف ہیں حق تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ایک طویل مدت تک روزے رکھتے رہے اور تم روزے نہیں رکھتے تھے یہ راتوں میں بیدار رہتے تھے اور تم آرام سے سو جاتے تھے۔

ابن عباسؓ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- جب روزہ دار اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے مومنوں سے شک جیسے خوشبو پھوٹی ہوگی۔ ان کے پاس جنت کا خوان لایا جائے گا اور وہ اس میں سے عرش کے سایہ میں کھائیں گے۔

سفیان بن عیینہ :- مجھے خبر ملی ہے کہ روزہ داروں کا انظار پر حساب نہ ہوگا۔

الصیام باب یدعون منه یقال له العریان قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ هل احد یدعی

من هذا الا بواب کلھا قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم وانا الرجوان تكون منعم یا ابابکر وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام وقال انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصوم تصفون لکم وکم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لقف الصبر ولکل شیء زکاة وزکاة الجسد الصوم وعن ابی اوفی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لوم الصائم عبادۃ وسکوتہ تسبیح ووعنہ متقبل وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوضع للمصائمین یوم القیامۃ مائدۃ من ذهب علیہا سمک فیا کلون منها والناس ینظرون وعن احمد بن ابی الجواری قال حدثنی انوسلیمان قال جاء فی ابو علی اصم بأحسن حدیث سمعته فی الدنیا قال یوضع للمصوم مائدۃ فیا کلون علیہا والناس فی الحساب قال فیقولون یا رب نحن نحاسب وهولاء ینا کلون قال فیقول انہم طالما صاموا وانظرتہم وقاموا ونمتہم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصائمون اذا خرجوا من قبورہم تنفتح



من افواہم ریح المسک ویؤتون بمائدۃ من الجنة  
 فیاكلون منھا وہم فی ظل العرش وقال سفیان  
 بن عیینة بلغنی ان الصائم لا یجاسب علی ما  
 یفطر علیہ وعن ابی صالح عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ  
 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ  
 عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ  
 واکلہ وشربہ من اجلی والصوم جنة وللصائم  
 فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء  
 ربہ ولخلاف فمہ اُطیب عند اللہ من رائحة  
 المسک وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال  
 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصوم  
 جنة یجتن بہا العبد من النار وعن سعید بن جبیر  
 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن عمر بن الخطاب  
 رضی اللہ عنہ قال ما آسى علی شیء من الدنیا  
 اترکہ خلق الا الصیام فی المهاجرة والمثی الی  
 الصلاة وعن مجاہد عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ  
 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان  
 رجلا صام للہ تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذہبا  
 لم یتوف ثوابہ دون الحساب۔

**فصل:** واما اوراد اللیل والخت علی قیامہ  
 ما اتفق فی الصحیحین وما ذکر فی غیرہما من  
 الکتب فمن ذلک ما روى عن شقیق عن عبد اللہ  
 رضی اللہ عنہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم رجل فقیل یا رسول اللہ ان فلانا نام اللیلۃ  
 حتی اصبح ما صلی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

البصالح ان البوسیرہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا روزہ دار میری وجہ سے اپنی شہوت اور طعام و شراب چھوڑتا ہے اور روزہ ڈھال ہے روزہ دار کو دو مستزین حاصل ہوتی ہیں ایک مسرت تو روزہ کھولنے کے وقت ہوتی ہے اور دوسری مسرت ہمدردگار سے ملاقات کے وقت ہوگی یاد رکھو کہ اس کے منہ کی بھبھک اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے۔

جابر بن عبد اللہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کو بندہ جہنم کی آگ سے ڈھال بناتا ہے۔

سعید بن جبیر از ابن عمر از عمر بن خطاب: مجھے دنیا میں اپنے پیچھے کسی چیز کے چھوڑ جانے پر رنج نہیں ہوتا البتہ موسم گدماہ میں روزے نہ رکھنے کا اور مسجد میں چل کر نماز کے لئے نہ جانے کا حدیث ضرور ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ دونوں عظیم عبادتیں چھوڑ جائیں گی۔

مجاہد از ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لئے نفل روزہ رکھے اور حساب کے دن اسے اس کے عوض دنیا بھر کر سونا دیا جائے تو بھی اس کے روزے کے ثواب سے کم ہا رہے گا۔

\*

**وظائف شب اور شب بیداری** شقیق از عبد اللہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص رات بھر صبح تک سوزا رہا اور نماز نہیں پڑھی فرمایا اس کے کان میں شیطان نے موت دیا تھا۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگا دیتا ہے پھر اگر وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے

ذک رجل بال الشيطان في اذنه وفي الخبز اذا نام  
الرجل عقد الشيطان على راسه ثلاث عقد فان  
تعد وذكر الله تعالى انحلت عقدة وان تو مناً  
انحلت عقدة وان صلى ركعتين انحلت العقد  
كلها واصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح كسلان  
خبث النفس وفي خبر آخر ان للشيطان سعوطا  
ولعوقا وذرورا فاذا سعط العبد ساء خلقه  
واذا لعقه لعقه ذرب لساته بالشروا واذا ذرلا  
نام بالليل حتى الصبح وليس طول القيام في  
صلاة الليل وهي مثني مثني وكثرة الركوع  
والسجود في صلاة النهار وان اراد ان يصليها  
اربعا بتسليمة جاز وصلاة الليل في حق النبي  
صلى الله عليه وسلم نافلة وقريضة وقربة  
وكرامة وفي حق امته مكملة ومنتمة للفرا<sup>يق</sup>  
ومن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال  
كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه  
وسلم اذا رأى رويها قصها على رسول الله  
صلى الله عليه وسلم قال فتمنيت ان ارى رويها  
اقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قال وكنت غلاما شابا غربا وكنت انا في  
المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه  
وسلم فرأيت في الثوم كان ملكين اخذاني  
فذهبا بي الى النار واذا هي مطوية كطي البئر  
واذا الهاقرنان كقرني البئر فرأيت ناسا  
قد عرفتهم فجعلت اقول اعوذ بالله من النار

ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور اگر دھوکے سے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے  
ہے اور اگر دو گانہ پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور صبح کو  
خوش و خرم اور ششاش بشاش ہوتا ہے ورنہ سست و بد مزاج ہوتا ہے  
ایک حدیث میں ہے کہ شیطان کے پاس بلاس العروق اور چھڑکنے  
کی دو اہتہی ہے جب کوئی اس کی بلاس لے لیتا ہے تو بد خلق ہو جاتا ہے  
ہے اور جب اس کا لعوق چاٹ لیتا ہے تو شرارتوں میں چرب زبان ہوتا ہے  
جاتا ہے اور جب اس پر شیطان دو اچھڑک دیتا ہے تو رات بھر  
صبح تک سوتا رہتا ہے۔ رات کی نماز لمبے قیام کے ساتھ درود  
پڑھو اور دن کی نماز میں کثرت سے سجدے اور رکوع ہیں اگر کوئی دن  
کی نماز ایک سلام سے چار رکعت پڑھنا چاہے تو جائز ہے۔ رات  
کی نماز رحمت عالم صلعم کے حق میں نفل بھی ہے اور فرض بھی اور موجب  
تقرب و بزرگی بھی ہے اور امت کے حق میں فرائض کو مکمل کرنے والی ہے  
سالم از ابن عمر:۔ عمد رسالت میں جب کوئی شخص خواب دیکھتا  
تھا تو اس کا ذکر نبی صلعم سے کر دیا کرتا تھا فرماتے ہیں مجھے بھی شوق  
ہوا کہ میں خواب دیکھتا اور نبی صلعم سے بیان کرتا میں ایک فی شادی  
شدہ اور نوجوان لڑکا تھا اور عمد رسالت میں مسجد میں سویا کرتا  
تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر آگ کی طرف  
لے گئے میں نے دیکھا کہ کنوئیں کے من کی طرح آگ کے گڑھے کی من  
نبی ہوئی تھی اور جیسے کنوئیں پر درچہ خیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس  
پر بھی درچہ خیاں لگی ہوئی تھیں میں نے اس میں اپنی جان پہچان کے  
بھی کچھ لوگ دیکھے ہیں آگ کو دیکھ کر بار بار اس سے اللہ کی پناہ  
مانگنے لگا پھر وہیں ایک اور فرشتہ مل گیا اور اس نے مجھ سے کہا آگ  
سے بالکل نہ ڈرو فرماتے ہیں پھر میں نے یہ خواب حضرت حفصہ  
سے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلعم سے بیان کیا فرمایا اے اللہ  
بہت اچھا آدمی ہے کاش رات میں نماز پڑھا کرتا رادی کتاب ہے



اعوذ باللہ من النار فلقینا ملک آخر فقال لی لن تراہ  
قال فقصمتها علی حفصۃ رضی اللہ عنہا علی النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل  
قال فکان رضی اللہ عنہ لا ینام من اللیل الا  
قلیلاً وعن ابی سلمۃ عن عبد اللہ بن عمرو بن  
العاص رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم لا تکن مثل فلان کان  
یقوم اللیل فترک قیام اللیل وعن ابی صالح عن  
ابن شہاب قال اخبرنی علی بن حسین ان اباہ  
الحسین بن علی رضی اللہ عنہما اخبرہ ان علی بن ابی  
طالب رضی اللہ عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم طرقہ ہو وناطۃ ابنتہ رضی اللہ  
عنہما فوجدہما نیا ما فقال الا تصلیان فقلت  
یا رسول اللہ ان النفسنا ید اللہ تعالی فاذا  
شاء ان یمیتنا یبعثنا فالنصف رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم حین قلت ذلک لہ فلم یرجع شیباً  
فسیغتنہ وھو یضرب فخذاً ویقول صلی اللہ  
علیہ وسلم وکان الانسان اکثر شیء جدلاً  
وحدثنا ابو نصر عن والدہ باسنادہ عن سفیان  
الثوری عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ رضی  
اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم رکعتان یصلی بہما العبد فی جوف اللیل  
خیر من الدنیا وما فیہا ولولا ان اشق علی  
امتی لفرضتہا علیہم وحدثنا ابو نصر عن والدہ

اس کے بعد عبد اللہ رات کو برائے نام ہی سویا کرتے تھے۔

ابو سلمہ از عبد اللہ بن عمرو بن العاص :- مجھ سے رسول اللہ صلعم نے  
فرمایا کہ فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ وہ تہجد پڑھا کرتا تھا پھر تہجد چھوڑ  
بیٹھا۔

ابو صالح از ابن شہاب :- مجھے علی بن حسین نے خبر دی انہیں ان کے  
والد حسین نے خبر دی اور انہیں حضرت علی نے خبر دی کہ ایک دفعہ  
رسول اللہ صلعم رات کو میرے اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے  
پاس تشریف لائے اور آپ نے ہم دونوں کو سوتا ہوا پایا پوچھا کیا تم  
نماز نہیں پڑھتے ؟ میں بولا : یا رسول اللہ ہمارے نفس اللہ کے  
ہاتھ میں ہیں پھر جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھاتا ہے۔  
جب میں نے آپ سے یہ بات کہی تو آپ نے کوئی جواب نہیں  
دیا اور آپ واپس لوٹ گئے میں نے سنا کہ آپ اپنی رات پر ہاتھ  
مار کر فرما رہے تھے کہ انسان بڑا جھگڑنے والا ہے۔

ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے سفیان ثوری  
سے انہوں نے ابو الزبیر سے اور انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے خبر  
دی کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ دو گانہ جو انسان رات میں پڑھتا  
ہے دنیا دانیہا سے بہتر ہے اگر مجھے اپنی امت کو تکلیف میں ڈالنے  
کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے ان پر فرض کر دیتا۔

ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے ابو العالیہ سے خبر  
دی۔ ان سے ابو مسلم نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا کہ کسی  
نماز افضل ہے ؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلعم سے پوچھا تھا کہ کسی  
نماز افضل ہے ؟ آپ نے وسط شب کی نماز یا فرمایا آدھی رات  
کی نماز اور اس پر عمل کرنے والے کم ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے  
پروردگار سے سوال کیا کہ اے میرے معبود میرے دل میں تیری عبادت

کرنے کی تڑپ ہے تو عبادت کرنے کے لئے کوئی وقت افضل ہے؟  
 حق تعالیٰ نے وحی بھیج کر آپ سے فرمایا کہ اسے داؤد شروع رات  
 میں اور اخیر رات میں مت اٹھ کیونکہ جو اول شب میں اٹھ کر  
 عبادت میں لگ جاتے ہیں وہ پچھلی شب میں سو جاتے ہیں اور جو  
 پچھلی شب میں اٹھ جاتے ہیں وہ اول شب میں سو جاتے ہیں  
 ہاں درمیانی رات میں اٹھ تاکہ تو مجھ سے خلوت کرے اور میں تجھ سے  
 خلوت کر دوں اور اپنی ضرورت میں مجھ سے مانگ۔

یحییٰ بن مختار از حسن :- بندہ نے کوئی ایسا عمل جو آنکھ میں  
 ٹھنڈک پیدا کرے، پشت کا ہاتھ ہلکا کر دے اور دل کو خوش کرے  
 دے وسط شب میں دائمی قیام سے اور حق میں مال خرچ کرنے  
 سے اچھا نہیں کیا۔

ابوالدرداء :- لوگو! میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے  
 حق میں مشفق ہوں، قبروں کی رحمت سے بچنے کے لئے رات کے  
 اندھیرے میں نماز پڑھا کر دو اور موقف کی حرارت سے بچنے کے  
 لئے دن میں روزے رکھا کر دو اور سخت دن کے خوف سے بچنے  
 کے لئے خیرات کیا کر دو لوگو میں تمہارا خیر خواہ و مشفق ہوں۔

ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے یحییٰ بن ابی  
 کثیر سے خبر دی وہ ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں ابو جعفر نے ابو ہریرہ  
 رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ  
 جب تھائی رات ہوتی رہتی ہے تو حق تعالیٰ دنیوی آسمان پر  
 اتر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اسے  
 قبول کر دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے روزی مانگے اور میں اسے روزی  
 دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے ضرر دور کرنے کی درخواست کرے اور  
 میں اس کا ضرر دور کر دوں؟ صبح صادق تک یہی اعلان ہوتا  
 رہتا ہے۔

باسنادہ عن ابی العالیۃ قال حدثنی ابو مسلم انه  
 سال ابا ذر رضی اللہ عنہ اسی صلاۃ اللیل افضل  
 فقال ابو ذر رضی اللہ عنہ سالت عنہا رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جوف اللیل او قال  
 نصف اللیل وتلیل فاعله وفي بعض الاخبار  
 سال داؤد النبی علیہ السلام ربہ عزوجل وقال  
 اللہی انی احب ان اتعبک نأسی وقت افضل  
 فاوحی اللہ تعالیٰ الیہ یا داؤد لا تقم اول اللیل  
 ولا آخرہ فانہ من قام اولہ نام آخرہ ومن  
 قام آخرہ لم یقم اولہ ولکن قم وسط اللیل  
 حتی تخلو بی واخلوبک وارفع الی حراتک  
 وعن یحییٰ بن المختار عن الحسن رحمہ اللہ انه  
 قال ما عمل عبد عملا اقر لعین ولا اخف  
 لظہر ولا اطیب لنفس من قیام من جوف اللیل  
 بیدام او انفاق مال فی حق وکان ابوالدرداء  
 رضی اللہ عنہ یقول یا ایہا الناس انی لکم  
 ناصح انی علیکم شفیق صلوا فی ظلمۃ اللیل  
 لوحشۃ القبور وصوموا فی الدنیا لحر لوم  
 النشور وتصدقوا بالمخافۃ یوم عسیر یا ایہا  
 الناس انی لکم ناصح انی علیکم شفیق وحدثنا  
 ابو نصر عن والدہ باسنادہ عن یحییٰ بن  
 ابی کثیر عن ابی جعفر انه سمع ابا ہریرۃ  
 رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم اذا بقی ثلث اللیل ینزل اللہ تعالیٰ  
 الی السماء الدنیا فیقول من الذی یدعوخی



فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مِنَ الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَسْتَغْفِرُ لَهُ  
 مِنَ الَّذِي لَيْسَ رِزْقِي فَارْزُقْهُ مِنَ الَّذِي يَسْتَكْشِفُ  
 الْفَرْقَ فَاسْتَكْشَفَهُ عِنْدَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرَ وَحَدَّثَنَا  
 أَبُو نَصْرٍ عَنْ وَالِدِهِ بِإِسْنَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَاءِ  
 الدُّنْيَا ثَلَاثَ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ  
 فَأَغْفِرُ لَهُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيَسْتَجِيبُ لَهُ هَلْ مِنْ  
 سَائِلٍ فَيُعْطِي سؤْلَهُ فَمَنْ تَمَكَّنَ أَنْ يَسْتَجِيبُونَ  
 الصَّلَاةَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَهِيَ أَبِي إِمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُ قَالَ قَبْلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أُمِّي اللَّيْلِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَأَدْبَارِ  
 الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ وَهِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَ الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ  
 عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَخَيْرَ  
 الصَّلَاةِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَرُقُدُ  
 نِصْفَ اللَّيْلِ وَيُصَلِّيُ آخِرَ اللَّيْلِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ سُدُّ  
 اللَّيْلِ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ أَحِبَّ الصَّلَاةَ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ  
 السَّلَامُ كَانَ يَرُقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرُقُدُ  
 آخِرَهُ ثُمَّ يَقُومُ ثَلَاثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ وَقَالَ  
 أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي أَجْعَلُ اللَّيْلَ ثَلَاثًا  
 ثَلَاثًا إِنَّمَا مَثَلُهَا أَصْلَى وَثَلَاثًا اسْتَدْرَكَ فِيهِ حَدِيثٌ

ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے حضرت ابو ہریرہؓ  
 سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری عزت و جلال والا  
 پروردگار ہر رات کو پچھلی تہائی رات میں ذیومی آسمان پر اتر آتا ہے  
 اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہ کی  
 معاف کر دوں؟ ہے کوئی دعا مانگے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے  
 ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے؟ اسی لئے  
 اللہ والے آخری رات میں نماز کو پسند فرماتے تھے۔

ابو امامہؓ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا رات کے کون سے  
 حصہ میں دعا قبول کی جاتی ہے فرمایا رات کے پچھلے حصہ میں اور  
 فرض نمازوں کے بعد۔

عبداللہ بن عمرؓ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین روزے  
 حضرت داؤد کے روزے ہیں آپ ایک دن ناغہ کر کے برابر  
 روزے رکھا کرتے تھے اور بہترین نماز حضرت داؤد کی نماز ہے  
 آپ نصف شب تک سوتے رہتے تھے اور نصف آخر میں نماز  
 پڑھا کرتے تھے کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی تو سو جاتے تھے  
 ابن عمرؓ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- اللہ تعالیٰ کو حضرت  
 داؤد کی نماز بڑی پیاری ہے آپ آدھی رات تک سوتے تھے  
 پھر کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے پھر سو جاتے پھر نصف شب  
 کے بعد والی تہائی رات میں نماز پڑھتے۔

ابو ہریرہؓ :- میں رات کے تین حصہ کر لیتا ہوں ایک تہائی میں  
 سو جاتا ہوں لیکن میں نماز پڑھتا ہوں اور لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 کی حدیثیں پڑھتا ہوں۔

ابن مسعودؓ :- رات کی نماز کو دن کی نماز پر اسی طرح فضیلت  
 ہے جیسے چھپے ہوئے صدقہ کو ظاہری صدقہ پر فضیلت ہے۔  
 عمرو بن العاصؓ :- رات کی ایک رکعت دن کی دس رکعتوں سے بہتر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابن مسعود  
رضی اللہ عنہ ففضل صلاة اللیل علی صلاة النہار  
کفضل صدقة السر علی صدقة العلانية وقال  
عمر بن العاص رضی اللہ عنہ رکعة باللیل خیر  
من عشر بالنہار وسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم جبریل علیہ السلام امی اللیل اسمع فقال  
ان العرش یتنز من السحر وقال النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فان صدق  
الصالحین قبلکم ان یتیام اللیل قربة الی اللہ تعالیٰ  
وتکفیر للیثات ومنہا تہ عن الاثم ومطرت  
للداء عن الجسد حدثنا ابو نصر عن والدہ باسناد  
عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ عنہ  
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی  
اللیل ساعة لا یوافقها عبد یتأل اللہ تعالیٰ  
نیہاشیئاً الا اعطاه ایاہ وہی فی کل لیلۃ قالوا  
وہذا عام مثل الساعة فی یوم الجمعة ومثل لیلۃ  
القدر فی العشر الاخیر من شہر رمضان ویقال  
ان فی اللیل وقتاً لا یدان ینام فیہ ویغفل کل  
ذمی عین الا الحی القیوم الذی لا یموت فعلھا  
ہذا الساعة وفی حدیث عمرو بن عتبہ رضی  
اللہ عنہ علیک بہلا تہ آخر اللیل فانہا مشہورۃ  
محصورۃ تحضرھا ملائکة اللیل وملائکة  
النہار۔

فصل: واما صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم المذكورۃ فی المتفق علیہ فما روى عن ابی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا  
رات کے کس حصہ میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ فرمایا عرش سحر  
کے وقت چھوٹتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تنجہ لازم کپڑ لو کیونکہ تم سے پہلے صلحاء کا  
یہی طریقہ رہا ہے رات کا قیام اللہ سے قریب کر دیتا ہے، برائیاں  
مٹا دیتا ہے، گناہوں سے باز رکھتا ہے اور جسمانی بیماریوں کو ہٹا  
دیتا ہے۔

ہم کو ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے اعمش سے انھوں  
نے ابوسفیان سے اور انھوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ  
نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ  
اسے پالے اور اس میں اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی  
مراہ ضرور پوری فرماتا ہے یہ ساعت پوری رات کے کسی حصہ میں ہے  
علماء کہتے ہیں جیسے جمعہ کے دن قبولیت کی ساعت چھپی ہوئی ہے  
اور جیسے رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر چھپی  
ہوئی ہے اسی طرح ہر رات میں یہ قبولیت کی ساعت چھپی  
ہوئی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ رات میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس وقت  
سوائے حی و قیوم کے کوئی نہیں جاگتا سب سو جاتے ہیں شاید وہی  
وقت قبولیت کا وقت ہے۔

حدیث عمرو بن عتبہ میں ہے: پچھلی رات کی نماز لازم کپڑے  
کیونکہ وہ شہادت دی جانے والی اور حاضر کی جانے والی ہے  
اس وقت دن کے اور رات کے فرشتے موجود رہتے ہیں۔

\*

رحمت عالم کا تہجد | رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو بخار  
وسلم میں مذکور ہے درج ذیل ہے۔



اسحاق قال اتیت الاسود بن یزید وکان لی  
 اخا وصدیقاً قلت له یا ابا عمرو حدثنی ما  
 حدثتک عائشۃ رضی اللہ عنہا عن صلاۃ رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قالت رضی اللہ  
 عنہا کان صلی اللہ علیہ وسلم ینام فی اول  
 اللیل ویحیی آخرہ ثم ان کانت لہ حاجۃ الی  
 اہلہ قضی حاجتہ ثم لم ییس ماء حتی ینام  
 فاذا سمع النداء الاول قالت وثب لا واللہ  
 ما قالت قام فافاض علیہ الماء ولا واللہ  
 ما قالت اغتسل وانا علم ما ترید وان لم  
 یکن جنباً توفراً وضوءاً لا للصلوۃ ثم صلی وعن  
 کریب مولی ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ  
 عنہما انه بات لیلۃ عند میمونۃ ام المؤمنین  
 رضی اللہ عنہا قال فاضطجعت فی عرض  
 الوسادۃ واضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم واهلہ فی طولہا ونام رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا انشصف اللیل  
 او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل استیقظ رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم فجلس فمسح النوم عن وجہہ  
 بیدہ ثم قرأ العشر الایات الخواتم من سورۃ  
 آل عمران ثم قام الی شن معلقۃ فثروا منها  
 فأحسن وضوءہ ثم قام فضلی قال ابن عباس رضی  
 اللہ عنہ فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذهبت فقمت الحیا  
 جنبہ فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الواسحاق :- میں اسود بن یزید کے پاس گیا آپ میرے بھائی اور  
 دوست تھے میں نے آپ سے کہا ابو عمرو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز  
 کے بارے میں آپ سے حضرت عائشہ نے جو کچھ بیان کیا اُسے آپ  
 بیان کریں فرمایا کہ آپ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شب میں  
 سو جایا کرتے تھے اور پچھلی شب کو بیدار رہتے تھے پھر اگر آپ کو بوی  
 کی طرف ضرورت ہوتی تو اپنی ضرورت پوری فرماتے پھر پانی نہیں چھوٹے  
 تھے حتیٰ کہ سو جاتے پھر جب پہلی اذان سنتے تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے  
 اللہ کی قسم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو جاتے بلکہ  
 فرمایا کہ کو ذکر اٹھتے اور اپنے اوپر پانی ڈالتے (یہ نہیں فرمایا کہ نہاتے)  
 حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ اس سے آپ کی کیا مراد تھی اور اگر آپ جنبی  
 نہ ہوتے تو آپ وضو کرتے پھر نماز پڑھتے۔

کریب مولیٰ ابن عباس از ابن عباس: آپ نے ایک رات ام المؤمنین  
 حضرت میمونہ کے گھر میں گزاری فرماتے ہیں کہ میں بستر پر آڑا ہوا  
 لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ بستر پر لیٹے لیٹے  
 لیٹ گئے حتیٰ کہ جب کم و بیش آدھی رات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 بیدار ہوئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور نیند کو ہاتھ سے اپنے منہ سے  
 پونچھنے لگے (یعنی نیند بٹانے کے لئے آنکھیں بند نہ لگے) پھر آپ نے  
 آل عمران کی پچھلی دس آیتیں پڑھیں پھر آپ ایک ٹکے ہوئے شیکڑے  
 کی طرف بڑھے اور اس سے آپ نے کامل وضو کیا پھر آپ کھڑے  
 ہو کر نماز پڑھنے لگے (فرماتے ہیں) میں بھی کھڑا ہوا اور جو کچھ  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی میں نے بھی کیا پھر میں جا کر آپ کے  
 پاس رہا میں طرف کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا  
 ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دامنہا کان پکڑا اور اسے امیٹھا اور  
 مجھے اپنے داہنی جانب کر لیا، پھر آپ نے ہکا دوگانہ پڑھا پھر باہر  
 تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔

یدہ الیمنی علی رأسی فاخذ باذنی الیمنی ففتلہا  
 فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم  
 اور تترماضطجع حتی جاوا المودن ثم فام فصلی رکعتین خفیفین  
 ثم خرج فصلی البصر وعن ابی سلمة عن عائشة قالت ما کنت  
 التقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آخر السجرات وھو قائم عندی  
 یعنی لجه الوتر وعن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان  
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ الدائم من العمل نقلت  
 ای اللیل کان یقول قالت اذا سمع الصارخ  
 وعن الحسن رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم صلوا من اللیل ولو اربع صلوا ولو  
 رکعتین ما من اهل بیت یعرف لھم صلاۃ  
 باللیل الا ناداھم مناد یا اهل البیت قوموا  
 لصلواتکم وعن ابی سلمة عن ابی ہریرۃ رضی اللہ  
 عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 ما اذن اللہ لشیء مثل ما اذن لنبی حسن الصوت  
 یتغنی بالقرآن وعن عروۃ عن عائشة رضی اللہ  
 عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع  
 رجلا یقرأ فی سورۃ من اللیل فقال صلی اللہ  
 علیہ وسلم رحمہ اللہ لقد اذکرتنی کذا و  
 کذا آیۃ کنت اسقطتھا من سورۃ کذا  
 وکذا۔

واما قدر صلاتہ صلی اللہ علیہ وسلم

فی اللیل فما اخبرنا بہ الشیخ ابو نصر عن والدہ

قال حدثنا محمد بن احمد بن ابی الفوارس

قال حدثنا احمد بن یوسف قال حدثنا احمد

ابو سلمہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: میں ہمیشہ رحمت عالم صلعم کو سحر کے پچھلے  
 حصہ میں اپنے پاس سو یا ہوا ہی دیکھا کرتی تھی اس سے آپ کی  
 یہ مراد کہ آپ تہجد اور وتر پڑھ کر سو جایا کرتے تھے۔

مسروق از عائشہ رضی اللہ عنہا: نبی اکرم صلعم کو دائمی عمل محبوب تھا میں  
 نے پوچھا: آپ رات میں کس وقت اٹھا کرتے تھے فرمایا: مرغ کی  
 بانگ سن کر اٹھ جا یا کرتے تھے۔

حسن: رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ رات میں نماز ضرور پڑھو  
 گو چار یا دو رکعت ہی پڑھو جس گھر میں رات کو نماز پڑھی  
 جاتی ہے تو انہیں ضرور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے  
 کہ اسے گھر والو اپنی نماز کے لئے اٹھو۔

ابو سلمہ از ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ  
 نے کسی کا قرآن اس طرح کان لگا کر نہیں سنا جس طرح اپنے محبوب  
 نبی کی پیاری آواز سے قرآن کو سنا آپ قرآن کو اچھی آواز کے  
 ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: سرور عالم صلعم نے سنا کہ ایک شخص رات  
 میں قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ رہا ہے فرمایا حق تعالیٰ اس سے  
 رحم فرمائے اس نے مجھے فلاں فلاں سورت کی فلاں فلاں آیت  
 یاد دلا دی جو میں بھول گیا تھا۔

نبی صلعم کی رات کی نماز | ہمیں شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے خبر کی

ان سے محمد بن ابی الفوارس نے بیان کیا ان سے احمد بن یوسف

نے بیان کیا ان سے احمد بن ابراہیم بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے

ابو بکر نے بیان کیا ان سے لیث نے بیان کیا وہ ابو حنیبلہ سے

وہ عراق سے وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں عروہ کو عائشہ

نے خبر دی کہ رسول اللہ صلعم رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھا کرتے

تھے اور فجر فجر کی دو رکعتیں۔ آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ



بن ابراهيم بن ملحان قال حدثني ابو بكر قال حدثني  
الليث عن ابن ابي جيب عن عراك عن عروة <sup>رضي</sup> الله  
قال ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان  
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل  
ثلاث عشرة ركعة وركعتي الفجر وري انه  
صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل اثنتي  
عشرة ركعة ثم لو تروا احدا وقيل عشر ركعات  
ثم لو تروا احدا -

**فصل** في صلاة الليل وقد ذكر الله تعالى  
القائمين بالليل في كتابه العزيز فقال عز وجل  
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار  
هم يستغفرون وقال جل وعلا تتجافى جنوبهم  
عن المضاجع يبدعون ربهم خوفا وطمعا وقال  
تعالى امن هرقانت آناء الليل ساجدا وقائما  
يئذرا الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال تبارك و  
تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال  
جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى  
ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقال النبي صلى الله  
عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والآخرين  
يوم القيامة نادى مناد ليقيم الذين كانت  
تجافى جنوبهم عن المضاجع يبدعون ربهم  
خوفا وطمعا فيقومون وهم قليل ثم يرجع فينادي  
ليقيم الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع  
عن ذكر الله فيقومون وهم قليل ثم يرجع  
فينادى ليقيم الذين كانوا يجدون الله عز وجل

آپ رات میں بارہ رکعت پڑھا کرتے تھے پھر ایک رکعت وتر پڑھ  
لیا کرتے تھے اور بعض کے نزدیک دس رکعت پڑھ کر ایک رکعت وتر  
پڑھ لیا کرتے تھے۔

**شہد کی فضیلت** | حق تعالیٰ جل مجدہ نے شب بیداری کا ذکر خیر  
قرآن حکیم میں فرمایا ہے فرمایا کہ وہ رات کو برائے نام سوتے ہیں اور  
سبحر کو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں دوسری جگہ فرمایا کہ ان کی گناہوں  
خواب گاہوں سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف و لالچ سے  
پکارتے رہتے ہیں۔ فرمایا: یا وہ جو رات کی ساعتوں میں سجدوں کی  
اور قیام کی حالت میں عبادت میں لگے رہتے ہیں اور آخرت کے ہونے  
سے خوفزدہ رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار بھی  
رہتے ہیں۔ فرمایا: اور جو اپنے رب کے لئے سجدوں اور قیاموں کی  
حالت میں راتیں گزار دیتے ہیں، فرمایا اور آپ رات میں تہجد پڑھیں  
جو آپ کے لئے مزید ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں  
اٹھائے اور نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حق تعالیٰ  
تمام انگوں اور پھپھوں کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی اعلان کرے گا  
ان کو کھڑا ہو جانا چاہیے جن کی کمر میں خواب گاہوں سے دور  
ہو جایا کرتی تھیں اور اپنے پروردگار سے خوف و طمع کے ساتھ  
دعائیں مانگا کرتے تھے یہ سن کر تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے  
پھر منادی اعلان کرے گا انہیں کھڑا ہو جانا چاہیے جن کو تجارت  
اور کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا تھا یہ سن کر گنتی کے آدمی  
کھڑے ہوں گے پھر منادی اعلان کرے گا کہ انہیں کھڑا ہو جانا  
چاہیے جو فراخی و تنگی اور عافیت و مصائب میں ہر حال میں اللہ کی  
نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے یہ سن کر معدودے چند حضرات  
کھڑے ہوں گے پھر ان کے بعد تمام لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔  
رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ دن کے روزے پر سحری سے مدد لو



فی السراء والضراء فيقومون وهم قليل ثم يجاء  
سائر الناس من بعدهم وقال صلى الله عليه وسلم  
استعينوا بطعام السحر على صوم النهار وتقبلوا  
النهار على قيام الليل ان صاحب النوم يحيى ومفلسا  
وما نام احد طول ليله الا بال الشيطان في  
اذنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ربا رداية حتى يصبغ وقالت عائشة رضي الله  
عنها نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة  
حتى الصبح جلداه يجلدي ثم قال يا عائشة  
اتأذنين لي ان اتعبد لربي الليلة قلت والله اني  
لا حب قربك ولكني اودثرهواك ثم قام صلى الله  
عليه وسلم يقرأ القرآن ويكي حتى بل بالدموع  
فكعبه ثم جلس يقرأ حتى بل بالدموع جنبه  
وحقويه ثم اضجع بيكي ويقرأ حتى بل بالدموع  
مايلي الارض فاتاه بلال رضي الله عنه فقال  
يا ابي واخي الم يغفر الله لك قال صلى الله عليه  
وسلم يا بلال افلا اكون عبدا شكورا  
انه انزل علي في هذه الليلة ان في خلق السموات  
والارض واختلاف الليل والنهار آيات  
لاولى الباب الذين يتذكرون الله قياما و  
قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات  
والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه  
نقنا عذاب النار وقالت عائشة رضي الله عنها  
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يملى  
في شيء من صلاة الليل حيا حتى دخل في السن

اور قیام شب بیداری پر دوپہر کو سونے سے صاحب خواب صبح کو  
ویو الیہ ہو کر اٹھتا ہے اور جرات بھر سوتا رہتا ہے شیطان نے یقیناً اس  
کے کان میں موت دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ایک آیت کو  
دہراتے رہتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو جایا کرتی تھی۔

حضرت صدیقہؓ :- ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کہ آپ کا  
جسم میرے جسم سے متصل ہو گیا پھر آپ نے فرمایا عائشہ! کیا تم اس  
رات میں مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ میں  
بولی: اللہ کی قسم مجھے آپ کی نزدیکی محبوب ہے تاہم میں آپ کی  
خواہش و رغبت کو ترجیح دیتی ہوں پھر آپ کھڑے ہو کر رو کر  
قرآن پاک پڑھنے لگے اور اس قدر روئے کہ آپ کے کندھوں  
کو جھک دیا پھر آپ بیٹھ کر قرأت فرماتے لگے اور اس قدر روئے  
کہ آپ کے دونوں پہلو سے کمر کے آنسوؤں سے شرابور ہو گئے  
پھر لیٹے لیٹے رو کر قرآن پڑھتے رہے اور ایسا روئے کہ  
زمین آنسوؤں سے بھیک گئی پھر آپ کے پاس بلالؓ نے  
آکر کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا اللہ  
تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف نہیں فرمادئے فرمایا بلال! کیا میں  
شکر گزار بندہ نہ بنوں حق تعالیٰ نے مجھ پر اس رات میں ان فی  
خلق السموات الخ اتا رہی ہے یعنی یاد رکھو کہ آسمان و زمین کی پیدائش  
میں اور دن رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لئے بڑی بڑی  
نشانیوں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور کردلوں پر یاد کرنے  
رہتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں اور  
کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے یہ (کائنات) بے فائدہ  
پیدا نہیں فرمائی تو پاک ہے لہذا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

حضرت صدیقہؓ :- میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
کبھی تنہا بیٹھ کر پڑھا ہو حتیٰ کہ جب آپ معمر ہو گئے تو بیٹھ کر پڑھا



فجعل یصلی وهو جالس فاذا بقی علیہ من السورۃ ثلاثون  
آیۃ او اربعون آیۃ قام فقرأ بها ثم رکع صلی اللہ علیہ  
وسلم وقال یعمر بن بشر اتیت باب عبد اللہ بن  
المبارک بعد العشاء الاخرۃ فوجدتہ یصلی وهو  
یقرأ اذا السماء انفطرت حتی اذا بلغ یا ایہا الانسان  
ما غرک بربک الکریم وقف یرددھا الی ان ذهب  
ھوی من اللیل فوجعت حین طلع الفجر وهو یرددھا  
فلما رأى الفجر قد طلع قطع ثم قال حملت وھملی  
حلمک وھملی فانسرفت وترکتہ وقال النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم الشتاء ربیع المؤمن تھوی  
نھارہ فصامہ وطلال لیلہ فقامہ وقال ابن مسعود  
رضی اللہ عنہ ینبغی لقاری القرآن ان یعرف  
بلیلہ اذا الناس ینامون وبتھارہ اذا الناس  
یفطرون وبتکاثہ اذا الناس ینحکون ولورعہ  
اذا الناس ینخلطون وبتجشعہ اذا الناس ینتالون  
وبتجزئہ اذا الناس ینفرحون وبتھمتہ اذا الناس  
ینحوضون۔

**فصل:** فی فضل الصلاۃ بین العشاءین حدثنا  
ابو نصر عن والدہ قال حدثنا ابو الفتح محمد بن  
احمد بن ابی الفوارس الحافظ املاء قال حدثنا  
بشر قال حدثنا محمد بن سلیمان المصیبی قال  
حدثنا زید بن العباب عن عمر بن عبد اللہ بن  
خشعم عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی  
ھریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم من صلی ست رکعات بعد المغرب

یا کرتے تھے پھر جب سورت کی ۳۰ یا ۴۰ آیتیں باقی رہ جاتی تھیں تو آپ  
انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے پھر رکوع میں جاتے تھے۔

یعمر بن بشر: میں عشاء کے بعد ابن مبارک کے گھر کے دروازے پر  
آیا میں نے آپ کو نماز کی حالت میں پایا آپ سورہ انفطار پڑھ  
رہے تھے حتیٰ کہ جب آپ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم پر پہنچے  
تو آپ اسی آیت کو پڑھتے رہے ابھی تھوڑی سی رات ہی گزری تھی  
صبح صادق ہونے پر میں واپس آیا اور آپ یہی آیت پڑھ رہے تھے پھر جب  
آپ نے خیال فرمایا کہ صبح صادق ہو گئی ہے تو آپ نے قرأت نوقوف  
کر کے فرمایا تیرے حلم نے اور میری جہالت نے دھوکا میں رکھا میری  
واپسی پر آپ یہی فرما رہے تھے۔ رحمت عالم صدم نے فرمایا، جاڑا مومن  
کی فصل بہار ہے جاڑے کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور مومن روزہ  
رکھتا ہے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں اور مومن شب بیدار رہتا ہے۔  
ابن مسعود: قرآن کے قاری کو مناسب ہے کہ جب لوگ سو جائیں  
تو رات قرآن کی تلاوت کے لئے کوئی حصہ مقرر کر لے اور دن کو روزہ  
رکھے جب کہ لوگ کھاتے پیتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے گناہوں پر  
روتا ہے جب کہ لوگ ہنستے ہیں اور پارسائی کو چھٹا رہے جب کہ لوگ  
حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے اور عابزی کا اظہار کرتا رہے جب کہ  
لوگ مغرور ہوتے ہیں اور گناہوں پر حسرت و افسوس کرتا رہے  
جب کہ لوگ خوش ہونے میں اور خاموش رہے جبکہ لوگ داہمی تباہی ہاتھ  
میں لگے رہتے ہیں۔

**عشاء و مغرب کے درمیان نماز کی فضیلت** | ہم سے ابو نصر  
نے اپنے والد سے بیان کیا، ان کو حافظ ابو الفتح محمد بن احمد بن ابی الفوارس  
نے لکھوایا، ان سے بشر نے بیان کیا، ان سے محمد بن سلیمان مصیبی نے  
بیان کیا اور ان سے زید بن العباب نے عمر بن عبد اللہ بن خشعم سے بیان  
کیا وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ ابو سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روزہ

لم یتکلم بینہن عدلن بعبادۃ ثلثی عشرۃ سنۃ  
 و فی حدیث زید ابن الحباب و لم یتکلم بینہن  
 بسوء و قیل یتعجب ان یقرأ فی الرکعتین الاولین  
 بقل یا ایہا الکافرون و قل هو اللہ احد  
 لیسوع بیہما لانہ قیل انہما یرفعان مع صلاۃ  
 المغرب ثم یصلی باقیہا ویطول فیہا ان شاء  
 و فی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی اربع رکعات  
 بعد المغرب قبل ان یکلم احد ارفعتم لہ فی  
 علیین و کان کمن ادرك لیلۃ القدر فی المسجد  
 الاقصی و هو خیر من تیام نصف لیلۃ و حدثنا  
 ابو نصر عن والدہ باسنادہ عن طارق بن شہاب  
 عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال سمعت  
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی المغرب  
 و صلی من بعدہا اربعاً کان کمن حج بعد حجة  
 قلت فان صلی بعدہا استاق قال یغفر لہ ذنوب  
 خسیں سنۃ و عن سعید بن جبیر عن ثوبان  
 رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم من عکف نفسه ما بین المغرب  
 و العشاء فی مسجد جماعة لم یتکلم الا بھلاً  
 او قرآن کان حقاً علی اللہ ان ینبئ لہ قصرین  
 فی الجنة مسیرۃ کل قصر منہما مائة عام و  
 یغرس لہ بینہما غراسا الوضائف اهل الدنیا  
 لو سعہم و حدثنا ابو نصر عن والدہ باسنادہ  
 عن ہشام بن عروۃ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھے  
 لے اور ان میں کوئی بات نہ کرے ان کا ثواب بارہ سال کی عبادت کی  
 برابر ہے گا۔ زید بن ابی الحباب کی ایک حدیث میں ہے کہ ان کے درمیان  
 کوئی بڑا کلمہ زبان سے نہ نکالے۔ کہا جاتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ پہلی دو  
 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھے تاکہ انہیں جلدی  
 سے پڑھ لے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں رکعتیں مغرب کی نماز کے ساتھ  
 اٹھالی جاتی ہیں پھر باقی نماز اگر چاہے تو طویل پڑھ لے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو کسی سے بات کرنے  
 سے پہلے مغرب کے بعد چار رکعتیں پڑھ لے تو وہ رکعتیں اس کے لئے  
 علیین میں اٹھا کر لے جائی جاتی ہیں اور ان کا اتنا ثواب ہے جیسے کسی  
 نے مسجد اقصیٰ میں شب قدر پالی اور آدھی رات کی شب بیداری سے نہیں  
 ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے بیان کیا وہ طارق بن  
 شہاب سے اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا  
 کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو مغرب کی نماز  
 پڑھنے کے بعد چار رکعتیں پڑھ لے اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی  
 نے حج پر حج کیا میں نے کہا اگر چھ رکعت پڑھ لے تو؟ فرمایا اس کے  
 پچاس سال کے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔ سعید بن جبیر از ثوبان  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد عشاء تک جماعت والی  
 مسجد میں ٹھہرا رہا اور اس نے بجز نماز کے اور قرآن پڑھنے زبان سے  
 کچھ نہیں نکالا تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اللہ اس کے لئے جنت میں  
 دو محل بنا دے جن میں سے محل کی مسافت سو سال کی ہو اور ان کے  
 درمیان ایسا باغ لگا دے کہ اگر دنیا والے اس کے گھر دگھو منا چاہیں  
 تو اس میں سب کے لئے گنجائش ہو۔

ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد بیان کی۔ ہشام بن  
 عروہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم



قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة  
 احب الى الله تعالى من صلاة المغرب بها يفتم العبد  
 ليلته ويختم بها نهاره ولم يحيط عن مسافر ولا  
 عن مقيم من صلاة واحدة صلى بعد ما من غير  
 ان يكلم جليسا نبى الله له قصرين مكلين بالدر  
 والياقوت بينهما من الجنان ما لا يعلم علمه  
 الا الله تعالى وان صلاة واحدة صلى بعد ما من  
 غير ان يكلم جليسا غفر له اربعين عاما وكان  
 ابو هريرة رضي الله عنه يصلي بين العشاءين ثلثي  
 عشرة ركعة وعن هشام بن عروة عن ابيه عن  
 عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب والعشاء  
 عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وروى ان  
 انس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي ما بين المغرب  
 والعشاء ويقول هي ناشئة الليل وعن عبد الرحمن  
 بن الاسود عن عمه انه قال ما اثبت ساعة عبد الله  
 بن مسعود رضي الله عنه الا وجدته يصلي ما  
 بين المغرب والعشاء وكان يقول هي ساعة  
 غفلة وقيل فيها نزلت تنجاني جنوبهم عن  
 المضاجع وعن عبد الله بن ابي ادنى رضي الله  
 عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
 من قرأ بعد المغرب المتنزيل السجد لا وتبارك  
 الذي بيده الملك جاء يوم القيامة ووجهه  
 مثل القمر ليلة البدر وقد ادى حق تلك الليلة  
 وهذه الركعات التي وردت بها الاخبار

فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو مغرب کی نماز سے زیادہ پیاری کوئی نماز نہیں اس  
 کے ذریعے انسان راستہ کا آغاز اور دن کا اختتام کرتا ہے مغرب کی نماز  
 میں مسافر و حضر میں مساوات ہے جو مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد  
 اپنے کسی ساتھی سے بات کئے بغیر چار رکعت نماز پڑھے لے حق تعالیٰ  
 اس کے لئے موتیوں اور یاقوت سے مرصع در محل جنت میں بنا دے گا  
 اور ان کے درمیان ایسے نفیس باغ ہوں گے جن کی خوبیوں کا علم اللہ ہی  
 کو ہے اور اگر مغرب کے بعد اپنے رفقاء سے بات کئے بغیر چھ رکعت پڑ  
 لے اس کے گناہ چالیس سال کے معاف کر دئے جائیں گے ابو ہریرہؓ  
 مغرب و عشاء کے درمیان رکعت پڑھا کرتے تھے۔

ہشام بن عروہ از عروہ از عائشة رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلعم نے فرمایا  
 کہ جو مغرب و عشاء کے درمیان بیس رکعت نماز پڑھے لے حق تعالیٰ  
 اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔

حضرت انس بن مالک مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے  
 تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ رات کا قیام (شب بیداری) ہے۔

عبد الرحمن بن اسود اپنے چچا سے :- جب بھی میں اس ساعت  
 (مغرب و عشاء کی درمیان والی ساعت) میں ابن مسعود کے پاس  
 آیا میں نے آپ کو نماز ہی میں مصروف پایا فرمایا کرتے تھے کہ یہ غفلت کی  
 ساعت ہے۔ کہتے ہیں اسی میں یہ آیت تنجانی جنوبہم الخ اتری یعنی ان کی  
 گردنیں خواہ بگاہوں سے ددر رہتی ہیں (آخر تک)

عبد اللہ بن ادنیٰ: نبی صلعم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد آلم تنزیل  
 السجدة اور سورہ ملک پڑھے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چوہی  
 رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا اور وہ اس رات کا حق ادا کر دیگا  
 ان رکعتوں میں مغرب کی دو رکعتوں کے شمار کرنے کا بھی احتمال  
 اور ان سنتوں سے علیحدہ ہونے کا بھی احتمال ہے۔

مغرب کی نماز سے قبل سنتیں ان کے ہارے میں امام احمد سے

پوچھا گیا فسرایا: میں تو یہ سنتیں نہیں پڑھتا اور اگر کوئی پڑھنے کے لئے توجیح بھی نہیں۔

ابن عمرؓ سے ان کے ہاں سے میں پوچھا گیا فسرایا کہ میں نے عند رسالت میں کسی کو انہیں پڑھتا ہوا نہیں دیکھا اور حضرت ابن عمرؓ نے ان سے منع بھی نہیں کیا۔

انس بن مالکؓ :- ہم عند رسالت میں سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے میں نے آپ سے پوچھا کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو دیکھتے تھے کہ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں اور آپ نہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے اور نہ روکا کرتے تھے۔

ابراہیم نخعیؒ اذکرہ فیہ اکابر صحابہ جیسے علی رضاؓ ابن مسعودؓ خذیفہ رضاؓ عمار رضاؓ اور ابو مسعود انصاریؓ وغیرہ تھے میں نے ان میں سے کسی کو بھی مغرب سے قبل نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور نہ عمر و عثمانؓ نے یہ دو رکعتیں پڑھیں۔

### مغرب و عشاء کے درمیان نیک عملوں کی فضیلت

مغرب و عشاء کے درمیان نیک عملوں کی برکت سے خواب میں رحمتہ للعالمین مقبول رب العالمین کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔

عبدالرحمن بن حبیب حارثی بصری از سعید بن سعد از البر طیبہ کہ زین و بڑھ حارثی (آپ اہل میں سے تھے)

میرے پاس میرا ایک بھائی شامی آیا اس نے مجھے ایک ہدیہ دے کر التنبہ کی کہ براہ کرم یہ ہدیہ قبول فرما لیجئے کیونکہ یہ ایک بہترین ہدیہ ہے میں بولا بھائی صاحب آپ کو یہ تحفہ کس نے دیا ہے؟ فرمایا مجھے یہ تحفہ ابراہیمؓ نے دیا ہے۔ میں نے پوچھا

یجئیل ان تكون منفردة عن الركعتين السنة ويجئیل ان تكون معها۔

فصل: واما الركعتان قبل صلاة المغرب فقد سئل احمد بن حنبل رحمه الله فقال اما انا فلا فعلها وان فعلها رجل لم يكن به

بأس وسئل ابن عمر رضی اللہ عنہما عن صلاتہما فقال ما رأيت احدا علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہما ولم ینہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وروى عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ

قال كنا نصلی علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ركعتين فقلت له هل كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد غروب الشمس قبل صلاة

المغرب ركعتين فقلت له هل كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاهما فقال قد

كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یرانا نصلیہما فلا یامرنا ولا ینہانا قال ابراهیم النخعی

رحمہ اللہ قد کان بالجوفۃ خیار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب

وابن مسعود وخذیفة بن الیمان وعمار بن یاسر و ابو مسعود الانصاری وغیرہم رضی اللہ عنہم فماریت احداً منهم یصلی قبل المغرب

وما صلی ہاتین الركعتین ابو بکر ولا عمرو ولا عثمان رضی اللہ عنہم۔  
فصل: فی ذکر ما ورد فعلہ بین العشاء



ورؤية فاعله للنبي صلى الله عليه وسلم ببركة  
فعله ذلك في المنام وغير ذلك من الثواب عين  
عبد الرحمن بن حبيب الحارثي البصري عن سعيد  
بن سعد عن ابي طيبة كرز بن وبرة الحارثي  
رحمه الله وكان من الابدال قال اتاني اخ  
لي من اهل الشام فاهدني لي هدية وقال لي  
اقبل مني هذا الهدية يا كرز فاشه انعم  
الهدية قال فقلت يا اخي ومن اهدى اليك  
هذا الهدية قال اعطانيها ابراهيم النبي  
رحمه الله تعالى قال فقلت فهل سألت ابراهيم  
من اعطاه هذا العطية قال بلى قال لي كنت  
جالسا في قبالة الكعبة وانا في التهليل والتسليم  
والتحيد فجاؤني رجل فسلم علي وجلس عن  
يمني فلم ارف في زماني احسن منه وجها ولا  
احسن منه ثيابا ولا اطيب منه ريحا ولا اشد  
منه بياضا فقلت يا عبد الله من انت ومن  
ابن جئت وما انت فقال انا الخضر جئت للسلام  
عليك وحبالك في الله وعندى هدية اريد  
ان اهديها اليك فقلت له فاعلمني هديتك  
هذه ما هي فقال الخضر عليه السلام تقر اقبل  
ان تطلع الشمس وتبسط على الارض وقبل ان  
تغرب سورته الحمد سبع مرات وقل اعوذ  
برب الناس سبع مرات وقل اعوذ برب الفلق  
سبع مرات وقل هو الله احد سبع مرات وقل  
يا ايها الكافرون سبع مرات وآية الكرسي

کیا آپ نے ابراہیم سے پوچھا تھا کہ انہیں یہ تحفہ کس نے دیا تھا فرمایا: ہاں انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں کعبہ اقدس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور الحمد للہ یعنی ذکر اللہ میں مصروف تھا کہ میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے اور میری دائیں جانب بیٹھ جاتا ہے میں نے اپنے زمانہ میں اس سے زیادہ حسین و جمیل، اچھے لباس والا بہترین خوشبو والا اور انتہائی گودا کسی شخص کو نہیں دیکھا میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ اور کہاں سے آیا ہے؟ اور کیا ہے؟ بولا: میں خضر ہوں میں سلام کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مجھے آپ سے محض اللہ کے لئے محبت ہے اور میرے پاس ایک تحفہ ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ وہ تحفہ مجھے دکھائیں آخر وہ کیا چیز ہے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ تحفہ یہ ہے کہ آپ سورج نکلنے سے اور دھوپ پھیلنے سے قبل اور سورج ڈوبنے کے بعد سورہ فاتحہ، بار، سورہ ناس، بار، سورہ فلق، بار، سورہ اخلاص، بار، سورہ کافرون، بار، آیت الکرسی، بار پڑھیں پھر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بار پڑھیں اور بار نبی اکرم صلیم پر درود بھیجیں اور اپنے لئے والدین کے لئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے، بار مغفرت کی دعا مانگیں اور ہر استغفار کے بعد، ہا ربہ دعا پڑھیں اللهم انزل بی وبہم عاجلا و آجلا فی الدین و دنیا و الآخرة ما انت لہ اهل ولا تفعل بنا یا مولانا نحن لہ اهل انک غفور حلیم، جو اذکریم برزخ و رحیم اور احتیاط رکھئے کہ روزانہ صبح و شام اسے پابندی سے پڑھتے رہیے۔ جس نے یہ تحفہ مجھے دیا تھا اس نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اسے اپنی عمر میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ مجھے وہ شخص بتادیں

سبع مرات وتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبع مرات وتصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم سبع مرات وتستغفر لنفسك ولو الديك وللمؤمنين والمؤمنات سبع مرات وعقيب الاستغفار اللهم رب افعل بي وبهم عاجلا و آجلا في الدين والدنيا والآخرة ما انت له اهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له اهل انك غفور حلیم جواد كريم برزوف رحيم سبع مرات وانظر ان لاتدع ذلك غدوة وعشية فان الذي اعطا نبيها قال لي قلبا مرة واحدة في دهرك فقلت احب ان تعرفني من اعطاك هذا الهدية قال اعطانيها محمد صلی الله عليه وسلم قال فقلت للخضر عليه السلام علمني شيئا ان قلت له رأيت النبي صلی الله عليه وسلم في منامی فاساله اهو اعطاك هذا العطية فقال لي امتهم ان لي قلت لا والله ولكني احب ان اسمع ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال لي ان كنت تريد ان ترى النبي صلی الله عليه وسلم في منامك فاعلم انك اذا صليت المغرب تقوم وتصلی الى العشاء الآخرة من غير ان تكلم احد من الأرميين واقبل علی صلواتك التي انت فيها وتسلم في كل ركعتين واقرا في كل ركعة سورة الحمد مرة وقل هو الله احد سبع مرات ثم تصلی صلاة العتمة في جماعة ولا تكلمن احد حتى تاتي منزلك وتصلی الوتر وتصلی عند

جس نے آپ کو یہ تحفہ دیا تھا فرمایا: مجھے یہ تحفہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے حضرت خضر سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جسے پڑھ کر میں سو جاؤں اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لوں اور آپ سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ کیا یہ تحفہ آپ ہی نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا فرمایا: کیا تم مجھ پر اتمام لگاتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کی قسم اتمام نہیں لگاتا لیکن میں یہ بات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی سنا چاہتا ہوں فرمایا اگر تم خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا در کھو جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو عشاء تک نوافل پڑھتے رہو اور کسی سے بات نہ کرو اور اپنی نسا میں مشغول رہو اور ہر دو گانہ پر سلام پھیر دو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص ۷ بار پڑھو پھر جماعت سے عشاء کی نماز پڑھو اور کسی سے بات نہ کرو حتیٰ کہ اپنے گھر آ جاؤ اور تیر پڑھو اور سوتے وقت دو رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ۷ بار پڑھو پھر سلام پھیر کر سجدے میں جاؤ اور سجدے میں ۷ بار استغفار ربی من کل ذنب والتوب الیہ اور ۷ بار سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو پھر سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھو اور دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھو یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین و یا رمن الدنیا والآخرة ورحیمہا یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ پھر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کہ یہی دعا پڑھو پھر سجدے میں جا کر یہی دعا پڑھو پھر تہ ریح لیٹ کر جہاں چاہو سو جاؤ لیکن درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔

میں نے کہا براہ کہ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے یہ دعا کس سے



نو مک رکعتین تقرأ فی کل رکعة سورۃ الحمد و  
 قل هو اللہ احد سبع مرات ثم اسجد بعد الصلوة  
 واستغفر اللہ تعالیٰ فی سجودک سبع مرات وقل  
 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر  
 ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبع مرات  
 ثم ارفع رأسک من السجود واسترحب لسا فارفع  
 یدیک وقل یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام  
 یا الہ الاولین والآخرین ویا رحمن الدنیا والآخرۃ  
 ورحیمہما یارب یارب یا اللہ یا اللہ یا اللہ  
 ثم قم فادع بمثل ما دعوت فی قیامک ثم اسجد  
 وادع فی سجودک مثل ما دعوت ثم ارفع رأسک  
 وند حیث شئت مستقبل القبلة وانت تعملی  
 علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وادم ذلك حتی  
 یغلبک النوم فقلت احب ان تعلمنی من سمعت  
 هذا الدعاء فقال امثمتہم انت لی فقلت والذی  
 بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق نبیا ما  
 انا بمتہم لک فقال علیہ السلام انی حضرت محمد  
 صلی اللہ علیہ وسلم حیث علم هذا الدعاء  
 و اوصی الیہ بہ وکنت عند لا تتعلمتہ من علیہ  
 ایما قال ابراہیم فقلت لہ انہر فی ثواب هذا  
 الدعاء فقال لی الخضر علیہ السلام اذا القیت  
 صلی اللہ علیہ وسلم فاسالہ عن ثوابہ قال ابراہیم  
 ففعلت ما قال لی الخضر علیہ السلام ولم ازل  
 صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی فراشی  
 فذهب عنی النوم من شدۃ الفرح بما علمنی

سنی؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام بھی مجھے معلوم ہو جائے  
 فرمایا کیا تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا اس کی قسم جس نے  
 سرور عالم صلعم کو سچا نہیں بنا کر بھیجا ہے میں آپ کو جھوٹا نہیں  
 سمجھتا پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار رسالت  
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس جگہ حاضر ہوا تھا جہاں آپ کو  
 یہ دعا سکھائی گئی تھی اور آپ پر اس دعا کی وحی کی گئی تھی میں نے  
 اسی شخص سے یہ دعا سیکھی جس نے آپ کو یہ دعا سکھائی تھی۔  
 ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس  
 دعا کا ثواب بتائیے، یہ سن کر مجھ سے حضرت خضر  
 علیہ السلام نے کہا کہ جب تم خواب میں سرکار رسالت  
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو آپ سے اس  
 دعا کے ثواب کے بارے میں پوچھنا۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے  
 حضرت خضر کی ہدایات پر عمل کیا اور میں بستر پر جا کر برابر  
 درود پڑھتا رہا لیکن اس دعا کو سیکھ کر فرط مسرت کی وجہ سے  
 مجھے رات بھر نیند نہیں اور یہ بھی مسرت تھی کہ خواب میں  
 سرکار رسالت سے ملاقات ہو جائے گی مگر غلبہ مسرت کی  
 وجہ سے نیند آر گئی اور درود پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی۔  
 آخر کار میں نے اٹھ کر صبح کی نماز پڑھی اور میں مسجد کی  
 محراب میں دن چڑھتے تک بیٹھا رہا اور میں نے چاشت  
 کی نماز پڑھی لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو  
 آج رات بھی وہی عمل کروں گا جو گزشتہ رات کیا تھا آج درود  
 پڑھتے پڑھتے مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا  
 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے، اور  
 جنت میں داخل کر دیا میں نے جنت میں سدرج یا قوت کے  
 سبز زمرود کے اور سفید موتی کے محل دیکھے اور شہد،

الخضر عليه السلام وبأرجوته من لقاء النبي صلى  
الله عليه وسلم وأصنحت على تلك الحال إلى أن  
صليت الفجر وجلست في محرابي إلى أن ارتفع  
النهار فصليت الضحى وأنا أحدث نفسي أن  
عشت الليلة فعلت هذا كما فعلت في الليلة  
الماضية فغلبني النوم فجاءتني الملائكة فحملوني  
فأدخلوني الجنة فرأيت قصورا من الياقوت الأحمر  
وقصورا من زمرد أخضر وقصورا من لؤلؤا بيضا  
ورأيت أنهارا من عسل ولبن ونخورد رأيت في  
قصر منها جارية أشرفت على فرأيت نور وجهها  
أشد من نور الشمس صاحبة وإذا لها ذائب  
قد سقطت على الأرض من أعلى القصر فسألت  
الملائكة الذين أدخلوني لمن هذا الفقير ولين  
هذا الجارية فقالوا الذي يعمل مثل عملك  
فلم يخرجوني من تلك الجنان حتى اطعنوني من ثمرها  
وسقوني من ذلك الشراب ثم أخرجوني وردوني  
إلى الموضع الذي كنت فيه فأتاني رسول الله  
صلى الله عليه وسلم ومعه سبعون نبيا وشعبون  
صفا من الملائكة كل صف مابين المشرق  
والمغرب فسلم علي وأخذ بيدي فقلت يا  
رسول الله صلى الله عليك وسلم إن الخضر أخبرني  
أنه سمع منك هذا الحديث فقال النبي صلى الله  
عليه وسلم صدق الخضر وكل ما يحكيه فهو  
بالحق وهو عالم أهل الأرض وهو رب تيسر الجبال  
وهو من جنود الله في الأرض فقلت يا رسول الله

دردھ اور شراب کی نرس دیکھیں ہیں نے جنت کے ایک محل  
میں ایک خاتون دیکھی جو مجھے جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے میں نے  
دیکھا اس کا چہرہ سورج سے بھی کہیں زیادہ جگمگا رہتا تھا اور  
اس کی زلفیں محل کے بالائی حصہ سے ٹک کر زمین پر گری  
ہوئی تھیں میں نے ان فرشتوں سے پوچھا جو مجھے جنت میں  
لے گئے تھے کہ یہ (عالی شان) محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے  
کہا یہ اس کا ہے جو تم جیسا عمل کرے پھر فرشتے مجھے جنتوں  
سے باہر نہیں لائے جب تک مجھ اس کے پھل نہیں کھلائے  
اور ان نروں کا مشروب نہیں پلایا پھر مجھے جنتوں سے باہر لے  
آئے اور اسی جگہ پہنچا دیا جہاں میں تھا پھر میرے پاس  
رحمۃ للعالمین معہ ستر انبیائے کرام کے تشریف لے آئے آپ  
کے ساتھ فرشتوں کی شتر قطاریں تھیں اور ہر قطار مشرق و مغرب  
کی درمیانی مسافت کی برابر طویل تھی آپ نے مجھے سلام کیا اور  
میرے دونوں ہاتھ تھام لئے میں نے کہا یا رسول اللہ خضر  
علیہ السلام نے مجھے خیر دی ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ  
حدیث سنی ہے آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام نے سچ کہا  
اور ہر وہ شخص جو اسے نقل کرتا ہے وہ بھی سچا ہے اور زمین والوں  
میں عالم ہے اور ابدال کا سردار ہے اور زمین والوں پر اللہ  
کے شکر و ن کار ٹیس ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! (معلم)  
اس عمل کے کرنے والے کو جب اس کے جو میں نے دیکھا اور  
کہا ثواب ہے؟ فرمایا: اس ثواب سے جو تم نے دیکھا اور  
تم کو دیا گیا اور کون سا ثواب افضل ہو سکتا ہے تم جنت  
میں اپنی جگہ دیکھ لی ہے جنت کے پھل کھائے اور جنت کا  
مشروب پی لیا اور تم نے فرشتے اور انبیائے کرام میرے ساتھ  
دیکھے اور تم نے بڑی آنکھوں والی حوریں دیکھ لیں۔ میں نے



ما لمن يعمل هذا العمل من الثواب سوى ما رأيت  
فقال صلى الله عليه وسلم لي وامي ثواب يكون افضل  
من هذا الذي رأيت وأعطيت لقد رأيت موضعك  
من الجنة وأكلت من ثمارها وشربت من شرابها  
ورأيت الملائكة والانبياء معي ورأيت الحور  
العين فقلت يا رسول الله فمن يعمل مثل ما عملت  
ولم ير مثل الذي رأيت في مناجي حل يعطى شيئاً  
ما أعطته فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذ  
بعثني بالحق نبياً انه ليغفر له جميع الكبائر التي  
عملها ويرفع الله عنه غضبه ومقتله والذي  
بعثني بالحق نبياً انه ليعطى العامل لهذا وان  
لم ير الجنة في منامه مثل ما أعطيت وان ناديا  
ينادي من السماء ان الله قد غفر لعامله وجميع  
امته صلى الله عليه وسلم من المؤمنين و  
المؤمنات من المشرق الى المغرب ولومر صاحب  
الشمال ان لا يكتب على احد منهم شيئاً من  
السيئات الى السنة المقبلة قال فقلت له بابي  
انت واهي يا رسول الله بالذي ارا في جمالك وارا في  
الجنة اله هذا الثواب قال صلى الله عليه وسلم  
نعم يعطى ذلك جميعاً فقلت يا رسول الله انه ينبغي  
لجميع المؤمنين والمؤمنات ان يتعلموه ليعلموا  
من الثواب والفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم  
والذي بعثني بالحق نبياً ما يعمل بهذا الا من  
خلقه الله سعيداً ولا يتركه الا من خلقه الله  
شقيماً فقلت يا رسول الله فهل يعطى عامل هذا

کہا یا رسول اللہ! اگر کوئی یہی عمل کرے جو میں نے کیا تھا اور جو کچھ  
میں نے خواب میں دیکھا وہ اسے دکھائی نہ دے تو کیا اسے وہ چیزیں  
دی جائیں گی جو مجھے دی گئی ہیں فرمایا اس کی قسم جس نے مجھے برحق نبی  
بنا کر بھیجا اس کے تمام بڑے گناہ جن سے اس نے ازکاب کیا ہے  
بخش دئے جاتے ہیں اور حق تعالیٰ اس سے اپنا قہر و غضب  
اٹھالیتا ہے اس کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے  
اس کے عامل کو وہی سب کچھ دیا جاتا ہے جو تم کو دیا گیا اگرچہ  
وہ خواب میں جنت کو نہ دیکھے اور ایک اعلان کرنے والا آسمان  
سے اعلان کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کے عامل کو بخش دیا اور  
رحمت عالم صلعم کی تمام امت کو بھی خواہ مرد ہوں یا عورتیں اور  
مشرق میں ہوں یا مغرب میں اور بائیں کندھے والے فرشتہ کو  
حکم دے دیا جاتا ہے کہ اگلے سال تک ان میں سے کسی کی کوئی  
برائی نہ لکھے فرماتے ہیں پھر میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر  
آزبان ہوں، یا رسول اللہ! اس کی قسم جس نے مجھے آپ کے دیدار  
سے نوازا اور مجھے جنت دکھائی کیا اس عمل کے عامل کو بھی یہی نوا  
ہے؟ فرمایا: ہاں، اسے بھی یہی سب کچھ ملے گا۔ میں نے کہا یا رسول  
تمام مردوں اور عورتوں کو لائق ہے کہ یہ عمل سیکھیں اور دوسروں کو  
بھی سکھائیں کیونکہ اس میں بہت کچھ نصیحت و ثواب ہے فرمایا  
اس کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا اس کا عامل وہی ہوتا ہے  
جسے اللہ سعادت نصیب فرما کر پیدا کرتا ہے اور اسے وہی  
چھوڑتا ہے جسے اللہ شقاوت دے کر پیدا کرتا ہے میں  
نے کہا یا رسول اللہ کیا اس عمل کے عامل کو اس ثواب کے  
علاوہ کچھ اور بھی ملتا ہے؟ فرمایا اس کی قسم جس نے  
مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا اگر کوئی یہ عمل ایک رات کر لے تو اسے  
ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جس قدر آسمان

سے مینہ کے قطرے گریں گے ہر قطرے کے بدلے نیکیاں ملیں گی اور تمام ان دانوں کی تعداد میں جو زمین سے اُگتے ہیں برائیاں مٹا دی جائیں گی یہی احساں اگلوں اور پھلوں میں سے ہر مومن مرد و عورت کے لئے ہے جو اس پر عمل میں اعرج از ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جمعہ کی شب میں دو گناہ ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک ایک بار اور سورہ اخلاص ۵۵ بار پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر ایک ہزار بار اللہ صلی علی محمد النبی الامی پڑھے تو وہ مجھے خراب میں دیکھ لے گا اور اگلا جمعہ آنے نہیں پائے گا کہ وہ مجھے دیکھ لے گا اور جو مجھے دیکھ لے اس کے لئے جنت ہے اور اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔ یہ معنی ایک حدیث میں بھی مذکور ہے۔

عشاء کے بعد نماز ہم سے ابو نصر نے اپنی اسناد سے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر کوئی عشاء کے بعد چار رکعت نماز پڑھے گویا اس نے مسجد حرام میں شب قدر پالی۔

اسی طرح کعب احبار سے روایت ہے کہ جو عشاء کے بعد اچھی قرأت سے چار رکعت نماز پڑھے اسے شب قدر کی برابر ثواب ملے گا ایک لفظ میں ہے گویا اس نے شب قدر میں نماز پڑھی۔

ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے ثابت بنانی سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کے بعد دو گناہ پڑھے اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور ۲۰ بار سورہ اخلاص

شیا غیر هذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثنی بالحق نبیا ان من عمل هذا العمل لیلۃ واحد کتبت له بعد دکل قطرة تزلت من السماء منذ خلق اللہ الدنیا الی یوم ینفخ فی الصور حسنات و یمحی عنہ بعد دکل حبة تنبت من الارض سیئات له و لمن عمل به من المؤمنین و المؤمنات من الاولین و الآخین و عن الاعرج عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی لیلۃ الجمعة رکعتین یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب و آية الكرسی مرة و خمسة عشر مرة قل هو اللہ احد و یقول فی آخر صلاته الف مرة اللهم صل علی محمد النبی الامی فانہ یرانی فی المنام و لاتتم له الجمعة الاخری الا و قد رآنی و من رآنی قلبه الجنة و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر ذکرها فی الحدیث۔

فصل : فی ذکر الصلاة بعد العشاء الآخرة من ذلك ما حدثنا به ابو نصر عن والدہ باسناد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال من صلی اربعاً بعد العشاء الآخرة کان کمن ادرک لیلۃ القدر فی المسجد الحرام و کذلک عن کعب الاحبار من صلی بعد العشاء الآخرة اربع رکعات بقراءة حسنة کان له من الاجر مثل لیلۃ القدر یعنی کأنما صلاها فی لیلۃ القدر و اخبرنا ابو نصر عن والدہ باسناد عن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم



من صلی رکعتین بعد العشاء الاخریة یقرأ بفاتحة الكتاب  
مرّة وعشرون مرّة قل هو الله احد بنی الله قسرين فی الجنة  
بیتاً هما اهل الجنة۔

**فصل** : واما الوتر فالفضل فيه آخر الليل لما  
نقل من فضل قيام آخر الليل وسالوا عن نافع  
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم قال ان رجلاً سألہ عن تيام الليل فقال  
متنی متنی فاذا خشيت الصبح فواحدة توترك ما  
قبلها وكان عمر الفاروق رضی اللہ عنہ  
یوتر فی آخر الليل والابوبکر الصديق رضی اللہ عنہ  
یوتر فی اول الليل نسألہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
فقال لا بی بکر رضی اللہ عنہ متنی توتر فقال اول  
الليل قبل ان انام وقال لعمر رضی اللہ عنہ  
متنی توتر فقال من آخر الليل فقال صلی اللہ علیہ  
وسلم عن ابی بکر رضی اللہ عنہ حدیثاً وقال  
عن عمر رضی اللہ عنہ قوی هذا وقد روی عنہ  
رضی اللہ عنہ انه قال ان الاکیاس یوترون  
اول الليل وان الاقویاء یوترون آخر الليل و  
سوا فضل وقیل بل اول الليل افضل لفعل ابی بکر  
رضی اللہ عنہ وما روی عن عثمان رضی اللہ  
عنہ انه قال اما انما فوتر اول الليل فاذا  
استيقظت صليت رکعة شفعت بها وتری  
فما شبعتها الا بالغریبة من الابل فسمتها  
الی اخواتها ثم اوترت فی آخر صلاتی والمشهور  
عنہ رضی اللہ عنہ من فعله انه كان یجیب الليل

پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں دو محل تیار فرما  
دے گا جن کو جنت والے دیکھتے ہیں۔

★

**وتر** وتر پھلی شب میں پڑھنا افضل ہے کیونکہ پھلی شب میں  
شعبہ کی فضیلت اور پرگزرجلی ہے۔

نافع از ابن عمر رضی اللہ عنہما: نبی اکرم صلعم نے ایک سائل سے جس نے  
آپ سے شعبہ کے بارے میں پوچھا تھا فرمایا کہ رات کی نماز دو دو  
رکعت ہے پھر جب تم کو صبح کا ڈر ہو تو ایک رکعت نماز پڑھ  
لو یہ باقی کی رکعتوں کا وتر بن جائے گا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھلی شب میں وتر پڑھا کرتے  
تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اول شب میں دونوں سے  
رحمت عالم صلعم نے اس سلسلہ میں پوچھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے  
فرمایا تم کس وقت وتر پڑھتے ہو؟ بولے سونے سے قبل اول  
شب میں وتر پڑھ لیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کس  
وقت وتر پڑھتے ہو؟ بولے آخر شب میں پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے  
بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ مختاط ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں  
فرمایا کہ یہ قوی ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے  
فرمایا کہ ارباب عقل اول شب ہی میں وتر پڑھ لیتے ہیں اور  
طائفت در حضرات آخر شب میں وتر پڑھتے ہیں اور آخر شب  
ہی میں وتر افضل ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ وتر اول شب ہی میں افضل ہے کیونکہ حضرت  
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اول شب ہی میں وتر پڑھا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ  
میرے بارے میں پوچھتے ہو تو میں تو اول رات ہی میں وتر پڑھ  
لیتا ہوں پھر اگر پھلی رات میں میری آنکھ کھل جاتی ہے تو ایک رکعت

كله في ركعة واحدة يجتمعيها القرآن وهي  
وترية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال  
أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم  
بثلاث الوتر قبل النوم وصوم ثلاثة أيام من كل  
شهر وركعتي الضحى ولا سيما في حق من يخاف أن  
لا يتيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإن الأولى ان يتنام  
على وتر وقد قال علي رضي الله عنه الوتر على  
ثلاثة أنحاء ان شئت وترت أول الليل ثم  
صليت ركعتين ركعتين وان شئت وترت  
بركعة فاذا استيقظت شفعت اليها أخرى  
ثم وترت من آخر الليل وان شئت آخرت  
الوتر حتى يكون آخر صلاتك وعن جابر بن عبد  
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم  
أنه قال من خاف ان لا يتيقظ من آخر الليل  
فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع ان  
يقوم من آخر الليل فليوتر فان قيام آخر الليل  
محظور وذلك افضل ومن عايشه رضي الله  
عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
إذا وتر من آخر الليل فان كانت له حاجة  
إلى أهله ونامنهن والاضطجع في مملحة حتى  
يباينه بلال رضي الله عنه فيؤذنه بالصلاة  
وقالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل  
قد وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله  
وأوسطه وانتهاه وتره إلى السجود في الخبر  
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر عند الأذان

پڑھ کر اسے جوڑا بنا دیتا ہوں اور وتر کو کھوٹے ہوئے اونٹ سے  
تشبیہ دیتا ہوں اور ایک رکعت کو جوڑا بنا کر ہم جنس جوڑوں سے ملا  
دیتا ہوں پھر اخیر میں وتر پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت  
عثمان کی عادت تھی کہ رات بھر جاگ کر ایک رکعت میں تمام قرآن  
پاک ختم کر دیا کرتے تھے اور وہی رکعت آپ کا وتر ہوا کرتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ: مجھے میرے دوست ابو القاسم صلعم نے تین  
باتوں کی وصیت فرمائی سونے سے قبل وتر کی، ہر مہینہ کے تین روزوں  
کی اور چاشت کے دو گانہ کی خصوصاً اس کے حق میں جس کو صبح صادق  
کے بعد جاگنے کا ڈر ہو اس کے لئے وتر پڑھ کر ہی سونا ادلی ہے۔

علیؓ: وتر کی تین صورتیں ہیں اگر چاہو تو اول رات ہی میں وتر  
پڑھ لو پھر دو دو رکعتیں پڑھتے رہو اور اگر چاہو تو ایک رکعت  
وتر پڑھ کر سو جاؤ پھر اگر فجر سے پہلے آنکھ کھل جائے تو ایک رکعت  
پڑھ کر سلام پھیر دو تاکہ وتر جوڑا بن جائے پھر اخیر رات میں وتر  
پڑھ لو اور اگر چاہو تو وتر کو رات میں سب سے پھلی نماز بنا دو۔  
جابر بن عبد اللہؓ: نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ جسے یہ ڈر ہو کہ میں  
پھلی رات میں اٹھ نہ سکوں گا وہ شروع رات میں وتر پڑھ کر سو  
جائے اور جسے پھلی رات میں بیدار ہونے پر اعتماد ہے وہ پھلی رات  
میں وتر پڑھے کیونکہ پھلی رات کے قیام میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں  
اور اسی پھلی رات میں نماز تو افضل ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ صلعم کو پھلی رات میں وتر پڑھنے کے بعد  
اگر آپ کو بیویوں کے پاس جانا ہوتا تو ان کے پاس جاتے ورنہ  
اپنے جاننا ہی پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس بلال آتے اور  
آپ کو نماز کی اطلاع دیتے۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ صلعم نے رات کے ہر حصہ میں  
وتر پڑھا ہے اول رات میں بھی اور درمیان رات میں بھی اور آپ کا



ویصلی الركعتین عند الإقامة وكان أصحاب  
رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلون العشاء  
ثم يهلون ركعتين ثم اربعاً من بعد الله ان يوتر  
او ترو من اراد ان ينام نام۔

**فصل:** ومن اوتر اول الليل ثم قام الى التوجه  
فهل يفسخ وتره ام يهل ما يشاء من غير ان يفسخه  
على روايتين عن احمد رحمه الله احد هما لا  
يفسخه وقال في رواية الفضل بن زياد الوتر آخر  
الليل افضل فان خاف رجل ان ينام فليوتر اول  
الليل فان قام آخر الليل صلى ركعتين ركعتين و  
لم يوتر والرواية الاخرى بنقضه قال الفضل بن  
زياد قلت لاحمد افترا لا يقض الوتر قال لا و  
ان تقضه فلا بأس قد فعل ذلك عمرو بن  
اسامة وابن عمرو بن عباس والبوهريري  
رضي الله عنهم وصفة نقض الوتر ونسخه انه  
اذا اوتر اول الليل لبراحدة ونام ثم قام في اثناء  
الليل ليصلی صلی ركعة واحدة ينوي بها نقض  
وتره واشفاعة وسلم منها فيصير كل ما صلى  
من قبل شفعا ثم يهل ما شاء مثنى مثنى ثم يوتر  
بركعة واحدة قبل طلوع الفجر ويكشف ذلك  
نعل عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي قد منا  
ذكره ولا يترك الوتر على حاله ثم يوتر مرة  
اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران  
في ليلة وان لم يقضه صلى ما اراد فقد بينا  
جواز ذلك۔

وتر صبح صادق سے پہلے ختم ہو جانا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وتر پڑھا کرتے تھے اور تکبیر کے وقت دو گنا اور  
کیا کرتے تھے صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھے کہ دو گنا ادا کر کے پھر  
چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے پھر اگر کسی کو وتر پڑھنا ہوتا تو  
پڑھ لیا کرتا تھا اور جو سونا چاہتا سو جایا کرتا تھا۔

اگر کوئی عشاء کے بعد وتر پڑھے پھر اگر کوئی اول رات  
اخیر شب میں جاگ جائے تو کیا کرے؟ میں وتر پڑھے  
پھر پچھلی رات میں تہجد کے لئے اٹھ جائے تو کیا وتر کو فسخ کرے  
یا فسخ کے بغیر ہی جس قدر چاہے نماز پڑھے؟ اس سلسلہ میں  
امام احمد سے دو روایتیں ہیں ایک روایت کی رو سے وتر کو فسخ  
نہ کیا جائے اور فضل بن زیاد کی روایت کی رو سے پچھلی شب ہی کا  
وتر افضل ہے۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ رات میں اس کی آنکھ نہیں کھلے  
گی اور سوتا ہی رہے گا اسے اول رات میں وتر پڑھ لینا چاہیے پھر  
اگر پچھلی رات میں جاگ جائے تو دو دو رکعت نماز پڑھے وتر  
نہ پڑھے اور دوسری روایت میں ہے کہ وتر فسخ کر دے چنانچہ فضل  
بن زیاد کہتے ہیں میں نے امام احمد سے پوچھا کیا آپ کی رائے میں  
وہ شخص وتر توڑ دے؟ فرمایا نہیں اور اگر توڑ بھی دے گا تو کوئی  
حرج نہیں ایسا عمر بن ابی حفصہ، اسامہ بن ابی عمر، ابن عباس  
اور ابو ہریرہ وغیرہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ نقض یا فسخ وتر کی یہ  
صورت ہے کہ فسخ وتر کی اور اسے جوڑا بنانے کی نیت کر کے ایک رکعت  
پڑھے کہ سلام پھیر دے تو وہ اور یہ رکعت دونوں مل کر جوڑا بن جائے  
پھر جس قدر چاہے دو دو کر کے رکعتیں پڑھتا رہے پھر طلوع صبح  
سے پہلے ایک رکعت وتر پڑھے ایسا حضرت عثمان سے ثابت ہے  
جسے ہم اوپر بیان کر آئے ہیں ایسا نہ کیا جائے کہ وتر کو فسخ کے بغیر ہی  
دوباراً وتر پڑھ لیا جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات

**فصل:** فی دعا الوتر وهو ان یقول اذا رفع رأسه من الركوع فی الركعة الاخيرة من الوتر اللهم انما نستعينك ونستهديك ونستغفرک ونؤمن بك ونتوكل عليك وشتي عليك الخير كله نشرك ولا نكفرک ونخلع ونترك من يفجرک اللهم اياک نعبد واک نصلی ونسجد والیک نسعی ونخفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک الجذل بالکفار ملحق اللهم اهد فی فیمن هدیته وعافنی فیمن عفیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما تقضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انه لا یدل من والیت ولا یجز من عادت تبارک ربنا وتعالیت اللهم انی اعود برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصى ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسك وان زاد علی ذلک جاز ثم یمتد لا علی وجهه فی احدی الروایتین والآخری یمتد لا علی صدره فان کان اماما فی شهر رمضان قال فی جیبها بالنون والألف اهدنا وعافنا الی آخر الدعاء۔

**فصل:** واذا کان من یصلی اللیل وغلبه النعاس فالأولی له ان ینام طاروی فی المصححین عن عائشة رضی الله عنہا قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا نعس احدکم وهو فی الصلاة فلیرقد حتی یدهب عنه النوم فانه اذا صلی وهو ینعس لعله یدهب لیستغفر فیب نفسه ومن عبد العزیز بن مسهیب عن النبی صلی الله

ووتر نہیں اور اگر وتر نسخ نہ کرے اور دو دو رکعت پڑھے اور دوبارہ وتر نہ پڑھے تو یہ بھی جائز ہے۔

**قنوت وتر** جب نمازی وتر کا تکبیرت میں رکوع سے سر اٹھائے تو یہ دعا پڑھے اللهم انما نستعینک ونستغفرک الخ یعنی اسے اللہ تم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ کو گواہ کرتے ہیں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر سجدہ کرتے ہیں اور تمام نعمتوں پر تیری تعریف کرتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ناشکری نہیں کرتے اور اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں جو تیری حرمتوں کو پھاڑتا ہے اسے اللہ تم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لئے نماز پڑھتے ہیں اور تجھ ہی کی سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑ کر آتے ہیں اور تیری خدمت ہی کے لئے تیار رہتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں بلاشبہ تیرا عذاب کافروں کو چمٹ جائیو الایہ سے اللہ ان میں جن کو تو نے ہدایت فرمایا مجھے بھی ہدایت فرما اور ان میں جن کو تو نے عافیت بخش مجھے بھی عافیت بخش اور ان میں جن سے تو نے محبت کی مجھ سے بھی محبت فرما اور مجھے ان چیزوں میں جو تو نے مجھے دیں برکت عطا فرما اور مجھے تقدیر کے شر سے بچا کیونکہ تو ہی تقدیر مقرر فرماتا ہے اور تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا اور جس سے تو محبت کرتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا اور جس کا تو دشمن ہوتا ہے وہ عزت نہیں پاتا ہے ہمارے رب تو برکت بندگی والا ہے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں اور تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں تیری پوری پوری تعریف کرنے سے قاصر ہوں جیسی تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے اگر اس دعا پر کچھ اضافہ کرے تو جائز ہے پھر ایک روایت کی رو سے مندر پر ہاتھ پھیرے اور دوسری روایت کی رو سے سینہ پر ہاتھ پھیر لے امام کو ماہ رمضان میں تمام صیغوں میں واحد منکلم کہے جائے جمع تکلم کہے صیغے استعمال کرنے چاہئیں جیسے اللهم اهدنا وعافنا الخ۔



عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل مهود بين السارين فقال ما هذا فقالوا هو لزيب تقلى فاذا كسلت او فترت امسكت يد هابه فقال حلوا ثم قال صلى الله عليه وسلم يصلى احدكم نشاطه فاذا كسل او فتر فليقعده عن عروته عن عائشة رضي الله عنها انها كانت عندها امرأة من بنى اسد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قالت هذه فلانة لا تنام الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالذي تطيقون من العمل فوالله لا يبيل الله عز وجل حتى تبلوا قالت و احب العمل الى الله تعالى الذي بيد او مر عليه صاحبه وان قل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا امرهم بما يطيقون من العمل يقولون يا رسول الله اننا لسنا كرهينتك ان الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف في وجهه فالسنة في حق من قلبه النوم حتى شغله عن الصلاة والذكر ان ينام حتى يذهب عنه ثقل النوم وينبسط للعبادة ويعقل ما يقول وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يكره النوم قاعدا في الخبر لا تكابدوا الليل وقد كان من الصالحين من يتعمد لنفسه النوم ليتقوى بذلك على وسط الليل ومنهم من كره التعمد للنوم وكان لا ينام حتى يقبله النوم ويقال ان وهب بن منبه

اگر کسی پر نیند کا غلبہ ہو تو کیا وہ تہجد چھوڑ کر سو جائے؟

اگر کوئی رات میں نماز پڑھ رہا ہو اور اس پر

نیند کا غلبہ ہو جائے تو کیا اسکے لئے سو جانا بہتر ہے؟ ہاں کیونکہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں اور گھنٹے لگے تو اسے سو جانا چاہیے حتیٰ کہ اس کی نیند جاتی رہے کیونکہ اگر اور گھنٹے کی حالت میں نماز پڑھتا رہے گا تو شاید بجائے استغفار کے اپنے آپ کو برا کہہ بیٹھے۔

عبد العزیز بن صیب از انس :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے گئے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی کھچی ہوئی پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ زینب کی رسی ہے آپ نماز پڑھتی رہتی ہیں پھر جب طبیعت میں سستی آتی ہے یا اور گھم آنے لگتی ہے تو اس رسی سے اپنا ہاتھ باندھ لیتی ہیں فرمایا اسے کھول دو پھر آپ نے فرمایا کہ چشتی کی حالت میں نماز پڑھو لیکن اگر کوئی سست ہو جائے یا اسے نیند آنے لگے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے۔ عروہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: ایک اسدی خاتون نے کہا کہ میں نے آپ کو نماز پڑھتی دیکھی ہے اور عبادت کرتی ہیں فرمایا وہ عمل کر جس کے کرنے کی تم میں طاقت ہو اللہ کی قسم حق تعالیٰ ثواب دینے نہیں اکتا جب تک تم عمل سے نہ اکتا جاؤ فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پیارا ہے جس پر عامل ہمیشگی کرے اگرچہ وہ تھوڑا عمل ہو کیونکہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے عمل کا حکم فرماتے تھے جو ان کی طاقت کے اندر ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں حق تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں یہ سن کر آپ کو غصہ آ جانا تھا حتیٰ کہ آپ کے چہرے سے غصہ بچان لیا جاتا تھا لہذا جس پر نیند کا اس قدر غلبہ ہو کہ نماز سے اسے روک دے اس کے حق میں سو جانا ہی سنت ہے تاکہ نیند کا بوجھ اس سے ہٹ جائے اور طبیعت میں عبادت کے لئے نشاط ہو۔

الیسانی رحمہ اللہ ما وضع جنبہ الی الارض ثلاثین  
سنة كانت له سورة من آدم اذا غلبه النوم  
وضع صدره علیها وخرق خفقات ثم یفرغ الی  
القیام وكان یقول لان اری فی بیتی شیطانا اب  
الی من ان اری نیه وسارۃ یعنی لانها قد عوالی  
النوم وسئل بعضهم عن وصف الابدال فقال  
اکلهم فاقة ونومهم غلبة وکلامهم ضرورة  
ومستهم حكمة وعلمهم قدرة وسئل  
بعضهم عن صفة الخائفین فقال اکلهم اکل  
المرضى ونومهم نوم الغرقى ولا یبصر الی احوال  
الصالحین وانعالمهم بل الی ما روی عن الرسول  
صلی الله علیه وسلم فان الاعتماد علیہ حتی  
یدخل العبد فی حالة ینفرد بها عن غیره  
وهن ام سلمة عن عائشة رضی الله عنها قالت  
سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم ای العمل  
افضل قال ادرمه وان قل وهن علقمة عن  
عائشة رضی الله عنها قالت كانت صلاة  
رسول الله صلی الله علیه وسلم دائمة و  
لهذا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم  
یقوم لیلة نصف اللیل و لیلة ثلثه و لیلة  
نصف اللیل مع نصف سدسه و یقوم لیلة رابعة  
فقط و یقوم سدس اللیل فحسب وکل ذلك  
مذکور فی سورة المزمل وروی عنه صلی الله  
علیه وسلم انه قال صل من اللیل ولو قدر  
حلب شاة وقد یكون ذلك قدر اربع رکعات

پیدا ہو جائے اور اپنے الفاظ کو سمجھنے لگے۔ حضرت ابن عباس سے منقول  
ہے کہ آپ بیٹھ کر سونے کو کمرہ سمجھتے تھے ایک حدیث میں ہے کہ  
تکلیف سے رات نہ گزارو بعض صلحاء تصد کر کے سو جایا کرتے تھے تاکہ  
وسط شب میں نیند کی وجہ سے عبادت میں خلل نہ آئے اور بعض صلحاء  
تصد کر کے سونے کو کمرہ قرار دیتے تھے اور جب تک نیند کا غلبہ  
نہیں ہو جاتا تھا سو یا نہیں کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ وہب بن منبہ  
یہانی نے تیس سال تک اپنی کوٹ زمین پر نہیں رکھی آپ کے پاس  
چڑھے کا ایک ٹسمہ تھا جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو اس پر اپنا  
سینہ رکھ کر دو چار بار سر ہلاتے پھر تازہ دم ہو کر نماز کے لئے  
کھڑے ہو جاتے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے گھر میں گدا دیکھنے کی بہ نسبت  
شیطان کا دیکھنا محبوب ہے کیونکہ گدا نیند کی طرف بلاتا ہے کسی  
ابدال کے ارصاف کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا ان کا کھانا نانا کرنا  
ہے ان کی نیند خراب کا غلبہ ہے ان کی بات بقدر ضرورت ہے ان کی  
خاموشی حکمت ہے اور ان کا علم قدرت ہے کسی سے اللہ سے  
ڈرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا: ان کا کھانا بہاروں  
کی طرح ہے ان کی نیند ڈرنے والوں کی طرح ہے غرضیکہ صلحاء کے  
احوال و انعال کو دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں  
کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور انہیں پر اعتماد کیا جانا چاہیے تاکہ بندہ ایک  
ایسی حالت پیدا کر لے کہ آپ کے رنگ میں رنگ جلے اور غیرت  
باقی ہی نہ رہے۔ ام سلمہ از عائشہ رضی اللہ عنہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ  
کو نسا عمل افضل ہے؟ فرمایا: نیکی والا اگرچہ تھوڑا ہو۔ علقمة از عائشہ رضی اللہ عنہا:  
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دائمی ہوا کرتی تھی۔ اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی  
رات میں تو ادھی رات ہی کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کسی رات  
میں تھائی رات میں اٹھ جاتے تھے اور کسی رات میں ادھی رات میں  
پھر رات کے چھٹے حصہ میں اور کسی رات میں فقط چوتھائی رات میں



وقد يكون قدر ركعتين وقال صلى الله عليه  
وسلم ركعتان بصليهما العبد في جوف الليل خير  
من الدنيا وما فيها ولو ان اشتق على امتي  
نقضت ما عليهم كل ذلك ليسهل على امته  
قيام الليل والعبادة ولا يتقل عليهم وتبعض  
العبادة اليهم فيساو ابل ارشد هم صلى الله  
عليه وسلم لقيام الليل وذكر فضله و ثوابه  
لثلاث يقتصر و اعلى الفرائض والسنن خاصة  
ويستحب من قيام الليل ثلثه و اقل الاستحباب  
من القيام سداسه لان النبي صلى الله عليه وسلم  
لم يقم ليلة قط حتى اصبح بل كان ينام فيها  
ولم ينام ليلة حتى يصبح بل كان يقوم فيها  
على ما بيناه و قيل ان صلاة اول الليل  
للمتهدجين وقيام ما وسطه للقانتين وقيام  
آخرة للمصلين والقيام من الفجر للعاملين  
ومن يوسف ابن مهران انه قال بلغني ان  
تحت العرش ملكا في صورة اديك براتنه  
من لؤلؤ و صيغته من زبرجد اخضر فاذا  
مضى ثلث الليل ضرب بجناحيه و زقا و قال  
ليقم المضلون فاذا مضى نصف الليل ضرب  
بجناحيه و زقا و قال ليقم المتهدجون  
فاذا مضى ثلثا الليل ضرب بجناحيه و زقا  
وقان ليقم القانتون فاذا طلع الفجر ضرب  
بجناحيه و زقا و قال ليقم العاقلون وعليهم  
اوزارهم و قال لبعض الغارفين ان الله تعالى

اٹھ جایا کرتے تھے اور فقط اپ حصہ میں نماز پڑھ لیتے تھے یہ تمام صورتیں  
سورہ نزل میں مذکور ہیں۔ رحمت عالم صلعم نے فرمایا: اول شب میں نماز  
پڑھو اگرچہ تھوڑی سی دیر ہی پڑھو یعنی اتنی دیر ہی سہی جتنی دیر  
نیں بکری کا دو دھدو ہا جاتا ہے اس تھوڑے سے وقت میں چار یا دو رکعتیں  
پڑھی جاسکتی ہیں۔ فرمایا: وہ دو گانہ جو کوئی شخص وسط شب میں پڑھے  
دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتا ہے اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا  
تو اس دو گانہ کو میں ان پر فرض کر دیتا۔ شب بیداری کی جو یہ صورتیں بیان  
کی گئی ہیں محض اس لئے بیان کی گئی ہیں کہ رات میں تہجد اور عبادت میں  
امت کے لئے آسانی ہو عبادت ان پر گراں نہ گزرے اور انہیں عبادت  
سے نفرت نہ ہو اور وہ اکتانہ جائیں اسی لئے نبی اکرم صلعم نے شب بیداری  
کی ہدایت فرمائی اور اسکی نفیست اور ثواب بیان فرمایا تاکہ لوگ فرائض  
و سنن پر خاص طور سے قناعت نہ کریں۔ تنہائی رات عبادت کے لئے  
مخصوص کہ لینا مستحب ہے ورنہ کم از کم اپ حصہ میں تو ضرور ہی عبادت کی  
جائے کیونکہ نبی صلعم نے کبھی پوری رات صبح تک قیام نہیں فرمایا بلکہ رات  
میں سو جایا بھی کرتے تھے اور نہ کبھی آپ پوری رات صبح تک سوئے بلکہ  
اسمیں عبادت بھی کیا کرتے تھے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ  
اول رات تہجد والوں کے لئے ہے درمیانی رات قیام والوں کے لئے ہے  
اور پھلی رات نمازیوں کے لئے ہے اور صبح صادق کے بعد قیام خافلوں  
کے لئے ہے۔ یوسف بن مهران :- مجھے خبر ملی ہے کہ عرش کے نیچے عرش  
کی صورت میں ایک فرشتہ ہے جس کے نیچے مردارید جیسے ہیں اور خار  
سبز زبرجد جیسا ہے جب تنہائی رات گزر جاتی ہے تو وہ اپنے بازو  
پھیر پھیر کر ہانگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نمازیوں کو اٹھ جانا چاہیے  
اور جب پہ رات گزر جاتی ہے تو وہ اپنے بازو پھیر پھیر کر یہ ہانگ دیتا  
ہے کہ تہجد گزاروں کو اٹھ جانا چاہیے اور جب تنہائی رات رہ جاتی  
ہے تو پھر پھیر پھیر کر ہانگ دیتا ہے کہ عبادت کے نبیوں کو اٹھ جانا

ينظر بالاسرار الى قلوب المتيقظين فيملؤها الزوار  
 فتترد الفوائد على قلوبهم فتستنير ثم  
 تنتشر من قلوبهم العواقي الى قلوب الغافلين  
 وروى ان الله تعالى اوحى الى بعض الصديقين  
 ان لي عبادا من عبادي يحبونني واحبهم  
 يشتاقون الي واشتاق اليهم ويذكرونني  
 واذكروهم وينظرون الي وانظر اليهم فان  
 حذوت طريقهم اجبتك وان عدلت عنهم  
 مقتك فقال يا رب وما علامتهم قال يراؤون  
 الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق  
 غنمه ويمينون الي غروب الشمس كما تحن  
 الطير الي او كما رها عند الغروب فاذا احبهم  
 واختلط الظلام وفرشت الفرش ونعت الاسود  
 وخلص كل جيب بجيبه نصبوا الي اقدامهم  
 واقتربوا الي وجوههم فاجوني بكلام  
 وتلقوا الي بانعاشي فبين ما رخ وبالك  
 وبين متأوه وشاك وبين قائم وقاعد  
 وبين راكع وساجد بعيني ما يتحملون  
 من اجلي ويسمعون ما يشكون من جبي اول  
 ما اعطيهم اقداف من نوري في قلوبهم  
 فيخبرون عني كما اخبر عنهم والثانية  
 لو كانت السموات السبع وما فيها في  
 موازينهم لا ستقلت بها لهم والثالثة  
 اقبل بوجهي الكريم عليهم فترى من اقبلت  
 بوجهي الكريم عليه يعلم احد ما اريد ان

چاہیے پھر صبح صادق ہو جاتی ہے تو پھر پھر پھر اگر ہانگہ دیتا ہے کہ غافلوں کو  
 اٹھ جانا چاہیے کیونکہ ان پر ان کے گناہ ہیں۔ بعض عارف :- حق تعالیٰ شانہ  
 سحر کے وقت جاگنے والوں کے دلوں پر نگاہ ڈالتا ہے اور انہیں اذکار سے بھر دیتا ہے  
 اور ان کے دلوں پر فزائے وار دھونے ہیں اور ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں پھر ان کے  
 روشن دلوں سے غافلوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے  
 بعض صدیقین کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے  
 محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ شتاق ہیں اور میں ان کا شتاق  
 ہوں اور وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں انہیں یاد کرتا ہوں اور وہ مجھے دیکھتے  
 ہیں اور میں انہیں دیکھتا ہوں لہذا اگر تم ان کی راہ پر ان کے قدم بہ قدم چلو گے  
 تو میں تم سے محبت کروں گا اور اگر ان کی راہ سے ہٹ جاؤ گے تو میرا تم پر اثر  
 ہوگا اور پوچھا کہ اسے رب ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ دن میں نمازوں کے  
 اوقات کے لئے مسابوں کی نگہداشت کرتے ہیں جیسے شیخ چردا اپنی بکریوں  
 کی حفاظت کرتا ہے اور سورج ڈوبنے کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کے  
 مشتاق رہتے ہیں پھر جب رات انہیں چھپا لیتی ہے اور خوب اندھیرا ہو  
 جاتا ہے اور لبتز بچھلے جاتے ہیں اور تخت رکھ دئے جاتے ہیں اور ہر محبوب اپنے  
 محبوب کے پاس خلوت میں چلا جاتا ہے تو وہ میری طرف اپنے قدم کھڑکے  
 کر لیتے ہیں اور اپنے مندری طرف کر کے دعائیں مانگتے ہیں اور میرے کلام سے  
 مجھ سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور میرے انعام حاصل کرنے کے لئے میری  
 خوشامد کرتے ہیں کبھی چیخ و گنج اور کبھی گھٹ گھٹ کرتے ہیں کبھی آہیں کبھی  
 ہیں کبھی نالے کرتے ہیں کبھی شکوے اور گئے کرتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی  
 بیٹھے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں اور کبھی سجدوں میں گر جاتے ہیں یعنی جو کچھ چاہیں  
 اٹھاتے ہیں میری وجہ سے اٹھاتے ہیں میرے کان میں ان کی محبت بھری نکالیتیں  
 ہیں سب سے اول میں ان کے دلوں میں اپنا نور ڈالتا ہوں لہذا وہ لوگوں کو میرے  
 خبر دیتے ہیں اور میں فرشتوں کو ان کی خبر دیتا ہوں دوسری یہ چیز دیتا ہوں کہ  
 اگر ساتوں آسمان اور ان کی تمام چیزیں ان کی تلوں میں ہوں وہ بھی میں



اعطیہ۔

**فصل** : واما قیام جمیع اللیل ففعل الاقویاء  
 الذین سبقت لهم منه العناية وادیت لهم  
 الرعایة و احیط علی قلوبهم بالتوفیق و نور  
 الجلال ثم الجمال فجعل القیام باللیل لهم موهبة  
 و خلعة فلم یسلبه منهم مولا هم عز و جل حتی  
 اللقاء و قد روی عن عثمان بن عفان رضی اللہ  
 عنه انه کان یحیی اللیل بركعة و احل له  
 یختم فیها القرآن و قد منا ذکره و ذکر عن  
 اربعین رجلا من التابعین أنهم كانوا یحییون  
 اللیل كله و یهلون صلاته الغداة بوضوء  
 العشاء الاخریة اربعین سنة هم النقل عنهم  
 و اشهر منهم سعید بن جبیر و صفوان بن سلیم  
 و ابو حازم و محمد بن المنکدر من اهل  
 المدینة و فضیل بن عیاض و وهب بن الورد  
 من اهل مكة و طاووس و وهب بن منبه  
 من اهل الیمین و الزبیر بن خلیثم و الحکم من  
 اهل الکوفة و ابوسلیمان الدانی و علی بن  
 یحیی من اهل الشام و ابو عبد اللہ الخواص  
 و ابو حاتم من اهل عبادان و حبیب الومجد  
 و ابو حاتم السلیمانی من اهل فارس و مالک  
 بن دینار و سلیمان التیمی و یزید الرقاشی و  
 حبیب بن ابی ثابت و یحیی البکاء من اهل البصر  
 و غیرهم من یطول ذکرهم رحمة اللہ علیهم  
 و رضوانہ۔ **فصل** : و من استکملت عقلته

ان کے لئے کم سمجھتا ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ میں اپنے معزز چہرے سے ان کی طرف  
 متوجہ ہوتا ہوں اور جبکی طرف میں اپنے معزز چہرے سے متوجہ ہوتا ہوں جانتے  
 ہو میں کیا دینا چاہتا ہوں؟

**تمام رات کا قیام**

تمام رات کا قیام طاقتور حضرات کا کام ہے جن  
 کے لئے حق تعالیٰ کی مہربانی سبقت کر گئی ہے اور ان پر ہمیشہ باری تعالیٰ کی مہربانی  
 چھائی رہتی ہے اور ان کے دلوں کو نور توفیق اور نور جلال پھر نور جمال گھیرے رہتا  
 ہے اور حق تعالیٰ نے رات بھر کا قیام ان کو مہیہ کے اور خلعت کے طور پر عطا فرمایا  
 ہے اور اسے ان سے ان کے آقائے وقت ملاقات تک سلب نہیں کیا۔

حضرت عثمان بن عفان سے منقول ہے کہ آپ رات بھر جاگتے  
 تھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے ہم آپ  
 کا ذکر اور یہ بھی بیان کرتے ہیں مذکور ہے کہ چالیس تابعی تمام رات  
 بیدار رہتے تھے اور انہوں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز  
 چالیس سال تک پڑھی اس روایت کی سند صحیح ہے ان  
 اکابر تابعین میں سے بدرینہ کے مشہور سعید ابن جبیر، صفوان بن  
 سلیم، ابو حازم اور محمد بن منکدر، مکہ کے فضیل بن عیاض، وہب  
 بن ورد، یمن کے طاووس، وہب بن منبہ، کوفہ کے زبیر بن خثیم،  
 حکم، شام کے ابوسلیمان رازی اور علی بن بکاء، عبادان  
 کے ابو عبد اللہ خواص، ابو حاتم، فارس کے ابو محمد حبیب  
 ابو حاتم سلیمان، بصرہ کے مالک بن دینار، سہمان تیمی،  
 یزید رقاشی، حبیب بن ابی ثابت اور یحییٰ بکاء وغیرہ جن  
 کا ذکر بموجب طوالت سے حق تعالیٰ کی ان سب پر  
 رحمت و رضوان ہو۔



**رات میں وقت پر اٹھنے کا عمل**

اگر کسی پر غفلت کا  
 دور دورہ ہے اور اسے اس کے گناہوں نے گھیر رکھا ہے اور

واحاطت به خطيئاته وقيدته وشبطته عن  
قيام الليل لذته ذنوبه واحب قيامه والمدخل  
في زمرة القانتين المستغفرين بالاسحار  
فليستغفر الله تعالى ثلاثا عند نومه و  
اضطجاعه ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم  
ثم يقرأ عشر آيات من اول سورة الكهف  
وعشرا من آخرها ويقرأ آ من الرسول وقل  
يا ايها الكافرون فان الله تعالى يوقفه  
ويؤمله لقيام الليل بنعنته الواسعة ومغفرته  
الشاملة ورعايته العامة للمؤمنين من عبادة  
وليقبل ايضاً اللهم ايقظني في احب الساعات  
اليك واستعملني باحب الاعمال لديك  
التي تقربني اليك زلفى وتبعدني من سخطك  
بعد اسألك فتعطيني واستغفرك فتغفر لي و  
ادعوك فتستجيب لي اللهم لا تؤمني مكررك  
ولا تولني غيرك ولا ترفع عني سترك ولا تشني  
ذكرك ولا تجعلني من الغافلين فانه قيل من  
قال هذه الكلمات عند نومه اهبط الله  
عز وجل له ثلاثة املاك يوقفونه للصلاة  
فان صلى ودعا امنوا على دعائه وان لم يقيم  
تعبد الاملاك في الهواء وكتب له ثواب  
عبادتهم وليقل ايضاً ما نقل عن النبي صلى الله  
عليه وسلم انه قال من سره ان يستقيظ  
بالليل فليقل عند اضطجاعه اللهم ابعثني  
من مضجعي لذكرك وشكرك وصلاتك ر

معتد کر لیا ہے اور اس کی لغزشیں اسے رات میں اٹھنے سے مانع ہیں  
اور وہ چاہتا ہے کہ میں رات میں جاگ کر عبادت کروں اور ان لوگوں  
کے گروہ میں داخل ہو جاؤں جو سو کے وقت رو کر اپنے گناہوں کی  
معافی مانگتے رہتے ہیں تو اسے سوتے وقت تین بار استغفر اللہ ربی من  
کل ذنب راتوب الیہ پڑھ لینا چاہیے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر  
سورہ کہف کی ابتدائی دس اور آخری دس آیتیں پڑھنی چاہئیں اور آ من  
الرسول آخر لقرۃ تک اور سورہ کافرون پڑھے حق تعالیٰ اسے وقت  
پر جگادے گا اور اپنی وسیع نعمت سے ہمہ گیر مغفرت سے اور اپنی عام  
مہربانی سے شب بیداری کا اہل بنادے گا ساتھ ساتھ یہ دعا بھی  
پڑھ لے کہ اے اللہ مجھے اپنے نزدیک محبوب ترین ساعت میں  
اٹھا دے اور مجھے اپنے نزدیک محبوب ترین عمل کا حامل بنا دے جو  
مجھے تجھ سے بہت قریب کر دے اور تیری ناراضگی سے بہت دور  
کر دے میں تجھ سے مانگوں اور تو مجھے دے اور تجھ سے گناہوں کی  
معافی مانگوں اور تو مجھے بخش دے اور میں تجھ سے دعائیں مانگوں اور  
تو میری دعائیں قبول فرمائے اے اللہ مجھے تو اپنے عذاب سے غافل  
نہ کر اور مجھ پر اپنے سوا کسی غیر کو مسلط نہ فرما اور مجھ سے اپنا پرہیز  
سنت اٹھا اور مجھے اپنا ذکر نہ بھلا اور مجھے غافل نہ بنا کما جاتا ہے کہ جس نے  
ذکورہ بالا کلمے سوتے وقت پڑھ لے حق تعالیٰ اس کے لئے تین فرشتے مقرر  
فرماتا ہے جو اسے نماز کے لئے جگادیتے ہیں پھر اگر وہ کھڑا ہو گیا اور  
نماز پڑھ کر دعائیں مانگیں تو وہ فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں  
اور اگر کھڑا نہیں ہوا تو نغمائیں وہ فرشتے عبادت کرتے ہیں اور ان  
کی عبادتوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:۔ اگر کوئی رات میں کسی  
مخصوص وقت پر اٹھنا چاہے تو بستر پر بیٹ کر یہ دعا پڑھ لے اے  
اللہ اپنے ذکر و شکر نماز استغفار تلاوت قرآن اور سن نماز کے لئے مجھے



استغفارك وتلاوة كتابك وحسن عبادتك ثم  
 ليسبح ثلاثا وثلاثين مرة وليحمد ثلاثا وثلاثين  
 مرة وليكبر اربعا وثلاثين مرة وان احب ان  
 يقول خمسا وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله  
 ولا اله الا الله والله اكبر فهو اخف عليه و  
 مجموعها مائة جزء من الاول وروى عن  
 عائشة رضي الله عنها انها قالت كان  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر ما يقول  
 حين ينام وهو واضع خده على يده اليمنى  
 وهو يري انه ميت في ليلته تلك اللهم رب  
 السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب  
 كل شيء ومنزل التوراة والانجيل والفرقان  
 فائق الحب والنوى اعوذ بك من شر كل ذي شر  
 ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها اللهم  
 انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس  
 بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء  
 وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين  
 واغني عن الفقر.

**فصل:** ومن العم عليه بقيام الليل وفعل  
 شيء من النوافل فليجتهد في المداومة عليه  
 مع القدرة وعدم العذر لما روى عن عائشة  
 رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم  
 انه قال من عبد الله سبحانه من عبادته ثم  
 تركها ملالة مقتته الله تعالى وقالت عائشة  
 رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله

رفلاں وقت میری خواب گاہ سے اٹھا دے پھر ۳۳ بار سبحان اللہ  
 ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھے اور اگر چاہے تو  
 ۲۵ بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا اله الا اللہ واللہ اکبر پڑھے  
 اس میں آسانی ہے اور اس کا مجموعہ بھی سو ہی بنتا ہے۔

صدیقہ رضی اللہ عنہما :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 سوتے وقت اخیر میں اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنا رخسارہ  
 رکھ کر لیٹ جاتے تھے اور یہ خیال فرماتے تھے کہ آج کی رات  
 میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے  
 اے اللہ اے ساتوں آسمانوں کے پروردگار اے عرش  
 عظیم کے مالک اے ہمارے اور ہر چیز کے پروردگار اے تورات  
 انجیل اور فرقان کو اتارنے والے اور اے دانوں اور گٹھلیوں  
 کو پھاڑنے والے میں ہر شے کے شر سے اور ہر چوپائے کے  
 شر سے جس کی پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں تیری پناہ مانگا  
 ہوں اے اللہ تو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز  
 نہیں تو سب سے پیچھے ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں تو سب سے  
 اوپر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں اور تو سب سے قریب ہے  
 تجھ سے قریب کوئی چیز نہیں اے اللہ مجھ سے میرا قرض ادا کرے  
 اور میری فقیری دور کر کے مجھے غنی بنا دے۔

**تمجد کی نماز** | اگر کسی کو تہجد سے اور نوافل سے نوازا جائے تو  
 وہ اگر اس پر قادر ہے اور کوئی عذر نہیں تو مقدور بھر ہمیشگی کرے  
 کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم نے فرمایا کہ جو حق تعالیٰ کی رضا کے لئے کوئی عبادت کرے  
 پھر اس عبادت کو اکتا کر چھوڑ دے حق تعالیٰ کا اس پر  
 غصہ اتر آتا ہے۔

صدیقہ رضی اللہ عنہما :- جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

عليه وسلم اذا غلبه نوم او مرض فلم يقم تلك  
 الليلة صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة وفي  
 الخبر ان احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل  
**فصل** : ويستحب لمن قام من الليل للتهدج  
 ان يقول الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني  
 واليه النشور ويقرأ العشر الآيات من آخر آل  
 عمران ثم يسئلك ويتوضأ ثم يقول سبحانك  
 ومجيدك لا اله الا انت استغفرك واسألك  
 التوبة فاغفر لي وتب علي انك انت التواب  
 الرحيم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من  
 المتطهرين واجعلني صبورا شكورا واجعلني  
 ممن يذكرك ذكرا كثيرا ويسبحك بكرة واصيلا  
 ثم يرفع رأسه الى السماء ويقول اشهد ان لا  
 اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا  
 عبده ورسوله اعوذ بعفوك من عقابك واعوذ  
 برضاك من سخطك واعوذ بك منك لا احصي  
 ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك انا عبدك  
 وابن عبدك ناصيتي بيدك جارف حاكمك  
 عدل في قضاؤك هذا يداي بما كسبت  
 وهذا نفسي بما اجتزحت لا اله الا انت  
 سبحانك اني كنت من الظالمين عملت سوءا  
 وظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي العظيم انك انت  
 ربي انه لا يغفر الذنوب الا انت فاذا قام الى  
 الصلاة متوجها فليقل الله اكبر كبيرا والحمد  
 كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ثم ليسبح

نیند کا یا بیماری کا غلبہ ہونا اور اس رات آپ اُٹھتے نہیں تو دن میں بارہ  
 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کو وہ عمل پیارا ہے  
 جس میں ہمیشگی ہو اگرچہ عمل تھوڑا ہو۔

تسجد کے وظائف وغیرہ جو تسجد کے لئے رات میں جاگ جائے

اس کے لئے مستحب ہے کہ جاگتے ہی یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے  
 جس نے مجھے مادہ زندہ فرما دیا اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر  
 جانا ہے اور سورہ آل عمران کی پچھلی دس آیتیں پڑھے پھر

سواک کہنے و صبر کرنے پھر یہ دعا پڑھے اے اللہ تو معہ اپنی  
 بڑائیوں کے پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے اپنے

گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کا سوال کرتا ہوں لہذا مجھے  
 بخش دے اور مجھ پر رجوع فرما بلاشبہ تو خوب توبہ قبول کرنے والا

اور اتھائی مہربان ہے اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والا اور اتھائی  
 پاک فرما اور مجھے صابر و شاکر بنا اور مجھے ان میں شامل فرما جو

تیرا کثرت سے ذکر کرتے رہتے ہیں اور صبح و شام تیری پاکی  
 بیان کرتے رہتے ہیں پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھے

میں گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں  
 وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں

کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے اللہ میں تیرے  
 عذاب سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں اور تیری ناراضگی سے

تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں میں تیری پوری پوری تعریف کرنے سے  
 قاصر ہوں جیسا کہ خود اپنی تعریف فرمائی ہے میں تیرا بندہ

ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں  
 ہے مجھ میں تیرا حکم جاری ہے میرے بارے میں تیری تقدیر میں

انصاف ہے یہ میرے درلوں کا تھم معہ اپنے عملوں کے ہیں اور یہ  
 میرا نفس معہ اپنے گناہوں کے ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک



عشرا وليحمد عشرا وليهل عشرا  
 وليكبر عشرا وليقل الله اكبر ذو الملقوت  
 والمجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدر  
 وان شاء ان يقول هذه الكلمات فانها  
 ماثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 في قيامه للتهدجد وهي اللهم لك الحمد  
 انت نور السموات والارض ولك الحمد انت  
 بهاء السموات والارض ولك الحمد انت  
 زين السموات والارض ولك الحمد انت قيوم  
 السموات والارض ومن فيهن ومن عليهن  
 انت الحق ومنك الحق ولقاؤك حق والجنة  
 حق والنار حق والنبيون حق ومحمد  
 صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك  
 لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت  
 وبك خاسمت واليك حكمت فاغفر لي  
 ما قدمت وما اخرت وما اسررت  
 وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر  
 لا اله الا انت اللهم ات نفسي تقواها  
 وزكها انت خير من زكاها انت وليها  
 مولها اللهم اهدني لاجسنا الاعمال  
 فانه لا يهدي لاجسنا الا انت واصرف  
 عني سيئها فانه لا يصرف سيئها الا انت  
 اسالك مسالة الياس المستكين وادعوك  
 دعاء المفتقر الذليل فلا تجعلني بدعائك  
 رب تنقيا وكن في رءوف رحيم يا خير المسولين

ہے بلاشبہ میں ہی ظالم ہوں میں نے بڑے عمل کئے اور اپنے اوپر ظلم کیا لہذا میرے  
 بڑے گناہ بخشدے بیشک تو میرا پروردگار ہے اور بات بھی یہی ہے کہ تیرے سوا کوئی  
 گناہ معاف کرنے والا نہیں اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں پھر جب قبور پر  
 کھڑا ہو تو نیت باندھ یہ دعا پڑھے : اللہ سب سے بڑا ہے اور بہت ہی بڑا  
 ہے اور کثرت سے اللہ کی بڑائیاں ہیں اور صبح و شام اللہ ہی کی پاکیاں ہیں  
 پھر ابار سبحان اللہ ابار الحمد للہ ابار لا الہ الا اللہ اور دس بار اللہ  
 کے پھر یہ پڑھے اللہ سب سے بڑا ہے وہ عالم بالا کا بادشاہ ہے وہ قمر  
 و کبریائی والا اور عظمت و بزرگی والا ہے یا اگر چاہے تو یہ دعا پڑھے  
 کیونکہ تمہارے قیام میں نبی اکرم صلعم سے یہ دعا بھی ثابت ہے اے اللہ  
 تیرے ہی لئے بڑائیاں ہیں تو آسمان و زمین کا نور ہے تیرے ہی لئے نور  
 ہیں تو آسمان و زمین کی رونق ہے تیرے ہی لئے شکر ہیں تو آسمان  
 و زمین کی زینت ہے تیرے ہی لئے عبادتیں ہیں تو آسمان و زمین کو اور  
 جو ان میں اور ان پر ہیں ان سب کو سنبھالنے والا ہے تو برحق ہے اور  
 تیرے ہی طرف سے حق ہے تمہارے ملاقات برحق ہے اجنت برحق ہے  
 جہنم برحق ہے ابیاد برحق ہیں نبی اکرم صلعم برحق ہیں اے اللہ میں تیرا  
 ہی مصلح و منقاد ہوں اور میرا بچھریا ایمان ہے اور تجھی پر بھروسہ ہے اور  
 تیرے ساتھ ہی میں جھگڑتا ہوں اور تیری طرف ہی اپنے جھگڑنے والا ہوں  
 لہذا میرے لگے پھلے اچھے اچھے کھلے تمام گناہ بخشدے تو ہی آگے بڑھانیوالا  
 ہے اور تو ہی سچھے بھانے والا ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں اے  
 اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما اور اسے پاک فرما تو ہی اسے  
 بہترین پاک کرنے والا ہے تو ہی اس کا دوست اور آقا ہے اے اللہ  
 مجھے انتہائی خوبصورت عملوں کی ہدایت فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی ایسا نہیں  
 کہ مجھے انتہائی خوبصورت عملوں کی ہدایت کرے اے اللہ مجھ سے بڑے  
 عمل بھادے کیونکہ بڑے عمل بھانے والا تیرے سوا کوئی نہیں اے اللہ  
 میں تمہارے محتاج و فقیر کی طرح سوال کرتا ہوں اور حاجت مند و ذلیل

واکرم المعطین واخبرنا ابو نصر عن والده باسناد  
من یحیی بن ابی کثیر قال حدثنی ابو سلمة بن عبدالرحمن  
قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا بای شیء کان  
یکبر ویفتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاته  
اذا قام من اللیل قالت کان یکبر ویفتح فیقول  
اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر  
السماوات والارض عالم الغیب والشهاد  
انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون  
اهد فی ما اختلفوا فیہ من الحق باذنک انک  
تهدی من تشاء الی صراط مستقیم۔

**فصل:** یتحب اذا قام لملاۃ اللیل ان یفتح  
صلاته برکتین خفیفتین ولا یتناول شیئا  
من الطعام والشراب حتی یفرغ منا نعم اللہ  
علیہ من فعل الصلاة والتسیح لانه اذا استنقظ  
من نومه یكون حامی القلب فارغ الهم فاذا  
اکل او شرب تغیر قلبه عن هیئته واطلم فالاد  
له ان یؤخر ذلك الا ان یكون جائعا وافرطه  
الجوع او یخاف من جوع النهار فی شهر رمضان  
ویخاف طلوع الفجر فان المستحب تقدیم  
الاکل۔

**فصل:** ویستحب ان لا ینام حتی یقرأ ثلاثا  
آیة لیدخل فی زمرة العابدین ولم یکتب  
من الخافین فلیقرأ سورة الفرقان والشعراء  
فان فیہما ثلاثا آیة وان لم یجسدهما  
قرأ سورة الواقعة ونون والحاقة وسورة

کی طرح دعا مانگا ہوں اسے میرے پروردگار مجھے میری دعا سے محروم نہ فرماتا  
اور میرے لئے انتہائی شفق و مہربانی بن جانا اسے بہترین سوال کے جاننے والے  
اور اسے بزرگ ترین دینے والے۔ ہمیں ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے  
یحیی بن ابی کثیر سے خبر دی یحیی فرماتے ہیں مجھ سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا  
کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام میں کس چیز سے  
بکثیر کہا کرتے تھے اور نماز شروع کیا کرتے تھے؟ فرمایا اللہ اکبر پڑھ کر یہ دعا  
افتتاح پڑھا کرتے تھے اے اللہ اے جبرئیل اے میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار  
اے آسمان وزمین کے پیدا کرنے والے اور اے چھپی کھلی باتوں کو جاننے والے تو ہی  
اختلافات میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اے اللہ اختلافات میں مجھے اپنے  
حکم سے حق کی ہدایت فرما بلاشبہ تو جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ کی ہدایت فرمادیتا ہے

**مستحبات نمبر ۱** مستحب یہ ہے کہ پہلا دو گانہ ہلکا پڑھے اور  
فارغ ہونے طعام و شراب سے پرہیز کرے کیونکہ حق تعالیٰ نے نماز کو  
تسیح کی ترفیق عطا فرما کر اپنے عظیم انعام سے نوازا ہے بات یہ ہے کہ جب  
انسان خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے اور  
تفکرات سے خالی ہوتا ہے اور کھانے پینے سے دل میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے  
اور سابق حالت پر باقی نہیں رہتا اور تاریکی آجاتی ہے لہذا اولیٰ ہی  
ہے کہ کھانا پینا موقوف رکھے ہاں اگر انتہائی بھوکا ہو یا رمضان المبارک  
میں دن میں بھوک سے نہ ٹھہال ہونے کا یا سحری کے وقت کے  
فوت ہو جانے کا ڈر ہو تو نماز سے قبل بقدر سدر من کھا لینا مستحب ہے

★

سونے سے قبل کی دعائیں | تین سو آیتیں پڑھنے سے پہلے نہ سونا  
مستحب ہے تاکہ عبادت گزاروں کے زمرہ میں داخل ہو جائے اور غافل  
میں نہ کھا جائے لہذا سورہ فرقان اور سورہ شعراء پڑھ لی جائے کیونکہ  
ان دونوں میں تین سو آیتیں ہیں اگر یہ سوزنیں نہ آتی ہوں تو سورہ واقعات  
سورہ نون سورہ حاقہ اور سورہ معارج اور سورہ مدثر پڑھ لے اگر



الواقع ای سأل سائل والمدثر فان لم يحسنه فليقرأ  
سورة الطارق الى خاتمة القرآن فانها ثلاثمائة  
آية فان قرأ مقدر الف آية كان احسن و  
واكمل للفضل وكتب له قنطار من الاجر  
وكتب من القانتين وذلك من سورة تبارك الذي  
بيده الملك الى خاتمة القرآن فان لم يحسنها  
فليقرأ مائتين وحببتين مرة قل هو الله احد  
فان مجموعها الف آية وينبغي له ان لا يبدع  
قراءة اربع سور في كل ليلة المتنزىل السجدة  
وسورة يس وحمز الدخان وتبارك وان  
قرأ معها سورة المزمل والواقعة كان احسن  
وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ  
السجدة وتبارك الملك وفي خبر آخر سورة  
بنی اسرائیل والزمر وفي خبر آخر المسبحات  
ويقال فيها آية افضل من مائة الف آية -  
**فصل** : والذي يستعان به على قيام الليل  
اشياء منها اكل الحلال والاستقامة على  
التوبة رغم خوف الوعيد وشوق رجاء الموعود  
ومنها انه يجتنب اكل الشبهات والاصرار  
على الذنوب ويبدع غلبة هم الدنيا وحبها  
عن القلب بذكر الموت والفكر في المعاد  
وما يلقي بعد الموت وقال رجل للحسن رحمه  
الله يا ابا سعيد اني ابیت معاني واحب قیام  
الليل واعل طهوری فما بالی لا اقوم فقال  
ذو نیک قیدتک وقال الثوری رحمه الله حرمت

یہ بھی نہ آتی ہوں تو سورہ طاق سے والناس تک پڑھ لے کیونکہ  
اس میں بھی تین سو آیتیں ہیں اگر ہزار آیتیں پڑھ لے تو بہت ہی  
اچھا ہے ان سے فضیلت کی تکمیل ہوتی ہے اور ڈھیرا جر لکھا جاتا ہے  
اور ایسا شخص عبادت گزاروں میں لکھ لیا جاتا ہے سورہ ملک سے  
ختم قرآن تک ایک ہزار آیتیں ہیں اگر یہ نہ آتی ہوں تو ۲۵ بار سورہ  
اخلاص پڑھ لی جائے اس کا مجموعہ ایک ہزار آیتیں ہیں۔ اور  
مسند رجب ذیل چار سو سو تیس روزانہ رات میں پڑھ لینا مناسب  
ہے سورہ آلم السجدہ سورہ یسین سورہ حم الدخان اور سورہ  
ملک اور اگر ان کے ساتھ سورہ واقعه اور سورہ زمر  
بھی پڑھ لی جائیں تو نور علی نور۔

نبی اکرم صلعم جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ  
نہ لیتے تھے سوتے نہ تھے ایک حدیث میں سورہ بنی اسرائیل اور  
سورہ زمر کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں مسبحات کا ذکر  
ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو ایک ہزار  
آیتوں سے افضل ہے۔

**تہجد کے لئے امدادی عمل** | تہجد میں مدد دینے والی چند چیزیں ہیں  
کھانا پینا اور لباس حلال ہو۔ حق تعالیٰ توبہ پر، غم و خوف  
عذاب پر اور شوق امید ثواب پر استقامت عطا فرمائے۔ شبہ  
کی چیزوں کو کھانے سے پرہیز کیا جائے، گناہوں پر اصرار نہ کیا  
جائے اور موت و آخرت کو اور آخرت میں پیش آنے والی گناہوں کو یاد  
کر کے دل سے دنیا کی محبت دُکھ کو دور رکھا جائے۔

ایک شخص حسن سے :۔ ابو سعید! میں رات بھر آرام سے سوتا رہتا  
ہوں اور دن چاہتا ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھوں اور اپنے پاس  
دھوکے لئے پانی بھی تیار رکھتا ہوں پھر کیا بات ہے کہ میں اپنا یہ شوق  
پورا نہیں کر پاتا فرمایا: تیرے گناہوں نے تجھے مقید کر رکھا ہے رگنا ہو

قیام اللیل خبسة اشهر بذب اذنبته قیل  
وما هو قال رأیت رجلا یبکی فقلت فی نفسی  
هذا مرء وکان الحسن رحمہ اللہ یقول ان  
العبد لیذب الذنب فیجرم بہ قیام اللیل و  
سیام النهار و قیل کم من اکلہ منعت قیام  
لیلہ و کم من نظرت حرمت قراءۃ سورۃ وان  
العبد لیاکل الاکلۃ او یفعل فعلہ فیجرم بہا  
قیام السنۃ فبحسن التقد یعرف المزید من التقفان  
و بقلۃ الذنوب یوقف علی التقفد و قال ابو  
سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ لا یفوت احد اصلاۃ  
جماعۃ الا بذب و کان یقول الاحتلام باللیل  
عقوبۃ و الجنابۃ البعد و منها قلۃ الطعام  
والشراب و خلوا المعدة منها لما روی عن ابن  
عبد اللہ رحمہ اللہ انه قال کان فی بنی اسرائیل  
ناس یتعبدون فکان اذا حضر فطرہم قام علیہم  
قائم فقال لا تاکلوا کثیرا فانکم اذا اکلتم  
کثیرا نمتم کثیرا و اذا نمتم کثیرا صلیتم  
قلیلا و قیل ان کثرۃ النوم من کثرۃ شرب  
الماء و قیل انه اتفق رأی سبعین صدیقا و  
هم یقولون ان کثرۃ النوم من کثرۃ شرب  
الماء و منها انه یلزم قلبہ الهم و الحزن  
و یقظۃ دائمة فیجیئ بہا القلب و یدیم الفکر  
فی الملکوت و یقیل فی النهار و لا یکثر تعب  
جو ارحدہ فی امور الدنیاء فان اختار ان یقوم  
اول اللیل حتی یغلبہ النوم ثم ینام ثم یقوم

سے سچے دل سے توبہ کر حق تعالیٰ تمہد کی توفیق عطا فرمادے گا

ٹوڑی :- میں پانچ ماہ تک ایک گناہ کی وجہ سے تمہد سے محروم  
رہا پوچھا گیا کہ وہ گناہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک شخص  
رورہا ہے، میں نے اپنے دل میں کہا یہ ریاکار ہے۔

حسن :- انسان گناہ کر بیٹھتا ہے اور تمہد سے اردن میں روزہ رکھنے  
سے محروم ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے بہت سے کھانے تمہد سے روک دیتے  
ہیں اور بہت سی نگاہیں تلاوت قرآن سے محروم کر دیتی ہیں۔ بارگھر  
انسان کچھ چیزیں کھالیتا ہے یا کچھ گناہ کر بیٹھتا ہے اور سال بھر تک  
تمہد سے محروم ہو جاتا ہے اگر انسان اپنے حالات کا اچھی طرح سے غور  
فکر کے ساتھ جائزہ لے تو گناہوں کی کمی بیشی سے واقف ہو جاتا ہے  
اور جائزہ لینے کی توفیق بھی گناہوں میں کمی کرنے سے ملتی ہے۔

ابو سلیمان :- جماعت سے نماز کسی گناہ ہی کی وجہ سے فوت ہوتی  
ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات میں اختلام بھی ایک سزا ہے جس سے  
رب العالمین سے دُوری ہو جاتی ہے۔ کم کھانا پینا اور معدہ کا خالی  
رہنا بھی تمہد پر مددگار ہے کیونکہ عون بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل  
میں کچھ عبادت گزار بندے تھے جب روزہ کھولنے کے لئے ان کے پاس کھانا  
چننا جاتا اور ایک شخص انہیں بیدار کرنے کے لئے کہا کرتا تھا کہ زیادہ  
نہ کھانا ورنہ نیند آجائے گی اور اس صورت میں رات کی نماز سے  
محروم رہ جاؤ گے کہا جاتا ہے کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے  
کتنے ہیں کہ منتر صدیقین کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ پانی پینے سے زیادہ  
نیند آتی ہے اور تمہد کے لئے ایک یہ بھی معاون ہے کہ ہمیشہ آخرت کا  
فکر و غم اور خیال پیش نظر رکھا جائے اور زیادہ تر بیدار رہ کر دل  
کو زندہ رکھا جائے اور عالم ملکوت میں غور نہ کر کیا جائے اور دن میں  
دوپہر کو سو جائے اور دنیا کے کاموں میں اپنے اعضا زیادہ نہ تھکائے  
اگر چاہو تو شروع رات میں تمہد پڑھ لو پھر جب نیند کا غلبہ ہوتی



متى استيقظ ثم ينام متى غلبه النوم ثم يقوم  
آخر الليل فيكون له في الليل قومتان ونومتان  
فيكابد الليل فهو من اشد الاعمال وهي  
حالة اهل الحضور واليقظة والفكر والتذكر  
وقيل انها من اخلاق رسول الله صلى الله عليه  
وسلم وقد يكون للعابد في الليل قومات ونومات  
في تضاعيف ذلك مما ان يكون للقيام والنوم  
موزوناً عدلاً فلا يكون ذلك الا للنبي صلى الله  
عليه وسلم فيكون قلبه دائماً اليقظة ووحى  
من الله سبحانه يؤمر به وينهى ويلفظ وينور  
ويقلب ويحرك خاص له ذلك دون بقية  
الخلق -

**فصل:** ويستحب لمن قام الليل ان ينام  
آخره لوجهين احدهما انه يذهب النعاس  
بالغدائة والنوم بالغداة مكروه ولهذا كانوا  
يامرون النعاس بالنوم بعد صلاة الصبح  
ويمنعون قبلها وقد ورد ان رسول الله صلى الله  
عليه وسلم كانت له هجعة بعد صلاة الفجر  
والوجه الثاني ان نوم آخر الليل يذهب صفرة  
الوجه واذا كابد نومه ولم ينام بقيت  
الصفرة بحالها وينبغي ان يتقى ذلك لانه باب  
غياض وهو من الشهوة الخفيفة والشرك  
الخفي لانه يشار اليه بالاصابع ويتوهم فيه  
الصلاح والسهر والصوم والخوف من الله  
عز وجل لاجل تلك الصفرة التي في وجهه

سوجاؤ پھر جب آنکھ کھلے تہجد کے لئے کھڑے ہو جاؤ پھر جب  
نیند کا غلبہ ہو تو سو جاؤ پھر اخیر رات میں کھڑے ہو جاؤ اس  
صورت میں آپ پوری رات میں دو بار کھڑے ہوں گے اور دو  
بار سوئیں گے اور رات میں مشقت اٹھانی پڑے گی اور یہ بڑا  
کٹھن کام ہے یہ حال اللہ کے سامنے حاضر ہو نبیوں کا، بیدار لوگوں  
کا اور اہل نکر و ذکر کا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حال رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کبھی عابد ایک رات میں کئی کئی بار  
اٹھتا ہے اور کئی کئی بار سوتا ہے پھر یا تو قیام و خواب برابر ہوتے  
ہیں لیکن یہ سبھی صلعم ہی کی خصوصیت ہے کیونکہ آپ کا دل وحی کے لئے ہمیشہ  
بیدار ہا کرتا تھا آپ کو خواب میں کسی بات کا حکم ملتا تھا کسی بات سے  
روکا جاتا تھا، کبھی بیدار کیا جاتا تھا، کبھی سلا دیا جاتا تھا، کبھی  
کروٹ دلا دی جاتی تھی اور کبھی بلا دیا جاتا تھا۔

**تہجد گزار کو کس وقت سونا مستحب ہے** | تہجد گزار کو  
آخر رات میں دو وجہ سے سونا مستحب ہے ایک یہ تو یہ ہے کہ پچھلی شب میں  
سونے سے صبح کے وقت نیند نہیں آتی اور صبح کو سونا مکر وہ ہے  
اسی لئے اور گھنے رات کو صبح کی نماز پڑھ کر سونے کا حکم دیا جاتا  
تھا اور قبل از نماز سونے سے روکا جاتا تھا ایک حدیث سے ثابت  
ہے کہ رسول اللہ صلعم نماز کے بعد کبھی کبھی قدرے آرام فرمایا کرتے  
تھے دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلی رات میں سونے سے چہرے پر زردی نہیں  
آتی اگر انسان رات بھر جاگے اور محنت کرے اور سونے نہیں تو زردی  
چھا جاتی ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک پچیدہ امر ہے  
اور یہ پوشیدہ نفسانی شہوت اور چھپا ہوا شرک ہے کیونکہ اس کی  
وجہ سے انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نیکی،  
بیداری، روزہ اور اللہ کا خوف بچان لیا جاتا ہے شرک و ریاضت  
اللہ کی پناہ۔ اور ہر اس نشانی سے بھی جو شرک و ریاضت پر دلالت کرے

رات میں پانی نہ پینا مناسب ہے کیونکہ ہم اور پریشان کر آئے ہیں کہ پانی نیند لاتا ہے اور اس لئے بھی کہ اس سے خصوصاً پھیل شب میں پانی پینے سے چہرے پر زردی آتی ہے اور نیند سے بیدار ہوتے ہی پانی پینے سے بھی چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیل شب میں وتر پڑھ لیتے تو آپ ذرا سی دیر کے لئے دائیں کر دٹ پر لیٹ جایا کرتے تھے ختے کہ آپ کے پاس بلال آتے اور آپ ان کے ساتھ نماز کے لئے نکل جاتے۔

سلف و تر کے بعد اور صبح کی نماز سے قبل اس لیٹنے کو مستحب سمجھتے ہیں ختے کہ بعض سلف نے اسے سنت قرار دے دیا ہے یعنی حضرت ابو ہریرہؓ اور ان کے عقیدت مندوں نے یہ لوگ اس لیٹنے کو اس لئے مستحب سمجھتے ہیں کہ یہ اہل مشاہدہ اور اہل حضور کے لئے حضور قلب میں اضافہ کرتی ہے۔ اور ان پر عالم ملکوت کے راز کھولتی ہے اور عالم جبروت کے قسم قسم کے علوم کا دروازہ کھولتی ہے اور ان حضرات پر حکمتوں کے اور علوم کے عجائب و غرائب کشف ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ ان طرح طرح کی نعمتوں پر مطلع ہو جاتے ہیں جو علام الغیوب رب العالمین نے ان کے لئے تیار کر رکھی ہیں اور یہ نیند عالموں کے اور ریاضت کرنے والوں کے حق میں موجب راحت و سکون بھی ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح صادق کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج کے ڈوبنے تک نماز سے منع فرمایا ہے تاکہ ان ساعتوں میں دن میں اور رات میں وظائف پڑھنے والے سستالیں۔

اسی طرح رات کی نماز کے دو گانوں میں بقدر تسبیحات کے پھینکا مستحب ہے تاکہ دو گانوں میں ناصلا ہو جائے اور نماز میں بھی مدد ملے اور اعضاء کو سکون نصیب ہو اور نماز کے لئے نفس کی آکٹا ہٹ دور ہو جائے

نعوذ باللہ من الشرك والرياء وكل امارة تدل عليهما وينبغي ان يقلل شرب الماء بالليل لما قدمنا من انه يجلب النوم ولا نته تكون منه صفرة الوجه سيما في آخر الليل وعند الانتباه من النوم وفي الخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتر من آخر الليل اضطلع على شقه الايمن فخرج حتى ياتي به بلال رضي الله عنه فيخرج معه الى الصلاة وقد كان السلف يستحبون هذه الضجعة بعد الوتر وقيل صلاة الصبح حتى جعلها بعضهم سنة وهو ابو هريرة رضي الله عنه ومن تابعه في ذلك وانما استحبوا ذلك لانه مزيد لاهل المشاهدة والحضور لانهم يكشف لهم عن الملكوت وتضيء لهم انواع العلوم من الجبروت ويلقنون غرائب الحكم والعلوم ويطلعون على ما غاب عنهم من الاقسام والحظوظ مما اعد الله لهم رب الخليفة علام الغيوب وفي حق العمال واهل المجاهدة راحة وسكون ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى غروب الشمس ليستريح فيها اهل اوراد الليل والنهار وكذلك يستحب ان يفضل في تضاعيف صلاة الليل يجلس يسبح فيه مائة تسبيحة ليكون عوناً على الصلاة ولتسكن الجوارح وتزول سامة النفس للقيام



و يجب اليها التهجيد والصلاة وهو داخل تحت قوله عز وجل ومن الليل فسبحه وادبار النجوم وقوله تعالى وادبار السجود اي اعقاب الصلاة۔

**فصل ۵:** فان فاتته قيام الليل بنوم او شغل فان قضاها ما بين طلوع الشمس الى زوالها كان كمن صلاها في وقته من الليل لما حدثنا به ابو نصر عن والدة باسنادة عن عبد الله بن غنم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال يجسبن بثلاث من السحر وفي لفظ آخر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن حزبه من الليل او نسيه فقرأها من صلاة الفجر الى صلاة الظهر فكانما قرأها في ليله وعن بعض السلف انه قال اجتنب رأي آل محمد صلى الله عليه وسلم انه من صلى وردد الذي فاتته من الليل قبل الزوال كان كمن صلاها في الليل وان لم يقدر على ذلك فيقضيه ما بين الظهر والعصر قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا اي جعلها خلفين يتعاقبان في الفضل فيخلف احد هما الاخر۔

**فصل ۶:** فقد تحصل من هذه الجملة ان اورا الليل خمسة احدها ما بين العشاءين والثاني ما بعد العشاء الاخيرة الى وقت منامه والثالث

اور نفس کو تہجد و نماز کی رغبت ہو یہ معنی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے کہ رات میں اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور تاروں کے غائب ہونے کے بعد بھی اور آیت میں ہے اور سجودوں کے بعد بھی یعنی نماز کے بعد بھی۔

**فوت شدہ تہجد دن میں کب پڑھا جائے؟** اگر غنیمت

کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کسی کا تہجد فوت ہو جائے تو اگر اسے سوجھ بکھلنے کے بعد زوال تک پڑھ لے تو گویا اس نے رات ہی میں تہجد پڑھ لیا کیونکہ ہم سے ابو نصر نے اپنی اسناد سے اپنے والد سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن غنم سے روایت کرتے ہیں عبد اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے چار رکعتیں سحر کی نماز کی طرح شام کی جاتی ہیں ایک لفظ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو اپنے رات کے وظیفہ سے سوتا رہے یا اسے بھول گیا اگر وہ اسے صبح کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک پڑھ لے گویا اس نے اسے رات ہی میں پڑھ لیا۔

بعض سلف :- آل محمد کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی اپنا رات میں چھوٹا ہو اور زوال سے پہلے پڑھ لے تو گویا اس نے اسے رات ہی میں پڑھ لیا۔ اگر اس پر قادر نہ ہو تو ظہر و عصر کے درمیان پڑھ لے حتیٰ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ ہی نے رات اور دن کو ان لوگوں کے لئے جو ذکر کرنا یا شکر ادا کرنا چاہیں ایک دوسرے کے قائم مقام بنایا ہے یعنی دن کو رات کا اور رات کو دن کا بدل بنا دیا ہے، دن رات کے بعد اور رات دن کے بعد آجاتی ہے اور ہر ایک میں دوسرے کے کام انجام دے دئے جاتے ہیں۔

**اورا و شب کے اوقات** اور پر کے بیان سے ظاہر ہے رات کے اوراد کے اوقات پانچ ہیں (۱) مغرب و عشاء کے درمیان (۲) عشاء کے اور سونے کے درمیان (۳) آدھی رات (۴) پھلپھل

جوف الليل والرابع الثالث الاخير والخامس و  
 هو السحر الاخير قبل طلوع الفجر الثاني وهو  
 القراءة والاستغفار والتفكير والاعتبار دون  
 الصلاة لانه لا يؤمن ان تصادف صلاته  
 طلوع الفجر وهو الوقت المنهي عن الصلاة فيه  
 ولذا قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل  
 مثنى مثنى فاذا خشيت الفجر فارتبركعة  
 وترترك ما قبلها اللهم الا ان يكون قن نام  
 عن وتره وورده فانه يصليها هذه الساعة  
 على ما تقدم بيانه في فصل نعل وتر-

### رفصول اوراد النهار

**فصل:** واما اوراد النهار فخمسة ايضا  
 احدها من وقت طلوع الفجر الثاني الى طلوع  
 الشمس والثاني صلاة الفجر وما كان في  
 معناها الى الزوال والثالث اربع ركعات بعد  
 الزوال بقراءة حسنة وسلام واحد وقيل  
 ان ابواب السماء تفتح لها والرابع ما بين  
 الظهر والعصر والخامس بعد العصر الى الغروب-  
**فصل:** واما الورد الاول من النهار  
 فيستحب الجلوس من بعد صلاة الفجر الى  
 طلوع الشمس يذكر الله تعالى فيه اما بتلاوة  
 القرآن او تسبيح او تفكير او تذكرة او تعليم او  
 جلوس الى عالم وكذلك بعد صلاة العصر  
 الى غروب الشمس لانهما وقتان نهى عن  
 التنقل بالصلاة فيهما لما اخبرنا الشيخ ابو  
 نصر

رات (۵) سحر کا پچھلا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے  
 پہلے پہلے۔ یہ وقت تلاوت قرآن، استغفار اور غور و فکر کے  
 لئے بجائے نماز کے زیادہ موزوں ہے کیونکہ اس وقت نماز پڑھے  
 گا تو ممکن ہے کہ درمیان ہی میں صبح صادق ہو جائے حالانکہ اس  
 وقت نماز پڑھنا منع ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ  
 رات کی نماز دو دو رکعت ہے پھر جب تجھے صبح کا ڈر ہو تو ایک  
 رکعت وتر پڑھ لے ہاں اگر کوئی سونار یا ادراکس کا وتر دو دو  
 چھوٹ گیا تو وہ اس وقت وتر پڑھ لے جیسا کہ وتر کے عنوان  
 میں اس کی تفصیل گزر چکی۔

☆

### اورادِ دن کے اوقات

دن کے در دوں کے اوقات  
 بھی پانچ ہی ہیں (۱) صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک  
 (۲) طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک جس میں چاشت و  
 اشراق وغیرہ کی نمازیں ہیں (۳) اچھی قرأت سے اور ایک سلام  
 سے زوال کے بعد چار رکعتیں، کہا جاتا ہے کہ ان رکعتوں کے آسمان  
 کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں (۴) ظہر و عصر کے درمیان (۵)  
 عصر سے لے کر غروب آفتاب تک۔

### دن کا پہلا ورد

صبح کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر اللہ  
 میں مصروف رہنا مستحب ہے خواہ قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے یا  
 تسبیحوں میں مصروف رہا جائے یا مراقبہ کیا جائے یا مدعا سنایا جائے  
 یا علم سیکھا جائے یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر دینی معلومات میں اضافہ  
 کیا جائے۔ اسی طرح عصر کے بعد غروب آفتاب تک مصروف رہا  
 جائے کیونکہ ان دونوں وقتوں میں نماز سے روک دیا گیا ہے۔

ہیں شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے خبر دی انہیں ابو علی اسماعیل



عن والدہ قال اخبرنا ابو علی اسماعیل بن محمد بن اسماعیل الخطی قال حدثنا محمد بن یعقوب قال حدثنا یبنة بن خالد القیسی قال حدثنا احمد بن سلمة عن علی بن زید عن الشعبي عن ابی امامة رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لان اقدم مع قوم ذکر اللہ تعالیٰ من بعد صلاة الفجر حتی تطلع الشمس اکبر و اهل احب الی من اثن اعتق رقبتین و لان ذکر اللہ عزوجل من بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس احب الی من ان اعتق اربع رقاب من ولد اسماعیل و عن النس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تناموا عن طلب ارزاقکم قیل یا انس ما معنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تناموا عن طلب ارزاقکم قال فاذا صلیتم الفجر فقولوا ثلاثا و ثلاثین مرة الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر و فی حدیث آخر یسبح ثلاثا و ثلاثین مرة و یحمد ثلاثا و ثلاثین مرة و یکبر اربعا و ثلاثین مرة و یختمها بلامه الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا یبیت و هو حی لا یبوت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر ہکذا یفعل بعد العصر و عند النوم و حدثنا ابو نصر عن والدہ باسنادہ عن عروثة بن الزبیر عن ابیہ رضی اللہ

بن محمد بن اسماعیل خطی نے خبر دی ان سے محمد بن یعقوب نے بیان کیا ان سے ہدیہ بن خالد قیسی نے بیان کیا ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا حماد علی بن زید سے، وہ شعبی سے ارودہ البرامد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا صبح کی نماز کے بعد سے سورج کے نکلنے تک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر اللہ کرنا اور تکبیر و تہلیل میں مشغول رہنا مجھے دو غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ پیارا ہے اور میرا عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل کے چار غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔

انس بن مالک :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی روزیاں طلب کرنے سے نہ سوؤ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس جملہ کا کیا مطلب ہے کہ روزیاں طلب کرنے سے نہ سوؤ؟ فرمایا: جب تم صبح کی نماز پڑھ چکے تو ۳۳ بار سبحان اللہ و الحمد للہ و لا اله الا اللہ و اللہ اکبر پڑھ لو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھ کر اس وظیفہ کو لا اله الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لایبوت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر پر ختم کر دو یعنی اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں، وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریفیں ہیں وہی حیات و موت کا مالک ہے، وہ زندہ ہے جسے فنا نہیں اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہیں اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اسی طرح عصر کے بعد اور سونے سے قبل روزیاں طلب کی جائیں۔

ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ

اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صبح کی طاقت نہ رکھتا ہو زودہ کیا کرے؟ فرمایا جو مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء تک ذکر اللہ کرتا رہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھ لے تو اس کی یہ مجلس اللہ کی راہ میں ایک شام کی برابر ہے اور جو صبح کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر اللہ کرتا رہے تو یہ مجلس اللہ کی راہ میں غزوه کی مانند ہے۔

ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحییٰ ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء و قد یردس بار پڑھ لے تو حق تعالیٰ یقیناً ان کلموں کے بدلہ اسے دس نیکیاں عطا فرمائے گا اور اس سے دس برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لئے دس درجے بلند فرما دے گا۔ اور یہ کلمے دس غلام آزاد کرنے کے ثواب کی برابر ہیں اور اس دن اس کے لئے کوئی تازہ گناہ مقرر ثابت نہ ہو گا الا یہ کہ وہ گناہ شریک ہو اور جو بندہ خود بصورتی کے ساتھ وضو کرتا ہے اور حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا منہ دھو تا ہے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس سے ہر گناہ گرا دیتا ہے خواہ وہ آنکھوں کے دیکھنے سے صادر ہو یا زبان کی گفتگو سے اور جو بندہ حق تعالیٰ کے حکم کے بموجب اپنے دونوں ہاتھ دھو تا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے ہر وہ گناہ گرا دیتا ہے جسے اس کے دونوں ہاتھوں نے پکڑا ہو پھر اپنے سر کا اور کانوں کا مسح کرتا ہے تو یقیناً اس سے ہر وہ گناہ گرا دیا جاتا ہے جسے اس کے دونوں کانوں نے سنا ہو پھر حق تعالیٰ کے حکم کے بموجب دونوں پیر دھو تا ہے تو بلاشبہ اللہ اس سے ہر وہ گناہ گرا دیتا ہے جسے اس کے

عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غزوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها فقال رجل يا رسول الله فمن لا يستطيع غزوا قال من جلس حين يصلي المغرب يذكرك الله تعالى حتى يصلي العشاء كان مجلسه ذلك روحة في سبيل الله ومن جلس حين يصلي الغداة يذكرك الله تعالى حتى تطلع الشمس كانت مثل غزوة في سبيل الله وحدثنا ابو نصر عن والده باسناد عن ابى امامة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من عبد یقول فی دبر صلاۃ الغداۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحییٰ ویمیت بیدہ الخیر و هو علی کل شیء و قد یردس مرات الاکتب اللہ لہ بہن عشر حسنات و محامد بہن عشر سیئات و رفع لہ بہن عشر درجات و کف عدل عشر رقاب و لا یضرب لہ یومئذ ذنب یمسہ الا ان یشک و ما من عبد احسن الوضوء فغسل وجهہ کما امر اللہ تعالیٰ الا حط اللہ عنہ کل ذنب نظرت الیہ عینا لا و تکلم بہ لسانہ و ما من عبد غسل یدیه کما امر اللہ عزوجل الا حط اللہ عنہ کل ذنب بطشت بہ ید الہ ثم مسح رأسہ و اذنیہ الا حط اللہ عنہ کل ذنب استمعت الیہ اذنا لا ثم غسل رجلیہ کما امر اللہ تعالیٰ الا حط اللہ عنہ کل ذنب مشت بہ رجلہ حتی یقوم الی ملائکته



تكون تلك الصلاة فضيلة وما من عبد نام  
 علي ذكر طاهر افاول ما ينتبه يد عوبد عوة  
 الا كانت دعوته مستجابة وما من عبد رهي  
 بسعم في سبيل الله عز وجل فاماب او اخطاء  
 الا اعطى به تحرير رقبة وما من عبد شاب  
 شيبته في سبيل الله الا اعطى به انورا يوم القيا  
 ومن اعتق رقبة كانت له فداء من نار جهنم  
 كل عضو بعضو وحدثنا ابو نصر عن والدة باسناد  
 عن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه قال سمعت  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى  
 الغداة في مسجد لا ثم جلس يدكر الله تعالى  
 الى ان تطلع الشمس فاذا طلعت حمد الله تعالى  
 وقام بصلي ركعتين اعطاه الله بكل ركعة الف  
 الف قصر في الجنة في كل قصر الف الف حوراء  
 مع كل حوراء الف الف خادم وكان عند الله  
 من الاوابين وعن نافع عن ابن عمر رضي الله  
 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا  
 صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكث الصلاة  
 وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح و  
 جلس في مجلسه حتى تمكث الصلاة كانت بهنر  
 حجة وعمره متقبلتين فكان ابن عمر رضي الله  
 عنهما اذا صلى الغداة جلس حتى تطلع الشمس  
 فقيل له لم تفعل هذا فقال اريد به السنة  
 وحدثنا ابو نصر عن والدة باسناد عن عكرمة  
 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله

لے کہ اس کے دروں پر چلے تھے حتیٰ کہ بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے  
 تو اس کی نماز موجب فضیلت ہوتی ہے اور جو بندہ وضو کے بعد  
 اللہ کے ذکر پر سو گیا تو جاگنے کے بعد سب سے پہلے جو دعائے مانگے  
 گا اس کی وہ دعا ضرور قبول کر لی جائے گی اور جو بندہ اللہ کی  
 راہ میں ایک تیر پھینکتا ہے خواہ وہ تیر دشمن کے لگے یا نہ لگے اسے  
 ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ضرور ملتا ہے اور جو بندہ اللہ کی  
 راہ میں بوڑھا ہو جائے حق تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے  
 بڑھاپے کے بدلہ ضرور نور عطا فرمائے گا اور جو غلام آزاد کرے  
 تو وہ غلام اس کے لئے جہنم کی آگ سے ضرور ندرہ بنے گا اس کے  
 ہر عضو کے بدلہ آزاد کرنے والے کا ہر عضو آگ سے بچ جائے گا  
 ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے حسن بن علی سے  
 سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ  
 جو صبح کی نماز پڑھ کر اپنی مسجد میں بیٹھ کر آفتاب کے نکلنے تک  
 اللہ کا ذکر کرتا رہے پھر جب سورج نکل آئے تو اللہ تعالیٰ کا  
 شکر ادا کرے اور کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھے حق تعالیٰ  
 اسے ہر رکعت کے بدلہ جنت میں دس لاکھ محل عطا فرمائے گا۔  
 ہر محل میں دس لاکھ حوریں ہوں گی اور ہر حور کے ساتھ دس لاکھ  
 خادم ہوں گے اور اس کا اللہ کے نزدیک ادائین رکرت سے  
 گڑا گڑانے والے) میں شمار ہوگا۔

نافع از ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ  
 سے سورج کے نکلنے تک نہیں اٹھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ  
 جو صبح کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے حتیٰ کہ نماز کا وقت آ  
 جائے (یعنی سورج نکل آئے) تو اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب  
 ملے گا ابن عمر رضی اللہ عنہما صبح کی نماز پڑھ کر سورج کے نکلنے تک بیٹھے رہا کرتے  
 تھے آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ فرمایا سنت پر عمل

صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعة ثم  
اعتکف الی طلوع الشمس فصلی اربع رکعات متوالیات  
یقرا فی اول رکعة بفاحة الكتاب و آية الكرسي  
ثلاث مرات وقل هو الله احد سبع مرات و فی  
الرکعة الثانية فاتحة الكتاب مرة و الشمس  
و من حانها و فی الرکعة الثالثة فاتحة الكتاب  
و السماء و الطارق و فی الرکعة الرابعة فاتحة  
الكتاب و آية الكرسي مرة و قل هو الله احد  
ثلاث مرات بعث الله تعالى الیه سبعین ملاکا  
من کل ساء عشرته أملاک معهم اطباق  
من اطباق الجنة و منادیل من منادیل الجنة  
فی حملون تلك الصلاة علی تلك الاطباق  
ثم یبعثون بها فلا یبرون بقوم من الملائكة  
الا استغفروا لصاحبها فاذا وضعت بین یدیا  
الجبار قال الله تعالى عبدی لی صلیت و ایای  
عهدت فاستانف العسل قد غفرت لك و هذه  
الصلاة هی تفسیر ما روی عن النبی صلی الله  
علیه وسلم عن ربه عز و جل قال یا ابن آدم  
صل لی اربع رکعات من اول النهار اکتفک  
آخره و قد حمله بعضهم علی صلاة الفجر  
فرمها و مسنونتها و الصحیح ما ذکرنا۔

**فصل:** واما الورد الثانی فصلاة الفمعی

وهی صلاة الاوابین و هل یتحب المداومة  
علیها امر لا علی وحبیبین عند اصحابنا و الا  
فی ذلك ما حدثنایه ابو نصر عن والدی باسناد

کہنا ہوں۔ ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے عکرہ اور انہوں  
نے ابن عباس سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت سے  
صبح کی نماز پڑھے پھر سورج کے نکلنے تک بیٹھا رہے پھر سورج نکلنے  
کے بعد لگانا چار رکعت پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ  
آیۃ الکرسی اور ہار سورہ اخلاص پڑھے دوسری رکعت میں فاتحہ کے  
بعد سورہ شمس پڑھے تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ طارق پڑھے  
اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک ہار آیۃ الکرسی اور سورہ  
سورہ اخلاص پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے پاس ستر فرشتے بھیجتا  
ہے یعنی ہر آسمان سے دس فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کے طباق  
اور جنت کے دروازے ہوتے ہیں اور وہ اس کی نماز ان طباقوں میں  
چن کر اور لگا کر لے جاتے ہیں اور اسے اٹھا کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور  
فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہی جماعت اس نماز کے  
کے لئے دعائے مغفرت مانگتی ہے پھر جب یہ نماز جبار اللہ کے آگے رکھ  
دی جاتی ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے میرے  
اس لئے نماز پڑھی اور تو نے میری ہی عبادت کی اب از سر نو عمل کر  
میں نے تیرے تمام گناہ بخش دیئے۔ یہ نماز اس روایت کی تفسیر ہے جو  
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے اور آپ اپنے عزت و جلال والے پروردگار  
سے روایت کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرزند آدم تو میرے لئے  
شروع دن میں چار رکعت نماز پڑھ لے میں دن بھر تیرے لئے کاف  
رہوں گا۔ بعض علماء نے اس حدیث قدسی کو صبح کی سنتوں اور  
درضوں پر چسپاں کیا ہے لیکن صحیح ہماری رائے ہے۔

**چاشت کی نماز (صلوة الاوابین)** | دوسرا در چاشت

کی نماز ہے جسے صلوة الاوابین بھی کہتے ہیں کیا چاشت کی نماز میں  
پیشگی مستحب ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں بہار سے علماء کے نزدیک  
دونوں صورتیں ہیں۔ ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے



من یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمة عن ابی ہریرة  
رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
قال صلاة الفحی صلاة الواصلین وبهذا الیضا  
قال صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الفحی اکثر  
صلاة داؤد علیہ السلام وحدثنا ابو نصر  
عن والدہ باسنادہ عن ابی ہریرة رضی اللہ  
عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
ان بابا من ابواب الجنة یقال له الفحی  
فاذا کان یوم القیامة نادى مناد بن الذین  
کالوا یصلون صلاة الفحی واثمین علیہا  
ادخلوہم الجنة برحمة اللہ وکان الناس  
علی عهد امیر المؤمنین عمر بن الخطاب  
وعلی رضی اللہ عنہما یصلون صلاة الصبح  
ثم ینتظرون الوقت الذی یصلی فیہ صلاة  
الفحی فیصلون ہا فی المسجد وعن الضحاك بن  
قیس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لقد  
أتی علینا زمان لا ندری ما وجدہ هذه الآیة  
یسبحن بالعشی والاشراق حتی رأینا الناس  
یصلون الفحی وقال ابن ابی ملیکہ رحمہ  
اللہ سئل ابن عباس رضی اللہ عنہما عن  
صلاة الفحی فقال انہما فی کتاب اللہ تعالی  
ثم قرأ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر  
فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والامال  
وکان ابن عباس رضی اللہ عنہما یصلی  
رکعتی الفحی ولکن لا ید من علیہا ولهذا

یحیی بن کثیر سے انھوں نے ابو سلمہؓ انھوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ  
سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی نماز صلوۃ اللات  
یعنی مقرب حضرات کی نماز ہے اسی سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
کہ چاشت کی نماز حضرت داؤد کی زیادہ تر نماز ہے۔

ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے حضرت ابو ہریرہ  
رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت  
کے ایک دروازے کا نام فحی ہے قیامت کے دن ایک منادی اعلان  
کے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے اور  
اس پر ہمیشگی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہیں جنت  
میں داخل کر دو۔ لوگ عہد فاروقی اور عہد حیدری میں صبح کی  
نماز پڑھے کہ چاشت کی نماز کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے اور  
مسجد ہی میں چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

ضحاك بن قیس از ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ  
لوگ اس آیت ریسبحن بالعشی والاشراق کا شان نزول  
نہیں جانتے تھے حتیٰ کہ ہم نے لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھنا  
ہوا دیکھ لیا۔

ابن ملیکہ :- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے چاشت  
کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا یہ نماز اللہ تعالیٰ کی کتاب  
آتی ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان گھروں میں جن کے احترام  
کئے جانے کا اور ان میں اللہ کا نام لئے جانے کا اللہ کا حکم ہے  
اور جن میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن  
کو تجارت اور کاروبار اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے  
سے آڑے نہیں آتا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ چاشت  
کا دو گانہ پڑھا کرتے تھے لیکن اس پر ہمیشگی نہیں کیا کرتے تھے  
اسی لئے جب حکمران سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی چاشت

کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ایک دن پڑھا کرتے اور دوسرے دن چھوڑ دیا کرتے تھے۔

ابراہیم نخعیؒ: چاشت کی نماز پر ہمیشگی مکروہ سمجھی جاتی تھی لوگ کبھی پڑھتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے تاکہ فرض نماز کی طرح نہ ہو۔

**چاشت کی نماز کی رکعتوں کی تعداد** | چاشت کی نماز کم از

کم دو گانہ ہے اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں۔ دو رکعتوں کی دلیل بریدہ والی حدیث ہے: ہمیں شیخ ابو

نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے عبد اللہ بن بریدہ سے خبر دی

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں ۳۶۰ جوڑے ہیں اور روزانہ

ہر جوڑے کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ

اس صدقہ کی کس میں طاقت ہے؟ فرمایا اگر مسجد میں رقمیٹھ دیکھے تو

اسے دفن کر دے یا راستہ میں کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھے اسے راستہ

سے ہٹا دے اگر کسی بات پر بھی تادرنہ ہو تو چاشت کا دو گانہ کافی

ہے یعنی اس دو گانہ سے تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے

حدیث ابو ہریرہؓ میں ہے کہ مجھے میرے دوست ابو القاسم مسلم نے

تین باتوں کی وصیت فرمائی سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی، ہر ماہ کے

تین روزے رکھنے کی اور چاشت کے دو گانہ کی چاشت کی چار

رکعتیں بھی ثابت ہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

عکرمہؓ از ابن عباسؓ: کاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ

چاشت کی نماز چار رکعتیں ہیں پھر چھ ہیں پھر آٹھ ہیں۔

حمید طویل از انس از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی چھ

پھر آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

عکرمہ بن خالد از ام ہانی بنت ابی طالب: نوح کہ کے دن جب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ مکہ کے اونچے حصہ پر ٹھہرے

اور آپ نے آٹھ رکعتیں پڑھیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کونسی

لما سئل عکرمہ عن صلاتہ ابن عباس رضی اللہ عنہما

الضحی قال کان یصلیہا الیوم ویدعوا العشرۃ و

قال الضحی رحمہ اللہ کالوا ینکروہون ان یدبوا صلا

الضحی فیصلون ویدعون لئلا تكون کالمکتوبۃ۔

**فصل:** واما عدد رکعات صلاۃ الضحی فانہا

رکعتان واعدلہا ثمان رکعات واکثرہا اثنتا

عشرۃ رکعۃ فاما الرکعتان فی اخیرنا بہ الشیخ

ابو نصر عن والدہ ابی اسنادہ عن عبد اللہ بن بریدۃ

عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم فی اللسان ثلاثۃ دستون مفصل

تعلیہ ان یتصدق عن کل مفصل کل یوم

بصدقۃ قالوا ومن یطیق ذلک یا رسول اللہ قال

صلی اللہ علیہ وسلم النخامۃ یراھا فی المسجد

فیدفنہا او الشیء ینحیہ عن الطریق فان لم

یقدر فرکعتا الضحی تجزیہ و حدیث ابی ہریرۃ

رضی اللہ عنہ او صانی خلیلی ابو القاسم صلی اللہ

علیہ وسلم ثلاث الوتر قبل النوم وضوم ثلاثۃ

ایام من کل شہر و رکعتی الضحی و روی اربع رکعات

و هو ما تقدم فی الفصل الذی قبلہ من حدیث

عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی

صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث و روت معاذۃ

عن عائشۃ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ

وسلم صلی صلاۃ الضحی اربعاً ثم ست رکعات

وعن حمید الطویل عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی

صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یصلی الضحی ست

رکعات



نماز ہے؟ فرمایا: یہ چاشت کی نماز ہے۔ امام احمد بن حنبل نے  
اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے اور علماء کے نزدیک چاشت کی آٹھ  
رکعتیں ہی پسندیدہ ہیں۔

اسی طرح ابو سعید نبی اکرم صلعم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت  
عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی چاشت کی آٹھ رکعتیں ہی پڑھی  
ہیں۔

قاسم بن محمد: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھا  
کر تی تھیں اور طول دیا کرتی تھیں۔ اور جب چاشت کی نماز  
پڑھنے کھڑی ہوا کرتی تھیں تو دروازہ بند کر لیا کرتی تھیں۔ علاوہ  
ازیں اگر کوئی چاہے تو دس رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور بارہ بھی  
بارہ زیادہ سے زیادہ ہیں کیونکہ ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے  
اپنی اسناد سے حمزہ بن موسیٰ بن انس بن مالک انصاری سے بیان  
کیا وہ اپنے چچا ثامہ بن انس سے اور وہ اپنے دادا انس بن مالک  
سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلعم سے سنا آپ  
فرمادے تھے کہ جو چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ  
ان کے عوض اس کے لئے جنت میں سونے کا محل بنائے گا  
اور ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے ام حبیبہ  
سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جو دن میں  
بارہ رکعت نماز پڑھے لی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت  
میں گھر بنا دیا۔

یزید بن اسلم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے ام حبیبہ  
سے بیان کیا وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ذر  
رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا  
علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ذر! دیکھو دن میں بارہ گھنٹے ہوتے  
ہیں لہذا دس دن کے ہر گھنٹہ میں ایک رکعت اور دو سجدے

رکعات ثم ثمان رکعات وعن عكرمة بن خالد  
عن ام هانئ بنت ابي طالب رضی اللہ عنہا  
قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
فی الفتح فتح مكة نزل با علی مکتة فصلی ثمان  
رکعات ثقلت یا رسول اللہ ما هذه الصلاة  
قال صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الفجری قال الحدیث  
بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ هو ثبت والاختیار  
عند اهل العلم رحمہم اللہ ثمان رکعات  
وكذلك روى ابو سعید رضی اللہ عنہ عن النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم وعن عائشة رضی اللہ عنہا  
ایضا انها صلت الفجری ثمان رکعات وقال القاسم  
بن محمد رحمہ اللہ كانت عائشة رضی اللہ  
عنہا تصلی الفجری ثمان رکعات وتطیل ذلك وكانت  
اذا صلتها غلقت الباب علیها ثم عشر رکعات  
ان اختارت ثم ثنتا عشرة رکعة وهو افضلها  
لما حدثنا به ابو نصر عن والدہ باسنادہ عن  
حمزة بن موسی بن انس بن مالک انصاری  
عن عمہ ثامہ بن انس عن جدہ انس ابن  
مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی الفجری اثنتی  
عشر رکعة نبی اللہ تعالیٰ له قصر من ذهب  
فی الجنة وحدثنا ابو نصر عن والدہ باسنادہ  
عن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی اثنتی عشر رکعة  
رکعة من النهار نبی اللہ تعالیٰ له بیتانی

الجنة وحدثنا ابو نصر عن والدي باسناد عن  
ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضى عنه قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان النهار اثنتا عشرة ساعة  
فاعمل لكل ساعة منها ركعة ومجدتين يد راعنك ما فيها  
من ذنب يا ابا ذر من صلى ركعتين لم يحن من الغافلين  
ومن صلى اربع اکتب من الذاكرين ومن صلى ستا لم  
يلحقه في يومه حنث الا الشرك بالله تعالى ومن صلى  
اثنتي عشرة ركعة بنى له بيت في الجنة قلت يا رسول الله  
اجمع ام شتى قال صلى الله عليه وسلم لا عليك -

**فصل:** واما وقتها فلها وقتان جائز  
وهو بعد طلوع الشمس الى صلاة الظهر و  
مستحب وهو حين ترمض الفصال عند قرب  
الزوال والذليل على استحبابها في هذا الوقت  
ما روى أن زيد بن ارقم رضى الله عنه رأى  
قوما يصلون الفحى في مسجد قباء فقال لقد  
علموا أن الصلاة في غير هذا الساعة افضل  
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة  
الاوابين حين ترمض الفصال ويجوز فعلها  
ايضا بعد الزوال لما روى عوف بن مالك رضى الله  
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ساعة السبحة حين تزول الشمس من كبد  
السماء وهى صلاة المختبين وافضلها في شدة  
الحر وان هولم يصلها الى ان صلى الظهر فضاها  
على وجه الاستحباب -

**فصل:** واما الذى يقرأ فيها فما روى عن

لوٹایا کر دیر رکعت تمہارے ہر گھنٹہ کے گناہوں کی ذبح کرتی رہے  
گی۔ اسے ابو ذر جو دو گنا نہ پڑھ لیتا ہے وہ غافلوں میں نہیں  
لکھا جاتا اور جو چار رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ ذکر کرنے والوں  
میں لکھا جاتا ہے اور جو چھ رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس سے بجز  
شکر کے کسی گناہ کی باز پرس نہ ہوگی اور جو بارہ رکعتیں پڑھ  
لے اس کے لئے جنت میں گھر تیار کر دیا جاتا ہے میں نے پوچھا  
یا رسول اللہ اکٹھی پڑھی جائیں یا الگ الگ فرمایا جس طرح چاہو  
پڑھو کوئی حرج نہیں۔

\*

**چاشت کی نماز کا وقت** | نماز چاشت کے دو وقت ہیں ایک

وقت تو جائز ہے یہ وقت طلوع آفتاب سے لے کر ظہر کی نماز تک ہے اور  
ایک وقت مستحب ہے اور یہ زوال سے پہلے کا وقت ہے جب اڑٹ کے  
بچوں کے پر ریت سے چلنے لگتے ہیں۔ اس وقت کے استحباب کی دلیل  
زید بن ارقم والی روایت ہے کہ زید نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مسجد نبویہ  
چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں فرمایا انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ دو وقت  
میں چاشت کی نماز افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اوابین چاشت  
نماز اس وقت ہے جب اڑٹ کے بچوں کے پیر چلنے لگیں چاشت کی نماز زوال کے  
بھی جائز ہے کیونکہ عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی نماز اس وقت  
ہے جب سورج بیچ آسمان سے ڈھل جائے۔ یہ نعتیں راجحی کرنے  
والوں کی نماز کہلاتی ہے افضل یہ ہے کہ سخت گرمی میں پڑھی جائے  
اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھنے تک چاشت کی نماز نہیں پڑھی تو  
تفنا کرے تفنا پڑھنا مستحب ہے۔

\*

چاشت کی نماز میں کن سورتوں | اس سلسلہ میں نبی اکرم  
کو پڑھنا چاہیے؟ | صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے



النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الفجر بسورة  
والشمس وفتحها والضحى وعن عمرو بن شعيب عن  
ابيه عن جد له رضى الله عنه قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتى عشرة ركعة صلاة  
الضحى فقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية  
الكرسى مرة وثلاث مرات قل هو الله احد نزل من  
كل سماء سبعون الف ملك معهم قراطيس واقلام  
من نور يكتبون له الحسنات الى ان ينفخ فى الصور  
فاذا كان يوم القيامة اتته الملائكة مع كل  
ملك حلة وهدية فيقومون على قبره ويقولون  
يا صاحب القبر قم باذن الله عز وجل فانك من الامنين  
**فصل:** وقد ورد عن بعض الصحابة رضى الله  
عنه انكار صلاة الفجر من ذلك ما روى  
ابن المنادي من اصحابنا باسناد له عن ابن عمر  
رضى الله عنهما انه قال ما صليت الضحى منذ  
اسلمت الا ان اطوف بالبیت وانها البدعة  
ولنعت البدعة وانها لمن احسن ما احذثه  
الناس وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول  
فى صلاة الفجر يا عباد الله لا تحملوا الناس ما  
لم يحملهم الله اياها فان كنتم لا بد فاعليها  
فصلوها فى بيوتكم وكل هذا لا يدل على رد  
ما قدمنا ذكره من الفضائل الواردة فى فعلها  
وانما ارادوا بذلك ان لا تشبه بصلاة الفجر  
فيعتقد الناس وجوبها وليس كل الناس سواء  
فى نشاط العبادة فطلبوا الخفة عنهم وتسهيل

فرمایا کہ چاشت کی نماز سورہ والشمس اور سورہ والضحیٰ  
کے ساتھ ہے۔

عمرو بن شعيب از ابيه از جدہ:۔ رسول اللہ صلیع نے فرمایا  
جو چاشت کی نماز کی بارہ رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں  
ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی اور تین بار سورہ  
اخلاص پڑھے تو ہر آسمان سے ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں جن  
کے ہاتھوں میں سفید کاغذ اور نورانی قلم ہوتے ہیں اور اس کے  
لئے نیکیاں قیامت کے صور پھینکنے تک لکھتے رہتے ہیں پھر جب  
قیامت کا دن ہوگا تو اس کے پاس فرشتے آئیں گے اور ہر فرشتے کے  
پاس ایک جڑا اور ہریہ ہوگا اور وہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہیں گے  
کہ اے قبر والے اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو کیونکہ تو امن والوں میں سے ہے  
**کیا چاشت کی نماز منع ہے؟** بعض صحابہ سے چاشت کی نماز

کا انکار ثابت ہے چنانچہ ہمارے علماء میں سے ابن مبارک اپنی اسناد  
حضرت ابن عمر رضی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا کہ جب  
میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی ہاں  
جب چاشت کے وقت کعبہ اقدس کا طواف کرتا ہوں تو روک دیا  
پڑھتا ہوں بلاشبہ چاشت کی نماز بدعت ہے لیکن بہترین بدعت  
اپنے نماز لوگوں کی بہترین ایجاد ہے۔

حضرت ابن مسعود چاشت کی نماز کے بارے میں فرمایا کرتے تھے  
کہ اے اللہ کے بندو! لوگوں پر وہ بوجھ نہ لا دو جو بوجھ اللہ تعالیٰ  
نے ان پر نہیں لا دیا ہے اگر تم کو چاشت کی نماز پڑھے بغیر چارہ  
ہی نہ ہو تو اسے اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو۔ غرضیکہ یہ انکار  
چاشت کی نماز کے فضائل کی تردید پر جن کو ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں  
دلائل نہیں کرتا بلکہ اس سے صحابہ کرام کی یہ مراد ہے کہ ایسا نہ ہو  
یہ نماز فرض نماز کے مشابہ ہو جائے اور لوگ اس کے وجوب کے

الطاعة عليهم وللهذا المعنى روى عن عتبان بن مالك رضى الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بنية سبحة الفصحى فقاموا وراءه فصلوا وكانت عائشة رضى الله عنها اذا ارادت ان تصليها غلقت الباب وابن عباس رضى الله عنهما كان يصلينها ليوما ويتركها عشرا۔

**فصل** : واما الورد الثالث فالصلاة قبل الظهر وبعد ما حدثنا ابو نصر عن والدنا باسناد عن ام حبيبة رضى الله عنها انها قالت من صلى اربع ركعات قبل الظهر واربع بعد ما حرم الله تعالى الحمد على النار وقيل ان البواب السماء والمجنة تفتح من بعد الزوال الى ان تصلى الظهر ولهذا قيل ان الدعوات تستجاب في هذه الساعة ولهذا يتحب ملازمة العبادات والدعاء والذكر فيها وفي ذلك حديث مروى عن ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه قال ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يواطى على اربع ركعات قبل الظهر فسئل فقال صلى الله عليه وسلم ان البواب الجنة تفتح عند زوال الشمس فلا ترجح حتى تقام الصلاة فان ابن اقدم وسئلت عائشة رضى الله عنها اى صلاة كانت احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يواطى عليها فقالت رضى الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يعلى اربعاً قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود۔

**فصل** : واما الورد الرابع ففيها بين الظهر

قائل ہو جائیں اور لذت عبادت میں تمام لوگ یکساں نہیں ہوا کرتے لہذا ان بزرگوں نے ان کے لئے تخفیف کی صورت بتائی ہے تاکہ عبادت ان کے لئے آسان ہو جائے اسی بنا پر عتبان بن مالک سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں چاشت کی نماز پڑھی صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور انھوں نے بھی پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب چاشت کی نماز کا ارادہ کرتی تھیں تو دروازہ بند کر کے نماز پڑھا کرتی تھیں اور حضرت ابن عباسؓ ایک دن پڑھنے اور دس دن تک چھوڑ دیا کرتے تھے۔

**قبل وبعد از ظهر اور ادا** تیسرا اور ذیل وبعد از ظهر نماز ہے۔ ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے حضرت ام حبیبہ سے بیان کیا کہ جو قبل وبعد از ظهر چار چار رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گوشت آگ پر حرام فرمادیتا ہے کہا جاتا ہے کہ آسمان و جنت کے دروازے زوال کے ظہر کی نماز پڑھنے تک کھول دئے جاتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس ساعت میں دعا قبول ہوتی ہے اسی بنا پر اس ساعت میں عبادت، دعا اور ذکر مستحب ہے اس سلسلہ میں ابویوب انصاری سے ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبل چار رکعت نماز پر ہمیشگی کیا کرتے تھے آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ جنت کے دروازے زوال آفتاب کے وقت کھول دئے جاتے ہیں اور ظہر کی نماز کے کھڑے ہونے تک بند نہیں کئے جاتے لہذا اس ساعت میں مجھے اپنی عبادت آگے بھینچنا محبوب ہے۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نماز پر ہمیشگی محبوب تھی؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے جن میں نیام لبایا کرتے تھے اور اچھی طرح سے رکوع اور سجدے کیا کرتے تھے۔

**ظہر وعصر کے درمیان کا ورد** ہم سے صالح بن مالک نے بیان



والعصر حدثنا ابو نصر عن والده قال انبانا عبر ابن  
احمد قال انبانا عبد الله بن محمد قال حدثنا  
صالح بن مالك قال حدثنا جعفر بن عمر قال  
حدثنا يونس ابن ابي عمرة عن عطاء عن ابن عباس  
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم من احيا ما بين الظهر والعصر احيا الله  
قلبه يوم تموت القلوب وعن ابن عمر رضي الله  
عنهما انه كان يجي ما بين الظهر والعصر وعن  
ابراهيم النخعي رحمه الله انه قال كانوا  
يشبهون الصلاة بين العشاء وبين ما بين الظهر  
والعصر بصلاة الليل كان ذلك دأب كثير من  
العباد فيصلون اورادهم بين الظهر والعصر  
ينفردون عن الخلق ويتقطعون الى الحق في هذه  
الساعة وهي ساعة شريفة للخلوة بالرب عز وجل  
وذكره وهي صلاة العقلة ويستحب الاعتكاف  
في المسجد بين الظهر والعصر للصلاة والذكر  
ليجمع بين الاعتكاف والانتظار للصلاة وقد  
كان دأب السلف الا ان يكون قد فاتته النوم  
قبل الزوال فليتم في هذه الساعة ليتقوى به  
على قيام الليل فان نومه قبل الظهر ليلة المأبوت  
وبعد الظهر ليلة المستقبل ولا يستحب ان يزد  
في النوم على ثمان ساعات وقيل ان نقص في  
النوم عن هذا المقدار اضطرب بدنه لان النوم  
قوت البدن وراحتة وحدثنا ابو نصر عن والده  
با سناد عن سهل عن ابيه عن ابي هريرة رضي

کيا ان سے جعفر بن عمر نے بیان کیا ان سے یونس بن ابی عمرہ نے بیان کیا  
وہ عطاء سے اور وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر و عصر کے درمیان حصہ کو  
زندہ رکھے حق تعالیٰ اس دن اس کا دل زندہ رکھے گا جس دن مر  
جائیں گے۔ حضرت ابن عمر ظہر و عصر کے درمیان حصہ کو زندہ رکھا کرتے  
تھے۔

ابراہیم نخعی :- سلف مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز کو اور ظہر  
و عصر کے درمیان کی نماز کو رات کی نماز کے مشابہ سمجھا کرتے تھے اور  
یہ بہت سے عبادت گزاروں کا طریقہ تھا اور وہ اپنے در ظہر و عصر  
کے درمیان پڑھا کرتے تھے اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر خلوت میں  
اس ساعت میں اپنے رب سے سرگوشی کیا کرتے تھے خلوت میں  
رب کے ذکر کے لئے یہ ایک شریف ساعت ہے اور اس وقت کی  
نماز غفلت دور کر دیتی ہے نماز و ذکر کے لئے عصر و ظہر کے درمیان  
مسجد میں اعتکاف مستحب ہے تاکہ اعتکاف اور عصر کی نماز کا  
دونوں عبادتیں جمع ہو جائیں سلف کی یہی عادت تھی البتہ جو زوال  
سے پہلے سویا نہ ہو وہ ظہر کی نماز پڑھ کر سو جائے تاکہ رات کی نماز  
کے لئے تازہ دم اور قوی رہے کیونکہ ظہر سے پہلے کی نیند گزشتہ شب  
کے لئے ہوتی ہے اور بعد کی نیند آنے والی شب کے لئے ہوتی ہے  
تین گھنٹے سے زیادہ سونا مستحب نہیں کہتے ہیں اگر کوئی تین گھنٹے  
کم سوئے گا تو اس کے بدن میں بے چینی پیدا ہو جائے گی کیونکہ  
نیند بدن کے لئے موجب قوت و راحت ہے۔

ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے سہیل سے  
بیان کیا وہ اپنے والد سے اور حضرت ابو ہریرہ سے اور وہ  
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے  
فرمایا کہ جس نے روزانہ بارہ رکعت نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے

عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى اثنتي عشرة ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة اثنتين قبل الفجر واربعا قبل الظهر واثنتين بعد الظهر واثنتين قبل العصر واثنتين بعد المغرب وعن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المصلون لاربع قبل العصر حتى يغفر الله لهم مغفرة حتما.

**فصل:** وقد ورد حديث جامع للنوافل في هذه الاوقات وهو ما حدثنا به ابو نصر عن والده قال حدثنا محمد بن احمد الحافظ قال حدثنا محمد بن بدر الجماري قال حدثنا احمد ابن مدرك قال حدثنا عثمان بن عبد الله الشامي قال حدثنا محمد بن ابراهيم عن عبد الله بن ابي سعيد عن طاوس عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب اربع ركعات قبل ان يحلم احدا رفعت له في عليين وكان كمن ادرك ليلة القدر في المسجد الاقصى يعني مسجد بيت المقدس وهي خير من قيام نصف ليلة وهي قول الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وهي قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع وهي قول الله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها ومن صلى اربعاء بعد العشاء الآخرة كان كمن ادرك ليلة القدر في المسجد الحرام ومن صلى اربعاء قبل الظهر واربعا

جنت میں ایک گھر بنا دے گا دو قبل از فجر، چار قبل از ظہر، دو بعد از ظہر، دو قبل از عصر، اور دو بعد از مغرب۔

سعید بن مسیب از عائشہ رضی اللہ عنہا:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ لوگ قبل از عصر چار رکعت نماز برابر پڑھتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں لازمی طور پر بخش دے گا۔

\*

**اوقات مذکورہ میں نوافل کا ثبوت** | ان اوقات میں نوافل

کے ثبوت میں ایک جامع حدیث آئی ہے اور وہ یہ ہے ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے بیان کیا ان سے حافظ محمد بن احمد نے بیان کیا، ان سے محمد بن بدر جماري نے بیان کیا، ان سے حماد بن مدرک نے بیان کیا، ان سے عثمان بن عبد اللہ شامی نے بیان کیا اور ان سے محمد بن ابراہیم نے بیان کیا وہ عبد اللہ بن ابی سعید سے، وہ طاؤس سے اور وہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد بات کئے بغیر چار رکعت نماز پڑھے تو یہ نماز اس کے لئے علیین میں اٹھالی جاتی ہے اور گویا اس نے مسجد اقصیٰ میں شب قدر پالی اور یہ نماز آدھی رات کے قیام سے بہتر ہے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رات میں تدر سے سو جلتے ہیں فرمایا کہ ان کی خواجگاہوں سے ان کی کرڈیں در رہ جاتی ہیں فرمایا کہ وہ (حضرت موسیٰ) شہر میں اس زنت داخل ہوئے جب شہر کے باشندے غفلت میں تھے اور جو عشا کے بعد چار رکعت پڑھے گویا اس نے مسجد حرام میں شب قدر پالی اور جو ظہر سے قبل اور ظہر کے بعد چار چار رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے آگ پر اس کے جسم کا کھانا حرام فرمادے گا اور



بعد ما حرم الله تعالى حبله على النار ان تاكله  
ابد او من صلى اربعاً قبل العصر كتب الله له براءة  
من النار وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر  
احب الي من الدنيا وما فيها وحدثنا البرقي عن  
المداء باسناد لا عن علي كرم الله وجهه انه سئل  
عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يطيق  
ذلك كان يبهرل حتى اذا كانت الشمس عن يسار  
مقدارها عن يمينه في العصر صلى ركعتين فاذا  
كانت عن يسارها مقدارها عن يمينه في الظهر  
صلى اربعاً فاذا زالت الشمس صلى اربعاً  
فيصلي بعد الظهر ركعتين وقبل العصر اربعاً  
وفي الجملة يغتنم العبد الصلاة بعد الاذان  
والاقامة والدعاء والتضرع فانها ساعة  
مرجوا حباية الداعي فيها على ما تقدم.

**فصل:** واما الورد الخامس بعد صلاة العصر

التي غروب الشمس فهو الذكر من التسبيح <sup>لتسهيل</sup>  
والاستغفار والتفكير في الملكوت وقراءة القرآن  
لان صلاة النافلة منهى عنها فيه ويقرأ  
قبل غروب الشمس والشمس وضحاها والليل  
اذا يغشى ثم المعوذتين يجتم نهاراً ويستفتح  
ليله بالقرآن والاستعاذلة وروى عن الحسن  
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  
انه قال فيما يذكر من رحمة ربه عز وجل ان الله  
تعالى قال يا ابن آدم اذكرني من بعد صلاة

جو عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھ لے جن تعالیٰ جل مجدہ اس کے  
لئے آگ سے برأت نامہ لکھ دیتا ہے۔

نافع از ابن عمر رضی اللہ عنہما :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا  
کہ صبح کی سنتیں مجھے دنیا و ماہیہما سے زیادہ پیاری ہیں۔

ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے  
بیان کیا کہ آپ سے نبی صلعم کے نوافل کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا  
ان کی کس میں طاقت ہے؟ آپ ٹھہرے رہتے پھر جب آفتاب  
اتنا اونچا ہو جاتا جس قدر عصر کے وقت اونچا رہتا ہے تو آپ  
دو گناہ ادا کیا کرتے تھے اور زوال کے قبل چار رکعت پڑھا کرتے  
تھے اور زوال کے بعد چار رکعت پڑھا کرتے تھے اور ظہر کے بعد  
دو رکعت پڑھا کرتے اور عصر سے قبل چار رکعت پڑھا کرتے تھے۔  
الغرض انسان اذان و تکبیر کے درمیان نماز دعا اور گڑگڑانے  
کو غنیمت سمجھے کیونکہ اس ساعت میں دعاؤں کی قبولیت کی  
توقع کی جاتی ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

★

**عصر و غروب آفتاب کے درمیان کا ورد** یا پانچواں ورد

عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ یہ ساعت  
ذکر اللہ کے لئے ہے اس میں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور استغفار  
پڑھا جائے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے اور عالم بالا پر غور و فکر کیا  
جائے۔ اس ساعت میں نوافل کا پڑھنا منع ہے آفتاب دہنے  
سے پہلے والشمس واللیل اور معوذتین پڑھو اور دن ختم کرو اور  
رات کا افتتاح اعموذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اور قرآن کی تلاوت  
سے کرو۔

حسن از نبی اکرم صلعم :- آپ نے فرمایا جب کہ آپ رب العالمین  
کی رحمت کا ذکر فرما رہے تھے کہ جن تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرزند آدم!

الفجر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة  
اكثر ما بينهما۔

صبح کی نماز کے بعد ایک گھنٹہ میرا ذکر کر اور عصر کی نماز کے بعد ایک گھنٹہ ذکر کر  
میں ان دونوں گھنٹوں کے درمیان والے گھنٹوں میں تجھے کافی ہو جاؤں گا۔

## پندرہواں باب

### پنجگانہ نمازیں نمازوں کے اوقات و سن نمازوں کے فضائل

★

**فصل:** الصلوات المكتوبة خمس الفجر  
وهي ركعتان والظھر وهي اربع ركعات والعصر  
وهي اربع ركعات والمغرب وهي ثلاث ركعات  
والعشاء الآخرة وهي اربع ركعات فذلك  
سبع عشرة ركعة وقد كانت فرضت خمسين  
صلاة ليلة اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم  
ليلة المعراج ثم اعيدت الى خمس حكمة من  
الله عز وجل ليتبين بذلك التخفيف وسهولة  
ما البقي مما اسقط عن عبادة المؤمنين كما اسقط  
عنهم ثبوت واحد لعشرة من المشركين في القتال  
الى ثبوت واحد لثنتين منهم وكما اسقط تحريم  
الاكل والشرب والجماع بعد النوم في ليالي الصيا  
بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط  
الابيض من الخيط الاسود لعل ان كان ذلك  
محرمًا عليهم۔

**فصل:** والاصل في وجوبها قوله عز وجل

پانچ نمازیں | پانچ نمازیں فرض ہیں (۱) فجر کی نماز یہ دو گانہ ہے  
(۲) ظہر کی نماز۔ اس کی چار رکعتیں ہیں (۳) عصر کی نماز۔ اس  
کی بھی چار رکعتیں ہیں (۴) مغرب کی نماز۔ اس کی تین رکعتیں ہیں  
(۵) عشاء کی نماز اس کی چار رکعتیں ہیں لہذا پنجگانہ نمازوں  
کی مجموعی رکعتیں ۷۷ ہیں۔

شب معراج پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں پھر حق تعالیٰ کی  
مخصوص حکمت کی بنا پر پانچ رہ گئیں تاکہ مومن بندوں کے لئے  
باقی نمازوں میں تخفیف و سہولت ہو جیسے جنگ میں شروع میں  
دس مشرکوں کے مقابلہ میں ایک مسلمان کو مقابلہ کا حکم تھا پھر  
ازراہ تخفیف و سہولت دو مشرکوں کے مقابلہ میں ایک مسلمان کو  
مقابلہ کا حکم آتا رہا یا جیسے شروع میں رمضان کی راتوں  
میں سونے کے بعد کھانا پینا اور ہمبستری حرام تھی مگر پھر  
ازراہ تخفیف و سہولت جائز کر دی گئی اور آیت فکلوا واشربوا  
الآنرا آئی۔ یعنی کھاتے پیتے رہو جب تک سفید طور سیاہ  
طور سے سے ظاہر نہ ہو جائے۔

وجوب نماز | حق تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو



وایسوا الصلاة وآتوا الزکاة واکعوا مع  
الراکعین والاصل فی بیان اوقاتہا آیات و  
اخبار اما الآیات فقوله عزوجل فسبحان الله  
حين تسون وحين تصبحون وله الحمد فی السموات  
والارض وعشیا وحين تطهرون فسبحان الله  
ای صلو الله حین تسون صلاة المغرب والعشاء  
وحین تصبحون صلاة الفجر وعشیا صلاة العصر  
وحین تطهرون صلاة الظهر وقال عزوجل  
ان الصلاة كانت علی المومنین کتابا موقوتا  
وقال تعالی واقم الصلاة طریقی النهار و  
زلفامن اللیل وقال تعالی اقم الصلاة لردک  
الشمس ای عند غروبہا وقیل عند زوالہا  
وقال جلت عظمتہ فسبح بحمد ربک قبل طلوع  
الشمس وقبل غروبہا ومن آناء اللیل فسبح  
واطراف النهار لعلک ترضی قال قتادة  
رحمہ الله قبل طلوع الشمس ہی صلاة الفجر  
وقبل غروبہا صلاة العصر ومن آناء اللیل  
صلاة المغرب والعشاء واطراف النهار  
صلاة الظهر واما الاخبار فماروی عن  
ابن عباس رضی الله عنہما انه قال قال رسول  
الله صلی الله علیہ وسلم امني جبریل علیہ السلام  
عند البیت فصلى فی الظهر حین زالت الشمس  
وكانت بقدر الشراک ثم صلی فی العصر حین  
صار ظل کل شیء مثله ثم صلی فی المغرب  
حین افطر الصائم ثم صلی فی العشاء حین

اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اس آیت سے نماز کی فرضیت  
ثابت ہوئی۔ اور اوقات نماز نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت  
ہیں فرمایا اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو اور اسی کے  
لئے آسمان وزمین میں حمد ہے اور رات میں اور جب تم دوپہر کرو۔  
فسبحان اللہ یعنی اللہ کے لئے نماز پڑھو، جب تم شام کرتے ہو اس میں  
مغرب وعشاء کی نماز شامل ہے، اور جب تم صبح کرتے ہو اس میں فجر  
کی نماز شامل ہے، وعشیا میں عصر کی نماز شامل اور جب تم دوپہر کرو  
میں ظہر کی نماز شامل ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا بلاشبہ نماز مومنوں پر مفروضہ  
وقت پر لکھ دی گئی ہے فرمایا: آپ نماز سورج کے ڈوبنے کے وقت  
یا زوال کے وقت قائم کریں فرمایا آپ نماز دن کے دونوں کناروں میں  
اور کچھ رات کے گزر جانے پر قائم کریں۔ فرمایا: آپ اپنے رب کی پاکی  
معدہ حمد کے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے پاکی بیان کریں  
اور رات کی ساعتوں میں پاکی بیان کریں اور دن کے کناروں میں بھی  
تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔

تقادہ: سورج نکلنے سے قبل فجر کی نماز ہے سورج ڈوبنے سے قبل  
عصر کی نماز ہے رات کی ساعتوں میں مغرب وعشاء کی نماز میں ہیں اور  
دن کے اطراف میں ظہر کی نماز ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: بیت اللہ کے  
پاس حضرت جبریل نے مجھے نماز پڑھائی آپ نے ظہر کی نماز زوال کے  
بعد اس وقت پڑھائی جب سایہ سہم کی برابر تھا اور عصر کی اس  
وقت پڑھائی جب سایہ سہم مثل ہو گیا۔ مغرب اس وقت پڑھائی  
روزہ دار روزہ کھوتا ہے اور شفق غائب ہو جانے پر عشاء کی نماز  
پڑھائی پھر صبح کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا  
پینا حرام ہو جاتا ہے پھر دوسرے دن آپ نے ظہر اس وقت پڑھائی  
جب سایہ سہم مثل ہو گیا، عصر اس وقت پڑھائی جب سایہ

درشل ہو گیا، مغرب روزہ کھانے کے وقت پڑھائی، عشر پہلی تھائی رات تک پڑھائی اور روشنی ہو جانے پر صبح کی نماز پڑھائی پھر آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے محمد! یہی آپ سے پہلے تمام انبیائے کرام کی نمازوں کا وقت ہے اور ان دونوں وقتوں کے درمیان وقت ہے۔ یہی حدیث تمام ارباب مذاہب کی دلیل و اصل ہے اس مسئلہ میں کئی حدیثیں آتی ہیں سب کا مرجع اسی حدیث کا مفہوم ہے ہم نے طوالت کے خوف سے تمام حدیثیں بیان نہیں کیں۔

\*

رحمت عالم سے قبل کس کس نے یہ نمازیں پڑھیں؟ ایک حدیث میں ہے کہ

ایک انصاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فجر کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ اسے آپ سے پہلے کس نے پڑھا؟ آپ نے اسے بتایا کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم نے پڑھی نظر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے پڑھی جب حق تعالیٰ نے آپ کو نروذ کی آگ سے نجات بخشی اور عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یعقوب نے پڑھی جب آپ کو حضرت جبریل نے حضرت یوسف کی خبر دی اور مغرب سے پہلے حضرت داؤد نے پڑھی جب حق تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس بن مثنیٰ نے پڑھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پردوں کے چوڑے کی طرح کر کے پھیلنے کے پیٹ سے نکالا پھر حضرت یونس علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل نے آکر کہا کہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ میں آپ سے شکر مندہ ہوں کہ میں نے دنیا میں آپ کو کس طرح نرزدی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے چار رکعت نماز پڑھی پھر فرمایا کہ میں اپنے رب سے

غاب الشفق ثم صلى في الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى في الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى في العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم صلى في المغرب حين افطر الصائم ثم صلى في العشاء الى ثلث الليل الاول ثم صلى في الفجر حين اسفر ثم التفت الى فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين وهذا الخبر هو اصل في المواقيت وفي هذا الباب احاديث وردت عليها ترجع الى معناها فلم تذكرها۔

فصل في ذكر من صلى هذه الصلوات اولاً قبل نبينا صلى الله عليه وسلم روى في بعض الاخبار ان رجلاً من الانصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر من صلاها اولاً فاخبره ان من صلاها اولاً آدم عليه السلام والظھر صلاها ابراهيم عليه السلام حين نجاه الله تعالى من نار سدوم والعصر صلاها يعقوب عليه السلام حين اخبره جبريل بيوسف عليهما السلام والمغرب صلاها داود عليه السلام حين تاب الله عليه وصلاة العتمة صلاها يونس ابن مثنى عليه السلام حين اخرجته الله من بطن الحوت كالفرخ الذي لا ريش له فجاؤ جبريل عليه السلام فقال ان الله تعالى يقربك السلام ويقول لك اني مستمع منك كيف عذبتك في دار الدنيا فهل انت راض عني فقام فصلى



اربع ركعات ثم قال اني عن ربي راض اني عن ربي راض-

**فصل:** واول ماوجب من الصلوات على

نبينا صلى الله عليه وسلم وامر بفعالها صلا

الفجر والمغرب فكان صلى الله عليه وسلم

يصلى ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي و

هو قوله عز وجل وسبح بحمد ربك بالعشي

والابكار الى ان تسبحي به صلى الله عليه وسلم

الى السناء ليلة المعراج ففرض عليه خمس

صلوات وصلاة الفجر هي اول صلاة النهار

ثم الظهر وانما بدأ العلماء في بيان صفة

الصلوات بالظهور اتباعا للسنة وهو قوله

صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس

رضي الله عنهما أمي جبريل عند البيت فصلى

بي الظهر الى آخر الحديث فبدأ ببيان وقتها

فجعل اول المواقيت وقتها لانها فرضت اول

وقد بينا ان الفجر هي التي صلاها آدم عليه

السلام وهو اول نبي ارسل في الارض من

الانس فعلم انها اول صلاة فرضت

في الجملة -

**فصل:** في بيان وقت صلاة الفجر فاول

وقتها انصداع الفجر الثاني المعترض بالضياء

في اقصى المشرق اذا هب من القبلة الى دبرها

حتى يرتفع فيعم الافق وينتشر على رؤس الجبال

والقصور الشديدة و آخر وقتها الاسفار النير

الذي اذا سلم منها بدأ حاجب الشمس وما

راضى هولاء انهم آتاهم من ربي راض

**شروع میں کس کس وقت کی نماز فرض ہوئی؟** رحمت عالم

صلى الله عليه وآله وسلم پر سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی اور آپ کو

جس نماز کے پڑھنے کا حکم ہوا وہ صبح کی اور مغرب کی نماز تھی چنانچہ

آپ دو رکعت صبح کو اور دو رکعت شام کو پڑھا کرتے تھے حق تعالیٰ

نے نسرایا آپ شام کو اور صبح کو اپنے رب کی پاکی مع اس کی حمد

کے بیان کیجئے۔ پھر آپ کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا اور

حق تعالیٰ نے آپ پر پانچ نمازیں فرض فرمادیں۔ صبح کی نمازوں

کی نمازوں میں پہلی نماز ہے پھر ظہر ہے۔

علماء نے سب سے پہلے نمازوں کے سلسلہ میں ظہر سے ابتداء سنت

کی اتباع کرتے ہوئے کی درحالیہ کہ ابتداء صبح کی نماز سے

کی جاتی کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث میں ہے

کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے

نماز پڑھائی اور ظہر فلاں وقت پڑھائی اور حدیث تک آپ

نے ظہر کے وقت سے ابتداء کی اور اوقات میں سب سے پہلے

ظہر کا وقت بتایا یہ بات نہیں کہ ظہر کی نماز سب سے پہلے فرض ہوئی

ہم اور بیان کرتے ہیں کہ صبح کی نماز وہ پہلی نماز ہے جو حضرت آدم نے

پڑھی اور آپ سب سے پہلے نہیں ہیں جو دنیا کی طرف بھیجے گئے تھے معلوم

ہو کہ فجر کی نماز مطلقاً سب سے پہلے فرض کی گئی۔

**نماز فجر کا وقت** فجر کی نماز کا اول وقت صبح صادق کے ہوتے

ہی ہو جاتا ہے یعنی صبح صادق کی روشنی آسمان کے مشرق کنارے میں

عرض میں پھیل جاتی ہے اور تمام کنارے کو گھیر لیتی ہے اور پھاڑوں کی

چوٹیوں پر اور اونچی عمارتوں پر پھیل جاتی ہے اور آخری وقت اسٹار

ہے یعنی روشنی خوب پھیل جائے اور آفتاب کی گرد میں عنقریب پھاڑوں

اور عمارتوں کی چوٹیوں پر نمودار ہو جانے والی ہوتی ہیں اور دونوں

ہذین وقت واسع والمستحب ان تسمى هذا الصلاة  
صلاة الصبح او الفجر ولا تسمى صلاة الغداة  
لان الله تعالى قال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر  
كان مشهورا یعنی صلاة الفجر تشهدھا  
ملائكة الليل وملائكة النهار فتحصل فی آخر  
صحيفة ملائكة الليل واول صحيفة ملائكة  
النهار علیہم السلام والافضل التعلیس بہا  
خلاف ما قال الامام ابو حنیفة من ان الاسفار  
بھا افضل وانما قلنا ذلك لما روى عن عائشة  
رضی اللہ عنہا انہا قالت کن النساء یخرجن  
على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمیلن  
الفجر معه ثم یرجعن متلفعات بہر وطهن لا  
یعرفهن احد من الغلس وعن امامنا احمد  
رحمہ اللہ زوایة اخرى ان المقبر مجال المأمونین  
فان اسفروا فالفضل الاسفار لتکثیر الجمع  
والثواب واما الفجر الاول فلا عبرة بہ لانه  
لا یجرم شیئا ولا یوجب شیئا لما روى عن  
ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال الفجر  
فجران فالذی یجمل بہ الصلاة ویجرم فیہ  
الاکل والشرب الذی ینتشر علی رءوس الجبال  
وهو الذی یجرم وقد وصف بعض العلماء  
باللہ عز وجل الفجرین وحدھا مجدین فقال  
الفجر الاول وهو بید و سلطان شعاع الشمس  
اذا ظهرت من وراء الارض الخامسة لیسطع  
ضوءھا فی وسط السماء حتی یقطعھا بقدر

اوقات کے درمیان اصل وقت ہے مستحب یہ ہے کہ اس نماز کو صبح  
کی یا فجر کی نماز کہا جائے صلوة الغداة نہ کہا جائے کیونکہ حق تعالیٰ  
نے بھی نماز فجر ہی سے پکارا ہے فرمایا کہ آپ فجر کی نماز قائم رکھیں کیونکہ  
فجر کی نماز میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں قرآن فجر سے صبح کی نماز  
مراد ہے جس میں اعمال نامہ لکھنے والے دن رات کے فرشتے موجود  
ہوتے ہیں صبح کی نماز رات کے فرشتوں کے دفتروں میں سب سے  
پہلے لکھی ہوئی ہوتی ہے اور دن کے فرشتوں کے دفتروں میں سب سے  
پہلے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے  
لیکن ابو حنیفہ کے نزدیک خوب روشنی کر کے پڑھنا افضل ہے۔  
ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عمر رسالت  
میں خواتین نبی اکرم صلعم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتی تھیں پھر  
اپنی اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئی مسجد سے نکلتی تھیں اور اندھیرے کی  
وجہ سے انہیں کوئی پہچانتا نہ تھا۔ ہمارے امام احمد سے ایک روایت  
اور بھی منقول ہے کہ نمازیوں کا انتظار کرنے کا اعتبار ہے اگر وہ  
روشنی میں جمع ہوں تو افضل روشنی ہے کیونکہ اس صورت میں جا  
اور ثواب بڑھ جائے گا۔ صبح کاذب کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ  
صبح کاذب کسی چیز کو حرام نہیں کرتی اور نہ کسی چیز کو واجب کرتی  
ہے کیونکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دو قسم کی فجر ہیں  
تو جس فجر سے نماز حلال ہوتی ہے اور روزہ دار کے لئے کھانا  
پینا حرام ہو جاتا ہے۔ وہ وہ فجر ہے جس کی روشنی پہاڑوں کی چوٹیوں  
پر پھیل جاتی ہے بعض علماء نے دونوں فجروں کو اللہ کے نور کے شاہ  
بیان کیا ہے اور دونوں سے دونوں کو محدود کر دیا ہے چنانچہ  
وہ فرماتے ہیں کہ پہلی فجر میں پانچویں زمین کے مادہ سے سورج  
کی کرنوں کے غلبہ کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کی روشنی منتشر ہو کر  
آسمان کے بچوں میں پھیل جاتی ہے اور جب تک یہ فرماتی رہتی ہے



بقاء الفجر الاول فذلك الضياء الذي يظهر في السماء  
في الثلث الاخير من الليل هو الفجر الاول ثم يعود  
سواد الليل كما كان لان الشمس تغرق في الفلك  
الاسفل المتجانف وتجبها الارض السادسة  
فيذهب ذلك الضوء الذي ظهر في السماء واما  
الفجر الثاني فهو الشفق شفق الشمس وهو  
بد وبياضها الذي تحت الحمراء وهو الشفق  
الثاني وهو اول سلطاتها من آخر الليل  
وبعد طلوع قرص الشمس وذلك ان الشمس  
اذا ظهرت على وجه ارض الدنيا التي هي السابعة  
والفجر شعاعها من الفلك الاسفل وهو ذيل  
السماء سترت عينها الجبال والبحار والاقبال  
العالية وظهر شعاعها منتشرا الى وسط السماء  
عرضا مستطيرا والاول سيجي مستطيلا لانه  
يظهر في وسط السماء طولا ثم يذهب والثاني  
يظهر عرضا يستطير في عم الافق وارجاء السماء  
كلها وللشمس شفقان عند الغروب وشفقان  
عند الطلوع -

**فصل** : واما الظهر فاول وقتها اذا  
الشمس و آخرها اذا صار ظل كل شيء مثله  
والافضل تعجيلها الا في شدة الحر ومع العجم  
في حق من اراد الخروج الى الجماعة لقول النبي  
صلى الله عليه وسلم ابرد واما الظهر فان شدة  
الحر من فيج جهتم ولما روى عن بلال رضی الله  
عنه قال اذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

یہ روشنی بھی قائم رہتی ہے یہی روشنی جب رات کے اخیر تہائی حصہ میں  
آسمان پر ظاہر ہوتی ہے فجر اول ہے پھر رات کی سیاہی حسب سابق  
لوٹ آتی ہے کیونکہ سورج سب سے نیچے کے آسمان میں جو سب سے  
دور ہے ڈوب جاتا ہے اور چھٹی زمین اسے چھپا لیتی ہے اس لئے  
وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے جو آسمان پر پھیل گئی تھی اور دوسری  
فجر صبح صادق میں سورج کی شفق پھولتی ہے یعنی ایک ایسی  
سفیدی پھلتی ہے جس کے نیچے سرخی ہوتی ہے یہ دوسرا شفق  
ہے یہ شفق رات کے ختم ہونے کی نشانی ہے اور قرص سورج کے  
طلوع ہونے کے بعد نمودار ہوا کرتا ہے کیونکہ جب سورج نیچے  
زمین (ساتویں زمین) پر ظاہر ہوتا ہے اور نیچے کے آسمان سے  
جو اس کا دامن ہے اس کی گردیں پھوٹتی ہیں تو سورج پہاڑوں سمند  
اور بلند اقلیموں پر چھا جاتا ہے اور سورج کی گردیں منتشر ہو کر زمین  
میں افق میں وسط آسمان تک پہنچتی ہیں اسی کو صبح صادق کہا جاتا ہے  
یہ اور صبح کا ذبی طول آسمان میں روشنی کے انتشار کا نام ہے کیونکہ  
یہ طول میں وسط آسمان میں پھلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے لیکن صبح صادق  
کی روشنی عرض میں اور افق میں پھلتی ہے اور تمام افق میں پھیلی ہوتی  
اور آسمان کے تمام کناروں میں ہوتی ہے یاد رکھو سورج کے لئے دو وقت  
کے وقت بھی دو شفق ہوتے ہیں اور نکلنے کے وقت بھی دو ہوتے ہیں۔

**نماز ظہر کا وقت** ظہر کا اول وقت زوال ہونے ہی ہو جاتا ہے  
اور آخری وقت ہم مثل سایہ کے ہونے تک ہے اول وقت میں  
ظہر کی نماز پڑھنا افضل ہے لہذا سخت گرمی میں اور ابرو کے دن  
اس شخص کے حق میں جو جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے زیادہ  
کہ کے پڑھنی چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز حضرت  
وقت میں پڑھو کیونکہ سخت گرمی جہنم کے شعلہ کی وجہ سے ہوتی  
ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے

ابردوا بالظہر فابن شدۃ الحرم فیح جہنم ولما  
 روی عن بلال رضی اللہ عنہ قال آذنت رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم بصلاۃ الظہر فقال ابرد  
 ثم آذنتہ ثانیۃ فقال ابرد ثم آذنتہ ثالثۃ فقال  
 ابرد حتی رأیت فیء التلول ثم قال ان شدۃ الحر  
 من فیح جہنم فاذا شد الحر فابردوا و بیان  
 معرفۃ الزوال ان الشمس اذا وقفت فهو قبل  
 الزوال فاذا زالت اقل القلیل فذلک وقت  
 الظہر وجاء فی الحدیث ان الشمس اذا زالت  
 یبقد اشراک فذلک اول وقت الظہر فاذا  
 ما رطل کل شیء مثلہ فهو آخر وقت الظہر  
 و اول وقت العصر فاذا اردت ان تعرف ذلک  
 فقس الظل بان تنصب عمودا و تقوم قائما  
 فی موضع من الارض مستویا معتدلا ثم علم  
 علی منتهی الظل بان تخط خطا ثم انظر انقص  
 او یزید فان رأیتہ ینقص علمت ان الشمس  
 لم تنزل بعد وان رأیتہ قائما لا یزید ولا ینقص  
 فذلک قیامہا و ہر نصف التہار لا تجوز  
 الصلاۃ جینئذ فاذا اخذ الظل فی الزیادۃ  
 فذلک زوال الشمس فقس من حد الزیادۃ  
 الی ظل ذلک الشیء الذی قست بحد طول الظل  
 فاذا بلغ الی آخر طولہ فهو آخر وقت الظہر  
 فاذا زاد شیبنا سیرا فقد دخل وقت العصر  
 حتی یزید الظل طول ذلک الشیء امرۃ اخری  
 فذلک آخر وقت العصر ثم یبقی وقت المنورۃ

رسول اللہ صلعم کو ظہر کی نماز کی اطلاع دی فرمایا ٹھنڈے ہونے دو  
 پھر دوسری بار میں نے اطلاع دی فرمایا ٹھنڈے ہونے دو پھر  
 میں نے تیسری بار اطلاع دی فرمایا ٹھنڈے ہونے دو حتیٰ کہ میں نے  
 ٹیلوں کے سائے لیے دیکھے پھر آپ نے فرمایا دیکھو سخت گرمی  
 جہنم کے جوش کی وجہ سے پڑتی ہے پھر جب سخت گرمی ہو تو  
 ٹھنڈے ہونے پر نماز پڑھو۔

زوال کی پہچان | جب سورج وسط آسمان میں ٹھہر جائے تو

زوال سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اور جب ذرا سا ڈھل جائے تو  
 ظہر کا اول وقت ہو جاتا ہے ایک حدیث میں کہ جب سورج جو  
 کئے تسمہ کی برابر ڈھل جائے تو ظہر کا اول وقت ہو جاتا ہے پھر  
 جب سایہ ہم مثل ہو جائے تو ظہر کا اخیر وقت ہوتا ہے اور عصر  
 کے اول وقت کا آغاز ہو جاتا ہے اگر تم وقت کو پہچاننا چاہو تو  
 سایہ کے اندازے سے پہچانو جس کی یہ صورت ہے کہ کسی ہموار  
 زمین خط مستقیم میں ایک لکڑی گاڑ دو یا تم خود کھڑے ہو جاؤ  
 پھر جہاں تک سایہ پڑ رہا ہو وہاں تک ایک خط کھینچ کر نشان  
 کر دو پھر دیکھو سایہ گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے اگر گھٹ  
 رہا ہو تو زوال نہیں ہوا اور اگر نہ گھٹ رہا ہو اور نہ بڑھ رہا  
 ہو تو سورج ٹھہرا ہوا ہے اور عین دوپہر ہے اس وقت نماز  
 پڑھنا منع ہے اور اگر سایہ بڑھ رہا ہو تو زوال ہو چکا ہے  
 اور ظہر کا اول وقت ہو گیا ہے پھر جب سایہ طول میں اس  
 لکڑی کی برابر ہو جائے تو ظہر کا آخری وقت سمجھ لیا جائے پھر  
 اگر ایک مثل سے قدرے سایہ بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ عصر کا  
 اول وقت ہو گیا پھر اگر سایہ طول میں لکڑی کے در مثل ہو  
 ہو جائے تو سمجھ لو کہ عصر کا اخیر وقت ہے پھر عصر کا  
 وقت ضرورت غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے اسی طرح



الى قبل غروب الشمس وكذلك تفعل بقيامك فتعلم  
على موضع ظلك فان نقص علمت انه لم تنزل الشمس  
وان وقف فهو جبال القيام وان زاد فهو الزوال  
واما معرفتك المثل بقيامك وطولك فان طولك  
سبع اقدام فقدمك سوى قدمك التي تقوم  
عليها فانك تقوم مستقبل الشمس بوجهك ثم  
تأمر الناس ان يعلموا ان ظلك بعلامة ثم تقيس  
من عقبك الى تلك العلامة فان كان بينهما  
اقل من سبعة اقدام سوى ما زالت الشمس عليه  
من الظل فتعلم انك في وقت الظهور وان وقت العصر  
لم يدخل بعد فاذا زاد الظل على سبعة اقدام  
علمت دخول وقت العصر.

**فصل:** وهذا الذي ذكرنا من الاقدام  
ونصب العمود يختلف في الشتاء والصيف  
فيزيد الظل وينقص فالزيادة تكون في الشتاء  
لان الشمس تكون في مسامتة الشخص لانها  
تسير في ذيل السماء ولا ترتفع في الجو ونقصانها  
يكون في الصيف لان الشمس ترتفع الى الجو  
فتشرق على الاشخاص لانها اول ما تصعد  
تكون من جانب السماء فيمتد ظلها لمقابلة  
قرصها فكلما صعدت قصر الظل الى ان تنتهي  
في الارتفاع فتصير في كبد السماء وهو حالة  
قيامها فاذا اخذت في السيران وهو النزول  
تحوها الى مغربها فيأخذ الظل في الطول وهو  
الزوال وكذلك يختلف في البلدان فما كان

اگر تم رو بہ قبلہ کھڑے ہوئے ہو تو اپنے سائے پر خط کھینچ  
دو۔ اگر تمہارا سایہ تمہاری پشت کے پیچھے قدرے بڑھا ہوا  
یا گھٹا ہوا ہے تو سنو زوال نہیں ہوا، اور اگر سایہ کھڑا  
ہے یعنی محض تمہارے جسم پر ہے ادھر ادھر نہیں ہے تو نصف  
النسار ہے اور اگر تمہارے آگے کچھ سایہ بڑھ گیا ہے تو  
زوال ہو گیا اور اگر تم سات قدموں کی برابر ہو تو سامنے والے  
سایہ کو باپ لو اور وہ قدم شمار نہ کر دو جہاں تم کھڑے  
ہو اگر سایہ سات ہی قدم ہے تو ظہر کا اخیر وقت ہے اور اگر  
قدرے بڑھا ہوا ہے تو عصر کا اول وقت ہے۔

★

**مزید وضاحت:** یہاں ہم نے قدموں کا اور عمود کے گاڑنے کا  
جو ذکر کیا ہے اس کا اندازہ جاڑوں اور گرمیوں میں مختلف ہوا کرتا  
ہے کہ کبھی نسبتاً بڑھ جایا کرتا ہے اور کبھی گھٹ جایا کرتا ہے جاڑوں  
میں سایہ بڑھ جایا کرتا ہے کیونکہ سورج انسان کے سر پر ہوتا ہے  
کیونکہ سورج آسمان کے دامن میں چلتا ہے اور فضا میں پوری طرح  
بند نہیں ہوتا اور گرمیوں میں گھٹ جایا کرتا ہے کیونکہ اس موسم  
میں سورج فضا میں پورا پورا بلند ہوتا ہے اور لوگوں پر چھانکنا  
ہے کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو آسمان کے کنارے میں ہوتا ہے  
اور اس کا سایہ اس کے مقابل کھڑے ہونے والے شخص کے اعتباراً  
سے لمبا ہوتا ہے اور جوں جوں سورج چڑھتا ہے سایہ گھٹتا جاتا  
ہے حتیٰ کہ وسط آسمان میں پہنچ کر سایہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ سورج  
کے ٹھرنے کی حالت میں ہوتا ہے پھر جب سورج ٹھرنے کے  
بعد اترنے لگتا ہے تو پھر سایہ طول میں بڑھنے لگتا ہے یہی  
زوال ہے اس طرح سایہ مختلف شہروں میں مختلف ہوا کرتا ہے  
جو شہر وسط آسمان کے نیچے آباد ہیں جیسے کہ اردگرد کے

شہر ان میں سایہ کوتاہ ہوتا ہے اور جو شہر وسط آسمان سے دور واقع ہیں جیسے خراسان اور اس کے نواحی کے شہر وہاں گرمیوں اور جاڑوں میں سایہ لمبا ہوا کرتا ہے اور سائے کے اعتبار سے ان کی گرمی دوسرے ملکوں کے جاڑے کی طرح ہوا کرتی ہے یعنی سایہ لمبا ہوا کرتا ہے۔

\*

**قدموں کی پہچان** | دیکھئے کم سے کم سایہ جس سے زوال آفتاب کا علم ہوتا ہے اس علم کے قدیم علماء کے بیان کے مطابق ماہ حزیریان کا ہے اور وہ دو قدم ہے اور زوال کا زیادہ سے زیادہ سایہ جو ماہ کانون میں ہوتا ہے وہ آٹھ قدم ہے اور ماہ ایلول میں پانچ قدموں پر زوال ہوتا ہے اور تشرین اول میں چھ قدم پر اور تشرین ثانی میں سات قدم پر اور کانون اول میں آٹھ قدم پر زوال ہوتا ہے یہ دن کے گھٹنے کی اور رات کے لمبی ہونے کی انتہا ہے اور یہ زوال کا سب سے زیادہ سایہ ہے پھر سایہ گھٹنے لگتا ہے اور دن بڑھنے لگتا ہے پھر کانون ثانی میں سورج سات قدم پر ڈھل جاتا ہے۔ سباط میں چھ قدم پر اور ادا میں پانچ قدم پر اس وقت دن رات برابر ہوتے ہیں اور نیشان میں چار قدم پر اور آباد میں تین قدم پر اور حزیریان میں دو قدموں پر اب دن بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور رات گھٹنے لگنے کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے یعنی دن پندرہ گھنٹہ کا اور رات نو گھنٹہ کی ہو جاتی ہے پھر تموز میں تین قدم پر زوال ہوتا ہے اور آب میں چار قدم پر اور ایلول میں پانچ قدم پر اور ایلول میں دن رات برابر ہو جاتے ہیں۔

منہا تخت وسط الفلك كمة وما حولينها من البلد ان قصر ظل الشمس فيه حتى لا يبقى للشمس ظل اصلا وما كان بعيدا من وسط الفلك كخراسان وما والاها من النواحي فان ظل الشمس يطول صيفا وشتاء فيكون صيفا كشتاء غيرها في طول الظل فقد يزول في تلك البلاد على قدم واحدة۔

**فصل** : في معرفة الاقدام اعلم ان اقل ما تزول عليه الشمس على ما ذكره القدماء من اهل هذا العلم في حزیریان على قدمين و اكثر ما تزول عليه في كانون على ثمانية اقدام وتزول في ايلول على خمسة اقدام وفي تشرین الاول على ستة اقدام وفي تشرین الآخر على سبعة اقدام وفي كانون الاول على ثمانية اقدام وذلك منتهى قصر النهار وطول الليل وهو اكثر ما تزول عليه الشمس ثم ينقص الظل ويزيد النهار فتزول الشمس في كانون الآخر على سبعة اقدام وتزول في شباط على ستة اقدام وتزول في ادا على خمسة اقدام وذلك استواء الليل والنهار وتزول في نیشان على اربعة اقدام وفي ايار على ثلاثة اقدام وفي حزیریان على قدمين فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل وهو اقل ما تزول الشمس عليه فيكون النهار خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات وتزول في تموز على ثلاثة اقدام وفي آب على اربعة اقدام



وفي ايلول على خمسة اقدم وفيه يستوى الليل والنهار وروى عن سفیان الثوري رحمه الله انه قال اكثر ما تزول عليه الشمس سبعة اقدم واقل ذلك ما تزول على قدم واحدة وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كانت صلاتنا الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف على ثلاثة اقدم الى خمسة اقدم وفي الشتاء على خمسة اقدم الى ستة اقدم

**فصل:** وذكر بعضهم صفة اخرى فقال تزول الشمس في تسعة عشر يوما من اذار وطل الانسان ثلاثة اقدم وكدلك كل شيء من بعد فان الشمس تزول يومئذ وطل ذلك الشيء وثلثة اسبوعه ثم ينقص الظل قدم ما حتى ينتهي طول النهار وقصر الليل في تسعة عشر من حزيران فتزول الشمس يومئذ وطل الانسان نصف قدم وذلك اقل ما تزول عليه الشمس ثم يزيد الظل فكلما مضت ستة وثلثون يوما زاد الظل قدم ما حتى يستوى الليل والنهار في تسعة عشر يوما من ايلول فتزول الشمس يومئذ والظل على ثلاثة اقدم ثم يزيد الظل فكلما مضى اربعة عشر يوما زاد الظل قدم ما حتى ينتهي طول الليل وقصر النهار وذلك في تسعة عشر يوما من كانون الاول فتزول الشمس يومئذ على سبعة اقدم ونصف قدم وذلك اكثر ما تزول الشمس عليه ثم

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سات قدم زیادہ سے زیادہ ہیں جن پر سورج کا زوال ہوتا ہے اور کم از کم ایک قدم پر زوال ہوتا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ: کہ میں نے ہم ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تین قدموں سے لے کر پانچ قدموں تک اور جاڑوں میں پانچ قدموں پر پڑھا کرتے تھے۔

★

**زوال خورشید کی دوسری صورت** | بعض علمائے سلف

فرماتے ہیں کہ ماہ ادا میں ۱۹ دن تین قدم سایہ پر زوال ہوتا ہے کیونکہ اس وقت زوال جب ہوتا ہے جب سایہ ہر شے کا ۳۶ ہوتا ہے پھر سایہ گھٹنے لگتا ہے حتیٰ کہ دن کا بڑھنا اور رات کا گھٹنا انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسا ماہ جزیران کی ۱۹ ویں تاریخ کو ہوتا ہے ان دنوں میں نصف قدم کے سایہ پر زوال ہو جاتا ہے یہ کم از کم نئے زوال ہے پھر سایہ بڑھنے لگتا ہے پھر ۳۶ دن گزر جانے کے بعد سایہ ایک قدم کی برابر ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ايلول کی ۱۹ ویں تاریخ کو دن رات برابر ہو جاتے ہیں اس وقت زوال تین قدم سائے پر ہوتا ہے پھر سایہ بڑھنے لگتا ہے اور چودہ دن گزر جانے پر سایہ ایک قدم بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دن کا بڑھنا اور رات کا گھٹنا انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور ایسا کانون اول کی ۱۹ ویں تاریخ کو ہوتا ہے اس وقت ساڑھے سات قدم پر زوال ہوتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ زوال کا ناصلا ہے پھر ہر چودہ دن کے بعد ایک قدم سایہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ آذر کی ۱۹ ویں تاریخ آ جاتی ہے اور دن رات برابر ہو جاتے ہیں اور تین قدم پر زوال ہونے لگتا ہے اور یہ صورت اس وقت ہوتی

كلما مضى اربعة عشر يوما زاد الظل قدما حتى ينتهي الى تسعة عشر يوما من اذار فذلك استواء الليل والنهار وتزول الشمس على ثلاثة اقدام وذلك دخول الشمس في الصيف وزيادة الظل ونقصانه الذي ذكرناه في كل سنة وثلاثين يوما قدم في الصيف والقيظ وزيادة في كل اربعة عشر يوما قدم في الربيع والشتاء۔

**فصل** : وقد ذكر بعض شيوخنا ذلك صفة اخرى وهي ان قال تزول الشمس في حزيران كله على ثلاثة اقدام والقدم سبع كل شخص منتصف اول وقت العصر فيه تسعة اقدام ونصف واول وقت الظهر في تموز كله اربعة اقدام واول وقت العصر فيه عشرة اقدام ونصف واول وقت الظهر في آب كله خمسة اقدام واول وقت العصر فيه احد عشر قدما ونصف واول وقت الظهر في ايلول كله ستة اقدام واول وقت العصر فيه اثنا عشر قدما ونصف واول وقت الظهر في تشرين الاول كله سبعة اقدام واول وقت العصر فيه ثلاثة عشر قدما ونصف واول وقت في تشرين الاخر كله ثمانية اقدام واول وقت العصر فيه اربعة عشر قدما ونصف واول وقت الظهر في كانون الاول كله عشرة اقدام ونصف واول وقت العصر فيه سبعة عشر قدما واول وقت الظهر في شباط كله سبعة

ہے جب سورج گرمیوں میں داخل ہوتا ہے اور سایہ کی کمی پیشی جو ہم نے بیان کی ہے گرمی اور خریف کے زمانہ میں ہر ۶ ہون کے بعد ایک قدم ہوتی ہے اور ربیع اور جاڑے میں ہر ۴ دن کے بعد ایک ایک قدم کا اضافہ ہوتا ہے۔

**تیسرے طریقہ سے سایہ کی پہچان** | سایہ کے سلسلہ میں ہمارے بعض مشائخ نے ایک اور طریقہ بیان فرمایا ہے انھوں نے فرمایا ہے کہ پورے ماہ حزیان میں زوال تین قدم سایہ پر ہوتا ہے اور قدم کھڑے ہوئے شخص کا ۱/۲ حصہ ہے اس ماہ میں عصر کا اول وقت ساڑھے نو قدم پر ہوتا ہے اور تمام ماہ تموز میں ظہر کا اول وقت چار قدم پر اور عصر کا اول وقت ساڑھے دس قدم پر ہوتا ہے اور پورے ماہ آب میں ظہر کا اول وقت پانچ قدم پر اور عصر کا اول وقت ساڑھے گیارہ قدم پر ہوتا ہے اور پورے ماہ ایول میں ظہر کا اول وقت چھ قدم پر اور عصر کا اول وقت ساڑھے بارہ قدم پر ہوتا ہے اور پورے ماہ تشرين اول میں ظہر کا اول وقت سات قدم پر اور عصر کا اول وقت ساڑھے تیرہ قدم پر ہوتا ہے اور پورے ماہ تشرين ثانی میں ظہر کا اول وقت آٹھ قدم پر اور عصر کا اول وقت ساڑھے چودہ قدم پر ہوتا ہے اور کانون اول میں ظہر کا اول وقت ساڑھے دس قدم پر اور عصر کا اول وقت پورے سترہ قدم پر ہوتا ہے۔

اور پورے کانون ثانی میں ظہر کا اول وقت نو قدم پر اور عصر کا اول وقت پندرہ قدم پر ہوتا ہے۔ اور پورے شباط میں ظہر کا اول وقت ساڑھے سات قدم پر ہوتا ہے اور عصر کا اول وقت ساڑھے چودہ قدم پر ہوتا ہے۔



اقدام ونصف و اول وقت العصر فيه اربعة عشر  
 قدما ونصف و اول وقت الظهر في ادا ركلة ستة  
 اقدام و اول وقت العصر فيه اثناعشر قدما ونصف  
 و اول وقت الظهر في ايار ركلة ثلاثة اقدام  
 ونصف و اول وقت العصر فيه عشرة اقدام فهد  
 مقادير ما تنزل عليه الشمس في شهور السنة  
 كلها والله اعلم بما لا يدركه احسانا ولا  
 تنتهي نحوه علومنا۔

**فصل** : ومعرفة الزوال على هذه الصفات  
 والتحديد ليس هو بما مر حتم بل هي جهة من  
 جهات الوصول الى معرفة الزوال وليس كل احد  
 يدرك ذلك بل كل من غلب على ظنه و يقينه  
 زوال الشمس و جب عليه فعل صلاة الظهر و ذلك  
 ان الناس في الاوقات على ثلاثة اضرب من  
 فرضه اليقين و هو من يعرف الدقائق والساعات  
 و سير الكواكب يستدل بذلك ليحصل له  
 يقين الوقت من فرضه الاجتهاد و التقدير  
 بالعمل او تقليد من يعمل و هم الصنائع الجهال  
 بالاذقات فان اجتهد و اقدر و اباعمالهم  
 مثل الحيازة عادت ان يخبر العجنتين او ثلاثة  
 الى الظهر او الطحان يطحن الثقيز الى الظهر  
 استظهر بالتأخير و صلى لان في يوم الغيم كان  
 الوقت يقهر بغيبة الشمس فيفضل الانسان عن  
 مراعاة الوقت او يتشاغل عنه و كذا الاذان  
 من عارف بالاذقات او من لا يوزن الاياذن

اور پورے آذان میں ظہر کا اول وقت ۶ قدم پر ہوتا ہے  
 اور عصر کا اول وقت ساڑھے بارہ قدم پر ہوتا ہے۔

اور پورے بیسان میں ظہر کا اول وقت ساڑھے چار قدم پر  
 ہوتا ہے اور عصر کا اول وقت گیارہ قدم پر ہوتا ہے۔

اور پورے آیار میں ظہر کا اول وقت ساڑھے تین قدم پر  
 ہوتا ہے اور عصر کا اول وقت دس قدم پر ہوتا ہے لہذا پورے سال

کے مہینوں میں زوال کی مقدار یہی ہے باقی جن باتوں تک ہماری حس کی  
 رسائی نہیں اور جن تک ہمارے علم نہیں پہنچتے انہیں اللہ ہی خوب جانتا ہے  
 کیا زوال کی پہچان واجب ہے ؟ | مذکورہ بالا بیان و

حد بندی کے مطابق زوال کی پہچان ضروری نہیں بلکہ یہ ان سبب  
 میں سے جن کے ذریعہ زوال پہچانا جاتا ہے ایک سبب ہے اور ہر  
 شخص کو اس کا علم نہیں ہوتا بلکہ ہر اس شخص کو جس کا زوال پر  
 گمان یا یقین غالب ہو ظہر کی نماز کا ادا کرنا واجب ہے۔

لوگ زوال کے پہچاننے کے اعتبار سے تین قسم کے ہیں بعض ایسے  
 اشخاص ہیں جن پر یقین فرض ہے یہ وہ ہیں جو منٹوں اور گھنٹوں  
 کو پہچانتے ہیں اور سیاروں کی رفتار سے واقف ہیں جن سے وقت  
 کے یقین پر استدلال کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن پر اجتہاد اور  
 اندازہ فرض ہے خواہ اپنے عمل سے اندازہ لگائیں یا کسی عامل کی  
 تقلید کر کے یہ لوگ کاربگہ ہوتے ہیں جو اوقات سے ناواقف  
 ہوا کرتے ہیں اگر یہ اپنے اعمال سے اندازہ لگائیں تو لگا سکتے ہیں  
 مثلاً ایک باورچی ہے اس کی عادت یہ ہے کہ وہ دو یا تین مخصوص  
 مقدار کے آٹوں کو ظہر تک پکا لیتا ہے یا کوئی آٹا پیسنے والا غلہ  
 کا ایک پورا ظہر تک پیس لیتا ہے تو وہ اپنے کام سے فارغ  
 ہو کر ظہر ٹپھے گا اور گھٹا والے دن چونکہ دھوپ کے نہ نکلنے کی  
 وجہ سے گویا وقت مختصر ہو جاتا ہے اور انسان وقت کی نگہداشت

عارف بالوقت یقوم للصلاة والثالث من فرضه  
التحرى والتأخیر بجهدها الى ان يغلب علی طنه  
دخول الوقت وهو المنطور والمحبوس فی الامکنة  
التي لا یتوصل الی معرفة الوقت بدلالة ولا خبر  
ولا سماء اذان لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
اذا امرتکم بامر فأتوا منه ما استطعتم۔

**فصل** : ومعرفة الزوال علی التحقيق امر یذوق  
ویصعب وقد ورد فی الحدیث ان النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم سأل جبریل علیہ السلام اذالت الشمس  
فقال لانعم فقال کیف هذا فقال من قولى لك لا  
نعم قطعت الشمس من الفلك خسین الف فرسخ  
فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساله عن زوالها  
فی علم الله تعالى لکنک اذا استقبلت القبلة  
فکانت الشمس علی حاجیک الایمن فی الصیف فقد  
زالت بلا شک فصل الظهر فاذا صار ظل کل شیء  
مثله نهو وقت العصر فاذا کانت الشمس علی  
حاجیک الایسر فی الصیف ایضا وانت مستقبل  
القبلة فاعلم انہا لم تنزل بعد فاذا کانت بین  
عینیک فہو قیامها واستوائها فی کبد السماء  
وقد یجوز انہا قد زالت اذا کانت فی اول الشتاء  
وقصر النهار واما اذا کانت فی اول الشتاء  
علی حاجیک الایمن فتكون قد زالت فی جمیع  
الازمنة لانه اذا کان ذلک فی الصیف فہو  
اول وقت الظهر وان کان فی الشتاء فہو آخر  
وقت الظهر واذا کانت علی حاجیک الایسر

سے غافل ہو جاتا ہے یا کام میں مصروف رہنے کی وجہ سے غافل رہے گا اگر وہ  
اوقات کو پہچاننے والے سے یا اس مؤذن سے اذان سنے جو اوقات کو پہچاننے  
والے کے حکم ہی سے اذان دیتا ہے تو نماز کے لئے کھڑا ہو جائے تیسری قسم کے  
وہ لوگ ہیں جن پر تصدق و کوشش فرض ہے حتیٰ کہ ان کے غالب گمان میں  
وقت ہو جائے پیرہ لوگ ہیں جو پوچھتا ہے اور ایسے مقامات میں گھر  
ہوئے ہیں کہ دلیل سے وقت پہچاننے سے نا صبر ہیں، انہیں کوئی خبر دینا  
اور نہ وہ اذان سنتے ہیں جیسا کہ سرور عالم صلعم نے فرمایا کہ جب میں تم کو  
کسی بات کا حکم کروں تو مقدر بھر اسے بجالاؤ۔

**زوال کی پہچان مشکل ہے** | زوال کی پہچان بڑی دشوار و  
پیچیدہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلعم نے حضرت جبریل  
سے پوچھا: کیا سورج ڈھل گیا؟ فرمایا: نہیں اور ہاں، پوچھا: یہ کیوں  
ممکن ہے؟ فرمایا: میری نہیں اور ہاں کتے کتے سورج نے آسمان پر  
ایک لاکھ پچاس ہزار میل طے کر لئے آپ نے حق تعالیٰ شانہ کے  
حکم کے مطابق حضرت جبریل سے زوال کے بارے میں پوچھا تھا۔  
جب تم قبلہ رخ کھڑے اور سورج گرمیوں میں تمہاری سیدھی بھوں  
پر ہو تو بلاشبہ زوال ہو گیا نظر مڑھ لو پھر جب ہر چیز کا سایہ ٹھٹھل  
ہو جائے اور قدر سے بڑھ جائے تو عصر کا وقت ہو گیا اور جب تم  
قبلہ رخ کھڑے ہو اور گرمیوں میں سورج تمہاری بائیں بھوں پر ہو  
تو یقیناً زوال نہیں ہوا اور اگر دونوں آنکھوں کے درمیان ہو  
تو سورج کھڑا رہے اور نصف النہار ہے۔

اگر جاڑوں کے آغاز میں جب دن چھوٹا ہو تو کبھی زوال ہو بھی  
جاتا ہے اگر دائیں بھوں کے بالمقابل شروع جاڑوں میں سورج ہوں  
تو تمام زمانوں میں زوال ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا گرمی میں ہو گا تو  
ظہر کا اول وقت ہو گا اور اگر جاڑوں میں ہو گا تو ظہر کا پچھلا وقت  
ہو گا اور اگر تمہاری بائیں بھوں کے بالمقابل سورج ہو گا تو کبھی تو



فقد يجوز انهما قد زالت لغير النهار في اول الشتاء  
ولا يجوز في اول الصيف لامتداد النهار وطوله  
واذا كانت بين عينيك في الشتاء فقد زالت بلا شك  
فاذا صارت الى حاجبك الايمن فهو آخر وقت  
الظهور وهذا اهل اقليم العراق وخراسان  
الذين يملون الى الركن الاسود وباب البيت  
من جهة الكعبة واما اهل اليمن والمغرب  
ومن يليهم فعلى ضد ذلك لانهم يملون الى  
الركن اليماني وموخر الكعبة فلذلك اختلف  
التقدير۔

**فصل:** فاذا عرفت الزوال وازدت ان  
تعرف القبلة فاجعل ظلك على يسارك فانك  
تكون حينئذ مستقبل القبلة فاعلم ذلك  
مختصرا بلا تعب واما طولت في ذكر معرفة  
الزوال لانه اشكل الاوقات وادقها وقد  
ورد ذكر الاقدام في خبر ابن مسعود رضي الله  
عنه والتبديده على معرفة ذلك ما تقدم بيانه  
والله اعلم۔

**فصل:** واما وقت العصر فادله على ما ذكرنا  
ادنى زيادة على ظل البثل و آخر وقتها اذا صار  
الظل مثليه ووقت الضروية الى قبل ان تغيب  
الشمس وقد تقدم ذكره والافضل تعجيلها۔

**فصل:** واما صلاة المغرب فاذا غربت  
الشمس وهو اذا تدلى حاجب الشمس الى على  
وهو غيبتهما عن الابصار دخل وقتها ولها

زوال ہوگا کیونکہ شروع جاڑوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور کبھی زوال  
نہ ہوگا۔ کیونکہ شروع گرمیوں میں دن بڑا اور طویل ہوتا ہے اگر  
جاڑوں میں سورج تمہاری آنکھوں کے درمیانی حصہ کے بالمقابل  
ہو تو اس وقت بلاشبہ زوال ہو جاتا ہے پھر جب سورج  
تمہاری دائیں ابرو کے بالمقابل آ جاتا ہے تو یہ ظہر کا آخری وقت  
ہوتا ہے۔ یہ حکم عراقیوں اور خراسانیوں کے لئے ہے جو حجر اسود  
کی اور بیت اللہ کے دروازے کی طرف نماز پڑھتے ہیں لیکن  
یمنی اور مغربی اور ان کی سمت والے اس کے برعکس ہیں کیونکہ  
وہ رکن یمانی اور کعبہ کے پچھلے حصہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اسی  
لئے زوال کے اندازے میں اختلاف ہے۔

قبلہ کی سمت کی پہچان اور وقت عصر جب تم زوال کو  
پہچان گئے اور اب قبلہ کو شناخت کرنا چاہو تو بائیں طرف  
اپنے سایہ کو دیکھو اس وقت تم قبلہ کے سامنے ہو گے یہ قبلہ کی  
پہچان بلا کسی دقت کے ہے میں نے معرفت زوال کے بارے  
میں تفصیلی روشنی اس لئے ڈالی ہے کہ اوقات کی پہچان بڑی دقیق  
و مشکل ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں قدموں کا ذکر آتا  
ہے اور اس کی شناخت کے لئے لوگوں کو تشبیہ بھی کر دی گئی ہے  
جیسا کہ اوپر بیان کر چکے ہیں۔

**عصر کا اول وقت** ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں کہ جب ہم مثل سایہ  
قدرے بڑھ جائے تو عصر کا اول وقت ہو جاتا ہے اور عصر کا آخری  
وقت دو مشوں تک ہے اور ضرورت والا وقت سورج کے  
ڈوبنے تک ہے اور اول وقت عصر کی نماز پڑھنا افضل ہے۔

**مغرب کا وقت** جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کا وقت  
ہو جاتا ہے یعنی جب سورج کی پچھلی کرن نگاہوں سے اوجھل ہو  
جائے تو سمجھ لو کہ سورج ڈوب گیا اور شفق کے غائب ہونے تک

وقتان احدہما الغروب والثانی غیوبۃ شفق الشمس  
وهو المحرۃ فی اصح الروایتین۔

**فصل** : فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء  
الآخرة ووقت الفضيلة مبقی الی ثلث اللیل فی  
احدی الروایتین والثانیۃ الی نصف اللیل وقت  
العدو والضرورة ما لم یطلع الفجر الثانی ولہا  
اسمان احدہما عتمة والثانی العشاء الآخرة  
لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال غلبتکم  
الاعراب علی اسم صلاتکم ہذہ لیسونہا عتمة  
یعنی ان اسمہا العشاء الآخرة والاعراب لیسونہا  
عتمة فوافقوہم فی ذلك والافضل تاخیرہا الی  
آخر وقتہا وهو الثلث الاول او النصف الاول  
علی ما ذکرنا وافضل ما صلیت اذا غاب البیاض  
الغربی واظلم مکانہ وهو الشفق الثانی فیؤخر  
الی ریع اللیل او الثلث او النصف کل ذلك ما لم  
ینم المصلی قبل ان یملیہا فانہ یکرہ النوم  
منہا فن خاف غلبۃ النوم فالافضل ان یملیہا  
ثم ینام ولہذا الافضل عند الشافعی رحمہ اللہ  
ان یملی فی اول الوقت وانما قلنا الافضل تاخیرہا  
لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتموا بالعتمة  
وخرج صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ وقد اعتم فقال  
لولا ان اشق علی امتی لامرتہم ان یملوہا ہکذا  
فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرہا وحت علی  
تاخیرہا۔

**فصل** : واما السنن الراتبۃ مع ہذہ الصلوات

وقت رہتا ہے اور صحیح روایت کی رو سے شفق سُرخ کی کو  
کتے ہیں۔

**عشاء کا وقت** | شفق کے غائب ہوتے ہی عشاء کا وقت ہو  
جاتا ہے اور ایک روایت کی رو سے پہ رات تک اور دوسری کی  
رو سے پہ رات تک عشاء کا فضیلت والا وقت رہتا ہے اور  
عذر و ضرورت والا وقت صبح صادق تک ہے عشاء کا ایک اور نام  
یعنی عتمة کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تمہاری  
اس نماز کے نام پر غالب آجائیں گے لہذا تم اس میں ان کی موافقت  
کرو۔

افضل تو یہی ہے کہ دیر کر کے اخیر وقت میں عشاء کی نماز پڑھی  
جائے یعنی پہ یا پہ رات سے پہلے جیسا کہ ہم ابھی پر روشنی ڈال  
تے ہیں۔

اس نماز کو ادا کرنے کے لئے بہترین وقت وہ ہے جب مغرب کی طرف  
والی سفیدی دور ہو کر وہاں اندھیرا ہو جائے اور اسے دوسرا شفق کہتے  
ہیں لہذا عشاء کو چوتھائی یا تہائی یا نصف شب تک دیر کر کے پڑھا  
جائے یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جو نماز پڑھنے سے قبل سوئیں نہیں  
کیونکہ نماز سے قبل سونا مکروہ ہے لیکن اگر کسی کو نیند کے غلبہ کا ڈر ہو  
تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ نماز پڑھ کر سو جائے یعنی امام شافعی  
کے نزدیک اول وقت نماز پڑھ کر سو جائے۔ عشاء کی نماز دیر کر کے  
پڑھنا اس لئے افضل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز دیر  
کر کے پڑھا کر دیکھو رحمت عالم صلعم عشاء کی نماز کے لئے دیر  
کر کے تشریف لائے اور فرمایا اگر مجھ اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا  
تو میں انہیں حکم کرتا کہ اسی طرح (دیر کر کے) نماز پڑھا کر دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کی رغبت دلائی اس لئے دیر میں پڑھنا افضل  
ہے۔

پنجگانہ نمازوں کے سنن رواتب | پنجگانہ نمازوں کے سنن



المخمس ثلاث عشرة ركعة ركعتان قبل صلاة الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة وليوتر بثلاث وهو مخيران شاء صلاها تسليمة واحدة كصلاة المغرب وان شاء فصل بينهما فيسلم عن كل ركعتين وليوتر بالآخر وهو الافضل فيقول في الاولى من الثلاث بعد الفاتحة سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد ويقرأ في اول الركعتين من سنة الفجر بقل يا ايها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله احد وليستحب فعلهما في منزله ثم يخرج ويستحب الاشتغال بذكر الله تعالى وترك الكلام الا ان يكون واجبا بعد ان يصليهما حتى يدخل في الفريضة والقراءة في الركعتين بعد المغرب كالقراءة في ركعتي الفجر روى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وروى عن طاووس رحمه الله انه كان يقرأ في الاولى منهما آمن الرسول وفي الثانية قل هو الله احد وليستحب تعجيلهما لماردي حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عجلوا بالركعتين بعد المغرب ترفعهما الملائكة مع المكتوبة فيستحب تخفيفهما

رواتب تیره میں صبح کی دستیں، ظہر سے پہلے اور چھپے دو سنتیں مغرب کے بعد دو گانہ، عشاء کے بعد دو گانہ اور تین رکعت وتر خواہ ایک سلام سے (مغرب کی نماز کی طرح) پڑھے جائیں یا دو گانہ پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور پھر ایک رکعت پڑھ لی جائے۔

وتر اخیر میں پڑھنے افضل ہیں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنا افضل ہے۔

نجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی جائے صبح کی سنتیں گھر میں پڑھنی مستحب ہیں پھر مسجد میں جا کر فرض ادا کئے جائیں۔

گھر میں صبح کی سنتیں پڑھ کر ذکر اللہ میں مشغول رہنا اور بلا ضرورت کے بات نہ کرنا مستحب ہے حتیٰ کہ جماعت سے فرض ادا کر لے جائیں۔ مغرب کے دو گانہ میں وہی سورہیں پڑھی جائیں جو صبح کی سنتوں میں بتائی گئی ہیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس مرتبہ سے زیادہ سنا کہ آپ مغرب کے دو گانہ میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔

طاووس مغرب کے دو گانہ میں پہلی رکعت میں آمن الرسول الخ اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے مغرب کے دو گانہ میں جلدی کرنا مستحب ہے۔

حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مغرب کے بعد دو گانہ میں جلدی کیا کرنا کہ فرشتے فرض کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اٹھا کر لے جائیں اسی لئے انہیں ہلکا پڑھنا مستحب ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد کلام کرنے سے پہلے دو گانہ پڑھے اس کی نماز علیین میں اٹھالی

لذلك وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم  
 من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم  
 صلاته في عليين وقد جاء ما يدل على استحباب  
 تطويلهما وهو ما روى عن ابن عباس رضي الله  
 عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق  
 أهل المسجد وروى كذلك عن حفصة رضي الله  
 عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 فصليت معه صلاة المغرب ثم قام فصلى  
 إلى العشاء الآخرة ثم اتقل إلى منزله  
 وقد ورد أيضا أن الاستحباب في فعلهما  
 في المنزل وهو ما روى عن عائشة رضي الله  
 عنهما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم  
 كان يصلي الركعتين اللتين بعد المغرب  
 في بيته وكذلك عن أم حبيبة رضي الله عنها  
 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم لا يصلي الركعتين بعد  
 المغرب إلا في بيته وروى سهل بن سعد  
 الساعدي رضي الله عنه قال لقد أدركت  
 زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأنه  
 ليسلم من المغرب وما أرى رجلا واحدا  
 يصليهما يعني الركعتين بعد المغرب في  
 المسجد بل كانوا يبتدرون باب المسجد  
 فيخرجون فيصلونها في بيوتهم  
**فصل:** في فضائل الصلوات الخمس روى عن

جائے گی۔ اس دو گانہ کو لمبا کر کے پڑھنے کے استحباب کی بھی دلیل ہے کہ حضرت  
 ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتوں میں لمبی قرأت  
 کیا کرتے تھے حتیٰ کہ مسجد والے مسجد سے چلے جاتے تھے اسی طرح حضرت حفصہؓ  
 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس  
 آیا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی پھر آپ نے کھڑے ہو کر  
 عشاء کی نماز پڑھی یعنی مغرب کی نماز عشاء کے وقت ختم فرمائی معلوم  
 ہوا کہ سنتوں میں لمبا قیام فرمایا اور طویل سورت پڑھی (پھر آپ اپنے  
 گھر تشریف لے گئے۔)

یہ بھی ثابت ہے کہ مغرب کی سنتوں کا گھر میں پڑھنا افضل ہے  
 چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ  
 علیہ وآلہ وسلم مغرب کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے اسی طرح  
 حضرت ام حبیبہؓ سے روایت آتی ہے۔

ابن عمرؓ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتیں اپنے گھر ہی میں  
 پڑھا کرتے تھے۔

سهل بن سعد ساعدي :- میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا  
 آپ مغرب کی فرضوں سے سلام پھیرتے تھے میں کسی شخص  
 کو بھی مسجد میں مغرب کی سنتیں پڑھتا ہوا نہیں دیکھتا تھا بلکہ  
 لوگ مسجد کے دروازوں سے جلدی سے نکل جایا کرتے تھے اور  
 یہ سنتیں اپنے گھروں میں جا کر پڑھا کرتے تھے۔

**نماز پنجگانہ کے فضائل** | ابوسلمہ از ابوہریرہ رضی اللہ عنہ  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بتاؤ اگر کسی کے  
 دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ بار نہائے کیا  
 اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں  
 فرمایا: پنجگانہ نماز کا یہی حال ہے ان سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا  
 دیتا ہے۔



ابو سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال ان رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اُرأیتُم لو ان نسرا  
 بباب احدکم یفتسل کل یوم منہ خمس مرات  
 هل یبقی من درنہ شیء قالوا لا قال فذلک  
 مثل الصلوات الخمس ینحو اللہ لتعالی بہا  
 الخطایا وعن ابی ثعلبۃ القرظی قال سمعت عربین  
 الخطاب رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم یجترقون فاذا صلوا  
 الصبح غسلت الصلاۃ ما کان قبلہا ثم  
 یجترقون فاذا صلوا الظهر غسلت الصلاۃ  
 ما کان قبلہا ثم یجترقون فاذا حضرت  
 صلاۃ العصر فصلوا غسلت ما کان قبلہا  
 حتی ذکر صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس  
 وعن الحرث مولی عثمان بن عفان رحمہ اللہ  
 قال جلس عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ثم  
 دعا بماء فتوضا ثم قال رأیت رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم توضا وضوئی هذا ثم قال  
 فمن توضا وضوئی هذا اثم قام فصلی الظهر غفرلہ  
 ما بینہا و بین صلاۃ الصبح ثم قام فصلی صلاۃ  
 العصر غفرلہ ما بینہا و بین صلاۃ الظهر ثم  
 صلی المغرب غفرلہ ما بینہا و بین صلاۃ العصر  
 ثم صلی العشاء الآخرة غفرلہ ما بینہا و بین  
 صلاۃ المغرب ثم لعلہ بیت یتسرع لیلہ ثم اذا  
 قام فصلی الصبح غفرلہ ما بینہا و بین العشاء  
 الآخرة فان الحسنات ینزلہن السیئات قالوا

ابو ثعلبہ قرظی: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا فرمایا  
 ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم  
 رگنا ہوں کی آگ میں جلتے ہو پھر صبح کی نماز پڑھ لیتے ہو تو  
 اس سے پہلے کے تمام گناہ یہ نماز دھو ڈالتی ہے پھر تم جلنے لگتے  
 ہو پھر صبح ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہو تو ظہر کی نماز پہلے کے تمام  
 گناہ دھو ڈالتی ہے پھر تم جلنے لگتے ہو پھر جب عصر کی نماز  
 پڑھ لیتے ہو تو عصر کی نماز تمام پہلے کے گناہ دھو ڈالتی ہے حتیٰ کہ  
 رحمت عالم صلعم نے بیچگانہ نمازوں کا اسی طرح ذکر فرمایا۔

حادثہ مولی عثمان بن عفان :- حضرت عثمان رضی اللہ  
 عنہ تشریف فرما ہوئے پھر آپ نے پانی منگا کر وضو فرمایا۔  
 پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے  
 اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے  
 اس وضو کی طرح وضو کیا پھر کھڑا ہوا اور ظہر کی نماز ادا کی تو اس کے وہ  
 گناہ جو فجر و ظہر کے درمیان اس سے مرز و ہوتے ہیں معاف کر دئے جائیں گے  
 پھر عصر کی نماز پڑھی تو ظہر و عصر کے درمیان گناہ معاف کر دئے جائیں گے پھر مغرب کی نماز پڑھی  
 عصر و مغرب کے درمیان گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب و عشاء  
 کے درمیان گناہ معاف کر دئے جائیں گے پھر شاید وہ سو جائے اور تیرے پاس  
 کی رال بہتی رہے پھر جاگ کر کھڑا ہوا اور صبح کی نماز پڑھی تو  
 عشاء اور صبح کے درمیان گناہ بخش دئے جائیں گے کیونکہ بیکیاں  
 برائیاں مٹا دیتی ہیں لوگوں نے پوچھا یہ تو ہوئیں نیکیاں،  
 باتیات صالحات کیا ہیں؟ فرمایا: سبحان اللہ و الحمد للہ  
 لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔  
 جعفر بن محمد از ابیہ از جدہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے فرمایا نماز میں، پروردگار عالم کی رضا ہے اور نیرشہ  
 کی محبوب ہے اور انبیائے کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کا

هذه الحسنات فما الباقیات العالجات قال سبحان  
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول  
ولا قوة الا بالله العلی العظيم وعن جعفر بن محمد  
عن ابيه عن جد ارضى الله عنه قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم الصلاة مرضاة الرب و  
الملائكة وسنة الانبياء صلوات الله عليهم  
ونور المعرفة واصل الايمان واجابة الدعاء  
وقبول الاعمال وبركة في الرزق وراحة الابدان  
وسلاح الاعداء وكراهية الشيطان وشفيع  
بين صاحبها وبين مالك السموات وسراج  
في قبره وفرش تحت جنبه وجواب منكر ونكير  
ومونس زائر معه في قبره الى يوم القيامة فاذا  
كان يوم القيامة كانت الصلاة ظلا فوقه و  
تاجا على رأسه ولباسا على بدنه ونورا يسعى  
بين يديه وستر بينه وبين النار وحجة المؤمنين  
بين يدي الرب عز وجل وثقلا في الميزان وجوانا  
على الصراط ومفتاحا للجنة لان الصلاة تسبيح  
وتحميد وتقديس وتكبير وقراءة ودعاء وان  
افضل الاعمال كلها الصلاة لوقتها وعن ابن  
عمر رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس  
عباد الدين لا يقبل الله الايمان الا بالصلوة  
وعن النس بن مالك رضی الله عنه قال قال رجل  
يا رسول الله كما افترض الله عز وجل على عباده  
من الصلوات قال خمس صلوات خمس صلوات خمس صلوات

طریقہ ہے اور معرفت کے لئے نور ہے اور ایمان کی جڑ ہے اور  
اور دعاؤں کی اور عملوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور روزی  
میں برکت کا سبب ہے اور راحت بدن ہے اور دشمنوں  
کے لئے ہتھیار ہے اور شیطان کے لئے کراہیت ہے۔  
نمازی کے اور آسمانوں کے بادشاہ کے درمیان  
شفاعت کرنے والی ہے اور قبر کے لئے چراغ ہے  
اور تربت میں فرش ہے اور منکر و نیکر کے لئے جواب  
ہے اور قیامت تک کے لئے قبر میں مونس و همسار ہے  
پھر قیامت کے دن رموثف میں سر پر سیاہی لگن ہوگی  
اور نمازی کے سر پر اس کا تاج ہوگا اور بدن پر لباس ہوگا  
اور یہ نور بن جائے گی جو نمازی کے آگے آگے رہے گا اور  
آگ سے ڈھال بن جائے گی اور رب العالمین کے سامنے  
مومنوں کے لئے حجت ہوگی اور میزان میں بھاری ہوگی۔  
اور پل صراط سے عبور کرادے گی اور جنت کی کنجی ہے کیونکہ  
نماز میں تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا ہوتی ہے اور حق تعالیٰ  
کی عظمت کا اظہار اور تلاوت قرآن اور حق تعالیٰ سے دعا  
ہے اور یاد رکھو تمام عملوں میں افضل عمل وقت پر نماز  
ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے  
تھے کہ پنجگانہ نماز دین کا ستون ہے حق تعالیٰ شانہ ایمان کو  
نماز ہی کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔

انس بن مالک: ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ  
حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ فرمایا  
پانچ نمازیں، بولا: کیا ان سے پہلے یا بعد میں کوئی اور نماز  
بھی ہے؟ فرمایا: حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں



فخلف الرجل بالله لا يزيد عليهم ولا ينقص  
منهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان  
صدق دخل الجنة وعن تميم الداري رضى الله  
عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
اول ما يجاسب به العبد يوم القيامة صلاته  
فان هو اكملها كتبت له عاملة وان لم  
يكن اكملها قال الله عز وجل للملائكة  
انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فاكلوا  
له ما صبيح من ذلك وعن انس بن حكيم الضبي  
قال قال ابو هريرة رضى الله عنه اذا اتيت اهلك  
فاخبرهم اني سعت رسول الله صلى الله عليه  
وسلم يقول ان اول ما يجاسب به العبد يوم  
القيامة صلاته المكتوبة فان اتمها والا  
نظرنا ان كان له تطوع اكلت له الفريضة  
بعاتم يفعل بسائر الاعمال كذلك وعن انس  
بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم اول ما يجاسب به العبد الصلاة  
واول ما افترض الله تعالى على هذه الامة  
الصلاة -

**فصل في الخروج الى المسجد وفضل**  
الجماعة والخشوع في الصلاة عن نافع عن  
ابن عمر رضى الله عنهما قال ان رسول الله  
صلى الله عليه وسلم قال ما بين صلاة الجماعة  
والفرد سبع وعشرون درجة وعن ابى هريرة  
رضى الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه

فرض فرمائی ہیں اور ان سے پہلے یا پچھے کچھ اور فرض نہیں یہ  
سن کر اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں ان نمازوں میں  
کمی بیشی نہیں کروں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا  
ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔

تمیم داری رضی اللہ عنہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے سے  
قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا  
جائے گا اگر اس نے نماز اچھی طرح سے ادا کی ہے تو اس کے  
لئے کامل نماز لکھ دی جائے گی اور اگر کامل طریقہ سے ادا نہیں کی  
تھی تو حق تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو اگر میرے بندے  
کے نوافل ہیں تو فرض کی کمی نوافل سے پوری کر دو۔

انس بن حکیم ضبی از ابو ہریرہ: حضرت ابو ہریرہ نے انس  
بن حکیم سے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اسے بتاؤ  
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ قیامت  
کے دن سب سے پہلے بندے سے فرض نماز کا حساب لیا جائے  
گا اگر اس نے اسے مکمل طور پر ادا کیا تھا تو خیر ورنہ نوافل دیکھے  
جائیں گے اور فرض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی  
پھر دیگر عبادتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔

انس بن مالک: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بندے سے نماز کا  
حساب کیا جائیگا اور اس امت پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی ہے۔  
نماز کے لئے مسجد میں حاضری، نماز میں خشوع و خضوع  
اور نماز باجماعت کی فضیلت۔

نافع از ابن عمر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت والی  
نماز میں اور تنہا نماز میں ۲۷ درجے فرق ہے۔

ابو ہریرہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص  
وضو کر کے مسجد میں جائے تو حق تعالیٰ اس کے ہر قدم کے لئے

وسلم قال اذا توضأ العبد ثم خرج الى المسجد  
 كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة ومحام  
 عنه سيئة ورفع له درجة ويستبشر الله تعالى  
 به كما يستبشر بالغائب الطويل غيبة اذا  
 قدم على اهله وعن ابي عثمان النهدي عن سلمان  
 رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 يقول الله عز وجل من توضأ في بيته فأحسن  
 الوضوء ثم زارني في بيت من بيوتى فأنتاني  
 ناثراً وحق على المزوران بكرم زائره وعن  
 سالم بن عبد الله عن ابيه عن عمر بن الخطاب  
 رضي الله عنه قال جاء جبريل الى النبي عليهما  
 السلام فقال بشر المشائين في ظلم الليل الى  
 المساجد بالنور التام يوم القيامة وعن ابي  
 الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه  
 وسلم انه قال من مشى في ظلم الليل الى المساجد  
 آتاه الله تعالى نورا يوم القيامة وعن سعيد  
 الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى  
 الله عليه وسلم يقول صلاة الجمعة تفضل  
 على صلاة الفذ سبعة وعشرين درجة وعن نافع  
 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم قال ما بين صلاة الجمعة  
 والفذ سبع وعشرون درجة وعن النسب بن مالك  
 رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم قال يا عثمان بن مظعون من صلى الصبح  
 في جماعة كانت له حجة مبرورة وعمرة متقبلة

ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ  
 بلند فرمادیتا ہے اور اس بندے سے اس طرح خوش ہوتا ہے  
 جیسے ایک مدت دراز کے بعد کسی کا کوئی عزیز پر دلیس سے اپنے  
 دلیس میں آتا ہے اور اس کے عزیز اس سے مل کر خوش ہوتے ہیں  
 ابو عثمان نہدی از سلمانؓ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق  
 تعالیٰ اجل مجبہ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح سے  
 وضو کرے پھر میرے گھروں میں سے کسی گھر میں میری زیارت  
 کے لئے آئے تو اپنے مہمان کی خاطر مدارا کرنا زیارت کے جانے  
 والے پر واجب ہے یعنی مجھ پر واجب ہے۔

سالم بن عبد اللہ از عبد اللہ از عمرؓ :- (ایک دفعہ حضرت  
 جبریلؑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ رات کے  
 اندھیروں میں جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں آپ انہیں مزوہ  
 سنا دیں کہ انہیں قیامت کے دن کھل نور ملے گا۔

ابو الدرداء رضی :- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کے  
 اندھیروں میں پیدل چل کر مسجد میں جائے اللہ تعالیٰ اس کے  
 پاس قیامت کے دن نور لائے گا۔

ابو سعید خدریؓ :- میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا  
 ہیں کہ جماعت والی نماز منفرد نماز سے ۲۵ درجے افضل ہے۔  
 نافع از ابن عمرؓ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت  
 والی نماز اور منفرد نماز میں ۲۷ درجوں کا فرق ہے۔  
 انس بن مالکؓ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان بن  
 مظعون جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی اسے مقبول  
 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اے عثمان! جس نے ظہر کی  
 نماز جماعت سے پڑھ لی اسے ۲۵ نمازوں کا ثواب ملتا  
 ہے اور اس کے جنت الفردوس میں ۲۷ درجے بلند کر دئے



یا عثمان من صلی الظهر فی جماعة کان له خمس  
وعشرون صلاة کلها مثلها وسبعون درجة  
فی جنة الفردوس یا عثمان من صلی العصر فی  
جماعة ثم ذکر الله تعالی حتی تغرب الشمس  
فکانما اعتق نسمة من ولد اسماعیل مع کل  
رجل منهم اثنا عشر الف یا عثمان من صلی المغرب  
فی جماعة کانت له خمس وعشرون صلاة کلها  
مثلها وسبعون درجة فی جنة عدن یا عثمان  
من صلی العشاء الآخرة فی جماعة فکانما قام  
لیلة القدر ویستحب للرجل اذا قبل المسجد  
ان یقبل بخوف ووجل وخشوع وخصوع و  
ان یتکون علیه السکينة والوقار وان یجث  
لنفسه فکرا وادبا غیر ما کان علیه ونبیه  
قبل ذلک من حالات الدنیا واشغالها ولیخرج  
برغبة ورهبة وذل وتواضع وانکسار من  
غیر عجب وتکبر وافتخار ورؤية الناس والخلق  
وینوی بذلک التوجه الی الله عزوجل الی بیت  
من بیوته التي اذن الله ان ترفع ویذکر فیها  
اسمه ینبغ له فیها بالغدو والاصال رجال  
لا تلهمهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله فنادک  
من الصلاة صلی مع الجماعة وما فاتہ قضی کذا  
جاء فی الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه انه  
قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا  
جاء احدکم وقد اقيمت الصلاة فلیبش  
علی هیئته فلیصل ما ادرك ویقف ما سبقه

جاتے ہیں رے عثمان اجس نے عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر سورج  
ڈوبنے تک ذکر اللہ میں مصروف رہا گویا اس نے اولاد اسماعیل  
میں سے ایک غلام آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ بارہ ہزار اور  
غلام آزاد کئے، اسے عثمان جس نے مغرب کی نماز جماعت سے  
ادا کر لی اسے ۲۵ نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور اس کے ستر درجے  
جنت عدن میں بلند کر دئے جاتے ہیں۔ اور اسے عثمان اجس  
نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی گویا اس نے شب قدر میں  
عبادت کی، جب نماز کے لئے مسجد میں جاؤ تو اللہ کا خوف و  
ڈر اور خشوع و خضوع پیش نظر رکھنا مستحب ہے اور سکون و  
وقار کی حالت میں جاؤ اور دل میں مسجد کے آداب و اصول بجالانے  
کا عزم کر لو اور دنیوی اور دُعا و افکار کو اور احوال و اشغال کو  
نظر انداز کر دو اور شوق کے ساتھ دل میں اللہ کا خوف لے کر  
عاجزی، انکساری، سکینتی اور تواضع کے ساتھ فخر و غرور خود بینی  
اور ریا کے بغیر مسجد میں یہ نیت کر کے جاؤ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے  
گھروں میں سے جن کے احترام کا اور جن میں ذکر اللہ کا ہم کو حکم ہے  
ایک گھر میں جا رہے ہیں جن میں صبح و شام حق تعالیٰ کی وہ لوگ  
پاک بیان کرتے ہیں جن کو تجارت یا کاروبار اللہ کے ذکر سے  
غافل نہیں بنانا پھر امام کے ساتھ جس قدر نماز پڑھو اسے جماعت  
سے ادا کرو اور چھوٹی ہوئی رکعتیں سلام کے بعد پورے کر لو  
جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
کہ اگر کوئی اس حال میں آئے کہ نماز پڑھی جا رہی ہو تو اپنی  
موجودہ حالت پر چل کر جماعت میں مل جائے اور جتنی نماز پڑھے  
اسے پڑھ لے اور چھوٹی ہوئی رکعتوں کی قضا کر لے لیکن ایک  
لفظ میں ہے کہ پورے پورے سکون و وقار کے ساتھ چل کر  
آنا چاہیے اور عبادتوں کی ہمیشہ ادائیگی پر فخر و غرور نہیں کرنا

وفي لفظ آخر فليش وعليه السكينة والوقار  
فليحذر العجب في المواظبة على العبادات  
والمدائمة عليها لان ذلك يسقطه من عين الله  
عز وجل ويبعد لا من قربه وليس عليه حالته  
ونزيل نور بصيرة وحلاوة ما كان يجده من قبل  
في عبادته ويكدر صفاء معرفته وربما رد  
عليه عمله وقصم لانه روى انه تبارك وتعالى  
لا يقبل من المتكبرين عملا حتى يتولوا وقد  
جاء في الحديث ان ابراهيم خليل الرحمن  
عليه السلام احيا ليلة فلما اصبح اعجب  
بقيام ليلة فقال نعم الرب رب ابراهيم  
ونعم العبد ابراهيم فلما كان غدا لم  
يجد احدا ياكل معه وكان صلى الله عليه  
وسلم يحب ان ياكل معه غيره فاخرج طعاما  
الى الطريق ليمر به ما رثيا اكل معه فنزل ملكا  
من السماء فاقبل نحوه فدعا هما ابراهيم عليه  
السلام الى الغداء فاجابا لا نقال لهما فقد  
بنا الى هذا الروضة فان فيها عينا وفيها  
ماء فنتغدى عندنا فتقدموا الى الروضة  
فاذا العين قد غارت وليس فيها ماء فاشتد  
ذلك على ابراهيم عليه السلام واستحيا  
ما قال اذ لم يجد الماء فقال له يا ابراهيم  
فادع ربك واساله ان يعيد الماء في العين  
فدعا الله عز وجل فلم ير شيئا فاشتد  
ذلك عليه فقال لهما ادعوا الله فدعا

چاہیے کیونکہ غرور کی وجہ سے حق تعالیٰ کی آنکھوں سے گر  
جاؤ گے اور اس کے قرب سے بہت دور ہٹ جاؤ گے اور  
اپنی ذاتی حالت دیکھنے سے اندھے بن جاؤ گے اور نور بصیرت  
مکمل ہو جائے گا اور عبادت کی حلاوت و لذت جاتی رہے گی اور  
معرفت کی شفافیت میں فرق آجائے گا اور دل کا آئینہ زنگ آلود  
ہو جائے گا اور اعمال منہ پر بار دئے جائیں گے اور ریزہ ریزہ  
اور چور چور کر دئے جائیں گے کیونکہ منقول ہے کہ حق تعالیٰ  
جل مجدہ مغرور کے عمل قبول نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ  
کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے  
ایک رات جاگ کر عبادت میں گزاری پھر صبح کو آپ کو شب  
بیداری اچھی معلوم ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم کرب  
کتنا اچھا رب ہے اور ابراہیم کتنا اچھا اس کا بندہ ہے پھر  
جب آپ کے صبح کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھ  
کسی کو کھانے والا نہیں پایا حالانکہ آپ کو یہ بات محبوب تھی  
کہ آپ کے ساتھ کوئی کھانے والا ہو آخر کار آپ کھانا لے کر  
عام گزیر گاہ پر بیٹھ گئے تاکہ کوئی راہ گیر آپ کے ساتھ کھانا  
کھالے اتنے میں آسمان سے دو فرشتے اترے اور آپ کی طرف  
جانے لگے آپ نے انہیں کھانے کی طرف بلایا اور آپ نے ان سے  
کھاؤ نہارے ساتھ اس باغ میں چلو اس میں ایک چشمہ ہے  
جس میں پانی ہے ہم اس چشمے کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائیں گے  
پھر یہ سب مل کر اس باغ میں چشمے کے کنارے پہنچے دیکھا تو چشمہ  
میں پانی نہ تھا اور اس کا پانی خشک ہو گیا تھا حضرت ابراہیم کو  
بڑی سخت ندامت ہوئی اور اپنی بیان کردہ بات پر شرمائے اترتوں  
نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ چشمہ کا پانی  
لوٹا دے آپ نے دعا کی لیکن چشمہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں



احدهما فرجع الماء في العين ثم دعا الآخر فاقلت  
العين فاخبراه انهما ملكان وان اعجابه بقيام  
ليله رد دعاءه عليه فلم يستجب له فاذا كان  
هذا فعله عز وجل بخليله ابراهيم عليه السلام  
فكيف فعله بغيره بل يعتقد العبد ان جميع ما  
هو فيه من الطاعة والمسايرة اليها توفيق  
من الله ونعمته وفضل ورحمة ومنه فليقرب بين  
يديه عز وجل محترما خاضعا ذليلا كأنه يشاهد  
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك  
تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وقد ورد في  
الحديث ان الله عز وجل اوحى الى عيسى بن مريم  
عليها السلام اذا قمت بين يدي فقم مقام  
المخائف الذليل الذام لنفسه فانها اولي بالذم  
واذا دعوتني فادعني واعضائك تنتفض وكذلك  
روى ان الله تعالى اوحى مثل ذلك الى موسى عليه  
السلام وروى ان ابن سيرين رحمه الله كان  
اذا قام الى الصلاة ذهب دم وجهه خوفا من  
الله عز وجل وفرقا منه وكان مسلم بن يسار  
رحمه الله اذا دخل في الصلاة لم يسمع حسا  
من صوت ولا غيره اشتغالا بالصلاة وخوفا  
من الله عز وجل وقال عامر بن عبد قيس لان  
تختلف المناجر بين كنفى احب الى من ان  
أفكر في شيء من امر الدنيا وأنا في الصلاة  
قال سعد بن معاذ رضی الله عنه ما صليت  
صلاة قط فحدثت نفسي فيها شيء من امر الدنيا

لو تاب آپ کو مزید ندامت ہوئی آپ نے ان سے کہا تم  
دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ چشمہ میں پانی لوٹا دے آخر کار ایک فرشتہ  
نے دعا کی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ میں پانی لوٹا دیا  
اور دوسرے نے دعا کی تو چشمہ میں خوب پانی کی فراوانی ہو گئی  
پھر آپ کو ان دونوں شخصوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور یہ  
بھی بتایا کہ آپ کو اپنی نشیب بیداری پر قدرے ناز پیدا ہونے کی  
وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول نہیں فرمائی اور آپ کی  
دعا رد فرمادی اب غور کیجئے جب حق تعالیٰ نے اپنے حبیب  
ابراہیمؑ کے ساتھ ایسا کیا تو دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ہے بلکہ انسان  
کو یقین کر لینا چاہیے کہ جس قدر اطاعت کے کام سرعت کے ساتھ  
وہ انجام دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس میں کار فرما ہے۔  
اور اللہ کا اس پر انعام وفضل اور نوازش و مہربانی ہے اس لئے  
حق تعالیٰ کے سامنے ادب سے خشوع و خضوع کے ساتھ ایک  
غلام کی حیثیت سے کھڑا ہونا چاہیے گویا حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے  
جیسا کہ نبی اکرم صلی نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا تو  
اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر یہ حالت نہ ہو تو یہ حالت تو پیدا کر کہ  
اللہ تجھے دیکھ رہا ہے ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے  
حضرت عیسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ جب تم میرے آگے کھڑے ہو تو  
خوفزدہ، عاجز اور اپنے نفس کو ذلیل و خوار سمجھ کر کھڑے ہو اور جب  
مجھ سے دعا مانگو تو اس طرح دعا مانگو گویا تمہارے جسم کے اعضاء  
الگ الگ ہو گئے ہیں یعنی لڑتے ہوئے اور کانپتے ہوئے دعا مانگو  
اسی طرح منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اسی کے ہم مثل وحی حضرت موسیٰ  
پر فرمائی تھی۔

ابن سیرین جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ  
کے خوف سے آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا۔ مسلم بن یسار جب

حتى الصفوف وقال مجاهد رحمه الله كان ابن  
الزبير رضى الله عنهما اذا قام في الصلاة كانه  
عود من الحشوع وكان ذهب رحمه الله اذا قام  
يصلى كأنما يطلم في جهنم وكان غيبة  
الغلام رحمه الله اذا قام في الصلاة في  
الشتاء ينصب العرق منه نسالة في ذلك  
فقال حياء من الله عز وجل وكان مسلم  
بن يسار رحمه الله يصلى فوقع الحر ليق  
في دارة وهو في بيت منها ففرغ اهل  
البصرة حتى خرجوا فاطفادوا فمساء عقل  
مسلم الا بعد ما اطفوها و فرغ عن صلاته  
وقيل انه ايضا كان يصلى في الجامع فسقطت  
سارية الى جنبه ففرغ منها اهل السوق  
وهو لم يعقل بهاد عن عمار بن الزبير رحمه  
الله انه كان يصلى و نعله بين يديه وكان  
تسمع نعله جديد ا فالتفت الى الشعب فلما  
فرغ من صلاته رعى نعله ولم يلبس بعد  
ذلك نعله حتى مات رحمه الله وحكى عن  
الربيع بن خيثم رحمه الله انه كان يصلى  
تطوعا وبين يديه فرس له يساري عشرين  
الف درهم فجاء لهن نعله و ذهب به فجاء  
الناس من الغداة يعزونه فقال اما انى  
كنت ارى من يخله ولكن كنت في شيء  
احب الى منه فلما كان في بعض النهار فاذا  
الفرس قد اقبل حتى قام بين يديه و روى

نیت باندہ لیتے تھے تو پھر کسی کی بات نہیں سنتے تھے اور نہ کسی قسم کا شور و  
غل سنتے تھے اور اللہ کے خوف سے نماز میں مستغرق رہتے تھے۔ عامر بن عبد  
نیس: میرے دروں بازوؤں میں خنجروں کا گھونپا جانا مجھے اس بات سے  
محبوب ہے کہ مجھے نماز میں کوئی ذمیوی خیال آئے۔ سعد بن معاذ: کبھی  
میں نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی کہ اس میں مجھے نارغ ہونے تک کچھ  
ذمیوی خیال آیا ہو۔ مجاہد: حضرت ابن زبیر جس وقت نماز میں کھڑے ہوتے  
تو خشوع کا یہ عالم ہوتا تھا کہ یا ایک خشک لکڑی ہے جو بے حس حرکت  
کھڑی ہے وہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یا جہنم  
کو جھانک کر دیکھ رہے ہیں۔ غنیمہ جب جاڑوں میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے  
تو پسینہ میں شرابور ہو جاتے تھے اور پسینہ بننے لگتا تھا اس سلسلہ میں ان سے  
پوچھا گیا تو فرمایا کہ حق تعالیٰ سے شرمانے کی وجہ سے پسینہ بننے لگتا ہے ایک  
دفعہ مسلم بن یسار نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی آپ  
اسی گھر کے ایک کونہ میں نماز پڑھ رہے تھے بھرہ والے گھر اک جمع ہو گئے  
اور آگ بجھانے لگے لیکن مسلم کو اس وقت خبر ہوئی جب آگ بجھ چکی تھی  
کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے  
پاس برابر میں ایک تون گرا جس کے گرنے سے بازار میں کھلبلی مچ گئی۔  
لیکن مسلم کو خبر نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ عامر بن زبیر نماز پڑھ رہے تھے اور جزائما  
سامنے رکھا ہوا تھا جوتے کا تسمہ نیا تھا نماز میں تسمہ پر نگاہ پڑ گئی آخر کا  
سلام پھیر کر جوتے کو پھینک دیا اور پھر مرتے دم تک جزا پناہی نہیں۔  
ایک دفعہ ربیع بن خثیم نفل نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے آپ کا  
گھوڑا بندھا ہوا تھا جو بیس ہزار درہم کا تھا ایک چور نے اسے آکر  
کھولا اور اسے اڑا کر لے گیا صبح کو لوگ آپ کے پاس گھوڑے کے چرائے  
جانے پر تسلی دینے کے لئے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں کھونٹے والے کو دیکھ  
رہا تھا لیکن میں ایک ایسی چیز میں مشغول تھا جو مجھے گھوڑے سے  
زیادہ پیاری ہے پھر جب دن چڑھا تو گھوڑا آگیا اور آکر آپ کے



عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه صلی فی شملة  
سوداء فیہا خیط احمر فلما سلم قال ان هذا  
الخیط الہانی عن صلاتی وقد وصف اللہ تعالیٰ  
المخاشعین فی الصلاة فی قوله تعالیٰ الذین ہم فی  
صلاتہم خاشعون قال الزہری رحمہ اللہ  
ہو سکون المرء فی صلاتہ قبیل ہو الذی لا  
یعلم من عن یمنہ و شمالہ فی الصلاة  
اشتغاله بالصلاة ولہذا قال النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم ان فی الصلاة لشغلا۔

**فصل** : فی المحافظة علیہا وما ورد  
من العقوبة علی من ضیعہا وروی الاعمش  
عن شقیق ابن سلمة عن ابن مسعود رضی اللہ  
عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
اذا صلی العبد فی اول الوقت صعدت الی السماء  
ولہا نور حتی تلتہی الی العرش تستغفر لہا جہا  
الی یوم القیامة وتقول حفظک اللہ کما حفظتہ  
واذا صلی العبد فی غیر وقتہا صعدت الی السماء  
لانور لہا فتنتہی الی السماء فتلق کما یلق  
الثوب او الخرقۃ فیضرب بہا وجہہ ثم  
تقول ضیعک اللہ کما ضیعتہ فی حدیث  
عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال ان  
النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ  
فابلغ الوضوء ثم قام الی الصلاة فانہ رکوعہا  
وسجودہا والقراءة فیہا قالت الملائکۃ  
حفظک اللہ کما حفظتہ ثم صعد بہا الی

سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  
ایک سیاہ کپڑے میں جس میں سرخ دھاری تھی نماز پڑھی پھر سلام پھیر  
کر فرمایا کہ اس سرخ دھاری نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ حق تعالیٰ  
نے خشوع کرنے والوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے چنانچہ فرمایا  
اور وہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں امام زہری فرماتے ہیں  
خشوع نماز میں سکون کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ خاشع وہ ہے  
جو نماز میں اس قدر مستغرق رہے کہ اسے دائیں بائیں کی  
خبر نہ رہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں عظیم  
شغل ہوتا ہے۔

**نماز کی محافظت اور نماز ضائع کرنے والوں کو سزا**

اعمش از شقیق بن سلمہ از ابن مسعود رضی اللہ عنہما  
فرمایا جب بندہ اول وقت نماز پڑھتا ہے تو نماز اس حال  
میں آسمان پر چڑھتی ہے کہ اس کے لئے نور ہوتا ہے حتیٰ کہ عرش تک  
پہنچتی ہے اور قیامت تک نمازی کے لئے دعائے مغفرت کرتی رہتی  
ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری  
محافظت کی ہے اور اگر کوئی بے وقت نماز پڑھے تو وہ بلا نور کے  
آسمان پر چڑھتی ہے پھر وہ آسمان پر پہنچ کر کپڑے کی طرح لپیٹ  
دی جاتی ہے اور اسے نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے اور نماز اپنے  
نمازی کے لئے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے  
مجھے برباد کیا۔

عبادۃ بن صامت : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کامل  
وضو کیا پھر وہ نماز کے لئے کھڑا ہوا اور نماز میں رکوع و سجود  
اور قرأت و قیام کامل کیا تو اس کے حق میں نمازیہ دعائے گنتی  
کہ حق تعالیٰ تیرا محافظ رہے جس طرح تو نے میری محافظت کی ہے  
اسے اس حال میں آسمان تک لے جایا جاتا ہے کہ اس کے لئے

السما والہا ضوء ونور فتفتح لها البواب السماء  
 حتی تنتهی الی اللہ عزوجل فتشفع لصاحبہا  
 واذا ضیع رکوعہا وسجودہا والقراءة فیہا  
 قالت الصلاۃ ضیعک اللہ كما ضیعتنی ثم صعد  
 بہا ولہا ظلمۃ حتی تنتهی الی السماء فتخلق  
 البواب السماء ورنہا ثم تلف کما یلف الثوب  
 الخلق فیضرب بہا وجہ صاحبہا وعن ابن  
 مسعود رضی اللہ عنہ قال سالت رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل  
 قال الصلوات لوقتہن وبر الوالدین والجمہاد  
 فی سبیل اللہ عزوجل وعن ابراہیم ابن ابی  
 عذورۃ المؤمن عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ  
 عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم اول الوقت رضوان اللہ و اوسط  
 الوقت رحمة اللہ و آخر الوقت عفو اللہ  
 وقال اللہ تعالیٰ فویل للصلیین الذین ہم  
 من صلاتہم ساهون قال ابن عباس  
 رضی اللہ عنہما واللہ ما ترکوها ولکن  
 اخرجوها عن اوقاتیہا وقال سعد رضی اللہ  
 عنہ سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن  
 قولہ عزوجل الذین ہم عن صلاتہم ساهون  
 قال صلی اللہ علیہ وسلم ہم الذین یؤخرون  
 الصلاۃ عن وقتہا وعن البراء بن عازب  
 رضی اللہ عنہما فی قولہ تعالیٰ اضاعوا  
 الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف یلقون

نور دنیا ہوتی ہے اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول  
 دئے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور اپنے نماز کے  
 لئے سفارش کرتی ہے اور اگر نمازی نے نماز کے رکوع، سجدے  
 اور قرأت ضائع کی تو نماز اس کے حق میں بردہا کرتی ہے کہ اللہ  
 تجھے بردہا کرے جس طرح تو نے مجھے بردہا دیا پھر اسے اس حال میں  
 آسمان پر لے جایا جاتا ہے کہ وہ تاریک ہوتی ہے حتیٰ کہ آسمان تک  
 پہنچتی ہے اور آسمان کے دروازے بند پاتی ہے پھر اسے پرانے کپڑے  
 کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ابن مسعود  
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا وقت  
 پر نیچگانہ نمازیں، ماں باپ کی فرمانبرداری اور حق تعالیٰ جل مجدہ کی  
 راہ میں جہاد۔ ابراہیم بن ابی مخدومہ مؤذن از ابیہ از جدہ: رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت نماز اللہ کی رضا کا موجب ہے اور درمیان  
 میں اللہ کی رحمت کا موجب ہے اور اخیر میں اللہ کی معافی کا ذریعہ ہے  
 حق تعالیٰ نے فرمایا ان نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے ان کے لئے  
 ویل ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں یعنی وقت مار کر نماز  
 پڑھتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جن کے لئے  
 یہ وعید ہے وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے ہاں وقت مار کر پڑھتے  
 تھے۔ سعد فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے میں نبی اکرم  
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت نکال کر نماز  
 پڑھتے ہیں۔

برابر بن عازب راضعوا الصلوۃ الخ کی تفسیر میں غمی جنم  
 میں ایک واوی ہے یعنی اس کی اولاد ایسی ناخلف نکلی جنہوں نے  
 نماز ضائع کی وقت مار کر پڑھی، اور خواہشوں کے پیچھے پڑ  
 گئے عنقریب وہ غمی میں گر جانے والے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما میں وہی داخل ہوں گے جو نماز کو بے وقت



پڑھیں گے۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص: ایک دن رحمت عالم صلعم نے نماز کا تذکرہ فرمایا پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کی محافظت کی یہ نماز قیامت کے دن اس کے لئے نور برہان اور ذریعہ نجات ثابت ہوگی اور جس نے محافظت نہیں کی اس کے لئے نور برہان اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ثابت نہ ہوگی۔ اور وہ قیامت کے دن تارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

حادث از علی بن ابی طالب:۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نماز پڑھنے میں سستی کرنے والے کو ۱۵ سزائیں دیتا ہے چھ موت سے پہلے، تین موت کے وقت، تین قبر میں اور تین قبر سے نکل آنے کے اور زندگی بعد الموت کے بعد موت سے پہلے کی چھ سزائیں یہ ہیں ایسے شخص کو صالح نہیں کہا جاتا، اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی روزی میں بھی برکت نہیں ہوتی، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ نماز کو مکمل نہ کرے، اسکی دعا قبول نہیں کی جاتی اور نیک حضرات کی دعاؤں میں اس کے لئے حصہ نہیں ہوتا اور موت کے وقت کی سزائیں یہ ہیں:۔ ایسا شخص پیسا مارتا ہے اور اگر اس کے حلق میں سات دریا لندھا دئے جائیں تو بھی وہ سیراب نہیں ہوتا، اچانک مارتا ہے اور دنیا کی لکڑیوں، لوہوں اور پتھروں کو اس کی گردن اور دونوں کندھوں پر لا دھ دیا جاتا ہے اور قبر کی تین سزائیں یہ ہیں:۔ کہ اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، قبر میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے اور سنگ کے سوالات کا جواب دینے سے لاجواب رہتا ہے اور زندگی بعد الموت کے بعد والی سزائیں یہ ہیں:۔ اس

غیا قال هو واد فی جہنم وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا یدخلہ الا من اصاح اوقات صلاتہ وروی عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا کانت نورالہ وبرہانا ونجاة یوم القیامة ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نور اول برہانا ولا نجاة من النار وکان یوم القیامة مع تارون وفرعون وھامان وابی بن خلف و عن الحرث عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من تہاون بصلاته فان اللہ عزوجل یعاقبہ بحس عشر عقوبۃ ست منها قبل الموت وثلاث عند الموت وثلاث فی القبر وثلاث عند خروجه من القبر فاما الست قبل الموت فاولھا انه یرفع عند اسم المالحین والثانیة ترفع عنہ برکة الحیاة والثالثة ترفع برکة الرزق والرابعة لا یقبل منہ شیء من اعمال الخیر حتی یکمل صلاتہ والخامسة لا یتجا دعاؤہ والسادسة لا یجعل لہ فی دعاء المالحین نصبا واما الثلاث التي عند الموت فاولھا یموت عطشانا ولومبت فی حلقہ سبعة أجر ماروی والثانیة انه یموت بعتة والثالثة انه انقل بحدید الذیاء وخبسعا واحجارھا

حالت میں حق تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ حق تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا، اس سے سخت حساب لیا جائے گا اور حق تعالیٰ کے سامنے سے واپس ہو کر سیدھا جہنم میں جائے گا یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصیبت سے اسے معاف نہ کر دے۔

\*

### نماز کی اہمیت اور جلالتِ قدر | نماز انتہائی اہم اور جلیل القدر

عبادت ہے اور اس کی شان عظیم ہے اس کی اہمیت کا یہاں اندازہ لگا لیجئے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے لاٹے اور پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پڑھنے کا حکم فرمایا اور سب سے پہلی وحی نبوت کے بارے میں آئی پھر اس کے بعد تمام اعمال سے قبل نماز کے بارے میں وحی آئی۔ نماز کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت آیتیں ہیں مثلاً ایک جگہ فرمایا:۔  
اٰمِلْ مَا اَوْحٰی الْاِلٰہُ بِعَنِیْ اَیُّکُمْ اِسْمِکُمْ اس کتاب کی تلاوت فرمائیں جس کی آپ کو وحی کی گئی ہے اور نماز قائم رکھیں دیکھئے نماز بے حیائیوں سے اور خلاف شرع کاموں سے روکتی ہے اور یاد رکھئے اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس لئے نماز بڑی چیز ہے اور تمہاری نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے رہے عمل اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے ایسے عمل کو خالص یا صالح عمل کہا جاتا ہے، ایک جگہ فرمایا:۔  
اٰمِلْ مَا اَوْحٰی الْاِلٰہُ بِعَنِیْ اَیُّکُمْ اِسْمِکُمْ آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم فرمائیں اور آپ بھی اس پر جمے رہیں ہم آپ سے پیسوں کا سوال نہیں کرتے روزی اور پیسے تو ہم ہی آپ کو دیتے ہیں۔ ایک جگہ حق تعالیٰ نے عام مومنوں سے خطاب کیا اور انہیں حکم دیا کہ تمام نیک عملوں پر صبر و نماز سے مدد لیں فرمایا:۔  
اٰمِلْ مَا اَوْحٰی الْاِلٰہُ بِعَنِیْ اَیُّکُمْ اِسْمِکُمْ اور تمام نیک عملوں پر صبر و نماز سے مدد لو یاد رکھو اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، ایک جگہ فرمایا:۔

عَلٰی رَقَبَتِهِ وَکَتَفِهِ وَاَمَّا التَّلٰثُ الَّتِیْ فِی الْقَبْرِ فِیضِیْقُ عَلَیْہِ قَبْرٌ وَاَلثَّانِیۃُ یَطْلَمُ عَلَیْہِ الْقَبْرُ وَاَلثَّلَاثُ یَمِیْرُ عَیْبًا بِالْقَوْلِ وَاَمَّا التَّلٰثُ الَّتِیْ عِنْدَ خُرُوجِہِ مِنَ الْقَبْرِ فَاُولٰٓئِہِا یَلْقٰی اللّٰہَ عَزَّوَجَلَّ وَہُوَ عَلَیْہِ غَفِیْبَانٌ وَاَلثَّانِیۃُ یَکُوْنُ حَسَابُہُ شَدِیْدًا وَاَلثَّلَاثُ رَجُوعُہُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ اِلٰی النَّارِ اِلَّا اَنْ یَّعْفُو اللّٰہُ عَنْہُ۔

**فصل:** الصلاة خطرہا عظیم و امرہا حسیم وبالصلاة امر اللہ تبارک و تعالیٰ رسولہ محمد اصلى اللہ علیہ وسلم و اول ما اوحى اللہ بالنبوة ثم بالصلاة قبل كل عمل و قبل كل خريفة في آيات كثيرة منها قوله تعالى اتمل ما اوحى اليك من الكتاب و اتم الصلاة و قال عزوجل ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و قال جل و علا و امر اهلك بالصلاة و اضطر عليها ان سألک رزقا نحن نرزقک و خاطب جميع المومنين فامرهم بالاستعانة على طاعاته كلها بالصبر و الصلاة فقال يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرين و قال تعالى و اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة فنذكر الخيرات كلها جملة و هي جميع الطاعات مع اجتناب جميع المعاصي فافرد الصلاة بالذكر و امرها بها خاصة و بالصلاة اوصى النبي صلى الله عليه وسلم امته عند خروجه من الدنيا فقال الله الله الله في الصلاة و فيما ملكت ايما نكم



فہی آخر وصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم و جاء فی  
 الحدیث انہا آخر وصیۃ کل نبی لامتہ  
 و آخر عہد الیہم عند خروجہ من الدنیا  
 فالصلاۃ اول فریضۃ فرست علیہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم و علی امتہ و ہی آخر ما اوصی بہ  
 امتہ و آخر ما ینہب بہ من الاسلام و اول  
 ما یسال العبد عنہ من عملہ یوم القیامۃ  
 و ہی عمود الاسلام و لیس بعد ذہابہا دین  
 ولا اسلام و جاء فی الحدیث عن النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم انه قال اول ما تفقدون من  
 دینکم الامانۃ و آخر ما تفقدون منه  
 الصلاۃ و لیس لیس اقوام لا ینزلون  
 فتارک الصلاۃ یکفر عند امامنا احمد  
 رحمہ اللہ اذا ترکها جاحدا لوجوبہا  
 و وجب قتله لا خلاف فی مذہبہ و اما ان  
 ترکها تہاونا و کسلا مع اعتقاد وجوبہا  
 و دعی لیفعلہا فان لم یفعلہا حتی تضایق  
 الوقت الذی یلیہا ینکفر و قتل بالسیف لکفر  
 و بعد ان یتتاب ثلاثۃ ایام کالمرتد فی  
 الحالتین و یكون مالہ نیا یوضع فی بیت مال  
 المسلمین ولا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر  
 المسلمین و عنہ لا یجیب قتله فی التہاون  
 حتی یتربک ثلاث ملوات و تضایق وقت الرأبۃ  
 و یقتل حد الزانی المحصن و حکمہ حکم  
 اموات المسلمین پر مالہ در من المسلمین قال الامام ابو حنیفۃ

کہ ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ نیک عمل کریں نماز قائم رکھیں اور  
 زکوٰۃ دیں اس آیت میں پہلے تمام نیک عملوں کے کرنے کا حکم  
 دیا گیا جن میں نماز و زکوٰۃ بھی شامل ہیں اور تمام گناہوں سے  
 بچنے کی ہدایت کی گئی پھر خاص طور سے نماز و زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا  
 اور پہلے نماز کا ذکر کیا گیا اور زور دے کر خاص طور سے نماز کا  
 تاکید حکم کیا گیا جب رحمتہ للعالمین دنیا سے سدھار رہے  
 تھے اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کو یہی وصیت فرمائی تھی  
 کہ لوگو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو آپ نے تین بار  
 یہی جملہ دہرایا اور کونڈی غلاموں کے بارے میں بھی اللہ سے  
 ڈرو لہذا نماز رسول اللہ صلعم کی آخری وصیت ہے ایک  
 حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کی اپنی امت کے لئے آخری وصیت  
 یہی ہے لہذا نماز آپ پر اور آپ کی امت پر سب سے پہلا فریضہ  
 ہے اور آپ کی امت کے لئے اسی کی آخری وصیت ہے اور مسلمان  
 سونے کے بعد نماز ہی اسلام کی نشانی ہے اور قیامت کے دن  
 سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں باز پرس ہوگی نماز اسلام  
 کا ستون ہے اگر نماز نہیں تو نہ دین ہے اور نہ اسلام ہے ایک حدیث  
 میں ہے کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ تمہارے دین سے سب سے  
 پہلے امانت گم ہوگی اور سب سے سچھے نماز گم ہوگی اور ایسے  
 نمازی رہ جاؤ گے جن کا نماز میں کچھ بھی حصہ نہ ہوگا۔ لہذا  
 ہمارے امام احمد کے نزدیک اگر کوئی انکار کے طور پر نماز نہیں  
 پڑھتا وہ کافر ہے کیونکہ نماز فرض ہے اور اس کا قتل کرنا واجب ہے  
 اس پر ہمارے تمام علماء کا اتفاق ہے لیکن اگر کوئی اپنی سستی اور  
 دل نہ چاہنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھے اور اس کی فریضت کا دل سے قائل  
 ہو اسے نماز کی رغبت دلائی جائے اگر پھر بھی نہ پڑھے حتیٰ کہ  
 وقت تنگ ہو جائے تو کافر ہو جائے گا اور کفر کی وجہ سے تلواریں

رحمہ اللہ لا یقتل ولکن یحس حتی یصلی فیتوب  
 اویموت فی الحبس وقال الامام الشافعی رحمہ اللہ  
 یقتل بالسیف حدا ولا یکفر والدلیل علی کفرہ  
 ما ذکرنا فیما تقدم من الآیات والاختیار  
 ونزید علیہا باروی عن جابر ابن عبد اللہ  
 رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم قال ما بین الرجل و بین الکفر  
 والشک الا ترک الصلاۃ وروی عن عبد اللہ  
 بن زبید عن ابيه رضی اللہ عنہ قال قال  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیننا و  
 بینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر  
 وروی عن جعفر بن محمد عن ابيه رضی اللہ  
 عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 ابصر رجلا یقر فی صلاتہ کما ینقر الغراب  
 فقال لومات هذامات علی غیر دین محمد  
 صلی اللہ علیہ وسلم وعن عطیة العوفی  
 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال  
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 اذا ترک الرجل صلاتہ متعمدا کتب  
 اسہ علی باب النار فیمن ینخلها و  
 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من نام  
 عن صلاۃ العتمة ولم یصلہا تقول الملائکة  
 لا نامت عیناک ولا قرنا حبسک اللہ بین  
 الجنة والنار کما حببتنا۔

سے قتل کر دیا جائیگا لیکن قتل سے پہلے دونوں صورتوں میں تین دن کی مسلت دینے کی  
 جائیگی شاید توبہ کر لے جیسے مزد کو مسلت دی جاتی ہے اور اس کا تمام مال ضبط کر  
 لیا جائے گا اور بیت المال میں جائے گا اور اس کے جنازہ سے کی نماز بھی نہیں  
 پڑھی جائے گی اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کیا جائیگا امام  
 احمد سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ سستی سے نماز نہ پڑھنے والے کو قتل  
 کرنا واجب نہیں جب تک تین نمازیں نہ چھوڑ دے اور چوتھی نماز کا وقت  
 تنگ نہ کر دے ایسا شخص بطور حد شرعی کے قتل کر دیا جائے گا جیسے  
 شادی شدہ زنا کار کو حد شرعی کے طور پر سنگسار کر دیا جاتا ہے اس کا  
 حکم مسلمانوں کے مردوں کی طرح ہے اور اس کے مال کے وارث اس کے  
 مسلمان ورثہ ہونگے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قتل نہیں کیا جائے گا  
 ہاں جیل میں بند کر دیا جائے گا جب تک توبہ نہ کرے ورنہ اسے جیل ہی  
 میں موت آئے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ توار سے حد شرعی کے طور پر قتل کر  
 دیا جائیگا اور کافر نہیں ہوگا۔ ہم نماز چھوڑنے والے کے کافر ہونے کے لئے  
 کچھ اور بیان کرتے ہیں اور کچھ یہاں بیان کئے دیتے ہیں۔

جابر بن عبد اللہ:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اور کفر و شرک کے  
 درمیان حد نماز ہی تو ہے۔ عبد اللہ بن زید از زبیر:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا ہمارے اور مشرکوں کے درمیان نماز نہ پڑھنے ہی کا تو فرق ہے لہذا جس نے  
 نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ جعفر بن محمد از محمد:۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک  
 شخص کو دیکھا کہ نماز میں اس طرح ٹھوگیں مار رہا ہے جیسے گواہ جلدی جلد کا  
 ٹھوگیں مارتا ہے فرمایا، اگر یہ شخص مر جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم کے دین پر نہیں مرے گا عطیہ عوفی از ابو سعید خدری: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے فرمایا کہ جب انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے  
 دروازے پر جہنم میں جانیوالوں کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ انس: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا تو فرشتے اسکو کہتے ہیں کہ  
 تیری آنکھوں میں نیند نہ آئے اور نہ ان میں ٹھنڈک ہو اور حق تعالیٰ تجھے جنت و جہنم



**فصل** : مروی عن الحسن البصری رحمہ اللہ  
 انه قال كان العلماء من اصحاب رسول الله  
 صلی اللہ علیہ وسلم یقولون خمس واربعون  
 ذمہ لہ مکروهة منہی عنہا فی صلاۃ  
 تفریضہ وہی التلحیح عند او التشاغل عند  
 والتعاطس عند او رفع الرأس الی السماء  
 لما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه  
 كان یقلب بصرہ فی السماء فنزلت الذین  
 ہم فی صلاتہم خاشعون فطاط رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ فکالوا یتحیون  
 للرجل ان لا یجاوز بصرہ مصلاۃ ومنہا  
 الصاق الخنک بالمدر و فلی الثوب والتطی  
 وتنفس الصعداء وتغیض العینین والالتفات  
 فی الصلاۃ لما روی عتبہ بن عامر رضی اللہ  
 عنہ فی قوله تعالی الذین ہم علی صلاتہم  
 دائمون قال اذا صلوا لم یلتفتوا ببینا ولا  
 شمالا وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا سألت  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التفات  
 الرجل فی صلاتہ فقال انما ہی اختلاصہ  
 اختلاصہ الشیطان من صلاۃ العبد وقیل  
 جاء طلحہ یعنی ابن مصرف الی عبد الجبار  
 بن وائل وهو فی القوم فسارہ ثم انصرف فقال  
 عبد الجبار اندرون ما قال قال رأیتک امس  
 التفت وانت تسلی وقد جاء فی الحدیث عن رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا فتح

کے درمیان روک دے جیسے تو نے ہمیں روک دیا۔

**مکروہات نماز** | حسن بصری: علمائے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے

کہ فرض نماز میں ۴۵ باتیں مکروہ ہیں: عمداً کھنکارنا، عمداً کسی دوسری

طرف متوجہ ہونا، عمداً چھینکنا، سر کو آسمان کی طرف اٹھانا دیکھنا

ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلعم نماز میں اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھایا

کرتے تھے اس پر الذین ہم فی صلوٰتہم خاشعون اتری یعنی وہ جو اپنی نماز

میں خشوع کرتے ہیں اس کے بعد آپ نماز میں اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے

سلف یہ مستحب سمجھتے تھے کہ نمازی کی نگاہ جائز سے آگے نہ بڑھے،

ٹھوڑی کوسینہ سے لگا لینا، کپڑوں میں جوں ڈھونڈھنا، جھانک لینا

ٹھنڈا سانس لینا، آنکھیں بند کرنا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔

کیونکہ الذین ہم علی صلوٰتہم دائمون یعنی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرتے

ہیں، انکی تفسیر میں عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھیں تو

ادھر ادھر نہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم

صلعم سے حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔

فرمایا کہ یہ شیطان کا چھپٹ لینا ہے۔ بندے کی نماز سے شیطان

(ثواب) کو چھپٹ لیتا ہے۔

کہتے ہیں طلحہ بن مصرف، عبد الجبار بن وائل کے پاس آئے آپ

لوگوں میں تھے اور آپ سے چپکے چپکے کچھ باتیں کر کے تشریف لے گئے

عبد الجبار نے کہا: جانتے ہو طلحہ نے کیا باتیں کیں؟ انہوں نے یہ فرمایا

کہ میں نے تم کو کل نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا پایا حالانکہ

ایک حدیث میں رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز شروع

کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنا چہرہ

اس سے نہیں پھیرتا جب تک بندہ اپنا چہرہ نہ پھیرے یا ادھر ادھر

نہ دیکھے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے اس کے

الصلاة استقباله الله بوجهه فلا يصرفه حتى  
يكون العبد هو الذي ينصرف او يلتفت يمينا  
وشمالا وفي حديث آخر ان العبد مادام في  
صلاته فله ثلاث خصال البر يتناثر عليه  
من عنان السماء الى مفرق رأسه وملائكة  
يحفون من لدن قدمه الى عنان السماء وماناد  
ينادي لو يعلم المصلي من يباحي ما انتقل الى التفت  
والصرف والالتفات مكروه جدا وقد قيل  
انه يقطع الصلاة وفيه استخفاف بحرمة  
الصلاة وادابها ومن ذلك الاتعاء في القعود  
فيها والرد على الامام وافتراش الذراعين  
في السجود ووضوح الصدر على الفخذين في  
السجود وضم الابطين الى الجنبين في السجود  
بل يفرق بينهما ولا يلمنقهما لانه مروى  
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا  
سجد لومرت برهيمه تحت ذراعيه لنفدت  
وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه عن  
ضبعيه وفي حديث آخر كان رسول الله  
صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجافي بين  
ضبعيه ومن ذلك تفریق الاصابع في السجود  
بل يفسها ووضع اليدين دون الركبتين  
في الركوع ووضع القدمين احداها على  
الآخرى وتعليقهما من الارض والسدل على  
الازار والسر او ييل والتخليل والتلمنظ واسترا  
ط الطعام مقدارا الحبة والجنبين والقلس أن

لئے تین باتیں حاصل ہیں اس کے بیچ سر پر آسمان سے نیکیاں برس رہی ہیں  
نرشتے اس کے پیروں سے لے کر آسمان تک اسے گھیرے ہوئے ہیں اور ایک  
منادی اعلان کر رہا ہے کہ اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس سے سرگوشی  
کر رہا ہے تو ادھر ادھر نہ دیکھے لہذا ادھر ادھر دیکھنا سخت مکروہ ہے  
بلکہ بعض علماء کے نزدیک نماز ہی ناسد ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنا  
آداب اور احترام نماز کے خلاف بھی ہے نماز میں کتے کی طرح بیٹھنا  
امام پر رد کرنا، سجدے کی حالت میں دونوں بازوؤں کو بچھالینا، سجدے  
کی حالت میں سینہ کو دونوں رانوں پر رکھنا، سجدے کی حالت میں  
دونوں بازوؤں کو دائیں بائیں پہلو سے ملانا، بلکہ بازو پہلو سے  
دور رکھے جائیں رکیز کر نہی اگر مسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ  
سجدہ کیا کرتے تھے تو بازو پہلو سے اتنی دور رکھا کرتے تھے کہ  
ایک بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر جائے آپ بازوؤں کو بغلوں  
سے علیحدہ کرنے میں خوب مبالغہ کیا کرتے تھے ایک حدیث میں ہے  
کہ جب رسول اللہ صلعم سجدہ کیا کرتے تھے تو کہنیوں کو بغلوں سے  
دور کر لیا کرتے تھے سجدے کی حالت میں انگلیوں کا نہ ملانا اور کوع  
میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر نہ رکھنا، آگے پیچھے سیر رکھنا بلکہ دونوں  
پیر ایک قطار میں رکھے جائیں پیر کا زمین سے اٹھانا، تہ بند یا  
پاشجامہ لٹکانا، دانٹوں میں خلل کرنا، ایک یا در دونوں کی مقدار  
میں طعام کا نکل جانا، مدرسے سے آئے ہوئے پانی کو منہ میں پھیرانا اور  
اسے نکل جانا، زبان سے تھتھکا کرنا، سجدے کی حالت میں پھونک  
مارنا، کنگروں کو دسر رکھنے کے لئے حالت سجدے میں برابر کرنا،  
عرض میں (دائیں بائیں تہ کی طرف سے منہ موڑے بغیر چلنا، تشدد  
میں اپنے پاس والے پر آواز بلند کرنا یہ معلوم کرنا کہ میرے دائیں  
بائیں کون کون ہیں، سر سے اور بھوں سے اشارہ کرنا، دکار سے  
یا حلق سے جو چیز نکل آئے اسے نکل جانا، بلاد جہ کھانا، بلاد جہ کھانا،



يردد يبلغ والتفت باللسان والنفخ في السجود  
وتسوية الحصى والتمشي عرضا ورفع الصوت  
على جليبيك في التشهد ومعرفتك من عن يمينك  
ومن عن شمالك والايحاء والاشارة وبلغ  
الجشاء اذ ما يخرج من الحلق والاستعمال  
والتنحط والتبزيق والنظر في الثياب ومسح  
التراب عن الجبهة قبل ان ينصرف وتسوية  
الحصى اكثر من مرة واحدة ونفض موضع  
السجود والدعاء بعد التشهد اذا كنت اماما  
والقعود في المحراب بعد التسليم حتى ينحرف  
من مكانه الى يساره والعقد باليد بالاصابع  
في الصلاة والعبث باللحية والثوب فيها  
لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
لا ينظر الله الى صلاة لا يحضى الرجل فيها  
قلبه مع بدنه والبصر رسول الله صلى الله عليه  
وسلم رجلا يعبت بلحينه فقال لو خشع  
قلب هذا انشعت جوارحه ونظر الحسن  
رحمة الله الى رجل يعبت بالحصى وهو يقول  
اللهم زوجني من الحور العين فقال ببس  
الناطب ان تخطب وانت تعبت وقال  
عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله رضي  
الله عنه انه قال لينتهين اقوام يرفعون  
الصارهم الى السماء اول ترجع اليهم الصارهم  
هم يعني في الصلاة وقال الازاعي رحمه الله  
يكون الرجلان في الصلاة وبين احدهما

بلا وجه ناك سنكنا كپڑوں کو دیکھنا نماز سے فارغ ہونے سے پہلے  
پیشانی سے مٹی پونچھنا ایک بار سے زیادہ سنگریزوں کا برابر کرنا  
سجدہ گاہ کا جھاڑنا اگر امام ہے تو تشہد کے بعد دعا کرنا۔ سلام  
کے بعد محراب میں بیٹھے رہنا اور بائیں جانب سے پھر کر مقتدیوں  
کی طرف منہ نہ کرنا نماز میں انگلیوں سے گرہ لگانا ڈاڑھی اور  
کپڑوں سے کھینٹنا کیونکہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس  
نماز کو نہیں دیکھتا جس میں نمازی کا دل اس کے جسم کے ساتھ حاضر  
نہ ہو یعنی جس طرح نمازی نے اللہ کے سامنے اپنا جسم حاضر  
کر دیا ہے اسی طرح دل حاضر رکھے (نبی اکرم صلعم نے ایک شخص کو  
دیکھا کہ وہ نماز میں ڈاڑھی سے کھیل رہا ہے فرمایا اگر اس کا  
دل اللہ کے آگے حاضر ہوتا تو اس کے اعضاء بھی حاضر ہوتے  
ایک دفعہ حسن بصری نے دیکھا کہ ایک شخص نماز میں سنگریزوں سے  
کھیل رہا ہے اور زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرا بڑی  
آنکھوں والی حور سے نکاح کرادے فرمایا: تو بدترین پیام  
ڈالنے والا ہے کیونکہ تو کھیل کی حالت میں حور پر پیام ڈال رہا ہے  
عبدالرحمن بن عبد اللہ از عبد اللہ: جو لوگ حالت نماز  
میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اس سے باز آجائیں  
در نہ نگاہیں ان کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آئیں گی۔  
از اعمیٰ دو آدمی برابر برابر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ  
دونوں میں آسمان وزمین کے برابر فاصلہ ہوتا ہے ایک تو ہمہ تن  
اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہوتا ہے اور دوسرا ہوا لعب اور  
غفلت کا شکار ہے۔  
ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلعم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  
فرمایا کہ کسی نمازی کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے اور کسی کو  
تھائی اچھائی حتیٰ کہ آپ نے فرمایا دسواں حصہ ثواب ملتا ہے

وین الاخر كما بين السماء والارض هذا  
مقبول على الله تعالى بقلبه وهذا الاوساة  
وقد صح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم انه  
قال للمصلي من له من صلاته نصفها فذكر  
الى عشرها يعني بذلك ما عقل منها وحضر  
قلبه فيها وفي حديث آخر انه قال صلى الله  
عليه وسلم لمصل اربع مائة صلاة ولمصل  
مائتا صلاة ولمصل مائة وخمسون صلاة  
ولمصل سبعون صلاة وصلاة تجسین صلاة و  
صلاة سبع وعشرين صلاة وصلاة بعشر صلوات  
وصلاة بملاة واحدة فالذي يكتب له  
اربع مائة صلاة فهو الذي يصلي بمكة في البيت  
الحرام مع الامام في الجماعة بعد ان لا تفوته  
التكبيرة الاولى والذي يكتب له مائتا صلاة  
فهو الامام الذي يوم الناس بعد ان يعرف  
احكام الصلاة والذي يكتب له مائة و  
خمسون صلاة فهو المؤذن والذي له سبعون  
صلاة فهو الذي يبتك ويبيع وضوءه  
ويصلي في الجامع في الجماعة والذي يكتب  
له خمسون صلاة فهو الرجل الذي يصلي  
في الجامع مع الامام في الجماعة ويكون  
قد فاتته تكبيرة الاحرام والذي يكتب  
له سبع وعشرون صلاة فهو الرجل الذي  
يبيع وضوءه ويصلي في المسجد في الجماعة  
ولا تفوته تكبيرة الاحرام والذي يكتب له

اس سے آپ کی مراد یہی ہے کہ جس قدر دل حاضر ہوگا اسی قدر  
زیادہ ثواب ملے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ کسی نمازی کو  
چار سو نمازوں کا کسی کو دو سو نمازوں کا کسی کو ۱۵۰ نمازوں کا  
کسی کو ۱۰۰ نمازوں کا کسی کو پچاس نمازوں کا کسی کو ۲۰ نمازوں کا  
کسی کو دس نمازوں کا اور کسی کو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے  
لہذا وہ جس کے لئے چار سو نمازیں لکھی جاتی ہیں وہ وہ نمازی ہے  
جو مکہ میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتا ہے  
اور اس کی پہلی تکبیر بھی امام کے ساتھ نہیں چھوٹی اور جس کے لئے  
دو سو نمازیں لکھی جاتی ہیں وہ وہ نمازی ہے جو احکام نماز سے  
واقف ہے اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے اور جس کے لئے ۱۵۰  
نمازیں لکھی جاتی ہیں وہ وہ نمازی ہے جو اذان بھی دیتا ہے  
اور جس کے لئے ستر نمازیں لکھی جاتی ہیں وہ وہ نمازی  
ہے جو مسواک کر کے اچھی طرح سے کال وضو کرتا ہے  
در مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور جس  
کے لئے ۱۰۰ نمازیں لکھی جاتی ہیں وہ وہ نمازی ہے جو مسجد  
میں جا کر امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور اس  
کی تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ نہ چھوٹے اور جس کے لئے ۲۰  
نمازیں لکھی جاتی ہیں وہ وہ نمازی ہے جو کال وضو کر کے مسجد  
میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی تکبیر تحریمہ  
امام کے ساتھ چھوٹ جاتی ہے اور جس کے لئے ایک نماز لکھی جاتی  
ہے وہ وہ نمازی ہے جو بلا جماعت کے تنہا نماز پڑھتا  
اور جس کے لئے ایک نماز بھی نہیں لکھی جاتی وہ وہ نمازی  
ہے جو مرغ کے ٹھونگوں کی طرح جلدی جلدی نماز پڑھتا  
ہے اور رکوع اور سجدہ پورا پورا ادا نہیں کرتا یہی وہ نماز



عشر صلوات فهو الرجل الذي يلحق الجماعة وقد فاتت  
تكبيرة الاحرام والذي يكتب له صلاة واحدة  
فهو الذي يصلي وحده في غير جماعة والذي لا  
صلاة له هو الذي يصلي وينقر كنقر الديك ولا يتم ركوعها  
وسجودها وهو الذي تطوى صلاته كالثوب الخلق و  
يفرب بها وجه صاحبها ويقال له لا تحفظك الله كما  
لم تحفظ صلاتك۔

**فصل:** وينبغي لكل مصل ان يقدم النية  
بصلاته ويمثل الكعبة البيت الحرام امامه  
نصب عينيه على ما تقدم بيانه في اول الكتاب  
ويتيقن قيامه بين يدي الله تعالى ولا يشك انه  
بعين الله منتصب حيث يراه لقوله تعالى والذي  
براك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ولقول  
الرسول صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك  
تراه فان لم تكن تراه فاعبر براك ونبوي الصلاة  
الفريضة بينها بالاداء والقضاء فهو اولى ويرفع  
يديه الى فروج اذنيه او حذو منكبيه وقد  
بيننا صفة ذلك في اول الكتاب وهل يضم  
الاصابع بعضها الى بعض او يفرجها على  
روايتين واذا رفع يديه وكبر كانه رفع  
الحجاب الذي بينه وبين الله تعالى فوصل في  
المكان الذي لا يجوز التلفت فيه ولا التشاغل  
عنه لعلمه انه بعين من يرى حركته ويعلم  
ما يتلجج في نفسه وينطوي عليه سره وقلبه  
فينظر موضع سجودك ولا يلتفت بينا وشمالا

ہے جس کی نماز پر اپنے چہیتھڑوں کی طرح پھیٹ کر اس کے منہ پر  
مادھی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تیرا محافظ نہ ہو  
جیسے تو نے اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی۔

نماز سے قبل نماز کی نیت کرنا ہر نماز کے  
آداب نماز

لئے ضروری ہے اور یہ بھی کہ اپنے سامنے  
کعبۃ اقدس کا تصور پیش نظر رکھے جیسا کہ آغاز کتاب میں بیان  
ہو چکا ہے اور اس پر بھی یقین رکھے کہ میں حق تعالیٰ کے سامنے

کھڑا ہوں اور اس میں ذرا سا بھی شک نہ کرے کہ میں اللہ  
کی نگاہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے جیسا

کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اور وہ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے  
ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو

بھی اور رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کہ  
گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے اگر یہ تصور نہ بندھے کہ تو اللہ کو دیکھتا

ہے تو اللہ تو تجھے دیکھتا ہے نماز سے قبل وقتی فرض نماز کی  
نیت کی جائے اور اگر یہ بھی نیت کر لی جائے کہ ادا کی جا رہی

ہے یا تقنا تو اولیٰ ہے۔ تکبیر تحریمیہ کے وقت کانوں کی ٹونگ  
یا کندھوں کے بالمقابل ہاتھ اٹھائے جائیں ہم آغاز کتاب میں

ہاتھ اٹھانے کی ہیئت بیان کر آئے ہیں۔ اس میں دو روایتیں  
ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں ملالی جائیں یا الگ الگ رکھی

جائیں جب نمازی رفع یدین کر کے اللہ اکبر کہتا ہے تو گو یا وہ  
اس پر دے کہ اٹھا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے

درمیان حائل تھا اب رہ ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جسے حاصل  
کر کے ادھر ادھر دیکھنا یا کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونا

جائز نہیں کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ اس شہنشاہ کے سامنے  
کھڑا ہے جو اس کے حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے

ولا یرفع رأسه الی السماء و اذا قال سبحانک  
اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جبرک  
ولا الہ غیرک علما نہ یخاطب من ہو سامع  
منہ مقبل علیہ ناظر الیہ ولا یخفی علیہ  
موضع شعرتہ ولا حرشۃ جارحۃ عنہ و کذاک  
تولہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اھدنا الصراط  
المستقیم یعقل ما یقول و یدری من یخاطب  
بھذا الخطاب ولا ینسی مع ذلک الخشوع  
و التحفظ حذر من وقوع السہو علیہ فیما  
ہو قائم لہ و ماثل فیہ و یأتی باحدی عشرۃ  
تشدیدۃ فی الفاتحۃ و یحذر اللحن الذی  
بغیر المعنی فیہا فان قراءتھا فریقۃ وھی  
رکن تبطل الصلاۃ بترکھا و مع ذلک یری  
کأنہ واقف علی الصراط وان الجنة عن  
بینہ بصفتھا و النار عن شمالہ بہا فیہا  
وانہ بصلاۃ مستنجز ما وعد اللہ عزوجل  
بھا اذا صحت صلاۃ من ثواب الجنة و  
مستحسن بہا من وعید اللہ بعقاب النار  
کل ذلک بتیقن من قلبہ و حضور من عقلہ  
و یعتقد مع ذلک انہ یصلی صلاۃ مودع لا  
یشک انہا تعرض علی اللہ تعالیٰ و انہ لا یمع  
لہ منہا الا ما یمع لہ عند اللہ فقط ثم  
یاتی بقراءۃ ما تیسر من السور الکوامل و  
ھی اولی من قراءۃ اواخرھا و واسطھا و یکن  
منمتالی ما یقرأ متفہما الی ما یلفظ و یتلو

اور اس کے دل کے کھٹکوں اور خیالات سے خوب آگاہ ہے اس  
لئے نمازی اپنی سجدہ گاہ پر نگاہ جمالے اور ادھر ادھر نہ دیکھے اور  
نہ آسمان کی طرف سر اٹھائے اور جب بھانک اللهم الخ پڑھے تو یقین  
کرے کہ وہ اس ذات اقدس سے مخاطب ہے جو اس کے گلے سن رہا ہے  
اس کی طرف متوجہ ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے میرے ایک  
بال کی جگہ بھی پوشیدہ نہیں اور نہ میرے کسی عضو کی حرکت اس سے  
چھپی ہوئی ہے اسی طرح جب سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و  
ایاک نستعین اہرنا الخ پڑھے تو جو کچھ زبان سے کہ رہا ہے انہیں سمجھے  
اور جس کے آگے ان باتوں کا اقرار کر رہا ہے اس کی عظمت و قدرت  
کی ہمہ گیری کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ  
خشوع و خضوع کو اور تحفظ نماز کو بھی نہ بھولے اور محتاط رہے  
کہ نماز میں سہو واقع نہ ہو کیونکہ جس چیز کے لئے کھڑا ہوا ہے اس کا  
تحفظ کرے اور اسی کی طرف دھیان رکھے اور فاتحہ میں گیارہ تشدید  
ادا کرے اور ایسی غلطی سے خامس طور سے محتاط رہے جو معنی کو بدل  
دے کیونکہ سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے اور یہ سورت نماز کا ایک  
رکن ہے جس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے پھر ساتھ ہی  
ساتھ یہ تصور بھی قائم کر لے کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں اور میری  
دائیں جانب جنت مہمہ اپنی نعمتوں کے اور بائیں جانب جہنم مہمہ  
اپنے ہولناک و روح فرسا عذابوں کے موجود ہے اور میں اپنی اس  
نماز سے وہ ثواب حلال کرنے والا ہوں جس کا اس نماز پر حق تعالیٰ  
نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے بشرطیکہ نماز صحیح ہو اور اس عذاب سے  
بچ جاؤں گا جس کا میں اللہ تعالیٰ کی وعید کے مطابق مستحق تھا اگر  
یہ فرض ادا نہ کرتا غرضیکہ ان تمام باتوں کو دل و دماغ کو حاضر  
کر کے یقین کر لے اور ساتھ ہی ساتھ یہ عقیدہ بھی قائم کر کے کہ یہ  
میری زندگی کی سب سے کھلی نماز ہے اور اس میں شک نہ کرے کہ



و كذلك ان كان ما موما ينصت الى قراءة الاها  
 و يفهمها و يتعظ بها و اجرها و يعتقد  
 امثال او امرها و الاتساء عن نواهيها هكذا  
 الى ان تنتهي السورة فاذا فرغ من القراءة ثبت  
 قائما و سكت حتى يرجع اليه نفسه قبل ان  
 يركع ولا يميل قراءته بتكبيرة الركوع ثم  
 يكبر ويرفع يديه الى فروع اذنيه او حذو  
 منكبيه على ما بين يدي اول الكتاب فاذا التقى  
 التكبير حط يديه ثم اتخط من قيامه للركوع  
 و يلزم راحته ركبتيه و يفرق بين اصابه  
 و يعتدل على ضبعيه و ساعديه و يسوي ظهره  
 ولا يرفع رأسه ولا يخفض فينكسه فقل  
 جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان  
 اذا ركع لو كانت قطرة ماء على ظهره ما  
 تحركت عن موضعها و جاء عنه صلى الله  
 عليه وسلم انه كان اذا ركع لو كان قدح  
 من ماء على ظهره ما تحرك عن موضعه و  
 ذلك لاستواء ظهره صلى الله عليه وسلم  
 و يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا و هو ادنى  
 الكمال و قال الحسن البصري رحمه الله التبيح  
 التام سبع و الوسط من ذلك خمس و ادناه  
 ثلاث تسبيحات ثم يرفع رأسه مسعافينتقب  
 معتدلا فيطمئن مترسلا يديه ثم ينحط للركوع  
 فيبدأ بوضع ركبتيه على الارض ثم يديه ثم  
 جبهته و انفه و يتمكن من الارض و يطمئن

یہ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیو الی ہے اور یقین کرے کہ یہ نماز  
 اسی وقت صحیح مانی جائیگی جب شریعت غرا کے مطابق ہوگی اور اللہ  
 کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ پر پڑھی جائیگی پھر فاتحہ کے بعد قرآن جہاں  
 سے آسانی سے پڑھا جائے پڑھے خواہ کال سورت ہو یا سورت کا آخری  
 یاد درمیانی حصہ ہو لیکن کال سورت کا پڑھنا اولیٰ ہے اور جملہ کے ایک  
 کلمہ پر غور کرنا ہے اور خوب سمجھنا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور مجھے  
 حق تعالیٰ کس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے لیکن اگر مقتدی ہے تو خاموش  
 رہ کر امام کی قرأت سنے اسے سمجھے اور اس کی ہند و مواعظ سے نصیحت  
 حاصل کرے اور اس کی ڈانٹ سے عبرت پکڑے اور اس کے احکام کی تعمیل پر  
 ایمان لائے اور اس کی ممانعتوں سے باز رہے سورت کے ختم ہونے تک  
 اسی طرح عمل پیرا رہے پھر جب قرأت سے فارغ ہو جائے تو اتنی دیر  
 تک خاموش کھڑا رہے کہ سانس ٹھیک ہو جائے قرأت رکوع کی تکبیر سے  
 نہ ملائے پھر اللہ اکبر کہے اور کانوں کی لٹک یا سینہ کے بالمقابل دونوں ہاتھ  
 اٹھا کر رکوع میں چلا جائے جیسا کہ ہم شروع کتاب میں بیان کرتے ہیں  
 اللہ اکبر ختم کرتے ہی اپنے بندھے ہوئے ہاتھ چھوڑ دے اور قیام سے رکوع  
 کی طرف جھک جائے اور دو نور گھنٹوں پر پھیلیاں رکھ لے جیسے منہ  
 میں نور رکھ لیا جاتا ہے اور انگلیاں الگ الگ کر لے اور بدن کا پورا زور  
 بازوؤں پر اور ہاتھوں پر رکھے اور پشت برابر رکھے اور سر نہ اٹھائے اور  
 نہ جھکائے کہ سرنگوں ہونے کی نوبت آئے کیونکہ نبی اکرم صلعم سے ثابت ہے  
 کہ حالت رکوع میں آپ کی پشت اس طرح رہتی تھی کہ اگر اس پر پانی کا قطرہ  
 ڈالا جائے تو آپ کی جگہ پر ٹھہرا رہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ رکوع کرتے  
 تو اگر آپ کی پشت پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے یہ  
 اس لئے کہ آپ کی پشت بالکل ہموار رہتی تھی اور اس میں ذرا سا بھی نشیب و فراز  
 نہیں ہوتا تھا پھر رکوع میں جا کر کم از کم تین بار سبحان ربي العظيم کہے۔  
 حسن بصری:۔ مکمل تسبیح سات عدد ہیں اور درمیانی پانچ ہیں اور کم از کم

فی سجودہ ویتوجہ بكل عضو منہ وجزء الی القبلة  
 وجاء فی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه  
 قال امرت بالسجود علی سبعة اعظم فی حدیث  
 آخر العبد یسجد علی سبعة اعضاء فای  
 عضو... ناضیعة لم یرل ذلك العضو یلعنه  
 ویكون فی سجودہ منقبہ بالانینبسط علی الارض ولا  
 یفرش ذراعیه بل یضع اصابع یدیه علی الارض  
 حتی یجازی بها اذنیہ او منکبیه الموضع  
 الذی یتحب رفع الید الیہ فی التکبیر فی  
 حال القیام ولا یضعهما حداء رأسہ ویضم  
 اصابعہ ویوجهها نحو القبلة ویبین العنق  
 عن الجنبین والفخذین عن الساقین والبطن  
 عن الارض علی ما تقدم بیانہ ویقول فی  
 سجودہ سبحان ربی الاعلی ثلاثا کالرکوع  
 ثم یرفع رأسہ مکبرا ویجلس علی رجلہ الیسری  
 وینصب الیمنی ویقول رب اغفر لی ثلاثا تاظرا  
 الی حجرہ ثم یسجد ثانیة کذلک ثم یرفع  
 رأسہ مکبرا من الارض ثم یدیه ثم رکبتيہ  
 معتمدا علی رکبتيہ فینبهض علی مذرقتہ میہ  
 ولا یقدم احدی رجلیہ فانه مکروه وقیل  
 انه یقطع الصلاة مردوی ذلک عن ابن عباس  
 رضی اللہ عنہما ویفعل کذلک فی الرکعة الثانیة  
 فاذا جلس للتشهد الاول جلس علی رجلہ الیسری  
 وینصب رجلہ الیمنی ویوجه اصابعہ نحو  
 القبلة ویضع یدہ الیسری علی فخذہ الیسری

پھر صبح اللہ من حمدہ کتابا رکوع سے سر اٹھائے پھر سیدھا کھڑا  
 ہو کر تدریجاً کھڑا رہے رحتی کہ ہر عضو اپنے اپنے ٹھکانہ پر چلا جائے  
 اور دونوں ہاتھ چھوڑ دے پھر جب سجدے میں جائے تو پہلے زمین پر  
 گھٹنے رکھے پھر دونوں ہاتھ رکھے پھر پیشانی اور ناک رکھے اور اطمینان سے  
 سجدہ کرے اور اپنے ہر عضو و جزء کے ساتھ قبلہ کی طرف متوجہ ہو۔  
 ایک حدیث میں ہے کہ سر در عالم صلعم نے فرمایا کہ مجھے سات ہڈیوں پر  
 سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ بندہ سات اعضاء  
 پر سجدہ کرتا ہے لہذا ان سات اعضاء میں سے جس عضو کو سجدے میں شامل  
 نہیں کریگا وہی عضو لعنت کریگا سجدے کی حالت میں سٹھا ہوا رہے میں  
 پر چھ نہ جائے اور نہ دونوں ہاتھ بچھائے بلکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مع  
 شہمیوں کے زمین پر رکھے اور انہیں کانوں کے بائیں حصوں کے بالمقابل  
 رکھے اس طرح ہاتھوں کا رکھنا مستحب ہے اور اٹھتے وقت دونوں  
 ہاتھوں کا اٹھانا از تکبیر کتنا مستحب ہے دونوں ہاتھ سر کے بالمقابل  
 رکھے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملا لے اور قبلہ کی طرف کرے اور دونوں  
 بازوؤں کو دونوں پہلوؤں سے علیحدہ رکھے اور دونوں بازوؤں میں ہڈیوں  
 سے علیحدہ رکھے اور پیٹ کو زمین سے دور رکھے جیسا کہ اوپر بیان کر  
 گیا اور سجدے میں کم از کم تین بار سبحان ربی الاعلیٰ کے پھر تکبیر کتابا  
 سر اٹھائے اور بائیں پیر سے بچھا کر بیٹھ جائے اور دایاں پیر کھڑا کر  
 لے اور کم از کم تین بار رب اغفر لی کہے اور نگاہ گھٹنوں پر رکھے پھر  
 اسی طرح دوسرا سجدہ کرے پھر تکبیر کہتا ہوا زمین سے سر اٹھائے پھر  
 دونوں ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھوں سے گھٹنوں پر ٹیک لگا کر گھٹنے اٹھا  
 اور دونوں پیروں کی انگلیوں پر اٹھ جائے اور ایک پیر کے بل پر نہ اٹھے  
 کیونکہ یہ مکروہ ہے بلکہ بعض کے نزدیک اس سے نماز ناسد ہو جاتی ہے  
 جیسا کہ ابن عباس سے منقول ہے پھر حسب سابق دوسری رکعت  
 پڑھے پھر جب پیدے تشدد کے لئے بیٹھے تو بائیں پیر کو بچھا کر اس پر



وید لا الیمنی علی فخذہ الیمنی ویشیر باصبعہ  
 التي تلی الابھام وھی السبابة وخلق الابھام  
 مع الوسطی وقیض الخضر والبنصر ویکون ناظرا  
 الی اصبعہ من اول تشھدہ الی آخرہ لما روی  
 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا کان  
 احدکم فی الصلاة فجلس فلا یجبت بشیء  
 فانه یناجی ربه وکن یجعل یدہ الیسری علی  
 فخذہ الیسری ویلک الیمنی علی فخذہ الیمنی  
 ثم لیکن قلبہ وبعصر الی اصبعہ فانھا  
 مذیبة للشیطان ویتشھد فیقول التخیات  
 لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا  
 النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ السلام علینا  
 علی عباد اللہ الصالحین اشھد ان لا اله الا  
 اللہ واشھد ان محمدا عبده ورسوله ثم  
 یقوم مکبرا ینقر الفاتحة فحسب ویرکع  
 ویسجد کذلک ثم یمیلی الركعة الرابعة  
 کذلک ثم یجلس للتشھد فیاقی بید علی ما  
 ذکرنا فاذا بلغ عبده ورسوله قال اللهم  
 صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت  
 علی ابراھیم انک حمید مجید وبارک  
 علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی  
 ابراھیم انک حمید مجید وعن امامنا  
 احمد رواية اخرى انه یدکر ابراھیم  
 ثم یدکر آلہ فیقول علی ابراھیم وعلی  
 آل ابراھیم وهذا آخر التشھد ویلتحب له

بیٹھ جائے اور دایاں پر کھڑا کر لے اور پیر کی انگلیاں قبلہ کی طرف  
 کر لے اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر  
 رکھنے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرے اور اگر گھٹے اور دریا  
 انگلی کا حلقہ بنائے اور باقی دو انگلیاں موڑے اور اول تشہد سے لے کر  
 آخر تشہد تک انگلیوں پر نگاہ رکھے کیونکہ سرور عالم صلعم نے فرمایا کہ جب  
 تم میں سے کوئی نماز میں ہو اور تشہد کے لئے بیٹھے تو کسی چیز کے ساتھ  
 کھیلے کیونکہ وہ اپنے رب سے مناجات میں مشغول ہے ہاں اپنا بائیں ہاتھ  
 بائیں ران پر اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر رکھ لے پھر قندب نگاہ انگلیوں  
 کی طرف متوجہ رہنی چاہیے کیونکہ یہ منیت شیطان کو دفع کرنے والی ہے  
 اور تشہد پر پڑھے التحیات لہ الخ یعنی جانی ہمالی اور قلبی عبادتیں  
 اللہ ہی کے لئے خاص ہیں اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتیاں اور رحمتیں اور برکتیں  
 ہوں ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا  
 ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ  
 محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر اللہ اکبر کتا ہوا کھڑے ہوئے  
 اور صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور حسب سابق رکوع، قوما، سجدہ اور  
 قعدہ کرے پھر اسی طرح چوتھی رکعت پڑھے پھر تشہد کے لئے بیٹھ کر  
 مذکورہ بالا تشہد پڑھے پھر درود پڑھے یعنی اللہم صل علی محمد وعلی آل  
 محمد کما صلیت علی ابراھیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد  
 کما بارکت علی ابراھیم انک حمید مجید۔ ہمارے امام احمد سے دوسری  
 روایت ہیں وعلی آل ابراھیم بھی منقول ہے درود پڑھنے کے بعد چار  
 چیزوں سے پناہ مانگنا مستحب ہے یعنی یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک  
 من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة  
 الحمیاء والممات یعنی اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب  
 مسیح دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ  
 مانگتا ہوں پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألك من الخیر الخ یعنی اے اللہ

ان یستعین من اربع فیقول اللہم انی اعوذ بک  
 من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن  
 فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المہیاد السمات  
 ثم یدعو فیقول اللہم انی اسألك من الخیر  
 کلہ ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بک  
 من الشر کلہ ما علمت منه وما لم اعلم اللہم  
 انی اسألك من خیر ما سألك عبادک الصالحون  
 واعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبادک  
 الصالحون اللہم انی اسألك الجنة وما قرب  
 الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما  
 قرب الیہا من قول وعمل ربنا آتتنا فی الدنیا حسنة  
 ونفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا  
 ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار  
 ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلك ولا تخزنا  
 یوم القیامة انك لا تخلف المیعاد وان زاد  
 علی ذلك جاز الا ان یکون اما ما ینطول ذلك  
 علی الامور من فالمنتحب الاقتصار حفظا  
 لقلوبہم لعل ان یکون فیہم ذوالحاجة  
 ثم یسلم ویدعون نفسہ ولوالدیہ وللمسلمین  
 ویکون فی جمیع ذلك متخوفا من عاقبتہا  
 کیف وقد وقعت عند اللہ عزوجل الداعی  
 الیہا الامر بہا المثیر علیہا والمعاقب  
 علیہا عند اساءتہا فاذا خرج منها عرفنا  
 علی العلم فان شہد لہا ببراءة الساحة و  
 سلامة المنزلة حمد اللہ تعالیٰ واثنی علیہ

میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی مانگتا ہوں خواہ وہ بھلائی مجھے معلوم ہو  
 یا معلوم نہ ہوں اور ہر طرح کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں خواہ  
 وہ برائی مجھے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو اے اللہ میں تجھ سے وہ خیر  
 مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے نیک بندوں نے مانگی اور تجھ سے اس برائی  
 سے پناہ مانگتا ہوں جس برائی سے تیرے نیک بندوں نے تجھ سے پناہ  
 مانگی اے اللہ میں تجھ سے جنت کا اور اس قول وعمل کا جو مجھے جنت  
 سے قریب کر دے، سوال کرتا ہوں اور آگ سے اور اس قول وعمل  
 سے جو مجھے آگ سے قریب کر دے تیری پناہ مانگتا ہوں اے ہمارے  
 پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی دے اور  
 ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش  
 اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیکیوں کی فرست میں شامل کر  
 کے اپنے پاس بلا، اے ہمارے مربی ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے  
 رسولوں کی زبانوں پر وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا  
 نہ فرما بلاشبہ تو وعدہ خلا فی نہیں فرماتا اگر مزید دعائیں پڑھنا چاہے  
 تو پڑھ سکتا ہے البتہ اگر امام ہو تو انہیں دعاؤں پر فتاعت کرنا  
 مستحب ہے تاکہ نماز طویل نہ ہو اور مقتدیوں کے دل نہ گھبراہٹیں اور  
 حاجت مندوں کی رعایت بھی ہو جائے پھر سلام پھیر دے اور سلام  
 پھیرنے کے بعد اپنے لئے، اپنے مانپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے  
 دعائیں مانگے اور ان تمام افعال میں انجام سے خوفزدہ رہے بھلا نماز  
 انجام سے کیسے خوفزدہ نہ رہے حالانکہ نماز اس اللہ کے سامنے پیش  
 کی جاتی ہے جس سے نمازی دعائیں مانگ رہا ہے جس نے نماز کا  
 اسے حکم فرمایا ہے جو نماز پر ثواب عطا فرماتا ہے اور بری طرح  
 نماز پڑھنے پر سزا دیتا ہے پھر نماز سے فارغ ہو کر اس کا  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مقابہ کرے اور علم سے ملائے اگر علم  
 ذمہ داری سے سبکدوشی کی اور صحیح و سلامتی سے اس کے صحن سے



اذ جعله اهلا لذلك وان وجد فيها نقصانا  
 وخللا تاب الى الله عز وجل واستغفر الله و  
 تائب واجتهد في التحفظ في التي بعدها  
 وللصلاة المقبولة علامة بنية وللمردودة  
 علامة فعلامة المقبولة نهيتها وكفها  
 لصاحبها عن الفواحش والمنكر وترغيبه  
 في الخير وتجديد نيتة في الصلاح والازدياد  
 من الطاعات وفعل الخيرات والرغبة في  
 المثوبات وارتدادها عن الاسواء وكراهة  
 المعاصي والخطيئات لقول الله عز وجل ان  
 الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر  
 الله اكبر وهذا الذي ذكرنا يشترك فيه  
 الامام والمأموم والمنفرد فاما شرائط  
 الصلاة وواجباتها ومستورها فقد  
 ذكرناها في اول الكتاب والله الموفق  
 للصواب -

**فصل:** فيما يختص بالامام ولا ينبغي  
 للرجل ان يكون اماما حتى تكون فيه هذه  
 الخصال التي نذكرها وهي ان لا يجب ان  
 يتقدم وهو يجب من يكفيه ذلك ولا يتقدم  
 وهناك من هو افضل منه لانه جاء في  
 الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه  
 قال اذا امر القوم رجل وخلفه من هو افضل  
 منه لم يزالوا في سفال وقال عمر بن الخطاب  
 رضي الله عنه لان اقدم تنضرب عنقي ولا

عبور کرنے کی اور منزل تک سلامتی کے ساتھ پہنچنے کی گواہی دے تو اللہ تعالیٰ  
 کا شکر ادا کرے اور اس کی حمد و ثنا بجالائے کیونکہ اسی نے کامیابی کے ساتھ  
 یہ راہ طے کر کے منزل تک پہنچایا ہے اور نماز کا اہل بنا دیا ہے اور اگر اس میں  
 نقصان و خلل پائے تو حق تعالیٰ جل مجدہ سے توبہ و استغفار کرے اور  
 آئندہ بڑی احتیاط کے ساتھ پوری پوری سرگرمی سے صحیح علم کی روشنی میں  
 نماز کے تحفظ کی کوشش کرے۔ مقبول نماز کی ظاہر نشانی ہے اور مردود کی  
 بھی مقبول کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کی کوہے حیاتیوں سے اور خلاف شرع  
 کاموں سے روک دے نیکیوں کی تڑپ پیدا کر دے، دل میں صلاح  
 و فلاح کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی بے پناہ لگن پیدا کر دے  
 زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا شوق ابھار دے۔ برائیوں  
 سے روک دے اور گناہوں اور بد کاریوں سے نفرت پیدا کر دے کیونکہ  
 حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: دیکھو! نماز بے حیاتیوں سے اور برے اعمال  
 شرعیہ کاموں سے روک دیتی ہے واقعی اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے  
 ہمارے مذکورہ بالا بیان میں امام مقتدی اور منفرد سب شامل ہیں ہم نماز کی  
 شرطیں، نماز کی سنتیں اور نماز کے واجبات شروع کتاب میں بیان کر آئے  
 ہیں اللہ ہی صحیح راہ کی توفیق عطا فرمائے والا ہے۔

**خصوصیات امام** | انسان کو امام بنانا لائق نہیں جب تک اس  
 میں مندرجہ ذیل باتیں نہ پائی جائیں اگر نماز پڑھانے کا کوئی اہل موجود  
 ہو تو اس کی موجودگی میں امامت کے لئے آگے نہ بڑھے یا اس سے  
 افضل، عالم و فاضل اور حافظ و قاری موجود ہو تو بھی امامت کو  
 پسند نہ کرے اگر لوگ اس کے خلاف کریں گے تو وہ ہمیشہ لپستی میں  
 اور ذلت میں رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما: اگر بلا کسی گناہ کے میری  
 گردن اڑادی جائے تو یہ مجھے اس بات سے محبوب ہے کہ میں  
 ان لوگوں کا امام بنوں جن میں حضرت ابو بکر صدیق موجود ہوں  
 امام اللہ کی کتاب کا عالم و قاری ہو دین کی سمجھ رکھتا ہو اور

احادیث میں کامل بصیرت والا ہو کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دین کا معاملہ اپنے فقہاء کو سونپ دو اور اپنا امام اپنے علماء کو بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو بہتر ہوں وہ تم کو نماز پڑھائیں کیونکہ وہ تمہاری طرف سے تمہارے نمائندے بن کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص طور سے اس لئے نمائندہ فرمایا کہ وہ ارباب دین، فاضل اور علم دین کے عالم ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اپنی نماز پر اور مقتدیوں کی نماز پر خصوصی توجہ دیتے ہیں اور دلوں میں اتنا تقویٰ بھی رکھتے ہیں جو انہیں اپنے گناہوں اور مقتدیوں کے گناہوں سے محفوظ رہنے پر اور خلاف شرع نماز نہ پڑھانے پر مجبور کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محض وہ حافظ قرآن مراد نہیں جو عمل سے کورے ہوں بلکہ قرآن سے حافظ و عالم باعمل مراد ہیں۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے وہی حق دار ہیں جو اس پر عامل ہیں اگرچہ ہمیشہ قرآن نہ پڑھتے ہوں۔ کبھی بے عمل بھی حافظ قرآن ہو جاتے ہیں اور حدود قرآن کو قائم کرنے کی جن کا نام کرنا فرض ہے ذرا پرواہ نہیں کرتے، انہیں نہ ادا قرآن کو بجالانے کی فکر ہے اور نہ لہذا ہی سے بچنے کی پرواہ۔ ایسے حافظ مراد نہیں ہیں اور نہ ایسے حافظوں کے لئے کوئی بزرگی اور عزت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کے حرام حلال کرنے اس لئے ایسے لوگوں کو امام بنانا لوگوں کے لئے جائز نہیں امام اسی کو بنایا جائے جو اللہ کے دین کا عالم باعمل ہو اور اللہ سے سب زیادہ ڈرنے والا ہو اگر اس کے برعکس نااہلوں کو امام بنالیا جائے گا تو قرآن ہی میں گرے گا، تنزل ہی قدم چومے گا، دین بجائے ترقی کے گھٹا ہی جائے گا اور اللہ سے اس کی رضا سے اور اس کی جنت سے دن بدن دوری ہی بڑھتی جائے گی وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ

یقربنی ذلك من اشر خیر من ان اتقدم قوما فیہم  
الوجہ الصدیق رضی اللہ عنہ وان یکون  
تاریخ کتاب اللہ فقیہا فی دین اللہ بصیرا  
بسنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانہ جاء  
فی الحدیث اجعلوا امر دینکم الی فقہائکم  
وائتکم قراؤکم وقال النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم یومکم خیارکم فانہم وفودکم الی اللہ  
عزوجل وانما خصہم صلی اللہ علیہ وسلم  
بذلك لانہما اهل الدین والفضل والعلم  
باللہ عزوجل والخوف من اللہ تعالیٰ الذی  
یعنون بصلواتہم وصلواتہ من خلفہم وتیقون  
ما یلزمہم من وزر النفسہم ووزر من خلفہم  
ان اساءوا فی صلاتہم وما اراد صلی اللہ  
علیہ وسلم بالقراء الحفظۃ للقرآن فحسب  
من غیر ان یعملوا بہ وانما اراد صلی اللہ  
علیہ وسلم العمل بالقرآن مع حفظہ وقد  
جاء فی الحدیث ان احق الناس بهذا القرآن  
من کان یعمل بہ وان کان لا یقرؤہ وقد  
یحفظ القرآن من لا یعمل بہ ولا یعبأ  
باقامة حد و دلا ما فرض اللہ علیہ من  
العمل بہ وما نہاہ من التہی عنہ فلا نعنی  
مخربہ ولا کرامة لہ قال النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم ما آمن بالقرآن من استحل  
مخارمہ فلا یجوز للناس ان یقدموا علیہم  
فی صلاتہما ما مالوا علیہم باللہ و



اخرفهم له فان خالفوا وقد موا غیرہ لم یزلوا  
 فی سفال وادبار انتفاص فی دینہم وبعث من  
 اللہ تعالیٰ ومن رضوانہ وحبنتہ فرحم اللہ  
 قوما اعتنوا بدينہم وصلواتہم فقد موا  
 خیارہم واتبعوا فی ذلک سنة نبیہم صلی اللہ  
 علیہ وسلم وطلبوا بذلک القربة الی ربہم  
 تبارک و تعالیٰ وینبغی ان یکون الامام حافظا  
 للسانہ من عیب الناس علیہ وینبغی ان یشیر  
 الامم الخیر ویکون یا مر بالمعروف وینفعلہ  
 وینہی عن المنکر وینتنبہ وینبغی الخیر واهلہ  
 وینبغی الشرف واهلہ عارفا بسواقیة الصلاة  
 محافظا علیہا مقبلا علی شأنہ عقیف البطن  
 والفرج منقبض الید عن المحرام قلیل السعی  
 الا فی ابتغاء مرضاة اللہ عزوجل قعودا حمو  
 صبوراً علی الاذی یغضی عن الشر وینتہل من  
 یتکلم فیہ ویصبر علی من یجہل علیہ و  
 یحسن الی من اساء الیہ ویکون غفیض الطرف  
 عن المحارم ان رأی عورة سترها وان رأی  
 مخزبة دنہا یعرض عن الجاہلین ویقول  
 اللہم سلاما للناس منہ فی راحة وھو من  
 نفسه فی عناء حریمہ علی فکاک رقبته حجدا  
 فی خلاص نفسه ویعلم انہ قد بلی بشی عظیم  
 جلیل خطرہ بحیر شانہ ولیکن ھمہ ما قد کلف  
 بہ من عظم قدر الامامة وخطر قدرھا و  
 خیرھا قلیل الکلام الا ینبغی ان یشیر لہ حال

کی یہ مرانی ہے کہ وہ اپنے دین کا اور اپنی نمازوں کا خاص طور سے اہتمام  
 رکھتے ہیں اور بہترین لوگوں کو امامت کے لئے منتخب کرتے ہیں اور  
 اس میں بھی اپنے محبوب نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے اپنے  
 رب کا تقرب تلاش کرتے ہیں امام کی شان کے لائق لوگوں کی عیب جوئی  
 اور غیبت نہیں لہذا اس کی زبان لوگوں کی عیب جوئی اور غیبت سے  
 محفوظ رہنی چاہیے ہاں لوگوں کے واقعی محاسن بیان کرے اور شرع  
 کے موافق جن باتوں کا شوق دلاتا ہے ان پر خود بھی سرگرم عمل رہے  
 اور جن باتوں سے نفرت دلاتا ہے ان سے خود بھی محتاط رہے۔  
 اور اپنے دامن عصمت پر دھبہ نہ آنے دے، اسے نیکیوں سے  
 اور نیک حضرات سے محبت ہو اور برائیوں سے اور برے لوگوں سے  
 نفرت ہو، پنجگانہ نمازوں کے اوقات پہچانتا ہو اور نمازوں کی  
 حفاظت کرنیوالا ہو ہمیشہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہے  
 حرام خوری اور حرام کاری سے محفوظ رہے حرام سے ہاتھ سیکڑے  
 رہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ سرگرمی  
 سے عمل پیرا رہے خلوت گزیر اور خوب عمل کرنیوالا ہو ایذا پر  
 انتہائی صابر ہو برائی سے چشم پوشی کرے، اثنائے گفتگو میں تمسک نہ کرے  
 ہو، جہالت سے پیش آئیوں کے کی جہالت پر صبر کرے اور برائی کرنے  
 والے کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھے  
 اور نگاہ نہ پچی رکھے اگر کسی کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈال دے  
 اور اگر کوئی شرمناک بات دیکھے تو اسے دفن کر دے۔ جاہلوں سے  
 منہ پھیر لے اور اللہ سے سلامتی کی دعا مانگے اس سے لوگ سلامت  
 رہیں گزروہ لوگوں کی طرف سے تکلیف میں رہے۔ اپنی گردن  
 چھڑانے میں حریص ہو اور اپنے نفس کو روکائی دلانے میں کوشاں رہے  
 اور یقین کر لے کہ اس پر ایک عظیم شے کا بار ڈالا گیا ہے جو جلیں اللہ  
 اور عظیم المرتبہ ہے اس لئے اس کا دھیان اسی طرف رہے کہ جس

وللناس حال اذا قام في محرابه علما انه قائم في  
مقام النبيين وخليفة سيد المرسلين وينا جى  
رب العالمين يتجرى الاجتهاد تمام الصلاة  
التسليم من خلفه من تقلد امامته خفيف  
الصلاة في تمام يصلي بصلاة اضعفهم فيرى من  
نفسه انه دونهم وانه مبتلى بامامتهم وان  
الله تعالى يباله عن اداء الفرائض عن نفسه وعنه  
وهو يتقدمه بالكلى على خطيئة نادى على ما سئل  
من تفریطه وقد يم آثمه وما التقضى من اوقاته  
لا يتكبر على من خلفه ولا يتخير على من هو دونه  
ولا يتعصب حمية لنفسه اذ قيل ما فيه وما  
هو عنه برى ولا يجب حمد هم ولا يكره  
ذمهم فتكون الجماعة عند في الحالين سواء  
لم يجرب عليه كذبة طيب الطعام نظيف  
اللباس متواضعا في لبسه منخاشعا في جلسته  
غير محدد في الاسلام ولا ذارية في الانام  
ولا غنازا على اخيه عند السلطان ولا تشيع  
اسرار الناس اى لا يفشيها ولا هو ساع الى  
شر الناس ولا ذو حقد في اخيه ولا خائن  
في وديعته وتجارته وعاريتة ولا يتقدم وهو  
خبث المطعم والمكسب ولا يتقدم وهو يعلم ان  
يشتمى الامامة ولا يتقدم وهو يعلم ان  
فيه حسدا ولا بغيا ولا حقد ولا احنة ولا  
غلا ولا دحنا ولا نثرة ولا طالب اثار ولا  
منتصر لنفسه ولا متشفيا من غيظ ولا

عظيم المرتبة او حبل القدر امامت کا بار مجھ پر ڈالا گیا ہے اسے صحیح صحیح انجام  
دوں تاکہ میرا احترام و دنا قائم رہے، کم گو ہوں جس بات کے بغیر  
چارہ نہ ہو وہ ضرور کے امام کا مقام لوگوں کے مقام سے بلند و مختلف ہے  
جب امام اپنی محراب میں کھڑا ہو تو یقین کر لے کہ وہ انبیائے کرام کی اور  
خلفائے عظام کی جگہ کھڑا ہے اور رب العالمین سے مناجات میں معروض  
ہے اس لئے نماز کو تکمیلی مرحلہ تک پہنچانے کے لئے پوری پوری کوشش  
کرے تاکہ اپنی اور اپنے مقتدیوں کی جن کی وہ امامت کر رہا ہے صحیح صحیح  
نماز میں اللہ کے سپرد کر دے۔ امام ہلکی نماز پڑھائے نماز تو ہلکی ہو لیکن  
ارکان نماز میں کمی نہ آنے پائے ایسی نماز پڑھے جیسی کمزور سے کمزور  
آدمی پڑھتا ہے اور خود کو مقتدیوں میں سب سے کمزور سمجھے اور یہ  
خیال کرے کہ امامت اس پر ڈال دی گئی ہے حق تعالیٰ مجھ سے اداء  
فرائض کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے اپنا اور لوگوں کا کس طرح فرض  
ادا کیا امام اپنے گزشتہ گناہوں پر اور قدیم لغزشوں پر نادام و نسیان  
اور روٹا دھوتا رہے اور اپنے گناہوں سے بھرپور دیتے ہوئے زمانہ  
پر آٹھ آٹھ آنسو بہانا رہے یہ خیال نہ کرے کہ میرا مقام بہت اونچا  
ہے اور مقتدیوں سے اپنے کو بڑا نہ سمجھے اور خود کو ان سے اچھا تصور  
نہ کرے اگر اس کے برے اخلاق پر تنقید کی جائے یا بلا وجہ اس کی  
طرف بری باتیں منسوب کی جائیں تو تعصب کو دخل نہ دے اسے  
اپنے بارے میں نہ لوگوں کی تعریف سے خوش ہونا چاہیے اور نہ لوگوں  
کی برائی سے رنجیدہ ہونا چاہیے اس کی نگاہ میں جماعت و دنوں  
حالتوں میں برابر ہے، لوگوں میں ایک جھوٹ بھی اس کا ثابت  
نہ ہو اور اس کا طعام و لباس حلال و پاک ہو لباس سے عاجزی ہکتی  
ہو اور بیٹھنے کی ہیئت سے فروتنی جھلکتی ہو اسلام میں اس پر  
کوئی شرعی حد جاری نہ ہوئی ہو اور نہ لوگوں میں منہم و بدنام ہو  
نہ حکام کے پاس کسی کی چغلی کھانا ہو نہ لوگوں کے اسرار فاش نہ ہوں



متتبعاً عورتاً رجل مسلماً ولا غاشلاً احد من  
امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا یتکلم فی  
فتنۃ ولا یسعی فیہا ولا یقویہا بل یعین اهل  
الحق علی اهل الباطل بیدہ ولسانہ وقلبہ یقول  
الحق وان کان مرا لا تاخذہ فی اللہ لو مۃ  
لائم ولا یجب مدح الناس لہ ولا یکرہ  
ذمہم ولا یخص نفسہ بشیء من الدعاء  
بل یعمم الدعاء لہ ولہم وقت ما یدعو  
فقیب الصلاۃ بہم فان افر د نفسہ بذلک  
کان خیانتہ منہ لہم ولا یؤثر بعضہم علی  
بعض الا اولی العلم کما قال النبی صلی اللہ  
علیہ وسلم لیلینی اولوالارحام والنسبی  
وکذلک الذین یلونہم وراء ظہرہ ولا یقرب  
الغنی ویزری بالفقیر ولا ینبغی لہ ان یتقدم  
بقوم و فیہم من یکرہ امامتہ فان کان  
فیہم من یکرہہ ومن لا یکرہہ نظر فان  
کان اکثر یکرہونہ اعتزل المحراب ولا  
یقربہ ہذا اذا کانت کراہتہم لہ بعلم و  
حق وان کانت یحبہل وباطل ورعونۃ نفس  
او عصبۃ لمذہب او ہوی لم یلتفت الی کراہتہم  
ولا یتزک الصلاۃ بہم الا ان یخاف الفتنة  
فی القوم لاجلہ فیتنحی ویعتزل المحراب لذلك  
حتى یصطلحوا ویرضوا ولا ینبغی لہ ان یكون  
ما ریا ولا حلافا ولا لعاناً ولا یدخل فی  
مداخل السوء والتہم ولا یالف ولا یخالط

ہونہ لوگوں کی شرارت میں حصہ لینے والا ہونہ کسی کا دشمن ہونہ کبھی اس نے  
کسی کی امانت میں خیانت کی ہو اور نہ کسی سے مانگی ہوئی چیزیں یا کاروبار  
میں خیانت کی ہو اگر کسی کا کھانا پینا اور پیشہ گندہ ہو وہ کبھی نماز نہ  
پڑھائے اور نہ امامت کی رغبت کرے اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ مجھ میں  
حسد، بغاوت، کینہ، بغض، تیزی، جھنجھلاہٹ اور انتقامی جذبہ  
وہ کبھی آگے نہ بڑھے اور نہ خون کے انتقام کا خواہشمند امامت کرے  
نہ اپنے نفس کا انتقام لینے والا نہ مغلوب الغضب نہ مسلمانوں میں  
عیب ٹھونسنے والا نہ کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنے والا۔

امام فتنہ کے زمانہ میں زبان سے اچھی یا بری بات نہ نکالے نہ فتنہ  
میں کوشاں ہونہ اس کی قوت کا باعث ہو اور حق والوں کی اپنے  
ہاتھ سے زبان سے اور دل سے اعانت کرے اور حق بات کے  
اگرچہ وہ تلخ ہوتی ہے اسے اللہ کے دین میں کسی ملامت گر کی ملامت کا  
خوف نہ ہو اگر لوگ اس کی تعریف کریں تو اپنی تعریف پسند  
نہ کرے اور اگر برائی کریں تو برا نہ مانے اور خاص طور سے اپنے لئے  
کوئی دعا مانگے بلکہ نماز کے بعد اپنے لئے اور سب کے لئے دعائیں  
مانگے اگر خاص طور سے اپنے ہی لئے دعائیں مانگے گا تو مقتدیوں کے  
حق میں خاص سمجھا جائے گا اور جماعت میں سے بجز علماء کے کسی کو  
کسی پر ترجیح نہ دے جیسا کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ اصحاب عقل و  
دانش کو میرے قریب رہنا چاہیے اسی طرح دوسری صف میں  
امام کے محاذ میں اہل عقل کو رہنا چاہیے امام بالداروں کو مقرب  
نہ بنائے اور ناداروں کو حقیر نہ سمجھے امام کو لائق نہیں کہ جماعت کو  
نماز پڑھائے جب کہ جماعت میں وہ حضرات بھی ہوں جو اس کی  
امامت کو اچھا نہ سمجھتے ہو اگر جماعت اس کے بارے میں قسم کے  
لوگ ہوں کہ بعض تو اسے پسند کرتے ہوں اور بعض ناپسند کرتے ہوں  
تو اکثر کا اعتبار کیا جائے گا اگر اکثر جماعت والے اسے ناپسند کریں

من الناس الا الصالحين ولا ينبغي له ان يكون  
 اما ما هو يجب الفتنة واهلها ثم المعصية  
 واهلها والرياسة واهلها وينبغي ان يكون  
 صبورا على اذية الناس متوهدا اليهم طالبا  
 لمنفعتهم مجتهدا في نصيحتهم لا يباري على  
 الامامة ولا يقاتل عليهم من كفاة مؤتمها  
 ولقد نقل عن الكاظم من تقدم من السلف  
 الصالحين انهم كرهوا الامامة وقد موا  
 من ليس هو مثلهم في الشرف والديانة  
 ابتغاء حمل المؤنة عنهم وتخفيفا وخيفة من  
 تقصير يقع لهم وينبغي للامام اذا حضر عند  
 ذو سلطان ان لا يتقدم عليه في الصلاة الا  
 باذنه وكذلك لا يجلس الا باذنه واذا  
 نزل بقرية او محلة او قبيلة اوحى من احياء  
 العرب لا يؤمهم الا باذنه وكذلك اذا  
 اتفق مع قوم في قافلة وسفر وجمع التمام لا  
 يؤمهم الا باذنه وينبغي للامام ان لا يطيل  
 الصلاة بل يخففها مع التمام لما روى عن  
 ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم اماما  
 فليخفف فانه ليقوم وراء الصغير والكبير  
 وذو الحاجة واذا صلى لنفسه فليقل ما شاء  
 وعن ابي واقد رضي الله عنه قال كان رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم من اوجز الناس صلاة  
 على الناس وادومه على نفسه -

تو امامت سے دستبردار ہو جائے اور محراب کے قریب بھی نہ جائے یہ حکم اس وقت  
 ہے جب اکثر دلیل و حق کی بنا پر اسے ناپسند کرتے ہوں لیکن اگر کراہت  
 بلا دلیل و حق کے ہو یا ذاتی عداوت یا مذہبی تعصب یا ہونے لفسانی کی  
 وجہ سے ہو تو کراہت کی پروا نہ کرے اور نماز پڑھتا رہے لیکن اگر اس  
 کی وجہ سے قوم میں فتنہ کا اندیشہ ہو تو امامت سے اور محراب سے دستبردار  
 ہو جائے حتیٰ کہ جماعت میں صلح ہو جائے اور اس کی امامت سے راضی  
 ہو جائیں، امام جھگڑنے والا بہت قسمیں کھانیو الا اور طعن و تشنیع کرنے  
 والا نہ ہو اور برائیوں اور تمسٹوں کے مقامات سے کنارہ کش رہے، امام سلمیٰ  
 ہی سے محبت کرے اور انہیں کے پاس اٹھے بیٹھے اور انہیں سے گلے لے  
 ایسے لوگوں کو امام نہیں بننا چاہیے جو شر کو اور شر پسندوں کو محبوب رکھتے  
 ہو اسی طرح جو گناہ کو اور گناہگاروں کو اور ریاست و رؤسا کو محبوب  
 رکھتے ہوں، وہ بھی امام نہ بنیں، امام کو لوگوں کی ایذا پر بڑا صابر رہنا  
 چاہیے پھر ایذا کے باوجود ان سے محبت کرنے ان کا مخلص خیر خواہ ہوا اور  
 ان کی ہمدی میں انتہائی کوشاں رہنا اور امامت پر جھگڑا نہ کرے اور اہل  
 امامت سے امامت پر جنگ نہ کرے۔ سلف صالحین امامت کو کمر و  
 سمجھتے تھے اور اسے آگے بڑھا دیا کرتے تھے جو بزرگی اور دینداری میں ان  
 سے نیچے درجے کا ہو کرتا تھا تاکہ جماعت کا بوجھ اٹھانا نہ پڑے اور بکے  
 پھلکے رہیں اور انہیں اپنی کوتاہیوں کا بھی ڈر رہتا تھا۔ امام کو لائٹ ہے  
 اگر کوئی صاحب اقتدار جماعت میں موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر  
 آگے نہ بڑھے اسی طرح اس کے حکم کے بغیر امامت نہ چھوڑے اگر امام  
 کسی قصبہ میں یا محلہ میں یا چھوٹے قبیلہ میں یا کسی بڑے قبیلہ میں ٹھہرے  
 تو ان کی اجازت کے بغیر نماز نہ پڑھائے اسی طرح اگر آفتان سے  
 کسی قافلہ میں یا کسی سفر میں یا بڑے اجتماع میں امام موجود ہو تو  
 ان کی اجازت کے بغیر نماز نہ پڑھائے۔ امام کو لائٹ ہے کہ لمبی نماز  
 نہ پڑھائے بلکہ لہن نماز پڑھائے مگر پوری نماز ہو کیونکہ حضرت ابو بکر



**فصل** : ویذبحی للامام ان لا یدخل فی الصلا  
 ولا یکبر حتی ینوی الامامة بقلبه وان تلفظ بلسا  
 نه  
 کان احسن ویلتفت ببینا و شمال فیسوی الصفو  
 ف یقول استقیموا یرحمکم اللہ اعتد لوا رضی اللہ  
 عنکم ویامرہم بسند الفرج و تسویۃ المناکب  
 و ذلوا بعضہم من بعض حتی تتناس مناکبہم  
 لان اختلاف المناکب و اعوجاج الصفوف  
 نقص فی الصلا و حضور الشیاطین و  
 فیامہم مع الناس فی الصفوف جاء فی  
 الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
 راموا الصفوف و حاذوا المناکب و سدوا  
 الخلل حتی لا یقوم بینکم مثل اولاد الحد  
 یعنی مثل اولاد الغنم من الشیاطین و قد  
 کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام  
 الی الصلا لم یرکب حتی یتلفت ببینا  
 و شمال فیامرہم بتسویۃ مناکبہم و یقول  
 لا تختلفوا فتختلف قلوبکم و رأی صلی اللہ  
 علیہ وسلم یومار جلا قد خرج صدرا من  
 الصف فقال لتسوں مناکبکم اولیخالفن  
 اللہ تعالیٰ بین قلوبکم و فیما اتفق علیہ مسلم  
 و البخاری رحمہما اللہ عن سالم بن ابی الجعد  
 رحمہ اللہ قال سمعت النعمان بن بشیر  
 رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم یقول لتسوں صفوفکم اولیخالفن  
 اللہ تعالیٰ بین وجوهکم و فی حدیث آخر

بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی امام ہو تو  
 اسے ہلکی نماز پڑھانی چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے چھوٹے بڑے اور  
 ضرورت مند شہرہم کے لوگ ہوتے ہیں ہاں اپنی ذاتی نماز کو جس قدر  
 چاہے طویل پڑھ لے۔ ابو داؤد:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ  
 انتہائی مختصر نماز پڑھا یا کرتے تھے۔

کیا امام مقتدیوں کی نیت کرے؟ | امام جب تک اپنے دل سے  
 امامت کی نیت نہ کرے نیت نہ باندھے اور اگر دن کے ساتھ ساتھ نماز  
 سے بھی نیت کرے تو نور علی نور نیت باندھنے سے قبل دائیں بائیں صفوں  
 کو دیکھ لیا جائے اور صفیں سیدھی کر دے اور کسے برابر ہو جاؤ تم پر  
 اللہ کی نوازش ہو، صفیں سیدھی کر لو حق تعالیٰ تم سے راضی ہو اور  
 لوگوں کو حکم کرے کہ درمیان کی کشادگی بند کر دو، کندھے ایک محاذ  
 میں کر لو اور اس طرح مل کر کھڑے ہو کہ کندھے سے کندھے مل جائیں  
 کیونکہ کندھوں کا آگے پیچھے رہنا اور صفوں کا پیرھا ہونا نماز میں  
 کمی کا موجب ہے اور شیطان آدھکتے ہیں اور صفوں میں لوگوں کے  
 ساتھ مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا کہ صفیں ملا لو اور کندھے بالمتقابل رکھو اور صفوں کے درمیان خالی  
 جگہ بند کر دو تاکہ تمہارے درمیان بکری کے بچوں کی طرح شیطان نہ کھڑے  
 ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو جب تک  
 آپ دائیں بائیں دیکھ کر لوگوں کے کندھے سیدھے نہ کر لیا کرتے تھے  
 نیت نہیں باندھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ الگ الگ نہ کھڑے  
 ہو ورنہ تمہارے دل الگ الگ ہو جائیں گے۔ ایک دن آپ نے ایک  
 شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صاف سے نکلا ہوا ہے فرمایا: کندھے برابر  
 کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا فرمادے گا۔  
 سالم بن ابی الجعد: میں نے نعمان بن بشیر سے سنا فرماتے تھے کہ  
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی صفیں برابر کر لو ورنہ حق تعالیٰ تمہارے

عن قتادہ عن النس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ وجاء عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ کان اذا قام مقام الامام لا یکبر حتی یاتیہ رجل قد وکلہ باقامة الصفوف فیخبرہ انہم قد استووا فیکبر حیث یشاء وکذلک کان یفعل عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ وروی ان بلال المؤمن رضی اللہ عنہ کان لیسوی الصفوف یرب عراقیبہم بالذکر حتی یتودا وقال بعض العلماء ان الظاہر من ہذا انہ کان یفعل ذلک علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند اقامتہ قبل ان یدخل فی الصلاۃ لان بلال رضی اللہ عنہ لم یؤذن لاحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یوما واحد عند مرجعہ من الشام فی زمن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بسوال الصحابۃ رضی اللہ عنہم شوقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعہدہ فلما بلغ بلال رضی اللہ عنہ الی قولہ اشہد ان محمد رسول اللہ امتنع من الاذان فلم یقل علیہ فستقط مغشیا علیہ حب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشوقا الیہ واشتد عند ذلک نعاء اهل المدینۃ من المهاجرین والانصار حتی خرجت العوائق من صدورہن شوقا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

چہرہ میں اختلاف پیدا فرمادے گا۔ (بخاری و مسلم)  
 قتادہ از انس بن مالک : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر کر لو کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کا تتمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر نہیں کہا کرتے تھے جب تک وہ شخص جس کو آپ نے صفوں کو سیدھا کرنے پر متعین فرمایا تھا، اگر آپ کو یہ خبر نہیں دیتا تھا کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں یہ خبر سن کر آپ تکبیر کہا کرتے تھے اسی طرح عمر بن عبد العزیز کیا کرتے تھے منقول ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کیا کرتے تھے اور ایڑیوں پر در سے مارا کرتے تھے حتیٰ کہ لوگ سیدھے ہو جایا کرتے تھے۔ علماء کی رائے ہے کہ بظاہر حضرت بلال ایسا عند رسالت میں نیت باندھنے سے پہلے کیا کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے عند صدیقی میں شام سے واپس آنے کے بعد صرف ایک دن اذان دی تھی جب کہ حضرت ابو بکر نے اور صحابہ کرام نے آپ سے اذان کی درخواست کی تھی تاکہ بلال کی اذان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے زمانہ کی یاد تازہ ہو جائے پھر جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اذان نہ دے سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور مدینہ کے مہاجرین و انصار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے حتیٰ کہ شوق حضرت رسالت میں پر وہ تئیں نوجوان خواتین بھی اپنے اپنے پر دوں سے نکل آئیں اس سے معلوم ہوا کہ بلال صفوں کو سیدھا کرنے کے لئے لوگوں کی ایڑیوں پر عند رسالت میں در سے مارا کرتے تھے۔  
 امام کو چاہیے کہ تہذیب کے طاق میں پورا داخل نہ ہو کہ مقتدی اسے دیکھ نہ سکیں بلکہ طاق سے قدر سے باہر رہے۔ ہمارے امام احمد سے ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ امام کا طاق قبلہ میں کھڑا ہونا مستحب ہے امام مقتدیوں سے اونچا کھڑا نہ ہو اگر ایسا کرے گا تو



ثبت بذلك ان ضربت لعراقيب الناس كان على  
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي  
للامام ان لا يدخل طاق القبلة فيمنع من ورائه  
رؤيته بل يخرج منه قليلا وعن امامنا احمد  
رحمه الله رواية اخرى انه يستحب قيامه فيه  
ولا يقف مقاما اعلى من مقام المأمومين فان  
فعل ذلك قيل تبطل صلاته على وجه وينبغي  
له اذا سلم من صلاته ان لا يلبث في محرابه  
وليقيم وليتخ الى يسار له فليات بتفله ناحية  
من المحراب لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله  
عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا  
يتطوع الامام في مقامه الذي يهلي فيه  
بالناس المكتوبة واما المأموم فيثقل ذلك  
وهو مخير ان شاء صلى في موضعه او يتأخر قليلا  
وينبغي ان تكون له سكتتان سكتة عند  
افتتاح الصلاة وسكتة اذا فرغ من القراءة  
قبل ان يركع حتى يتنفس ويسكن وهم قراءته  
ولا بعد من قراءته تكبيرة الركوع لان ذلك  
مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث  
سمره بن جندب رضي الله عنه وينبغي  
اذا صلى الى ستره ان يبذل ثوبها ولا يمد  
بينه وبينها فرجة لعيد له لئلا يرب بينها  
كلب اسود بهيم او حمار او امرأة فان صلا  
تقطع بذلك عند احمد امامنا رحمه الله و  
عنه في المرأة والحمار رواية اخرى لا بأس

بعض کے نزدیک ایک روایت کی رو سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔  
امام سلام پھیر کر (زیادہ دیر تک) محراب میں نہ ٹھہرے بلکہ اپنی بائیں  
طرف ہٹ کر محراب کے ایک گوشہ میں نوافل پڑھے۔ کیونکہ حضرت  
مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس جگہ  
نوافل نہ پڑھے جہاں وہ لوگوں کو فرض نماز پڑھاتا ہے لیکن ایسا  
مقتدی کے لئے جائز ہے اسے اختیار ہے خواہ اسی جگہ سنتیں پڑھے  
جہاں فرض پڑھے ہیں یا قدرے اس جگہ سے ہٹ جائے۔

امام کو دو رکعت کرنے چاہیں ایک سکتے تو نماز کے شروع کرنے کے  
وقت اور دوسرا سکتے قرأت سے فارغ ہو کر رکوع میں جائے  
قل تا کہ سانس لے لے اور قرأت کے شور سے سکون حاصل ہو  
جائے۔ اور قرأت کو رکوع کی تکبیر سے نہ ملائے کیونکہ ایک حدیث میں  
ایسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور اس حدیث  
کے راوی حضرت سمرہ بن جندب ہیں۔

اگر امام کے سامنے سترہ ہو تو امام کو چاہیے کہ سترہ کے قریب کھڑا  
ہو اور اپنے اور سترہ کے درمیان لمبا فاصلہ نہ چھوڑے تاکہ دونوں  
کے درمیان سے مطلق سیاہ کتیا یا گدھایا عورت نہ گزرے کیونکہ  
ہمارے امام احمد کے نزدیک ان چیزوں سے اس کی نماز کٹ جاتی ہے  
امام موصوف سے ایک روایت کی رو سے عورت اور گدھے سے  
نماز نہیں کٹتی۔

امام کو رکوع میں تیسبیس پڑھنی چاہئیں جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر  
آئے ہیں تیسبیس پڑھنے میں جلدی نہ کرے اور انہیں تیزی سے نہ  
پڑھے بلکہ آہستہ آہستہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کیونکہ اگر امام  
جلدی جلدی تیسبیس پڑھے گا تو مقتدی اس کے ساتھ ساتھ نہ  
رہیں گے اور وہ بھی جلدی کریں گے اس طرح امام سے مقتدیوں کا  
ہم بڑھنا لازم آئے گا اور ان کی نماز ناسد ہوگی جس کا وبال امام پر

اسی طرح جب امام سمع اللہ من حمدہ کتا ہوا رکوع سے سر اٹھائے تو بالکل سیدھا ہو کہ کھڑا ہو جائے اور آرام سے رہنا وک الحمد کے حتیٰ کہ اسے مقتدی کھڑا ہوا پائیں اگر وک الحمد کے بعد ملا السموات و ملا الارض و ملا ما شئت من شیء بعد یعنی اسے اللہ آسمان و زمین بھر کر اور ان کے بعد تیری مشیت کے مطابق مخصوص چیز بھر کر تیرے لئے بڑا کیا ہے (بھی پڑھ لے تو جائز ہے کیونکہ یہ دعائیہ اگر صلعم سے ثابت ہے۔ علاوہ ازیں انس بن مالک کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلعم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ یہ گمان کر لیا جاتا کہ آپ بھول گئے ہیں اسی طرح سجدہ میں اور تعدہ میں دیر تک بیٹھا کرتے تھے تاکہ اس حالت میں آنے والے آپ کو پا کر آپ کے ساتھ مل جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام ایسا کرے گا تو مقتدی کی امام سے پہلے لازم آئے گی اور مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ وہ بار بار امام سے سبقت کرے گا اور بار بار کی سبقت فساد نماز کو لازم ہے مگر یہ قول ناقابل تسلیم ہے کیونکہ جب مقتدی اس پر امام کی ہمیشگی دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس کا طریقہ ہے تو مقتدی اس کے لئے کھڑے رہیں گے اور جلدی نہیں کریں گے۔

امام کے لئے مستحب ہے کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو متنبہ کر دے اور انہیں ڈرا دے کہ مجھ سے پہلے نماز کے کسی رکن میں پہل نہ کرنا تاکہ لوگ احتیاط سے نماز پڑھیں اور نماز میں فساد نہ آنے پائے اور عوام کی نماز مکمل رہے ایسا کرنے میں عوام کے لئے مصلحت ہے ایک حدیث میں ہے کہ ہر نماز پڑھانے والا ہنزلہ چروا ہے کہ ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں

بہما وینبغی لہ اذا رکع ان یسبح لہ ثلاث تسیبات علی ما ذکرنا ولا یسرع فیہا ولا یبادر ولیکن یتسام من کلامہ ویتشد ویسکن لانہ اذا اسرع بالتسبیح لم یدرکہ من خلفہ فیوردی ذلک الی مسابقة المامومین فتفسد صلاتہم فیرجع وزرہما الیہ وکذلک ینبغی لہ اذا رفع رأسہ من الرکوع وقال سمع اللہ من حمدہ ثبت قائما معتدلا ویقول ربنا وک الحمد من غیر عجلۃ فی کلامہ حتی یدرکہ المامومون وان زاد علی ذلک فقال مل و السناء ومل و الارض ومل و ما شئت من شیء بعد جاز لان ذلک مروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجاء عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسہ من الرکوع یقوم حتی یقال قد نسی وکذلک یتبیت فی السجود و فی جلستہ بین السجدتین لیدرکہ من خلفہ فی الرکن ولا نظر الی قول من یقول اذا فعل ذلک سبقہ الماموم فبطلت صلاتہ اذا تکرر ذلک منہ ففی ذلک فساد لان الناس اذا رأوا لا یدیر ذلک و یواظب علیہ علموا ان التثبیت دا بہ تثبتوا لہ ولم یبادروا ثم یقال للامام یتعجب لک ان تخرفہم قبل الشروع فی الصلاۃ و تخذرہم من مسابقتک علی ما نذکرہ فی الفصل الذی یلیہ فلا یوردی ذلک الی فساد بل الی مصلحتہ عامۃ و تمام



صلاة الجميع وقد جاء في الحديث ان كل مصل  
راع ومسئول عن رعيتيه وقيل ان الامام راع  
لمن يصلي بهم فعلى الامام النصيحة لمن يصلي  
خلفه وبينها هم عن المسابقة في الركوع و  
السجود ويحسن ادبهم اذ هو راع لهم ومسئول  
غد اعنهم وقيم صلاته ويمكها ويحسنها  
حتى يكون له مثل اجر من يصلي خلفه والا  
عليه مثل اوزارهم اذ اساء وقصر

فصل في رجب على الساموم ان ينوي الاتمام  
ويقف على يمين الامام ولا يقف قد امه  
ولا عن ياراه فان كالتواجماعة فالسنة عن  
يقفوا خلفه فان كبر عن يمينه وجاء آخر فانه  
يكبر معه صفاتم غير جان وراء الامام  
فان كبر الثاني اخرجهما الامام بيد لا  
يتقدم هر عن موضعه الا ان يكون وراعه  
فيتق واذا حضر الجماعة فوجد في الصف فرجة  
دخل فيها وان لم يجد وقف عن يمين الامام  
ولا يجذب رجلا فيقوم معه صفالانه يودي  
الى الهرج والفتنة والبغضاء والعداوة ولا  
يودي ذلك الى بطلان صلاة المجدوب لانه  
يصبر فخذ اسن لك وذلك يبطل الصلاة عندنا  
ولكن يجتهد فيحصل كتفيه في الصف فيجبر  
ويجزم بالصلاة ثم يخرج مع واحد منهم  
الى وراء الصف واذا دخل المسجد والامام  
في الركوع كبر تكبيرتين احداهما للاحرام

باز پرس کی جائے گی کہا جاتا ہے کہ امام مقتدیوں کا چر دا ہے  
لہذا امام پر لازم ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیر خواہ رہے اور  
انہیں آگاہ کر دے کہ رکوع اور سجدے وغیرہ میں اس سے سنت  
نہ کریں اور انہیں نماز کے اصول و آداب بتادے کیونکہ وہ ان کا چر دا  
ہے اور اس سے ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے  
والا ہے لہذا انہیں مکمل بخوبی نورت اور مستحکم نماز پڑھانے تاکہ اسے  
بھی مقتدیوں جیسا اجر ملے ورنہ کوتاہی کی اور بری طرح نماز پڑھانے  
کی صورت میں مقتدیوں کی برابر اس پر بھی گناہ ہے۔

مقتدیوں کو ہدایات مقتدی کا فرض ہے کہ امام کی اقتداء کی نیت  
کرے اور امام کی دائیں جانب کھڑا ہو اس کے آگے یا اس کی بائیں  
جانب کھڑا نہ ہو اگر مقتدی ایک سے زیادہ ہوں تو سنت یہ ہے کہ  
امام کے پیچھے کھڑے ہوں اگر امام ایک مقتدی کی نیت کر کے نیت  
باندھ لے اور دوسرا مقتدی آجائے تو دونوں مقتدی امام کے  
پیچھے کھڑے ہوں اگر دوسرا بھی امام کے پاس کھڑا ہو کہ نیت باندھ  
لے تو اپنے ہاتھ سے انہیں پیچھے کر دے اور امام اپنی جگہ چھوڑ کر آگے  
نہ بڑھے البتہ اگر امام کے پیچھے جگہ تنگ ہو تو پھر امام آگے بڑھ سکتا  
ہے اگر کوئی جماعت میں شامل ہونا چاہے اور صف میں اتنی جگہ ہو کہ  
وہ کھڑا ہو سکے تو وہاں کھڑا ہو جائے اور اگر جگہ نہ ہو تو امام کی بائیں  
جانب کھڑا ہو جائے اور آگے سے پیچھے کسی آدمی کو نہ کھینچے تاکہ صف  
بن جائے کیونکہ اس سے فتنہ و فساد کا اور بغض و عداوت کا ڈر ہے  
علاوہ اس سے پیچھے کھینچے جانے والے شخص کی نماز باطل ہو جاتی ہے  
کیونکہ اس کا کرنے والا ایک ہی شخص ہے اور یہ فعل ہمارے نزدیک  
نماز کو باطل کر دیتا ہے لیکن اس آنے والے کو حتی الامکان صف ہی  
میں کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ  
اور کسی شخص کو صف کے پیچھے کھینچ کر صف نہ بنائے اگر کوئی اس حال

والاخری للركوع فان كبر واحدا وثراهما  
جازوا اذا دخل والامام في التشهد الاخير  
استحب له ان ينوي الصلاة ويكبر ويجلس  
مع الامام ليدرك فضل الجماعة فاذا سلم  
الامام بنى على تكبيرته وصلى -

**فصل :** وينبغي للمأموم ايضا ان لا يسبق  
الامام في التكبير ولا في الركوع والسجود ولا  
في الرفع منهما ويجوز ذلك جدا ويجتهد  
بسعده ويبذل فاقتنه ان تكون افعاله جميعها  
في الصلاة عقيب فعل امامه وقد جاء في ذلك  
احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  
وعن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين  
من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم  
انه قال اما يخاف الذي يرفع راسه قبل  
الامامة ان يحول الله راسه راس خمار في  
حديث اخر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال  
الامام يرجع قبلكم ويبعد قبلكم ويرفع  
قبلكم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما  
قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان  
اذا انحط من تياممه لا يجني احد منا ظهرا  
حتى يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم  
جبهته على الارض وكان اصحاب رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يثبتون خلفه تيامنا  
حتى ينحط النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر  
ويضع جبهته على الارض وهم تيامم ثم

میں مسجد میں آتا ہے کہ امام حالت رکوع میں ہے تو دو تکبیروں کے  
ایک تکبیر تحریر اور ایک رکوع کی تکبیر اگر ایک ہی تکبیر سے دونوں کی  
نیت کرے تو جائز ہے اگر کوئی اس حال میں آئے کہ امام اخیر کے  
تشہد میں ہو تو اسے مستحب ہے کہ نماز کی نیت کرے اور تکبیر کے اور امام کے ساتھ  
پیٹھ جائے تاکہ جماعت کا ثواب پائے پھر جب امام سلام پھیر دے  
تو نماز پڑھے اور سابق تکبیر پر قناعت کرے۔

**ہفتادہویوں کے آداب** | مقتدیوں کا فرض ہے کہ نماز کے ہر رکن  
میں خواہ تکبیر ہو یا رکوع اور سجدہ وغیرہ ہو امام سے سبقت نہ کریں  
اور اس سلسلہ میں خاص طور سے احتیاط برتیں اور مقدور بھر یہ کوشش  
کریں کہ نماز میں ہمارے تمام افعال امام کے افعال کے بعد سرزد  
ہوں اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں وارد ہیں اور  
صحابہ سے آثار بھی منقول ہیں ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا اکیا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اللہ سے  
اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گھسے کے سر جیسا بنا  
دے، ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام تم سے پہلے  
رکوع و سجدہ کرتا ہے اور سر اٹھاتا ہے۔ براؤ بن عازب: ہم نبی اکرم  
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے پھر جب آپ قیام سے سجدے میں جاتے تھے  
ہم میں کوئی اپنی پشت نہیں موڑتا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھتے تھے صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے  
رہا کرتے تھے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے اور  
اپنی پیشانی زمین پر اس حال میں رکھ دیتے کہ صحابہ کھڑے ہوئے  
ہوتے پھر وہ آپ کے بعد سجدے میں جاتے۔

صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم ہنوز سجدے ہی میں ہوتے تھے۔  
انس بن مالک: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا



یتبعونہ وقد جاء عن الصحابة رضی اللہ عنہم  
انہم قالوا لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم یستوی قائماً وابتاسجد بعد وعن النبی بن  
مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم اما یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام  
ان یجول اللہ رأسہ حماراً وراس خنزیر  
وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت ابا  
القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول اما یخشی الذی  
یرفع رأسہ قبل الامام ان یجول اللہ رأسہ راس  
حمار وروی ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ نظر  
الی من سبق الامام فقال لا وحدثک صلیت  
ولا بامامک اقتدیت والذی لم یصل وحدثک  
ولہ اقتد بامامہ فذلک الذی لا صلاح لہ  
وکذلک روی ان ابن عمر رضی اللہ عنہما نظر  
الی من سبق الامام فقال لہ ما صلیت وحدثک  
ولا صلیت مع الامام ثم ضربہ وامرہ ان یعید  
السلامة وعن ابی صالح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ  
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما  
جعل الامام لیرتبه فاذا کبر فکبروا و  
اذا رکع فارتکعوا واذ ارفع رأسہ فارتفعوا  
وإذا سکنوا اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ لا تقولوا  
جميعاً بذاك الحمد واذ اسجد فاسجدوا  
ولا تسجدوا قبل ان یسجدوا واذ ارفع رأسہ  
فارتفعوا ورسکم ولا ترتفعوا ورسکم قبل ان  
یرفعوا واذ اهلوا جالساً فجلسوا

کیا وہ شخص نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے کہ اللہ  
تعالیٰ اس کا سر گدھے کے پاس رکھے سر میں تبدیل فرما دے؟  
ابو ہریرہؓ :- میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے  
سنا فرماتے تھے (حسب سابق حدیث ہے)

منقول ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو  
دیکھا کہ امام سے سبقت کر رہا تھا فرمایا کہ نہ تو تو نے تنہا نماز  
پڑھی اور نہ امام ہی کی پیروی کی اور جو شخص نہ تنہا نماز پڑھے  
اور نہ امام کی پیروی کرے اس کی نماز نہیں۔

اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ  
امام سے جلدی کر رہا ہے، فرمایا: نہ تو تو نے تنہا نماز پڑھی  
اور نہ اپنے امام کی اقتدا کی پھر آپ نے اسے مارا اور نماز دوبارہ  
پڑھنے کا حکم فرمایا۔

ابوصالح از ابو ہریرہؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کسی  
لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے لہذا اس کی تکبیر کے  
بعد تم تکبیر کرو، اس کے رکوع کے بعد تم رکوع کرو، اس کے سر  
اٹھانے کے بعد تم اپنے سر اٹھاؤ، اس کے سمع اللہ لمن حمدہ  
کہنے کے بعد تم سب ربنا لک الحمد کہو، اس کے سجدہ کرنے کے بعد  
تم سجدہ کرو اور اس کے سر اٹھانے کے بعد تم اپنے سر اٹھاؤ  
اس سے پہلے اپنے سر نہ اٹھاؤ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو  
تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ حکم کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے  
تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز سے  
منسوخ ہے کیونکہ آپ نے مرض الموت میں بیٹھ کر نماز پڑھا  
اور صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔

ہمارے امام ابو عبد اللہ احمدؒ اپنے ایک رسالہ میں اپنی اسناد سے  
ابو موسیٰ صحابی سے فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں

رووی امامنا ابو عبد اللہ احمد رحمہ اللہ فی رسالۃ لہ باسنادہ عن ابی موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا ملائتنا وعلینا ما نقول فیہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر الامام فکبروا واداءوا قرأتنا فافتوا واداءوا قال غیر المغضوب علیہم ولا المناہین نقولوا آمین یتجیب اللہ تعالیٰ لکم واداءوا کبر فکبروا واداءوا رفع راسہ فقال سمع اللہ لمن حمدہ فارفعوا رؤسکم وقولوا اللہم ربنا لک الحمد یرسم اللہ لکم واداءوا کبر وسجد فکبروا واسجدوا واداءوا رفع راسہ وکبر فارفعوا رؤسکم وکبروا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلك تبتک واداءکان فی القعدۃ فلیکن من قول احدکم التحیات لله والصلوات والطیبات حتی تفرغوا من التشہد قال الامام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ واماننا علی مذہبہ اصلا وفرعاً وحشرنا فی زمیرتہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فکبروا معنا ان ینتظروا الامام حتی یکبر ویفرغ من تکبیرہ ویقطع صوتہ ثم یکبرون بعدہ والناس یغلطون فی ہذا الاحادیث ویجہلونہا مع علیہ عامتہم من الاستخفاف بالصلوات والاستہانۃ بہا فتارۃ یأخذ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں نماز سکھائی اور نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں بھی سکھائیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام تکبیر کے لئے اس کے بعد تم بھی تکبیر کرو اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا المناہین کے لئے تو تم آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا اور جب وہ تکبیر کے لئے تو تم تکبیر کرو اور جب وہ سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ کے لئے تو تم اپنے سر اٹھا کر کہو ربنا لک الحمد جن تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا اور جب وہ تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے تو تم تکبیر کرتے ہوئے سجدے میں جاؤ اور جب وہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائے تو تم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقفہ کی تلا فی اس وقفہ سے ہو جائے گی اور تم امام کے ساتھ ساتھ رہو گے پھر جب تم تشہد کے لئے بیٹھو تو یہ تشہد التحیات لله والصلوات الخ پڑھو حتیٰ کہ تشہد سے فارغ ہو جاؤ امام احمد بن حنبل شیبانی رحمہ اللہ نے ہمیں اصل وفرع کے اعتبار سے آپ کے مذہب پر موت دے اور ہمیں آپ ہی کی جماعت میں اٹھائے آمین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حکم کا کہ جب امام تکبیر کہے چکے تو تم تکبیر کرو یہ مطلب ہے کہ مقتدی امام کا انتظار کریں کہ وہ تکبیر کے لئے اور تکبیر کہے کہ فارغ ہو جائے اور اس کی آواز ختم ہو جائے پھر مقتدی تکبیر میں کہیں۔ لوگ ان احادیث میں غلطیاں کرتے ہیں اور ان کے مطالب سے جاہل ہیں حالانکہ عوام کا یہ حال ہے کہ وہ نماز کو ایک معمولی فعل سمجھتے ہیں اور حقیر جانتے ہیں کہ امام کے ساتھ ساتھ تکبیر میں کہہ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے انہیں اس وقت تکبیر کہنی لائق ہے جب امام تکبیر کہے چکے اور اس کی آواز ختم ہو جائے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام تکبیر کے لئے تو تم تکبیر کرو کیونکہ جزا شرط کے بعد آتی ہے



الامام فی التکبیر فیاخذون معه فی التکبیر  
 وهذا خطأ لا ينبغي لعم ان ياخذوا في التکبیر  
 حتى يكبر الامام ويفرغ من تكبیره ولا يتقطع  
 موته وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم  
 اذا كبر الامام فكبروا والامام لا يكون  
 مكبرا حتى يقول الله اكبر لان الامام لو قال  
 الله ثم سكت لا يكون مكبرا حتى يقول الله  
 اكبر فيكبر الناس بعد قوله الله اكبر فاخذهم  
 في التکبیر مع الامام خطأ وترك لقول النبي  
 صلى الله عليه وسلم لا تك لو قلت اذا صلى فلا  
 كلمته كان معناه ان انتظره حتى اذا صلى  
 وفرغ من صلاته كلمته وليس لك ان تكلمه  
 وهو يصلي وكذلك معنى قول النبي صلى الله عليه  
 وسلم اذا كبر الامام فكبروا وربما طول  
 الامام في التکبیر اذا لم يكن له فقه والذي  
 يكبر معه ربما جزم التکبیر ففرغ من التکبیر  
 قبل ان يفرغ الامام فقد صار هذا مكبرا  
 قبل الامام ومن كبر قبل الامام فليست  
 له صلاة لانه دخل في الصلاة قبل الامام  
 وكبر قبل الكلام فلا صلاة له وقول النبي  
 صلى الله عليه وسلم اذا كبر وركع فكبروا  
 واركعوا معناه ان ينتظروا الامام حتى  
 يكبر ويركع ويتقطع صوته وهم قيام يتبعونه  
 وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفع  
 راسه وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا

اور امام اس وقت تک تکبیر کئے والا قرآن نہیں دیا جانا جب تک  
 اللہ اکبر نہ کہے کیونکہ اگر امام اللہ اکبر کہے کہ خاموش ہو جائے  
 تو تکبیر نہیں کہلائے گا جب تک اللہ اکبر نہ کہے لہذا امام کے  
 اللہ اکبر کہنے کے بعد مقتدیوں کو اللہ اکبر کہنا چاہیے لہذا امام کے  
 ساتھ تکبیر کہنا عظیم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس  
 قول رکہ جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو کہ نظر انداز کر دینا ہے  
 کیونکہ اگر تم کسی سے کہو کہ جب فلاں نماز پڑھ لے تو اس سے باتیں  
 کرو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ابھی انتظار کرو حتیٰ کہ جب  
 نماز سے فارغ ہو جائے اور سلام پھیر دے تو اس وقت اس سے  
 باتیں کر لینا اس جملہ کی رو سے فلاں سے نماز کی حالت میں باتیں کرنا  
 تمہارے لئے جائز نہیں ٹھیک تمہارے اسی جملہ کی طرح نبی اکرم  
 صلعم کا مذکورہ بالا جملہ ہے۔ نا سمجھ اور جاہل امام اکثر اللہ اکبر کہ  
 طول دے کہ پڑھا کرتے ہیں اور وہ مقتدی جو امام کے ساتھ تکبیر  
 کہتے ہیں جلدی سے تکبیروں سے فارغ ہو جاتے ہیں حالانکہ امام کی  
 تکبیر ختم ہونے نہیں پاتی اس طرح ان کی امام سے سبقت لازم آتی  
 ہے جو منع ہے اور ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ نماز میں امام  
 سے پہلے داخل ہو گیا اور اس نے امام سے پہلے نیت باندھ لی اس لئے  
 اس کی نماز نہیں۔ نبی اکرم صلعم کے اس قول کا رد کہ جب امام تکبیر کہے  
 اور رکوع کر لے تو تم تکبیریں کہو اور رکوع کرو یہ مطلب ہے کہ  
 مقتدی امام کا انتظار کریں حتیٰ کہ وہ تکبیر کہے کہ رکوع میں چلا جائے  
 اور اس کی آواز ختم ہو جائے اور ہنوز مقتدی کھڑے ہوں پھر  
 تکبیریں کہے کہ رکوع میں جائیں اور نبی اکرم صلعم کے اس قول کا  
 رد کہ جب امام رکوع سے اپنا سر اٹھائے اور سمع اللہ لمن حمده کہے  
 تو تم رہنا تک الحمد کہو یہ مطلب ہے کہ مقتدی انتظار کریں اور  
 رکوع کی حالت میں رہیں جب تک امام اپنا سر اٹھا کر سمع اللہ

رؤسكم و قولوا اللهم ربنا لك الحمد معنا ان  
 ينتظروا الامام و يثبتوا ركوعا حتى يرفع الامام  
 رأسه و يقول سمع الله من حده لا و ينقطع صوت  
 وهم ركوع ثم يتبعونه في رفعون رءوسهم  
 و يقولون اللهم ربنا لك الحمد و قوله اذا اكب  
 و سجد فكبر و اداسجد و معنا ان يكونوا  
 قياما حتى يكبر و ينحط للسجود و يرفع جبهته  
 على الارض و هم قيام ثم يتبعونه و كذلك  
 جاء عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما و هذا  
 كله موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم  
 الامام يركع قبلكم و يسجد قبلكم و يرفع  
 قبلكم و قوله اذا كبر و رفع رأسه فارفعا  
 رءوسكم و كبروا معنا ان يثبتوا سجودا  
 حتى يرفع رأسه و يكبر فاذا انقطع صوته  
 وهم سجود اتبعوه في رفعوا رءوسهم و قول النبي  
 صلى الله عليه وسلم فتلك تلك يعني انتظار  
 كما يابا قياما حتى يكبر و يركع و انتم قيام  
 فتتبعونه و انتظاركم اياها ركوعا حتى يرفع  
 رأسه و يقول سمع الله من حده لا و انقطع  
 صوته و انتم ركوع فاذا قال سمع الله من  
 حده لا و انقطع صوته و انتم ركوع اتبعتموه  
 في رفعتم رءوسكم و قلتم ربنا لك الحمد  
 و قول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك تلك  
 في كل رفع و خفض و هذا اتسام الصلاة فافعلوا  
 و الصلوة و احكموها و اعلموا ان كثير من النا

من حده نہ کہنے اور اس کی آواز بند نہ ہو جائے پھر اس کے بعد  
 مقتدی اپنے سر اٹھا کر اللہ ربنا لك الحمد کہیں۔ اور نبی اکرم اکرم صلعم کے  
 اس قول کا رک جب امام تکبیر کرتا ہوا سجدے میں چلا جائے تو تم تکبیریں  
 کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ یہ مطلب ہے کہ مقتدی کھڑے رہیں جب  
 تک امام البد اکبر کہہ کر سجدے میں جا کر اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھے  
 پھر اس کے بعد مقتدی تکبیریں کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔

اسی طرح براء بن عازب سے روایت آتی ہے یہ تمام مطلب  
 نبی اکرم صلعم کے اس فرمان کے رک امام تم سے پہلے رکوع، سجدہ کہہ  
 ہے اور رکوع و سجدے سے سراٹھاتا ہے موافق ہے اور نبی اکرم صلعم  
 کے اس قول کا رک جب امام تکبیر کہے اور اپنا سر اٹھائے تو تم اپنا سر  
 اٹھاؤ اور تکبیر کہو یہ مطلب ہے کہ مقتدی سجدے میں رہیں جب  
 تک امام تکبیر کرتا ہوا سجدے سے اپنا سر اٹھا کر بیٹھ نہ جائے اور  
 اس کی تکبیر کی آواز ختم نہ ہو جائے پھر مقتدی تکبیریں کہتے ہوئے سجدے  
 سے سراٹھائیں۔ اور نبی اکرم صلعم کے اس قول کا رک وہ وقفہ اس  
 وقفہ کے بدلہ ہے یہ مطلب ہے کہ تمہارا حالت قیام میں امام کا  
 رکوع میں جانے تک انتظار اور حالت رکوع میں امام کے کھڑے  
 ہونے تک انتظار برابر برابر ہو جائیں گے مثلاً امام کے ایک منٹ  
 کے بعد تم رکوع میں گئے تھے پھر امام کے ایک منٹ کے بعد تم نے  
 رکوع سے سراٹھایا تو اس ایک ایک منٹ کی تاخیر سے تمہارا  
 رکن امام کے ہر رکن کے برابر ہو گیا اور امام کی اقتداء بھی ثابت  
 ہو گئی۔ الغرض مذکورہ بالا طریقہ سے نماز مکمل ہوتی ہے لہذا  
 اسے اچھی طرح سے سمجھ کر اس پر پوری سرگرمی سے عمل پیرا ہو جاؤ  
 اور یاد رکھو قیامت کے دن بہت سے لوگوں کی نماز ناقابل تسلیم  
 ہوگی کیونکہ وہ رکوع و سجدے میں اور قیام و قعود میں امام سے  
 سہقت کیا کرتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ بھی



يوم القيامة ما تكون لهم صلاة لسبق الامام بالركوع  
والسجود والرفع والخفض قد جاء في الحديث انه  
يا قى على الناس زمان يملون ولا يميلون ويؤشك  
ان يكون زماننا هذا فان الغالب عليهم مساقفة  
الامام وتضييع اركان الصلاة وواجباتها  
ومسنوناتها وتامرها۔

**فصل:** ويحب علي من رأى من يقصر في صلاته  
ويستقط اركانها وواجباتها وادابها ان  
يعظه ويعلمه وينصحه ليصلح فيما بقى ويستغفر  
عما مضى فان لم يفعل كان شريكه في ذلك  
وعليه وزرارة واثمة وقد جاء في الحديث عن  
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للعالم  
من الجاهل حيث لا يعلمه فلولا ان تعليم  
الجاهل واجب على العالم ولازم لم وفرض  
عليه لما توعده صلى الله عليه وسلم بالويل  
في السكوت عنه لان الوعيد لا يستحقه  
الا من ترك الواجب والفرض دون النفل  
وجاء في الحديث عن بلال بن سعد انه قال  
الخطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحبها  
واذا ظهرت فلم تغير صفة العامة وذلك  
لتركهم ما لزمهم من التغيير والانكار  
على من ظهرت الخطيئة منه وسكوتهم  
عنه فلما سكتوا تفاقم الامر والويل على  
الجميع وشارك المحسن المسمى في اساءته اذا  
لم ينهه وينصحه وقد ورد عن ابن مسعود

آنے والا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے  
یعنی ان کی نمازیں ناقابل تسلیم ہوں گی، شاید وہ زمانہ ہمارا ہی  
زمانہ ہو کیونکہ امام سے سبقت کرنا اور نماز کے ارکان و واجبات  
سنن اور تکملہ کو ضائع کرنا ہم پر غالب ہے۔

\*

**خلاف شرع نمازیوں کو نصیحت کرنے کا حکم** | اگر کوئی

مسلمان کسی نمازی کو نمازیں کو تاسی کرنے والا اور نماز کے ارکان  
واجبات اور آداب کو ضائع کرنے والا پائے تو اس کا فرض ہے کہ  
اسے سمجھائے اور محبت و پیار سے اسے نماز کے احکام و آداب سکھا  
دے تاکہ وہ آئندہ نماز کو درست کر کے پڑھے اور پچھلی نمازوں کی  
کو تائبیوں پر اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتا رہے اگر دیکھنے والا  
ایسا نہیں کرے گا تو وہ بھی گناہ میں حصہ دار ہوگا اور اس کے گناہوں  
اور کوتاہیوں کا اس پر بھی اثر پڑے بغیر نہ رہے گا ایک حدیث میں  
کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا ایک جاہل کی جانب سے عالم کے لئے  
بڑی خرابی ہے کیونکہ عالم جاہل کو اسلامی اصول و آداب نہیں سکھاتا  
اگر عالم پر جاہل کو تعلیم دین دینا لازم و واجب بلکہ فرض نہ ہوتا  
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خاموشی پر تذکرہ بالاول  
کی دھمکی نہ دیتے کیونکہ وعید کا وہی مستحق ہوتا ہے جو کسی واجب کو  
یا فرض کو چھوڑ بیٹھتا ہے کوئی ترک نوافل پر وعید کا مستحق نہیں  
ہوا کرتا۔ بلال بن سعد کا قول ہے کہ اگر گناہ پوشیدہ ہے تو گناہگار  
کے لئے مہذب ہے اور اگر ظاہر ہے اور اس کی اصلاح نہیں کی گئی تو  
عوام کے لئے بھی مہذب ہے کیونکہ خواص پر اصلاح کی ذمہ داری عائد  
ہوتی تھی اور انہوں نے اپنے فرض کو محسوس نہیں کیا اور گناہ گار کو  
گناہ سے نہیں روکا اور خاموشی اختیار کی جس کے نتیجے میں اس گناہ  
کا وبال سب پر ڈال دیا گیا اور اس کے وبال میں اچھوں اور برے

رضی اللہ عنہ قال من رأى من یسی وثی صلاتہ  
 فلم ینہہ شارکہ فی وزرہا و عارہا و یكون  
 موافقا للشیطان اللعین لانتہ یرید ان یرتک  
 من الکلام فی ذلک وان ینترک المتعاون علی البر  
 و التقوی اللذین ارضی اللہ تعالیٰ بہما فی قولہ عزوجل و  
 تعادوا علی البر و التقوی الآیة و النصیحة التی ہی واجبة  
 علیہم لبعضہم لبعض و یرید ان یضحل الدین و یرتک  
 و یرتک الخلق کلہم فلا ینبغی للعاقل ان یطیع الشیطان قال اللہ عزوجل یا ایہا  
 لا یتقنکم الشیطان کما اخرج البویکم من الجنة  
 و قال جلا و علا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا  
 عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب  
 السعیر و اعلم ان جمیع ما یوجب من النقص  
 فی الصلاة و الزکاة و جمیع سائر العبادات  
 سکوت اهل العلم و الفقه و التصبر عنہم  
 و ترک النصیحة و التعلیم و التادیب فینشأ  
 ذلک اولاً من اهل الجہل ثم ینعم اهل العلم  
 و ینسب الیہم و من العجب لو رأى رجلاً من  
 یسرق حیة و اجدة او رقیفاً من النان یہودی  
 او مسلم لم یتبالک من نفسہ حتی یمیح علیہ  
 و یرجرہ و یقبح لہ ذلک و اذا رأى من یرتک  
 یرتک اركان الصلاة و یرتک ما مع الواجب  
 و یرتک الامام سکت عنہ و لا ینطق فینکر  
 علیہ و یعلمہ و یرتک من امرہ و قد جاء  
 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
 شر الناس سرقة الذی یرتک من صلاتہ قالوا

سب ہی کو حصہ ملا کیونکہ نیک حضرات نے اسے مٹانے کی کوشش  
 نہیں کی تھی اور خیر خواہی کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت ابن مسعود  
 فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو غلط طریقہ سے نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے اور  
 اسے روکتا نہیں تو وہ بھی نماز کے گناہ و عار میں نمازی کے ساتھ حصہ دار  
 اور شیطان کے موافق ہے کیونکہ شیطان کی عین خواہش ہے کہ برے کاموں  
 سے لوگوں کو نرد کا جائے اور نیکی اور تقویٰ پر تعاد کر دے اور گناہوں اور  
 زیادتی پر تعاد نہ کر دے اور اللہ سے ڈر جائے یا در کھو اللہ تعالیٰ سخت  
 والا ہے۔ لہذا ہر ایک پر دوسرے کی خیر خواہی لازم ہے شیطان کی تو  
 عین تمنا ہے کہ دین بگڑے، اسلام خاکم بد میں ختم ہو اور تمام لوگ گناہوں  
 میں ڈوب جائیں اس لئے عاقل مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شیطان کی اس  
 تمنا کو پامال کرے اور خاک میں ملادے حق تعالیٰ اجل مجدہ نے فرمایا دیکھو  
 شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنی طرف اپنی جماعت  
 کو جہنم میں جھونکے جانے ہی کے لئے بلاتا ہے۔ یاد رکھئے جس قدر خرابیاں  
 نماز و زکوٰۃ میں اور دیگر تمام عبادتوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ علماء اور  
 فقہار کی خاموشی اور چشم پوشی ہی سے پیدا ہوتی ہیں کہ انہوں نے خیر خواہی  
 اور عوام کی تعلیم و تربیت سے کنارہ کشی اختیار کر لی آخر کار شروع  
 میں تو عبادتوں میں خرابیاں جاہلوں میں پیدا ہوتیں پھر علماء بھی اسی رنگ  
 میں رنگ گئے اور خس و خاشاک کی طرح گناہوں کے سیلاب میں بسنے لگے  
 اور ان کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگیں۔ حیرت کی بات ہے اگر کوئی  
 شخص کسی کو کسی مسلم یا غیر مسلم کا ایک دانہ یا ایک روٹی چرانا ہوا دیکھے  
 تو بے اختیار چیخ پڑتا ہے اور اسے برا بھلا کہتا ہے لیکن نماز کے چور  
 کو اس کی چوری پر آگاہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کہتا اور خاموش  
 رہتا ہے اور منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا کہ اسے چوری سے روک دے  
 اور اسے نماز کی صحیح صحیح تعلیم دے کہ اس کی چوری پر آگاہ کر دے۔  
 ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور



یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ قال صلی اللہ  
 علیہ وسلم لا یتم رکوعہا ولا سجودہا  
 وعن الحسن البصری رحمہ اللہ قال ان النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم قال لا اخبرکم بشئ الناس سرقۃ  
 قالوا بلی من ہویا رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم  
 الذی لا یتم رکوع الصلاة ولا سجودہا  
 وقال سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ الصلاة  
 مکبالت فمن وثقی وثقی له ومن طفف فقد علمتم  
 ما قال اللہ تعالیٰ فی المطففین وعن عبد اللہ بن  
 علی او علی بن شیبان رضی اللہ عنہ وكان  
 من الوفد الذین وفدوا الی رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم لا ینظر اللہ الی صلاة عبد لا یقیم  
 صلبہ فی رکوعہ وسجودہ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ  
 عنہ قال قال ان رجلا دخل المسجد ورسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیة المسجد  
 فصلی ثم جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 فسلم علیہ فرد علیہ السلام وقال ارجع فصل  
 فانک لم تصل فصلی کما صلی ثم جاء فسلم  
 فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع  
 فصل فانک لم تصل ففعل ذلك ثلاث مرات  
 فقال والذی بعثک بالحق نبیا ما احسن غیر  
 هذا فعلمنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 اذا قمت الی صلاتک فأسبغ الوضوء ثم استقبل  
 القبلة فکبر ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن  
 ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل

نماز کا چور ہے صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! نماز میں چوری کیا ہے؟  
 فرمایا: نماز میں رکوع اور سجدہ پورا پورا ادا نہ کرے۔

حسن بصری:۔ نبی اکرم صلعم نے فرمایا: سناؤ! کیا میں تم کو بدترین  
 چور نہ بتاؤں؟ صحابہ بولے: یا رسول اللہ! بدترین چور کون ہے؟  
 اسے ہمیں ضرور بتائیے، فرمایا: بدترین چور وہ ہے جو نماز میں رکوع  
 اور سجدے کو پورا ادا نہیں کرتا۔

سلمان فارسی:۔ نماز ایک پیمانہ ہے پھر جو پیمانہ بھردے اس کے  
 لئے نماز ہے اور جو بھر کر نہ دے تو تم کو معلوم ہی ہے کہ حق تعالیٰ نے  
 ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے (یعنی پیمانہ بھر کر نہ دینے  
 والوں کے لئے دلیل ہے)

عبد اللہ بن علی یا علی بن شیبان آپ وفد میں آنے والوں میں  
 سے تھے، نبی اکرم صلعم نے فرمایا: حق تعالیٰ شانہ اس بندے  
 کی نماز کو نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں  
 حضرت ابو ہریرہ: ایک شخص مسجد میں آتا ہے رسول اللہ صلعم  
 مسجد کے ایک گوشہ میں تشریف فرما ہیں وہ شخص نماز پڑھتا ہے  
 پھر رسول اللہ صلعم کے پاس سے گزر کر آپ کو سلام کرتا ہے آپ  
 اسے سلام کا جواب دے کر فرماتے ہیں لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو  
 کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ واپس جا کر حسب سابق نماز پڑھتا  
 ہے پھر آپ کے پاس سے گزر کر آپ کو سلام کرتا ہے آپ سلام کا  
 جواب دے کر فرماتے ہیں لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے  
 نماز نہیں پڑھی وہ شخص لوٹ کر پھر حسب سابق نماز پڑھتا ہے  
 اور آپ کے پاس سے گزر کر آپ کو سلام کرتا ہے آپ سلام کا جواب  
 دے کر وہی فرماتے ہیں وہ شخص عرض کرتا ہے اس کی قسم جس نے  
 آپ کو سنا نہیں بنا کر بھیجا ہے میں اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں  
 جانتا آپ مجھے سکھا دیجئے نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ سب تم نماز

قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم اجلس  
 حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا  
 ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اصنع ذلك في  
 صلاتك كلها وفي حديث آخر عن رفاعه  
 بن رافع رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس  
 حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل  
 رجل فاستقبل القبلة فسلم فلما قفنى صلاته  
 جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى  
 قومه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 ارجع فصل فانك لم تصل امرًا بذكر مؤمنين  
 او ثلاثًا فقال الرجل ما اقصر ما قدرت فلا  
 ادري ما عنيت من صلاتي فقال رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ  
 الوضوء كما امر الله تعالى فيغسل وجهه ويديه  
 الى المرفقين ويسح رأسه ويغسل رجليه  
 الى الكعبين ثم يكبر الله تعالى ويحمد الله  
 ثم يقرأ من القرآن ما اذن له فيه ثم يكبر فيضع  
 كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتستر  
 ثم يقول سبح الله من حمد لا ويستوي قائمًا حتى  
 تقيم صلبه وياخذ كل عضوًا أخذًا ثم  
 يكبر ويسجد ويبسك وجهه حتى تطمئن  
 مفاصله وتسترخي ثم يكبر ويستوي قاعدًا  
 على مقعد لا وتقيم صلبه فوصف صلاته  
 هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم  
 صلاة احدكم حتى يفعل كذلك فقد امر

ارادے سے کھڑے ہو کر اچھی طرح سے وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے  
 ہو کر اللہ اکبر کہو پھر جہاں سے آسانی قرآن پڑھ سکو پڑھو پھر رکوع  
 میں جاؤ حتیٰ کہ رکوع میں تم کو اطمینان حاصل ہو جائے پھر رکوع سے  
 سر اٹھا کر اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدے میں جاؤ  
 حتیٰ کہ سجدے میں تم کو اطمینان حاصل ہو جائے پھر بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ  
 بیٹھے کی حالت میں تم کو اطمینان حاصل ہو جائے پھر اسی طرح پوری نماز  
 ادا کرو۔ رفاعہ بن رافع: اس حال میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد  
 بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہے  
 اور نماز پڑھتا ہے پھر نماز سے فارغ ہو کر آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
 کو اور آپ کے صحابہ کو سلام کرتا ہے آپ اس سے فرماتے ہیں لوٹ  
 جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی آپ اسے دریا میں با  
 یہی حکم فرماتے ہیں وہ عرض کرتا ہے کہ میں اپنی دانست میں کرتا ہی  
 نہیں کہ رہا مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آپ میری نماز میں کیا چاہتے ہیں؟  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی  
 جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم بموجب کامل وضو نہیں کر لیتا کہ اپنا منہ  
 اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے اور سر کا مسح کرے اور پیر  
 ٹخنوں تک دھوئے پھر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی حمد بیان کرے پھر  
 قرآن پاک کو حسب اجازت پڑھے پھر رکوع کرے اور دونوں ہاتھ  
 گھٹنوں پر رکھے حتیٰ کہ جوڑ ساکن ہو کر ڈھیلے پڑھ جائیں پھر سبح اللہ  
 لمن حمد کہہ کر سیدھا کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ اپنی پشت سیدھی کرے  
 اور ہر عضو اپنی جگہ پر لوٹ جائے پھر تکبیر کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور  
 اپنا منہ پیشانی سے ناک کے زمین پر ٹکا دے حتیٰ کہ جوڑ پر سکون  
 اور ڈھیلے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہے اور سیدھا ہو کر بیٹھ جائے اور  
 اپنی پشت سیدھی کرے پھر آپ نے چار رکعت نماز کی کیفیت  
 اسی طرح بیان فرمائی پھر فارغ ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کسی کی نماز



النبي صلى الله عليه وسلم بانتهاء الصلاة والركوع  
 والسجود واخبر ان الصلاة لا تقبل الا هكذا  
 وما وسعه صلى الله عليه وسلم السجرت حين  
 رأى الرجل يصلي صلاة ناقصة فلو جاز تاخير  
 البيان عن وقت الحاجة وترك الانكار على الجاهل  
 وتعليمه لسكت النبي صلى الله عليه وسلم  
 وكل ذلك الى ما قد بين من قبل الصحابة  
 رضی الله عنهم ونجا وزعنه فلما بالغ في ذلك  
 الانكار عليه والتعليم له دل على وجوب ذلك  
 وتنبه به صلى الله عليه وسلم من حفرة من  
 الصحابة رضی الله عنهم ان يفعلوا كذلك  
 اذا رأوا من يفعل في صلاته مثل ما فعل ذلك  
 الرجل ويعلموا اصحابهم واصحاب اصحابهم  
 كيفية احكام الشرع الى ان تقوم الساعة -  
**فصل** : ويجب على الموزن ان يصلح من  
 لسانه ما لا يلحق في الشهادتين ويكون عارفا  
 بالاوقات وان لا يوزن الا بعد دخول الوقت  
 الا في الفجر خاصة ويجتنب باذنه وجه الله  
 تعالى ولا يأخذ على اذانه جزاء ويستقبل القبلة  
 بوجهه في التكبير والشهادتين ويولي وجهه  
 يمينا وشمالا في الدعاء الى الصلاة واذا اذن  
 لصلاة المغرب جلس بين الاذان والاقامة  
 جلسة خفيفة ويكره له ان يوزن وهو  
 جنب او محدث ولا ينبغي له ان ليشق الصفوف  
 اذا فرغ من الاقامة ليقيم في الصف الاول

پوری نہیں ہوتی جب تک ایسا نہ کرے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اور رکوع و سجدے کو پورا کرنے کا حکم فرمایا اور بتایا کہ نماز اسی طرح مکمل ہوتی ہے اور اس شخص کو ناقص نماز پڑھنا ہوا دیکھ کہ آپ کو خاموشی کی گنجائش نہیں ملی اگر وقت ضرورت سے تعلیم کو چھپے بیٹانا اور جاہل کو نہ ٹوکنا اور اسے تعلیم نہ دینا جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اور اس سے قبل صحابہ کو جو نماز سکھائی گئی تھی اسے کافی سمجھتے اور اس شخص سے درگزر کرتے لیکن جب آپ نے اس پر پُر زور انکار کیا اور اسے نماز کی تعلیم دی تو معلوم ہوا کہ ایسا واجب ہے اور موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تنبیہ مقصود تھی کہ وہ بھی اسی طرح تبلیغ کیے کریں۔ جب کسی کو ناقص نماز پڑھتا ہوا دیکھیں اور صحابہ اپنے اصحاب اور وہ اپنے اصحاب کو اسی طرح قیامت تک سلسلہ دار دینی مسائل کی تعلیم دیتے رہیں تاکہ دین قائم رہے۔

**موزن کے فرائض** | موزن پر لازم ہے کہ زبان اس قدر

درست کرے کہ شہادتین میں غلطی نہ کرے اور نماز کے اذنان کو پہچانتا ہو تاکہ وقت ہو جانے کے بعد ہی اذان دے البتہ فجر کی اذان..... خصوصاً طور پر وقت سے پہلے جائز ہے۔ موزن اللہ کی رضا کی نیت سے اذان دے اور اذان پر اجرت نہ لے اور تکبیر و شہادتین کے زمانہ میں قبلہ کی طرف منہ کئے رہے اور حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کے وقت دائیں بائیں منہ پھیر لے اور مغرب کی اذان دے کہ ذرا سی دیر بیٹھ جائے جنابت کی اور حدیث اصغر کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے اور تکبیر کہنے کے لئے صفوں کو چیر کر پہلی صف میں جا کر کھڑا ہونا موزن کو لائق نہیں بلکہ جہاں اذان دی ہے وہیں کھڑا ہو یہ دوسری بات ہے کہ

دہاں کھڑا ہونا دشوار ہو مثلاً منارہ پر چڑھ کر اذان دی ہو تو اس صورت میں جہاں بھی صف میں آسانی سے جگہ مل جائے کھڑا ہو جائے اور تکبیر کیے۔

نمازی کے اوصاف | اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے

جو نماز میں خشوع و خضوع اور اللہ کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے نماز کے آداب و شروط پیش نظر رکھتا ہے، شوق و رغبت کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھتا ہے

ہے اللہ سے خوف زدہ اور سہما سہما رہتا ہے اور اس کی رحمت کی امید و آس باندھے رہتا ہے اور اپنے رب کے آگے نماز و

مناجات میں دل و دماغ کو حاضر کر کے لگا رہتا ہے اور حق تعالیٰ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کبھی کھڑا ہے تو کبھی رکوع

میں ہے اور کبھی سجدے میں ہے اور دنیا سے کٹ کر اپنا دل نماز ہی میں لگائے رکھتا ہے اور دل سے دوسرے تمام خیالات نکال

پھینکتا ہے اور فرائض ادا کرنے میں سرگرم و مستعد رہتا ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ موجودہ نماز کے بعد اسے کوئی اور نماز

نسیب ہوگی یا نہیں ہو سکتا ہے کہ اور نماز کے وقت سے پہلے ہی موت آ کر گلا دبا لے اس لئے یہ غمگین و سہما سہما اپنے

پروردگار کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ قبولیت کی آس باندھے رہتا ہے اور اس پر نماز کا منہ پر مارے جانے کا ڈر بھی سوار

رہتا ہے اگر حق تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے زبے نعمت اور اگر رد فرمادے تو بد نصیبی ہے لہذا اسے سو من جو انوار اسلام

سے جگمگا رہا ہے نماز میں اور دیگر اعمال میں تجھے کس قدر اہم کام دیکھتے ہیں اور ان اعمال میں اور نماز میں اور نماز سے قبل تجھے

پر حق تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کئے ہیں ان میں حق تعالیٰ نے جو فکر فرائض کا احساس اور خوف و شہت تجھ کو عطا فرمایا ہے

ولا یبغی لہ ان یقیم فی غیر موضع الاذان الا ان یثنی علیہ مثل ان یکون قد اذن فی منارۃ فانہ یقیم مواضع الصلاۃ او حیث یتیر لہ۔

**فصل:** نرحم اللہ من اقبل علی صلاتہ

خاشعاً خاضعاً ذلیلاً للہ عزوجل خائفاً واعباً

راعباً وجلاً مشفقاً راجیاً وجعل اکثر ہمتہ

فی صلاتہ لربہ تعالیٰ و مناجاتہ ایاء و انتصابہ

بین ید ید قائماً وقاعدا و راکعاً وساجدا

و فرغ لذلک قلبہ و شغلہ فوادا و اجتہد

فی اداء فرائضہ فانہ لا یدری هل یصلی

صلاۃ بعد التی ہو فیہا او یجاہل علیہ

یوفاتہ قبل ذلک فقام بین ید ید ربہ عزوجل

محزوناً مشفقاً یرجو قبولہا و یخاف ردہا

ان قبلہا سعد وان ردہا شقی فما اعظم

خطرک یا ایہا المؤمن المتحلی بانوار الاسلام

فی ہذا الصلاۃ و فی غیرہا من عملک وما

اولک من الہم والحزن والخوف والوجل

فیہا و فیہا سوا ما افترض اللہ تعالیٰ

علیک انک لا تدری هل قبلت منک صلاۃ

او حسنة قط امل او هل عفرت لک سیئۃ

امل او انت علی ذلک ضاحک فرح غافل

منتفع بالعیس کیف وقد جاء الیقین من

مخیر صادق امین انک وارد النار فقال جل

وعلا وان منکم الا و اردہا ولم یانک

الیقین انک صادر عنہا فمن احق بطول البقاء



وطول الحزن منك حتى يتقبل الله منك ثم مع  
ذلك لا تدري لعلك لا تصبح اذا أمسيت  
ولا تمسى اذا أصبحت فبشر بالجنة امر مبشر  
بالنار فحقيق ان لا تفرح باهل ولا ولد ولا  
مال وان العجب كل العجب من طول غفلتك  
وطول سهوك عن هذا الامر العظيم وانت  
تساق سواق حثيثا في كل يوم وليلة وفي كل  
ساعة وطفرة عين فتوقع احلك ولا تغفل  
عن هذا الخطر العظيم الذي قد اظلك فانك  
لا بد ذائق الموت ولاقيه ولعله ينزل بسا  
في صباحك او مساءك اشروما تكون عليها  
اقبال فانك قد اخرجت من ذلك كله و  
سلبته فاما الى الجنة واما الى نار انقطع  
عنها الصفات وقصوت العبارات والحكايات  
عن بلوغ حقيقة وصفها ومعرفة قدرها  
والواعذ ابها والاحاطة بغاية خيرها  
قال العبد الصالح رحمه الله عجبت للنار  
كيف نامها ربها وعجبت للجنة كيف نام  
طالبها فوالله لئن كنت خارجا من الهرب  
والطلب لقد هلكت ملاكنا وعظم  
شقاؤك وطال حزنك وبكاؤك غدا مع  
الاشقياء المعدنين ولئن زعمت انك هارب  
طالب فلا تغرنك الاماني والعجب بما انت  
متحل به فدونك الجود والاجتهاد واحذر  
النفس والشيطان فان مثقبهما دقيق و

کس قدر اہم اور ضروری ہے کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ تیری نماز یا کوئی دوسرا  
نیک عمل قبولیت کا شرف حاصل کر چکا ہے یا نہیں؟ اور کیا تیرے گناہ  
مناہ کے چاچکے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ تو خوش و خرم اور منہم کلمہ  
ہے اور بے خبر ہے اور دنیوی زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے انجام کی  
خبر اللہ ہی کو ہے تجھے سچے خبر دینے والے ایک امین نے خبر دی ہے  
کہ تو جہنم میں وارد ہونے والا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ تم میں سے  
بہر شخص جہنم میں وارد ہونے والا ہے اور تیرے پاس کوئی ایسی یقینی  
اطلاع نہیں آئی کہ تو گھسنے کے بعد اس سے نکل بھی جائے گا لہذا تجھ  
سے زیادہ طویل آہ و بکا کا اور طویل پریشانی کا کون حقدار ہے؟  
تاکہ حق تعالیٰ کو تجھ پر رحم آئے اور وہ تیری گریہ و زاری قبول فرمائے  
لے پھر تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تو صبح کے بعد شام کو یا شام کے  
بعد صبح کو پائے گا اور تجھے جنت کی بشارت دی جائے گی یا جہنم کی لہذا  
تجھے اہل و عیال سے اور مال و منال سے خوش ہونے کا کیا حق حاصل  
ہے اور اس امر عظیم سے تیری طویل غفلت و تساہل پر جس قدر بھی  
حیرت کی جائے کم ہے حالانکہ تیری زندگی رات دن بلکہ ہر گھڑی اور ہر  
لمحہ تیری سے گھسی جا رہی ہے۔

غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی: خالق نے گھڑی عمر کی اک اور گھڑی  
لہذا اے بے خبر اپنی موت کے لئے ہر وقت تیار رہ اور اس اہم اور  
عظیم موت سے غافل نہ ہو جو ہر وقت تیرے سر پر منڈلا رہی ہے  
کیونکہ تجھے ایک نہ ایک دن ضرور موت آنی ہے اور جان کسی نہ کسی دن  
ضرور جانی ہے شاید موت تجھے تیرے بستر ہی پر صبح یا شام میں  
آجائے جو آنے والوں میں سب سے بدترین ہے اور موت تجھ سے  
یہ ساری چیزیں چھین لے گی پھر تو یا تو جنت کی طرف لے جایا جائے  
گا یا جہنم کی طرف جس کے ہولناک عذاب بیان سے باہر ہیں نہ عبادتوں  
میں سما سکتے اور نہ ان کے احوال کے حقائق کو تشبیلات گھیر سکتی ہیں۔

غائلتہما شدیدۃ ومکایدہما خبیثۃ واحذ  
الدنیا لئلا تاخذک بزینتہا وتخدعک باباطیلہا  
و کذبہا و خضرتہا و نضرتہا وقد جاء فی الحدیث  
عن سید البشر ان الدنیا تغر و تمرو و تضر قال اللہ  
عزوجل فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم  
باللہ العزور فالعزور هو الشیطان الرجیم اللہ اللہ  
ثم اللہ احذر الہلاک والرذی احفظ الصلاۃ  
وما سواہا من الاوامر و انتہ عن المناہی اجمع  
وذرا لثمر ما طهر منہ وما بطن وسلم الی ربک  
جیع المقدر فیل و فی غیرک وانقل لربک  
بطاعتہ فیہا امرک ونہاک ولا تنفر منہ  
باز تکابک ما نہاک عنہ ولا تسخطہ علیک  
باعترامک علیہ فی تدبیرک فیک وتزل رضاک  
عنہ فیما قسم لک من الاقسام والارزاق  
وفعل نیک من الافعال ما طوی عنک مصالحہا  
واخفی عنک عواقبہا وما سبظہ لک من  
اطیب ثمارہا و منافعہا قال عز من قائل  
وعسی ان تکرہوا شیئا و هو خیر لکم و عسی  
ان تحبوا شیئا و هو شر لکم واللہ یعلم و انتم  
لا تعلمون و کن ابد اطاعا لملوک را ضیا  
بقضائہ صابرا علی بلائہ شاکرا لآلائہ  
داعیا باسمائہ ذاکرا لنعیمہ و آیاتہ موافقا  
لفعلہ و مراد لا غیر متہملہ فی تدبیرک فیک  
و فی خلقہ حتی تاتیک الوفاۃ فتتوفی مع الطیبین  
وتحشر مع النبیین و تدخل جنات النعیم برحمۃ

اور نہ ان کی مقدار کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور نہ ان کی انواع کا  
اللہ کا ایک نیک بندہ کتا ہے: تعجب ہے کہ آگ سے بھاگنے والے کو  
کیسے نیند آتی ہے اور اس پر بھی تعجب ہے کہ جنت کا طلبگار کیسے  
سوتا ہے یعنی پہلے کو غم کی وجہ سے اور دوسرے کو خوشی کی وجہ سے نیند  
نہیں آتی چاہیے اللہ کی قسم اگر تو جہنم کے خوف سے اور جنت کی طلب  
سے غافل ہوا تو تو یقیناً ہلاک ہوا انت! اس حالت میں تیری  
بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ؟ اور تیری پریشانی اور گریہ و زاری کی کیا  
حد و غایت؟ کیونکہ کل قیامت کے دن تو بھی عذاب دئے جانے  
والے بد بختوں کے ساتھ ہوگا اور اگر تیرا یہ گمان ہے کہ مجھے جہنم کا  
خوف بھی ہے اور جنت کی طلب بھی تو تجھے تیری گوناگوں تمنائیں  
دھوکہ میں نہ ڈالیں اور ان عملوں پر جن سے تو آراستہ ہے  
ناز نہ کر اور دوڑ دھوپ اور کوشش میں لگا رہ اور نفس آمارہ  
اور شیطان سے بچ کر رہ کیونکہ ان کے راستے انتہائی باریک ہیں اور  
ان کی ہلاکت و آنت سخت ہے اور ان کے مکر و فریب شرمناک  
دگندے ہیں اور دنیا سے کنارہ کش رہنا کہ دنیا تجھے اپنی زینت  
دکھا کر اپنی گرفت میں نہ لے لے اور اپنی دل فریبیوں، باطل لذتوں  
ناپائدار مزدوں اور نازکی و سبزی میں نہ پھانے ایک حدیث میں آیا  
ہے کہ سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ العالمین اور خاتم النبیین نے  
فرمایا کہ دنیا دھوکا دیتی ہے اور تمہارے پاس سے چلی جاتی ہے اور  
اپنے نقصانات چھوڑ جاتی ہے حق تعالیٰ نے فرمایا: خبردار تمہیں نیکی  
زندگی دھوکا نہ دے اور اللہ کے ساتھ تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے  
غور یعنی راندہ ہوا شیطان اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا  
اللہ سے خوف اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھ اپنی ہلاکت تباہی  
سے پرہیز کر نماز کی حفاظت کر اور نماز کے علاوہ تمام احکام  
شرع پر عمل پیرا رہ اور ممانعتوں کے پاس بھی نہ جا ہر طرح کے گناہوں



رب العالمین و مشیئة اله الاولین و الآخرین۔  
**فصل:** واما صلاة الخاصة لا یقاظ  
 المتیقظین الخاشعین المراقبین حراس القلوب  
 جلساء الرحمن رضوان الله علیهم و سلامه  
 فصفتها ما روی أن یوسف بن عصام مرفی  
 جامع من الجوامع خراسان فاذا هو بحلقة عظیمة  
 فسأل عنها فقیل له اشها حلقة حاتم و هو یتکلم  
 فی الزهد و الورع و الخوف و الرجاء فقال لا صحابه  
 قوموا بنا نسألک عن مسألة من امر الصلاة  
 فان هو اجابنا عنها جلسنا الیه فوقف علیه  
 وسلم علیه و قال رحمک الله لی مسألة  
 قال له حاتم سل قال اسألك عن امر الصلاة  
 فقال له حاتم تسألنی عن معرفتها او عن ادبها  
 قال فصارت مسألتین و جب لهما جوابان  
 فقال یوسف اسألك عن ادبها فقال حاتم هو  
 ان تقوم بالامر و تمشی بالاحتساب و تدخل  
 بالنیة و تکبر بالتعظیم و تقرأ بالترتیل و ترکع  
 بالخشوع و تسجد بالتواضع و تلتشد بالاخلاص  
 و تسلم بالرحمة فقال اصحاب یوسف سله  
 عن معرفتها فسألہ فقال حاتم هو ان تجعل  
 الجنة من یمینک و النار عن شمالک و الصراط  
 تحت قدمیک و المیزان تحت عینیک و الرب  
 عز و جل کانک ترا الا فان لم تکن ترا الا فانه  
 یراک فقال یوسف یا شاب منذ کم تصلی  
 هذه الصلاة قال منذ عشرين سنة فقال

چھوڑ دے خواہ ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے اور اپنے اور غیروں کے تمام مقدرات کو  
 اللہ کے حوالے کر دے اور ادا کرو اسی میں حق تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنی جان بچا  
 لے اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اللہ کو نفرت نہ دلا اور اسکی تدبیر و تصرف میں  
 اعتراض کر کے اس کا غصہ نہ بھڑکا اور جو کچھ تقاسم ازل نے تیری تقدیر میں  
 لکھ دیا ہے اس پر راضی رہ کیونکہ تجھ سے ہر کام کی مصلحت پوشیدہ رکھی  
 گئی ہے اور ہر کام کا انجام چھپا دیا گیا ہے عنقریب تیری نیکیوں کے پاکیزہ  
 پھل اور سبھی ثمرات ظاہر ہوں گے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ  
 ایک چیز تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور ایک چیز  
 تمہیں پسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو اور ہر چیز کی مصلحت  
 اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہمیشہ اپنے آقا کا مطیع و منقاد رہ اس کی  
 قضاء و قدر پر خوش رہ، مصائب پر صابر اور نعمتوں پر شاکر رہ اللہ  
 تعالیٰ کے اسمائے حسنی کا ورد رکھ اور اس کی نعمتوں اور نشانیوں کو ہمیشہ  
 یاد رکھ اس کے افعال و مرادات کے موافق رہ اور اپنے اور تمام مخلوق  
 کے سلسلے میں اسکی تدبیر پر اہتمام نہ لگا حتیٰ کہ تجھے موت آجائے اور تو اللہ  
 تعالیٰ کے پاکیزہ بندوں کی فہرست میں شامل کہلایا جائے اور نیز انبیائے کرام  
 کے ساتھ حشر ہو اور تورب العالمین کی قربانی سے اور تمام اگلوں اور بچلوں  
 کے معبود کی مشیت سے نعمتوں والی جنّتوں میں داخل ہو۔

**خواص کی نماز**

جو اللہ کے مقرب و خاص بندے ہیں اللہ کے آگے جھکے  
 ہوئے ہیں بیدار رہتے ہیں اپنے نفسوں سے محاسبہ کرتے رہتے ہیں دلوں کی  
 نگرانی رکھتے ہیں اور رحمن کی مجلس کے ہم نشین ہیں حق تعالیٰ کی ان پر رضا اور  
 سلامتی ہو ان کی نماز مخصوص ہے جس کی صفت مندرجہ ذیل ہے منقول ہے  
 کہ ایک دفعہ یوسف بن عصام خراسان کی کسی جامع مسجد سے ایک بڑے  
 حلقہ کے پاس سے گزرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ حلقہ کس کا ہے ؟ لوگ کہتے  
 ہیں کہ یہ ذاکر بن کا حلقہ حاتم اصم کا ہے اور حاتم زہد پر مین گامی اور  
 خوف ورجا پر و عطف فرما رہے ہیں یہ سن کر آپ اپنے ساتھیوں سے

یوسف لا صحابہ قوموا بنا نقضی حتی نعید صلا  
 خمین سنة ثم التفت اليه فقال له من  
 اين لك هذا قال من كتبك التي كنت  
 تملیها علينا وحديث ابی حازم الاخرج ر  
 الله یلیق بهذا الجملة فنذكره وذلك ان  
 اباحازم رحمه الله قال لقيني رجل من اصحاب  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على حل  
 البحر فقال لي يا اباحازم اتحسن ان تصلي  
 قلت وكيف لا احسن ان اصلي وانا بصير  
 بالفرائض وما استن به رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم فقال لي يا اباحازم ما الفرض  
 عليك قبل قيامك الى الصلاة فقلت سنة  
 قال وما هي قلت الطهارة والاستتار و  
 اختيار موضع الصلاة والقيام الى الصلاة  
 والنية والتوجه الى القبلة قال لي يا ابا  
 حازم نبأني نية تخرج من بيتك الى المسجد  
 قلت بنية الزيارة قال نبأني نية تدخل المسجد  
 قلت بنية العبادة قال نبأني نية تقوم الى  
 العبادة قلت بنية العبودية مقر الله  
 بالعبودية قال فاقبل على وقال يا اباحازم  
 بما تستقبل القبلة قلت ثلاث فرائض و  
 سنة قال وما هي قلت التوجه الى القبلة  
 فرض والنية فرض والتكبيرة الاولى فرض  
 ورفع اليدين سنة قال فكم من التكبير  
 عليك فرض وسنة قلت اصل التكبير اربع

کتے ہیں آدم حاتم کے پاس جا کر نماز کے بارے میں ان سے ایک مسئلہ پوچھیں گے  
 وہ اس کا صحیح صحیح جواب دیدیں گے تو ہم بھی انکی مجلس و غلط میں بیٹھ جائیں گے  
 چنانچہ آپ حاتم کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں سلام کر کے ان سے  
 پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت میں گھر سے رہیں میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا  
 ہوں حاتم فرماتے ہیں: پوچھو، کتے ہیں میں نماز کے بارے میں پوچھنا چاہتا  
 ہوں حاتم پوچھتے ہیں کہ نماز کی معرفت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو  
 نماز کے آداب میں اس صورت میں دو مسئلے ہونگے اور مجھے دونوں کا جواب  
 پڑیگا یوسف عرض کرتے ہیں کہ میں آداب نماز کے بارے میں پوچھتا ہوں  
 حاتم فرماتے ہیں کہ آداب نماز یہ ہیں کہ نماز کے لئے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں  
 اور ثواب کی نیت سے پڑھو اور نماز کی نیت کہ لو اور اللہ کی عظمت کا تقاضا  
 کہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھو اور ٹھہر ٹھہر کر قرأت کرو اور عاجزی کے  
 ساتھ رکوع کرو اور تواضع کے ساتھ سجدہ کرو اور اخلاص کے ساتھ شہادتین  
 ادا کرو اور رحمت کے ساتھ سلام پھرو۔ اصحاب یوسف نے کہا اب معرفت  
 نماز پر روشنی ڈالئے حاتم نے فرمایا کہ دائیں طرف جنت کا نقور کرو بائیں  
 طرف جہنم کا پیروں کی نیچے پھراٹ کا آنکھوں کے سامنے میزان کا اور نماز میں  
 گو یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے یوسف پوچھتے  
 ہیں کہ اسے نوجوان اتم کب سے اس قسم کی نماز پڑھتے ہو؟ فرماتے ہیں:-  
 بیس سال سے یہ سن کر یوسف اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں آدم کھڑے ہو  
 گزشتہ پچاس سال کی نماز میں تھا کہ میں پھر حاتم کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے  
 ہیں تم نے یہ معرفت کہاں سے معلوم کی؟ فرماتے ہیں: آپکی ان کتابوں سے  
 جن کو آپ ہمیں لکھوا یا کرتے تھے۔

ابوحازم اعرج کی حدیث اس واقعہ کے مناسب ہے اس لئے ہم اسے  
 بھی ذکر کئے دیتے ہیں۔

ابوحازم:- مجھ سے ساحل سمندر پر ایک صحابی نے اور انھوں نے  
 مجھ سے پوچھا ابوحازم! نماز کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے تم پر کیا



وتسعون تكبيرة منها خمس فرض والباقي  
كلها سنة قال فبم تستفتح الصلاة قلت بالتكبير  
قال فما برهانها قلت قراءتها قال فما جوهرها  
قلت تسبيحها قال فما احياؤها قلت خشوعها  
قال فما الخشوع قلت النظر الى موضع السجود قال  
نماد قارها قلت السكون قال فما تحريمها  
قلت التكبير قال فما تحليلها قلت التسليم قال  
فما شعارها قلت التشبيح عند القضاة قال  
فما مفتاح ذلك كله يا ابا حازم قلت الوضوء  
قال فما مفتاح الوضوء قلت التسمية قال فما  
مفتاح التسمية قلت النية قال فما مفتاح  
النية قلت اليقين قال فما مفتاح اليقين قلت  
التوكل قال فما مفتاح التوكل قلت الخوف قال  
فما مفتاح الخوف قلت الرجاء قال فما مفتاح  
الرجاء قلت الصبر قال فما مفتاح الصبر قلت  
الرضا قال فما مفتاح الرضا قلت الطاعة قال  
فما مفتاح الطاعة قلت الاعتراف قال فما  
مفتاح الاعتراف قلت الاعتراف بالوحدانية  
والربوبية قال فبم استفدت ذلك كله قلت  
بالعلم قال فبم استفدت العلم قلت بالتعلم  
قال فبم استفدت التعلم قلت بالعقل قال  
فبم استفدت العقل قلت العقل عقلا  
عقل تفرد الله بصفه دون خلقه وعقل  
يستفيد المرء بتاديبه ومعرفة فاذا اجتمعا  
جميعا عند كل واحد منهما صاحب قال

ہے؟ میں نے کہا چھ فرض ہیں، پوچھا، کیا کیا میں نے کہا وضو، سترہ،  
نماز کے لئے جگہ کا انتخاب، نماز کے لئے کھڑا ہونا، نماز کی نیت اور  
قبلہ کی طرف رخ کرنا، پوچھا، ابو حازم! تم اپنے گھر سے مسجد میں جانے  
کے لئے کس نیت سے نکلتے ہو؟ میں بولا، زیارت کی نیت سے، پوچھا،  
مسجد میں کس نیت سے جلتے ہو؟ میں بولا، عبادت کی نیت سے  
پوچھا، عبادت کے لئے کس نیت سے کھڑے ہوتے ہو؟ میں بولا،  
کی ربوبیت اور اپنی عبودیت کی نیت سے فرماتے ہیں، پھر انھوں  
نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ابو حازم! کیا خیال کر کے قبلہ رخ  
کھڑے ہوتے ہو؟ میں بولا، تین فرضوں کا اور ایک سنت کا، پوچھا،  
وہ کیا کیا ہیں؟ میں نے کہا، قبلہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے، نیت  
فرض ہے اور تکبیر تحریمہ فرض ہے اور دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سنت  
ہے، پوچھا، تم پر کتنی تکبیریں فرض ہیں اور کتنی سنت ہیں؟ میں نے  
کہا اصل تکبیریں ۹۴ ہیں جن میں سے پانچ فرض ہیں اور باقی تمام  
سنت ہیں، پوچھا، تم کس چیز سے نماز شروع کرتے ہو؟ میں نے  
کہا تکبیر سے، پوچھا، نماز کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا، قرآن پاک  
کی تلاوت، پوچھا، نماز کا جوہر کیا ہے؟ میں نے کہا، تسبیح، پوچھا،  
نماز کا زندہ کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا، خشوع، پوچھا، خشوع  
کیا ہے؟ میں نے کہا، سجدہ گاہ پر نگاہ رکھنا، پوچھا، نماز کا گزار  
کیا ہے؟ میں نے کہا، سکون، پوچھا، نماز کی تحریم کیا ہے؟ میں نے کہا  
تکبیر کھینا، پوچھا، تحلیل کیا ہے؟ میں نے کہا، سلام پھیرنا، پوچھا، نماز  
کا شعار کیا ہے؟ میں نے کہا، نماز سے فارغ ہو کر سبحان اللہ کہنا،  
پوچھا، ابو حازم! ان تمام کی چابی کیا ہے؟ میں نے کہا، وضو،  
پوچھا، وضو کی چابی کیا ہے؟ میں نے کہا، بسم اللہ پڑھنا، پوچھا،  
بسم اللہ کی چابی کیا ہے؟ میں نے کہا، نیت، پوچھا، نیت کی چابی  
کیا ہے؟ میں بولا، یقین، پوچھا، یقین کی چابی کیا ہے؟ میں بولا،

فبما استفدت ذلك كله قلت بالتوفيق وفقنا  
 الله وایاک لما يجب ویرضی ثم قال والله لقد  
 اکتلت مفاتیح الجنة فما الفرض علیک وما  
 فرض الفرض وما فرض یؤدی الی فرض وما السنة  
 الداخلة فی الفرض وما سنة یتربها الفرض  
 قلت اما الفرض فالصلاة واما فرض الفرض  
 فالصلاة واما فرض الفرض فالطهارة  
 وفرض یؤدی الی فرض اخذک الماء بیمنک  
 الی شاکک واما السنة الداخلة فی الفرض  
 فتخلیک الاصابع بالماء وسنة یتربها الفرض  
 ففی الختان فقال ما البقیة علی نفسک حجة  
 یا ابا حازم فکفر فرض وسنة علیک فی اکل  
 الطعام قلت هل فی اکل الطعام فرض و  
 سنة قال نعم اربعة فرض واربعة سنة  
 واربعة مکرمة فاما الفرض فالتسبیهة  
 والحمد والشکر ومعرفة ما اطعمک الله  
 واما السنة فاتکاءک علی فخذک الایسر  
 والاکل ثلاث اصابع وشد المضع ولعق  
 الاصابع واما مکرمة فغسل الیدین  
 وتصغیر اللقم والاکل ما یریک وان تقل  
 النظر الی جلیسک هكذا کان یفعل رسول  
 الله صلی الله علیه وسلم۔

رجاء، پوچھا، رجاء کی چاہی کیا ہے؟ میں بولا: صبر، پوچھا صبر کی  
 چاہی کیا ہے؟ میں بولا: رضا، پوچھا رضا کی چاہی کیا ہے؟ میں بولا:  
 اطاعت، پوچھا: اطاعت کی چاہی کیا ہے؟ میں بولا: اعتراف، پوچھا  
 اعتراف کی چاہی کیا ہے؟ میں بولا: توحید الہیہ، درلودتہ کا اقرار،  
 پوچھا: یہ تمام باتیں تم نے کہاں سے معلوم کیں؟ میں نے کہا: علم سے،  
 پوچھا: علم کس طرح سیکھا؟ میں نے کہا: پڑھ کر، پوچھا: پڑھنا  
 کیسے سیکھا؟ میں نے کہا: عقل سے، پوچھا عقل کیسے حاصل کی؟ میں نے  
 کہا: در عقلیں ہیں ایک عقل حق تعالیٰ نے پیدا کی جس میں وہ منفرد ہے  
 اور ایک عقل انسان آداب معرفت سے حاصل کرتا ہے پھر جب یہ  
 دونوں عقلیں جمع ہو جاتی ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک دوسری کو قوت  
 پہنچاتی ہے پوچھا: یہ تمام باتیں کس طرح حاصل کیں؟ میں نے کہا:  
 توفیق سے، حق تعالیٰ شانہ ہمیں اور ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا  
 فرمائے جن کو وہ پسند کرتا ہے اور جن سے خوش ہوتا ہے، پھر فرمایا:  
 اللہ کی قسم! تم نے جنت کی کنجیاں پوری پوری حاصل کر لیں، اچھا  
 تھا تو تم پر فرض کیا ہے؟ اور وہ فرض کیا ہے اور فرض کیا ہے اور وہ فرض  
 کیا ہے جو فرض نہ پہنچائے؟ اور وہ سنت کیا ہے جو فرض میں داخل ہے اور وہ سنت کیا  
 جس سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے؟ میں نے کہا: فرض تو نماز ہے، اور فرض کا  
 فرض پاکی ہے اور وہ فرض جو فرض تکمیل کا ہے یہ ہے کہ تم سیدھے ہاتھ  
 سے پانی لیکر بائیں ہاتھ پر ڈالو۔ اور جو سنت فرض میں داخل ہے وہ یہ ہے  
 کہ پانی سے انگلیوں میں خلل کرنا ہے اور جو سنت سے فرض کی تکمیل  
 ہوتی ہے وہ ختنہ کرنا ہے۔ فرمایا: ابو حازم! تم نے اپنے نفس پر کئی  
 حجت باقی نہیں چھوڑی، اچھا بتاؤ کھانا کھانے کے سلسلہ میں کتنے فرض

ہیں اور کتنی سنتیں ہیں؟ میں نے پوچھا کیا کھانے کے سلسلہ میں بھی فرائض سنن ہیں؟ فرمایا: ہاں، چار فرض ہیں چار سنتیں ہیں اور چار چیز مستحب ہیں فرض  
 بسم اللہ پڑھنا، الحمد للہ کرنا، شکر ادا کرنا اور اس نعمت کو پہچانا جسے حق تعالیٰ نے تم کو کھلایا ہے اور سنتیں بائیں ران پر ٹیک لگا کر بیٹھنا، تین انگلیوں سے  
 کھانا، نالوں کا خوب چباننا اور انگلیوں کا چاٹنا ہے اور مستحبات! تھو دھونا، چھوٹے چھوٹے نالے لینا، سامنے سے کھانا اور اپنے رنقا کی طرف نگاہ نہ



اٹھانا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔

## سو گھواں باب

نماز جمعہ، نماز عید، نماز استسقاء، نماز کسوف و خسوف،

نماز قصر، نماز جمع، نماز جنازہ

نصلی : اما صلاة الجمعة فالاصل فی وجوبها قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه فكل من لزمته الصلوات الخمس يلزمه فرض الجمعة اذا كان مستوطنا مقيما ببلد او قرية جامعة فيها اربعون رجلا عقلاء بلغاء احرارا وان كانت قرية ليس فيها اربعون رجلا وكان من حيث يسمع النداء من قرية اخرى او مدينة بينهما فرسخ وجب عليها اتيانها ولا يسعه التخلف عنها الا ان يكون له عذر او فانه يعذر في تركها وترك الجماعات في بقية الملوات مثل ان يكون مريضا او يكون له مال

نماز جمعہ | نماز جمعہ فرض ہے قرآن حکیم میں ہے کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل کر جاؤ اور گارو بار چھوڑ دو (امرا کا صیغہ و جواب کے لئے ہوتا ہے اس لئے اس آیت کی رو سے جمعہ واجب ہے) علاوہ ازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جمعہ کے دن تم پر نماز جمعہ فرض فرمادی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بلا عذر کے تین جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے لہذا ہر اس شخص پر جس پر بیچگانہ نماز فرض ہیں جمعہ بھی فرض ہے اگر وہ اپنے وطن میں ہو یا کسی دوسرے شہر میں ٹھہر گیا ہو یا ایسے گاؤں میں ٹھہرا ہو جہاں چالیس سال بالغ اور آزاد مرد ہوں لیکن اگر کسی گاؤں میں چالیس سے کم آدمی ہوں اور وہ گاؤں ایسی جگہ ہو جہاں دوسرے گاؤں سے اذان کی آواز آتی ہو یا ایسے گاؤں میں ہو کہ اس میں اور شہر میں تین میل کا فاصلہ ہو تو اس پر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آنا واجب ہے اور نہ آنے کی گنجائش نہیں ہاں معقول عذر ہی ہو تو دوسری بات ہے مثلاً بیمار ہو یا مال ہو اور تنہا چھوڑنے میں اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو یا کسی عزیز کی موت کا ڈر ہو کہ کہیں میرے جانے کے بعد وہ مرنے جائے یا قضاے حاجت میں مشغول ہو یا کھانا چننا ہوا

یخاف ضیاعه او قریب یخاف موته فی غیبتہ  
 اویدافعه الاخبثان البول والغائط او احد  
 او حضرة الطعام ربہ حاجۃ الیہ او یخاف  
 من سلطان ان یاخذہ او غریب یلازمہ  
 ولا شیء معہ یعطیہ او یكون مسافر او یخاف  
 فوات القافلة او یخاف ضررا فی مالہ او یرجو  
 وجودہ یتخلفہ عن الجمعة والجماعة او غلبہ  
 الناس حتی یفرته الوقت او یخاف التأذی  
 بالمطر والوحل والریح الشدیدة وہی رکعتان  
 یصلیہا بعد الخطبة مع الامام فان فاتتہ  
 یصلی اربعاً ظہراً ان شاء وحده وان شاء  
 جماعة ووقتها قبل الزوال فی الوقت الذی  
 تقام فیہ صلاۃ العید وقال بعض اصحابنا  
 فی الساعة الخامسة ومن شرط انعقادها  
 حضور اربعین رجلاً من تجب علیہم  
 الجمعة وفی رواية خسرون وفی رواية ثلاثة  
 وین الجهر بالقراءة فیہا وان تكون سورۃ  
 الجمعة بعد الفاتحة فی الاولى وسورۃ المناجی  
 فی الثانية وهل یشرط اذن الامام علی  
 روایتین ومن شرطها الخطبتان ولیس لہا  
 سنة قبلہا واما بعدہا فاقبلہا رکعتان  
 واكثرہا ست رکعات مروی ذلک فی حدیث  
 بعض الصحابة رضی اللہ عنہم عن النبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم وقد قال بعض العلماء  
 بان اللہ عزوجل تستحب ان یصلی قبل صلاۃ

اور سخت بھوکا ہو یا بادشاہ کی طرف سے گرفتاری کا ڈر ہو یا ترس  
 خواہ کا ڈر ہو کہ وہ اسے چھٹ جائے گا اور اس کے پاس قرعہ  
 ادا کرنے کے لئے کچھ بھی نہ ہو یا مسافر ہو اور قافلہ کے چلے جانے کا  
 ڈر ہو یا مال میں نقصان کا ڈر ہو یا اگر جمعہ میں اور جماعت میں  
 شریک نہ ہو تو حصول کی توقع ہو یا اس پر نیند کا غلبہ ہو اور غلبہ کی  
 حالت میں جمعہ کا وقت نکل جائے یا بارش، کچھ اور سخت آندھی سے  
 ایذا کا ڈر ہو تو ان حالات میں جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہو اور ظہر  
 پڑھ لے۔ جمعہ کی دو رکعتیں ہیں جو خطبہ کے بعد جماعت سے پڑھی  
 جاتی ہیں اگر جمعہ ہاتھ نہ آئے تو ظہر پڑھ لے خواہ تنہا پڑھ لے یا  
 جماعت سے پڑھ لے۔ جمعہ کا وقت قبل از زوال ہے جس وقت عید  
 کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے بعض علماء کا قول ہے کہ جمعہ کا وقت  
 پانچویں ساعت ہے۔ انعقاد جمعہ کی شرط یہ ہے کہ کم از کم چالیس ایسے  
 آدمی ہوں جن پر جمعہ واجب ہے ایک روایت کی رو سے پچاس آدمیوں  
 کی شرط ہے اور ایک کی رو سے تین آدمیوں کی، جمعہ کی نماز میں زور  
 سے قرأت مسنونہ ہے اور یہ بھی کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ  
 جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی جائے۔  
 کیا جمعہ کے لئے امام کی اجازت کی شرط ہے؟ اس سلسلہ میں دو  
 روایتیں ہیں ایک روایت کی رو سے امام کی اجازت کی شرط ہے اور  
 دوسری روایت کی رو سے نہیں۔ نماز جمعہ سے قبل دو خطبوں کی  
 شرط ہے، جمعہ سے پہلے جمعہ کی سنتیں نہیں، ہاں بعد میں کم از کم دو  
 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چھ رکعتیں ہیں جو بعض صحابہ نے  
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ بعض اللہ والے علماء کی رائے ہے  
 کہ جمعہ سے قبل بارہ رکعتیں اور بعد میں چھ چھ رکعتیں مستحب ہیں  
 خطبہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت، دیا کوئی دوسرا شغل منع ہے  
 ہے کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان دی جائے



الجمعة اثنتی عشرة رکعة وبعد هاست ركعات  
ويحتمب البيع والشراء بعد الاذان عند المنبر  
لقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة  
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وهذا هو  
الاذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله  
عليه وسلم وهو واجب عندنا وغيره فرض  
على الكفاية ورروي عنه انه سنة واما اذان  
المنارة فامر به عثمان بن عفان رضی اللہ  
عنه في زمانه لمصلحة عامة وهي اعلام  
الغائبين عن الامصار والقرى فلا يبطل البيع  
ولا الشراء وليستحب ان يصلى اذا دخل الجامع  
وكان في الوقت سعة اربع ركعات يقرأ  
فيهن قل هو الله احد ما تى مرة في كل  
ركعة خمسين مرة فانه روى عن النبي صلى الله  
عليه وسلم انه قال من فعل ذلك لم يمت  
حتى يرى مقعدا من الجنة او يرى له رواه  
ابن عمر رضی اللہ عنہما و اذا دخل الجامع  
فلا يجلس حتى يصلى ركعتين قبل ان يجلس  
وقد ذكرنا فضائل الجمعة وصفة الخروج  
الى الجامع وتجميع ما يتعلق بذلك فيما تقدمت  
فصل: واما صلاة العيدين ففرض على  
الكفاية اذا قام بها جماعة من اهل  
موضع سقطت من الباقين فان افتقروا على  
تركها قاتلهم الامام حتى يتولوا وادل  
وتنعتها اذا ارتفعت الشمس واخرها اذا زالت

تو ذکر اللہ کی طرف جاؤ اور کاروبار چھوڑ دو۔ عہد رسالت  
میں جمعہ کے خطبہ کے وقت ایک ہی اذان دی جاتی تھی یہ اذان  
ہمارے نزدیک واجب ہے اور دوسروں کے نزدیک فرض کفایہ  
اور بعض کے نزدیک سنت ہے۔ یہی منارہ کی اذان سوا اس حکم  
اپنے زمانہ میں ایک عام مصلحت کے طور پر حضرت عثمان نے دیا تھا  
تاکہ دور کے دیہاتیوں اور شہریوں کو اطلاع ہو جائے اس اذان  
سے خرید و فروخت باطل نہیں ہوتی۔

اگر کوئی جمعہ والی مسجد میں آئے اور وقت میں گنجائش دیکھے  
تو اسے چار رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، ہر رکعت میں  
سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ۵۰ بار پڑھے اس طرح چار  
رکعتوں میں سورہ اخلاص دو سو بار پڑھی جائے گی کیونکہ نبی اکرم  
صلعم سے روایت ہے: حضرت ابن عمرؓ کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا  
شخص فوت نہیں ہوگا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ  
نے لے گا، یہاں تک ٹھکانہ اس کو دکھا دیا نہ جائے گا اور  
جب کوئی جامع مسجد میں جائے تو جب تک دو رکعت نماز پڑھ  
نے لے ہوگا نہ شیخے۔

ہم جمعہ کے فضائل اور جامع مسجد کی طرف جانے کی کیفیت اور  
اس کے تمام متعلقہ مسائل اوپر بیان کر آئے ہیں۔

\*

عید و بقر عید کی نماز فرض کفایہ  
عید و بقر عید کی نماز ہے اگر کسی مقام کی ایک جماعت  
پڑھ لے تو سب سے فرض ساقط ہو جاتا ہے اگر سب نہ پڑھنے  
پر اتفاق کر لیں تو امام ان سے جنگ کرے جب تک وہ توبہ نہ  
کر لیں۔

نماز عید کا اول وقت نماز عید و بقر عید کا اول وقت

ولیتحب تقدیمہا فی عید الاضحی لاجل الاضحیہ  
وتأخیرہا فی عید الفطر لعدم ذلك ومن شرطها  
الاستيطان والعدد واذن الامام كالجمعة  
وعن امامنا احمد رحمه الله رواية اخرى  
انه لا يشترط جميع ذلك وهو مذهب الامام  
الشافعي رحمه الله وليتحب المباكرة اليها  
ولبس الثياب الفاخرة والتطيب كما قلنا  
في فضائل الجمعة من قبل والاولى ان تقام في  
المحراء وتكره في الجامع الا لعذر ولا بأس  
بمجنون النساء والاولى ان يكون في خروجه  
ماشيا وان يرجع في طريق اخرى وقد ذكرنا  
العلة في ذلك في فضائل العیدین وبنادی  
لها الصلاة جامعة وهي ركعتان بکبر  
في الاولى بعد دعاء الاستفتاح وقبل  
التعوذ سبع تكبيرات وفي الثانية قبل القراءة  
خمس تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة  
ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا  
وسبحان الله بكرة واصيلا وصلوات الله  
على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما  
فاذا فرغ من التكبير استعاذ وقرأ الفاتحة  
وقرأ سبع اعمربك الاعلى وفي الثانية  
هل اتاك حديث الغاشية وان قرأ في الاولى  
ق والقرآن المجيد وفي الثانية اقتربت  
الساعة والنش القرفمهي رواية منقولة  
عن امامنا احمد رحمه الله وان قرأ غير

سورج کے بند ہونے پر ہوتا ہے اور آخری وقت زوال تک رہتا ہے  
بقبر عید کے دن قربانی کی وجہ سے نماز اول وقت پڑھنا مستحب ہے اور  
عید کے دن قدرے تاخیر مستحب ہے کیونکہ عید الفطر کے دن قربانی نہیں  
عید وبقبر عید کی شرطوں میں وطن میں ہونا اور نمازیوں کی مخصوص تعداد  
کا ہونا اور جمعہ کی طرح امام کی اجازت کا ہونا شامل ہے لیکن ہمارے  
امام احمد سے دوسری روایت میں ایک چیز بھی شرط نہیں اور یہی  
امام شافعی کا قول ہے عید الفطر کے دن اول وقت نماز کو جانا مستحب  
ہے اور یہ بھی کہ نہادھو کر اچھا لباس پہنے اور خوشبو لگائے جیسا کہ ہم  
اور فضائل جمعہ میں بیان کر آئے ہیں۔ عیدین کا دو گانہ میدان یا  
صحرا میں پڑھنا اولی ہے اور بلا عذر کے مسجد میں مکروہ ہے اگر  
عورتیں بھی حاضر ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اولی یہ ہے کہ پیدل چل کر  
جائے اور واپسی میں راستہ بدلے ہم نے راستہ بدلنے کی فضائل  
میں بیان کر دی ہے عیدین کی نماز کے لئے اذان نہیں ملے اگر الصلوة جا  
سے اعلان کر دیا جائے تو روا ہے عیدین کی دو رکعت نماز ہے پہلی رکعت  
میں غائے افتتاح کے بعد اعوذ سے پہلے سات تکبیریں ہیں اور دوسری میں قرأت  
سے پہلے پانچ تکبیریں ہیں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کے تکبیر کے اللہ اکبر اور الحمد  
لنیر اسجان اللہ بکرة واصيلا الخ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور بہت  
بڑا ہے اکثریت سے تمام بڑا ایسا اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں اور  
میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور ہمارے سردار محمد رسول اللہ  
صلعم پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں اور آپ کی آل پر بھی۔  
تکبیروں سے فارغ ہو کر اعوذ پڑھے پھر سورہ فاتحہ پڑھے کہ سورہ  
اعنے پڑھے اور دوسری رکعت میں هل اتاك حديث الغاشية پڑھے  
اگر پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری میں اقتربت الساعة  
پڑھے تو یہ بھی ایک روایت کی رو سے ہمارے امام احمد سے ثابت  
ہے اور اگر اور سورہیں پڑھے تو وہ بھی جائز ہیں اسی طرح دعائے



ذلك جاز وكذلك في تاخير الاستفتاح الى  
حين القراءة روايتان احدهما يستفتح  
عقب تكبيرة الاحرام والآخرى يؤخر  
مع التعوذ الى حين القراءة واذا صلى العيد  
لا يشتغل بالنوافل من الصلاة وكذلك  
لا يصلي قبلها بل يرجع الى اهله ويجمع ثملهم  
بجفورا ويجلس خلفه مع اهله ويجتهد  
في التوسعة عليهم في النفقة لان النبي صلى  
الله عليه وسلم قال ايام العيد ايام اكل  
وشرب ولعالم وهذا عام في يوحي العيدين  
وايام التشريق وان صلوا في المسجد جاز  
فاذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي  
ركعتين تحية المسجد لقول النبي صلى الله  
عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا  
يجلس حتى ياتي بركعتين وهذا عام في يوحي  
العيدين وغيره وانما نص امامنا احمد  
على منع النفل اذا كان في المصلى لانه  
مروى من غير وجه ان النبي صلى الله عليه  
وسلم لم يصلي قبل ولا بعد وهو قول  
عمر وعبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله  
عنهم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم  
كانت في المصلى في الجبانة ولو كانت في  
المسجد لما كان صلى الله عليه وسلم يترك  
تحية المسجد فان فاته جميع صلاة العيد  
استحب له قضاؤها وهو خير في ذلك بين

افتتاح كقرأت تک مؤخر کرنا روا ہے لیکن ایک کا تکبیر تحریمہ کے بعد  
پڑھنا اور دوسری کا اعوذ کے ساتھ قرأت کے وقت پڑھنا قبیح ہے  
عید سے پہلے یا چھپے کوئی نقل نماز نہیں ہے بلکہ نماز سے فارغ ہو کر  
گھر لوٹ جائے اور گھر والوں کی مسرت و اطمینان کا باعث بنے، عید کے  
دن گھر والوں سے حسن اخلاق سے پیش آئے اور ان کے کھانے پینے اور  
لباس میں مقدر بھر فراخی کرے کیونکہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ عید  
کے دن کھانے پینے کے اور کھیل کود کے دن ہیں یہ حکم عام ہے جو عید  
بقر عید اور ایام تشریق سب کو گھیرے ہوئے ہے اگر عیدین کی نماز  
مسجد میں بلا عذر کے پڑھ لی جائے تو بھی نماز ہو جائے گی لیکن مسجد  
میں داخل ہو دو گانہ تحیتہ المسجد کا پڑھ لے کیونکہ نبی اکرم صلعم نے  
فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت  
نماز پڑھ لے یہ حکم عام ہے اور عیدین وغیرہ کو بھی شامل ہے امام  
نے نوافل پڑھنے کو صراحت سے ان لوگوں کو منع کیا ہے جو صحرا میں  
نماز پڑھتے ہیں کیونکہ کسی سندوں سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلعم نے  
نماز عید سے پہلے یا چھپے نماز نہیں پڑھی یہی عمرؓ، ابن عباسؓ،  
اور ابن عمرؓ کا قول ہے اور عید و بقر عید کی نماز نبی اکرم صلعم  
صحرا میں پڑھا کرتے تھے اگر آپ مسجد میں عید کی یا بقر عید کی نماز  
پڑھتے تو کبھی تحیتہ المسجد چھوڑنے والے نہ تھے اگر کسی کو عید کی نماز  
نہ ملے اور چھوٹ جائے تو اس کی قضا کر لے عیدین کی قضا مستحب ہے  
خواہ چاشت کی نماز کی طرح تکبیر زوائد کے بغیر چار رکعت پڑھ لے  
یا تکبیر زوائد کے ساتھ اپنے اہل و عیال اور احباب کے ساتھ دو گانہ  
پڑھ لے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔

نماز استسقاء نماز استسقاء سنون ہے نماز استسقاء کے لئے

امام صحراء میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھانے یہ نماز اپنی تمام صفتوں  
مقام اور احکام میں عیدین کی نماز کی طرح ہے نماز استسقاء کے لئے

ان یصلی اربعاً کملاتہ الفعی بغیر تکبیر  
او تکبیر کہیئتہا فیجمع اہلہ و اصحابہ  
کل ذلک الیہ ولہ بذلک فضل کثیر۔

**فصل:** واما ملاة الاستسقاء فسنة تقام  
یخرج لها الامام كما ینخرج للعیدین من حجة  
فهی کصلاة العیدین فی جمیع صفاتہا و  
موضعہا و احکامہا ویستحب لہ التظف  
والتطهر من جمیع الاحداث والاساخ غیر  
انہ لا یستحب التظیف لانہا حالة الافتقار  
والتذل وطلب الحاجة ولہذا یستحب الخروج  
الیہا بثیاب البذلة مع الخشوع والتضرع  
والاستکانة والانکسار والحزن وان ینخرج  
معہم الشیوخ والعجائز والصبیان واصحاب  
العاہات وان ینخرجوا من المظالم والحقوق  
من الغصوب وغیرہا و اللہ عزوجل من الزکاة  
والندور والكفارات ویكثر والصدقة  
والصیام ویجددوا التوبة ویعزموا علی المدا  
علیہا الی السمات ولا یبارزوا الرب سبحانہ  
بکبیرة من الذنوب ولا یغیرتہ ویستجیوا  
عزوجل فی الخلوۃ اذ لا خلوة منہ فلا تخفی  
علیہ خافیة فی الارض ولا فی السماء ہو  
عالم بالسر والخبیات وکذلک یستحب ان  
یتوسلوا بالزہاد والصالحین و اهل العلم  
والفضل والذین لباروی ان عمر ابن الخطاب  
رضی اللہ عنہ خرج یستسقی فاخذ بید العبا

بھی احداث و میل کچیل سے صفائی اور پاکی مستحب ہے البتہ خوشبو لگانا  
مستحب نہیں کیونکہ احتیاج و ذلت کی اور طلب حاجت کی حالت ہے اسی  
لئے مستحب ہے کہ کام کاج کے کپڑوں میں عاجزی، زاری، سگینی، انکساری  
اور غم کا اظہار کرتے ہوئے نماز کے لئے نکلے اور ضعیف العمر مرد و عورت  
بچے، جوان اور مصیبت زدہ حضرات سب ایک میدان میں جمع ہوں  
اور سب حقوق العباد کو جو ان کے ذمہ ہوں ادا کر کے یا معاف کر کے  
نکلیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اگر ان کے ذمہ باقی ہوں جیسے زکوٰۃ  
منتیں اور کفار سے وغیرہ ان سے بھی سبکدوش ہو کر اللہ تعالیٰ کے ربا  
میں حاضر ہوں اور خوب خیرات کریں اور روزے رکھیں اور توبہ کی توجہ  
کریں اور عزم بالجزم کر لیں کہ مرتے دم تک اللہ سے توبہ کرتے رہیں  
گے اور گناہوں سے کنارہ کش رہیں گے اور بڑے یا چھوٹے گناہ کر کے  
حق تعالیٰ کے عذاب کو نہ لگا رہیں اور خلوتوں میں بھی حق تعالیٰ سے  
شرامیں کیونکہ حق تعالیٰ سے تو خلوت ناممکن ہے اس سے تو آسمان  
زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں کیونکہ وہ تو اسرار و رموز سے اور  
اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے۔ اسی طرح مستحب  
ہے کہ اپنے ساتھ پارساؤں، نیکوں، دین داروں اور ارباب علم و فضل  
کو لے جائیں اور انہیں دعاؤں میں شامل کر لیں۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ اللہ سے بارش کی دعائے گئے کے  
لئے صحرا گئے اور آپ نے حضرت عباسؓ کا ہاتھ پکڑا اور قبلہ رخ کھڑے  
ہو کر کہا کہ اے اللہ یہ ہمارے نبی کے بچے ہیں ہم انہیں تیری طرف وسیلہ  
بناتے ہیں ان کی دعا قبول فرما کہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش بھیج۔  
کہتے ہیں ابھی لوگ صحرا سے واپس بھی نہیں آئے تھے کہ بارش آگئی اور  
جل کے نفل ہو گئے۔ اصل میں بارش کا رک جانا اور ذلت پر نہ ہونا اللہ  
کے گناہوں کی نحوست ہے اور معاصی کی سزا ہے اسی لئے جب کافر  
مرتا ہے اور دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاس منکر کھیر آتے ہیں تو



رضی اللہ عنہ فاستقبل القبلة فقال اللهم هذا  
عم نبینا جئنا تتوسل به الیک فاستجابہ قال  
فارجعوا حتی سقر الان منع القطر وحبسہ  
عقوبة ومقابلة عن شرم معاصی نبی آدم و  
لهذا اذا مات الکافر وقبر وجاء لا منکر  
ونکیر و سال لا عن ربہ ونبیہ و دینہ ولم  
تقدر علی الجواب یفری بانہ سرزبۃ فیصیح  
میحۃ یسعها الخلائق غیر الجن والانس  
نیلعنہ کل شیء حتی شاة القصاب والسکین  
علی خلقها فتقول لعنة الله هذا الذی کنا نمنع  
القطر لاجله وهو قوله عز وجل اولئک یلعنہم  
الله ویلعنہم اللاعنون فان الادمی اذا فسد  
تعدی فسادہ الی کل شیء من حیوانات و اذا  
سلم تعدی صلاحہ الی کل شیء ففسادہ لمعینہ  
لربہ و صلاحہ لطاعتہ لہ عز وجل فیصلی الاما  
اونائبہ بالناس رکعتین بغیر اذان ولا اقامة  
یکبر فی الاولى ستا سوری تکبیرۃ الاحرام و فی  
الثانیۃ خمس سوری تکبیرۃ القیام من السجود  
علی ما ذکرنا فی صلاۃ العید و ینکر اللہ  
عز وجل بین کل تکبیرتین کذلک فاذا اصلی  
خطب بہم وان خطب قبل الصلاۃ جاز و فی  
روایۃ وعنه انه یخیر فی ذلک ونقل عنہ  
رحمہ اللہ انه لا یسن لها الخطبۃ و انما یدعو فحسب  
فیفعل الامام من ذلک ما یتیسر علیہ فاذا  
خطب افتتحها بالتکبیر كما یفعل فی خطبۃ

اس سے رب کے انبی کے اور دین کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ جواب  
نہیں دے سکتا تو منکر تکبیر اسے گرز سے مارتے ہیں اور وہ چیختا ہے جس  
کی چیخیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے  
اور ہر چیز اس پر لعنت بھیجتی ہے حتیٰ کہ جو بگڑی ذبح کی جانے والی  
ہے اور چھری اس کے گلے پر پھیری جانے والی ہے وہ بھی کہتی ہے  
اس پر اللہ کی لعنت ہو یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے ہم پر بارش  
رुक دی جاتی تھی خود حق تعالیٰ فرماتا ہے: انہیں پر اللہ کی لعنت  
ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔

جب انسان شر پسند ہوتا ہے تو اس کی شرارت متعدی ہوتی ہے  
اور اس سے تمام حیوانات متاثر ہوتے ہیں اور اگر خیر پسند ہوتا ہے  
تو اس کی خیر و برکت سے بھی حیوانات مستفید ہوتے ہیں حق تعالیٰ  
کی نافرمانی فساد کی نشانی ہے اور فرماں برداری صلاح کی۔

بہر حال استسقاء کی نماز امام یا امام کا نائب پڑھائے نماز استسقاء  
کی دو رکعتیں ہیں اور اس نماز میں بھی نماز عبیدین کی طرح اذان تکبیر  
نہیں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمیہ کے علاوہ سات تکبیریں ہیں اور دوسری میں  
سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کے علاوہ پانچ تکبیریں ہیں جیسا کہ ہم عبیدین کی  
نماز میں بیان کر آئے ہیں اور ہر دو تکبیروں کے درمیان ذکر اللہ کرے پھر نماز  
سے فارغ ہو کر خطبہ دے، ایک روایت کی رو سے نماز سے پہلے بھی خطبہ جا  
ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ خطیب کو اختیار ہے خواہ نماز سے پہلے خطبہ  
دے یا بعد میں اور یہ بھی منقول ہے کہ خطبہ سنون نہیں محض دعا کی جائے  
عرضیکہ امام کو جس بات میں سہولت ہو وہی کرے، اگر خطبہ دے تو  
عبیدین کی نماز کی طرح تکبیر سے خطبہ شروع کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر  
کثرت سے درود بھیجے اور قرآن پاک کی یہ آیت نقلت استغفر و اکرم  
پر پڑھے، خطبہ سے فارغ ہو کر قبلہ کی طرف رخ کرے  
اور چادر کو پٹ دے یعنی چادر جو پوسیدہ کتھ ہے پر ہوا سے بائیں

العید ویکثر الصلاة علی رسول الله صلی الله علیہ وسلم و یقرأ فی خطبته فقلت استغفروا ربکم انه کان عفارا یرسل السماء علیکم مدرارا الآیات فاذا فرغ من الخطبة استقبل القبلة فحول رداءه فجعل ما کان علی منكبہ الایمن علی الایسر وما علی الایسر علی الایمن ولا ینکسه و لیفعل الناس کذلک و یتروکونه حتی یرجعوا الی اهلهم فینزعونه مع ثیابهم یفعلونه تفادلا یتحول القحط ولان السنة بذاک وردت وهو ما روی عباد بن تیمم عن عمه رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم خرج بالناس یتسقی فصری بهم رکعتین جهر بالقراءۃ فیہما وحول رداءه و دعاء استسقی واستقبل القبلة ثم یرفع یدیه فیستقبل القبلة فیدعو بدعاء النبی صلی الله علیہ وسلم اللهم استغنا غیثا مغیثا مریثا ہنیئا مریثا غدا عجلاد روی مجللا عاما طبقا سعادا ائنا اللهم استغنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین اللهم سقنا رحمة لا سقیا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم ان بالبلاء والعباء والمخلق من اللأواء والبلاء والجهد والفضنک ما لا شکوی الا الیک اللهم انبت لنا الزرع وادرننا الفروع واستغنا من بركة السماء و انبت لنا من بركات الارض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعری واكشف عنا

کندھے پر اور جو بائیں کندھے پر ہو اسے سیدھے کندھے پر ڈال لے اور اسے اوندھانہ کرے تمام حاضرین بھی اپنی اپنی چادر میں پلٹ لیں اور اسی طرح پلٹے رہیں جب تک گھرنے آئیں گھر آکر کپڑوں کے ساتھ چادر بھی اتار دیں ایسا نیک نال لینے کے لئے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قحط کو پلٹ دے علاوہ ازیں ایسا کرنا سنت بھی ہے چنانچہ حضرت عباد بن تیمم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقا کے لئے لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے پھر آپ نے انہیں دو رکعت نماز پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں زور سے قرأت کی اور اپنی چادر پلٹی اور دعائمانگی اور بارش طلب کی اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا پھر قبلہ کی طرف منہ کر لیا پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس نعرہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائمانگی تھی وہ دعائمانگی (دعایہ ہے) اے اللہ ہمیں ہماری دعاؤں کے نتیجہ میں مینہ سے سیراب کر جو خوش گو اور برکت نباتات پیدا کرنے والا، موسلا دھار اور عالمگیر ہو، ایک روایت میں ہے جو عالمگیر، عام روئے زمین پر پھینے والا، جاری اور دیر تک باقی رہنے والا ہو، اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب فرما اور ہمیں نامرادوں میں شامل نہ فرما، ہمیں ایسی سیرابی عطا نہ فرما جو ہمارے لئے عذاب بن جائے، کھیتی باڑی کو بہالے جائے، مصیبت بن جائے ہمارے گھر سہار کر دے اور ڈبلو دینے والی ہو، اے اللہ تمام شہروں میں بندوں میں اور مخلوق میں ایسی سختی، آفت، بلا، مشقت، تنگی عام ہے جس کی شکایت تجھی سے کی جاتی ہے اے اللہ ہمارے لئے کھیتی پیدا فرما اور ہمارے جانوروں کے ہاکھوں میں دودھ پیدا فرما اور ہمیں آسمانی برکتوں سے سیراب فرما اور ہمارے لئے زمین کی برکتیں پیدا فرما، اے اللہ ہم سے مشقت، تنگی، بھوک اور عریانی دور فرما اور ہم سے مصیبت ہٹا جسے کوئی دوسرا نہیں ہٹا سکتا اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں کیونکہ تو حد سے زیادہ بخشنے والا



من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم اننا نستغفرك  
انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مددرا  
ويدعو مثل ذلك اللهم انك امرتنا بدعائك  
ووعدتنا اجابتك فقد دعونا كما امرتنا فاستجب  
لنا كما وعدتنا وقيل انه يستقبل القبلة في اثناء  
الخطبة وتيممها مستقبلا القبلة ثم يردونها  
بالدعاء والاولى ما قلنا من انه اذا فرغ من  
الخطبة استقبل القبلة لان الخطبة وعظوه  
زجروا وتخولفوا ذلك انما يحصل اذا وجه  
الناس واستقبلهم ليبلغ الي اسماعهم و  
قلوبهم واما اذا استقبل القبلة فقد استدل  
هم وقد كان بين ايدهم حين صلى بهم  
فصل: واما صلاة الكسوف فهي  
سنة مؤكدة ووقتها من حين الكسوف  
الى حين التجلي ورد نورهما اليهما يعني اذا  
كسفت الشمس وكسفت القمر فمن حين يبتدئ  
ظهور السواد والكدور ونقصان الشعاع يدخل  
وقت الصلاة الى ان يزول ذلك فاذا زال  
زال وقت الصلاة والسنة ان تصلى في الجامع  
موضع صلاة الجمعة وينادي لها الصلاة  
جامعة فيصلى بهم الامام ركعتين يجرم  
بالاولى ويستفتح ويتعبد ويقرأ الفاتحة  
ثم يقرأ سورة البقرة ثم يركع فيطيل الركوع  
يكر فيه التسبيح بقدر مائة آية ثم يرفع  
رأسه قائلا سمع الله من حمده لا ثم يقرأ الفاتحة

والا ہے لہذا ہم پر برسلا ذہار بارش فرما اور اس جیسی دعا بھی مانگے  
مثلاً اے اللہ تو نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو اور ہم  
سے قبولیت کا بھی وعدہ فرمایا ہے ہم تیرے حکم کے بموجب دعائیں  
مانگ رہے ہیں لہذا تو اپنے وعدے کے بموجب ہماری دعائیں قبول  
فرما۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ خطبہ کے درمیان ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے خطبہ  
ختم کرے، پھر فوراً دعا مانگے، لیکن اولیٰ وہی ہے جو ہم نے بتایا یعنی  
خطبہ ختم کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کیونکہ خطبہ وعظ و ڈانٹ ہے  
اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور یہ مقاصد اسی وقت حاصل ہوتے  
ہیں جب لوگوں کی طرف منہ ہو تاکہ خطبہ ان کے کانوں اور دلوں تک  
پہنچا سکے، لیکن اگر ان کے طرف پیٹھ کر لے گا تو مذکورہ بالا مقاصد  
کی تکمیل میں خلل پیدا ہوگا۔

**نماز کسوف یا خسوف** | یہ نماز سنت مؤکدہ ہے اس کا

وقت گرہن لگنے کے شروع سے گرہن ختم ہونے تک ہے یعنی جب  
سورج یا چاند گرہن لگے تو جس وقت سیاہی اور گلابٹ ظاہر ہوا اور  
کہڑوں میں کمی پیدا ہو تو اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سورج  
یا چاند گرہن سے مکمل نکل جائے، اگر گرہن سے نکل جانے کے بعد نماز کا وقت  
بھی نکل جاتا ہے، نماز کسوف و خسوف جامع مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا  
ہو پڑھنا مستحب ہے اس کے لئے الصلوٰۃ جامعہ کے اعلان سے  
لوگوں کو جمع کیا جائے اور امام لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائے  
اور تکبیر تحریمیہ کے بعد دعائے افتتاح، اعوذ، سورہ فاتحہ پڑھ کر  
سورہ بقرہ شروع کر دے پھر اس قدر لمبا رکوع کرے کہ بقدر سو  
آیتوں کے تسبیحات پڑھے پھر سمع اللہ من حمده کتا ہوا رکوع سے  
مراٹھائے پھر فاتحہ پڑھ کر آل عمران شروع کر دے پھر سابق  
رکوع سے قدرے کم رکوع کرے پھر مراٹھا کر قومہ کے لئے کھڑے

وآل عمران ثم یرکع دون الرکوع الاول ثم یرفع  
 راسه كذلك ثم یسجد سجدتین طویلتین یسبح  
 فی کل واحد لا بقدر مائة آية ثم لیقوم الی  
 الثانية فیقرأ الفاتحة ویقرأ سورة النساء  
 ثم یرکع فیطیل ثم یرفع ویقرأ الفاتحة و  
 المائدة وان لم یحسین هذا السور قرأ غیرها  
 من سور القرآن بعد آیاتها فان لم یحسین الا  
 قل هو الله احد قرأها علی التفصیل كذلك  
 فتكون قراءته فی القیام الثانی کثلتی قراءته فی  
 القیام الثانی کثلتی قراءته فی القیام الاول  
 وتكون قراءته فی القیام الثالث وهو اذ ارفع  
 من السجود الی القیام كنصف قراءته فی القیام  
 الاول وتكون قراءته فی القیام الاخیر وهو  
 الرابع کثلتی القیام الثالث وهو الذی قبله واما  
 التسبیح فهو کثلتی قراءته فی کل قیام و یرکع  
 بعده من غیر خلف ثم یسلم فتكون اربع رکعات  
 و اربع سجادات و یزید فی کل رکعة رکوعا  
 واحدا وان انجلی والناس فی الصلاة استحب  
 تخفیفها ولا یقطعونها و من اراد ان یصلیها  
 وحده لا فی بیته او مع اهله جاز والاولی ما  
 ذکرنا و الاصل فی صلاة الكسوف علی ما بیننا  
 ما روی من عائشة رضی الله عنہا انها قالت  
 کسفت الشمس علی عهد رسول الله صلی الله  
 علیه وسلم فاتی النبی صلی الله علیه وسلم  
 المصلی فکبر وکبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة

ہو اور دیر تک کھڑا رہے پھر طویل دو سجدے کرے اور ہر سجدے میں  
 بقدر سو آیتوں کے تسبیحات پڑھے پھر دوسری رکعت میں فاتحہ کے  
 بعد سورہ نساء پڑھے اور لمبار کوع کرے پھر سر اٹھا کر سورہ فاتحہ کے بعد  
 سورہ مائدہ پڑھے اگر یہ سورتیں یاد نہ ہوں تو جہاں سے قرآن یاد ہو  
 وہاں سے بقدر ان سورتوں کی آیتوں کی تعداد کے پڑھ لے اور اگر صرف  
 سورہ اخلاص ہی یاد ہو تو بار بار یہی سورت پڑھتا رہے حتیٰ کہ  
 مذکورہ بالا سورتوں کی آیتوں کی تعداد برابر ہو جائے اور قیام ثانی  
 میں قراۃ بقدر قیام اول کے ۱۲ کی برابر رہے اور قیام ثالث میں رکوع  
 سے اٹھ کر دوسری رکعت کے قیام اول میں قیام اول کے بقدر ۱۲  
 قرات رہے اور چوتھے (پچھلے) قیام میں تیسرے قیام کے ۱۲ کی برابر  
 رہے۔ تسبیحات بھی ہر قیام میں قرات کی ۱۲ کی برابر رہے پھر رکوع  
 کرے اور پورا دو گانہ پڑھ کر سلام پھیرے اس دو گانہ میں چار  
 رکوع اور چار سجدے ہوں گے اور ہر رکعت میں ایک اور رکوع  
 کا بھی اضافہ کر سکتا ہے اگر حالت نماز میں گرہن کھل جائے تو پھر  
 نماز میں تخفیف کرنا مستحب ہے تاکہ لوگ گھبرا کر نیت نہ توڑ دیں اگر  
 کوئی اپنے گھر میں تنہا یا اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز کسوف پڑھ  
 لے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اولے مسجد ہی میں پڑھنا ہے  
 چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ  
 ایک دفعہ عہد رسالت میں سورج میں گرہن لگانی اگر مہتمم  
 عید گاہ تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت  
 باندھ لی، پھر آپ نے جہری قرات فرمائی اور لمبا قیام  
 کیا پھر لمبار کوع کیا پھر سمع اللہ لمن حمد کہہ کر سر اٹھایا اور  
 لمبی قرات شروع کر دی۔ پھر رکوع میں گئے پھر رکوع  
 سر اٹھایا پھر سجدے میں گئے پھر اسی طرح دوسری رکعت  
 ادا فرمائی پھر سلام پھیر کر آپ نے فرمایا: یاد رکھو سورج



و اطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع رأسه فقال  
 سمع الله لمن حمده لا فقرأ و اطال القراءة ثم ركع  
 فاطال الركوع ثم رفع رأسه ثم سجد ثم رفع رأسه  
 ثم سجد ثم قام ففعل في الثانية مثل ذلك ثم  
 قال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر  
 آيتان من آيات الله لا يخبفان لموت احد  
 ولا حياة فاذا رأيتن ذلك فافزعوا الى الصلاة  
**فصل** : واما صلاة الخوف فحائز فعلها  
 بشرائط اربع احدها ان يكون العدو مباح  
 القتال والثاني ان يكون في غير جهة القبلة  
 والثالث ان لا يؤمن هجومه والرابع ان يكون  
 في القوم كثيرة يمكن تفرقتهم طائفتين فيحصل  
 في كل طائفة ثلاثة فصاعدا فتجعل احدا  
 الطائفتين بازاء العدو والاخرى خلفه فيصلي  
 بعاركة فاذا قام الى الثانية فارقت الطائفة  
 وصلت الركعة لانفسها نافية للمفارقة لانه  
 لا يجوز للمؤمن ان يفارق امامه الابنية  
 فتسلم وتمضي الى وجه العدو فتأتي الطائفة  
 الاخرى فتحرم بالصلاة خلف الامام فتصلي  
 معه الركعة ويجلس الامام وتقوم هي فتصلي  
 الركعة الاولى وتجلس وتتشهد ويسلم بهم  
 الامام غير انه يطيل القراءة في الركعة الثانية  
 بقدر ما تتم الطائفة الاولى الركعة الثانية و  
 تمضي الى اصحابها وتأتي الطائفة الاخرى  
 فتحرم معه ويطيل التشهد في حق الطائفة

اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان میں کسی کی  
 موت یا پیدائش کی وجہ سے گہرے نہیں لگتا۔ لہذا جب تم ان  
 میں گہرے لگا ہوا دیکھو تو فوراً نماز کی طرف رجوع کرو۔  
**نماز خوف** | نماز خوف چار شرطوں کے ساتھ جائز ہے دشمن  
 برسر پیکار ہو، دشمن غیر سمت قبلہ کی طرف ہو، دشمن کے حملہ کرنے  
 کا غالب گمان ہو اور فرج میں اتنے سپاہی ہوں کہ ان کے دو  
 حصے کئے جا سکیں تاکہ ایک حصہ دشمن کے بالمقابل رہے اور ہر  
 حصہ میں تین یا تین سے زیادہ جو ان ہوں الفرض ایک حصہ دشمن  
 کی نگرانی کے لئے متعین کر دیا جائے اور ایک حصہ امام کے پیچھے  
 نماز کے لئے حاضر ہو جائے امام اسے ایک رکعت نماز پڑھائے  
 پھر جب امام دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو تو امام کے پیچھے والا  
 حصہ امام سے علیحدگی کی نیت کر کے اپنی دوسری رکعت پڑھ لے  
 کیونکہ بلا علیحدگی کی نیت کے مقتدی امام سے علیحدہ نہیں ہوتا  
 اور سلام پھیر کر دشمن کے مقابلہ کے لئے چلا جائے اور دوسرا  
 حصہ امام کے پیچھے آ کر نماز کے لئے نیت باندھ لے اور  
 امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے، امام ایک رکعت پڑھ  
 کر تشہد میں بیٹھ جائے اور مقتدی اپنی دوسری رکعت پڑھ  
 کر تشہد میں بیٹھیں اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ دوسری  
 رکعت میں امام اتنی لمبی قرأت کرے گا کہ مقتدی اپنی اپنی رکعت  
 پڑھ کر اور سلام پھیر کر دشمن کے مقابلہ پر چلے جائیں اور  
 دوسرا حصہ آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور دوسرے حصہ کے  
 لئے تشہد میں اتنی دیر بیٹھا رہے گا کہ دوسرا حصہ اپنی بقیہ رکعت  
 پوری کر کے امام کے ساتھ سلام پھیر دے اور اسے امام کے  
 ساتھ نماز کا ثواب حاصل ہو جائے اور پہلے حصہ کو امام کے  
 ساتھ تکبیر تحریمیہ کا ثواب حاصل ہو جائے اسی طرح ہی اکرم

الثانیۃ حتی تتم الرکعة التي عليها وتدركه في  
 التشهد فيسلم بها وتكمل له فضيلة السلام مع  
 الامام ولاد في فضيلة التحريم مع الامام هكذا  
 صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين  
 في غزوة ذات الرقاع وقد قال صلى الله عليه وسلم  
 في حديث سهل بن ابي خزيمۃ رضی اللہ عنہ  
 يقوم الامام و صف خلفه و صف بين يدي  
 العدو فيصلي بالذين خلفه ركعة و سجدتين  
 ثم يقوم قائما حتى يصلوا لا نفسهم ركعة ثم  
 تتقدم اخرى اولئك مكان هولاء ثم يجي اولئك  
 فيقومون مقام هولاء فيصلي بهم ركعة و سجدتين  
 ثم يقعد حتى يقضوا ركعة اخرى ثم يسلم بهم  
 و قد روي عن امامنا رحمه الله ما يدل على  
 جواز تاخير الصلاة في حالة التخاصم القتال  
 و المطاردة الى حين زوالها و وضع الحرب اذا  
 فهذا الذي ذكرناه من صفة صلاة الخوف  
 في صلاة الفجر و الرباعية اذا قصرت في السفر  
 و اما المغرب فيصلي بالطائفة الاولى ركعتين  
 و بالثانية ركعة و لا ينقص منها شي و لانها  
 لا تقصر فاذا جلس في التشهد الاول فعمل  
 تفارقه الطائفة او حين يقوم الى الثالثة على  
 وجهين و ان خاف بالحضر صلى بكل طائفة  
 ركعتين و تقضى لا نفسهما ركعتين و ان فرقهم  
 اربع فرق لم تصح صلاته و صلاة الفرقة الثالثة  
 و الرابعة و هل تبطل صلاة الاولى و الثانية

نے صحابہ کرام کو غزوة ذات الرقاع میں نماز پڑھائی ہے۔

سهل بن ابی خزیمہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ  
 امام اس حال میں نیت باندھے کہ ایک صف اس کے پیچھے ہو اور  
 ایک صف دشمن کے بالمقابل ہو اور امام اپنی صف کو پوری ایک  
 رکعت پڑھائے پھر کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ وہ اپنی دوسری رکعت  
 پوری کر کے دشمن کی طرف چلے جائیں اور دشمن کے مقابلہ والی  
 صف آگے امام کے پیچھے نیت باندھے لے اور امام اب انہیں پوری  
 ایک رکعت پڑھا کر تشہد میں بیٹھ جائے حتیٰ کہ یہ اپنی دوسری رکعت  
 پوری کر لیں پھر امام ان کے ساتھ سلام پھیر دے۔

ہمارے امام احمدؒ سے گھمسان جنگ میں جنگ کے ختم ہونے  
 تک نماز کے موقوف رکھنے کا جواز بھی منقول ہے صریح نص سے  
 تو نہیں ہاں مفہوم سے یہ معنی سمجھا جاتا ہے لیکن نماز خوف کی یہ  
 صورت جو ہم نے بیان کی ہے یہ دو رکعت اور قصر کی حالت میں  
 چار رکعت والی نمازوں میں ہے مغرب کی نماز کی یہ صورت  
 ہے کہ امام پہلی صف کو دو رکعتیں اور دوسری صف کو ایک رکعت  
 پڑھائے کیونکہ مغرب کی نماز میں قصر نہیں پھر جب امام پہلے تشہد  
 میں بیٹھے تو کیا پہلی صف اسی وقت علیحدہ ہو کہ اپنی باقی نماز  
 پڑھے یا اس وقت علیحدہ ہو جب امام تیسری رکعت کے لئے  
 کھڑا ہو؟ دونوں صورتوں پر فتویٰ ہے تو امام ہرگز وہ کو دو رکعت  
 رکعتیں پڑھائے اور ہرگز وہ اپنی دو رکعتیں اگر حالت اقامت  
 میں خوف لاحق ہو امام سے علیحدگی کی نیت کر کے پڑھ لے۔  
 اگر امام چار صفیں بنا کر الگ الگ چاروں کو حسب سابق نماز  
 پڑھائے تو امام کی اور تیسری اور چوتھی صف کی نماز صحیح نہ ہوگی  
 پھر کیا پہلی اور دوسری صف کی نماز بھی باطل ہوگی؟ اس میں  
 دونوں صورتیں ہیں کسی کے نزدیک باطل ہو جاتی ہے اور کسی کے



علی وجهین هذا الذی ذکرنا لا اذا کان العدو  
 وراء القبلة او عن یسینهم وشمالها واما اذا کان  
 فی جهة القبلة فیری بعضهم بعضا ولا یوهم  
 هناك کما ین لهم جازان یصلی بهم صلاة الخوف  
 ینجعلهم صفین او ثلاثة علی قدر کثرتهم و  
 قلتهم ویمر بهم اجنحین فیصلی الركعة الاولى  
 فاذا اراد السجود سجد الجميع الا الصف الاول  
 الذی یشیه فانه یقف فیحرسهم حتی یقوموا  
 الی الركعة الثانية ثم یسجد فیلحقهم قیاما  
 فاذا سجد الامام فی الركعة الثانية وقف الصف  
 الاول الذی سجد معه فی الركعة الاولى  
 فیحرسهم الی ان یجلس الامام فی التشهد ثم  
 یلحقه فی التشهد یتبعه فیسلم بالجمع هكذا  
 روی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه صلاها  
 بعسفان وان تاخر فی الركعة الثانية الصف الاول  
 وتقدم الصف الثاني الی مکان الاول فیحرس  
 جازوان اشتد الخوف والتجم القتال صلوا جبا  
 وفرادی علی اسی حال امکنهم رهالا وریکانا  
 مستقبلی القبلة ومشد یریه اایاء و غیر اایاء  
 وهل علیهم افتتاح الصلوة متوجهین الی  
 القبلة ام لا هل یروایتین فان حصل الامن  
 وانکسر العدو بنوا علی صلواتهم ونزلوا عن  
 ظهور دوابهم متوجهین وان شرعوا فی الصلوة  
 مطمئنین ثم اشتد الخوف رکبوا وامنوا ملاً  
 خوف وان اجتاحوا الی الضرب والطعن والبحر

نزدیک نہیں۔

غرضیکہ مذکورہ بالا صورت اس وقت ہے جب کہ دشمن قبلہ کے پیچھے یا  
 دائیں بائیں ہو لیکن اگر دشمن سمت قبلہ میں ہو اور ایک دوسرے کو  
 دیکھتا ہو اور یہ خیال بھی نہ ہو کہ ان کے آدمی چھپے ہوئے ہیں تو اس  
 صورت میں بھی نماز خوف جائز ہے لہذا امام کثرت و قلت کے اعتباراً  
 سے اپنے جو انوں کی دو یا تین صفیں بنائے اور امام کے ساتھ سب  
 نیت باندھ لیں اور پہلی رکعت پڑھائی جائے پھر جب امام سجدے  
 میں جانا چاہے تو تمام مقتدی سجدے میں چلے جائیں البتہ امام  
 کے متصل جو صف ہے وہ کھڑی رہے اور تمام نمازیوں کی حفاظت  
 کرے حتیٰ کہ سب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں تو اب  
 پہلی صف اپنے دونوں سجدے کر کے امام کے ساتھ مل جائے کیونکہ  
 امام قیام میں ان کا منتظر رہے گا پھر جب دوسری رکعت میں امام  
 سجدے میں جائے تو پھر وہ صف کھڑی رہے جس نے امام کے ساتھ  
 پہلی رکعت میں سجدہ کیا تھا اور باقی حضرات سجدہ میں چلے جائیں حتیٰ  
 کہ امام تشہد میں بیٹھ جائے پھر کھڑی ہوئی صف اپنا سجدہ کر کے  
 تشہد میں امام کے ساتھ ہو جائے پھر سب اکٹھے سلام پھیر دیں  
 یہی اگر مصلح سے منقول ہے کہ آپ نے اسی طرح عسفان میں نماز  
 پڑھی اور اگر دوسری رکعت میں پہلی صف چھپے آجائے اور پھلی  
 صف آگے بڑھ جائے اور پہلی صف کی جگہ چلی جائے اور حفاظت  
 کرے تو بھی جائز ہے اگر سخت خوف ہو اور گھمسان کی جنگ ہو  
 رہی ہو تو جس طرح ممکن ہو جماعت سے یا تنہا تنہا پیدل یا سوار  
 قبلہ کی طرف رخ ہو یا نہ ہو اشاروں سے یا اعضا سے غرضیکہ  
 جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لیں کیا نیت باندھتے وقت قبلہ رخ  
 ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں دونوں روایتیں ہیں  
 لیکن اگر امن ہو جائے اور دشمن کو شکست ہو جائے تو نماز سابق

والفرد تجوز هذه الصلاة لكل خائف من عدو  
كالسبع والسيب ونطاق الطريق وغير ذلك و  
كذلك اذا كان طالب للعدو ويخاف فوته  
عند هزيبته يصيلها على احدى الروايتين -  
فصل: واما قصر الصلاة فجاز اذا جاوز  
بيوت قرنته او خيام قومه فيقصر الرباعية  
فيصليها ركعتين اذا كان سفره طويلا وهو  
سته عشر فرسخا اربعة بردوهي ثمانية و  
اربعون ميلا بالهاتشي والبريد الواحد  
اربعة فراسخ فيقصر ما راجع اليها فان دخل  
بلدة او قرية فتوى الإقامة فيها اثنتين  
وعشرين صلاة ثم وكان حكمه حكم  
المقيم وان لوى احدى وعشرين صلاة فعلى  
روايتين ودون ذلك قصر وان نزل بلدة و  
لم يلد متي يرتحل ولا نية له بل قال اليوم  
اخرج وغدا اخرج قصر بها لما روى ان النبي  
صلى الله عليه وسلم اقام بكة ثمانية  
عشر يوما وقيل خمسة عشر يوما يقصر وفي  
حديث عمران بن الحصين رضى الله عنهما  
شهدت الفقم مع رسول الله صلى الله عليه  
وسلم فكان لا يصيل الا ركعتين ثم يقول  
لاهل البلد صلوا اربعانا قوموا سفر و اقام  
صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر  
وكذلك الصحابة رضى الله عنهم قال انس  
بن مالك رضى الله عنه كان اقام اصحاب

نیت پر پوری کریں اور قبلہ رخ سوار یوں سے نیچے اتراؤں اگر حالت اطمینان  
اس میں نماز شروع کی گئی ہو اور درمیان میں خطرہ شدت پکڑ گیا ہو تو سوار  
ہو کر نماز خوف مکمل کریں اگرچہ مار دھاڑ، نیزہ زنی، حملہ کرنے اور بھاگنے کی نوبت  
آجائے، نماز خوف ہر اس شخص کے لئے جائز ہے جو دشمن (جیسے درندہ،  
سیلاب، ڈاکو وغیرہ) سے خوفزدہ ہو۔ اسی طرح اگر دشمن کے حملہ کا خطرہ  
ہے اور اس کی شکست کے وقت اس کے قرب کا اندیشہ ہے تو دو روایتوں  
میں سے ایک روایت کی رد سے نماز خوف پڑھنا جائز ہے۔

### نماز قصر

نماز قصر مسنون ہے جب نمازی اپنے شہر کے گھروں سے یا  
اپنی قوم کے غیموں سے آگے بڑھ جائے تو چار رکعت والی نماز میں قصر  
کرتے اور دو رکعت ادا کرے جبکہ سفر لمبا ہو یعنی ہاشمی میل سے ۲۸ میل  
کا سفر سوار چار برید یا ۱۶ فرسخ یا ۲۸ میل کا سفر ہو) اس سفر میں  
حالت سفر میں آتے جاتے قصر کرتے اگر کسی شہر یا آبادی میں پہنچنے کے  
بعد ۲۲ نمازوں تک ٹھہرنے کی نیت کہے تو اس کا حکم مقیم کا ہے لہذا  
نماز پوری پڑھے اور اگر ۲ نمازوں تک ٹھہرنے کی نیت کی ہو تو قصر کی بھی  
روایت ہے اور عدم قصر کی بھی اور اگر ۲ سے کم کی نیت ہو تو قصر کی نیت نہیں  
اور یہ فیصلہ ذکر ہے کہ کب تک ٹھہرے گا اور ٹھہرنے کی نیت نہ کرے بلکہ  
آج کل میں چلے جانے کی نیت ہو لیکن پھر رک جانا ہو تو قصر کرتا رہے  
کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلیم کہ میں ۱۸ دن ٹھہرے اور یہ بھی  
کہا گیا ہے کہ ۱۵ دن ٹھہرے اور قصر نماز پڑھتے رہے۔

عمران بن حصین کا بیان ہے کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلیم کے  
ساتھ موجود تھا آپ دو رکعت ہی پڑھے کہ فرما دیا کرتے تھے کہ اسے  
شہدوا لہم چار رکعت پڑھ لو ہم مسافر ہیں اس لئے ہم نے دو رکعتیں  
پڑھی ہیں اور نبی اکرم صلیم تب تک میں بیس دن ٹھہرے اور قصر کرتے  
رہے۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کا  
بیان ہے کہ صحابہ کرام رام ہرمز میں، ماہ ٹھہرے اور قصر کرتے رہے۔



حضرت ابن عمرؓ از ربیعان میں ۶ ماہ ٹھہرے اور قصر کرتے رہے اگر کسی نے حالت اقامت میں نماز کی نیت باندھ لی ہو پھر نماز ہی میں مسافر ہو گیا ہو مثلاً اپنے شکر کے اندر سواری پر سوار تھا پھر طلاع نے کشتی یا جہاز چلا دیا اور نماز ہی میں حدود شکر سے نکل گیا پوری نماز پڑھنی لازم ہے اسی طرح اگر حالت سفر میں نیت باندھ لی ہو پھر حالت نماز ہی میں سواری شکر میں پہنچ کر ٹھہر گئی ہو یا مقیم کی اقتداء کر لی ہو یا اس شخص کی جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ مقیم ہے یا مسافر بلکہ شکوک ہو یا شروع نماز میں قصر کی نیت نہ کی ہو ان تمام صورتوں میں پوری نماز پڑھنی لازم ہے۔

اگر کوئی نماز میں قصر کرے تو اسے قصر جائز نہیں کہونکہ نماز اس کے ذمہ کامل ثابت و فرض ہوتی ہے سفر خاص طور پر ادا میں مؤثر ہوتا ہے قصر میں نہیں۔ اگر قصر کی نیت سے نیت باندھی ہو پھر ٹھہر جانے کا عزم کر لیا ہو تو پوری نماز پڑھے اسی طرح اگر حالت اقامت میں نیت باندھی ہو پھر سفر کی نیت کر لی ہو تو پوری نماز پڑھے اسی طرح اگر گناہ کے بالوہو کے یا تفریح کے لئے سفر کیا ہو تو ایسا سفر سفر کی رخصتوں کو مباح نہیں کرتا یہ رخصتیں اسی وقت کا آدم ہوتی ہیں جب کسی واجب عبادت رخصت ہو جے اور جہاد وغیرہ کے لئے سفر کیا جائے یا مباح عبادت رخصت تجارت یا قرض خواہ وغیرہ کے لئے کیا جائے اگر ہم قصر کی گناہوں والے سفر کے لئے اجازت دیں تو ہم گناہوں پر اور گناہوں پر قائم رہنے پر اعانت کریں گے اور اطاعت کے ذریعہ عدم اصلاح پر مجاوت ہوں گے لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم گناہوں پر اعانت نہ کریں اور گناہوں کو تقویت نہ پہنچائیں بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم انہیں گناہوں سے روک دیں اور انہیں کمزور کر دیں۔ ہمارے امام احمدؒ کے نزدیک پوری نماز سے قصر افضل ہے اور پوری نماز اور قصر دونوں جائز ہیں جیسے مسافر کو روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں جائز ہیں اور تمام مسائل میں اپنی طاقت و قوت کا اظہار نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رخصتوں پر عمل کرنا اور اس کی نرمیوں کی پیروی کرنا اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برامہرمز سبعة اشهر يقصرون الصلاة وروى ان ابن عمر رضي الله عنهما اقام بأذربيجان ستة اشهر يصلي ركعتين وان احرم بالفضلة وهو مقيم ثم صار مسافرا بان كان يركب الى جنب بلد لا في حدودها داخل من جيطانها وسورها ثم دفع الملاح المركب فخرج من حدودها الزمه الاتمام وكذلك لو احرم في السفر ثم اقام ببلد او اتم بمقيم او بمن يشك هل هو مقيم او مسافر ولم ينو القصر عند شروعه فيها الزمه الاتمام في جميع ذلك ولا يجوز القصر اذا كان قاضيا للصلاة لانها قد ثبتت في ذمته كاملة ولا يؤثر السفر الا في الاء خاصة واذا احرم بنية القصر ثم نوى الإقامة اتم وكذلك ان احرم وهو مقيم ثم نوى السفر اتم وكذلك ان كان سفره معصية او لعبا ونزحة لا يستبيح رخص السفر ولا يتبيح ذلك الا اذا سافر لواجب كالجهاد او مباح كتجارة او طلب غريم وما شاكله واذا اجناه للعامة بسفرة فقد اعناه على معصية ربه وبقائه عليها وعدم صلاحه بطاعته فلا تقوية على ذلك ولا يعينه بل نمنعه ونكسره والقصر عند امامنا احمد رحمه الله افضل من الاتمام وله الاتمام والقصر كماله الصيام والقطر وترك التجلد على الله عز وجل في جميع ذلك

اتباع رخصه ورفقه اولی ولو لم یکن فی انما  
 للصلاة وصیامه فی السفر غیر رتیہ للنفس و  
 عیبه و مباحاتہ و تعظیمہ ذلک و فی قصره و افطاره  
 من ذل النفس و انکسارہ و حضورہ المترك تمام  
 العبادۃ و العزیمۃ لکان بالمجرى ان یقال ان القصر  
 و الفطر اولی کیف وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم  
 لما قیل لہ فی قصر الصلاة ما لنا بقصر وقد ائنا  
 فقال صلی اللہ علیہ وسلم تلك صدقة تصدق  
 اللہ بها علی عبادہ فاقبوا و صدقة و قال  
 صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یؤخذ  
 برخصه كما یحب ان یؤخذ بعزائمه فالعجب  
 کل العجب من یتم الصلاة فی السفر ویصوم  
 ینہ و یترك الرخص و هو یتکب الكبائر  
 من اکل الحرام و شرب المسکر و لبس الحریر  
 و الزنا و اللواطۃ و اعتقاد السوء فی الامول  
 و غیر ذلک من العظائم۔

**فصل** : واما الجمع بین الصلاتین فجايز  
 بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء فی السفر  
 بشرط ان یكون السفر طویلاً و هو ستة عشر  
 فرسخاً علی ما بیننا و لا یجوز ذلک فی القصر  
 و هو ما دون ذلک و هو مخیر بین تاخیر الاولی  
 الی تقدیم الثانية و بین تقدیم الثانية الی  
 وقت الاولی و الاستحباب فی التأخیر و هو ان  
 یؤخر من الاولی و یتقدم الثانية فیصلیها فی  
 اول وقت الثانية فان صلاهما فی وقت الاولی

ہے اگر کسی کی نیت سفر میں نماز پوری پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے  
 فخر و مباحات اور عجب و غرور کے علاوہ کچھ اور ہوا در قصر سے اور روزہ  
 نہ رکھنے سے نفس کی ذلت و خواری اور انکساری مفقود ہو تو اس سے  
 کہہ دیا جائے کہ قصر اور روزہ نہ رکھنا اولیٰ ہے بھلا قصر و افطار کیے  
 افضل نہ ہوں حالانکہ جب نبی اکرم صلعم سے قصر کے بارے میں یہ پوچھا  
 گیا کہ اب ہم امن کی حالت میں کیسے قصر کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا  
 کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے جسے اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے لہذا  
 اس کا صدقہ قبول کر لو اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو قبول کرنا اللہ کو محبوب ہے  
 جیسے اس کے واجبات کو قبول کرنا اسے محبوب ہے لہذا ان  
 لوگوں پر سخت حیرت ہے جو سفر میں قصر نہیں کرتے اور روزہ  
 رکھتے ہیں اور اللہ کی رخصتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ بڑے  
 بڑے گناہ بھی کرتے ہیں جیسے حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں،  
 ریشم پہنتے ہیں بدکاریاں اور اغلام بازی کرتے ہیں اور بنیادی  
 مسائل میں بڑے عقائد رکھتے ہیں اور شرک و بدعات میں مبتلا  
 رہتے ہیں۔

**و نمازیں ملا کر پڑھنا** | سفر میں دو نمازیں ملا کر پڑھنا جائز  
 ہے یعنی ظہر و عصر کو اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھنا مسنون ہے  
 بشرطیکہ سفر کم از کم ۴۸ میل کا ہو جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں  
 چھوٹے سفر میں نمازیں ملا کر پڑھنا جائز نہیں نماز کو اختیار سے  
 خواہ جمع تقدیم کرے یا جمع تاخیر پھلی نماز کو پہلی نماز کے وقت میں  
 پہلی نماز کے فوراً بعد پڑھنا جمع تقدیم ہے اور اس کے برعکس جمع  
 تاخیر ہے لیکن مستحب جمع تاخیر ہی ہے کہ پہلی نماز کو اس کے اخیر وقت  
 میں اور دوسری کو اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے اگر دونوں  
 نمازیں ملا کر پہلی نماز کے وقت پڑھ لے تو پہلے اول نماز پڑھے پھر



قدم الاولى منهما ثم الثانية ونوى الجمع عند الاحترام  
 بالاولى ولا يفرق بينهما الا بقدر الاقامة  
 والوضوء ان انتقض وضوءه وان صلى بينهما سنة  
 العملا لا بطل الجمع في احدي الروايتين والاخرى  
 لا يبطل والاولى ان يوحى السنة الى بعد الفراغ  
 من الفرض ولا يفصلها بشيء وان جمع في وقت  
 الثانية فنيتها في وقت الاولى تجزیه ولا يفتقر  
 الى تجديد النية عند فعلها لانه ما احرى الاولى  
 الا ليجمع بينهما وبين الثانية ولا فرق بين  
 ان ينوي ذلك في اول وقت الاولى او اذا بقى منه  
 مقدار فعلها فان خرج وقت الاولى من غير  
 نية الجمع لم يجز الجمع بينهما واذا جمع في وقت  
 الثانية تقدم الاولى ثم الثانية كما لو صلحها  
 في وقت الاولى وهل يشترط ان لا يفرق بينهما  
 بسنة وغيرها على وجهين ومن اصحابنا من قال  
 ان الجمع والفقر لا يفتقران الى نية وهو ابو بكر  
 رحمه الله واما الجمع لاجل المطر فيجوز بين  
 المغرب والعشاء وهل يجوز بين الظهر والعصر  
 على وجهين وكذلك الحكم في الوصل المجرد  
 من غير مطر او ريح شديدة باردة هل يجوز  
 الجمع لاجله على وجهين فاذا جمع نظرنا فان  
 كان ذلك في وقت الاولى لاجل المطر اعتبر  
 ان يكون المطر موجودا عند افتتاح الاولى  
 وعند الفراغ منها واقتتاح الثانية وان كان  
 ذلك في وقت الثانية جاز سواء كان المطر

دوسری نماز پڑھے اور پہلی نماز کی تکبیر تحریمہ سے پہلے دونوں نمازوں کو  
 ملانے کی نیت کرے اور دونوں نمازوں میں بقدر وضو اور تکبیر کے فاصلہ  
 رکھے اس سے زیادہ نہیں اگر وضو جاتا رہے اور دونوں نمازوں کے درمیان  
 سنت پڑھ لی جائے تو دو روایات میں سے ایک روایت کی رو سے جمع  
 باطل ہو جائے گی اور دوسری روایت کی رو سے باطل نہیں ہوگی اور لے یہ  
 ہے کہ دونوں نمازوں سے فارغ ہو کر سنتیں پڑھ لے اور کسی نماز سے  
 دونوں نمازوں سے فارغ ہو کر سنتیں پڑھ لے اور کسی نماز سے دونوں  
 نمازوں میں فاصلہ نہ کرے۔ اگر نمازوں کو دوسری نماز کے وقت جمع کرے  
 تو اول نماز کے وقت نیت کافی ہے دونوں کو پڑھنے وقت از سر نیت  
 کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلی نماز اسی لئے نہیں پڑھی ہے کہ دوسری  
 نماز کے ساتھ جمع کی جائے گی ان میں کوئی فرق نہیں خواہ پہلی نماز کے  
 اول وقت جمع کی نیت کرے یا اخیر وقت میں جب کہ اتنا وقت باقی رہے  
 کہ اس میں نماز پڑھ لی جائے اگر جمع کی نیت کے بغیر پہلی نماز کا وقت کل  
 گیا تو جمع جائز نہیں اور جب دوسری نماز کے وقت میں دو نمازیں جمع کی  
 جائیں تو پہلے اول نماز پڑھی جائے پھر دوسری جس طرح اگر اول کے وقت  
 دونوں نمازیں پڑھی جائیں تو اسی طرح پڑھی جائیں گی۔

کیا جمع میں یہ شرط بھی ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان سنت وغیرہ  
 پڑھ کر فاصلہ نہ کیا جائے؟ اس مسئلہ میں ہمارے علماء کے نزدیک دو  
 روایتیں ہیں بعض علماء کے نزدیک جمع و فقر میں نیت کی ضرورت نہیں  
 یہ قول ابو بکر کا ہے، بارش کی وجہ سے دو نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے  
 مگر یہ جمع مغرب و عشاء کے ساتھ مخصوص ہے ظہر و عصر میں دونوں  
 طرح کی روایتیں ہیں۔ جمع کا یہی حکم راہ کی کچھڑ کی وجہ سے ہے جب کہ  
 نہ بارش ہو رہی ہو اور نہ سخت ٹھنڈی ہو اچل رہی ہو یعنی اس  
 میں بھی دو روایتیں ہیں اگر کوئی بارش کی وجہ سے پہلی نماز کے وقت  
 میں دو نمازیں جمع کرنا چاہے تو پہلی نماز کو شروع کرتے وقت بارش

قائما وقد انقطع لانه قد اُخرا لاولی سبب  
 العذر فلا یوترزواله لان اول الوقت قد فات  
 واقضی فلا یسکن تلافیه وادراکه وانما جوزنا  
 له الجمع لاجل المشقة اللاحقة بالناس من بل  
 الثیاب والحذاء والآیة فیشق علی الناس الذخول  
 والخروج وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابتلت  
 النعال فالصلاة فی الرجال مروی ذلك فی الصحیحین  
 وخذ لك عندنا حکم المریض حکم المسافر فی الجمع  
 لان الله تعالی جمع بینہما وذكرهما فی کلام  
 واحد فقال عز وجل فمن كان منكم مریضا او  
 علی سفر فعذلا من ایام اخر فالعذلة فی التخفیف  
 العجز والمشقة وذلك فی المریض آكد واظهر  
 وبه احق لان المسافر قد یكون مرفها ممللا  
 محمول متفرجا قویا نشیطا فی سفره اکثر  
 مساکن فی الحضر اغناة وسلطنته وقد رتته  
 ومع ذلك تستباح له الرخص والمریض بخلافه  
 فكان اولی بالرخص من المسافر۔

**فصل** : واما الصلاة علی الجنائز فہی  
 فرض علی الکفاية واولی الناس بها عندنا  
 وصیہ تم السلطان ثم الاقرب فالاقرب  
 من عصبانہ یتقف الامام حذاء صدر الرجل  
 ووسط المراه وان كانوا جباغۃ سوی بین  
 رؤسہم وان كانوا النواعق ما فضلہم  
 مایلی الامام مثل ان یقولوا رجالا ونساء  
 وعبید او خثانی وصیبا ناقد المرہال ثم البعید

کے پائے جانے کا اعتبار کیا جائے گا اور پہلی نماز سے فراغت کے بعد دوسری نماز کو شروع کرتے وقت بھی بارش کے وجود کا اعتبار ضروری ہے اور اگر جمع دوسری نماز کے وقت میں ہے تو جائز ہے خواہ بارش ہو یا نہ ہو یا نہ ہو کیونکہ پہلی نماز میں عذر کی وجہ سے تاخیر کی گئی ہے اس لئے اس میں بارش کا ذکر کتنا مؤثر نہ ہو گا کیونکہ اول وقت ختم ہو چکا اور اگر چکا اس کا لا تھ آنا تو محال ہے اور ہم نے جمع کی اس لئے اجازت دی ہے کہ لوگ مشقت سے بچ جائیں جو کپڑوں کے بھینگنے سے اور جوتوں کے کپڑے میں لٹھر جانے سے بچ سکتی ہے اور اگر کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں اور آنا جانا اذیت کا باعث ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جوتے بھینگ جائیں تو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ بخاری مسلم میں اس سلسلہ میں روایت موجود ہے جمع کے سلسلہ میں ہمارے نزدیک بیمار و مسافر کا یہی حکم ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے دونوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے فرمایا: پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں (چھوٹے ہوئے روزوں کی) تعداد پوری کر لے لہذا تخفیف کی علت مشقت و عجز ہے اور عجز و مشقت بیمار میں پر زور ہوتی ہے اور بہت ظاہر ہوتی ہے اور بیمار اس تخفیف کا زیادہ حق دار ہے کیونکہ مسافر کبھی نیز و فقار سوار می شہ سواری ہو کہ سیر و تفریح کرتا ہو اخوش و خرم سفر طے کرتا ہے اور ثروت، امارت اور قدرت کے وجہ سے اسے سفر میں وطن سے زیادہ آرام مل جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے لئے رخصتیں مباح ہیں اور بیمار کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے لہذا بیمار مسافر سے زیادہ رخصتوں کا حق دار ہے۔

**نماز جنازہ** | نماز جنازہ فرض کفایہ ہے ہمارے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ نماز جنازہ وہی پڑھے جس کو مرنے والا وصیت کر گیا ہو پھر حاکم وقت کا حق ہے اس کے بعد انارب کا حق ہے کہ تریب کا عزیز دور کے عزیز سے زیادہ حق دار ہے۔ نماز جنازہ میں امام مرد کے سینے کے بالمقابل کھڑا



ثم الصبيان ثم الخنثى ثم النساء وروى عنه تقديم  
الصبيان على العبيد ثم ينظر في الأنواع فيقدم  
مبايلي الامام من كل نوع افضلهم في العلم  
والفزان والدين والورع وقيل اذا اجتمع رجل  
وامرأة جعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل و  
اذا وقف الامام التفت يمينا وشمالا وسوى  
الصفوف كفعله في يقية الصلوات واستغفر الله  
تعالى وتاب من ذنوبه وذكر مفرغه والمدار  
الآخرة ويتحقق انه كأس لابد من شربة وانه  
سيد راليه ولا يفوته فليحضر قلبه وليخشع  
جوارحه ليكون اسرع لاجابة دعائه ثم يصلي  
على الميت فصفته ان يقول صلى على هذا  
الميت فرضا على الكفاية ولا يحتاج ان يذكر  
ذكارا وانشى فيكبر اربع تكبيرات يقرأ في  
الاولى الفاتحة لما روى عن ابن عباس رضی اللہ  
عنه ما انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ان نقرأ بفاتحة الكتاب على الجنائز ثم يصلي  
على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كما  
يصلي في التشهد لما روى مجاهد رحمه الله قال  
سالت ثمانية عشر رجلا من اصحاب رسول الله  
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الجنائز  
يقول كبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم كبر ثم صل  
على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وادع  
للميت في الثالثة بما تحسنه وتيسر عليك من  
الواع الدعاء ولنفسك ولوالديك وللمسلمين

ہو اور عورت کے درمیان میں اگر کئی مردوں کے جنازے ہوں تو  
سینے کے بالمقابل کھڑا ہو اگر جنازے مختلف نوع کے ہوں تو افضل امام  
کے متصل رکھا جائے مثلاً مردوں اور تین اغلاموں، سبوروں اور بچوں  
کے ہیں تو امام متصل مرد، پھر غلام پھر بچے پھر سبوروں پھر عورتیں رکھی  
جائیں۔ امام احمد سے یہ روایت ہے کہ بچوں کو غلاموں پر مقدم کیا جائے  
پھر حسب سابق ترتیب سے رکھے جائیں پھر ہر نوع سے امام کے  
قریب سے رکھا جائے جو علم، قرآن، اور زہد و تقویٰ میں افضل ہو  
کہا جائے کہ اگر مرد و عورت کا جنازہ جمع ہو تو عورت کے وسط کھڑے  
مرد کے سینے کے بالمقابل رکھا جائے پھر جب امام نماز پڑھنے کے  
لئے کھڑا ہو تو دائیں بائیں دیکھ لے کہ صفیں سیدھی ہیں یا نہیں کہ  
صفیں سیدھی نہیں ہیں تو سیدھی کرے جس طرح دوسری نمازوں  
میں صفیں سیدھی کرائی جاتی ہیں اور حق تعالیٰ سے دعائے مغفرت  
طلب کرے اور گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی موت کو اور آخرت کو  
یاد کرے اور یقین کر لے کہ جام مرگ پٹے بغیر چارا نہیں۔ یہ جام گھوم  
گھام کر میرے پاس بھی آئیو اللہ ہے اور مجھ سے چھوٹنے والا نہیں لہذا  
دل حاضر کرے اور اعضاء کو حق تعالیٰ کے آگے جھکا دے تاکہ دعا قبول  
مقبول ہو پھر نماز جنازے کی نیت کرے کہ میں اس جنازے پر بطور  
فرض کفایہ کے نماز پڑھتا ہوں مرد یا عورت کے ذکر کی ضرورت نہیں  
جنازے کی نماز میں چار تکبیریں ہیں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے  
کیونکہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا  
کہ جنازے پر فاتحہ پڑھی جائے پھر اللہ اکبر کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود  
بھیجے وہی درود جو تشدد کے بعد پڑھا جاتا ہے کیونکہ مجاہد کا بیان  
کہ میں نے اسی بار سے نماز جنازہ کے بارے میں پوچھا ہر ایک نے یہی  
جواب دیا اللہ اکبر کہہ کر فاتحہ پڑھی پھر اللہ اکبر کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
پر درود بھیجی پھر اللہ اکبر کہہ کر میت کے لئے دعا مانگو جو دعائے عامہ کو

اچھو طرح سے یاد ہو اور آسانی سے پڑھی جاسکے اور اپنے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے بھی دعائیں مانگو لیکن مستحب مندرجہ ذیل دعائیں ہیں (۱) اے اللہ ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو ہمارے موجود کو ہمارے غیر موجود کو ہمارے چھوڑوں کو ہمارے بڑوں کو ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو بخش دے اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے اسلام و سنت پر زندہ رکھ اور جسے تو ہم میں سے موت دیدے تو اسے اسلام و سنت پر موت دے بلاشبہ تجھے ہمارے لوٹنے کی جگہ اور ہمارا ٹھکانہ معلوم ہے اور تو ہر چیز پر خوب قادر ہے (۲) اے اللہ وہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے تیرے پاس آگیا ہے اور تو بہترین میزبان ہے اور ہم اس کے بارے میں بجز اچھائی کے کچھ نہیں جانتے اے اللہ اگر وہ نیک ہے تو اسے اس کی نیکی کا بدلہ عطا فرما اور اگر برا ہے تو اس کی برائی سے درگزر فرما اے اللہ ہم تیرے پاس اس کے شفیع بن کر آئے ہیں لہذا اس کے حق میں ہماری شفاعت قبول فرما اور اسے تیرے نشتہ سے اور آگ کے عذاب سے بچا اور اسے معاف فرما اس کا ٹھکانہ عزت والا بنا اور اسے اس کے گھبر کے بدلہ بہترین گھر اور پڑوس کے بدلہ بہترین پڑوسی عطا فرما اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم مت رکھ اور اس کے بعد ہمیں نشتہ میں مبتلا نہ فرما۔ اور جو تھی تکبیر کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا ازپر یعنی اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہمارے بعض علماء کی رائے ہے کہ جو تھی تکبیر کے بعد قدر سے توفیق کہے سلام پھیرے اور کچھ نہ پڑھے خواہ سیدھی طرف ایک سلام پھیر دے یا دعائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرے امام شافعی کا یہی قول ہے لیکن ہمارے امام احمد کا پسندیدہ مذہب ایک ہی طرف سلام ہے آپ فرماتے ہیں کہ

غیر ان المستحب ان یقول اللہم اغفر لہما و میتنا و شاہدنا و ثابینا و مفرنا و کبیرنا و ذکرنا و انشانا اللہم من احببتہ منا فاحیہ علی الاثر و السنۃ و من توفیتہ منا توفہ علیہما انک تعلم منقلبنا و مثوانا و انت علی کل شیء قدير اللہم انہ عبدک و ابن عبدک نزل بک و انت خیر منزل بہ و لا تعلم الا خیر اللہم ان کان حسننا فجازہ باحسانہ و ان کان مسیئا فتجاوز عنہ اللہم انا جنناک شفاء لہ فشفعنا فیہ و قد من قننۃ القبر و عذاب النار و اعف عنہ و اکرم مثوالا و ابدلہ دارا خیرا من دارہ و جوارا خیرا من جوارہ و اقل ذلک بنا و جمیع المسلمین اللہم لا تحرمنا اجرہ و لا تقننا بعدہ و یقول فی الرابۃ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار و من اصحابنا من قال یقف قلیلا و لا یقول شیئا و یسلم تسلیمۃ و احدۃ عن یمینہ و ان سلم تسلیمۃ ین جاز و ہر مذہب الامام الشافعی رحمہ اللہ و التسلیمۃ الواحدۃ الاختیار عندہ اما ما احد رحمہ اللہ قال رضی اللہ عنہ یروی عن ستۃ من الصحابۃ رضی اللہ عنہم انہم سلموا علی الجنازۃ تسلیمۃ و احدۃ منہم علی بن ابی طالب و عبد اللہ بن عباس و ابن عمر و ابن ابی ادنی و البرہزیریۃ و داثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہم و یروی البیضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ



صلی علی جنازۃ فسلم عن یمنہ وان اراد غیر هذا  
الدعاء دعا وقال الحمد لله الذی امانت واحیا  
والحمد لله الذی یحیی الموتی له العظمتہ والکبریاء  
والملک والقدرۃ والشاء وهو علی کل شیء قدیر  
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت  
ورحمت وبارکت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم  
انک حمید مجید اللهم اذہ عبدک وابن عبدک  
وابن امک انت خلقتہ ورزقتہ راتۃ انتہ  
وانت تحییہ وانت تعلم بسرہ جئناک تشفعاء لہ  
فتشفعنا فیہ اللهم اننا لتجیر مجبل جوارک لہ انک  
ذو رفاء وذمۃ اللہم تہ من ننتہ القبر ومن  
عذاب جہنم اللهم اغفر لہ وارحمہ وعانہ واعف  
عنه واكرم مثرا لا ووسع مدخلہ واغسلہ بماء  
ثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ینقی الثوب  
الابيض من الدنس وانزلہ دارا خیرا من دارہ  
وزجا خیرا من زوجہ واہلا خیرا من اہلہ و  
ادخلہ الجنة ونجہ من النار اللهم ان کان  
محسنا فزدنی احسانہ وجازہ باحسانہ وان کان  
مسینا فتجاوز عنہ اللہم انه قد نزل بک وانت  
خیر منزل بہ وهو فقیر الی رحمتک وانت غنی  
عن عدایہ اللہم ثبت عند مسئلتہ منطقہ ولا  
تبتلہ فی قبرہ بسا لا طاقۃ بہ اللہم لا تخر منا  
اجرہ ولا تفتنا بعدہ وان کانت امرأۃ قال  
اللہم انہا امک وابنتہ عبدک وامتک ثم تمیم  
الدعاء واحق الناس عند امامنا احمد رحمۃ اللہ

چھ صحابہ سے ایک طرف کا سلام ثابت ہے جن میں علیؑ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ  
ابن ابی اوفیٰ، ابو ہریرہؓ اور دائرہ بن القعق شامل ہیں۔ علاوہ ان میں ایک میت  
میں ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی اور دائرہ میں طرف  
سلام پھیرا۔

اگر مذکورہ بالا دعاؤں کے علاوہ کوئی اور دعا چاہے تو پڑھ لے مثلاً یہ  
دعا پڑھ لے اس اللہ کا بڑا شکر ہے جو ماٹا اور زندہ فرماتا ہے اور اس اللہ  
کی بڑا ثناء ہے جو مردوں کو زندہ فرماتا ہے اسی کے لئے عظمت و کبریائی ہے  
اسی کے لئے ملک و قدرت ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر  
ہے اللہ محمد و آل محمد پر اپنی رحمتیں بھیجے جیسے تو نے ابراہیم و آل ابراہیم پر  
اپنی رحمتیں اور ترمیم بھیجا بلاشبہ تیری تعریف کی گئی ہے اور تو مجھ و شرف  
والا ہے لے اللہ تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری لوطی کا بیٹا ہے  
تو نے اسے پیدا کیا تھا اور اسے رزق دیا تھا اور تو نے اسے موت دیدی اور تو نے  
زندہ فرما دیا اور اس کے راز تو ہی جانتا ہے ہم تیرے پاس اس کے سفارش کرنے  
آئے ہیں اللہ اس کے بارے میں ہماری سفارش قبول فرمائے اللہ ہم اس کے  
لئے تیری جوار رحمت کی دعا کرتے ہیں بلاشبہ تو وعدہ پورا کرے جو الا اور ذمہ دار ہے  
لے اللہ تیرے نشتہ سے اور عذاب جہنم سے بچائے اللہ اسے بخش دے اس پر رحم فرما  
اسے عافیت عطا فرما، اس کے گناہ معاف فرما، اس کا ٹھکانہ عورت والا بنا  
اس کی قبر فرما اور اسے برت اولوں کے پانی سے مٹلا اور اسے گناہوں سے  
صاف فرما جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے اور اسے اس کے گھر سے  
بہتر گھر میں بٹھا، اسے اس کے جوڑے سے بہتر جوڑا عطا فرما اور اسے اس کی  
اہل سے بہتر اہل دے اور اسے جنت میں داخل فرمایا اور آگ سے نجات عطا فرما  
اسے اللہ اگر وہ بیکہ ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر گنہگار ہے تو اس سے  
درگزر فرمائے اللہ تیرے پاس گیا ہے اور تو اس کا بہترین میزبان ہے اور  
وہ تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس پر عذاب کرنے سے بے نیاز ہے  
لے اللہ تکبیرین کے سوال کے وقت اس کی گویائی صحیح رکھ اور اسے قبر کے عذاب سے

بالمصلاة عليه من اوصى ان يصلى عليه ثم الوالى ثم  
اقرب العصبة الاب وان علا ثم الابن وان سفل ثم  
اقرب العصبة الاخر را بن الاخ والعم وابن العم  
وهل يقدم الزوج على الولد على روايتين وقد  
اوصت الصحابة رضى الله عنهم بالصلاة عليهم  
فروى ان ابا بكر رضى الله عنه رضى ان يصلى عليه  
عمر وعمر رضى الله عنه رضى ان يصلى عليه صفيان  
رضى الله عنه وكان ابنه عبد الله رضى الله عنه  
موجودا واوصى شريح ان يصلى عليه زيد بن ارقم  
واوصى مسيرة ان يصلى عليه شريح ووصت عائشة  
رضى الله عنها الى ابى هريرة رضى الله عنه و  
وصت امرسلة رضى الله عنها ان يصلى عليها  
سعید بن جبیر وامام دعاء الطفل فيقول اللهم  
انه عبدك وابن عبدك وابن امك انت خلقتہ  
ورزقته وانت امته وانت تحببہ اللهم اجعله  
لوالديه سلفا وذخرا وفرطا واجرا وثقلا به  
موانئنا وعظما به اجرهما ولا تحرمنا وایا  
هما اجرا ولا تفتنا وایاها بعدا اللهم الحقہ  
لصالح سلف المؤمنین فی کفالة ابراهيم وابد له  
والاخیرا من داره واهلها خیرا من اهلہ و  
ما قلہ من عذاب جهنم اللهم اغفر لافرادنا و  
اسلافنا ومن سبقنا بالايمان اللهم من احببہ  
منا فاحمیه علی الاسلام ومن توفیتہ منا فترقه  
علی الايمان واغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء  
منہم والاموات وانما يصلى علی السقط ویفعل

تسکا نہ بنا جسکی اس میں طاعت نہیں ہے اللہ ہمیں اسکے اجر سے محروم نہ فرما  
اور ہمیں اس کے بعد فتنہ میں مبتلا نہ کر اگر عورت کا جنازہ ہو تو یہ کہے کہ  
اللہ وہ تیری لونڈی ہے اور تیرے غلام و لونڈی کی بیٹی ہے پھر مذکورہ بالا  
دعا پوری پڑھے۔ ہمارے امام احمد کے نزدیک جنازے کی نماز پڑھنے  
کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جسے مرنے والا وصیت کر گیا ہو پھر حاکم پھر  
قریب ترین عصبہ یعنی باپ یا دادا وغیرہ پھر بیٹا اور لڑکا وغیرہ پھر بھائی  
بھتیجے وغیرہ پھر چچا اور چچا زاد بھائی وغیرہ۔ کیا شوہر اولاد پر مقدم کیا  
جائے؟ اس میں دونوں روایتیں ہیں۔

صحابہ نے صحابہ کو اپنی نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت فرمائی ہے چنانچہ حضرت  
ابوبکر نے وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز عمر پڑھائے اور حضرت عمر نے  
وصیت کی کہ ان کے جنازے کی نماز صہیب رومی پڑھائیں حالانکہ آپ کے  
فرزند ارجمند حضرت عبد اللہ موجود تھے ابو شریح نے زید بن ارقم کو نماز جنازہ  
پڑھانے کی وصیت کی اور ابو مسیرہ نے قاضی شریح کو وصیت کی، حضرت  
عائشہ نے ابو ہریرہ کو وصیت کی اور حضرت ام سلمہ نے سعید بن جبیر کو  
وصیت کی۔ اگر بچہ کا جنازہ ہو تو یہ پڑھے کہ اللہ وہ تیرا بندہ ہے اور  
تیرے بندے کا اور تیری لونڈی کا بیٹا ہے تو نے اسے پیدا کیا اور اسے رزق  
دیا اور تو نے اسے فوت کیا اور تو ہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا اے اللہ اے  
اسکے ماں باپ کے لئے راہ ہموار کر نیوالا بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا، اجر کی زیادتی  
کا سبب بنا اور سراپا اجر بنا اور اسکی درجہ سے ان دونوں کی توفیق دینی  
فرما اور ان کے اجر کو عظیم فرما اور ہمیں اسکے ماں باپ کو اسکے اجر سے محروم  
نہ کرے اور اسکے بعد ہمیں اور ان کو فتنہ میں مبتلا نہ فرمائے اللہ اسے حضرت  
ابراہیم کی نگرانی میں سلف صالحین میں شامل فرما اور اس گھر سے بہتر  
اسے گھر سے اور ان گھر والوں سے بہتر گھر والے دے اور اسے جہنم سے  
عافیت عطا فرمائے اللہ ہمارے بچوں کو جو ہمارے لئے موعبت یا توبت  
اجر ہیں اور راستہ صاف کرے ہمیں، بخش اور انہیں بھی جو ہم سے بچے ایمان



اذا كان قد تبين فيه شكل الانسان واما اذا كان  
قطعة لحم لم يتبين فيه شيء من الحلقة فلا يغسل  
ولا يصلى عليه بل يدفن والذي يشرع فيه الغسل  
من ذلك لا فرق بين ان يغسله رجل او امرأة لما  
روى ان ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم توفي  
وهو ابن ثمانية عشر شهرا فغسلته النساء -

فصول فيما يفعل بمن حضر الموت وكيفية  
غسله وتكفينه وتكبيطه ودفنه

**فصل** يستحب لكل مومن موتن بالموت عائل  
ان يكثر ذكر الموت ويستعد له ويكون على اهبة  
وتترب يتجدد التوبة كل ساعة ومحاسبة نفسه  
والخروج من المظالم والديون وكتب وصية معد  
ولا يكون غافلا عن هذا الامر المتيقن العام الشا  
في حق جميع الانام الذي لا بد من محيطة بهجومه  
وقدومه وهو كاس لا بد من شربه وانما قلنا  
يستحب له ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم  
انه قال اكثروا من ذكرها من اللذات وفي  
لفظ آخر اكثروا ذكر الموت فانكم ان ذكر  
تتوه في غنى كدر لا عليكم وان ذكرتموه في ضيق  
وسعه عليكم وقال صلى الله عليه وسلم اتدرون  
اي الناس اكيس واحزم اكيسهم اكثرهم ذكرا  
لموت واحزمهم اكثرهم استعدادا له قالوا  
يا رسول الله وما علامة ذلك قال التجاني عن  
دار الضرور والانابة الى دار الخلود وقال لقمان  
عليه السلام لابنه يا بني لا تؤخر التوبة الى غد

لان الله يم من سے جسے تو زندہ رکھنا چاہے اسے اسلام پر زندہ  
رکھ اور جسے مارنا چاہے اسے ایمان پر موت دے اور مومن مردوں اور عورتوں  
کو خواہ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں بچھڑے۔ کچے بچے کو جو ساقط ہو گیا  
غسل دیا جائے اور اس پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی انسانی شکل کا طور  
ہو گیا ہو لیکن اگر وہ محض گوشت کا لوتھڑا ہو اور انسانی شکل نمودار  
نہیں ہوئی ہو تو اسے بلا غسل و نماز کے دفن کر دیا جائے بچہ کو خواہ مرد  
غسل دے یا عورت دونوں کے لئے روا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم بن محمد  
آٹھ ماہ کے ہو کر فوت ہوئے اور انہیں عورتوں نے غسل دیا۔

مرنے والے کے پاس کیا کیا جائے؟ اور ہر عائل مومن کے  
مرنے کے بعد غسل اور تجہیز و تکفین وغیرہ لئے جسے اپنی موت

کا یقین ہے مستحب ہے کہ وہ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کے  
لئے تیار رہے اور موت کا انتظار کرتا رہے اور ہر وقت اس کے آنے کا  
منتظر رہے اور ہر لمحہ توبہ کی تجدید کرتا رہے اور اپنے نفس سے حساب لیتا رہے  
اگر اس پر کسی کا قرض وغیرہ ہو تو اول فرصت میں اس سے سبکدوش ہو جائے  
اور وصیت نامہ تحریر کر کے اپنے پاس تیار رکھے اور اس یقینی امر سے جو ہمہ گیر  
عام اور تمام مخلوق کو شامل ہے غافل نہ رہے کیونکہ موت کا آنا اور اچانک  
آدھمکنا اور اکدم ٹوٹ پڑنا اور جام مرگ پینا تو ضروری ہے نبی اکرم صلعم  
نے فرمایا: لذتوں کو برباد کرنے والی کاکرت سے ذکر کیا کرو۔ دوسرے  
لفظ میں ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو کیونکہ اگر تم اسے حالت تو بگری  
میں یاد کرو گے تو تم کو اپنا مال بیچ معلوم ہوگا اور اگر ناداری کی حالت  
میں یاد کرو گے تو ناداری کا سدوم نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلعم نے پوچھا:  
جانتے ہو کون سب سے ہوشیار و بیدار مغز ہے؟ سب سے زیادہ  
وہی ہوشیار ہے جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے اور سب سے زیادہ  
وہی بیدار مغز ہے جو ہر وقت اس کے لئے تیار رہتا ہے صحابہ نے پوچھا:  
یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا: دھوکا والے گھر سے کنا

فان الموت یاتیک بغتۃ و قال النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم ما حق امری اء لہ مال ان یتبیت لیلتین  
 الا و وصیتہ مکتوبۃ عند لا و جاء فی الحدیث  
 حاسبوا انفسکم قبل ان تمحاسبوا و زلوا ہا قبل  
 ان توزنوا و قال عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما <sup>سعت</sup>  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: اعمل لدنیاک  
 کما نیک تعیش ابد اء اعمل لآخرتک کما نیک تموت  
 عند اعلیٰ جتہد العاقل المرمن فی خلاص نفسه  
 من المحرق اللازمۃ الواجبة علیہ قبل الموت  
 من الذنوب و المظالم و الدیون فان لم یفعل  
 فلیقطع ولیتیقن انه سیکون مرتہنا بہا و  
 مواخذ او معاقبا عندا فی قبر لا حین تنقطع القوی  
 و تبطل الحیل و المحاس و یرہجر لا الہل و الحیران  
 و یتظافر علی مالہ الاعداء و الخلان من الرجال  
 و النساء و الوالدان فلا ینجیہ من تبعثہا الا  
 الاداء فی الدنیاء و الاستحلال و التوبۃ و الازعان  
 او تخمد الرحیم براتنہ و رحمته اذ هو ارحم  
 الراحمین فیعوض اصحابہا بما یشاء فی دار الخلو  
 و الجنان و روی عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ  
 عنہ انه قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم فصلى علی جنازۃ فلما انصرف قال اهل  
 ہا هنا من آل فلان احد فقال رجل انا فقال  
 لہ علیہ الصلاۃ والسلام ان فلانا ماسور  
 بدینہ قال فلقد رأیت اہلہ و من یتحرق علیہ  
 فاموا یقضون عنہ حتی ما لقی احد یطلبہ بشی

دہنا اور شنگ والے گھر کی طرف مائل رہنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے  
 کو: پیارے بیٹے تو بہ کل پر نہ چھوڑو کیونکہ موت تیرے پاس اچانک آجائیگی  
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مالدار کو لائق نہیں کہ دو درتیں اس حال میں  
 گزارے کہ اس کی وصیت اگلے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے  
 لوگو! اس سے پہلے پہلے اپنا حساب لے لو کہ تم سے حساب لیا جائے اور  
 اپنا خود وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ  
 اپنی دنیا کے لئے یہ خیال کر کے عمل کرو گویا تو ہمیشہ زمرہ سے گے گا اور  
 آخرت کے لئے یہ خیال کر کے عمل کرو گویا تو کل ہی کو سر جائیگا یعنی دنیا کے  
 لئے تو بہت وقت پڑا ہے اور آخرت کا وقت ختم ہو رہا ہے لہذا دنیا کاموں پر آخرت کے  
 کاموں کو ترجیح دے لہذا ہر ذی ہوش مومن پوری سرگرمی سے موت سے  
 پہلے اپنے نفس کو چھڑانے کے لئے حقوق واجبہ سے سبکدوش ہونے کا  
 کرے کہ گناہوں سے پہلی نرسنت میں تو بہ کرے لوگوں کے حقوق سے سبکدوش  
 ہوگا کہ اس کے ذمہ قرض ہے تو قرض اتارے یا معاف کرالے اگر اس نے  
 ایسا نہیں کیا تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق میں پھنسا  
 ہوا رہ جائیگا اور کل قبر میں اس سے باز پرس ہوگی اور عذاب کا شکار ہوگا  
 گا حتیٰ کہ اس کے قوی معدوم، جیسے باطل اور عوام گم ہو جائیں گے اس کے  
 عزیز و اقارب اور پڑوسی اسے چھوڑ آئیں گے اور اس کے چھوڑے ہوئے  
 مال پر دشمن اور چھپے رہنے والے درندہ مرد عورتیں اور بچے قابض ہو جائیں  
 گے لہذا ان حقوق سے اسی وقت بچھا چھوڑ سکتا ہے جب انہیں دنیا  
 میں ادا کر دیا جائے یا معاف کر لیا جائے اور پر خلوص توبہ کر لی جائے  
 اور اللہ سے بلکہ بلکہ کہ گناہ معاف کرالے جائیں حق تعالیٰ بڑا مہربان  
 ہے اور وہ اپنی رحمت و شفقت سے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔  
 کیونکہ وہ سب سے زیادہ مہربان ہے پھر وہ آخرت میں ارباب حقوق  
 کو اپنی مشیت کے مطابق عوض دیدے گا۔ سرہ بن جندب: ایک دفعہ



ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، فارغ ہو کر فرمایا، کیا یہاں آل فلان سے کوئی موجود ہے؟ ایک شخص بولا: میں ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا! فلاں شخص تم میں گرفتار ہے فرماتے ہیں میں نے اس کے گھر والوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو اس کے ہم درویش خواہ تھے دیکھا کہ کھڑے ہو کر اس کا قرض ادا کر گئے حتیٰ کہ ایک قرض خواہ بھی باقی نہیں رہا ایک لفظ میں کہ فلاں شخص قرض کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے۔

حضرت علیؑ: اصحاب صفہ میں سے ایک شخص فوت ہو گیا کہا گیا یا رسول اللہ اس نے ایک دینار اور ایک درہم چھوڑا ہے آپ نے فرمایا یہ آگ کے دو داغ ہیں اس پر تم لوگ نماز پڑھ لو۔ اس پر قرض تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے، پوچھا: کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں، صحابہ کئے ہیں آپ بلا نماز پڑھ گئے واپس آنے لگے حضرت علیؑ لڑے یا رسول اللہ اس کا میں عمامن ہوں یہ سن کر آپ لوٹ آئے اور جنازے کی نماز پڑھا دی اور فارغ ہو کر فرمایا: علی! اللہ تعالیٰ تمہاری گردن آگ سے چھڑائے جس طرح تم اپنے مسلمان بھائی کی گردن آگ سے چھڑا دی۔ کسی شخص کی طرف سے اس کا قرض ادا کر کے اس کی گردن چھڑائے گا تو حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عوض اس کی گردن ضرور چھڑا دیگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کو حق والوں کو تم سے ان کے حقوق دلوائے جائیں گے حتیٰ کہ بلا سینگ والی بکری کا حق سینگ والی بکری سے دلوا یا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اپنے کو بچاؤ کیونکہ ظلم قیامت کو اندھروں میں تبدیل ہو جائیں گے اور فحش سے کنارہ کش رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش کو پسند نہیں فرماتا اور اپنے کو بخل سے بچاؤ کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اسی بخل نے انہیں قطع رحمی پر ابھارا اور انہوں نے قطع رحمی کی اور اسی نے انہیں

و فی لفظ آخر قال ان فلا نامجوس بباب الجنة بدی  
علیہ و عن علی رضی اللہ عنہ انه قال مات رجل  
من اهل الصفة ثقیل یا رسول اللہ ترک دینا  
و درهما فقال صلی اللہ علیہ وسلم کیتان من نا  
صلوا علی صاحبکم و کان دینا علیہ و فی حدیث  
آخر شهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ  
رجل من الانصار فقال اعلیہ دین تیل نعم قالوا  
فرجع فقال علی رضی اللہ عنہ اتانا من ما علیہ  
فرجع فصلى علیه فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا علی  
فک اللہ رقتک کما نکت عن اخیک المسلم  
ما من رجل ینک عن رجل دینہ الا فکہ اللہ بہ  
یوم القیامة و قال صلی اللہ علیہ وسلم لتؤدن  
الحقوق الی اهلها یوم القیامة حتی یؤخذ للشاة  
الجماء من الشاة القرناء و قال صلی اللہ علیہ وسلم  
ایاکم و الظلم فانه ظلمات یوم القیامة و ایاکم  
و الفحش فان اللہ لا یحب الفحش و ایاکم و الشح  
فان الشح اهلك من کان یتلکم امرهم بالقطیعة  
تقطعوا ثم امرهم بالظلم فظلموا۔

**فصل:** فاذا مرض المرء استحبت عیادته  
فاذا عاده اخوه المسلم نظری حاله فان رجا  
خلاصه من مرض دعاه و ان خاف  
موتہ رغبه فی التوبه من الذنوب و الوصیة  
ثبثت مالہ لمن لم یرثہ من الاقارب الفقراء  
منہم فان کانوا اغنیاء فلفقراء و المساکین  
و اهل العلم و الفضل و الدین و المنقطعین عن

الاسباب الذین قطعہم عنہا القدر و ضیق الورع  
 علیہم التحرك فیہا فانقلب الاسباب عنہم  
 رباناً فترکوها و نزلہا الرب سبحانہ عن ان یکون  
 لہ شریک یرجعون الیہ فی الرزق نصار ما لہم  
 التقتہ بالحق عزوجل و الیاس مافی ایدی الناس  
 فلما توحیدہم اشتات انساہم الیہ صفوا  
 عن غیر تبعۃ فی الدنیا و لا عقوبۃ فی الاخری  
 فیاطوبی لمن انالہم بنوال او حذاہم مجذاء او  
 واصلہم بفضل او خدمہم یوما من الایام  
 او امن علی دعائہم ساعة من الساعات او احسن  
 القول فیہم حالۃ من الاحوال طوبی لہ طوبی لہ  
 و ذلک لانہما اهل اللہ و خاصتہ فہل یدخل  
 علی الملک الا بخاستہ و ہل یمیزی من السلطان  
 الا بطریق حواشیہ و خدمہ من صادق الحواشی  
 و الخدم و احسن الیہم و خد مہم یوشک ان  
 یوقفوہ علی الملک الاعظم ثم کل منہم یدکر  
 ما عندہ من خیر خصالہ و ما اثرہ ثم ینعم الملک  
 علیہ بما جاء من نعمہ و فضائلہ فاذا ظہرت  
 امارۃ الموت استحب لاہلہ ان یلزموا ارفقہم  
 بہ و اعرفہم باخلاقہ و سیاستہ و اتقاہم  
 لربہ لیل ذکرہ باللہ عزوجل و یجتہ علی ما ذکرنا  
 من طاعتہ و یتعاهد بل حلقہ بان یقتر فیہ  
 ماء او شرابا و یندی شفتیہ بقطنۃ و یلقنہ قول  
 لا الہ الا اللہ مرۃ و لا ینزی علی ثلاث لئلا  
 ینفجر ویام فتخرج روحہ و ہو مستعبر لذلك

ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا۔

بیمار کی بیماری پر سی | مومن کی بیماری پر سی مستحب ہے عبادت

کرنے والا مریض کی حالت پر غور کرے اگر حالت رو بصحت دیکھے تو  
 دعا کہے واپس آجائے اور اگر خطرناک حالت دیکھے تو مریض کو  
 گناہوں سے توبہ کرنے کی اور غیر وارث غریب عزیزوں کے لئے مال  
 مال میں وصیت کرنے کی طرف توجہ دلائے اگر اس کے غیر وارث  
 اقارب مالدار ہیں تو پھر مال کی وصیت کے مستحق فقراء، مساکین  
 علماء، فضلاء، دیندار نیک حضرات اور ظاہری اسباب رزق سے  
 کٹے ہوئے لوگ ہیں جن کو تقدیر نے اسباب سے کاٹ دیا ہے اور ان کی  
 عبادت نے ان پر رزق کے لئے حرکت تنگ کر دی ہے وہ اسباب کو  
 ارباب سمجھ کر چھوڑ بیٹھے ہیں اور ان کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کے  
 رزق میں اللہ کا کوئی شریک ہو ان کا مال صرف حق تعالیٰ شانہ پر پھیرا  
 ہے اور وہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے ناامید ہیں کیونکہ  
 ان کی توحید انہیں غیر کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی اور ان کے پاک  
 دھان و حلال طیب حصے ان کے مشتاق رہتے ہیں کہ ان کے متعلق نہ  
 کسی کا دنیوی حق ہوتا ہے اور نہ اخروی عذاب، لہذا وہ لوگ  
 مبارک و خوش نصیب ہیں جو انہیں کچھ ہدیہ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ  
 کچھ سلوک کرتے ہیں یا مال سے ان سے صلہ رحمی کرتے ہیں یا کسی  
 ان کی خدمت کر دیتے ہیں یا کبھی ان کی دعاؤں پر آمین کہہ دیتے ہیں یا  
 کسی حالت میں ان کی شان میں کوئی اچھا کلمہ زبان سے نکال دیتے  
 ہیں ایسے لوگ بڑے خوش نصیب اور بے حد خوش قسمت ہیں کیونکہ ان  
 کی یہ خدمت کر رہے ہیں وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص مغرب  
 بندے ہیں بادشاہ کے پاس اس کے خواص ہی کے ذریعہ جایا جاتا ہے  
 اور سلطان تحائف و خلعت اپنے کفش برداروں اور خادموں ہی  
 کی راہ سے دیتا ہے اگر کوئی اللہ والے نیک بندوں کو اور اس کے



فان لقنہ ثم تکلم بشئ غیرہ اعد تلقینہ لیكون  
 آخر کلامہ لا اله الا الله قال النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم من کان آخر کلامہ لا اله الا الله  
 دخل الجنة ویكون تلقینہ بلطف ومداراة  
 وینبغی ان یقرأ عند لا سورۃ لیس لتکون  
 عوناً علی خروج روحہ وتسهلہ علیہ  
 فاذا خرجت روحہ وجہہ الی القبلة علی  
 ظہرہ لا طولاً حیث اذا اقعہ کان وجہہ  
 الیہا تم یبار فی بعض عینیہ ما روی شد  
 بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم انه قال اذا حضر تم موتاکم  
 فاغضوہم فان البصر یتبع الروح وقولوا  
 خیرا فانہ یومن علی ما قال اهل البیت  
 ثم یشد لحيیہ و صفتہ ما روی ان عمر بن  
 الخطاب رضی اللہ عنہ قال لابنہ عبد اللہ  
 رضی اللہ عنہ حین حضرتہ الوفاة اذن منی  
 فاذا رأیت روحی قد بلغت لہا فی فقع  
 کفک الیمنی علی حیبتی تحت زقنی واغضنی  
 ثم یلبس مفاصلہ بان یرد ذراعیہ حتی  
 یلمقہما بعنقہ ثم یردہما و یرد  
 ساقیہ الی فخذیہ وفخذیہ الی بطنہ ثم  
 یردہما و یخلع ثیابہ ویسجیہ بثوب یستر  
 حیبتہ لانہ یصیر حیبتہ عورتہ بالموت ولہذا  
 یجب ستر حیبتہ بالکفن ویجعل علی بطنہ  
 مرآة او سیفا لان البیت اذا خرجت روحہ

خود متگا روں کہ پائے اور انکے ساتھ حسن سوک کر سے اور انکی خدمات بجالائے تو  
 قریب ہے کہ وہ انہیں شہنشاہ اعظم کے سامنے لاکھڑا کرے اور ان میں کا ہر  
 شخص تمہاری ان نیکیوں اور بزرگانہ کاموں کو جو تم نے انکے لئے دنیا میں کیے  
 تھے حق تعالیٰ سے بیان کرے گا پھر شہنشاہ اعظم اس کے عوض اسے اپنی نعمتوں  
 اور رحمتوں سے مالا مال فرما دیگا۔ جب کسی پر موت کے آثار ظاہر ہوں تو  
 گھر والوں کا فرض ہے کہ اس کے پاس اس کا بہترین مخلص و مشفق اس کے  
 اخلاقی و سیاست واقف اور پارسا شخص بیٹھ جائے تاکہ اسے حق تعالیٰ  
 جل مجدہ کی طرف متوجہ کرے اور اللہ کی اطاعت کی رغبت دلائے اور احتیاط سے  
 اس کا حلق تر رکھے یعنی حلق میں بار بار پانی یا شربت کے قطرے ٹپکا تارے  
 اور اسکے ہونٹ روئی سے تر رکھے اور تین بار لا الہ الا اللہ پڑھوائے اس سے  
 زیادہ نہیں مبادا وہ اکتا جائے اور کراہت کی حالت میں اسکی روح پرواز  
 کر جائے اگر کلمہ پڑھوائے کے بعد مرنیوالا کوئی بات کرے تو کلمہ پھر پڑھا دیا جائے  
 تاکہ اسکا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ جس کا آخری  
 کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنتی ہے مرنیوالے کے سامنے بخت و پیار سے درسیانی  
 آواز سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے اور سورہ یسین پڑھی جائے تاکہ اسکی بکرت  
 سے آسانی سے روح نکل آئے جب روح نفس عنقریب سے پرواز کر جائے تو میت کا  
 منہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے یعنی اگر اسے پشت کے بل ٹٹا دیا جائے اور پیر قبلہ کی  
 طرف رہیں تو اس کا منہ قبلہ کی طرف رہے گا اس صورت میں اگر اسے بٹھا دیا جائے  
 تو اسکا منہ قبلہ ہی کی طرف رہے گا پھر فوراً اسکی آنکھیں بند کر دی جائیں کیونکہ شہاد  
 بن اوس کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا جب اگر تم کسی مرنیوالے کے پاس  
 حاضر ہو تو رو رہنے کے بعد فوراً اسکی آنکھیں بند کر دو کیونکہ نگاہ روح کو اوپر  
 جاتا ہوا کھیتی ہے اور اس وقت منہ سے اچھی بات نکالے کیونکہ گھر والوں  
 کی باتوں پر آمین کہی جاتی ہے۔ پھر ڈھاٹا باندھ دو یعنی منہ بند کر کے ٹھوڑی  
 سے نکال کر سر سے ایک کپڑا باندھ دو تاکہ منہ بند رہے کیونکہ حضرت عمر رضی  
 اپنی وفات کے قریب اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی سے فرمایا تھا کہ

لیعلو وینتفخ ثم یوضع علی سریر غسلہ متوجہا  
منحدرا نحو رجلیہ ثم یسارع الی قضاء  
دینیہ و ابراء ذمتہ من الدیون  
والوصایا حتی یلقی ربہ بری الذمۃ  
من المظالم مخلصا من الحقوق  
والجواذب۔

**فصل:** ثم یسارع فی غسلہ و تجہیزہ  
وتکفینہ ودقنہ الا ان یکون موتہ فجأة  
فیترقف عن ذلک حتی یتیقن موتہ فتفصل  
کفاه وتسترخی رجلاہ وینیل الفہ  
وتنخسف ضد غاہ ثم یسرع فی ذلک  
اما صفۃ الغسل فی جرد القاسل امیت  
ویسترہ من سرتہ الی رکتیہ لانہ  
امکن لہ واعون علی مبالغۃ غسلہ  
لیغض بصرہ ما امکن لاسیما من عورتہ  
وقیل ان الافضل ان یغسلہ فی قبیض  
خفیف واسع وان کان ضیقاً فقف  
رأس المدخاریں ثم یلین مفاصلہ  
برفق ان سہلت علیہ والافیلہ عہا  
لانہ ربما آل ذلک الی کسرہا وقد قال  
النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسر عظم المیت  
کسرہ حیاً ثم یجئہ قلیلاً الی ان یتبلغ  
بہ قریباً من الجلوس ثم یعصر بطنہ عسراً  
رفیقاً ثم یلف علی یدہ خرقة وینحیہ  
کی لا یباشر عورتہ بیدہ ولان الخرقة

پاس رہنا جب تم دیکھو کہ میری روح کھینچ کر تالوں میں آگئی ہے تو اپنا سیدھا  
ہاتھ میری پیشانی پر اور بائیں ہاتھ میری ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر باندھ  
دینا اور میری آنکھیں بند کر دینا۔ پھر مرتے دم کے اعضاء اپنی اپنی جگہ  
پر رکھ دے دونوں ہاتھ بازوؤں سے ملا کر پھیلا دے اور جسم سے ملا کر  
چھوڑ دے اور پیر پھیلا دے اور سیدھے کر کے رکھ دے اور کپڑے  
اتار کر ایک چادر سے جو سر سے لے کر پیروں تک اسے لے ڈھانپ لے  
ڈھانپ دے کیونکہ موت کی وجہ سے اب اس کے بدن کا سارا حصہ  
عورت بن گیا ہے کہ اس کے چھپانے کا حکم ہے اسی لئے اسے کفن سے  
چھپانا واجب ہے اور پیٹ پر آئینہ یا تلوار رکھ دے کیونکہ میت کی روح  
نکل جانے کے بعد پیٹ ادخا ہونے لگتا ہے اور پھولنے لگتا ہے پھر اسے  
غسل دینے کے لئے قبلہ رخ غسل کے تخت پر اس طرح لٹا دیا جائے کہ  
سر قدر سے ادخا رہے اور پیر نیچے رہیں پھر جلد از جلد قرض ادا کرنے  
کی کوشش کی جائے اور اسے قرض سے سبکدوش کیا جائے اور اس کی وصیتیں  
نانذکیبا میں تاکہ اپنے رب سے اس حال میں لے کر دوسروں کے حقوق سے  
بری الذمہ ہو اور حقوق العباد سے اور کھنچا تانیوں سے پاک و صاف ہو۔

**تجہیز و تکفین** | پھر پھرتی سے میت کو غسل دیا جائے اور کفنا یا جائے  
اور دفن کر دیا جائے ہاں اگر موت اچانک ہوئی ہو تو اتنی دیر ٹھہرا جائے  
کہ موت کا یقین ہو جائے یعنی ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جائیں، ناک سے زہر نش  
جاری ہونے لگے اور دونوں کنپٹیاں دھنس جائیں جب یہ علاماتیں ظاہر  
ہوں تو تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے۔  
**غسل میت کا طریقہ** | میت کو غسل کے تخت پر قبلہ رخ لٹا کر  
پروہ کر کے میت کے جسم سے غسل دینے والا کپڑا اٹھارے ار زان سے  
لے کر گھٹنوں تک ایک کپڑا ڈال دے کیونکہ ننگا کرنے کے بعد غسل بخوبی  
اور آسانی سے دیا جاسکتا ہے غسل دینے والا جہاں تک ممکن ہو گا وہیں  
نیچے رکھے اور خاص طور سے میت کی شرمگاہ نہ دیکھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے



ابلع في إزالة التماسه لحشونتها فكذلك  
 يستحب ان لا يباشرتقية بدنه الاخرقة  
 ويتابع في صب الماء على اليد لا ثم يرمي بالخرقة  
 وياخذ غيرها نظيفة كذلك الى ثلاث  
 ثم يلقى الخرقة و يغسل اليد لا ثم يوضئه  
 وضوءه لا للصلاة مرتين فينوي ويسمي ويدخل  
 اصبعيه مبلولين بالماء بين شفتيه  
 فيمسح اسنانه وكذلك في منخرية  
 فينظفهما ويصب الماء على فيه والقه  
 كالمضمضة والاستنشاق من غير ان  
 يدخل الماء في فيه والقه فيوضئه الى  
 اخر الاعضاء فاذا فرغ من ذلك  
 غسل رأسه بماء وسدر ثم لحيته ولا  
 يسرح شعرة ثم يصب عليه الماء القراح  
 من رأسه الى رجليه و يغسل شقه الايمن  
 ثم يقبله شمالا فيغسل شقه الايسر و  
 كذلك يغسل ماثر جسده بالماء والسدر  
 في الغسلات كلها ولكن ينظفه عقيب  
 كل غسلة بالسدر وبالماء القراح فان  
 احتاج الى اثنان لغسل وسخ و خلل  
 لتنقية ما تحت الاظافر استعملها و  
 يلف القطن على الخلال فيترمل ما بانفه  
 وصاخييه من الاذى وينظفها ثم يرجع  
 فيعنيه ثم يعيد وضوءه لا ثانية على ما  
 ذكرنا ثم يغسله الاخير بماء فيه

کہ کسی ڈھیلے ڈھالے کرنے میں غسل دینا افضل ہے اگر کرتا تک ہو تو اسے  
 جگہ جگہ سے حسب ضرورت پھاڑ دیا جائے پھر آہستہ سے میت کے جوڑوں  
 کو نرم کرے اگر آسانی سے نرم کر سکے ورنہ اپنے حال پر چھوڑ دے کیونکہ  
 زور کرنے سے مفاصل کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا ہے کہ مردہ کی ہڈی توڑنا زہرہ کی ہڈی توڑنے کی برابر ہے پھر میت  
 کو اتنا اٹھائے کہ وہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے اور اس کا پیٹ نرمی سے  
 دبائے اور اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر استنجا کرے تاکہ غسل دینے والے کا ہاتھ  
 میت کے سر کو براہ راست نہ چھوئے علاوہ ازیں کپڑے سے اگر وہ کھڑا  
 ہو تو نجاست خوب صاف ہوتی ہے اسی طرح غسل دینے والے کو مستحب  
 ہے کہ میت کا باقی بدن بھی براہ راست ہاتھ سے نہ چھوئے اور جب دھوئے  
 تو اپنے ہاتھ پر پانی ڈلوائے پھر وہ کپڑا ہاتھ سے الگ کر کے دوسرا کپڑا  
 پیٹ کر استنجا کرے پھر تیسرا کپڑا پیٹ کر استنجا کرے پھر ہاتھ سے کپڑا  
 ہٹا کر اپنا ہاتھ دھوئے پھر میت کو ترتیب وار وہی غسل کرے جو نماز  
 کے لئے کیا جاتا ہے یعنی وضو کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھے اور اپنی دو انگلیوں  
 پانی سے تر کر کے اس کے ہونٹوں میں داخل کر کے دانتوں پر پھیرے پھر  
 اسی طرح دونوں ہونٹوں میں داخل کر کے انہیں صاف کرے اور منہ پر  
 اور ناک پر پانی بہائے جو کہ منہ وغیرہ کے اور ناک میں پانی دینے کے ہے  
 لیکن منہ اور ناک میں پانی داخل نہ کرے اسی طرح پورا وضو کرے پھر  
 اس پانی سے جس میں بیسی کے پتے جوش دے لئے گئے ہوں سرد دھوئے  
 پھر داڑھی دھوئے اور بالوں میں کنگھڑ نہ کرے پھر میت کو بائیں کر دے  
 دلا کر جسم کے دائیں طرف کے حصہ پر سر سے لے کر پیروں تک خالص پانی  
 بہائے اور غسل دے پھر سیدھی کر دے دلا کر بائیں طرف کے حصہ پر سر سے  
 لے کر پیروں تک صاف پانی بہائے اسی طرح جس قدر غسل دے ہر غسل  
 میں پے بیسی والا پانی استعمال کرے اور اخیر میں صاف پانی اگر میل  
 بہانے کے لئے اشنان کی اور ناخنوں کے نیچے کامیل صاف کرنے کے

کافر ثم یشفہ بثوب و اقل ما یغسل  
المیت ثلاث مرات و اکثرہ سبع مرات  
فاذا المینق بثلاث زاد الی سبع ولا یقطع ال  
علی و تر ثلاث او خمس او سبع وان خرج  
منہ شیء بعد ذلك اعید علیہ الغسل  
الی سبع مرات فان لم یمنع ذلك خروجه  
حشی بالقطن و الحمبہ و بالطين الحر  
وقال بعض اصحابنا لا یحشی لان الامام احد  
رحمہ اللہ کرہہ و تیل انہ اذا خرج شیء  
منہ بعد تمام الغسل لم یعد الی الغسل  
بل یغسل موضع النجاسة ثم یوضو وضوء  
للملاة و کفن و حمل و الا ولی ان یغسل  
المرۃ الاولى بماء و سدر و بقیۃ الغسلات  
بالماء القراح کغسل الجنابة و یكون  
الکافر فی الآخرة ثم یشفہ و یکفن  
واما تکفینہ فانہ یکفن فی ثلاثة الثواب  
یدرج فیہا و ارجا و تکون لفائف بیض  
لا یكون فیہا قبیص و لا منزر و لا حردی  
ولا شیء و یخیط الالفائف تحت طابض عرض  
الثوب و صغرة فیبسط بعضها فوق بعض  
لعل ان تجمر بالعود و الند و الکافر و یجعل  
الطیب بین کل لفافتین و تیل انہ یکفن  
فی قبیص و منزر و لفافة و یكون المنزر مسا  
یلی جلدہ و لم یزر القبیص علیہ و ثلاثہ  
الثواب افضل لما روی عن عائشة رضی اللہ

خلال کی ضرورت ہو تو ان دونوں کو استعمال کرے اور خلال پر دئی  
پیسٹ لے اور ناک کے ارد کانوں کے سوراخوں میں جو میل ہے اسے صاف  
کر دے پھر حسب سابق دوبارہ وضو کرے پھر سب سے کچھلا غسل کافر  
دائے پانی سے دے پھر کپڑے سے جسم کو نچھو دے۔ کم از کم تین بار  
غسل ہے اور زیادہ سے زیادہ سات بار اگر تین غسلوں سے صفائی  
نہ ہو تو پانچ یا سات غسل دے اگر میت سے غسل کے بعد نجاست  
نکل آئے تو دوبارہ سات بار غسل دے اگر پھر بھی نجاست نہ نکلے  
تو مخرج نجاست میں روئی یا مٹی وغیرہ بھر دے لیکن ہمارے بعض  
علماء روئی وغیرہ کے بھرنے کو منع کرتے ہیں کیونکہ امام احمد سے  
مکرہ سمجھتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تکمیل غسل کے بعد کچھ نکل  
آئے تو دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہاں موضع نجاست  
کو دھو دیا جائے اور وضو کر دیا جائے اور کفنا کر اٹھالیا جائے  
اولیٰ یہ ہے کہ پہلا غسل پیری والے پانی سے دیا جائے اور باقی غسل  
غسل جنابت کی طرح صاف پانی سے دئے جائیں اور سب سے  
پچھلے غسل میں کافر ڈال لیا جائے پھر بدن کو نچھو کر کفنا دیا جائے۔  
**کفن** | کفن کے سلسلہ میں مرد کے لئے تین چادریں ہیں میت ان میں  
پیسٹ دیا جائے یہ تینوں چادریں سفید ہوں ان میں نہ کر نہ ہو نہ  
پائنجامہ نہ تہبند اور نہ کوئی سلا ہو اگر ان چادروں کو اگر ان کا عرض  
چھوٹا ہو یا طول چھوٹا ہو سیا بھی جاسکتا ہے تینوں چادریں اوپر  
تے بچھا دی جائیں لیکن پچھلے سے پہلے ان کو اگر عود اور کافور کی  
دھونی دے لی جائے اور ہر دو چادروں کے درمیان خوشبو لگا دی  
یا چھڑک دی جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرتے تہبند اور لوٹ کی  
چادر میں ابھی کفنا یا جاسکتا ہے لیکن تہ جسم سے متصل رہے اور کرتے  
کے بٹن نہ لگائے جائیں۔ مرد کے لئے تین کپڑے افضل ہیں کیونکہ  
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلم کو



عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحرية ليس فيها قبض ولا عمامة وقد صحح الامام احمد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وبنی مذهبه عليه ثم يجعل الطيب وهو الحنوط والكافور في قطن فيجعل منه بين اليديه ويشد فوقه خرقة ويجعل باقيه من مواضع سجودا ومغابته كالفضل بن وتحت البطية ومنافذ وجهه وصاخيده وجبينه وركبتيه وكفيه وظاهر عينيه ولا يدخله في عينيه وان خاف الانتفاض وخروج ما في الباطن الى المظاهر حشاد اخل الفه وصاخيده بالقطن والكافور وان طيب جميع جسده بالكافور والصندل كان احسن وروى نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتبع مغابن الميت ومرانقه بالمسك ثم يأتي بالميت ويطحه على اللفائف ويشي طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ثم يرد طرفها الآخر على شقه الايسر ويدرجه فيه ادراجا ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك فيجعل ما عند رأسه ما عند رجليه ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيعيد لا على وجهه ورجليه الا ان يخاف انتشارها فيعقد ما ثم اذا

تین سفید ستوئی کپڑوں میں کفنایا گیا جن میں نہ کرتا تھا اور نہ بگڑی امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو صحیح بتایا ہے اور اسی حدیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے پھر خوشبو یعنی حنوط اور کافور روئی میں لپیٹ کر کچھ روئی چوڑیوں کے درمیان رکھ دی جائے اور اس پر ایک کپڑا باندھ دیا جائے اور باقی روئی سجدے کے سات مقامات پر مل دی جائے اور رائیوں میں بغل میں منہ کے سوراخوں میں، دونوں کانوں کے سوراخوں اور دونوں آنکھوں کے حلقوں میں رکھ دی جائے آنکھوں کے اندر نہ رکھی جائے اگر روئی کے ہٹ جانے کا اور کسی شے کا اندر سے باہر آنے کا ڈر ہو تو ناک کے نتھنوں میں اور کانوں میں روئی مع کافور کے رکھ دی جائے اگر تمام جسم پر کافور و صندل ملدے تو نور علی نور ہے ثابت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سوراخ و اعضا کے جوڑ اور گڑھے مشک سے بھر دیا کرتے تھے۔

**کفنائے کا طریقہ** | اوپر تلے تینوں چادریں بچھا کر میت کو ان پر لٹا دیا جائے اور لوٹ کی چادر کا بالائی سرانصف جسم پر سیدھی طرف لپیٹے پھر دوسرا سرانصف جسم پر بائیں طرف لپیٹے اور اس میں میت کو لپیٹ دے اسی طرح دوسری اور تیسری چادر کو لپیٹ دے اور سر کی طرف چادروں کا زیادہ حصہ رہے اور پیروں کی طرف کم رہے پھر کیے بعد دیگرے چادروں کے سرے بگڑی کی طرح سر کی طرف سے بھی موڑ دے اور پیروں کی طرف سے بھی اور اگر کھلنے کا ڈر ہو تو کتروں سے باندھے لیکن تیسری انا کر بندھن کھول دے اور کفن نہ پھاڑے۔

**عورت کے کپڑے** | عورت پانچ کپڑوں میں کفنائی جاتی ہے تہبند، کمر، دوپٹہ اور دو چادریں ان کپڑوں میں اسے لپیٹ دیا جاتا ہے تہبند اتنا ہو کہ عورت کا تمام بدن چھپالے۔ ہمارے بعض علماء کا بیان ہے کہ دو چادروں میں سے ایک چادر کے بجائے ایسا کپڑا ہو جس سے اس کی دونوں رانیں باندھ دی جائیں اور

وینع فی القبر حلہا ولم یخرق الکفن واما  
المراة فانہا تکفن فی خسة الثواب ازار  
ردرع وخسار ولفانتین تدرج فیہا ادراجا  
والا زار یعمہا قال بعض اصحابنا یتحب  
ان یعمل لہا خامسة تشد بہا فخذ اھا  
فیكون ذلك بدل احدی اللفانتین ویضفر  
شعرہا ثلاثہ ترون ویسدل من خلفہا و  
یفعل بہا وبالرجل کما یفعل بالعروس  
فان تعذر فی حقہا جریع ما ذکرنا اجزی  
بثوب واحد واما المحرم فیغسل بماء وسد  
ولا یقرب طیبا ولا یتخمر رأسہ ولا رجلا  
ولا یلبس مخیطا ویکفن فی ثوبہ لما روی ان  
ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بینما رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم واقف بعرفة ورجل  
واقف اذ وقع من راحلته فوقفته فقال  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوا  
بماء وسدر کفئوا فی ثوبیہ ولا تخمروا  
رأسہ فان اللہ یحشرہ یوم القیامة ملبیا  
واما السقط اذا ولد لا کثر من اربعة اشهر  
غسل وصلی علیہ وان لم یتبین اذ کرہو  
امانتی سمی اسما یملم للذکر والانتی ولا  
فرق فی غسلہ بین الرجل والمرأة لان النساء  
غسلن ابراہیم بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
وکان عمرہ ثمانیۃ عشر شہرا مذکور  
ذلك فی حدیث امر عطیۃ رضی اللہ عنہا

بالوں کی تین چوٹیاں گوندھ کر پیچھے ڈال دی جائیں اور عورت اور  
مرد کے جنازوں کو دو لہا درلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ کیا جائے  
اگر عورت کو پانچ اور مرد کو تین کپڑے نہ ملیں تو پھر جتنے کپڑے  
ملیں کافی ہیں اور دشواری کی حالت میں ایک ہی کپڑا کافی ہے۔  
محرم کو بیری کے پتوں والے پانی سے غسل دیا جائے اس کے خوشبو  
نہ لگائی جائے اور اس کا سراور پیر نہ ڈھانپے جائیں اور نہ اسے  
بسلا ہو کپڑا پہنایا جائے اور اپنے احرام کے دو ہی کپڑوں میں  
کفن دیا جائے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان ہے کہ اس حال  
میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفة میں کھڑے تھے اور ایک شخص بھی  
کھڑا تھا اتنے میں وہ اپنی سواری سے گر گیا اور سواری نے  
اسے کچل ڈالا۔ آپ نے نہ پایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے  
غسل دیا اور اسے اس کے دونوں کپڑوں میں کفن دیا اور اس کا  
سر نہ ڈھانپا کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس حال  
میں اٹھائے گا کہ یہ لبیک کہتا ہوا ہو گا کچے بچہ کی طرح چار ماہ سے  
زیادہ ہے تو غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز بھی پڑھی جائے  
گی۔ اگر چہ مرد و عورت کی تمیز نہ ہو اور اس کا ایسا نام رکھا  
جائے گا جس کا عورت مرد دونوں پر ہو سکے اور اسے مرد بھی  
نہلا سکتا ہے اور عورت بھی کیونکہ عورتوں نے حضرت ابراہیم  
بن محمد کو نہلا یا تھا اس وقت آپ کی عمر آٹھ ماہ تھی۔ اس کا  
ذکر ام عطیہ والی حدیث میں موجود ہے۔

مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت نہلائے اگر عورت اپنے  
شوہر کو غسل دے تو بالاتفاق بہار سے علماء کے نزدیک جائز  
ہے۔

کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ اس میں دو رائے ہیں  
ہیں۔ اسی طرح ام ولد کے غسل کا حکم ہے۔



و یغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة فان  
 غسلت المرأة زوجها بلا خلاف فی  
 المذہب وهل یغسل الرجل امرأته علی  
 روایتین وكذلك الحکم فی ام الولد وقد  
 غسل علی ناطمة الزهراء رضی اللہ عنہما  
 وكفن الرجل مقدم علی الدین والوصیة  
 فان لم یکن له مال فغلی من تلزمه نفقته  
 فان لم یکن من بیت المال وكذلك کفن  
 المرأة ولا یجب علی زوجها والاولی ان یتولی  
 دفنه من یتولی غسله ویعق القبر قدر  
 تامة وبسطة ویكون طوله ثلاثة  
 اذرع وشبرانی عرض ذراع وشبرکما  
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر  
 بن الخطاب رضی اللہ عنہ کیف انت اذا  
 اعنک من الارض ثلاثة اذرع وشبر  
 فی عرض ذراع وشبر ثم قام الیک اهلك  
 فغسلک وکفونک وحنطوک ثم حملوک  
 حتی یغیبوک نیه ثم یهیلوا علیک التراب  
 ثم انصرفوا عنک الحدیث ویستحب ان  
 یسل المیت من قبل رأسه سلا وان عسر  
 ذلك فمن جنب القبر او اسهل الجهات و  
 هو روایة عن الامام احمد رحمہ اللہ  
 واما المرأة فیتولی دفنها النساء کما  
 یتولین غسلها فان تعذر فن وارجامها  
 من الرجال فان تعذر فالشیوخ من الارجام

حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ کو غسل دیا تھا۔

میت کا کفن قرض و وصیت پر مقدم ہے اگر میت نے مال  
 نہ چھوڑا ہو تو اس کے ذمہ کفن ہے جس کے ذمہ اس کا خرچہ تھا  
 اگر اس کا کوئی ایسا عزیز بھی موجود نہ ہو تو میت المال اس کے  
 کفن کا خرچہ اٹھائے گا اسی طرح عورت کے کفن کا حکم ہے۔  
 عورت کا کفن شوہر کے ذمہ واجب نہیں۔ اولیٰ یہ ہے کہ جو  
 غسل کا ولی ہو وہی کفن دفن کا ولی ہو۔ قبر او سطر درجہ کے تدفین  
 کے برابر گہری کھودی جائے اور تین گز ایک بالشت لمبی اور ایک  
 گز اور ایک بالشت چوڑی ہو جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ  
 سے فرمایا کہ اسے عمرؓ تمہارا کیا حال ہو گا جب تمہارے لئے زمین  
 میں تین ہاتھ اور ایک بالشت لمبی اور ایک ہاتھ اور ایک بالشت  
 چوڑی قبر تیار کی جائے گی پھر تمہارے گھروالے کھڑے ہو کر تم کو  
 غسل دیں گے اکفنائیں گے خوشبو لگائیں گے پھر اٹھا کر لیجاؤں  
 گے حتیٰ کہ قبر میں اتار دیں گے اور سب تم پر مٹی ڈال کر چلے آئیں  
 گے۔

مستحب ہے کہ میت کو سرانے سے قبر میں اتارا جائے اگر ممکن  
 نہ ہو تو پھر قبر کی گردٹ سے اتارا جائے یا جس طرف سے بھی آسانی  
 سے اتارا جاسکے ایک روایت امام احمدؑ سے یہی ہے۔ عورت کو  
 عورتیں ہی دفن کریں جیسے انھوں نے اسے نہلایا ہے اگر دشواری  
 پیش آئے تو پھر عورت کے ذوی الارحام دفن کریں اگر اس میں  
 بھی دشواری پیش آئے تو پھر اجنبی بڑھے حضرات دفن کریں۔  
 مستحب ہے کہ عورت کو دفن کرتے وقت قبر کے چاروں طرف  
 پردہ کر لیا جائے۔ مرد کو دفن کرتے وقت نہیں کیونکہ عورت  
 پردہ نشین ہے۔ ایک دفعہ حضرت علیؑ کچھ لوگوں کے پاس سے  
 گزرے جو ایک مرد کو دفن کر رہے تھے اور پردہ کر رکھا تھا آپ

وليتحب ان يسجى قبرها خلاف الرجل  
لانها عورتا وقد مر على رضى الله عنه بقوم  
وقد بسطوا على رجل ثوبا فجد به و  
قال انما يصنع هذا بالنساء فاذا حصل  
في القبر مستقبل القبلة حتى عليه التراب  
ثلاث حثيات بذلك جاءت السنة ثم  
يهاال عليه التراب ويرفع القبر من  
الارض قدر شبر ويرش عليه الماء ويضع  
عليه الحمى وان طين حازوان جصص كره  
وليس تسليم القبر دون تسطیحہ لما روى  
عن الحسن رضى الله عنه قال رأيت قبر النبي  
صلى الله عليه وسلم وما حبيه مسما  
فاذا فرغ من تقبيره سن تلقينه لما  
روى ابو امامة رضى الله عنه ان النبي  
صلى الله عليه وسلم قال اذا صات  
احدكم نسوتيم عليه التراب فليقم  
احدكم على رأس قبره ثم يقول  
يا فلان ابن فلانة فانه يسمع ولا يجيب ثم يقل  
يا فلان ابن فلانة ثانية فانه يترى فاعده الله  
ليقل يا فلان ابن فلانة فانه يقول ارشدنا يرحمك  
الله ولكن لا تسعون فيقول اذكر ما خرجت عليه  
من دار الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا  
عبد ورسوله وانك رضى الله ربا وبالاسلام ديننا وحمد نبينا وبالقرآن  
امامان منكران ونكيرا يقولان ما يقولنا  
عند هذا وقد لقن حجه فقال رجل يا رسول الله

پردہ کو کھینچ کر فرمایا کہ پردہ عورتوں کے لئے کیا جاتا ہے پھر جب  
قبر میں مردے کو قبلہ رخ ٹا دیں تو حاضرین میں سے ہر شخص اس پر  
تین لپ مٹی ڈالے یہ بات حدیث سے ثابت ہے پھر قبر کو مٹی کھینچ کر  
بنایا جائے جو بقدر ایک بالشت کے زمین سے اونچی رہے اور اس پر  
پانی چھڑک دیا جائے اور سنگریزے جمادیں اور اگر مٹی کے گارے  
سے قبر بنا دی جائے تو بھی جائز ہے اور اگر چوڑے سے بنائی جائے تو  
مکروہ ہے قبر چوڑی نہ بنائیں بلکہ اونٹ کے کونڈن کی شکل کی بنائیں  
کیونکہ حضرت حسن کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلعم کی قبر اور  
حضرت ابو بکر و عمرؓ کی قبر کو لان نما دیکھی۔ دفن کر کے تلقین مسنون  
ہے کیونکہ حضرت ابو امامہؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا  
اگر تم میں سے کوئی مر جائے اور اس پر مٹی برابر کر دو تو ایک سرا  
کھڑا ہو کر کہے: اے فلاں بن فلاں کیونکہ وہ سنا ہے اور  
جواب نہیں دیتا) پھر دوسری بار کہے اے فلاں بن  
فلاں، اب وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر کہے اے فلاں  
بن فلاں، مردہ کہتا ہے اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو نے  
مجھے صحیح راہ کی رہنمائی فرمائی لیکن تم اس کی آواز سنتے نہیں  
وہ کہے یاد کر جس کلمہ پر قائم رہ کر تو دنیا سے نکلے۔  
یعنی اشہد ان لا اله الا الله واشہد ان محمدا عبده ورسوله پڑھ  
اور یہ بھی کہ میں اللہ کے رب ہونے سے اسلام کے  
دین ہونے سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے  
سے اور قرآن کے امام ہونے سے راضی ہوں یہ سن کر  
منکر نکیر کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارا بیٹھنا ہے کار ہے اسے  
اس کی حجت کی تعلیم دے دی گئی، ایک شخص نے پوچھا  
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو اس کی ماں کا  
نام معلوم نہ ہو، فرمایا حواء کا نام لے لے۔ تلقین میں اگر



فان لم یعرف اسم امه قال فلینسبه الی حواء  
وان شاء ان یزیدوا بالمؤمنین اخوانا وبالکعبۃ  
قبلة وغیر ذلک من اعلام الاسلام جاز۔

چاہے تو یہ کلمہ بھی پڑھا سکتا ہے اور مسلمانوں کے بھائی ہونے  
سے اور کعبہ کے قبلہ ہونے سے راضی ہوں اور دیگر اسلام کی  
مناز نشانیوں یا دولا دے تو بھی جائز ہے۔

## ستر ہواں باب

### ہفتہ کے دنوں میں دن کی اور رات کی نمازوں کے فضائل

فصل: فی ذکر فضائل الصلوات  
فی ایام الاسبوع ولیالیہ۔ اما ما جاء  
فی صلوات النہار فن ذلک ما روی  
عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ  
قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم اذ اخرجت من منزلک فصل  
رکتین بینعانک مخرج السوء واذا دخلت  
الی منزلک فصل رکتین بینعانک مدخل  
السوء وعن النس بن مالک رضی اللہ عنہ  
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی  
صلاۃ الصبح من توضأت ثم توجه الی المسجد  
ثم یصلی فیہ الصلاۃ کان لہ بكل خطوۃ  
حسنۃ وحی عنہ سیئۃ والحسنۃ بعشر امثالہا  
فاذا صلی ثم انصرف عند طلوع الشمس  
کتب اللہ تعالیٰ لہ بكل شعرتۃ فی

دن کی نمازوں کے فضائل | ابوسلمہ از ابو ہریرہؓ: مجھ سے  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر جانے کا ارادہ  
کرو تو دو گانہ پڑھ کر نکلو یہ دو گانہ تم کو گھر سے باہر کی برائیوں  
سے محفوظ رکھے گا اور جب گھر میں آؤ تو دو گانہ پڑھو یہ تمہیں  
اندرونی خانگی برائیوں سے بچالے گا۔

حضرت انس بن مالکؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے  
باہر سے میں فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے نماز پڑھے تو  
اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی اور ایک برائی مٹا دی جائے گی اور  
ایک ایک نیکی دس گنا کر دی جاتی ہے اگر پھر نماز پڑھے کہ  
مسجد سے سورج نکلنے کے بعد گھر واپس آئے تو حق تعالیٰ شانہ  
اس کے جسم کے ایک ایک بال کے عوض ایک ایک نیکی لکھ لے  
گا اور وہ ایک مقبول حج کا ثواب لے کر لوٹے گا پھر اگر بیٹھا رہے  
حتیٰ کہ رکوع کرے تو حق تعالیٰ اس کے لئے ہر رکوع کے جلسہ میں  
۲۰ لاکھ نیکیاں لکھ لے گا اور جو عشاء کی نماز پڑھے اس کے لئے  
بھی یہی ثواب ہے اور وہ ایک مقبول عمرہ کا ثواب لیکر لوٹے گا۔

جسد لا حسنة والقلب بحجة مبرورة فان  
جلس حتى يركع كتب الله تعالى له بكل  
جلسة الف الف حسنة ومن صلى العتمة فله  
مثل ذلك والقلب لعسرة مبرورة وعن  
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت  
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من  
صلى العشاء في جماعة فكانت اتمام شطر  
الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكانت اتمام  
صلى الليل كله وعن ابي صالح عن ابي هريرة  
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم ما من صلاة اثقل على  
المناققين من صلاة العشاء والفجر  
ولو يعلمون ما فيهما لا توهموا ولو جوا  
ولقد هست ان امرتياقي فياخذوا الخطب  
فاحرقوا على رجال لم يشهدوا معناني  
بيوتهم وعن عطاء بن يسار عن ابي هريرة  
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  
انه قال من صلى اربع ركعات بعد زوال  
الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن  
صلى معه سبعون الف ملك يستغفرون  
له حتى الليل ولم يكن رسول الله صلى الله عليه  
وسلم يبدع اربع ركعات الزوال يطيلهن  
ويقول ان ابواب السماء تفتح في هذه الساع<sup>ة</sup>  
فاحب ان يرفع لي عمل نبيها قيل يا  
رسول الله فيمن سلام فامل قال

حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه: میں نے رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو جماعت  
سے عشاء کی نماز پڑھ لے اس نے گویا رات بھر  
نماز پڑھی۔

الوصالح از ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نمازوں  
سے بھاری کوئی نماز نہیں اگر انہیں ان دونوں نمازوں کا ثواب  
معلوم ہوتا تو ان کے لئے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے۔  
اللہ کی قسم میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے جوانوں کو لکڑیاں  
لانے کا حکم کروں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو ہمارے  
ساتھ آکر نماز میں شامل نہیں ہوتے۔

عطاء بن یسار از ابو ہریرہ:۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم نے فرمایا کہ جو زوال آفتاب کے بعد اچھی قرأت  
سے اور خوبصورت رکوع اور سجدوں کے ساتھ چار رکعت  
نماز پڑھ لے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے  
ہیں اور رات تک اس کے لئے دعا مغفرت کرتے رہتے  
ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (زوال کے بعد  
یہ چار رکعت نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے اور لمبی پڑھا کرتے  
تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے  
کھول دئے جاتے ہیں اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس ساعت  
میں میرے عمل اٹھائے جائیں پوچھا گیا: یا رسول اللہ! کیا یہ  
دو سلاموں سے پڑھی جائیں؟ فرمایا نہیں۔

علاوہ ازیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حق تعالیٰ اس بندے  
پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتا ہے۔  
الوار کے دن کی نماز | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ:



صلى الله عليه وسلم لا وروى عنه صلى الله  
عليه وسلم انه قال رحم الله عبدا صلى  
اربعاً قبل العصر -

**فصل** : في ذكر صلاة يوم الاحد عن  
ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله  
عليه وسلم انه قال من صلى يوم الاحد  
اربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب  
وآمن الرسول مرة كتب الله تعالى له بعدد  
كل نفاعي ونهرا نية حسنات واعطاه  
ثواب نبي وكتب له حجة وعمرة وكتب له  
بكل ركعة الف صلاة ثم اعطاه الله تعالى  
في الجنة بكل حرف مدينة من مسك اذفر  
ومن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي  
صلى الله عليه وسلم انه قال وحده الله  
تعالى بكثرته الصلاة في يوم الاحد ذاته  
واحد لا شريك له فمن صلى يوم الاحد  
بعد صلاة الظهر اربع ركعات بعد الفريضة  
والسنة يقرأ في الركعة الاولى فاتحة الكتاب  
والمسجدة وفي الثانية فاتحة الكتاب  
وتبارك الملك ثم يتشهد ويسلم ثم يقوم  
بثلاث ركعات اخريين يقرأ فيهما فاتحة  
الكتاب وسورة الجمعة ويسأل حاجته كان  
حقا على الله تعالى ان يقضى حاجته ويبرئه مما  
كانت النعماري عليه -

**فصل** : في ذكر صلاة يوم الاثنين عن ابي

نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جو التوارک کے دن  
چار رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آمن  
الرسول ایک بار پڑھے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے لئے  
ہر عیسائی مرد و عورت کی تعداد میں نیکیاں لکھ لیتا ہے اور ایک  
نبی (کے عملوں) کا اسے ثواب ملتا ہے اور ایک حج و عمرہ کا  
ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ہر رکعت کے عوض ایک ہزار  
نمازیں بھی۔ پھر حق تعالیٰ شانہ اسے ہر حرف کے عوض جنت  
میں خالص مشک کا ایک شہر عطا فرمادیتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ :- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم نے فرمایا کہ التوارک کے دن کثرت سے نماز پڑھ کر اللہ  
تعالیٰ کی توجیہ کا اظہار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور  
اس کا کوئی شریک نہیں لہذا اگر کوئی التوارک کے دن ظہر کی نماز  
رفرض و سنت کے بعد چار رکعت نماز پڑھے اور  
پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد الم السجدہ، دوسری رکعت میں  
فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھے پھر تشهد پڑھے کہ سلام  
پھر دس پھر دوسری دو رکعتیں پڑھے اور ان میں سورہ فاتحہ  
کے بعد سورہ جمعہ پڑھے اور اپنی مراد مانگے تو اللہ پر حق  
کہ وہ اس کی مراد برلائے اور اسے عیسائیوں کے عقائد  
سے محفوظ رکھے۔

**پیر کے دن کی نماز** | ابو الزبیر از جابر بن عبد اللہ رضی  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پیر کے روز دن  
چھٹھے دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد  
آیۃ الکرسی، سورہ اخلاص اور سورہ نلق و ناس پڑھے  
پھر سلام پھیر کر دس دس بار استغفار و درود پڑھے اس کے  
تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

الزبیر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما  
 انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 من صلی یوم الاثنين عند ارتفاع النهار  
 رکعتین یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب  
 مرة وآیة الكرسي مرة وقل هو اللہ  
 احد مرة والمعوذتین مرة مرة فاذا سلم  
 استغفر اللہ عشر مرات و صلی علی النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم عشر مرات غفر اللہ له ذنوبه  
 کلها وعن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ  
 عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم من صلی یوم الاثنين اثنتی عشرة  
 رکعة یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب  
 وآیة الكرسي مرة فاذا فرغ من صلاته  
 قرأ اثنتی عشرة مرة قل هو اللہ احد و  
 استغفر اثنتی عشرة مرة ینادی به یوم  
 القيامة ابن فلان بن فلان لیقم فلنیاخذ  
 ثوابه من اللہ تعالی فاول ما یعطی من الثواب  
 الف حلة ویتزوج ویقال له ادخل الجنة  
 فیستقبله مائة الف ملک مع کل ملک  
 هدیة ویشیعونه حتی یدور علی الف قصر  
 من نور یتللا۔

**فصل:** فی ذکر صلاة یوم الثلاثاء عن

یزید الرقاشی عن انس بن مالک رضی اللہ  
 عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 من صلی یوم الثلاثاء عشر رکعات عند انتمائ

ثابت البنانی از انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیر کے دن بارہ رکعت  
 نماز پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد آیہ الکرسی ایک  
 بار پڑھے اور سلام پھیر کر بارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھے۔  
 پھر بارہ دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب والتوب الیہ  
 پڑھے۔ اسے قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ فلاں  
 بن فلاں کہاں ہے؟ جہاں بھی ہو کھڑا ہو جائے اور اللہ  
 تعالیٰ سے اپنا ثواب آکر لے لے سب سے پہلے اسے ایک  
 ہزار جوڑے دئے جائیں گے اور تاج پہنایا جائے گا اور اس  
 سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا پھر ایک لاکھ نرستے  
 اس کا استقبال کریں گے اور ہر فرشتہ کے پاس ہدیہ ہوگا  
 اور سب اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے حتیٰ کہ وہ ایک ہزار  
 جگہ گانے ہوئے نورانی محلوں میں گھومے گا۔

**منگل کے دن کی نماز کی فضیلت** | یزید زناعی از

انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم نے فرمایا کہ جو منگل کے دن دوپہر کے قریب راور ایک  
 لفظ میں ہے ( دن چڑھے دس رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت  
 میں فاتحہ کے بعد ایک بار آیہ الکرسی اور تین بار سورہ اخلا  
 ص پڑھے تو ستر دن تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اور اگر  
 وہ اس عرصہ میں فوت ہو جائے تو شہید ہوتا ہے اور اس  
 کے ستر سال کے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔

**برہ کے دن کی نماز کی فضیلت** | ابو ادریس خولانی از

معاذ بن جبل رضی اللہ  
 عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ  
 جو بدھ کے دن دن چڑھے بارہ رکعت نماز پڑھے اور



النهار و فی حدیث آخر عند ارتفاع النہار  
یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب مرة و  
آیة الكرسي مرة و قل هو الله احد ثلاث  
مرات لم تكتب علیه خطیئة الی سبعین  
یوما فان مات الی سبعین یوما مات  
شہیدا و غفر له ذنوب سبعین سنة۔

**فصل:** فی ذکر صلاۃ یوم الاربعاء عن  
ابی ادریس الخولانی عن معاذ بن جبل رضی اللہ  
عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
من صلی یوم الاربعاء اثنتی عشرة رکعة عند  
ارتفاع النهار یقرأ فی کل رکعة فاتحة  
الكتاب و آیة الكرسي مرة و قل هو  
الله احد ثلاث مرات و المعوذتین  
ثلاث مرات نادى به ملک عند العرش  
یا عبد الله استأنف العمل فقد غفر لك  
ما تقدم من ذنبك و رفع الله عنه عذاب  
القبر و ضیقته و ظلمته و رفع عنه شدائد  
القیامة و رفع له من یومہ عمل نبی۔

**فصل:** فی ذکر صلاۃ یوم الخمیس عن  
عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما  
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
من صلی یوم الخمیس ما بین الظهر و العصر  
رکتین یقرأ فی الرکعة الاولى فاتحة الكتاب  
مرة و آیة الكرسي مائة مرة و فی الثانية  
الفاتحة و مائة مرة قل هو الله احد و بعد

ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیتہ الکرسی اور تین بار  
قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لے تو اس سے عرش  
کے پاس سے ایک فرشتہ آواز دے کہ کتا ہے کہ اے  
اللہ کے بندے اب تو از سر نو عمل کر کیونکہ حق تعالیٰ  
جل مجدہ نے تیرے تمام پہلے گناہ معاف فرما دئے ہیں  
اور حق تعالیٰ شانہ اس سے عذاب قبر کو، قبر کی تنگی کو  
اور اس کی تاریکی کو دور فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن  
کی سختیاں بھی اس سے دفع کر دی جائیں گی اور اسے اس  
دن ایک نبی کے عملوں کی برابر ثواب ملے گا۔

**جمعات کے دن کی نماز کی فضیلت**

عکرمہ از ابن عباس رضی اللہ عنہما  
رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جمعات کے دن ظہر و عصر  
کے درمیان دو رکعت نماز پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ  
فاتحہ ایک بار اور آیتہ الکرسی سو بار پڑھے اور دوسری رکعت  
میں ایک بار سورہ فاتحہ اور سو بار سورہ اخلاص پڑھے  
اور سلام پھیر کر مجھ پر سو بار درود بھیجے حق تعالیٰ شانہ  
اسے رجب، شعبان اور رمضان کے روزوں کا ثواب عطا  
فرماتا ہے اور اسے ایک حاجی کے حج کے برابر ثواب ملتا ہے  
اور تمام مومن اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کی  
تعداد کی برابر نیکیاں ملتی ہیں۔

**جمعة کے دن کی نماز کی فضیلت**

علی بن حسین اپنے  
والد سے اور وہ  
اپنے والد سے: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جمعہ کا دن سر اپنا نماز کے لئے  
ہے۔ جب سورج ایک نیزہ یا اس سے زیادہ بلند ہو جائے

الفراغ یصلی علی مائتہ مرتۃ اعطاه اللہ تعالیٰ  
ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان  
وکان له من الثواب مثل حاج البیت و  
کتب له بعد دکل من آمن باللہ تعالیٰ  
و توکل علیہ حسنات۔

**فصل** : فی ذکر صلاۃ یوم الجمعۃ عن علی  
بن الحسین عن ابيه عن جد لا رضوان اللہ  
علیہم قال سعت النبی صلی اللہ علیہ  
وسلم یقول یوم الجمعۃ کلہ صلاۃ ما  
من عبد مو من قام اذا طلعت الشمس  
وارتفعت قدر زرع ادا کثر من ذلك تتوضأ  
فاسبع الوضوء و صلی سبحة الطنجی رکعتین  
ایمانا و احتسابا کتب اللہ تعالیٰ له مائتی  
حسنة و معانہ مائتی سیئة و من صلی اربع  
رکعات رفع اللہ تعالیٰ له فی الجنة اربع مائتہ  
درجۃ و من صلی ثمان رکعات رفع اللہ تعالیٰ  
له فی الجنان ثمان مائتہ درجۃ و غفر له ذلوبہ  
کلہا و من صلی اثنتی عشرۃ رکعة  
کتب اللہ له الف و مائتی حسنة و معانہ  
الف و مائتی سیئة و رفع له فی الجنة الف و  
مائتی درجۃ و عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ  
رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم من صلی الصبح فی یوم الجمعۃ فی  
جماعۃ ثم جلس فی المسجد یدکر اللہ تعالیٰ  
حتى تطلع الشمس کان له فی الفردوس

تو جو مو من بندہ کھڑا ہو اور پورا وضو کر کے چاشت کا  
درگاہ اس کے ثواب پر یقین کر کے ثواب کی غرض سے  
پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ جل مجدہ اس کے لئے دوسو  
نیکیاں لکھ لیتا ہے اور اس سے دوسو برائیاں مٹا دیتا  
ہے اور جو چار رکعت نماز پڑھے تو حق تعالیٰ شانہ  
اس کے لئے جنت میں چار سو درجات بلند فرمادیتا ہے اور  
جو آٹھ رکعتیں پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے لئے جنتوں  
میں آٹھ سو درجے بلند فرمادیتا ہے اور اس کے تمام گناہ  
معاف فرمادیتا ہے اور جو بارہ رکعت پڑھے تو حق تعالیٰ  
اس کے لئے دو ہزار دوسو نیکیاں لکھ لیتا ہے اور اس  
سے دو ہزار دوسو برائیاں مٹا دیتا ہے اور جنت میں  
اس کے دو ہزار دوسو درجے بلند فرمادیتا ہے۔

الوصالح از ابو ہریرۃ :۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن صبح کی نماز جماعت  
سے پڑھے پھر اپنی جگہ پر سو رج نکلنے تک بیٹھ کر اللہ کے  
ذکر میں مشغول رہے تو حق تعالیٰ اسے فردوس میں ستر  
درجے عطا فرماتا ہے اور ہر دو درجوں کے درمیان ایک  
تیز رفتار گھوڑے کے ستر سالہ دوڑ کی برابر مسافت ہوتی  
ہے اور جو جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھے تو اسے فردوس  
میں پچاس درجے ملتے ہیں اور ہر دو درجوں میں ایک تیز رفتار  
گھوڑے کی پچاس سالہ دوڑ کی برابر مسافت ہوتی ہے اور  
جو عصر کی نماز جماعت سے پڑھے گویا وہ اولاد اسماعیل  
میں سے آٹھ غلام آزاد کرتا ہے اور جو مغرب کی نماز جماعت  
سے پڑھے گویا اس نے مقبول حج اور عمرہ ادا کیا۔

مجاہد از ابن عباس :۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم



سبعون درجة بعد ما بين الدريجتين حضر الفرس  
المضربين سنة ومن صلى صلاة الجمعة في جماعة كان له في الفردوس  
خسون درجة حضر الفرس الجواد حسين سنة ومن صلى العصر في  
جماعة فكأنما اعتق ثمانية من ولد اسماعيل كلهم رقيق ومن  
صلى المغرب في جماعة فكأنما حج حجة مبرورة وعمره متقبلة  
ومن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الجمعة ما بين الظهر والعصر  
رعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي  
مرة وخمسا وعشرين مرة قل اعوذ برب الفلق وفي الركعة  
الثانية يقرأ فاتحة الكتاب مرة وتل هو الله احد مرة وقل اعوذ  
برب الفلق عشرين مرة فاذا سلم قال لا حول ولا قوة الا بالله  
خسين مرة فلا يخرج من الدنيا حتى يري ربه  
عز وجل في المنام ويرى مكانه في  
الجنة او يرى له وروى ان اعرابيا  
قام الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال  
يا رسول الله اننا نكون في البادية بعداء  
من المدينة ولا نقدر ان ناتيك في كل  
جمعة فدلني على عمل اذا رجعت الى قومي  
اخبرهم في سبب الجمعة فقال النبي صلى الله  
عليه وسلم يا اعرابي اذا كان يوم  
الجمعة فصل ركعتين عند ارتفاع النهار  
فاقرأ في اول ركعة فاتحة الكتاب و  
قل اعوذ برب الفلق وفي الثانية فاتحة  
الكتاب وقل اعوذ برب الناس ثم تشهد  
وسلم واقرأ سبع مرات آية الكرسي

نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دو رکعت نماز پڑھے  
اور پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور ۲۵  
بار سورہ فلق اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ  
اخلاص اور ۲۰ بار سورہ فلق پڑھے پھر سلام پھیر کر ۵۰ بار  
لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے تو وہ دنیا سے نہیں سدھارے گا  
جب تک خواب میں اپنے رب کو نہ دیکھ لے گا اور جنت میں  
اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا۔

منقول ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم سے کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم ہم دیہاتوں میں رہتے ہیں اور شہروں سے  
بہت دور ہوتے ہیں اور ہر جمعہ کو آپ کے پاس نہیں آ  
سکتے لہذا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتادیں کہ جب میں اپنی قوم  
میں جاؤں تو میں ان کو جمعہ کے سلسلہ میں خبر دوں نبی اکرم  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دیہاتی جمعہ کے  
روز دن چڑھے دو رکعت نماز پڑھ اول رکعت میں فاتحہ  
کے بعد سورہ فلق اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ  
ناس پڑھ لے۔ پھر تشهد پڑھ کہ سلام پھیر دے اور  
بیٹھے بیٹھے سات بار آیت الکرسی پڑھ پھر چار چار کر کے  
آٹھ رکعت پڑھ اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ نصر  
ایک بار اور سورہ اخلاص ۲۵ بار پڑھ اور سلام پھیر کر  
سبز بار لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ اس کی  
قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان  
ہے جو سو من مرد یا عورت جمعہ کے دن میرے بتائے ہوئے  
طریقہ پڑھ دن میں یہ نماز پڑھ لے۔ میں یقیناً اس کے لئے  
جنت کا ضامن ہوں اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوگا جب

تک اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے مال باپ کو بخش نہ دے گا بشرطیکہ وہ مسلمان ہوں اور عرش کے نیچے سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اللہ کے بندے از سر نو عمل کر کیونکہ تیرے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دئے گئے۔

جمو کے بہت سے فضائل بیان کئے گئے ہیں جن کا یہاں ذکر موجب طوالت ہے۔ ہم اوپر جمعہ کے اور بھی فضائل بیان کر آئے ہیں۔

جمعہ کے دن دیگر اوقات کی نمازوں میں ۱۸ بار سورہ اخلاص کا پڑھنا بڑا ثواب رکھتا ہے اگر کوئی وہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو وہ ہر نماز میں ۱۸ بار سورہ اخلاص پڑھے۔

★

### ہفتہ کے دن کی نماز کی فضیلت

سجید از  
البربریرہ

رضی اللہ عنہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہفتہ کے دن چار رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ کافرون تین بار پڑھے پھر سلام پھیر کر آیتہ الکرسی پڑھے تو حق تعالیٰ اسے ہر حرف کے عوض حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور ہر حرف کے بدلہ سال بھر کے روزوں کا اور شب بیداری کا ثواب دیتا ہے اور ہر حرف کے عوض ایک شہید کا ثواب ملتا ہے اور وہ قیامت کے دن عرش کے سایہ کے نیچے انبیاء کرام اور شہدائے عظام کے ساتھ ہوگا۔

★

جالسائتمصل ثمان رکعات اربعاً اربعاً  
واقرائی کل رکعة فاتحة الكتاب و اذا  
جاء نصر الله مرة واحدة وخمسا وعشرين  
مرة قل هو الله احد فاذا فرغت من  
صلاتك فقل سبعين مرة لا حول ولا قوة  
الا بالله العلي العظيم فالذي نفس محمد  
بيده مامون ولا مومنة صلى يوم الجمعة  
هذه الصلاة كما اقول الا وانا من ليه  
الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر الله  
له ولو اذ يه ان كانا مسلمين وينا دي  
مناد من تحت العرش يا عبد الله استانف  
اعمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما  
تاخر و ذكر لها فضائل كثيرة بطول شرحها  
وقد ذكرنا فيما تقدم فضائل اخرى في صلاة  
اخرى ثمان في عشرة مرة قل هو الله احد في  
يوم الجمعة فمن شاء ان يصلها فليصلها۔

**فصل:** في ذكر صلاة يوم السبت روى سجيد  
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم من صلى يوم السبت اربع  
ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل  
يا ايها الكافرون ثلاث مرات فاذا فرغ من  
صلاته وسلم آية الكرسي كتب الله تعالى له بكل حرف  
حجة وعمره و رفع له بكل حرف اجر سنة صيام نهار  
وتيام ليلها واعطاه الله بكل حرف ثواب شهيد  
وكان تحت عرشه مع النبيين والشهداء۔



# اٹھارہواں باب

## راتوں کی نمازوں کے فضائل

★

### التوار کی رات کی نماز کی فضیلت

انس بن مالک  
میں نے رسول اللہ

صلعم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جو التوار کی رات کو بیس رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں ایک بار فاتحہ، ایک بار معوذتین اور پچاس بار سورہ اخلاص پڑھے اور حق تعالیٰ سے اپنے لئے اور اپنے ماں باپ کے لئے سو بار دعائے مغفرت کرے اور نبی اکرم صلعم پر سو بار درود بھیجے اور اپنی قوت و طاقت سے دستبردار ہو اور اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کی پناہ پکڑ لے پھر یہ دعا پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت آدم اللہ کے برگزیدہ ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، عیسیٰ اللہ کی روح ہیں اور محمد اللہ کے حبیب ہیں اسے تمام مومن و مشرکوں کی تعداد کی برابر ثواب ملتا ہے اور حق تعالیٰ قیامت کے دن امن پانے والوں میں شامل فرما کر اٹھائے گا اور اللہ سے انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔

فصل : فی ذکر فضل صلاتہ لیلۃ

الاحد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی لیلۃ الاحد عشرین رکعة یقرأ فی کل رکعة الحمد لله مرة وقل هو اللہ احد خمسين مرة والبعوذتین مرة مرة واستغفر اللہ سبحانہ مائتہ مرة واستغفر اللہ لنفسہ ولوالدیہ مائتہ مرة و صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مائتہ مرة وتبرأ من حولہ وقوتہ والتجأ الی حول اللہ وقوتہ ثم قال اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان آدم صفوۃ اللہ وفطرته و ابراہیم خلیل اللہ عزوجل وموسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ وعیسیٰ روح اللہ سبحانہ ومحمد حبیب اللہ عزوجل کان له من الاجر والثواب بعد من دعاء اللہ عزوجل

## شب و شبہ کی نماز کی فضیلت

اعمش از انس رضی اللہ عنہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیر کی رات کو چار رکعت نماز پڑھے اور پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دس بار اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بیس بار اور تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تیس بار اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص چالیس بار پڑھے پھر تشهد پڑھے کہ سلام پھیر دے اور سورہ اخلاص ۷۵ بار پڑھے اور اپنے لئے اور اپنے ماں باپ کے لئے ۷۵ بار استغفار پڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی دمی پر ۷۵ بار درود شریف بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگے، حق تعالیٰ ضرور اس کی مراد برلائے گا۔ اس نماز کو نماز حاجت کہتے ہیں۔

ابو امامہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیر کی رات کو دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پندرہ بار قل ہو اللہ احد پڑھے اور سلام کے بعد پندرہ بار آیۃ الکرسی پڑھے اور پندرہ بار حق تعالیٰ سبحانہ سے مغفرت کی دعا مانگے یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب، و اتوب الیہ پڑھے تو حق تعالیٰ اس کا نام جنت والوں کی فہرست میں لکھ لیتا ہے اگرچہ وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے اور اس کے ظاہری گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں اور ہر آیت کے بدلہ ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اگر پیر سے لے کر پیر تک کے درمیان عرصہ میں فوت ہوگا تو شہید ہوگا۔

ولدا ومن لم یبع له ولدا وبعثہ اللہ تعالیٰ یوم القیامۃ مع الامنین وكان خفا علی اللہ ان یدخلہ الجنۃ مع النبیین۔

فصل : فی ذکر فضل صلاۃ لیلۃ الاثنین۔  
روی عن الاعمش عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی لیلۃ الاثنین اربع رکعات یقرأ فی الرکعة الاولی الحمد لله مرة وقل هو الله احد عشر مرات و فی الرکعة الثانية الحمد لله مرة وقل هو الله احد عشرین مرة و فی الرکعة الثالثة الحمد لله مرة وقل هو الله احد ثلاثین مرة و فی الرکعة الرابعة الحمد لله مرة وقل هو الله احد اربعین مرة ثم تشهد وسلم وقرأ قل هو الله احد خمسار سبعین مرة واستغفر الله تعالی لنفسه ولو اذ بدیه خمسار سبعین مرة و صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسار سبعین مرة ثم سأل حاجته كان حقا علی الله تعالی ان یعطیه سؤلہ وھی تسمى صلاۃ الحاجۃ و عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی لیلۃ الاثنین رکعتین یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله احد خمس عشر مرة و یقرأ بعد التسليم خمس عشر مرة آیۃ الکرسی



و یتغفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خمس عشرۃ  
مرۃ جعل اللہ تعالیٰ اسمہ فی اصحاب الجنة  
وان کان من اصحاب النار وغفر لہ ذنوب  
العلائیۃ و کتب لہ بکل آیتۃ قرأھا حجة  
وعمرۃ وان مات ما بین الاثنین الح  
الاثنین مات شهیداً۔

**فصل:** فی ذکر فضل صلاۃ لیلۃ الثلاثاء  
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من  
صلى لیلۃ الثلاثاء اثنتا عشرۃ رکعة  
یقرا فی کل رکعة فاتحة الكتاب مرۃ  
واذا جاء نصر اللہ خمس مرات بنی اللہ  
تعالیٰ لہ فی الجنة بیتا عرضہ و طولہ و سع  
الدنیا سبع مرات۔

**فصل:** فی ذکر فضل صلاۃ لیلۃ الاربعاء  
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من  
صلى لیلۃ الاربعاء رکعتین یقرأ فی اول  
رکعة فاتحة الكتاب مرۃ و قل اعوذ برب  
الفلق عشر مرات و فی الرکعة الثانیۃ  
فاتحة الكتاب مرۃ و قل اعوذ برب الناس  
عشر مرات ینزل من کل سماء سبعون  
الف ملک ینکتون لہ الثواب الی یوم القیامۃ۔  
**فصل:** فی ذکر فضل صلاۃ لیلۃ  
الخمیس عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ رضی  
اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم من صلی لیلۃ الخمیس ما بین

نوت ہوگا۔

### منگل کی رات کی نماز کی فضیلت

نبی اکرم صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا جو منگل کی رات میں بارہ رکعت نماز پڑھے اور  
ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ پانچ  
بار پڑھے لے حق تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر  
بنائے گا جس کا عرض و طول دنیا سے سات گنا بڑھا ہوا  
ہوگا۔

### بدھ کی رات کی نماز کی فضیلت

نبی اکرم صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ جو بدھ کی رات میں دو رکعت نماز پڑھے۔  
اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق دس  
بار اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ ناس  
دس بار پڑھے تو ہر آسمان سے ستر ستر ہزار فرشتے  
اترتے ہیں اور قیامت تک اس کا ثواب اس کے لئے  
لکھتے رہیں گے۔

### جمعرات کی رات کی نماز کی فضیلت

ابو صالح  
از ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  
فرمایا کہ جو جمعرات کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان  
دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ بار  
آیت الکرسی پانچ بار سورہ اعلان اور پانچ بار معوذتین پڑھے  
پھر سلام پھیرے پندرہ بار استغفار پڑھے اور اس کا ثواب  
اپنے ماں باپ کو پہنچائے تو ان کا حق ادا کر دے گا اگرچہ  
ان کا نام زمان تھا اور حق تعالیٰ سبحانہ اسے وہی سب کچھ

دے گا جو صدیقین و شہداء کو دیتا ہے۔

جابر بن عبد اللہ  
نبی اکرم صلی اللہ

### جمعہ کی رات کی نماز کی فضیلت

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ جو جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس بار سورہ اخلاص پڑھے تو گویا اس نے بارہ سال تک اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کہ دن میں روزے رکھے اور رات میں رات بھر نوافل پڑھے۔

کثیر بن سلمۃ از انس بن مالک رضی اللہ عنہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کی رات کو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے اور عشاء کے بعد دو رکعت سنتیں پڑھے کہ دس رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک بار سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھے پھر تین رکعت وتر پڑھے کہ قبیلہ رنج ہو کر اپنی سیدھی کہوٹ پر سو جائے گویا اس نے شب قدر جاگ کر عبادت میں گزار لی۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر روشن رات میں کثرت سے درود بھیجو اور شگفتہ دن میں بھی یعنی جمعہ کی رات میں بھی اور دن میں بھی۔

انس بن مالک  
رضی اللہ عنہ:

### ہفتہ کی شب کی نماز کی فضیلت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہفتہ کی شب کو مغرب و عشاء کے درمیان ۱۲ رکعت نماز پڑھے حق تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل

المغرب والعشاء رکعتین یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي خمس مرات والمعوذتين خمس مرات فاذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة وجعل ثوابها لوالديه فقد ادى حقهما وان كان عاقبا لهما واغناه الله سبحانه وتعالى ما يعطى الصديقين والشهداء۔

**فصل:** فی ذکر صلاۃ لیلة الجمعة عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من صلی لیلة الجمعة بین المغرب والعشاء اثنتی عشرة رکعة یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشر مرات فکانما عبد الله تعالى اثنتی عشرة سنة صیام نهارها وقیام لیلها وروی عن کثیر بن سلمۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صلی لیلة الجمعة ملائكة العشاء الآخرة فی جماعة و صلی بعد ہا رکعتی السنة ثم صلی بعد ہا عشر رکعات یقرأ فی کل رکعة الحمد لله مرة وقل هو الله احد مرة والمعوذتین مرة ثم اوثر بثلاث رکعات ونام علی جنبہ الایمن ووجهہ الی القبلة فکانما احیا لیلة



القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم  
 اكثروا من الصلاة على في الليلة الغراء  
 واليوم الا زهر ليلة الجمعة وليلة السبت  
**فصل:** في ذكر فضل صلاة ليلة السبت  
 عن انس بن مالك رضى الله عنه عن النبي  
 صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى  
 ليلة السبت بين المغرب والعشاء  
 اثنتي عشرة ركعة بنى الله تعالى له  
 قسرا في الجنة وكانها تصدق على كل  
 مومن ومؤمنة وتبرأ من اليهودية و  
 كان حقا على الله ان يفرله -

**فصل:** وقد ذكرنا في مجلس التوبة  
 فيما تقدم في اثناء الكتاب انما يشتغل  
 بالنوافل من الصلاة والصيام والصدقة  
 والاراع العبادات بعد احكام الفرائض  
 والسنن فلا يشتغل بسواها بل ينوي بجميع  
 عباداته فرائض ما عليه من كل جنس  
 منها فينوي بجميع هذه الصلوات التي  
 ذكرناها في هذا الليالي والايام قضاء  
 يسقط عنه الفرض ويحصل له الفضل بجميع الله  
 تعالى بينهما بسنة ورحمته وكرمه فاذا  
 تحقق براءة ساحتها من الفرائض وحينئذ ينوي  
 بجميع ذلك نافلة -

**فصل:** في ذكر فضل صلاة التسبيح  
 الشيخ البونصر عن والده قال اخبرنا ابو الفتح

بناذيتا ہے اور اسے اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے ہر  
 مومن مرد و عورت پر صدقہ کیا اور یہودی مذہب سے  
 نفرت کی اور اللہ پر واجب ہے کہ اسے بخش دے -

نوافل تکمیل فرائض کے لئے ہیں | ہم اور اثنائے

کی مجلس میں ذکر کرتے ہیں کہ نوافل میں خواہ وہ نماز ہوں  
 یا روزہ یا صدقہ و خیرات یا کوئی اور عبادت، فرائض کو خوبصورت  
 سے ادا کرنے کے بعد مشغول ہونا چاہیے، جس سے صاف  
 ظاہر ہے کہ پہلے فرائض کو انتہائی خوبصورتی سے ادا کیا جائے  
 اور انہیں کی بجائے اور سی میں مستغرق رہا جائے اور فرائض  
 ہی کو دل لگا کر انجام دیا جائے، پھر فرائض کی تکمیل کے  
 بعد انہیں مستحکم کرنے کے لئے اور ان میں جو کمی آگئی ہے  
 اسے دور کرنے کے لئے ہر فرض عبادت کی سنتوں کی طرف  
 توجہ دی جائے اور جس قدر اللہ تعالیٰ توفیق دے نقلی  
 عبادتیں ادا کی جائیں اور ان تمام نمازوں کو پڑھا جائے  
 جن کا ہم نے ہفتہ کی راتوں اور دنوں میں ذکر کیا ہے اور یہ  
 نیت کر لی جائے کہ فرائض میں جو کمی ہو حق تعالیٰ اسے ان  
 نوافل سے پوری کر دے اور پورے پورے فرائض کا ثواب  
 عطا فرمادے اور حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور عنایت و  
 مہربانی سے دونوں کو جمع کر کے پورا پورا ثواب عطا  
 فرمادے پھر جب میدان فرائض کو صحیح صحیح سلامتی کے ساتھ  
 طے کر لیا جائے تو پھر نوافل کی طرف توجہ مبذول کی جائے -

★

صلوة التسبیح کی فضیلت | ہم سے شیخ البونصر نے اپنے  
 والد سے بیان کیا ان کو ابو الفتح محمد بن احمد بن ابی الفوارس اور

محمد بن احمد بن ابی الفوارس والی الفوارس والی ابو محمد الحسن  
بن محمد الخلال قال اخبرنا ابو حفص عمر  
بن احمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن محمد  
البيغوی قال حدثنا اسحاق بن ابی اسرائیل قال  
حدثنا موسی بن عبد العزیز قال حدثنا الحكم  
بن ابان قال حدثنی عكرمة عن ابن عباس  
رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم قال للعباس بن عبد المطلب  
رضی اللہ عنہ یا عباس یا عما لا اَعْطیک  
الا امنک الا احبک الا اجعل لك عشر  
خصال اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لك  
ذنبك اوله و آخره قد بیہ وحدیثه خطاه  
وعدله صغیره وکبیره سره وعلانیته  
ان تصلی اربع رکعات تقرأ فی کل رکعة  
فاتحة الكتاب وسورة ناذا فرغت من  
القراءة فی اول رکعة رانت قائم قلت سبحان  
الله والحمد لله والاله الا الله والله اکبر  
خمس عشرة مرة ثم ترکم فتقولها وانت  
راکع عشر اثم ترفع رأسك من الرکعة  
تقولها عشر اثم تسجد فتقولها عشر اثم  
ترفع رأسك من السجود فتقولها عشر اثم  
تسجد فتقولها عشر اثم ترفع رأسك فتقولها  
عشر اثم فذلك خمس وسبعون فی کل رکعة تفعل  
ذلك فی اربع رکعات فان استطعت ان تسليها  
فی کل يوم مرة فافعل فان لم تفعل ففی کل

الو محمد حسن بن محمد خلال نے خبر دی ان سے ابو حفص عمر بن واعظ نے  
بیان کیا ان سے عبد اللہ بن محمد بن لغوی نے بیان کیا ان سے اسحق بن  
ابی اسرائیل نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن عبد العزیز نے بیان کیا ان  
سے حکم بن ابان نے بیان کیا انھوں نے کہا مجھ سے عکرمة نے ابن  
عباس سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب  
سے فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان! کیا میں تم کو عطیہ نہ دوں؟  
کیا میں تمہیں تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں تم کو  
ایسی دس باتیں نہ بتاؤں کہ اگر تم ان پر عمل کرو تو حق تعالیٰ تمہارے  
انگے پچھلے پرانے گناہوں، دانستہ نادانستہ، چھوٹے بڑے اور چھپے کھلے  
تمام گناہ بخش دے؟ تم چار رکعت نماز پڑھو ہر رکعت میں سورہ  
فاتحہ اور کوئی سنی دوسری سورت پڑھو پہلی رکعت میں فاتحہ اور  
دوسری سورت سے فارغ ہو کر حالت قیام میں سبحان اللہ و  
الحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ۵ بار پڑھو اور رکوع میں رکوع  
کی تسبیحات سے فارغ ہو کر دس بار پڑھو پھر قومہ میں دس بار پڑھو  
پھر سجدے میں دس بار پڑھو پھر قعدہ میں دس بار پڑھو پھر  
سجودے میں دس بار پڑھو پھر سجدے سے سر اٹھا کر جلسہ استراحت  
میں دس بار پڑھو لہذا یہ ہر رکعت میں ۵ بار ہوتی پھر اسی طرح  
ہر رکعت میں پڑھو اگر روزانہ پڑھ سکو تو پڑھو ورنہ ہر  
ہفتہ ایک دفعہ پڑھ لو اگر ممکن نہ ہو تو ہر ماہ ایک بار پڑھ  
لو اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہر سال ایک بار پڑھ لو اور  
اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ساری عمر میں ایک بار پڑھ لو۔  
دوسرے لفظ میں ہے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد  
انگے دوسری میں فاتحہ کے بعد سورہ زلزال تیسری میں فاتحہ  
کے بعد سورہ کافرون اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھو  
ہم سے ابو نصر نے اپنے والد سے اپنی اسناد سے بیان کیا کہ



جمعة مرة فان لم تفعل ففي كل شهر مرة فان  
 لم تفعل ففي عمرك مرة وفي لفظ آخر  
 يقرأ في الركعة الاولى بفاحة الكتاب وسبح  
 اسم ربك الاعلى وفي الثانية بفاحة الكتاب  
 واذا زلزلت وفي الثالثة بفاحة الكتاب و  
 قل يا ايها الكافرون وفي الرابعة بفاحة  
 الكتاب وقل هو الله احد وحدثنا ابو نصر  
 عن والده ناسدا ان النبي صلى الله عليه وسلم  
 قال لجعفر بن ابى طالب رضى الله عنه لا  
 امنحك الا احبوك الا اعطيك وساق الحديث  
 الى آخرة وروى انه صلى الله عليه وسلم قال  
 ذلك لعرو بن العاص رضى الله عنه وفيه  
 زيادة عشرة في حال القيام وفي غيره استقامها  
 وفي بعض الالفاظ ذلك ثلثمائة يعنى بد التسبيح  
 في الاربع وفي لفظ آخر ذلك الف ومائتان يعنى  
 الذاع التسبيح وهى اربع سبحان الله والحمد لله  
 ولا اله الا الله والله اكبر فاذا ضربت في  
 ثلثمائة كانت القاد مائتين وقال بعض العلماء  
 بالله عز وجل يستحب نقلها في الجمعة مرتين  
 مرة ليلا ومرة نهارا.

**فصل في صلاة الاستخارة ودعائها**  
 عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله  
 رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامر كما  
 يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هت احدكم

نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے جعفر بن ابى طالب سے فرمایا  
 کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں اور  
 کیا میں تمہیں ایک عطیہ نہ دوں؟ پھر حسب مذکور حدیث بیان کی  
 ایک روایت میں ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن  
 العاص سے فرمایا تھا اس روایت میں حالت قیام میں دس  
 تسبیحیں زیادہ ہیں اور دوسری روایتوں میں زیادہ نہیں  
 ہیں بعض روایت میں تین سو ہیں یعنی چار رکعت میں تین  
 سو تسبیحات ہو جاتی ہیں۔ ایک لفظ میں بارہ سو تسبیحات ہیں  
 کیونکہ ایک تسبیح میں چار تسبیحات ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ  
 لا اله الا اللہ، اللہ اکبر اور چار کونین سو میں ضرب دینے  
 سے بارہ سو تسبیحات ہو جاتی ہیں۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن صلوة التسبیح کو دو بار  
 پڑھنا مستحب ہے ایک دفعہ دن میں اور ایک دفعہ رات  
 میں۔

محمد بن منکدر از جابر بن عبد اللہ  
 رسول اللہ صلعم ہمیں ہر کام کے

### نماز و دعائے استخاره

وقت استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی سورت کی  
 تعلیم دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی کسی  
 کام کرنے کا یا کہیں جانے کا ارادہ کرے تو اسے دو رکعت نفلی  
 نماز پڑھنی چاہیے پھر سلام پھیر کر یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ  
 میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعہ خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت  
 کے ذریعہ اپنے اندر اس کام کی قدرت کا سوال کرتا ہوں اور  
 تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں کیونکہ تو اس پر قادر ہے  
 میں نہیں اور تجھے اس کا علم ہے مجھ کو نہیں اور تو غیبوں سے  
 خوب آگاہ ہے اے اللہ اگر تیرے علم میں میرا یہ کام (یہاں کام کا نام لے)

بامرا و باراداة خروج فليركم ركعتين من  
غير الفريضة ثم يقول اللهم اني استخيرك  
بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من  
فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم  
ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت  
تعلم ان هذا الامر وتسببه بعينه خيرا لي في  
ديني ودين ابي و آخري وعاقبة امري وعاجله  
واعجله فاقدر لى ويسر لى ثم بارك لى  
فيه والافامرفه عنى ويسر لى الخير حيث كان  
ما كنت ورضنى يقضائك يا ارحم الراحمين  
فينبغى لكل احد اذا تحقق عزمه على الخروج  
الى وجه من سفر التجارة او حج او زيارة ان  
يقول عقب الركعتين اللهم انى اريد الخروج  
فى وجهى هذا بلا ثقة منى بغيرك ولا رجاء  
الى بك ولا قوة اتوكل عليها ولا حيلة الجاؤ  
اليها الا طلب فضلك والتعرض لمعروفك  
ورحمتك والسكون الى حسن عبادتك وانت  
اعلم بناقد سبق لى فى علمك فى وجهى هذا  
ما احب واكره اللهم فامرف عنى بقدرتك  
مقادير كل بلاء ونفس عنى كل كرب وداء  
واسبط على كنف من رحمتك ولطف من عونك  
وحرزا من حفظك وجبيع معا فانك ثم يرفع  
الاحمال وياخذ فى السير ويقول يا رب تضادك  
على حقيقة احسن املى وادفع عنى ما احذر  
ما انت اعلم به منى واجعل ذلك خيرا لى

میرے لئے دین و دنیا میں آخرت میں اور انجام کے اعتبار سے جلد  
یا بدیر بہتر ہو تو اسے میرے واسطے مقدر فرما اور میرے لئے آسان  
فرمادے پھر اس میں مجھے برکت دے ورنہ اس کام کو مجھ سے پھیرے  
اور جہاں بھی اچھائی ہو وہ اچھائی جب تک میں رہوں میرے لئے  
آسان فرمادے اور اسے ارحم الراحمین مجھے اپنے فیصلہ اور تقدیر  
سے خوش کر دے۔

اگر کسی کا سفر کا ارادہ ہو خواہ تجارت کے لئے سفر ہو یا حج  
وزیارت کے لئے تو دو گناہ ادا کر کے یہ دعا پڑھے اے اللہ  
میں اپنے اس مقصد کے لئے سفر کرنا چاہتا ہوں اور تیرے سوا میرا کسی پر  
بھروسہ نہیں اور نہ اس سے بجز تیرے کوئی مقصد و البتہ رکھتا ہوں اور نہ  
کسی کی قوت پر توکل کرتا ہوں اور نہ بجز تیرے طلب فضل کے میرے پاس  
کوئی تدبیر ہے اس پناہ پکڑوں میں سے ہی تم سلوک کا طالب اور مجھے تیری جن عبادت سے  
سکوٹتا ہے اے اللہ مجھے اس سفر میں جو کچھ پیش آنے والا ہے خواہ  
وہ مجھے پسند ہو یا ناپسند علم کی وجہ سے تو خوب جانتا ہے۔

اے اللہ اپنی قدرت سے ہر مقدر بلا مجھ سے پھیر دے، ہر بے حسنی  
اور بیجا ہمتی مجھ سے ہٹا دے اور مجھ پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ ا  
اپنی مدد کی نوازش فرما، اپنی عاقبت و حفاظت کا تعویذ بخش  
پھر سامان اٹھا کر یہ دعا پڑھنا ہو اچل پڑے اے اللہ تیرا ہیملہ  
میرے لئے برحق ہے مجھے میرے مقصد میں خوبصورتی کے ساتھ  
کامیابی عطا فرما اور مجھ سے خطرات ہٹا دے جن کا مجھے ڈر ہے  
اور ان خطرات کو بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور یہ سفر  
میرے لئے دین و دنیا میں موجب خیر و فلاح بنا اے میرے  
پروردگار! میری درخواست ہے کہ میں اپنے پیچھے جس قدر اہل  
دعیاں و اقارب چھوڑ چلا ہوں تو اسی خوبصورتی سے جس سے  
تو فائز ہوں ان کا خلیفہ بنتا ہے میرا ان میں خلیفہ بن جا تو ہر



فی ذیبتی و آخرتی اسالك یارب ان تخلفنی فیما خلفت  
ورائی من اہلی و ولدی و قرابتی باحسن ما خلفت  
بہ غائباً من المؤمنین فی تحصین کل عورتہ و  
حفظاً من کل مضرتہ و کفایۃ کل مہمہ و صرف  
کل مکروہ و کمال ما تجمع لی بہ من الرماء  
و السرور فی الدنیا و الآخرة ثم ارزقنی فی ذلک  
کلہ شکرک و ذکرک و حسن عبادتک حتی  
ترضی عنی و تدخلنی جنتک برحمتک بعد الرماء  
یا ارحم الراحمین و ینبغی ان یکثر فی سفرہ من  
ہذا الدعاء فان النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
کان یقولہ کثیراً و هو الحمد للہ الذی خلقنی  
ولم اک شیئاً مذکور اللہم اعنی علی اہاویل  
الدنیا و بوائق الدہور و مضائب الالیام  
واکفنی شر ما یعمل الظالمون اللہم فی سفری  
فاصحبنی و فی اہلی فاخلفنی و فیما رزقتنی نبارک  
لی و فی نفسی فذللتنی و فی اعین الناس فعتظمتنی  
و فی خلقی فقومنی و الیک یارب فنجبنی اعوذ  
بوجهک الکریم الذی اشرقت بہ السموات  
و کشفت بہ الظلمات و سلم علیہ امر الازلین  
و الآخرین ان لا تحمل علی غضبک و لا تنزل بی  
سخطک لک العتبی فیما استطعت و لا حول و لا  
قوة الا بک اللہم انی اعوذ بک من دعاء  
السفر و کآبۃ المنقلب و من الخور بعد الکور  
و دعوتہ المظلوم اللہم اطولنا الارض و ہون علینا  
السفر اسالك بلا غایب بلع خیر او مغفرة و رضوانا

غائب و مسافر مومن کی ہر چیز کی بہترین حفاظت کرنے والا ہر  
نقصان و ضرر سے خوب بچانے والا ہے ہر مہم کے لئے کافی  
ہر ناگوار طبع بات کو مٹانے والا اور اپنی رضا اور خوشی سے  
مجھے دنیا اور آخرت میں سکون و اطمینان بخشنے والا ہے پھر مجھے  
ان تمام نعمتوں میں اپنے شکر کی اذکار کی اور حسن عبادت کی  
توفیق عطا فرماتے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور لے ارحم  
الراحمین جتنے کہ تو مجھے اپنی رحمت سے اپنی رضا کے بعد جنت میں  
داخل فرما دے۔ مومن کو لائق ہے کہ سفر میں کثرت سے مندرجہ  
ذیل دعا پڑھتا رہے کیونکہ نبی اکرم صلعم بھی سفر میں کثرت سے  
یہ دعا پڑھا کرتے تھے حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے  
پیدا فرمایا حالانکہ میں کچھ بھی نہ تھا جس کا ذکر کیا جائے اے اللہ  
دنیا کے ہولوں پر زمانہ کی تباہیوں پر اور آفتوں پر اور  
دن رات کے مصائب پر میری اعانت فرما اور ظالموں کے  
عملوں کی برائی سے مجھے کافی ہو جائے اللہ سفر میں میرا ساتھی  
ہو اور گھر میں میرا خلیفہ بن اور رزق میں مجھے برکت دے اور  
مجھے میرے دل میں ذلیل کر اور لوگوں کی نگاہوں میں عظمت عطا  
فرما اور میری پیدائش میں استحکام بخش اور میرے پروردگار  
مجھے اپنی محبت دے مجھے تیرے بزرگ چہرے کی پناہ جس سے  
آسمان جگمگا گئے اور تاریکیاں چھٹ گئیں اور جس سے تمام انگوٹوں  
اور پھلوں کے کام بن گئے کہ تو مجھ پر اپنا غصہ نازل فرمائے  
اے اللہ اپنی ناراضی مجھ پر نہ اتار جہاں تک مجھے مقدر ہے  
میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں اور گناہوں سے بچنے کی اور فرمانبرداری  
تو تیری توفیق ہی کی وجہ سے ہے اے اللہ سفر کی سختیوں  
سے لوٹنے کی برائی سے زیادتی کے بعد کمی سے رفاخی کے بعد  
تنگی سے اور مظلوم کی بددعا سے مجھے تیری پناہ اے اللہ بہار

اسالك الخیر كله انك علی كل شیء قدیر  
وینبغی ان یقول عند خروجہ من منزله  
بسم الله توكلت علی الله ولا حول ولا قوة  
الا بالله فانه قیل فی الخبر انه یقال له وقت  
وكفیت وحبیت وینبغی اذا ركب را حلتہ  
ان یكبر ثلاثا ویحمد ثلاثا ویقول سبحان الذی  
مخر لنا هذا وما كنا له مقرنین سبحانك  
لا اله الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا  
یغفر الذنوب الا انت انہ صر وی عن رسول الله  
صلی الله علیہ وسلم و فی حدیث ابن عمر  
رضی الله عنہما ان النبی صلی الله علیہ وسلم  
كان اذا سافر وركب یقول اللهم انی اسألك  
فی سفری هذا التقی ومن العمل ما ترضی اللهم  
هون علینا السفر واطولنا بعد الارض اللهم  
انت صاحب فی السفر والخلیفة فی الازل  
اللهم امحبنا فی سفرنا واخلقنا فی اهلنا  
وزاد ابن جریر فقال انی اعوذ بك من وعشاء  
السفر وسوء المنقلب وکآبة المنظر فی الازل  
والمال وینبغی له اذا ازامی دخول قریة ادر  
مدینة ان یقول كما روی عن النبی صلی الله  
علیہ وسلم اللهم رب السموات السبع و  
ما اظلت ورب الارضین السبع وما اقلن  
ورب الشیاطین وما اضلن اسألك من خیر  
هذا القرية وخیر اهلها وخیر ما فیها  
واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما

لئے زمین لپیٹ دے اور ہم پر سفر آسان فرما میں تجھ سے ایسے  
سینچے کا سوال کرتا ہوں جو مجھے خیر و مغفرت اور خوشنودی و رضا  
تک پہنچا دے میں تجھ سے ہر بھلائی مانگتا ہوں بلاشبہ تو ہر چیز پر  
خوب قادر ہے۔ گھر سے نکلنے وقت یہ دعا پڑھنی مناسب ہے  
میں اللہ کا نام لے کر گھر سے روانہ ہوتا ہوں، میرا اللہ ہی ہے  
بھروسہ ہے اور ہر طرح کی طاقت و قوت اللہ ہی کی تو فین سے  
ہے ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس دعا کے پڑھنے  
والے سے فرماتا ہے کہ تجھے محفوظ کر دیا گیا اور کفایت کر دیا گیا اور  
بچایا گیا۔ سواری پر سوار ہوتے وقت ۳ بار اللہ اکبر اور ۳ بار  
الحمد للہ پڑھ کر سبحان الذی سبح الخ پڑھے یعنی وہ پاک ہے  
جس نے یہ سواری ہماری تابعدار بنا دی اور ہم ایسے نہ تھے کہ  
اسے اپنے قابو میں رکھتے اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی  
معبود نہیں میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اے اللہ مجھے بخش  
دے کیونکہ تو ہی گناہ بخشتا ہے یہ دعا رسول اللہ صلعم سے  
ثابت ہے۔

حدیث ابن عمر رضی عنہما ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے اور سوار ہو جاتے تو فرماتے  
اے اللہ میں اپنے اس سفر میں تجھ سے تقویٰ کا اور تیرے  
پسندیدہ عملوں کا سوال کرتا ہوں اے اللہ ہم پر سفر آسان  
فرما اور ہمارے لئے زمین کی مسافت لپیٹ دے اے اللہ  
تو سفر میں میرا رفیق ہے اور گھر میں میرا خلیفہ ہے اے اللہ ہمارے  
سفر میں ہمارا رفیق بن اور گھر میں ہمارا خلیفہ بن ابن جریر نے  
یہ الفاظ بڑھائے ہیں اے اللہ سفر کی تکلیفوں سے الوٹنے کی  
برائی سے اور اہل و مال میں تکلیف دہ منظر سے مجھے بترنی پناہ۔  
مسافر اگر کسی آبادی یا شہر میں داخل ہونا چاہے تو یہ دعا پڑھے





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كل يوم سبع مرات ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله تعالى ما اهمه صادقاً كان او كاذباً ان شاء الله تعالى وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال عند الكرب لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كشف عنه ماذن الله تعالى۔

**فصل** : في ذكر صلاة الكفاية وهي ركعتان يميليهما اى وقت كان يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله احد عشر مرات ونسب كفيكهم الله وهو السميع العليم خمسين مرة ثم يسلم ويدعو بهذا الدعاء وهو يا الله يا رحمن يا منان يا حنان يا مستجيباً بكل لسان يا من يداه بالخير مبسوطتان يا كافي محمد صلى الله عليه وسلم الاحزاب ويا كافي ابراهيم عليه السلام النيران يا كافي موسى ترهون ويا كافي عيسى عليه السلام الجبابرة ويا كافي نوحا عليه السلام الغرق يا كافي لوطا عليه السلام فحش قومہ يا كافي من كل شيء ولا يكفى منه شيء يا كافي عائشة رضی اللہ عنہا و آسیتہ اکفی عظیم البلاء

بسم اللہ ذی الشان عظیم البرهان ، شدید السدطان کل یوم ہونی شان اعوذ باللہ من الشیطان ، ہا شاء اللہ کان لاحول ولا قوۃ الا باللہ یعنی اس اللہ کے نام سے جو بڑی شان والا ہے جس کی برہان عظیم ہے جس کا اقتدار سخت ہے اور جو روزانہ ایک نرالی شان میں ہوتا ہے ۔ میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو کچھ اللہ نے چاہا ہوا اور ہر طرح کی قوت و طاقت اللہ ہی کے ساتھ ہے ۔ فرماتے ہیں یہ دعائیں نے پڑھی کہ اچانک میں نے اپنے سفر کے ساتھ قریب پھر میں نے اس اللہ کے بندے کو دیکھا تو وہ غائب تھا۔

ابو بلال : ایک دفعہ میں منی میں اپنی بیوی سے جدا ہو گیا اور ہم بچھڑ گئے مجھے یہ دعایا دتھی فوراً میں نے یہ دعا پڑھی تھوڑی سی دیر میں میں نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس ہوں۔ ابو الدرداء : رسول صلعم نے فرمایا کہ جو روزانہ سات بار ان دلیی اللہ الذی نزل الکتاب ونہو یتولی الصالحین حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم یعنی میرا دوست اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور جو علماء کا دوست ہوتا ہے مجھے اللہ کافی ہے ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے ، پڑھ لے حق تعالیٰ اسے انشاء اللہ اسکے مقاصد میں کامیاب فرمائے گا اور کافی ہو جائے گا خواہ صادق ہو یا کاذب۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلعم نے فرمایا جو بے چینی کے وقت لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين یعنی اللہ کے سوا جو بڑا بزرگ ہے کوئی معبود نہیں ، اللہ پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے اس کی بے چینی جاتی رہے گی۔

**نماز کفایہ** | نماز کفایہ ایک دو گانہ ہے جب چاہو پڑھو اس دو گانہ میں ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ دس بار سورہ اخلاص



من كل شيء حتى لا اخاف ولا اخشى مع اسمك  
العظيم الا عظم شيئاً فانه يكتفى ويجمع همه وشو  
عند صلواتك -

**فصل** : في ذكر صلاة الخصماء وهي

اربع ركعات بتسليمة واحدة يقرأ في  
الاولى فاتحة الكتاب وقل هو الله احد  
احدى عشرة مرة وفي الثانية الفاتحة و  
قل هو الله احد عشر مرات وثلاث مرات  
قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة الفاتحة  
وخمسة عشر مرات قل هو الله احد والهاكم  
النكاثر مرة وفي الرابعة الفاتحة وخمس  
عشرة مرة قل هو الله احد وآية الكرسي  
مرة ثم يجعل ثوابها لخصمائه يكفيه الله  
امرهم يوم القيامة ان شاء الله تعالى يصلى  
هذه الصلاة في سبعة اوقات اول ليلة من  
رجب، وليلة النصف من شعبان و آخر جمعة  
من رمضان ويوم العيدين يوم عرفة ويوم  
عاشوراء -

**فصل** : في صلاة الغتقاء في شوال حدثنا

ابو نصر بن البناء عن والده قال حدثنا ابو  
عبد الله الحسين بن عمر العلاف قال اخبرنا  
ابو القاسم القاضي قال حدثنا محمد بن احمد  
ابن صديق قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن  
قال انبانا البر بكرة احمد بن جعفر المروزي  
قال حدثنا علي بن معروف قال حدثني

اور ۵ بار فيكفيكم الله وهو السميع العليم پڑھو پھر سلام پھیر کر

منذ رجب ذیل دعا پڑھو اسے اللہ اے مرزاں اے شفق اے محسن

اے ہر زبان میں پاکی بیان کئے جانے والے اے وہ جس کے دونوں ہاتھ

بھلائی کے لئے پھینکتے رہتے ہیں اے محمد کو کافروں کی جماعتوں سے کافی

ہونیوالے براہیم کو آگ سے کافی ہونیوالے موسیٰ کو فرعون سے کافی ہونیوالے عیسیٰ کو ظالموں

سے کافی ہونیوالے نوح کو غرق سے کافی ہونیوالے اور لوط کو قوم کی بے حیائی سے کافی

ہونیوالے اے ہر چیز سے کافی ہونیوالے جس کوئی چیز کافی نہیں ہوتی اور عائشہ

اور آسیہ کو کافی ہونیوالے میرے لئے ہر چیز کی عظیم بلا سے کافی ہونا حتیٰ کہ میں تیرے

عظیم نام اور اسم عظیم کی موجودگی میں کسی چیز سے نہ ڈروں اور نہ خوف کروں نہ

کفایت پڑھنے والا کفایت کیا جائے گا اور اسے سکون و جمعیت قلب نصیب ہوگی۔

**خصوصیت دُور کردنیوالی نماز** | خصوصیت و نفرت کو دور کرنے

والی نماز چار رکعت ہے جو ایک ہی سلام سے پڑھی جاتی ہے اس

نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ابار سورہ اخلاص دوسری

رکعت میں فاتحہ کے بعد دس بار سورہ اخلاص تیسری رکعت میں فاتحہ

کے بعد دس بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ ناکثر اور چوتھی رکعت

میں فاتحہ کے بعد ۵ بار سورہ اخلاص اور ایک بار آیت الکرسی پڑھی

جاتی ہے پھر نمازی اس نماز کا ثواب اپنے دشمنوں کو بخش دے حتیٰ تعالیٰ

انشاء اللہ قیامت کے دن اسے ان کے کاموں سے کافی ہوگا اس نماز

کے سات اوقات ہیں رجب کی پہلی شب، نصف شعبان کی رات،

رمضان کا آخری جمعہ عید بقرہ عید عرفہ کے دن، عاشوراء کے دن۔

**شوال میں آنے والوں کی نماز** | ہم سے ابو نصر بن بناء نے اپنے

والد سے بیان کیا، ان سے ابو عبد اللہ حسین بن عمر علاف نے بیان کیا

ان سے قاضی ابو القاسم نے بیان کیا ان سے محمد بن احمد بن صدیق

نے بیان کیا، ان سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو بکر

احمد بن جعفر مروزی نے بیان کیا ان سے علی بن معروف نے بیان کیا

محمد بن محمود قال اخبرنا يحيى بن شبيب قال  
 حدثنا حميد عن السن رضى الله عنه قال قال  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في  
 شوال ثمان ركعات ليلا كان اوتاه ايقرا  
 في كل ركعة بفاتحة الكتاب وخمس عشرة  
 مرة قل هو الله احد فاذا فرغ من صلاته  
 سبعم سبعين مرة وصلى على النبي صلى الله عليه  
 وسلم سبعين مرة والذي بعثني بالحق نبيا  
 ما من عبد يصلي هذه الصلاة الا اتبع الله  
 له ينابيع الحكمة في قلبه وانطق به لسانه  
 واداء داء الدنيا ودواءها والذي بعثني  
 بالحق نبيا من صلى هذه الصلاة كما وصفت  
 لا يرفع رأسه من آخر سجود لا حتى يغفر الله  
 له وان مات مات شهيدا مغفورا له وما  
 من عبد صلى هذه الصلاة في السفر الا سهل  
 الله عليه السير والذهاب الى موقع مراده  
 وان كان مديونا قضى الله دينه وان كان  
 ذاهبا قضى الله حوائجه والذي بعثني  
 بالحق نبيا ما من عبد يصلي هذه الصلاة الا  
 اعطاه الله تعالى بكل حرف وبكل آية مخزونة  
 في الجنة قيل وما المخزونة يا رسول الله قال  
 صلى الله عليه وسلم بساتين في الجنة يسير  
 الراكب في ظل شجرة من اشجارها مائة سنة  
 ثم لا يقطعها-

**فصل:** في فضل الصلاة لرفع عذاب القبر

ان سے محمد بن محمود نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن شیب نے بیان کیا  
 ان سے حمید نے حضرت انس سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی علیہ  
 وسلم نے بیان کیا کہ جو شوال میں دن میں پانچ بار میں ۸ رکعت نماز پڑھے  
 اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ۱۵ بار سورہ اخلاص پڑھے اور  
 سلام پھیر کر ۱۰ بار سبحان اللہ پڑھے اور ۱۰ بار نبی اکرم صلی علیہ  
 وسلم پر درود بھیجے اس کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا جو اللہ کا  
 بندہ یہ نماز پڑھے گا حق تعالیٰ شانہ یقیناً اس کے دل میں حکمت  
 کے چشمے جاری فرما دے گا اور اس کی زبان پر حکمت جاری فرما  
 دیگا اور اسے دنیا کی بیماری اور اس کی دوا معلوم کر دیگا اس کی  
 قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے جس نے میرے بیان کے  
 مطابق یہ نماز پڑھ لی اسے آخری سجدے سے سر اٹھانے سے  
 قبل ہی حق تعالیٰ بخش دیگا اور اگر مر جائے گا تو شہید و بخشا گیا  
 ہوگا اور جو بندہ سفر میں نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ منزل تک اسے  
 آسانی سے پہنچا دیگا اور اگر مفروض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا قرض  
 اتار دیگا اور اگر حاجت مند ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری  
 فرما دیگا اس کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا جو بندہ یہ نماز پڑھے  
 لے اسے ضرور حق تعالیٰ جنت میں مخزنہ عطا فرمائے گا پوچھا گیا  
 یا رسول اللہ مخزنہ کیا ہے؟ فرمایا مخزنہ جنت کے باغوں کو کہتے ہیں جن  
 کے درختوں میں سے ایک درخت کے نیچے اگر کوئی سو سو سال  
 بھی چلے تو اس کا سایہ ملے نہ کر سکے۔

**عذاب قبر کو دفع کرنے والی نماز** | عبد اللہ بن حسن از علی  
 رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو رکعت نماز پڑھے اور پہلی رکعت  
 میں فاتحہ کے بعد سورہ فرقان کو تبارک الذی جعل فی السماء برجاً  
 سے آخر سورت تک پڑھے اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد  
 سورہ مومنوں کا ابتدائی حصہ فقبارک اللہ احسن الخالقین تک پڑھے



عن عبد الله بن الحسن عن علي رضي الله عنه  
قال قال رسول الله عليه وسلم من صلى ركعتين  
يقرأ في احداهما آخر الفرقان من تبارك  
الذي جعل في السماء بروجا حتى يجتم السورة  
ثم ياخذ في الثانية فيقرأ فيها بعد الفاتحة  
من اول سورة المومنين حتى يبلغ فتبارك الله  
احسن الخالقين فاخذ يا من من مكر الجن والانس  
ويعطى كتابه بميمنة يوم القيامة ويا من من  
عذاب القبر ومن الفزع الاكبر ويعلمه الكتاب  
وان لم يكن حريصا وينزع منه الفقر ويؤتيه  
الله الحكمة ويبصره في كتابه الذي انزله  
على نبيه صلى الله عليه وسلم ويلقنه حجتة  
يوم القيامة ويجعل النور في قلبه ولا يحزن  
اذا حزن الناس ولا يخاف اذا خافوا ويجعل  
النور في بصره وينزع حب الدنيا من قلبه و  
يكتب عند الله من المدينين -

**فصل:** في صلاة الحاجة عن ابي هاشم  
الايلي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن  
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان  
له الى الله حاجة مهمة فليسبغ الوضوء  
وليصل ركعتين يقرأ في الاولى بفاتحة الكتاب  
وآية الكرسي وفي الثانية بفاتحة الكتاب  
وآمن الرسول الى آخره ثم يتشهد ويسلم  
ويدعو بهذا الدعاء فانها تقضى والدعاء  
اللهم يا منس كل وحيد ويا صاحب كل

وہ جنوں اور انسانوں کی مکاریوں سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے  
دن اسے اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور عذاب قبر  
سے اور بڑی گھبراہٹ سے بھی مامون رہے گا اور حق تعالیٰ اسے  
کتاب سکھا دیگا اگرچہ اسے اس کی خواہش نہ ہو اور اس سے فقر و در  
فراوے گا اور حکمت کا علم بخشے گا اور قرآن حکیم کے اسرار و معانی پر  
اسے آگاہ فرما دے گا اور قیامت کے دن سے اسے اس کی  
محبت بتا دے گا اور اس کا دل نور سے معمور فرما دے گا اور  
جب لوگ پریشان ہوں گے تو اسے پریشانی نہ ہوگی اور جب  
لوگ خوفزدہ ہوں گے تو وہ بے خوف ہوگا اور حق تعالیٰ  
اس کی آنکھوں میں نور بھر دے گا اور اس کے دل سے دنیا کی  
محبت نکال پھینکے گا اور وہ اللہ کے ہاں صدیقین میں لکھ  
لیا جائے گا۔

**نماز حاجت** ابو ہاشم از انس بن مالک :- رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی اہم ضرورت  
درپیش ہو تو وہ مکمل وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور پہلی  
رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور دوسری میں فاتحہ کے  
بعد آمن الرسول الخ پڑھے پھر تشهد پڑھے کہ سلام پھیر دے اور یہ  
دعا مانگے اس کی حاجت پوری کی جائے گی اللهم یا منس کل وحید  
یعنی اے اللہ اے ہر تنہا شخص کے منس و نگہگار اور اے ہر اکیلے  
شخص کے رفیق اور اے وہ جو قریب ہے دور نہیں اور جو موجود  
ہے غائب نہیں اور جو غالب ہے مغلوب نہیں میں تیرے اسم مبارک  
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا تاخذه سنة ولا نوم کے ساتھ سوال  
کرتا ہوں اور تیرے پاک نام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی  
عنت له الوجہ و خشعت له الاصوات و رجلت له القلوب کے  
ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلعم اور آل نبی پر درود بھیجے

بھیج اور میری ہزرت کی دشواریاں دور فرمادے اور میری حاجت بر لا۔

**ظلم دفع کرنے کی دعا** | جابر بن عبد اللہ:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا

سکھائی تھی اور ان دونوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی معصیت میں

مبتلا ہو جاؤ یا تم کو بادشاہ کے ظلم کا ڈر ہو یا تمہاری کوئی چیز

کھو جائے تو خوبصورتی سے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو

اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہو: اے غیب و

اسرار کو جاننے والے اے اطاعت کے جانیوالے اے سب

پر غالب اور اے ہمہ گیر علم والے اے اللہ اے اللہ اے اللہ

اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جماعتوں کو شکست دینے والے

اے حضرت موسیٰ کے لئے فرعون پر عذاب بھیجنے والے اے

ظالموں کے ہاتھوں سے حضرت عیسیٰ کو نجات عطا فرمائیے

اے قوم لوط کو ڈوبنے سے بچانے والے اے حضرت یعقوب

کی گریہ و زاری پر ترس کھانے والے اے حضرت ایوب کی

بیماری کو دور کرنے والے اے حضرت یونس علیہ السلام کو

تین اندھیروں سے نجات دینے والے اے ہر طرح کی خیر و

برکت بھیجنے والے اے ہماری خیر و برکات کی طرف رہنمائی

کرنے والے اے ہر خیر کو بتانے والے اے خیر والے اے

خیر کو پیدا کرنے والے اور اے نیکیوں والے تو اللہ ہے اور سچا

معبود ہے اور میں ان تمام چیزوں میں جو تجھے معلوم ہیں تیری

طرف راغب ہوں اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے اور

میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیج پھر

تم دونوں اپنی مراد مانگو انشاء اللہ مراد پوری ہوگی۔

فرید و یا قریبا غیر بعید و یا شاہدا غیر

غائب و یا غائباً غیر مغلوب اسالك باسمك

بسم الله الرحمن الرحيم المحي القيوم الذي لا

تاخذ له سنة ولا نوم واسالك باسمك بسم الله

الرحمن الرحيم المحي القيوم الذي عنت له الوجوه

وخشعت له الاصوات ووجلت منه القلوب

ان تصلي على محمد وعلى آل محمد وان تجعل

لي من امري فرجاً ومخرجاً وتقضي حاجتي۔

**فصل:** في الدعاء لدفع الظلم والاحتراس

منه روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عليا

وفاطمة رضي الله عنهما هذا الدعاء وقال

لعلما اذ انزلت بكما مميبة او خفتا جور

سلطان او ضلت لكما ضالة فاحسنا الوضوء

وصليا ركعتين وارفعايديكما الى السماء

وقولا يا عالم الغيب والسرائر يا مطاع يا

عزيز يا عليم يا الله يا الله يا الله يا هازم

الاحزاب لمحمد صلى الله عليه وسلم يا

كائد فرعون لموسى عليه السلام يا منجي

عيسى عليه السلام من يد ظلمته يا مخلص

قوم نوح من الغرق يا راحم عبدة يعقوب

عليه السلام يا كاشف ضر الرب عليه السلام

يا منجي ذي النون عليه السلام من الظلمات

الثلاث يا فاعل كل خير يا هادي الى كل

خير يا ذا الال على كل خير يا اهل الخير



یا خالق الخیر ویا اهل الخیرات انت الله غنی  
 الیک نیما قد علمت وانت علام الغیوب اسالک  
 ان تصلی علی محمد وعلی آل محمد ثم سلا  
 حاجتکما تجابا ان شاء الله تعالیٰ۔

ردعاء آخر وهو دعاء النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم یوم الاحزاب رواه ابن عمر رضی اللہ  
 عنہما عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انی  
 اعوذ بک وبنور قدسک وعظمتہ طهارتک  
 وبرکاتک جلالک من کل آفة وعاہة و  
 طارق الجن والانس ال طارقا یطرق منک بخیر  
 انک انت عیادی فیک اعوذ وانت ملاذی فیک  
 الودیا من ذلت لہ رقاب الجبابرة وجہعت  
 لہ مقالید الرعیة اعوذ بجلال وجہک وکرم  
 جلالک من خزیک وکشف سترک ونسیان  
 ذکرک والانصراف عن شکرک انانی کنفک  
 فی لیلی ونهاری ونوحی وقراری وطعنی واسفار  
 ذکرک شعاری وثنائک وثنائی لا اله الا  
 انت تنزیرہا لاسک وتکریم السبحات  
 وجہک اجر فی من خزیک ومن شر عذابک  
 وعبادک واضرب علی سرادقات حفظک  
 وادخلنی فی حفظ عنایتک وقنی سیئات  
 عذابک واغنی بخیر منک برحمتک یا ارحم  
 الراحمین۔

فصل فی ردعاء لذهاب السہوم  
 قضاء الدیون عن ابی موسی رضی اللہ عنہ

دوسری دعا | نبی اکرم صلعم نے غزوہ احزاب کے دن یہ دعا

مانگی تھی یہ دعا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں دعا  
 کے الفاظ یہ ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیری قدر و سیت کے نور کے  
 اور تیری پاکی کی عظمت کے ذریعہ اور تیرے جلال کی برکتوں سے  
 ہر مصیبت و آفت سے اور جنوں اور انسانوں رات کی شرارتوں  
 سے تیری پناہ مانگتا ہوں الایہ کہ رات کو آنے والا تیری طرف سے  
 خیر کے آئے بلاشبہ تو میری پناہ ہے اور تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں  
 اور تو میری پناہ گاہ ہے تو وہ ہے جس کے سامنے تمام سرکشوں  
 کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور جس کے لئے رعایت کی کنجیاں جمع  
 کر دی گئی ہیں میں تیرے چہرے کی بزرگی اور تیری بزرگی کی عزت  
 کی اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے رسوا کرے اور میرا پرہیز  
 اٹھائے اور میں تجھے بھول جاؤں اور تیرے شکر سے پھر جاؤں  
 میں دن رات سوتے جاگتے، حرکت و سکون کی حالت میں اور  
 سفر و حضر میں تیری حفاظت میں ہوں تیرا ذکر میرے جسم  
 سے چمٹا ہوا ہے اور تیری تعریف میرے اور ٹھنکے کا کپڑا ہے  
 سوائے تیرے کوئی سچا معبود نہیں اسی سے تیرے نام کی  
 پاکی ہے اور تیرے چہرے کے نور کی کہنوں کی عزت و عظمت  
 ہے اے اللہ مجھے اپنی رسوائی سے پناہ دے اور اپنے  
 عذاب کی اور اپنے بندوں کی شرارت سے بچا اور مجھ پر اپنی  
 حفاظت کے پردے ڈال اور اپنی ضمانت کی حفاظت میں مجھے  
 داخل فرما اور مجھے اپنے عذاب کی برائیوں سے بچا اور اپنی  
 مہربانی سے اپنی خیر سے مجھے مالا مال کر دے اے ارحم الراحمین  
 میری یہ دعا قبول فرما۔

پریشانیوں دور کرنے کی اور قرض سے سبکدوشی کی دعا ابو موسیٰ  
 نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی پانچ ہو تو اسے

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من  
 اصابه هم او حزن فليدع بهؤلاء الكلمات  
 اللهم انا عبدك وابن عبدك نا صيتي بيدك  
 ماض في حكمك عدل في قضاؤك اللهم اني  
 اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او  
 انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك  
 او استاثرت به في علم الغيب عندك ان  
 تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري  
 وجلاء حزني وذهاب غمي وهى فقال قائل  
 يا رسول الله ان المغبون لمن غبن هولاء  
 الكلمات قال صلى الله عليه وسلم اجل  
 فقلهن وعلمن فانهم من قائلهن التماس  
 ما فيهن اذهب الله عز وجل خزنه و  
 اطال فرحه وبيروى عن عائشة رضى الله  
 عنها قالت ان ابا بكر الصديق رضى الله  
 عنه دخل عليها فقال هل سمعت من رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم دعاء كان يعلمنا  
 وذكر ان عيسى بن مريم عليه السلام كان  
 يعلمه اصحابه ويقول لو كان على احدكم  
 مثل جبل احد دينا ففناه الله عز وجل  
 عنه فقالت كان يقول اللهم فارح اللهم  
 كاشف الغم مجيب دعوة المضطرب رحمن  
 الدنيا ورحيم الآخرة اسالك ان ترحمنى  
 رحمة من عندك تغنينى بها عن رحمة  
 من سواك۔

یہ دعا مانگنی چاہیے اسے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا  
 بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر جاری  
 ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے اسے اللہ میں تیرے  
 ہر اسم سے (جو تیرے لئے ہے، تو نے وہ اپنی ذات کا نام رکھا  
 یا اسے تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اسے تو نے اپنی کسی  
 مخلوق کو سکھایا ہے یا تو نے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا  
 ہے) تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ معزز قرآن کو میرے دل کی بہار،  
 میرے سینہ کا نور، میرے غم کو ہٹانے والا اور میری بے چینی اور  
 پریشانی کو دور کرنے والا بنا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا اگر  
 کوئی ان کلموں میں کوئی کلمہ چھوڑ دے تو کیا وہ گھاسٹے میں رہے گا  
 فرمایا ہاں ان کلموں کو یاد کر لے اور دوسروں کو بھی سکھا دے  
 کیونکہ جو اسے ڈھونڈنے کے لئے جو ان کلموں میں ہے ان کلموں کو  
 پڑھ لے حق تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا اور  
 طویل مسرت سے نوازے گا۔

اسی سلسلہ کی دوسری دعا | حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابوبکر

صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے پاس آ کر مجھ سے پوچھا: کیا تم نے رسول اللہ  
 صلعم سے وہ دعا سنی ہے جو آپ ہم کو سکھایا کرتے تھے اور  
 اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ بنی  
 دعا اپنے اصحاب کو سکھایا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ  
 اگر کسی پر احد پہاڑ کی برابر بھی قرض ہو تو حق تعالیٰ اس کا قرض ادا  
 فرما دے گا؛ صدیقہ فرماتی ہیں (میں نے آپ سے سنا) آپ یہ دعا  
 پڑھا کرتے تھے اے اللہ! اے پریشانی کو ہٹانے والے! اے بے چینی  
 کو دور کرنے والے! اے بیقراروں کی دعا قبول فرمائے اے دنیا میں انتہائی  
 مہربانی اور آخرت میں مومنوں کے حق میں بجز رحمت کا اظہار  
 کرنے والے میں تجھ سے تیرے پاس والی رحمت کا طالب ہوں تو مجھے وہ



رحمت عطا کر اپنے ماسوا کے رحم سے بے نیاز فرمادے۔

اسی سلسلہ کی تیسری دعا | حسن بصری کے پاس آپ کے ایک

دوست تشریف لائے جو آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے عرض کرنے

لگے کہ اے ابوسعید! مجھ پر قرض ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے

اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بتا دیں حسن جواب دیتے ہیں کہ اگر تم اسم اعظم

سیکھنا چاہتے ہو تو اٹھ کر وضو کر آؤ وہ فوراً کھڑے ہو کر وضو

کر آتے ہیں حسن فرماتے ہیں یہ دعا مانگو اے اللہ اے اللہ تو اللہ

ہے تو اللہ ہے اے اللہ کی قسم تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی سچا

معبود نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی

حق دار عبادت نہیں اے اللہ مجھ سے قرض ادا کر اور قرض کے بعد

مجھے روزی عطا فرما یہ دعا اس نے پڑھی صبح کو کیا دیکھتا ہے کہ

اس کی نماز پڑھنے کی جگہ ایک تھیلی میں ایک لاکھ کھرنے درہم

رکھے ہوئے ہیں اور تھیلی سر بہ سر ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے اگر تو

اس سے زیادہ مانگتا تو ہم تجھے وہ بھی ضرور دیتے تو نے جنت کیوں

نہیں مانگی؟ وہ شخص حسن کے پاس آ کر انہیں بھی اس واقعہ سے

آگاہ کرتا ہے حسن اس کے ساتھ اس کے گھر جا کر وہ تھیلی معاند کہ

ہیں وہ شخص کہتا ہے میں سخت نادم ہوں کہ میں شخصت کیوں نہیں

مانگی حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ اسم اعظم سکھایا ہے

آپ کی بھلائی ہی کے لئے سکھایا ہے لہذا اس اسم کو چھپائیے ایسا نہ ہو کہ

حجاج سن لے کیونکہ اس کے ظلم سے کوئی نہیں بچتا۔

اسی سلسلہ کی چوتھی دعا | یہ دعا حضرت جبریل نے اس وقت

نبی اکرم صلعم کو سکھائی جب آپ قریش سے ڈر کر مکہ سے نکل کر کوہ

حرا میں جا چھپے تھے یہ دعا پریشانیوں کے لئے اور روزگار کے لئے

ہے حضرت ابوبکر صدیق بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے

آ کر کہا: محمد! حق تعالیٰ شانہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور اس نے

ردعاء آخر فی ذلك وهو ماروی عن

الحسن البصری رحمہ اللہ انہ جاء لا صدیق

لہ یکر علیہ فقال لہ یا ابوسعید علی دین

واحباب ان تعلمنی اسم اللہ تعالیٰ الاعظم فقال

ان شئت ذلك فقم وتوضاً فقام وتوضاً وقال

لہ قل یا اللہ یا اللہ انت اللہ بلی واللہ انت

اللہ لا الہ الا انت اللہ اللہ واللہ انہ

لا الہ الا اللہ افض علی الدین وارزقنی بعد الذی

فاصبح الرجل فرأی مائة الف درہم صحاحا

فی مسجد لا درہم مختلفہ فی جراب علی

رأس الجراب مکتوب لوسالت اکثر من

هذا لا عطیناک فكیف لم تسأل الجنة فجاء

الرجل الی الحسن رحمہ اللہ فاخبرہ بذلك

فانطلقت معہ الی منزله فنظر الی الدرہم

فقال الرجل انی ندمت حیث لم اسأل

اللہ الجنة فقال الحسن ان الذی علمک هذا

الاسم لم یعلمک الا لخیر یریدک بہ فاکتم

علی هذا الاسم لا یسمع بہ الحجاج فلا یزجو

منہ احد۔

ردعاء آخر علیہ جبریل علیہ السلام

لینبأ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیث خرج

من مکة المشرفة یرید جبل حراء خوفا من

قریش وکفایة الهم والرزق روی ابوبکر

الصدیق رضی اللہ عنہ ان جبریل علیہ

السلام قال یا محمد ان اللہ تعالیٰ یقرئک

السلام وقد علمنی دعاء تدعو به فیجعل  
الله بینک و بینهم ستر افا علمه لك فقال  
النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا جبريل فقال  
قل يا كبير كل كبير يا سميع يا بصير يا من  
لا شريك له ولا وزير يا خالق الشمس  
والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف  
المتجير يا رازق الطفل المتغير يا جابر  
العظم الكسير يا قاصم كل جبار عنيد  
اسالك داعوك دعاء البائس الفقير دعاء  
المفطر الفريد اسالك بمعاقده العزم من عرشك  
ومفاتيح الرحمة من كتابك ويا لاساء  
الثانية المكتوبة على قرن الشمس ان  
تفعل بي كذا وكذا -

ہوں کہ میری مرادیں بر لا اور میرے ساتھ ایسا ایسا کر۔

مجھے ایک دعا سکھائی ہے آپ یہ دعا پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں  
اللہ تعالیٰ آپ کے اور قریش کے درمیان آڑ کر دیگا میں وہ دعا  
آپ کو سکھائے دیتا ہوں نبی اکرم صلعم نے فرمایا: جبریل ہاں ضرور  
سکھاؤ فرمایا: وہ دعا یہ ہے اے ہر بڑے کے بڑے اے خوب  
سننے والے اے خوب دیکھنے والے اے وہ جس کا نہ کوئی شریک ہے  
اور نہ وزیر ہے اے سورج اور چمگاتے چاند کو پیدا کر نیوالے  
اے مصیبت زدہ خوفناک اور پناہ ڈھونڈنے والے کے محافظ  
اے چھوٹے بچے کو روزی پہنچانے والے اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے  
والے اور اے ہر ظالم و سسرکش کو توڑنے والے میں تجھ سے ایک  
مصیبت زدہ فقیر کی طرح اور بیقرار نابینا کی طرح تجھ سے سوال  
کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں اور تیرے عرش کی مستحکم عزت کے ساتھ  
اور تیری رحمت کی چابیوں کے ساتھ جو تیری کتاب میں ہیں اور ان  
سب اسماء کے ساتھ جو سورج کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں یہ مانگتا

## (۱۹) دُعائیں

### پنجگانہ فراتس کے بعد کی دُعائیں اور ختم قرآن وغیرہ کی دُعائیں

صبح و عصر کی نمازوں کے بعد کی دُعائیں | اے اللہ تیرے  
لئے ہی شکر کے لئے حمد ہے اور ہم پر فضل و کرم کے اعتبار سے  
تیرا ہی احسان ہے تیری ہی نعمت سے نیک کام تکمیل تک پہنچتے ہیں  
اے اللہ میں تجھ سے قریب والی کشادگی کا سوال کرتا ہوں کیونکہ  
دُعائیں ہمیشہ قبول فرماتا ہے میں تجھ سے صبر جمیل کا طالب ہوں

امادعاء صلاة الغداة وصلاة العصر  
فهو ان يقول اللهم لك الحمد شكري  
ولك المن فضل نعمتك تتم الصالحات  
نسالك اللهم فرحاً قريباً فانك لم تنزل  
هيباً وصبراً جيبلاً وعافية من جميع البلايا



والسلامة من طريقي الرزايا برحتك يا ارحم  
 الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما  
 وتفرقتنا تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا  
 محروما ولا تردنا بالفاقة الي غيرك ولا تحرمنا  
 سعة خيرك وحقيقة التوكل عليك وخالص  
 الرغبة فيسالك واملأ قلبنا منك الغنى واكس  
 وجهنا منك الحيا وارزقنا خيرا لآخرة والدينا  
 برحتك يا ارحم الراحمين يا رب اللهم  
 ارزقنا خيرا الصباح وخيرا المساء وخيرا  
 القضاء وخيرا القدر واصرف عنا شر الصباح  
 وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم  
 وما انزلت في هذا اليوم من خير وعافية  
 وسلامة وغنيمة وسعة رزق فاجعل لنا  
 فيه اذرا الحظ والنصيب اللهم وما  
 انزلت من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة  
 فامر به عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات  
 يا ارحم الراحمين -

دعاء آخر: الحمد لله الذي احاط بكل  
 شيء علما واحصى كل شيء عددا لا اله  
 الا هو اهل الكبرياء والعظمة ومنتجى  
 الجبروت والعزة وولى الغيث والرحمة  
 مالك الدنيا والاخرة عظيم الملكوت شديد  
 الجبروت لطيف لما يشاء فعال لما يريد اول  
 كل شيء وخالق كل شيء ورازقه سبحانه  
 لا اله الا هو اللهم اجعل صباحنا صباحا

اور تمام مصائب سے عافیت کا بھی اور اے ارحم الراحمين اپنی  
 مربانی سے مجھے راہ مصائب سے سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا  
 اجتماع رحمت والا بنا اور ہمارى صلحہ کی عصمت والی بنا اور ہم  
 میں سے کسی کو بد نصیب و محروم نہ بنا اور ہمیں فاقہ کے ساتھ  
 غیر کی طرف نہ لوٹا اور اپنی خیر و برکت کی وسعت سے اور اپنے توکل  
 کی حقیقت سے اور اپنی نعمتوں کی پر خلوص رغبت سے ہمیں محروم نہ  
 فرما اور اپنی نعمتوں سے ہمارے دل بالدار بنا اور ہمارے چروں  
 پر حیا کا نقاب ڈال اور اے ارحم الراحمين اپنی مربانی سے ہمیں  
 دنیا اور آخرت کی خیر و صلاح عطا فرما اے ہمارے پروردگار  
 اے اللہ ہمیں صبح کی خیر، شام کی خیر اور قضا و قدر کی خیر دے اور  
 ہم سے صبح کی برائی، شام کی برائی اور قضا و قدر کی برائی ہٹا دے  
 اے اللہ آج کے دن تو نے جو خیر عافیت، سلامتی، غنیمت اور  
 رزق کی فراخی اتاری ہے اس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ حصہ  
 مقرر فرما اور آج جو برائی، بلا، شر، بیماری اور قنہ تو  
 نے اتارا ہے اے ارحم الراحمين اسے ہم سے اور تمام مسلمان  
 مردوں اور عورتوں سے ہٹا دے۔ (آمین)

\*

دوسری دعا | اسی اللہ کے لئے حمد و ثنا مخصوص ہے جس کے علم نے  
 ہر چیز گھیر رکھی ہے اور ہر شے کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے اس کے  
 سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظمت و کبریاں والا انتہائی جبروت و  
 عزت والا، بارش و رحمت کا مالک اور دنیا اور آخرت کا آقا ہے وہ  
 عظیم ملک والا، سخت قوت و قہر والا اور جس پر چاہے رحم فرمائے  
 والا ہے اور جو کچھ چاہے کہ گزرنے والا ہے وہ ہر چیز سے پہلے  
 ہے، ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا رازق ہے وہ پاک ہے اور  
 اس کے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ ہمارى صلحہ عطا فرما اور ہمارى

صالحا لا تخزیا ولا فاضحا اللهم اغفنا شر  
نواب الزمان ومکر وہہ ومصارع السوء  
ومصاید الشیطان وموارد صولة السلطان  
وقفنا فی یومنا هذا و فی سائر الایام لاستعمال  
الخیرات وهجران السيئات اللهم اصلحنا  
واصلح قلوبنا واصلح اخلاقنا واصلح افعالنا  
واصلح آباءنا و ابناءنا و اجدادنا و جداتنا  
و دنیانا و اخرنا اللهم كما مضیت اللیلۃ  
بالسلامة و الاصابة فامض علينا النهار  
بالسلامة و العافية برحمتك يا ارحم الراحمین  
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة  
حسنة و قنا عذاب النار برحمتك يا ارحم  
الراحمین آمین اللهم آمین یا الله یا  
رب العالمین۔

دعاء آخر: الحمد لله الذي خلق السماوات  
والارض لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب  
العرش العظيم سبحانه وتعالى عما يشركون اللهم  
اغفر لنا ذنوبنا ما اطهرنا وما اسرنا وما  
اخفينا وما اعلنا وما انت اعلم به منا اللهم  
اعطنا رضاك في الدنيا والآخرة و اختم لنا  
بالسعادة والشهادة و المغفرة اللهم اجعل  
آخرا عمارنا خيرا و خواتمنا عمارنا خيرا  
و خير ايامنا يوم نلتقاك اللهم انا نعوذ بك  
من زوال نعمتك و من فجأة نقمتك و من  
تحويل عافيتك اللهم انا نعوذ بك من درك

کرنے والی اور ذلیل کرنے والی نہ بنا، اسے اللہ زمانہ کے حوادث  
کی شرارتوں سے اس کی ناگوار خاطر باتوں سے بری تلابازلوں سے  
شیطان کی گھاتوں سے اور سلطان کے حملہ والے گھاٹوں سے ہمیں  
بچا اور ہمیں نہ صرف آج بلکہ تمام دنوں میں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم  
نیکیاں کرتے رہیں اور برائیوں سے باز رہیں اسے اللہ ہماری  
اصلاح کر، ہمارے دلوں کی اور اخلاق کی اصلاح کر، ہمارے  
انفال کی اصلاح فرما اور ہمارے ہاپوں، بیٹیوں، اداوں، دادلوں  
کی اور ہماری دنیا اور آخرت کی اصلاح فرما اسے اللہ جس طرح تو  
نے امن و سلامتی اور خیر عافیت کے ساتھ ہماری رات بسر کرائی  
ہے اسی طرح ہمارا دن بسر کر اسے ارحم الراحمین اپنی مہربانی سے  
ہماری یہ دعا قبول فرما آمین اسے اللہ ہمارے پروردگار ہمیں  
دنیا اور آخرت میں نیکی عطا فرما اور اسے ارحم الراحمین ہمیں اپنی  
مہربانی سے آگ کے عذاب سے بچا آمین اللهم آمین اسے اللہ  
تمام جہانوں کے پروردگار آمین ثم آمین۔

تیسری دعا | اللہ ہی کی تعریفیں ہیں جس نے زمین و آسمان پیدا  
کئے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور  
وہی عرش عظیم کا مالک ہے، وہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور بلند  
و برتر ہے اسے اللہ ہمارے تمام گناہ بخش دے خواہ ظاہر ہوں  
یا پوشیدہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے اور انہیں بھی جن کو تو ہی  
خوب جانتا ہے اسے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رضا عطا  
فرما اور ہمارا خاتمہ سعادت، شہادت اور مغفرت پر فرما اسے  
اللہ ہماری عمروں کا پھپھلا حصہ خیر سے مہور بنا اور ہمارے کھلے  
عمل پر خیر بنا اور جس دن ہم تجھ سے ملاقات کریں وہ دن خیر  
و برکت والا ہو اسے اللہ تیری نعمت کے چھن جانے سے تیرے  
اچانک عذاب سے اور عطا کردہ عافیت کے پھر جانے سے



الشقاء وجهد البلاء وشانۃ الاعداء و  
تغیر النعماء وسوء القضاء لعودیک من جیب  
المکارۃ والاسواء ونسألك اللهم خیر  
العطاء اللهم اننا نسألك ان تکشف سقمنا  
وتبرئ مرضانا وترحم موتانا وتصح  
ابداننا وتخلصناک اللهم اخلص ادیاننا  
وان تحفظ عیادنا وتشرح صدورنا وتدر  
امورنا وتجبر اولادنا وتستر جرمنا وترد  
غیابنا وان تثبتنا علی دیننا ونسألك خیرا  
ورشدا اللهم ربنا اننا نسألك ان توتینا  
حسنة فی الدنیا وحسنة فی الآخرة وان  
تتوفنا مسلمین برحمتک وقناعذاب النار  
وعذاب القبر یا رحم الراحمین یا رب  
العالمین فالدعاء ما موربه وهو عند الله  
بمکان وقد بینا ذلک فی اثناء الكتاب  
فلا ینبغی للامام والمأمومان ینخرجا من  
المسجد من غیر دعاء قال الله تعالی فاذا  
فرغت فانصب والی ربک فارغب ای اذا  
فرغت من العبادة انصب فی الدعاء وارغب  
فیما عند الله واطلبه منه وقد جاء فی  
الحديث عن انس بن مالک رضی الله عنه  
عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال اذا  
قام الامام فی محرابه وتواترت الصفوف  
نزلت الرحمة فاول ذلک تصیب الامام  
ثم من عن یمنه ثم من عن لیناره ثم تتفرقا

ہیں اپنی پناہ میں رکھ اے اللہ بد نصیبی کے پانے سے بلاؤں کی شدت  
سے دشمنوں کے خوش ہونے سے نعمتوں کے بدل جانے سے اور بری  
تقدیر سے تیری پناہ۔ اے اللہ ہم تمام ناگوار طبع باتوں سے اور  
تمام برائیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ سے بہترین  
عطیہ مانگتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری  
بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے اور ہمارے  
مردوں پر رحم فرما اور ہمیں تندرستی عطا فرما اور ہمارے  
عملوں میں خلوص عطا فرما اے اللہ ہم پر اپنی پناہ برقرار رکھ  
ہمارے دل کھول دے ہمارے کاموں کا انتظام فرما، ہماری  
اولاد نیک و صالح بنا ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال ہمارے  
غائب حضرات کو واپس لا اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم  
رکھ اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بھلائی کے امیدوار ہیں اے اللہ ہم  
تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی عطا  
فرما اور اپنی مہربانی سے ہمیں اسلام پر فزت فرما اور اے رحم  
الراحمین اور اے رب العالمین ہمیں آگ کے عذاب سے اور  
تبرکے عذاب سے بچا۔ لہذا دعائے مانگنے کا حکم ہے اور دعا کا اللہ  
تعالیٰ کی نگاہ میں ایک بلند مقام ہے جس کا ذکر ہم اثنائے کتاب  
میں کر آئے ہیں لہذا امام کو یا مقتدی کو دعائے مانگے بغیر مسجد سے  
نکلنا مناسب نہیں حق تعالیٰ نے فرمایا پھر جب آپ فارغ ہوں  
تو کھڑے ہوں اور اپنے پروردگار ہی کی طرف رغبت کریں یعنی  
آپ عبادت سے فارغ ہو کر دعا کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ  
کی نعمتوں کی طرف راغب ہوں اور انہیں اللہ سے مانگیں۔

انس بن مالک :- یہی اکرم صلعم نے فرمایا کہ جب امام محراب  
میں کھڑا ہوتا ہے اور صفیں قائم ہوتی ہیں تو رحمت اترتی ہے  
اور پہلے امام کو ڈھانپتی ہے پھر انہیں جو امام کی سیدھی جانب ہیں

الرحمة على الجماعة ثم ينادى ملك ربح  
فلان وخسر فلان فالراجم من يرفع يديه  
بالدعاء الى الله تعالى اذا فرغ من صلواته  
المكتوبة والخاص هو الذي خرج من المسجد  
بلا دعاء فاذا خرج بلا دعاء قالت الملائكة  
يا فلان استغثت عن الله تعالى مالك عند  
الله حاجة۔

**فصل** : فاما دعاء ختم القرآن فهو  
صدق الله العظيم الذي خلق الخلق فابتدعه  
وسن الدين وشرعه ونور النور وشعشعته وقد  
الرزق ووسعه وقهر خلقه ونفعه واجرمي الماء  
وانبعه وجعل السماء سقفا محفوظا مرتوعا  
رفعه والارض بساطا وضعه وسير القمر فاطلعه  
سبحانه ما اعلى مكانه وارفعه واعز سلطانه  
وابدعه لا راد لما منعه ولا مغير لما اخترعه  
ولا مذل لمن رفعه ولا معز لمن وضعه ولا مفرق  
لما جمعته ولا شريك له ولا اله معه صدق الله  
الذي دبر الدهور وقدر المقدر وصوف الامور  
وعلمه هو احسن المدبر وتعاقب الدجور وسهل  
المعسور ويسر اليسور وسخر البحر المسجور  
وانزل الفرقان والنور والتوراة والانجيل  
والزبور واقسم بالفرقان والطور والكتاب  
السطور في الرق المنشور والبيت المعبور و  
البعث والنشور وجاعل الظلمات والنور  
والولدان والحور والجنات والقصور لان الله

اور پھر انہیں جو امام کی بائیں جانب ہیں پھر تمام جماعت پر چھا جاتی  
ہے پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے فلاں کو فائدہ ہوا اور فلاں کو  
نقصان ہوا فائدہ دے لے تو وہ ہیں جو فرض نماز سے فارغ ہو کر  
حق تعالیٰ شانہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں اور نقصان دے  
وہ ہیں جو بلا دعائے مسجد سے نکل جاتے ہیں اگر کوئی بلا دعائے  
مسجد سے نکل جائے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اسے فلاں تو نے اللہ سے  
استغناء کیا (جیسے) تجھے اللہ سے کوئی ضرورت ہی نہیں۔

**ختم قرآن حکیم کی دعا** | ختم قرآن کی دعا یہ ہے عظمت دالے

اللہ نے سچ فرمایا جس نے کائنات  
عالم کو ایجاد فرمایا اور دین و شریعت کو مقرر فرمایا اور نور سے  
دنیا کو جگمگایا اور اس کی کہ نہیں دنیا کے گوشہ گوشہ پر پھیلا دیں  
اور کسی کی روزی کو تنگ اور کسی کی روزی کو فراخ فرمایا اور  
اپنی کسی مخلوق کو نقصان پہنچایا اور کسی کو نائدہ پہنچایا اور پانی  
جاری فرمایا اور اسے زمین سے نکالا اور آسمان کو ایک محفوظ و  
بند چھت کے قائم مقام بنایا اور اونچا رکھا اور زمین کو فرش  
کی طرح پھیلا یا اور نیچے رکھا اور چاند کو گردش عطا فرمائی اور اسے  
طلوع کیا حق تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے اس کا مقام  
کس قدر بلند اور کس قدر اونچا ہے اور اس کا غلبہ کتنی عزت والا اور  
کتنا نادر ہے اس کی کارگیری میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا اور  
اس کی ایجادات میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اور جیسے وہ عزت  
دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جیسے وہ ذلیل کرے اسے  
کوئی عزت نہیں دے سکتا اور اس کی جمع کردہ چیز کو کوئی پرکندہ  
نہیں کر سکتا اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا  
معبود نہیں اس اللہ نے سچ فرمایا جو زمانہ کا منتظم ہے جس  
نے مقدر وراثت کا اندازہ لگایا جو تمام کاموں میں تصرفات



يسمع من ليشاء وما انت بسبع من آتى القبور  
صدق الله العظيم الذي عز فارتفع وعلا فامتنع  
وذلل كل شيء اعظمته وحقه وسك الساء  
ورفع وفرش الارض واوسع وفجر الانهار  
فأبع ومرج البحار فاترع وسخر النجوم فاطمع  
وارسل السحاب فارتفع ونور النور فلمع وانزل  
الغيث فسمع وكلم موسى عليه السلام فاسمع  
وتجلى للجيل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع واطم  
ومنع ومن وشرع وفرق وجمع وانشأكم من  
نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله  
العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت  
لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب  
ولانت له الشداد الصلاب واستدلت بمنعته  
الالباب ويسبح بحمده الرعد والسحاب والبرق  
والسراب والشجر والدواب رب الارباب  
ومسبب الاسباب ومنزل الكتاب وخالق  
خلقه من التراب غافر الذنب وقابل التوب  
شديد العقاب لا اله الا هو عليه توكلت و  
اليه متاب صدق الله الذي لم يزل جليلا  
دليلا صدق من حسبي به كفيلا صدق من  
اتخذته وكيفا صدق الله الهادي اليه سبيلا  
صدق الله ومن اصدق من الله قبيلا صدق الله وصدق انبأ  
وصدق الله وصدقت انبياءه صدق الله وجلت الاله صدق  
الله وصدق آياته وصدق الله الواحد القديم الماجد  
الشاهد العليم الغفور الرحيم الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة

اختيارات کا مالک ہے، جو دلوں کے کھٹکوں سے واقف ہے اور جو دن  
کے بعد رات اور رات کے بعد دن لاتا ہے جو سخت کاموں کو آسان  
اور آسان کاموں کو مزید آسان فرماتا ہے جس نے جو شہ مازنا ہو  
سمندر انسان کے لئے مسخر فرمادیا اور جس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا  
شے اور نور اتارا اور تورت، انجیل اور زبور اتاری اور جس نے قرآن کو  
پھیلے ہوئے کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب، بیعت معمر، زندگی بعد الموت اور  
آخرت کی قسم کھائی جو انہیوں اور اجالے کو پیدا کر نیوالا ہے اور جو مور  
و غلمان اور مخلوق کو اور جنسوں کو بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے  
سناتا ہے اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں اس عظیم اللہ نے  
سچ فرمایا جو عزت والا اور بلند و برتر ہے اور سب پر غالب ہے کسی  
کو جرات نہیں کہ اس کے صحن میں قدم رکھے، اسکی عظمت کے آگے ہر چیز  
ذلیل و سزنگوں ہے اس نے آسمان بلند و مرتفع فرمائے، زمین پھیلا  
کر وسیع و فراخ بنائی، نہریں جاری کیں، چشمے بہائے، میٹھے اور کڑے پانی کو  
بلا آمیزش کے درش بدوش چلا یا تاروں کو مسخر بنایا اور ان کو طلوع کیا،  
فضا میں بادل چھوڑ ڈھے اور انہیں اونچا رکھا، نور پھیلا یا اور اسے چمکایا،  
بینہ برسیا یا پھر نباتات پیدا کی اور حضرت موسیٰ سے باتیں کیں اور انہیں اپنی  
آواز سنائی اور کوہ طور اس کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا کسی کو اپنی نعمتیں  
دیں اور کسی سے سلب کیں کسی کو منر پہنچایا اور کسی کو فائدہ، کسی کو دیا  
کسی سے روک لیا، لوگوں کے لئے دین اور شریعت مقرر فرمائی تفریق و جمع  
اسی کا کام ہے اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہر ایک کی ایک جائے  
قرار دیا کی پیٹھا ہے اور ایک جائے امانت دماں کا رحم ہے حق تعالیٰ  
کا فرمان سچا ہے اللہ بڑی عظمت والا اور بہت دینے والا ہے اس کی  
عظمت کے آگے گہ ذہیں خم ہیں اور اس کی عزت کے آگے سر چڑھا ہوں  
سزنگوں ہیں اس کے لئے سخت و دشوار کام آسان ہیں اور اس کی  
کارگیری سے عقول نے سبق حاصل کیا اور علم سیکھا ہے اور اس کی پاکی

ابراہیم صدق اللہ العظیم لا الہ الا هو الرحمن  
الرحیم الخ العظیم الخ الکریم الخ الباقی الخ  
الذی لا یبوت ابداً والجلال والاکرام والثناء  
العظام والمنن الجسام وبلغت الرسل الکرام  
بالحق صلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم وعلیہم  
السلام ونحن علی ما قال اللہ ربنا وسیدنا و  
مولانا من الشاہدین واما اوجب والزم غیر  
جاحدین والحمد للہ رب العالمین وصلواتہ  
علی سیدنا وسندنا محمد خاتم النبیین و  
علی البویہ المکرمین سیدنا آدم والخلیل  
ابراہیم وعلی جیب اخوانہ من النبیین وعلی  
اہل بیتہ الطاہرین وعلی اصحابہ المنتخبین  
وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین  
وعلی التابعین لہم باحسان الی یوم الدین  
علینا معہم برحمتک یا ارحم الراحمین  
صدق اللہ ذوالجلال والاکرام والعظمتہ و  
السلطان جبار لا یرام عزیز لا یضام قیوم  
لا ینام لہ الافعال الکرام والمواہب العظام  
والابادی الجسام والافضال والانعام و  
الکمال والتمام تسبیح لہ الملائکۃ الکرام  
والبہائم والہوام والریاح والغمام والفضیاء  
والظلام وهو اللہ الملک القدوس السلام  
و نحن علی ما قال اللہ ربنا جل ثناؤہ وتقدست  
اسماؤہ وجلت آلاؤہ وشہدت ارضہ و  
سماؤہ ونطقت بہ رسلہ وانبیاءہ وشاہد

اور حمد بادل اور رعد کرتے ہیں اور بجلیاں اور ریت کے ذرات بھی اور  
درخت اور چوپائے بھی وہی مالکوں کا مالک اور سبب الاسباب ہے  
اسی نے آسمان سے کتابیں اتاریں اور مٹی سے مخلوق پیدا کی، وہ گناہ  
بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب والا ہے اس کے سوا  
کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا  
ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا جو ہمیشہ سے جلیل القدر ہے اور راہ دکھانے  
والا ہے اس نے سچ فرمایا جو مجھے کفیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے  
اس نے سچ فرمایا جس کو میں نے اپنا کارساز بنایا، اس نے سچ فرمایا  
جو اپنی راہ دکھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اللہ تعالیٰ  
سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اس کی  
خبریں سچی ہیں اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اس کی خبریں سچی ہیں، اللہ  
تعالیٰ سچا ہے اور اس کے انبیاء بھی سچے ہیں، اللہ تعالیٰ سچا ہے  
اور اس کی نعمتیں جلیل الشان ہیں، اللہ سچا ہے اور اس کے آسمان  
وزمین بھی سچے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ، قدیم، صاحب مجد، بزرگ، گواہ  
علم والا، بخشش والا، انتہائی مہربان، نذر دان و سنجیدہ ہے، سچ  
فرمایا آپ فرمادیں کہ اللہ نے سچ فرمایا لہذا مذہب ابراہیم کی  
پیروی کر اس عظیم اللہ نے سچ فرمایا جس کے سوا کوئی سچا معبود  
نہیں جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، زندہ ہے ہمہ گیر علم والا  
ہے، زندہ ہے بزرگ ہے، زندہ ہے باقی ہے، زندہ ہے جس پر کبھی  
موت طاری ہونے والی نہیں، جو جلال، جمال اور عزت والا ہے  
اور عظیم اسما والا اور بڑے بڑے احسانات والا ہے۔ معزز  
رسولوں نے بلا کم و کاست ہمیں اس کا پیغام پہنچا دیا حق تعالیٰ  
نے ہمارے محبوب پیغمبر پر اور تمام انبیائے کرام پر اپنی رحمتیں  
اور سلامتیاں بھیجی اور ہم اس پر جو ہمارے اللہ جو ہمارا رب ہے  
اور ہمارا سردار و آقا ہے، فرمایا گواہ ہیں اور جو اللہ نے ہم پر



لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائما  
 بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين  
 عند الله الاسلام ونحن بما شهد الله بنا و  
 الملائكة والوا العلم من خلقه من الشاهدين  
 شهادة شهد بها العزيز الحميد ودان بها  
 المؤمن الغفور الودود واخلص بالشهادة  
 لدى العرش المجيد برفعها بالعمل الصالح  
 الرشيد يعطى قائلها الخلود في جنه ذات سد  
 مخضود وطم منضود وطل منسود وماء مسكوب  
 يرافق فيها النبيين الشهود والركع السجود  
 والباذلين في طاعته غايه المجهود اللهم  
 اجعلنا بهذا التصديق صادقين وبهذا  
 الصديق شاهدين وبهذه الشهادة مومنين  
 وبهذا الايمان موحدين وبهذا التوحيد  
 مخلصين وبهذا الاخلاص موقنين وبهذا  
 الايقان عارفين وبهذه المعرفة معترفين  
 وبهذا الاعتراف منيبين وبهذه الانابة  
 فائزين وفيما لديك راغبين ولما عندك  
 طالبين وباه بنا الملائكة الكرام العاكبين  
 واخشي نامع النبيين والصدقيين والشهداء  
 والصالحين ولا تجعلنا من استهوته الشياطين  
 فشغلته بالدين فاصبح من النادمين  
 وفي الآخرة من الخاسرين واوجب لنا الخلود  
 في جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين  
 اللهم لك الحمد وانت للحمد اهل وانت الحقيق

واجب اور فرعون فرمایا اس کا انکار کرنے والے نہیں اور تمام تعریفیں  
 اللہ ہی کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے اللہ کی رحمتیں جزا کے دن  
 تک ہمارے سردار پر جو ہماری سند ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں انار  
 ہوں اور ان کے دو بزرگ داداؤں حضرت آدم اور حضرت  
 ابراہیمؑ پر بھی اور آپ کے تمام بھائیوں (انبیائے کرام) پر بھی  
 اور آپ کے پاک خاندان والوں پر بھی اور آپ کے منتخب صحابہ کرام  
 پر بھی اور آپ کی پارسا بیویوں (امہات المؤمنین) پر بھی اور تابعین  
 صالحین پر بھی اور اے ارحم الراحمین اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ  
 ساتھ ہم پر بھی آمین اللہ نے سچ فرمایا جو عزت و بزرگی والا اور  
 عظمت و اقتدار والا ہے وہ ایسا جبار ہے جس کا کوئی قصہ نہیں  
 کہتا اور ایسا غالب ہے جس پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا اور کائنات کو  
 سنبھالنے والا ہے جو سوتا نہیں اس کے عظیم و شاندار کارنامے  
 ہیں، جلیل القدر عطیات ہیں عظیم الشان احسانات ہیں، قابل  
 قدر فضل و انعامات ہیں اور لائق تعریف و توصیف کمالات ہیں  
 معزز فرشتے، چوپائے، حشرات الارض، ہوائیں، بادل، روشنی  
 اور اندھیرے وغرضیکہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح میں مستغرق ہے  
 وہ اللہ بادشاہ ہے، قدوس ہے اور بے عیب ہے اور ہم اس پر جو کچھ  
 ہمارے رب نے جس کی تعریف بڑھی ہے، جس کے نام پاک ہیں اور  
 جس کے احسانات جلیل الشان ہیں جن کی تمام کائنات گواہ ہے اور  
 جن کا بیان اس کے پیغمبروں نے کیا ہے، فرمایا گواہ ہیں اللہ  
 تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور فرشتوں  
 نے اور اہل علم نے بھی جو عادل گواہ ہیں اس کے سوا کوئی سچا معبود  
 نہیں وہی بڑی عزت و حکمت والا ہے بلاشبہ دین اللہ کے نزدیک  
 اسلام ہے ہم بھی اس پر جس کی گواہی اللہ نے جو ہمارا رب ہے  
 اور فرشتوں نے اور اہل علم نے دی، گواہ اور وہی شہادت ادا کرتے

بالمنة ثم الفضل لك الحمد على تتابع احسانك  
 ولك الحمد على تواثر انعامك ولك الحمد على  
 ترادف امتنانك اللهم انك عطفت علينا  
 قلوب الآباء والامهات صغارا وضاعفت  
 علينا نعمك كبارا والبيت النبوي مبارك مدارا  
 وجهلنا وما عاجلتنا مرارا فلك الحمد اللهم  
 فاذا نحمدك ستر وجهارنا ونشكرك محبة  
 واختيارا فلك الحمد اذ الهمتنا من الخطاء  
 استغفارا ولك الحمد فارزقنا حنة واجب  
 عنا بعفوك نارا ولا تهلكنا يوم البعث  
 فتجعلنا بين المعاش وعارا ولا تفضحنا بسوء  
 افعالنا يوم لقائك فتكسنا ذلة وانكسارا  
 برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لك الحمد  
 كما هديتنا للاسلام وعلمتنا الحكمة و  
 القرآن اللهم انت علمتنا قبل زغبتنا في  
 تعليمه ومننت به علينا قبل علمنا بمعرفته  
 وخصمتنا به قبل معرفتنا بفضل الله فاذا  
 كان ذلك من فضلك لطفانا و امتنانا  
 علينا من غير حيلتنا ولا قوتنا فهد لنا اللهم  
 رعاية حقه وحفظ آياته وعملا بحكمة  
 وايماننا بمتشابهه وهدى في تدبره وتفكرا  
 في امثاله ومعجزته وتبصره في نوره و  
 حكمة لا تعارضنا الشكوك في تصديقه  
 ولا يمتلجنا الزيف في تصد طريقه اللهم  
 انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في الآيات

میں جو تعریف کئے جانے والے اور عزت والے اللہ نے دی اور جس پر  
 مومنوں نے بچنے والے اور محبت کرنے والے اللہ کی طرف سے یقین کیا اور  
 جس کی بزرگ عرش والے کے لئے خلوص سے گوہی دی اللہ تعالیٰ  
 اس کو اسی کو نیک و صالح عملوں کے ساتھ اٹھائیتا ہے اور لا الہ الا اللہ  
 کے پڑھنے والوں کو جنت میں جس میں بے کانٹوں کی بیریاں ہیں تہنہ  
 کیے ہیں، لمبے لمبے سائے ہیں اور جاری پانی ہیں، ہمیشگی عطا فرماتا ہے  
 جہاں انہیں انبیاء کی رفاقت نصیب ہوتی ہے جو دنیا پر گواہ ہیں اور  
 رکوع و سجدہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی اطاعت و عبادت میں مقدر  
 بھر مرگم عمل رہتے ہیں اے اللہ اس تصدیق سے ہمیں سچا اس صدا  
 سے گواہ، اس شہادت سے مومن، اس ایمان سے موحد، اس توحید  
 سے مخلص، اس اخلاص سے یقین والے، اس یقین سے عارف، اس معرفت  
 سے معترف اس اعتراف سے رجوع کرنے والے اور اس انابت (رجوع)  
 سے کامراں بنا اور اپنی نعمتوں کا مشتاق و امیدوار بنا اور معزز رکھنے والے  
 فرشتوں میں ہم پر نازل کر اور انہیں ہماری حقیقت بتا اور ہمیں انبیاء  
 صدیقین، شہداء اور صلحاء کے ساتھ اٹھا اور ہمیں ان میں شامل نہ  
 فرما جن پر شیطان چھا گئے ہیں اور شیطانوں نے ان سے دین چھڑا  
 کہ انہیں دنیا میں لگا دیا ہے اور وہ نادم و پشیمان اور آخرت میں  
 نقصان اٹھانے والے ہیں اور اے ارحم الراحمین اپنی مہربانی سے  
 نعمتوں والی جنمتوں میں ہمیشگی واجب فرما اے اللہ تیرے ہی لئے  
 تعریفیں ہیں اور تو ہی حمد کا اہل ہے اور تو ہی حق دار فضل و نعمت ہے  
 تیرے لگاتار احسانات پر تیرے ہی لئے تعریفیں ہیں اور تیرے متوا  
 العامت پر تیرے لئے ہی بڑائیاں ہیں اور تیری آگے مجھے نعمتوں پر  
 تیرے لئے ہی حمد و ثنا ہے اے اللہ جب ہم بے تھے تو تو نے ہمارے  
 ماں باپوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دی تھی اور جب ہم  
 بڑے ہو گئے تو ہم پر تو نے اپنی نعمتوں کی بوچھاڑ کر دی اور اپنی



والذکر الحکیم وتقبل منا انک انت السبع  
 العظیم وتب علينا انک انت التواب الرحیم  
 برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم اجعل القرآن  
 ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجزاء احزاننا  
 وذهاب همومنا وغمونا وسائقنا وقائدنا  
 ودلیلنا الیک والی جناتک جنات النعیم برحمتک  
 یا ارحم الراحمین اللهم اجعل القرآن لقلوبنا  
 ضیاء ولا یسارنا جلاء ولا یسقامنا دواء و  
 لذنوبنا منحصا ومن النار مخلصا اللهم اکسنا  
 به الخلل واسکننا به الظلل واسبع علینا به  
 النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند  
 الجزاء من الفائزین وعند النعماء من الشاکرین  
 وعند البلاء من الصابرین ولا تجعلنا ممن  
 استهوتتہ الشیاطین نشغلته بالدنیا عن  
 الدین فاصبح من الخاسرین برحمتک یا ارحم  
 الراحمین اللهم لا تجعل القرآن بنا محلا  
 ولا الصراط بنا ذائلا ولا نبینا رسیدنا و  
 سنهنا حمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی  
 القیامة عنا معرضا ولا مولیا اجعله یا  
 ربنا خالقنا یا رازقنا لنا شافعا مشفعا و  
 اور دنا حوصدنا واستنابک اسہ مشربا رویا  
 سائقا هنیئا نظما بعد لا ابد اغیر خزا یا  
 ولا ناکثین ولا جا حدین ولا مغضوب علینا  
 ولا منالین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم  
 الفعنا بالقرآن الذی رفعت مکانہ وثبت

نوازشوں کی مو سلا دھار بارش بر سادی اور ہم تجھ سے جاہل رہے مگر  
 تو نے بار بار ہماری گرفت میں جلدی نہیں کی اس لئے اے اللہ تیرے  
 ہی لئے بے شمار تعریفیں ہیں ہم خلوت و جلوت میں ظاہر کر کے اور  
 چھپا کر تیری حمد بیان کرتے ہیں اور اختیار و محبت سے تیرا شکر ادا  
 کرتے ہیں تیری اس لئے بھی تعریفیں ہیں کہ تو نے ہمارے دل میں  
 گناہوں کے بعد استغفار کا الہام فرما دیا اے اللہ ہم کس زبان  
 سے تیری حمد بیان کریں، ہمیں جنت نصیب فرما اور اپنی  
 معافی سے ہمارے اور آگ کے درمیان آڑ حاصل فرما اور میدان  
 محشر میں ہماری پردہ درمی نہ فرما کہ ہمارا شماروں میں شمار  
 ہو اور اے ارحم الراحمین اپنی مہربانی سے اپنی غلاطات کے وقت  
 ہمارے برے افعال سے ہمیں رسوا نہ فرما کہ ہمیں ندامت و  
 شرمندگی ہو۔ اے اللہ تیرے لئے ہی حمد ہے کیونکہ تو نے ہمارے دلوں  
 میں اسلام کی محبت پیدا کی اور تو نے ہمیں حکمت و قرآن کی تعلیم  
 دی اے اللہ تو نے ہمارے شوق سے پہلے ہمیں اس کی تعلیم دی  
 اور اس کی معرفت کے علم سے پہلے تو نے اس کے ساتھ ہم پر احسان  
 فرمایا اور اپنی مہربانی سے معرفت سے پہلے تو نے ہمیں اس کے ساتھ  
 مخصوص فرمایا اے اللہ جب یہ ساری چیزیں تیرے فضل و کرم سے  
 ہماری کسی تدبیر و قوت کے بغیر تیرے لطف و احسان کی بنا پر ہم  
 پر ہیں تو اے اللہ ہمیں قرآن کے حق کی رعایت بھی ہمہ فرما اور  
 اس کی آیتوں کی یادداشت بھی اور اس کی حکم آیتوں پر عمل کرنے  
 کی اور مقشائے آیتوں پر ایمان لانے کی توفیق دے اور قرآن پاک  
 میں غور و فکر کے بعد ہم پر ہدایت کے دروازے کھول دے اور  
 اس کی مثالوں اور معجزوں سے ہماری فہم روشن فرما اور اس کے  
 نور سے ہماری بصیرت کو نور بخش اور ایسی حکمت عطا فرما کہ اسکی موجودگی  
 اور عدم شکوک کے لئے راہ نہ کھلے اور قرآن کی سیدھی راہ میں کجی نہ

اركانه و ایدت سلطانه و بیئت برکاته  
 و جعلت اللغة العربیة الفصحیة لسانه و  
 قلت یا عز من قائل سبحانه فاذا قرأناه  
 فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ و هو احسن  
 کتیبك نظاما و اوضحها کلاما و ابینها  
 حلالا و حراما محکم البیان ظاهر البرهان  
 محروس من الزیادة و النقصان فیه و عدد  
 و عید و تخولیف و تهدید لا ینتیه الباطل  
 من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم  
 حمید اللهم فاجب لنا به الشرف و المزیة  
 و الحقنا بكل بر سعید و استعملنا فی العمل  
 الصالح الرشید انک انت القریب المحیب برحمتك  
 یا ارحم الراحمین اللهم فکما جعلنا به  
 مصدقین و لما فیه محققین فاجعلنا بتلاوته  
 منتفعین و الی لذین خطابه مستمعین و بما فیه  
 معتبرین و لا حکامہ جامعین و لا دامرہ و  
 نواهیہ خاضعین و عند ختمہ من الفائزین  
 و لثوابہ حائزین و لك فی جمیع شہودنا و ذکرین  
 و الیک فی جمیع امرنا راجعین و اغفر لنا فی  
 لیلتنا هذا اجبعین برحمتك یا ارحم  
 الراحمین اللهم اجعلنا من الذین حفظوا  
 للقرآن حرمتہ لما حفظوا و عظموا منزلتہ لما  
 سحوا و تادبوا بادابہ لما حضروا و التزموا  
 حکمہ لما فارقوا و احسنوا حوارہ لما جاوروا  
 و ارادوا بتلاوته وجهک الکریم و الدار الاخر

آنے پائے اے اللہ ہمیں قرآن عظیم سے نفع پہنچا اور ہمیں قرآن کی آیتوں  
 میں اور حکمت والے ذکر میں برکت دے اور اپنی مہربانی سے ہماری پتھری  
 قبول فرما کیونکہ تو تو بہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے اے ارحم  
 الراحمین اپنی مہربانی سے ہماری دعا قبول فرما اے اللہ قرآن کو ہمارے  
 دلوں کی بہار، سینوں کی شفا اور غموں کی دوا اور پریشانیوں اور جہنمیوں  
 کے لئے اکسیر بنا اور قرآن کو ہمارا قائد و رہنما اور ساربان بنا اور اے  
 ارحم الراحمین ہم تیری مہربانی سے اسکی روشنی میں تجھے اور تیری نعمتوں  
 والی جنتوں کو پالیں آمین ثم آمین۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں  
 کی روشنی، ہماری نگاہوں کی جلا، ہماری بیماریوں کی دوا، ہمارے  
 گناہوں کی دوائی، شفا اور ہمارے لئے آگ سے ڈھال بنا، اے  
 اللہ ہمیں قرآن کی بدولت جوڑے پہنا اور فرقان کی بدولت سٹے  
 عطا فرما اور جنتوں میں بسا، ہم پر نعمتیں کھل فرما، ہم سے عذاب دور فرما  
 اور اے ارحم الراحمین اپنی مہربانی سے ہمارے دن قرآن کی برکت سے  
 ہمیں کامرانی عطا فرما اور نعمتوں کے زمانہ میں شکر گزار اور معیشت کے  
 زمانہ میں صابر و اطاعت شعار بنا اور ان میں سے نہ بنا جس پر شیطان  
 چھلکے ہوئے رہتے ہیں اور انہیں دنیا میں پھانس کر دین سے بے خبر  
 کر دیتے ہیں پھر وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں اے اللہ قرآن کو ہم سے  
 جھگڑنے والا نہ بنا، نہ سیدھی راہ سے ہمیں ہٹا اور نہ تیامت کے  
 دن ہمارے محبوب نبی اسید و آقا اور ہماری سند و دلیل محمد رسول اللہ  
 صلعم سے منہ پھرنے والا بنا اور نہ پیٹھ پھرنے والا۔ اے ہمارے  
 پروردگار اور اے ہمارے خالق و روزی رساں آپ کو ہمارا شفیع  
 بنا اور ہمارے حق میں آپکی سفارش قبول فرما اور ہمیں آپ کی حوض  
 پر پہنچا اور آپکے ہاتھوں میں حوض کوثر کا ایک ایسا جام پلا جو  
 سیراب کرنے والا، خوشگوار و لذت مند اور مبارک ہو جسے پی کر بھر  
 کبھی پیاس نہ لگے نہ ہم رسوا ہوں اور نہ غدار و شکر ہوں اور اے



فوصلوا به الى المقامات الفاخرة واجعلنا  
 به من في درج الجنان يرتقى ونبیہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم یوم عرفہ وهو راض عنہ یتقی  
 فالمشتفق بالقرآن غیر شقی برحمتک یا ارحم  
 الراحمین اللہم اجعلہا ختمہ مبارکۃ علی  
 من قراها وحضرها وسمعها وامن علی دعائها  
 وانزل اللہم من برکاتہا علی الدور فی دورہم  
 وعلی اهل القصور فی قصورہم وعلی اهل  
 الثغور فی ثغورہم وعلی اهل الحرمین فی  
 حرمیہم من المؤمنین اللہم واهل القبور  
 من اهل ملتنا انزل علیہم فی قبرہم  
 الضیاء والفسحة وجزاہم بالاحسان  
 احسانا وبالسیئات غفرانا وارحمنا اذا  
 صرنا الی ماصاروا الیہ برحمتک یا ارحم  
 الراحمین اللہم یا سائق القوت ویا سامع  
 الصوت ویا کاسی العظام بعد الموت صلی علی  
 محمد وعلی آل محمد ولا تدع لنا فی ہذا  
 اللیلۃ الشریفۃ المبارکۃ ذنبا الا غفرتہ  
 ولا هما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ  
 ولا غما الا کشفتہ ولا سوء الا صرفتہ  
 ولا مریضا الا شفیتہ ولا مبتلی الا عافیتہ  
 ولا اذا ساءت الا اقلتہ ولا حقا الا استخرجتہ  
 ولا غائبا الا اردتہ ولا عاصیا الا هدیتہ  
 ولا ولدا الا جبرتہ ولا میتا الا رحمتہ  
 ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والاخرۃ لك

ارحم الراحمین تیری ہر بانی سے نہ ہم پر تیرا غصہ ہو اور نہ ہم گمراہ ہوں آ  
 اللہ ہمیں قرآن سے جس کا مقام تو نے بلند فرمایا ہے فائدہ پہنچا تو  
 نے ہی اس کے ستون جملے ہیں اور اس کا غلبہ محکم بنایا ہے اور اسکی  
 برکتیں ظاہر فرمائی ہیں اور اسے فصیح عربی زبان میں اتارا ہے اور اسے  
 معزز مخاطب تو نے اسمیں فرمایا ہے کہ جب ہم آپ پر قرآن پڑھیں تو  
 آپ اس کی قرأت کی پیروی کریں پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے قرآن  
 عزیز نظم و ترتیب کے اعتبار سے تمام السامی کتابوں سے افضل و ارفع  
 ترین اور حلال و حرام کو تفصیل سے بیان کر نیوالا ہے قرآن پاک اپنے  
 بیان میں محکم دلیل میں غالب اور کمی بیشی سے محفوظ ہے اس میں  
 وعدے، ڈر اور زجر و توبیخ اور اس میں باطل کسی سمت سے  
 بھی نہیں گھستا اور وہ حکیم و حمید کی طرف سے اترا ہے اسے اللہ  
 قرآن کی برکت سے ہمیں شرف بلکہ اس سے بھی اشرف شے عطا فرما  
 اور ہمیں ہر صالح و خوش نصیب کے ساتھ شامل فرما اور ہم سے اپنی  
 ہر بانی سے چھچھے اور نیک عمل کو بلاشبہ تو ہم سے قریب ہے اور  
 ہماری دعائیں قبول کر نیوالا ہے۔ اسے اللہ جس طرح تو نے  
 ہمیں اس کی تصدیق کی توفیق دی اور ہمارا اسکی ہدایات پر تسلیم  
 ختم کر آیا تو اس کی تلاوت سے ہمیں فائدہ بھی پہنچا اور ہم میں اس  
 کے روح افزا و لذت اندوز خطابات سننے کا بے پناہ شوق عطا  
 فرما اور ہمارے اندر اس کی آیتوں سے عبرت پیدا کر اور ہمیں اس  
 کے ختم پر کامران بنا اور اس کے ثواب کا حقدار بنا اور ہمیں شوق  
 دے کہ ہم سال کے تمام مہینوں میں اس کے ذریعہ تجھے یاد کرتے ہیں  
 اور اپنے تمام کاموں میں تیری طرف ہی رجوع کرتے رہیں اور  
 اسے ارحم الراحمین اپنی ہر بانی اور کرم فرمائی سے اس رات میں  
 ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے آمین اسے اللہ ہمیں انکی نصرت  
 میں شامل فرما جو حفظ کرنے کے بعد قرآن کا احترام برقرار رکھتے

فیہا رضا ولنا فیہا صلاح الاعننا علی  
 قضائہا بیس منک وعافیة مع المغفرة  
 برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم عافنا و عاف  
 عنا بعفوک العظیم و سترک الجلیل و احسانک  
 القدیم یا ادا تم المعروف یا کثیر الخیر و صل  
 علی سیدنا و سندنا محمد و علی اخوانہ  
 الانبیاء و علی آلہ و الملائکة و سلم تسلیما  
 ربنا آتنا من لدنک رحمة و هییء لنا من امرنا  
 رشدا و وقفنا العمل الصالح یرضیک عنا  
 برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد  
 کما ھدیتنا بہ من الضلالة اللہم صل  
 علی محمد کما استنقذتنا بہ من الجهالة  
 اللہم صل علی محمد کما بلغ الرسالة اللہم  
 صل علی محمد شمس البلاد و قمر المہاد  
 و زین الورا و شفیع المذنبین یوم التناد  
 اللہم صل علی محمد و ذریتہ و جمیع صحابہ  
 الذین قاموا بنصرته و جروا علی سنتہ  
 برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی  
 محمد الذی بالحق بعثتہ و بالمدق نعتہ  
 و بالحلم و سننہ و بأحمد سمیتہ و فی القیامۃ  
 فی امتہ شفعتہ اللہم صل علی محمد ما ازھرت  
 النجوم و صل علی محمد ما تلححت الخیوم  
 و صل علی محمد یا حی یا قیوم اللہم صل علی  
 محمد ما ذکرہ الابرار و صل علی محمد  
 ما اختلف اللیل و النهار و صل علی محمد و علی

ہیں اور سننے کے بعد اس کے مرتبہ کی عظمت کرتے ہیں اور اسے چھوتے وقت  
 اچھے آداب بجالاتے ہیں اور اس سے جدا ہونے کے بعد اس کے احکام  
 سینے سے چٹائے رہتے ہیں اور جب اچھے پڑوس میں رہتے ہیں تو اس  
 کی ہمسائیگی کا خوبصورتی سے حق ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سے  
 نیری عزت والی رضا اور آخرت طلب کرتے ہیں اور اس کی برکت  
 سے قابل فخر درجات پا جاتے ہیں۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے  
 ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اس کی برکت سے جنت کی سیڑھیوں  
 پر چڑھیں گے اور پیشی کے دن اپنے محبوب نبی کے ساتھ ہوں گے  
 اور خوشی خوشی آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ ان سے خوش  
 ہوں گے اے ارحم الراحمین نیری نوازش سے قرآن کو شفیع بنا  
 والا محروم نہیں رہتا اے اللہ یہ ختم قرآن قاری کے لئے حاضرین  
 کرام کے لئے اور سامعین عظام کے لئے اور دعاؤں پر آمین کہنے والوں  
 کے لئے باعث برکت بنا اور اے اللہ اس کی برکتیں ان کے گھروں  
 عملوں، سرحدوں اور حرمین میں نازل فرما اے اللہ ہمارے  
 مردوں کی قبروں میں اس کی برکت سے نور پھیلا اور انہیں فراخ  
 کر دے اور انہیں ان کے نیک عملوں پر بہترین صلہ دے اور ان کی  
 برائیوں سے درگزر فرما اور اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے مرنے  
 کے بعد ہم پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ، اے موت سے بری و پاک  
 اے آواز کو سننے والے اور اے موت کے بعد پڑیوں پر گوشت  
 چڑھانے والے اپنی رحمتیں محمد و آل محمد پر اتار اور اس شریف  
 و مبارک رات میں ہمارا بخشے بغیر کوئی گناہ نہ چھوڑ اور ہماری ہر  
 پریشانی اور بے چینی دور فرما اور ہم سے ہر بے قراری اور برائی  
 ہٹا، ہمارے ہر ریفین کو شفا عطا فرما ہر مصیبت زدہ کو عافیت  
 بخش، گناہ گاروں کو گناہوں سے باز رکھ، قرضداروں کا قرض ادا فرما  
 جو گم اور غائب ہیں انہیں خیر و عافیت سے واپس لانا فرما انوں



المہاجرین والانصار برحمتک یا ارحم الراحمین

کو ہدایت دے، بچوں کی اصلاح فرما، مردوں پر رحم فرما اور ہر شخص کی جائز

ضرورت کو جس میں تیری رضا و صلاح ہو، بر لا اور اے ارحم الراحمین اپنی مہربانی سے سہولت و عافیت سے سب کی حاجتیں پوری فرما اور اپنی عظیم صفت عفو کی برکت سے اور اپنی خوبصورت پردہ پوشی سے اور اپنے قدیم احسان سے ہمارے گناہ معاف فرما اے ہمیشہ حسن سلوک کرنے والے اے بشمار خیر و برکات والے ہمارے سردار و سند حضرت محمد رسول اللہ صلعم پر آپ کے بھائیوں (انبیائے کرام) پر آپ کے خاندان والوں پر اور فرشتوں پر بشمار رحمتیں اور سلامتیاں بھیج اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں اپنے حکم سے صلاح فراہم فرما اور اے ارحم الراحمین اپنی نوازشوں سے ہمیں ایسے نیک عملوں کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کے موجب ہوں۔ اے اللہ محمد (صلعم) پر اپنی رحمتیں بھیج جیسے تو نے آپ کے ذریعہ ہمیں گمراہی سے بچایا اے اللہ محمد (صلعم) پر اپنی رحمتیں بھیج جیسے تو نے آپ کے ذریعہ ہمیں جہالت سے بیدار کیا، اے اللہ محمد (صلعم) پر درود بھیج جیسے آپ نے ہمیں تیرا پیام پہنچایا اے اللہ محمد (صلعم) پر جو دنیا کے آفتاب عالم تاب اور گواروں کے ماہتاب ہیں اور مخلوق کی زینت اور قیامت کے دن گنہ گاروں کے شفیع ہیں، درود بھیج اے اللہ اپنی مہربانی سے محمد (صلعم) پر درود بھیج اور ان کی اولاد اور تمام صحابہ کرام پر جو آپ کی مدد کے لئے سینہ سپر رہے اور آپ کی سنت پر گامزن رہے اے اللہ محمد رسول اللہ صلعم پر درود بھیج جن کو تو نے سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا جن کا صفت صدق سے ذکر فرمایا جنکو صفت حلم سے متعین کیا جنکو احمد کے نام سے یاد فرمایا اور جن کی قیامت کے دن امت کے بارے میں سفارش قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اے اللہ محمد رسول اللہ صلعم پر جب تک تارے چمکتے رہیں اور جب تک بادل چھاتے رہیں درود بھیج اور اے حی و قیوم آپ پر درود بھیج، اے اللہ جب تک نیک حضرات آپ کا ذکر کرتے رہیں اور دن رات آتے جلتے رہیں آپ پر درود بھیج اور اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے مہاجرین و انصار پر بھیج۔ آمین ثم آمین۔

## وصیت

قارئین کرام! اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں یقین مانئے کہ آپ کی یہ رات اس ماہ کو رحمت کہنیوالی رات ہے جسے حق تعالیٰ نے شرف عظمت سے نوازا ہے، جو بلند مرتبہ والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دن کے روزوں سے اور رات کی عبادتوں سے معزز و سر بلند فرمایا ہے اسہیں لوگ شب و روز قرآن پاک کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اسہیں آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضا کا نزول ہوتا رہتا ہے اس ماہ مبارک کو حق تعالیٰ نے پورے سال کا چراغ نظام اسلام کا واسطہ اور اس کا ایک اہم اور بنیادی ستون بنایا ہے اور اے صیام و قیام کے نوار سے سر بلند و مزین فرمایا ہے اسی مہینہ

اعلموا انکم من اللہ ان لیلتمکم ہذا لیلۃ الوداع لشہرکم الذی شرفہ اللہ وعظمہ ورفع قدرہ وکرمہ بالصیام والقیام وتلاوة القرآن ونزول الرحمة فیہ علیکم من اللہ والرضوان جعلہ اللہ مصباح العام وواسطة النظام وشرف قواعد الاسلام المشرقة بالتوار الصیام والقیام انزل اللہ تعالیٰ فیہ کتابہ وفتح فیہ للتائبین البوابہ فلا دعاء فیہ المسموع ولا خیر الا مجموع ولا فتر

الامد فوع ولا عمل الامر فوع الظافر المبیون  
 من اغتتم اوقاته و الخاسر المغبون من اھمله  
 نقاته شہر جعلہ اللہ لذوہکم تطھیرا و  
 لسیئاتکم تکفیرا و لمن احسن منکم صحبتہ  
 ذخیرۃ و نور و لمن و فی بشرطہ و قام بحقہ فرجا  
 و سرور ا شہر تورع فیہ اھل الفسق و الفساد  
 و زاد فیہ من الرغبۃ الی اللہ اھل الجحید  
 و الاجتہاد شہر غمادات القلوب و کفارات  
 الذنوب و اختصاص المساجد بالازدحام و  
 التماسد و ہبوط الاملاک بمحاک العتق  
 و الفکاک شہر فیہ المساجد تعمر و المصایح  
 تزھر و الآیات تذکر و القلوب تجبر و الذنوب  
 تغفر شہر فیہ تشرق المساجد بالانوار و  
 تکثر الملائکۃ لھوامہ من الاستغفار  
 و یعتق فیہ الجبار فی کل لیلۃ عند الاقطار  
 ستمائۃ الف عتیق من النار و تنزل فیہ البرکات  
 و تعظم فیہ الصدقات و تکفر فیہ السیئات  
 و تقال فیہ العثرات و تدفع فیہ التکبات  
 و ترفع فیہ الدرجات و ترحم فیہ العبرات  
 و تنادی فیہ الجور الحسان من الجنات ہتیباً  
 لکم یا معشر المائین و الصائمات و القا  
 و القا مات بما اعد اللہ لکم من الخیرات  
 لقد غفرتکم البرکات و استبشر بکم اھل  
 الارض و السہوات فرحم اللہ امرأ مہد فیہ  
 لنفسہ قبل حلول رمسہ و اشتغل بیومہ عن

بیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس اتاری اور اسمیں توہر کر نیوالوں کیلئے  
 اپنی رحمت کے دروازے کھولے اسمیں کوئی ایسی دعا نہیں جس کو سنانہ  
 جانا ہو اور کوئی ایسی خیر نہیں جو اسمیں جمع نہ کی گئی ہو اور کوئی ایسا شر  
 نہیں جو دفع نہ کیا گیا ہو اور کوئی ایسا عمل نہیں جو اٹھایا نہ گیا ہو  
 وہ کامیاب و مبارک ہے جو اسکے اوقات کو غنیمت سمجھے اور وہ گھائے  
 والا اور شکست خوردہ ہے جو اس کے اوقات کی قدر نہ کرتا ہو اور  
 وہ اپنے ہاتھ سے ایسا مقدس مہینہ ضائع کر دے جسے اللہ تعالیٰ نے  
 گناہوں کو مٹا دینے والا اور برائیوں کا استیصال کر نیوالا بنا کر بھیجا ہے  
 یہ مبارک مہینہ اسکے لئے جو حسن اعمال سے آراستہ رہے نور ایمان کا  
 صحیفہ اور ذخیرہ ہے اور جو اسکی شرطوں کی رعایت پیش نظر رکھے  
 اسکے حقوق کی نگرانی کرے اسکے لئے یہ فرحت و سرور کا خزانہ ہے یہ  
 وہ ماہ مقدس ہے کہ اسمیں فاسق و فاجر بھی متقی اور پارسا بن جاتے  
 ہیں اور اس میں ارباب ریاضات و مجاہدات کی حرص و لگن شباب  
 پر ہوتی ہے یہ مہینہ دلوں کو آباد کرنے کا گناہوں کو مٹانے کا اور  
 بھید و اجتماع سے مسجدوں کو بھرنے کا ہے اور برات درمائی کی پرچھا  
 لیکر فرشتوں کے اتونے کا ہے اس مہینہ میں مسجدیں آباد رہتی ہیں ان میں  
 چراغ جلتے رہتے ہیں ان میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں  
 دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے اور گناہ دھلتے رہتے ہیں اس مہینہ  
 میں مسجدیں انوار سے جگمگا اٹھتی ہیں فرشتے روزہ داروں کے لئے کثرت سے  
 استغفار کرتے رہتے ہیں اور رب غفار و جبار روزانہ اظفار کے  
 چھ لاکھ مجرموں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے اسمیں برکتیں اترتی ہیں  
 اور صدقوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ برائیاں مٹادی جاتی ہیں الغرضوں  
 سے درگزر کی جاتی ہے آفات و مصائب ہٹا دیے جاتے ہیں۔  
 درجات بلند کر ڈئے جاتے ہیں، آنسوؤں پر رحم کیا جاتا ہے اور جنتوں  
 کی حسین عورتیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ اے روزہ دار مردو اور عورتوں



غدا لا وامسہ تزود من بقیة زادہ فی نفاذہ  
 نفاذ عمرہ و اظہر لفراق شہرہ جزعہ وسلم  
 علی شہرہ و ودعہ وقال السلام علیک یا  
 شہرہ رمضان السلام علیک یا شہرہ الصیام  
 والقیام وتلاوۃ القرآن السلام علیک یا  
 شہرہ التجاوز والغفران السلام علیک یا شہرہ  
 البرکۃ والاحسان السلام علیک یا شہرہ  
 التحف والرضوان السلام علیک یا شہرہ  
 النسک والتعبید السلام علیک یا شہرہ الصیام  
 والتہجد السلام علیک یا شہرہ التراویح السلام  
 علیک یا شہرہ الانوار والمصابیح السلام علیک  
 یا انس العارفين السلام علیک یا فخر الواصفین  
 السلام علیک یا نور الوامقین السلام علیک  
 یا روضۃ العابدین یا شہرنا غیر مودع  
 ودعناک وغیر مقلی فارقناک کان نہمارک  
 صدقۃ وصیاما و لیلک قراءۃ و قیاما فعلیک  
 مناتحیۃ وسلاما انراک تعود بعدہا علینا  
 اوید رکنا المنون فلا تتول الینا مصابیحنا  
 فیک مشہورۃ و مساجدنا فیک معمورۃ  
 فالآن تنطفی المصابیح وتتقطع التراویح  
 ونرجع الی العادۃ ونفارق شہرہ العبادۃ  
 فیالیت شعری من المقبول منا فنہیدہ بحسن  
 عملہ امر لیت شعری من المطرود منا فنعزیدہ  
 بسوء عملہ فیایعنا المقبول ہنیثا لک بثواب  
 اللہ عزوجل و رضوانہ و رحمۃہ وغفرانہ

اور شب بیدار بند و اور بند یوں بحق تعالیٰ نے تمہارے لئے گونا گوں  
 نعمتیں تیار کر رکھی ہیں تمہیں اللہ کی برکتوں نے ڈھانپ رکھا ہے اور  
 آسمان وزمین تم کو مشرکہ شمار ہے ہیں حق تعالیٰ کی اس پر بڑی زبردست  
 رحمت ہے جس نے قبر سے اترنے سے پہلے عبادتیں کر کے اپنے لئے نرم  
 و نازک بستر تیار کر لیا اور گزشتہ کل سے اور آبیوالی کل سے قطع نظر کر  
 کے آج عمل میں سرگرم رہا اور پانچ روزہ زاد سفر تیار کر رکھا کیونکہ اگر  
 کسی کے پاس سفر آخرت کا تو شتر نہ ہوا تو اس کی عمر ہی برباد گئی وہ  
 خوش نصیب ہے جو اس مہینہ کی جدائی پر بے صبری کا اظہار کرے  
 اور اسے سلام کہے اور اسے رخصت کرے اور کہے کہ اے ماہ  
 رمضان تجھ پر سلامتی ہو اے روزوں اور شب بیداری اور  
 تلاوت قرآن کے مہینے تجھ پر سلام ہو اے درگزر و بخشش کے مہینے  
 تجھ پر سلام ہو اے برکت و احسان کے مہینے تجھ پر سلام ہو اے  
 تحائف و رخصت کے مہینے تجھ پر سلام ہو اے عبادت و نیکی کے مہینے  
 تجھ پر سلام ہو اے روزوں اور تہجد کے مہینے تجھ پر سلام ہو اے نماز  
 و تراویح کے مہینے تجھ پر سلام ہو اے انوار و چراغوں کے مہینے تجھ پر سلام  
 ہو اے عارفین کے شوق و نسبت کے مہینے تجھ پر سلام ہو اے  
 مقررین کے فخر تجھ پر سلام ہو اے دوستوں کے نور تجھ پر سلام ہو  
 اے عبادت گزاروں کے باغ تجھ پر سلام ہو اے پیارے مہینے  
 ہم تجھے بادل نخواستہ رخصت کر رہے ہیں اور کیچوں پر پتھر رکھ کر تجھ سے  
 جدا ہو رہے ہیں تیرے ایام صدقوں اور روزوں سے بھر پور تھے اور  
 تیری راتیں قیام و نترات سے معمور تھیں۔ ہمارے تجھ پر ہیشمار درود و سلام  
 ہوں ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں پھر تیرا دیدار نصیب ہوگا یا تیرے آنے سے  
 پہلے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہمارے چراغ تیری وجہ سے  
 جگمگاتے رہتے تھے اور تیری بدولت ہماری مسجد میں معمور رہتی تھیں آہ  
 اب ہمارے چراغ بجھ جائیں گے اور تراویح ختم ہو جائے گی اور ہم

وقبوله واحسانه وعفوه وامتنانه وحلوه  
 في دار امانه وبيا ايها المطرود باصراره وطفيا  
 نه وعدوانه وغفلته وخسرانه وتهاديه وعصيانه  
 لقد عظمت مصيبتك بغضب الله وهو انه  
 فابن مقلتك الباكية وابن دمعتك الجارية  
 وابن زفرتك الرائحة الغادية لاي يوم اخرت  
 توبتك ولا في عام ادخرت عدتك الى عام  
 قابل وحول حائل كلا فيما اليك مدة الاعمار  
 ولا معرفة المقدار فكم من مؤمل امل بلوغه  
 فلم يبلغه وكم من مدرك له ولم يجتمه  
 وكم من اعد طيبا لعينه جعل في تلحيد  
 وثيا بالتزيينه صارت تكفينه ومنا هبا  
 لفطرة صار مرتعنا في قبرة وكم من لا يصوم  
 بعد لا سواه وهو يطعم في غيره ان يرا  
 فاحمد والله عباد الله على بلوغ اختتامه  
 وسلوه قبول صيامه وقيامه وراقبوه بأداء  
 حقوقه واعتصموا بعجل الله وتوفيقه واعلموا  
 زحكما الله انكم فارقتم شهر اعظيا متفضلا  
 كريبا ابن الصوم القوام العوافقون لكم في  
 سالف الاعوام واين من كان معكم ليالي  
 شهر رمضان شاهد بين وفي كل حق الله  
 معاملين من الآباء والامهات والاخوة  
 والاخوات والجيرة والقرابات اتاهم والله  
 هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرق  
 الجماعات فاخلي منهم المشاهد وعطل منهم

اپنی سابق عادت پر لوٹ جائیں گے اور عبادت کے سینے سے جدا ہو جائیں گے  
 گے کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ ہم میں سے کون اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوا کہ ہم  
 اسے اس کے حسن اعمال پر مبارکبادیاں دیتے اور کون مرد ہوا کہ ہم اس کی  
 اس کے برے عملوں پر تعزیت کرتے اسے خوش نصیب مقبول! اللہ کا ثواب  
 وصلہ اسکی رضا و رحمت اسکی قبولیت بخشش اس کا عفو و کرم اس کا  
 انعام و اکرام اور دارالامان میں اس کا عطا کردہ دوام تھے مبارک ہو۔  
 اسے بد نصیب و مردود! جو اپنے ظلم و زیادتی، طغیان و سرکشی، سود  
 غفلت، خسارہ و نقصان اور گناہوں پر امرار و نہٹ دھری سے بارگاہ  
 قدس سے ہٹا دیا گیا، اللہ کے قہر و غضب اور اس کی دی ہوئی ذلت و خوارگی  
 سے تیری مصیبت بڑی سنگین ہے اتیری روتے والی آنکھ کہاں ہے  
 اور تیرے بہتے والے آنسو کدھر ہیں؟ اور تیری صبح و شام کی آپس اور دم  
 بدم کے نالے کہاں گئے؟ تیرے کس دن کے لئے اپنی تڑپ اٹھا کر رکھ چھوڑ  
 ہے؟ اور کس سال کے لئے تو نے اپنا سامان تیار کر لیا ہے؟ کیا اگلے  
 سال کے لئے اور حائل شدہ سال کے لئے؟ اسے نادان تھے اپنی عمر کی  
 کیا خبر؟ تجھے کیا معلوم کہ تیری موت کب آئیگی؟ بہت سے زیادہ عمر  
 کے امیدوار متوقع عمر نہ پاسکے، بہت سے لوگوں نے سال رداں طے کیا  
 مگر اسے پورا نہ کر سکے کہ موت نے آکر سفر کاٹ دیا بہت سے لوگوں نے  
 عید کے لئے خوشبو خریدی مگر وہ ان کے کفن میں لگی، بہت سے  
 شوقینوں نے عید کے لئے کپڑے بنائے مگر وہ ان کے کفن میں کام  
 آئے بہت سے روزہ کھولنے کے لئے تیار بیٹھے تھے کہ روزہ کھلنے سے  
 پہلے لحد میں جا کر سے بہت سے لوگ رمضان کے علاوہ روزہ نہیں  
 رکھتے اور بہ جذبہ دل میں دبائے رہتے ہیں کہ آئندہ پھر اسی مہینہ میں  
 روزے رکھیں گے مگر یہ ارمان دل کے دل ہی میں لے جاتے ہیں لہذا  
 اپنے اللہ کے بند و اللہ کا سکراد کر دکھ اس نے تم کو خیر و عافیت کے  
 ساتھ اس مہینہ کے اختتام تک پہنچا دیا اور اللہ سے دعا کہ وہ تمہارے



المساجد تراهم في بطون الاحاد صرعى لا يجيدون  
 لها هم فيه دفعا ولا يهلكون لانفسهم ضرا  
 ولا نفعنا ينتظرون يوما الامم فيه الى ربهم  
 تدعى والمخلاتن تحشر الى الموقف وتسعى والفرافض  
 ترتعد من هول ذلك اليوم جمعا والقلوب  
 تتصدع من الحساب صدعا ونفخ في الصور  
 فجمعناهم جميعا عباد الله من كان منع نفسه  
 من الحرام في شهر رمضان فليمنعها فيما  
 بعد لا من الشهور والاعوام فان اله الشهران  
 واحد وهو على الزمانين مطلع شاهد جزانا  
 الله واياكم على فراق شهر البركة واجزل  
 اقسامنا واقسامكم من رحمة المشتركة و  
 مبارك لنا ولكم في بقية وسلوك بنا و بكم  
 طريق هدايتك برحمتك وفضلك ومنتك  
 اللهم وما قسمت في هذا الليلة من عتق  
 وغفران ورحمة ورضوان وعفو وامتنان  
 وكرم واحسان ونجاة من النيران وخلود  
 في نعيم الجنان فاجعل لنا منه اواخر الحظ  
 واجزل الاقسام برحمتك يا ارحم الراحمين  
 اللهم فكمنا بلقنا شهر الصيام فاجعل عامه  
 علينا من ابرك الايام وايامه من اسعد  
 الايام وتقبل منا ما قد منا لا فيه من الصيام  
 والقيام واغفر لنا ما اقترنا فيه من الاثام  
 وخلصنا من مظالم الايام ليرحمنا في  
 سواك يا اعل مر يا ارحم الراحمين اللهم

روزوں کو اور شب بیداریوں کو قبول فرمائے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے  
 کے لئے چاق و چوبند رہو اور اللہ کی رسی کو اور اس کی توفیق کو مضبوط  
 پکڑے رہو دیکھو! تم پر اللہ کا رحم و کرم ہوا تم ایک عظیم بزرگ اور  
 فضیلت والے مہینے سے جدا ہوئے ہو دیکھتے نہیں گزشتہ سال تمہارے  
 ساتھ جن لوگوں نے روزے رکھے تھے وہ کہاں گئے؟ اور وہ کہاں ہیں  
 جو پچھلے رمضان میں تمہارے ساتھ تراویح پڑھا کرتے تھے اور بڑے  
 شوق سے راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کے تمام حقوق  
 پر عمل پیرا رہا کرتے تھے؟ تمہارے والدین، بھائی، بہنیں، بہنائے  
 اقارب و احباب کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم ان کے پاس لذتوں کو گرا  
 دینے والی خواہشات کو کاٹنے والی اور جہالتوں کو پرانگندہ کرنے  
 والی نے آکر ان کا گلا گھونٹ دیا آج ان کی بیٹھکیں اور مسجدیں سنسان  
 و اجاڑ ہیں اور وہ قبروں میں چاروں ماٹھ پیر پھیلائے ابدی نیند  
 رہے ہیں آج وہ کپڑوں کو ٹوڑوں کو دفع کرنے پر قادر نہیں اور خود کو  
 نفع یا نقصان پہنچانے سے عاجز ہیں اور اس دن کے منتظر ہیں جس  
 دن تمام قوموں کو ان کے رب کی طرف بلا یا جائے گا اور مخلوق موقف  
 میں جمع کی جائیگی اور سب رداں و داں پھر رہے ہوں گے اور اس دن  
 کے ہولوں سے لوگوں کے کندھے کانپ رہے ہوں گے اور حساب  
 کے خوف سے لوگوں کے کلیجے پھٹے جا رہے ہوں گے اور صور پھونکا  
 جائے گا پھر ہم سب کو ایک میدان میں جمع کر دیں گے۔

اے اللہ کے بندو جس نے ماہ رمضان میں حرام سے بچنے کی عادت پیرا  
 کی ہے وہ عمر کے باقی مہینوں اور سالوں میں بھی حرام سے بچتا رہے کیونکہ  
 دونوں قسموں کے مہینوں کا معبود ایک ہے اور وہ ہر وقت و ہر لمحہ حاضر  
 و ناظر ہے حق تعالیٰ ہم تم کو اس برکت والے مہینے کی جدائی اجر جزیلہ  
 عطا فرمائے اور اپنی ہمہ گیر مہربانی سے ہمارے اور تمہارے حصوں کو  
 عظیم و وافر بنا دے اور باقی دنوں میں ہم کو اور تم کو برکت دے اور

انا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير  
 وادينا فيه من حقل قليل من كثير وقد  
 انحننا ببابك سائلين ولمعرفك طالبين فلا  
 تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين ففتح  
 الفقراء اليك الاسرى بين يديك اليك توجهنا  
 ولمعرفك تعرضنا ولبابك ترعنا ومن رحمتك  
 سألنا فارحم خضوعنا واجبر قلوبنا واستر  
 عيوبنا واغفر ذنوبنا واقربنا القيامة عيوننا  
 ولا تصرف وجهك الكريم عنا واجعل عملنا  
 مقبولا وسعينا مشكورا وحظنا في هذا  
 الليلة موفورا اللهم ان كان في سابق  
 علمك ان تجمعنا في مثلنا فيبارك لنا فيه وان  
 قضيت تقطع آجالنا وما يجوز بيتنا وبينه  
 فاحسن الخلافة على باقينا واوسع الرحمة  
 على ماضينا وغنا جميعا برحمتك وغفرانك  
 واجعل الموعد مجبوع جنتك ورضوانك  
 مع الذين ائمت عليهم من النبيين والصدوقين  
 والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا  
 برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم واهل  
 القبور رهائن ذنوب لا يطلقون واسارى  
 وحشة لا يفكون وغرباء سفر لا ينتظرون  
 تحت دارسات الثرى محاسن وجوههم و  
 جواروتهم اهوامنى ملاحد قبورهم  
 فاهم جهود لا يتكلمون وحيران قرب لا  
 يتزاورون وسكان لحد الى الحشر لا يطعنون

اپنی مہربانی، عنایت، نوازش اور فضل و کرم سے ہم سب کو راہ ہدایت  
 پر چلاتا رہے۔ آمین تم آمین۔

اسے اللہ اس رات میں تو نے ہماری قسمت میں جو برکت و مغفرت  
 رضاد و رحمت، عفو و کرم، الغامات و احسانات، آگوں سے نجات  
 اور نعمتوں والی جنت کی بہادیں لکھی ہیں تو ان میں ہمارا حصہ بھر لو  
 فرما اور اسے ارحم الراحمین اپنی مہربانی سے ہمیں عظیم حصہ عطا فرما  
 آمین، اسے اللہ جیسے تو نے ہمیں روزوں کے مہینہ تک پہنچایا تو  
 یہ سال بھی ہمارے لئے سب سالوں سے زیادہ برکت والا بنا اور  
 اس سال کے دن تمام سالوں کے دنوں سے زیادہ سعد بنا آمین  
 اور ہمارے روزوں کو اور راتوں کی عبادتوں کو قبول فرما اور ہم سے  
 جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں انہیں بخش دے اور اس دن کے لئے ہمیں لوگوں  
 کے حقوق سے بری فرما جس دن اسے ارحم الراحمین اور اسے علام  
 الغیوب تیرے سوا کسی اور سے امید نہ باندھی جاسکے گی اسے اللہ  
 ہم نے اس ماہ مبارک کے روزے اور رات کی عبادتیں کوتاہیوں  
 کے ساتھ انجام دیں اور ہم نے تیرے بہت سے حق میں سے تھوڑا  
 سا حق ادا کیا اور ہم تیرے دروازے پر فقیر بن کر کھڑے ہوئے  
 اور تیری بخشش کو مانگتے رہے اسے اللہ ہمیں محروم نہ لوٹا اور نہ اپنی  
 رحمت سے نا امید بنا ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے  
 سامنے قیدیوں کی طرح پڑے ہوئے تیری طرف متوجہ ہیں اور تیرے  
 حسن سلوک کی آس لگائے ہوئے ہیں اور تیرا در کھٹکا رہے ہیں۔  
 اور تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں لہذا ہماری انکساری پر رحم فرما  
 ہمارے شکستہ دل جوڑ دے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے  
 ہمارے گناہ معاف فرما، قیامت کے دن ہماری آنکھیں ٹھنڈی  
 فرما، اپنا معزز چہرہ ہم سے نہ پھیر، ہمارے عمل قبول فرما ہماری  
 کوششوں کی قدر کر اور ہمیں اس رات میں بھر لو اور دے۔



و فیہم محسنون و مسیئون و مقہرون و مجتہدون  
اللہم فمن كان منهم مسرورا فزده كرامة  
و حبورا و من كان منهم مله فاقبل حزنه  
فرحاً و سروراً اللهم و تعطف على كافة اموات  
المسلمين الراحلين و المقيمين المستسلمين برحمتك  
يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم مفايض  
صلواتك و مقارہ بآيتك و طرق احسانك و حجار  
عفوك و غفرانك حتى يكونوا الى بطون الاحقاد  
مطمئنين و بحدك و كرمك و اتقین و الى اعلى  
درجاتك سابقين و اخصص بذك الآباء  
و البنين و الاخوة و الاقربین قبل ان یتصل  
الهدم على البناء و الكدر على الصفاء و ینقطع  
من الحیاة جبل الرجاء و تصیر المنازل تحت  
اطباق الثرى و قبل ان یصیر الریح ویلا و القطر  
سیلا و الصبح لیلا و یسحب الموت على اهل  
السماوات و الارض ذیلا و قبل ان یقول الشیخ  
الكبير و اشیبا لا و یقول الكهل الخطیر و  
اخجلتاه و یقول المذنب المسیء و اخیبتاه  
و یقول الحدیث الصغیر و احسرتاه و انجلوا  
منه و اشفقوا و غشیتهم من الندامة  
و ختم على افواههم فلم ینطقوا و وقفوا على  
عمل نکسن الرؤوس فاطرقوا و عاینوا من  
الاهوال ما و دوا معه انهم لم یخلقوا  
اللهم یا سائق القوت و یا سامع الصوت و  
یا کاسی العظام بعد الموت صل على محمد

اے اللہ اگر تیرے سابق علم میں یہ بات ہے کہ تو پھر ہمیں اس جیسے  
مہینہ میں جمع فرمائے گا تو اس میں ہمیں برکت دے اور اگر تیرا نیک  
سہاری عمروں کے کاٹنے کا ہے اور اس چیز کا ہے جو ہم میں اور اس  
میں حائل ہو جائیو الہیے تو ہمارے باقی ایام میں حسن نیابت سے پیش  
آ اور ہمارے ماضی میں اپنی وسیع رحمت عطا فرما اور ہم سب پر اپنی  
رحمت و بخشش عام فرما اور اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی مہربانی  
سے وسط جنت درضا میں ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بسا جن پر تیرا  
الغام ہے یعنی انبیاء و صدیقین، شہداء اور صلحاء کے ساتھ کیونکہ یہ  
بہترین رفقاء ہیں یا اللہ قبر والے اپنے گناہوں میں مقید ہیں جن کی  
رہائی ممکن نہیں اور وحشت کے اسیر ہیں جو چھوٹ نہیں سکتے اور سفر میں  
غریب الوطن ہیں جن کا کوئی منظر نہیں مٹی کے کھنڈرات نے ان کے  
چہروں کی خوبصورتی مٹا دی ان کی قبروں کے غاروں میں کپڑے کھوڑے  
ان کے مجادر ہیں اسلئے وہ بے ہمدرد ہیں بولتے نہیں اور قریب کے پڑوسی  
ہیں لیکن ایک دوسرے کی زیارت نہیں کرتے اور حشر تک محدود  
میں بسے ہوئے ہیں اور حرکت نہیں کرتے ان میں اچھے بھی ہیں اور  
برے بھی سست و کوتاہی کی نیوالے بھی ہیں اور سرگرم عمل بھی  
اے اللہ ان میں جو خوش و خرم ہو اس کی خوشی اور خوبصورتی میں  
اضافہ فرما اور جو متحیر و ششدر ہو اس کا غم خوشی سے بدلے اے  
ارحم الراحمین اپنی رحمت سے تمام مسلمان مردوں پر جو مسافر بھی  
ہیں اور مقیم بھی اور تسلیم غم کے ہیں اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ  
انکی قبر میں اپنی رحمتوں کی آماجگاہ اپنے مخالف کی قرار گاہ اپنے  
احسان و کرم کی راگزار اور اپنی بخشش و معافی کی گزار گاہ بنا  
حتی کہ وہ اپنی محدود کے گوشوں میں مطمئن ہوں تیرے جو درد کرم پر  
بھروسہ رکھیں اور بلند ترین درجات تک چڑھنے والے ہوں اور یہی  
نعمتیں ان کے باپوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اور دیگر احباب

وعلی آل محمد ولا تدع لنا فی هذه الليلة  
المبارکة الشریفة ذنبا الا غفرته ولا هما  
الافرجته ولا کربا الا کشفته ولا متلی الا  
غافیتہ ولا ذی اساءة الا تفلته ولا حق الا  
استخلصته ولا غائب الا رد دتہ ولا عاصیا  
الا قطعته ولا میتا الا رحمتہ ولا حاجة من  
حوائج الدنیا والآخرة لك فیہا رضا و لنا فیہا  
صلاح الا اعتنا علی قضائہا بتیسیر و  
عافیة مع المغفرة برحمتک یا ارحم الراحمین  
اغفر لنا ذنوبنا ولا یاتنا و امرہا تانا و اخواننا  
و اخواتنا و ذریاتنا و قرابتنا و اصدقاؤنا  
و معلمینا و من قرأنا علیہ و قرأ علینا و تعلمنا  
منہ و تعلم منا و من سألنا الدعاء و سألناہ  
الدعاء و من احینا فیک و من تولانا فیک و  
من تولینا فیک و من کان منہم حیا و  
من کان منہم میتا برحمتک یا ارحم  
الراحمین اللہم یا عالم الخفیات و یا دافع  
البلیات و یا مجیب الدعوات و یا کاشف  
الکربات صل علی محمد افضل البریات  
و انفعنا بما صرفت فی کتابک من الآیات  
و کفر عنا بتلوتہ السیئات و ارفع لنا بصیام  
شہر رمضان و قیامہ عندک الدرجات  
برحمتک یا عالم الخفیات صل علی محمد و  
علی آل محمد و اغفر بالقرآن خطایانا و  
اجزل بہ عطا یانا و اشف بہ مرضانا و ارحم

واقارب کو عطا فرما قبل اس کے کہ عمارت پر انہدام چھا جائے  
صاف پانی گر لایا ہو زندگی سے امیر کی رسی ٹوٹے زمین کی تہوں میں  
آرام گاہیں بنیں اور اس سے پہلے کہ رحمت زحمت نظرہ سیلاب اور  
دن رات بنے اور موت آسمان وزمین والوں پر اپنا دامن گھسیٹے اور قبل  
اس کے کہ بوڑھا پھوس کے ہائے بڑھاپا اور معزز ادھیڑ کے ہائے  
پیشانی اور مجرم و بدکار کے ہائے نامرادی اور ہوشیار و نوخیز بچہ کے  
ہائے افسوس اور اپنے اپنے اعمال پر پشیمان ہوں اور کف افسوس  
میں اور خوف زدہ ہوں اور ان پر نہ امت چھا جائے اور ان کے  
مومنوں پر مرگ جائے اور لول نہ سکیں اور انہیں ایسے شرمناک  
عملوں کی خبر دی جائے جو ان کے سر جھکا دیں اور وہ نیچی نگاہیں کر  
لیں اور ایسے ایسے ہول معائنہ کریں کہ ان کی موجودگی میں تمنا کریں  
کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے اے اللہ اے موت سے  
سبقت کر نیوالے اے آوازوں کو سننے والے اور اے موت کے  
بعد ہڈیوں پر گزشت چڑھا نیوالے محمد و آل محمد پر درود بھیج اور  
اس مبارک و شریف رات میں بخشے بغیر ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑے  
درد گئے بغیر کوئی پریشانی نہ چھوڑے، ہٹائے بغیر کوئی بے چینی نہ چھوڑے  
یا اللہ ہمارے ہر مبتلا کو عافیت دے سے بدکار کو برکاری سے  
باز رکھ اور اسکی نیکی سے بدلے احقر کو اس کا حق دلوا اور اس  
کو واپس لا، گنہگار کو گناہوں سے روک دے، مردوں پر رحم فرما۔  
اور ہماری ذبیوی اور اخروی ہر جائز حاجت کو جس میں تیری رضا  
اور ہماری صلاح ہو آسانی، عافیت اور مغفرت کے ساتھ پوری فرما۔  
اے ارحم الراحمین اپنی مہربانی سے ہمارے گناہ ہمارے ماں  
باپوں کے، بھائی بہنوں کے، اولاد و شاگردوں کے، احباب و اقارب  
کے، شیوخ و اساتذہ کے دعاؤں کی درخواست کر نیوالوں اور  
کئے جانے والوں کے دینی بھائیوں اور بہنوں کے اور زندوں اور مردوں کے



بہ موتانا واصلح بہ امور دینا و دنیا ناوا <sup>حطط</sup>  
 ببعنا ثقل الاوزار و هب لنا حسن شمائل  
 الابرار و اغفر لنا الزلل و العثار و طهر لنا القلوب  
 و الاسرار و طیب لنا بہ الاذکار و صف لنا  
 بہ الافکار و ارحص لنا الاسعار و اصرف  
 عنا شر الاشرار و کید الفجار و احینا علی  
 حب الصحابة الاخیر و اجمع بیننا و بینہم  
 فی دار القرار و اجعلنا من عتقائك من النار  
 و آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة  
 و قنا عذاب النار الحمد لله علی سوانح  
 نعمائہ و صلواتہ علی محمد خاتم انبیائہ  
 و علی آلہ و علی اصحابہ و ازواجہ و سلم  
 تسلیما کثیرا۔

سب کے گناہ بخش دے۔  
 اے اللہ اے پوشیدگیوں کو جاننے والے اے مصائب کو مٹانے  
 والے اے دعاؤں کو قبول کرنے والے اور اے بقیار یوں کو دور کرنے والے  
 محمد (صلعم) پر جو تمام مخلوق سے افضل ہیں درود بھیج اور ہمیں قرآن  
 حکیم کی آیتوں سے جو تو نے قرآن میں بیان کیں نائزہ پہنچا اور قرآن  
 پاک کی تلاوت سے ہماری برائیاں مٹا اور رمضان کے صیام و قیام سے  
 اپنے پاس ہمارے درجے بلند فرما۔ اے پوشیدگیوں کو جاننے والے  
 اپنی مہربانی سے محمد و آل محمد پر درود بھیج اور قرآن سے ہمارے  
 گناہ معاف فرما اور اس کی برکت سے ہمیں بڑے بڑے عطیات  
 دے اس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے  
 مردوں پر رحم فرما اور ہمارے دینی اور دنیاوی کاموں کی اصلاح  
 فرما اور اس کی برکت سے ہمیں گناہوں کے بوجھ سے سبکدوش فرما  
 اور ہمیں پارساؤں کے حسن اخلاق سے آراستہ فرما، ہمارے گناہ  
 اور لغزشیں معاف فرما اور ہمارے دلوں کو اور دلوں کے کھٹکوں کو پاک فرما اور قرآن کی بدولت ہمارے ذکر و دل کی تطہیر فرما اور  
 ہمارے خیالات مجلا فرما اور ہمارے لئے نرخ ارزاں کر اور غنڈوں کی برائی اور بدکاروں کی شرارت ہم سے ہٹا اور ہمیں صحابہ کرام  
 کی اجر منتجب مسلمان تھے محبت پر زندہ رکھ اور ہمیں ان کے ساتھ دارالقراریں جمع فرما اور ہمیں ان میں شامل فرما جن کو تو نے جہنم کی آگ  
 سے آزاد فرما دیا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اللہ ہی کے لئے اس کی مکمل  
 نعمتوں پر تعریفیں ہیں اور محمد صلعم پر جو خاتم الانبیاء ہیں اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں اور آپ کی اولاد و اصحاب پر اور ازواج  
 مطہرات پر بھی اور ان سب پر اللہ کی بہت بہت سلامتیاں ہوں آمین ثم آمین۔

## پیسواں باب

مریدوں کے آداب | یعنی ان سچے فقراء کے آداب جو ان  
 صوفیائے کرام کی راہ پر گامزن ہیں جو گمراہ کن خواہشات سے

آداب المریدین من الفقراء الصادقین  
 سالکی طریق الصوفیۃ الذین صفوا عن

اور اخلاقِ رذیلہ سے پاک ہیں اور ابدالِ اولیاء کے زمرے میں داخل ہو گئے ہیں اور انبیائے کرام کی لائی ہوئی توحید سے آراستہ ہیں۔ اس عنوان کا بیان مختصر کیا جائے گا تاکہ تارین کرام اکتانہ جائیں۔

## ارادہ، مرید، امر او

\*

ارادہ عادت کو چھوڑ دینے کا نام ارادہ ہے۔ ارادہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ کی تلاش و جستجو کا جذبہ دل میں مضبوطی سے کار فرما رہے اور ماسوائے سے قطع نظر کر لی جائے پھر جب انسان عادت کو جو ذبیہ اور اخروی لذتوں کا نام ہے چھوڑ دے تو اب اس کا ارادہ مجرد ہو گیا یعنی اس میں غلوں پیرا ہو گیا لہذا ہر کام سے پہلے ارادہ مقدم ہے پھر اس کے قصد پیدا ہوتا ہے اور قصد کے بعد فعل کا درجہ آتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ارادہ ہر سالک کی راہ کا نقطہ آغاز ہے اور ہر قاصد کے مرتبہ کا آغاز کا نام ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے محبوب نبی صلعم سے فرماتا ہے اے نبی آپ انہیں اپنے پاس سے نہ ہٹائیں جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے نبی کو اس قسم کے لوگوں کو ہٹانے سے منع فرمادیا۔ دوسری آیت میں حق تعالیٰ فرماتا ہے آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور رب کی رضا چاہتے ہیں خبردار آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ آپ ذبیہ زندگی کی زینت چاہیں۔ اس آیت میں رحمت عالم صلعم کو حکم ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو صبر کے ساتھ چمپے رہیں اور ان کی صحبت میں نفس کو صبر دلاتے رہیں ان لوگوں کی یہ نشانی بیان کی کہ وہ اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں پھر فرمایا کہ آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں

الاهوية المضلة وامسكوا عن الاخلاق  
الردية فادخلوا في زمرة الابدال واهل  
الولاية واتصفوا بالعينية على وجه الاختصاص  
والاقلال خشية السامة والملال۔

**فصل** : فی الارادة والمرید والمراد  
اما الارادة : فترك ما جرت عليه العادة  
وتحقيقها نهوض القلب في طلب الحق سبحانه  
وتترك ما سواه فاذا ترك العبد العادة  
التي هي خطوط الدنيا والاخرى فتجرد  
حينئذ ارادته فالارادة مقدمة على كل  
امر ثم يعقبها القصد ثم الفعل فمضى بدء  
طريق كل سالك واسم اول منزله كل قاصد  
قال الله عز وجل لنبيد صلى الله عليه وسلم  
ولا تطرد الذين يريدون ربهم بالخداثة  
والعشى يريدون وجهه فنسئله نبيه صلى الله  
عليه وسلم عن طردهم والعبادهم وقال تعالى  
في آية اخرى واسبر نفسك مع الذين يدعون  
ربهم بالخداثة والعشى يريدون وجهه  
ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة  
الدنيا فامر صلى الله عليه وسلم بالصبر  
معهم وملا زمتهم وتصبر النفس في  
محبتهم ووصفهم بانهم يريدون وجهه  
ثم قال ولا تعد عينك عنهم تريد زينة  
الحياة الدنيا فان بذلك ان حقيقة الارادة  
ارادة وجه الله فحسب ذلك زينة الحياة



الدنيا والاخرى فاما المرید والمراد فامرید  
من كانت فيه هذه الجملة والتصف بهذه  
الصفة فهو ابد امقبل على الله عز وجل وطا  
مول عن غيره واجابته لیسع من ربه عز وجل  
وطاعته مول من غيره واجابته لیسع من  
ربه عز وجل فيعمل بما في الكتاب والسنة  
ويصم عما سوى ذلك ويصير بنور الله عز وجل  
فلا يرى الا فعله فيه وفي غيره من سائر الخلائق  
ويصم عن غيره فلا يرى فاعلا على الحقيقة  
غيره عز وجل بل يرى آلة وسببا محرکا مدبرا  
مسخر اقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك  
الشيء يصم اي يعيبك عن غير محبوبك  
ويصمك عنه لاشتغالك بمحبوبك فما احب  
حتى اراد وما اراد حتى تجردت ارادته وما  
تجردت ارادته حتى قدفت في قلبه جمرة  
الخشية فاحترقت كل ما هنالك قال الله  
عز وجل ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها  
وجعلوا اعززة اهلها اذلة كما قيل انها  
لوعنة تهون كل روعة فتومه غلبة واكله  
فاقتة وكلامه ضرورة ينصم نفسه ابدا  
فلا يجيبها الى محبوبها ولذاتها وينصم عما  
الله ويأتمس بالخلوة مع الله ويصير عن معاصي  
الله تعالى ويرضى بقبضاء الله ويختار امر الله  
ويستحي من نظر الله ويبذل مجهوده في محاب  
الله تعالى ويتعرض ابدا لكل سبب يوصله

کہ آپ دنیوی زندگی کی زینت کا ارادہ کر بیٹھیں ان آیتوں سے صاف  
ظاہر ہے کہ ارادے کی حقیقت صرف اللہ کی رضا کی طلب اور دنیوی  
اور اخروی لذتوں سے قطع نظر کر لینا ہے۔

**مرید** | مرید وہ ہے جس میں صفت ارادہ پائی جائے اور ارادہ سے  
متصف ہو لہذا مرید ہمیشہ حق تعالیٰ جل مجدہ کی طرف اور اس کی  
فرمانبرداری کی طرف متوجہ رہتا ہے اور غیر اللہ سے اور غیر اللہ کی  
پکار پر لبیک کہنے سے پیٹھ پھیر لیتا ہے مرید اپنے رب کی بات سننا  
اور کتاب و سنت پر سرگرم عمل رہنا ہے اور کتاب و سنت کے ماسوائے  
سے بہرا بن جاتا ہے اور حق تعالیٰ عز شانہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ  
تو نہ صرف اپنے اندر بلکہ تمام مخلوق میں اللہ کے قانون پر عمل ہی  
دیکھتا ہے اسکے سوا دوسری چیزوں کو دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے  
سے مثل بود دستے کہ دانگیر آل یارے نہ شد

کو رہ چہ شے کہ لذت گیرد لذارے نہ شد

لہذا وہ حقیقت میں فاعل اللہ ہی کو سمجھتا ہے غیر اللہ کو نہیں بلکہ  
غیر کو آلہ سبب، محرک، مدبر اور مسخر سمجھتا ہے رحمت عالم صلعم  
نے فرمایا کہ کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے یعنی کسی چیز  
محبت تجھے غیر محبوب سے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے کیونکہ اپنے  
محبوب میں مشغول رہتا ہے بھلا محبت میں اتنی کہاں فرصت کہ کسی  
کی طرف دیکھا جائے یا کسی کی باتیں سنی جائیں لہذا محبوب سے محبت  
نہیں کہ تا جب تک ارادہ نہیں کر لیتا اور ارادہ نہیں کہ تا جب تک  
ارادہ کو خالص نہیں کر لیتا اور ارادے میں خلوص نہیں پیدا ہوتا  
جب تک اللہ کے خوف کی چنگاری دل میں نہ ڈالی جائے پھر جب  
یہ چنگاری سلگ کر بھڑک اٹھتی ہے تو ماسوائے کو جلا دیتی ہے اور  
محبوب ہی کی یاد دل پر چھا جاتی ہے یہ پائی سزا عمر بھر خطکے  
کسی کی یاد نے بدلے سنا سنا کے لئے یہ فرمایا: سلاطین جب کسی

الی عزوجل ویقنع بالخمول والاختفاء فلا یختار  
 حمد عباد اللہ ویتحب الی ربہ بکثرة  
 النوافل یخلص اللہ حتی یصل الی اللہ عزوجل  
 ویحصل فی زمرة احباب اللہ تعالیٰ ومریدية  
 فحینئذ یسبی مراداً فتحط عنه اثقال ساکی  
 طریق اللہ ویجسل بما یرحمۃ اللہ وراقتہ  
 ولطفہ فیبنیٰ لہ بیت فی جوار اللہ وتخلع علیہ  
 التراع الخلع وہی المعرفۃ باللہ والانس بہ  
 والسکون والطمانینۃ الیہ ویطلق بحکمۃ  
 اللہ داسرار اللہ بعد الاذن الصریح بل بالخبر  
 عن اللہ عزوجل ویلقب بالقاب یتمیز بہا  
 بین احباب اللہ تعالیٰ فیدخل فی خواص اللہ  
 ویسبی باسما لا یعلمہا الا اللہ ویطلع علی  
 اسرار تخصہ فلا یبوح بہا عند غیر اللہ عزو  
 جل فیسبح من اللہ ویبصر باللہ ویطلق باللہ  
 ویبیطش بقوۃ اللہ ویسعی فی طاعة اللہ و  
 یسکن الی اللہ وینام مع طاعة اللہ و ذکر  
 اللہ فی کلاۃ اللہ وحرز اللہ فی کون من  
 امناء اللہ وشہدائہ واولیادہ وارضہ و  
 منجی عبادہ وبلادہ و احبائہ و اخلائہ  
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیا عن اللہ  
 تعالیٰ لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الخ  
 بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته کنت سمعہ  
 وبصرہ ولسانہ ویدلہ ورجلہ وخواصہ فی  
 سبحہ و بی بصرہ و بی یتطق و بی یعقل و بی یبیطش

قریب میں داخل ہوتے ہیں تو اسے بگاڑ دیتے ہیں اور اس کے عزیزین  
 کو ذلیل کر دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ محبت ایک ایسی سوزش ہے جو ہر  
 خوف و گھبراہٹ کو آسان کر دیتی ہے۔ محب بنید کے قلب کے وقت  
 قدرے آنکھ چھپکاتا ہے وہ بقدر ستم ہی کھاتا پیتا ہے اور بقدر  
 ضرورت ہی بولتا ہے محب ہمیشہ اپنے نفس کو سمبھاتا ہے اور اپنے  
 محبوب ہی کے لئے زندہ رہتا ہے اور محبوب ہی کی دیرار کی لذتوں  
 کا اسے شوق دلاتا رہتا ہے اور اللہ کے بندوں کا خیر خواہ رہتا  
 ہے اور خلوت میں جا کر اپنے حقیقی محبوب کے ذکر میں ڈوب جاتا  
 اسی میں اسے بے پناہ لذت آتی ہے اور گناہوں سے صبر کرتا ہے  
 اور باز رہتا ہے اور قضا و قدر پر راضی رہتا ہے اور اللہ کے  
 حکم پسند کرتا ہے اور اللہ کی نگاہ سے شرماتا رہتا ہے اور  
 حق تعالیٰ کی محبت میں مقدر و بھر دہر و صوب کرتا رہتا ہے  
 اور ہمیشہ اس عمل کی طرف پیک کر جاتا ہے جو اسے اللہ تک پہنچا  
 دے اور گناہی اور عدم شہرت پر تناعت کرتا ہے اور یہ نہیں  
 پسند کرتا کہ لوگ میری تعریف کریں اسے اپنے پروردگار سے  
 والہانہ محبت ہوتی ہے اور خلوص سے نوافل کثرت سے انجام  
 دے کر اپنے محبوب کا قرب ڈھونڈھتا رہتا ہے آخر کار اللہ  
 تک پہنچ جاتا ہے اور اولیاء اللہ کی فرست میں اور اس کے  
 مرادوں میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے اب یہی مرید مراد کے  
 نام سے پکارا جاتا ہے اب اس سے سالکین راہ حق کے بوجھ بٹا  
 دئے جاتے ہیں اور اللہ کی مرانی، نوازش اور لطف و کرم کے  
 پانی سے اسے نہلا دیا جاتا ہے اور اس کے لئے اللہ کے پڑوس میں  
 ایک گھر بنا دیا جاتا ہے اور اسے گوناگوں خلعتوں سے نوازا جاتا  
 ہے یعنی معرفت، انبیت، سکون، اطمینان، دلجمعی وغیرہ سے اور  
 وہ اللہ کی حکمتوں اور اسرار سے اللہ کے صریح حکم سے بلکہ اس کے



الحديث فهذا عبد حمل عقله العقل الاكبر  
وسكنت حركاته الشهوانية لقبضة الحق  
عز وجل نصار قلبه خزائنه الله عز وجل فهذا  
هو مراد الله تعالى ان اردت ان تعرفه يا  
عبد الله وقد قال من تقدم من عباد الله  
تعالى ان المرید والمراد واحد اذ لو لم  
يكن مراد الله عز وجل بان يرید له لم  
يكن مرید اولا يكان الاما اراد لانه  
اذا اراد الحق بالخصوصية وفقه بالارادة  
وقال آخرون المرید المبتدئ والمراد  
المنتهى المرید الذى نصب بعين التعب و  
القى فى مقاساة المشاق والمراد الذى لقى  
الامر من غير مشقة المرید متعب والمراد  
مرفوق به مرفقه فالاعلم فى حق القاصدين  
المبتدئين فى سنة الله تعالى ما قد تم و  
جرى من توفيق الله تعالى للمجاهدات  
ثم ايسالهم اليه وحط الاثقال عنهم  
والتخفيف عنهم فى كثير من النوافل و  
ترك الشهوات والاقتصار على القيام  
بالفرائض والسنن من جميع العبادات  
وحفظ القلوب ومحافظة الحدود والمقام  
والا تقطاع عما سوى الحق عز وجل بالقلوب  
فيكون ظواهرهم مع خلق الله تعالى ولبوا  
مع الله عز وجل استنتهم بحكم الله وقلوبهم  
يلعلم الله فالستنتهم لنعم عباد الله واسرارهم

علم سے گفتگو کرتا ہے اور ایسے القاب سے پکارا جاتا ہے جن سے وہ  
اولیاء اللہ کے درمیان ممتاز ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خواص  
میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے ایسے نام رکھ دئے جاتے ہیں جن کو  
اللہ ہی جانتا ہے اور مخصوص امراد سے آگاہ ہو جاتا ہے جن کو وہ کسی  
پر ظاہر نہیں ہونے دیتا اب وہ اللہ ہی سنتا ہے اللہ ہی کی نگاہ سے  
دیکھتا ہے اللہ ہی کی زبان پر بولتا ہے اللہ ہی کی قوت سے کھڑتا ہے  
اللہ ہی کی اطاعت میں لپکتا ہے اللہ ہی کی طرف سکون پاتا ہے اور  
اللہ ہی کا ذکر کرتے کہتے اللہ کی حفاظت و حراست میں سو جاتا ہے  
اور وہ اللہ کا امین، شہید، روئے زمین پر اس کا وتمد اور دنیا میں  
اس کا کو تو ال اور اللہ کا محبوب و خلیل بن جاتا ہے نبی اکرم صلعم نے  
حق تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا مومن بندہ برابر نوافل  
کے ذریعہ میرا قرب ڈھونڈھتا رہتا ہے حتیٰ کہ مجھے اس سے محبت  
ہو جاتی ہے پھر جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا  
کان، آنکھ، زبان، ہاتھ پیر اور دل بن جاتا ہوں اب وہ میرے  
ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ بولتا ہے  
میرے ساتھ سمجھتا ہے اور میرے ساتھ کھڑتا ہے لہذا اس  
بندے کی عقل کو عقل اکبر نے اٹھا لیا ہے اور حق تعالیٰ شانہ کے  
قبضہ میں آنے کی وجہ سے اس کی شہوانی حرکات سرور پڑ گئی ہیں  
اور اس کا دل حق تعالیٰ عز شانہ کا خزانہ بن گیا ہے اب یہ شخص  
اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اگر کوئی مراد کی حقیقت کو پہچاننا چاہے تو  
یہی ہے قدماء میں سے کسی اللہ کے بندے نے کہا ہے کہ مرید  
اور مراد ایک ہی ہیں کیونکہ اگر حق تعالیٰ شانہ کی یہ مراد نہ ہوتی  
کہ مرید کو چاہے تو مرید مرید نہ ہوتا کیونکہ یہ طلب حق کی مرضی کے  
بغیر ناممکن ہے لہذا جب حق تعالیٰ خاص طور سے کسی کو چاہتا  
ہے تو اسے ارادہ کی توفیق بخش دیتا ہے اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ

لحفظ ودائع اللہ فاعلیہم سلام اللہ وتحتیاتہ  
 وبرکاتہ وحننہ وتختیہ مادامت ارضہ  
 وسماوہ وقام العباد بطاعنہ وحقہ وحفظ  
 حدودہ وسئل المجید رحمہ اللہ عن المرید  
 والمراد فقال المرید تتولاہ سیاسة العلم المراد  
 تتولاہ رعاۃ الحق لان المرید یبیر والمراد یطیر <sup>فتی</sup>  
 یلحق السائر الطائر ویکتف ذلک بموسیٰ ونبینا محمد  
 صلی اللہ علیہ وسلم کان موسیٰ علیہ السلام  
 مزید او نبینا صلی اللہ علیہ وسلم مرادا  
 انتھی سیر موسیٰ علیہ السلام الی جبل طور  
 سیناء وطیران نبینا صلی اللہ علیہ وسلم  
 الی العرش واللوح المحفوظ فالمرید طالب  
 المراد مطلوب عبادۃ المرید مجاہدۃ و  
 عبادۃ المراد موهبۃ المرید موجود والمراد  
 فان المرید یعمل للعوض والمراد لا یری العمل  
 بل یری التوفیق والمنن المرید یعمل فی سلوک  
 السبیل والمراد قائم علی جمیع کل سبیل المرید  
 ینظر بنور اللہ والمراد ینظر باللہ المرید قائم  
 بامر اللہ والمراد قائم بفعل اللہ المرید  
 ینخالف ہواہ والمراد یتبرأ من ارادتہ  
 ومناہ المرید یتقرب والمراد یقرب و  
 المرید یجہی والمراد یدلل وینعم ویغزی  
 ویشہی المرید محفوظ والمراد یحفظ بہ  
 المرید فی الترقی والمراد قد وصل وبلغ الی  
 الرب الذی ہو المرقی وصال عندہ کل طریق

مرید مبتدی ہوتا ہے اور مراد کامیابی کے بعد بنتا ہے مرید وہ ہے  
 جو تعب و مشقت کے لئے اور مصائب اٹھانے کے لئے تیار رہے اور  
 مراد وہ ہے جس کے مشقت کے بعد کامیابی قدم چومے لہذا مرید مشقت  
 اٹھانے والا ہے اور مراد آرام سے رہنے والا ہے اور اسے سہولت و  
 نرمی و پیر کی گئی ہے۔ لہذا راہ حق میں قصد کرنیوالے مبتدیانوں کے  
 حق میں مجاہدہ مکمل و جاہلی ہو چکا ہے پھر حق تعالیٰ اپنے پاس تک  
 انہیں پہنچا دیتا ہے اور ان کے بوجھ بکے کر دیتا ہے اور بہت سے  
 نوافل میں اور ترک لذات میں تخفیف فرمادیتا ہے اور وہ تمام  
 عبادتوں میں فرانس سن پر اکتفا کر لیتے ہیں اور دلوں حدود  
 اور مقامات کی محافظت پر قناعت کر لیتے ہیں اور دلوں سے  
 ماسوائے حق سے کٹے ہوئے رہتے ہیں لہذا ان کے ظاہر لوگوں کے  
 ساتھ ہوتے ہیں اور باطن حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ۔ ان کی زبانیں  
 اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور دل اللہ کے علم کے ساتھ  
 ساتھ۔ چنانچہ ان کی زبانیں اللہ کے بندوں کی غیر خواہی کے لئے  
 وقف ہوتی ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی مقدس امانتوں کے  
 خزانے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں مبارکبادیاں  
 برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں جب تک یہ آسمان و زمین قائم  
 رہیں اور لوگ اللہ کی اطاعت و ادائے حقوق و حفظ حدود میں  
 لگے رہیں۔ جنید سے مراد مرید کے پاس میں پوچھا گیا تو فرمایا:  
 مرید علم کی رعایت کرتا ہے اور مراد حقوق کی رعایت پیش نظر  
 رکھتا ہے کیونکہ مرید چلتا ہے اور مراد اڑتا ہے بھلا چلنے والا  
 اڑنے والے کو کیسے پکڑ سکتا ہے اسکی وضاحت حضرت موسیٰ  
 اور رحمۃ اللعالمین کے مقابلہ سے ہوتی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ  
 مرید اور رحمت عالم مراد تھے حضرت موسیٰ چل کر کہہ طور پر  
 پہنچے اور طور پر آکر آپ کے سیر کی انتہا ہو گئی اور رحمت عالم عام



و نفیس و لطیف و نفی فجاز علی کل طالع عابد  
متقرب بار نفی۔

**فصل:** ما المتصوف وما الصوفی (اما  
المتصوف : فهو الذی یتکلف ان یکون  
صوفیا و یتوصل بجهده الی ان یکون صوفیا  
فاذا تکف و تقمص بطریق القوم و اخذ به  
یسعی متصوفا کما یقال لمن لبس القمیس  
تقمص و لمن لبس الدراعة تدرع و یقال  
متقمص و متدرع و كذلك یقال لمن  
دخل فی الزهد متزهد فاذا انتهی فی زهد  
و بلغ و بغضت الاشیاء الیه و فنی عنها  
فتترك كل واحد منهما صاحبہ سمی  
حینئذ زاهدا ثم تاتیہ الاشیاء وهو  
لا یریدها ولا یبغضها بل یتثل امر الله  
فیها و ینتظر فقل الله فیها فیقال لهذا متقرب  
و صوفی اذا التصف بهذا المعنی نہی فی الاصل  
صوفی علی وزن فوعل مأخوذ من المصافاة  
یعنی عبد اصابا لا الحق عزوجل و لهذا  
قیل الصوفی من كان صافیا من آفات  
النفس خالیاً من مذموماتها سالکاً  
لحمید مذاهبہ ملازماً للحقائق غیر  
ساکن بقلبه الی احد من الخلائق و قیل  
ان التصوف الصدق مع الحق و حسن الخلق  
مع الخلق و اما الفرق بین المتصوف  
و الصوفی فالمتصوف المبتدی و الصوفی

عرش و لوح محفوظ تک اڑ کر گئے لہذا مرید طالب ہے اور مراد مطلوب ہے  
مرید کی عبادت مجاہدہ ہے اور مراد کی عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف مہیہ ہے۔  
مرید موجود ہے اور مراد فنا فی اللہ ہے مرید بالعوض عمل کرتا ہے اور مراد  
عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ توفیق و احسانات کو دیکھتا ہے مرید راہ پر چلنے  
میں کوشش کرتا ہے اور مراد ہر راہ کے چوراہے پر کھڑا ہے مرید اللہ کے  
نور سے دیکھتا ہے اور مراد اللہ سے دیکھتا ہے مرید اللہ کے حکم پر قائم رہتا  
ہے اور مراد اللہ کے فعل کے ساتھ قائم رہتا ہے مرید ہوائے نفسانی کا  
مخالف ہوتا ہے اور مراد اپنے ارادوں اور تمناؤں سے بیزار رہتا ہے  
مرید حق تعالیٰ کے قریب آتا ہے اور مراد کو قریب بلا یا جاتا ہے مرید کی  
حفاظت کی جاتی ہے اور مراد کے ناز اٹھائے جاتے ہیں اسے آرام پہنچایا  
جاتا ہے اسے غذا دی جاتی ہے اور اسکی خواہشیں پوری چھوڑ کر بر لائی جاتی  
ہیں مرید کی حفاظت کی جاتی ہے اور مراد سے حفاظت کی جاتی ہے مرید ہم  
بدم ترقی کرتا ہے اور مراد منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے یعنی رب تک پہنچ  
چکا ہوتا ہے اور اسے رب کے پاس ہر عمدہ، نفیس، لطیف اور پاکیزہ  
نعمت حاصل ہوتی ہے اور ہر اطاعت گزار، عبادت گزار، نیکو کار، پرہیزگار  
اور تقرب شعار بندے سے آگے ہوتا ہے۔ فللہ الحمد۔

متصوف اور صوفی کی تعریف | متصوف اس شخص کو کہتے ہیں جو  
بناوٹی صوفی ہوتا ہے اور اپنی جدوجہد اور تکلف سے صوفی بنا ہوا ہے  
پھر جب کوئی تکلف سے صوفیاں کرام کا لباس پہن لیتا ہے تو لوگ  
اسے متصوف کہتے ہیں جیسے کہ تہ پہننے والے کو متقمص اور متدرع  
کہتے ہیں اسی طرح بناوٹی زاہر کو متزہد کہتے ہیں لیکن اگر کوئی زاہر کی  
انتہا کو پہنچ جائے اور اسکی چوٹی سے عبور کر جائے اور دنیا کی چیزوں سے  
اسے نفرت ہو اور ان سے اپنے کو مرد سمجھنے لگے اور دنیا سے اوردہ  
دنیا کو چھوڑ دے تو اب وہ حقیقت میں زاہر ہے پھر زاہر کے پاس  
اس حال میں دنیا کی چیزیں آتی ہیں کہ وہ نہ انہیں چاہتا ہے اور نہ ان

المنتہی المتصوف الشارع فی طریق الوصل والصوفی  
 من قطع الطريق ووصل الی من الیہ القطع والوصول  
 المتصوف متحمل والصوفی محمول حمل المتصوف  
 کل ثقیل وخفیف فحمل حتی ذابت نفسه و  
 زال هواہ وتلاشت ارادته وامانتہ نصار  
 ما فی نفسی صوفیا فحمل نصار محمول القدر  
 کرة المشیئة صوفی القدس منبع العلوم والحکم  
 بیت الامن والفوز کھف الاولیاء والابدال  
 وموتلھم ومرجھم ومثمنفسھم ومسترا  
 ومسرتھم اذھوعین الفلادۃ درۃ التاج  
 منظر الرب والمرید المتصوف مکابد لنفسہ  
 وھو اذ شیطانہ وخلق ربہ ودنیالہ واخرالہ  
 متعب لربہ عزوجل بمفارقة الجہات الست  
 والاشیاء وترك العمل لہا وموافقھا  
 والقبول منھا وتصنیفہ باطنہ من المیل  
 الیہا والاشتغال بعافیخال شیطانہ و  
 بترك دنیاہ ویفارق اقربانہ وسائر خلق  
 ربہ بحکمہ عزوجل لطلب اخرالہ ثم یجاہد  
 نفسه وھو اذ بامر اللہ عزوجل فیفارق  
 اخرالہ وما اعد عزوجل لولیانہ فیہامن  
 جنة لرغبة فی مولاہ فیخرج من الاکوان  
 فیصفی من الاحداث وتیحوہ لرب النام  
 فنقطع منہ العلائق والاسباب والادل  
 والاولاد فتسب عنہ الجہات وتنتقم فی  
 وجہہ جہۃ الجہات وباب الابواب و

سے نفس ہی رکھتا ہے بلکہ ان میں اللہ کے حکم و قانون کی تعمیل کرتا ہے اور اللہ کے فعل کا منظر رہتا ہے کہ حق تعالیٰ کا ان کے پاس سے کیا حکم ہے اب نامہ لکھو کہ متصوف اور صوفی کتے ہیں اصل میں صوفی کو کبھی مجازی طور پر متصوف بھی کہا دیا کرتے ہیں صوفی دربر وزن فوعل مصانعات جس کا مادہ صوفی ہے بنا ہے یعنی اللہ کا ایسا بندہ جسے اس نے پاک صاف فرما دیا ہے اسی لئے اسے صوفی کتے ہیں جو نفس کی آفتوں سے اور زائل سے صاف ہو قابل تدریس اور پرکاشن ہو حقائق کو چمپا ہوا ہو اور اس کے دل کو کسی مخلوق سے سکون حاصل نہ ہو۔ بعض علماء تصوف حق تعالیٰ کی پر خلوص عبادت اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملات اور اخلاقِ حسنہ سے پیش آتا ہے۔

متصوف اور صوفی میں فرق | مبتدی کو متصوف اور منزل پر پہنچے ہوئے کو صوفی کہتے ہیں، متصوف راہِ وصل میں چلنے والے کو اور صوفی راہِ طے کر کے محبوب تک پہنچنے والے کو کہتے ہیں، متصوف بوجہ سے لڑھا ہونے اور صوفی سے بوجہ اٹھ چکا ہے متصوف پر لگا اور بھار بوجہ لادھ دیا گیا ہے تاکہ اس کا نفس گھیل جائے اور خواہش نفا ہو جائے اور اس کے ارادہ اور امانت کا نام و نشان نہ رہے اور وہ صاف و شفاف ہو جائے پھر صفائی کے بعد اسے صوفی کہا جاتا ہے اب اس نے بار امانت اٹھالیا اور قضاء و قدر کا بوجھ اس پر لاد دیا گیا اور دستِ مشیت میں ہمنزلہ گنبد کے ہو گیا، اسکی بارگاہِ قدس سے تربیت ہوتی ہے اس کا دل علوم و حکم کا منبع بنا دیا گیا ہے، وہ امن و کامیابی کا گھر ہے اولیاء اور ابدال کا غار ہے اور ان کی پناہ گاہ مرجع ہے اور اولیاء کے سانس لینے کی اور آرام و مسرت کی جائے سکون ہے کیونکہ وہ بارگاہِ ممتاز ہیرا تاج کا ممتاز صوفی اور رب العالمین کا منظر ہے۔

متصوف مرید جو اپنے نفس، خواہش، شیطان، دنیا، آخرت اور اللہ کی مخلوق کو دھوکا دیتا ہے حق تعالیٰ شانہ کی عبادت، شش جہات سے ہٹ کر اور دنیا کی چیزوں کو نظر انداز کر کے کرتا ہے دنیا



هو الرضا بقضاء رب الا نام ورب الا رباب  
 ويفعل فيه فعل العالم بما كان وما هو ات  
 والخبير بالسراثر والخصيات وما تتحرك به  
 الجوارح وما تضره القلوب والنيات ثم  
 يفتح تجارة هذا الباب باب يسمى باب القربة  
 الى المليك الديان ثم يرفع منه الى مجالس  
 الالنس ثم يجلس على كرسی التوحيد ثم يرفع  
 عنه الحجب ويدخل دار الفردانية ويكشف  
 عنه الجلال والعظمة فاذا وقع بصريه على  
 الجلال والعظمة بقى بلا هو قان يا عن نفسه  
 وصفاته عن حوله وقوته وحركته وادائه  
 ومناة ودنياة واخره فيصير كائنا بلور  
 مملوع ماء صافيا تتبين فيه الاشباح فلا  
 يحكم عليه غير القدر ولا يوجد له غير  
 الامر فهو فان عنه وعن حظه موجود ملول  
 وامر لا يطلب خلوة لان الخلوة للموجود  
 فهو كالطفل لا ياكل حتى يطعم ولا يلبس  
 حتى يلبس فهو مسترسل مفوض وانقلبهم  
 ذات اليمين وذات الشمال الآية الا انه  
 كائن بين الخليقة بالجسم بائن عنهم  
 بالافعال والاعمال والسراثر والنواهر  
 والفساثر والنيات فحينئذ يسمى صوفيا  
 على معنى انه يصفى من التكدر بالخليقة  
 والبريات وان شئت سميت به بدل من  
 الابدال وعين من الاعيان عارفا بنفسه

۳۸۶  
 لئے عمل نہیں کرتا، دنیا سے نفرت کرتا ہے اور اسے قبول نہیں کرتا اور دنیا  
 کی طرف مائل ہونے سے دل کو روکتا ہے اور دل کی صفائی میں کوشاں  
 رہتا ہے شیطان کی مخالفت کرتا ہے دنیا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے حکم سے  
 آخرت کے لئے اپنے ساتھیوں سے اور تمام دنیا والوں سے الگ تھلگ  
 رہتا ہے پھر اللہ کے حکم سے نفس دہوی سے مہذب کرتا ہے پھر آخرت کو  
 اور اخروی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لئے جنتوں میں  
 تیار کی ہیں اپنے مولا کی محبت میں اور شوق میں نظر انداز کر دیتا ہے  
 تاکہ دونوں جہانوں سے ہٹ کر، پلیدیوں سے صاف ہو کر رب  
 العالمین کے قدموں پر اپنے کو ڈال دیتا ہے اور اس سے اسباب  
 علائق اور آل و اولاد منقطع ہو جاتے ہیں اور اس سے تمام  
 جنتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور صرف ایک دروازہ  
 (رضا بقضنا کا دروازہ) اس کے سامنے کھلا رہتا ہے اور حق تعالیٰ  
 شانہ اس پر ماضی کے اور مستقبل کے کچھ امرار منکشف فرما دیتا ہے اور  
 اسے کچھ پوشیدہ باتوں اور امرار سے آگاہ کر دیتا ہے اور اعضاء کے  
 بعض حرکات و سکنات اور دلوں کے بعض افکار و خیالات اس کے  
 دل میں ڈال دئے جاتے ہیں پھر اس کے سامنے اس دروازے کے مقابلہ  
 میں باب تقرب کھول دیا جاتا ہے اور وہ شہنشاہ مالک روز جزا سے  
 قریب ہو جاتا ہے پھر وہ اس دروازے سے مجالس النیت کی طرف آ  
 لیا جاتا ہے پھر توحید کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے پھر اس سے  
 حجاب اٹھائے جاتے ہیں اور دریا بگائی میں داخل کر لیا جاتا ہے  
 اور اس سے جلال و عظمت کے پردوں کو ہٹا لیا جاتا ہے پھر جب اس  
 کی جلال و عظمت پر نگاہ پڑتی ہے تو فنا فی الذکر ہو کر رہ جاتا ہے  
 اور اپنے نفس، صفات، طاقت، قوت، حرکت، ارادہ، تمنا اور  
 دنیا اور آخرت سے مدہوش و بے خبر ہو جاتا ہے اور صاف پانی  
 سے بھرے ہوئے ایک بلوری برتن کی طرح ہو جاتا ہے جس میں

وربہ الذی ہو عیبی الاموات المخرج اولیاءہ  
 من ظلمات النفوس والطباع والاهویۃ والضلالت  
 الی ساحة الذکر والمعارف والعلوم والاسرار  
 ونور القربۃ ثم الی نورہ عزوجل اللہ نور  
 السموات والارض مثل نورہ کما کشف اللہ  
 ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی  
 النور فان اللہ تعالیٰ تولى اخراجہم من الظلمات  
 الی النور وهو عزوجل اطلعہم علی ما امرت  
 قلوب العباد وانطوت علیہ النیات اذ جعلہم  
 ربی جزاسیس القلوب والامناء علی السرائر  
 والخصیات وحرسہم من الاحشاء فی الخلوۃ  
 والجلوات لا شیطان مضل ولا ہوی متبع  
 یبیل بہم الی الزلات قال اللہ عزوجل ان  
 عبادی لیس لک علیہم سلطان ولا نفس  
 امارۃ بالسوء ولا شہوتہ قالبة متبعۃ  
 تدعوہ الی اللذات المرذیۃ فی الدرجات  
 المخرجة من اهل السنۃ والجماعات قال  
 عز من قائل كذلك لنصرف عنہ السوء  
 والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین <sup>بہم</sup> فخر  
 ربی وقمع رعونات نفوسہم وضمی او تہا  
 بسلطان الجبروت فثبتہم فی مراتبہم و  
 وفقہم للوفاء بشرطہ بعد ان وفقہم  
 للوفاء بالصدق فی سیرہم وبالصبر فی تحمل  
 انقطاعہم وانظر انہم فادوا الفرائض  
 وحفظوا الحدود والادامروا التزموا المراتب

چیزوں کی تصدیق میں چھپ جاتی ہیں اور یہ چیزیں اللہ کی تقدیر ہی چھاتی ہے  
 اور اللہ کا امر ہی انہیں دکھاتا اور ایسا دکھاتا ہے کہ وہ اپنی ذات اور لذتوں  
 سے فانی ہے مگر اپنے آقا کے لئے اور اس کے امر کے لئے باقی ہے وہ خلوت  
 کا طالب نہیں کیونکہ خلوت و تنہائی واجب الوجود ہی کے لئے ہے اب  
 اسے سالک کی مثال بچے کی سی ہے جو خود نہیں کھاتا بلکہ اسے کھلایا جاتا ہے  
 اور خود نہیں پہنتا بلکہ اسے پہنایا جاتا ہے اور وہ چھوڑا ہوا ہے اور  
 اللہ کو سونپا ہوا ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں راصحاب کف کو  
 دائیں بائیں کر ڈال دیتے ہیں مگر وہ لوگوں میں جسمانی اعتبار سے  
 موجود ہے اور افعال، اعمار، اسرار، ظاہر، باطن، خیالات اور  
 نیت کے اعتبار سے لوگوں سے علیحدہ بھی ہے اب اسکو صوفی کہنا  
 حق بجانب ہے کیونکہ دنیا داروں کی کدورت سے صاف ہے اور چاہتوں  
 ابدال کے نام سے پکارا لو کیونکہ اب یہ ابدال میں سے ایک فرد ہے یا  
 بڑی ذاتوں میں سے ایک ذات ہے جو اپنے نفس کو اور رب کو  
 پہچانتا ہے اس رب کو جو مردوں کو زندہ کر دینے والا ہے اور جو  
 اپنے اولیاء کو نفوس، طبائع، ہوشی اور گمراہیوں کے اندھیروں سے  
 نکال کر ذکر، معارف، اسرار اور نور قرب کے صحن کی طرف پھیر  
 نور قرب سے اپنے نور کی طرف نکال کر لاتا ہے فرمایا: اللہ آسمانوں کا  
 اور زمین کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے  
 دسخر بیت تک، فرمایا: اللہ ایمان والوں کا ولی (دوست) ہے  
 اور انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال کر لاتا ہے معلوم ہوا کہ  
 اللہ اپنے اولیاء کو اندھیروں سے نکال لاتا ہے اور انہیں نور عطا فرماتا  
 ہے اور اللہ ہی ان کی تربیت فرماتا ہے حق تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی  
 دلی باتوں اور نیتوں پر انہیں آگاہ فرمادیا ہے کیونکہ انہیں میرے  
 پروردگار نے دلوں کا سراخ رساں اور اسرار و رموز کا امین بنا  
 دیا ہے اور خلوت و جلوت میں ان کو دشمنوں سے محفوظ فرمادیا ہے



حتى قوموا وهدوا ونقوا وادبوا وطهروا  
 وطيبوا وسعوا وزكوا وشجعوا وعوزوا  
 فتنت لهم ولاية الله وتوليتهم الله ولي  
 الذين آمنوا وقوله تعالى وهو يتولى الصالحين  
 فنقلوا من مراتبهم الى مالك الملك فرتب  
 لهم ذلك بين يديه فصار نجوا لهم كفاحا  
 يبا جونه تفلو بهم واسرارهم فاشتغلوا  
 به عن سواها وينهوا عن نفوسهم وعن  
 كل شيء هو رب كل شيء ومولا كل نصير  
 هم في قبضته وقين هم بعقولهم وجعلهم  
 اماناء فهم في قبضته وحصنه وحراسته  
 يتشتمون روح القرب ويعيشون في فسحة  
 التوحيد والرحمة فلا يشتغلون بشيء الا  
 بما اذن لهم من الاعمال فاذا جاء وقت  
 عمل ابدانهم دون قلوبهم مضوا مع  
 الحرس في تلك الاعمال لا تضرهم شياطينهم  
 ونفوسهم واهوتهم فتسلم اعمالهم من  
 حظ الشياطين وهنات النفوس من الرياء  
 والنفاق والعجب وطلب الاعراض  
 والشرك بشيء من الاشياء والحول والقوة  
 بل يرون جميع ذلك فضلا من الله وتوفيقا  
 من الله خلقا ومنهم بتوفيقه كسبا  
 لئلا يخرجوا بعد هذا العقيد لا من سنن  
 الهدى ثم يردون بعد اداء تلك الاوامر  
 وفراغ تلك الاعمال الى مراتبهم التي

انہیں نہ تو کوئی شیطان صحیح راہ سے بھٹکا سکتا ہے اور نہ وہ حرص  
 و ہوس کی پیروی میں جو انہیں صحیح راہ سے اوجھڑا دھر بھٹکا دے  
 حق تعالیٰ نے فرمایا: اے شیطان یاد رکھ میرے بندوں پر تیرا قابو چلنے  
 والا نہیں نہ ان کے پاس نفس امارہ ہے کہ انہیں برائی کی طرف مائل کرے  
 اور غالب ہے کہ وہ اس کے تابع درجوں اور جو انہیں ایسی لذتوں کی دعوت  
 دے جو مہلک ہوں اور درجات جہنم میں جھونک دیں نہ ان پر شہوت  
 اور السنن و الجماعت سے نکال دیں حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا:۔  
 ہوا اسی طرح تاکم اس سے برائی اور بے حیائی پھیر دیں کیونکہ وہ ہمارے  
 چپے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ لہذا رب العالمین نے انکی حفاظت فرمائی  
 اور اپنے رعب و دہرہ سے ان کے نفسوں کی سرکشی اور غرور کو جڑ سے اکھاڑ  
 پھینکا اور انہیں ان کے مراتب میں قائم فرمایا اور انہیں وفا کی معہ شرط  
 وفا کے توفیق دی جبکہ ان کی عادتوں میں سچائی کے ساتھ ایفائے عہد  
 بھی داخل کر دیا گیا تھا اور انقطاع واضطرار کے موقع پر ان میں  
 صبر کی عادت بھی موجود تھی وہ ذرائع کے پابند اور حدود و فرامین  
 کے محافظ ہیں اور اپنے مراتب پر چپے ہوئے ہیں حتیٰ کہ انہیں سیدھا  
 کر دیا گیا، مذہب بنا دیا گیا، پاک و صاف کر دیا گیا، ادب سکھا  
 دیا گیا، ان کی تطہیر کر دی گئی، پاکیزہ بنا دیا گیا، وسعت عطا کی گئی  
 حلال کی توفیق دی گئی، بہادر بنائے گئے اور ان تمام صفات کے  
 عادی بنے اس لئے ان کے لئے اللہ کی ولایت و تولیت مکمل ہوئی  
 فرمایا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے دوسری جگہ فرمایا اور وہ اللہ  
 نیکوں کا ستولی ہے پھر انہیں ان کے مراتب سے منتقل کر کے مالک الملک  
 کی طرف لا با گیا، قرب نصیب ہوا اور اس کے پاس انہیں تربیت  
 دی گئی اور اللہ سے آمنے سامنے سرگوشیاں کرنے لگے اور اپنے دلوں  
 سے اور اسرار سے اس کے راز دار بنے اور اس سے جڑ کر سب سے  
 کٹ گئے اور انہیں نہ صرف دنیا کی جس کا اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے

الزموها فوقفوا معها وحفظوها بالقلوب  
والضمائر وقد ينقلون الى حالة بعد ان جعلوا  
الامناء وخطوب كل واحد منهم بالانفراد  
في حالته انك اليوم لدينا مكين امين  
فلا يحتاجون نبيها الى اذن لانهم صاروا  
كالمفوض اليهم امرهم فهم في قبضته  
حيثما ذهبوا في شيء من امورهم يحققه  
قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدیہ  
عن جبریل علیه السلام عن الله عز وجل انه  
قال ما تقرب الى عبدی بشئ اداء خرائضی  
وانه ليتقرب الى بالنوافل حتى احببه  
فاذا احببته كنت سمعه وبصره ولسانه  
وریده ورجله وفوادة فبی یسمع وبی یبصر  
وبی ینطق وبی یعقل وبی یبیطش فهذا الخیر  
قد ذکرنا فی مواضع من هذا الكتاب  
لانه اصل فی هذا المقام فی تلیء قلب  
هذا العبد بحب ربه عز وجل و نوره و  
علمه و المعرفة به فلا یهم غیر ذلك الا  
تری الى قوله صلى الله عليه وسلم من احب  
ان ینظر الى رجل یحب الله بكل قلبه فلینظر  
الى سالم مولی ابی حذیفه رضی الله عنه  
فما هرا متحرك متصرف بفعل الله تعالی  
وباطنه مملوء بالله عز وجل وقد قال موسی  
علیه السلام یارب ابن ابغیک قال یا موسی  
ای بیت ینعنی وای مکان یجملنی فان

بلکہ اپنے نفسوں کی بھی خبر نہیں رہی حق تعالیٰ نے انہیں اپنی مٹھی میں  
لے لیا اور انہیں کی عقلوں سے انہیں باندھ دیا اور انہیں اپنی مٹھی میں  
فرما دیا لہذا وہ اللہ کے قبضہ میں اس کے قلعہ میں اور اس کی حفاظت  
میں رہ کر قرب کی خوشبو سے مست ہیں اور توحید و رحمت کے میدانوں  
میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی میں مشغول رہتے ہیں جس کے بجالانے  
کا انہیں حکم ہے اور جب جسمانی عملوں کا وقت آتا ہے تو اللہ کی حفاظت  
میں ان عملوں کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دلی عمل چھوڑ دیتے  
ہیں تاکہ انہیں شیطان، نفس اور ہوسنی نقصان نہ پہنچائیں لہذا ان  
کے عمل شیطانوں سے حصوں سے اور نفس کی بدلیوں دریا، نفاق،  
غرور، طلب عوض، قوت، طاقت اور شرک وغیرہ سے سلامت  
رہتے ہیں بلکہ وہ ان تمام عملوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور توفیق  
کو کار فرما دیکھتے ہیں اور ان کی کمائی میں بھی توفیق کا رفرما رہتی ہے  
تاکہ اس عقیدے کی رد سے ہدایت کی راہوں سے باہر نہ ہوں پھر ان  
فرامین کو بجالانے کے بعد اور ان عملوں سے فارغ ہونے کے بعد  
اپنے ان مراتب کی طرف لوٹا دئے جاتے ہیں جن سے چپے ہوئے ہیں  
پھر وہ ان پر قائم رہتے ہیں اور دل و جان سے ان کی حفاظت کرتے  
ہیں اور کبھی ایہ بنائے جانے کے بعد وہ دوسری حالت کی طرف  
لوٹا دئے جاتے ہیں اور انفرادی حالت کے اعتبار سے ان میں سے  
ہر ایک سے خطاب کیا جاتا ہے کہ اے ہمارے ولی بلاشبہ آج تو  
ہمارے نزدیک معزز و امین ہے اس مرتبہ میں پہنچ کر وہ اجازت  
کے محتاج نہیں رہتے کیونکہ اب وہ بمنزلہ ان حضرات کے ہیں جن  
کو ان کے کام سونپ دئے گئے ہیں اور وہ جہاں جاتے ہیں اور جہاں  
کام کرتے ہیں حق تعالیٰ شانہ کے قبضہ ہی میں رہتے ہیں اور اسی کی  
طرف سے کرتے ہیں اس ہی حقیقت کی طرف اشارہ نبی اکرم صلی  
کا یہ فرمان ذی شان کرتا ہے جسے آپ حضرت جبریل سے نقل کرتے



ارادت ان تعلم ان انا فانا في قلب التارك  
الوادع العفيف فالتارك هو الذي يترك  
مجهد وفيه بقية ثم من عليه ربه فودعه  
موتاعنه ثم عفا فلا يلتفت الى شيء سوى  
مولاه فان قيل فما تلك المنة التي من بها  
ربه عليه قلنا هي انه عز وجل اقام في المرتبة  
على شرطية اللزوم لها ليقوم بعافلما وفي  
له بالشرط ولم يبع عملا وحركة غير ذلك  
وحفظه ولم يتجاوز نقله منها الى ملك  
المجبروت ليقوم بخبر نفسه ثم قمعها بسلطان  
المجبروت حتى ذلت وخشعت ثم نقله منها  
الى الملك السلطان ليهدب فذابت تلك  
الغد والتي في نفسه وهي اصول تلك الشهوات  
التي قد صارت عادة ثابتة فيها ثم نقله  
منها الى ملك الجلال فادب ثم نقله منها  
الى ملك الجمال فنقى ثم نقله الى الملك العظمة  
فطهر ثم الى الملك اليهاء فطيب ثم الى ملك  
البهجة فوسع ثم الى ملك العيبة فزج  
ثم الى ملك الرحمة فزطب وقوى وشجع  
ثم الى ملك القدر دنيته فافرد فاللطف يغنيه  
والرأفة تجعته وتكثفه والمحبة تقويه  
والشوق يديته والمشية توديه اليه و  
الجواد العزيز قلبه فيقربه ثم يديته ثم  
يبهله ثم يوديه ثم يناجيه ثم يبسطه  
ثم يقبض عليه فاینما صار وفي كل مكان خال

ہیں اور حضرت جبرئیل حق تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا  
میرا بندہ فرانس ادا کر کے جو تقرب حاصل کرتا ہے کسی اور چیز سے حاصل نہیں  
کرتا اور وہ نوافل سے بھی میرا تقرب حاصل کرتا ہے ختم کر کے اس سے محبت  
ہو جاتی ہے اور جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کا کان  
آہنگھ ازبان ہاتھ پاؤں اور دل بن جاتا ہوں پھر وہ مجھی سے سنتا  
مجھی سے دیکھتا ہے مجھی سے بولتا ہے مجھ ہی سے سمجھتا ہے اور مجھ ہی سے  
پکڑتا ہے ہم نے یہ حدیث کتاب میں کئی جگہ بیان کی ہے کیونکہ یہ اس موضوع  
پر اصل دلیل ہے لہذا اس بندہ کا دل حق تعالیٰ جل مجدہ کی محبت سے  
اور نور و علم سے اور معرفت سے اس قدر بھر جاتا ہے کہ اس میں غیر کی  
گنجائش نہیں رہتی کیا آپ نے نبی اکرم صلعم کے اس قول پر غور نہیں کیا  
کہ جو اس شخص کو دیکھنا چاہے جو دل و جان سے اللہ سے محبت کرتا ہے  
تو اسے سالم مولیٰ البوحذیفہ کو دیکھنا چاہیے۔ ایسے شخص کا ظاہر اللہ  
تعالیٰ کے فعل سے متحرک و کار فرما ہے اور باطن اللہ کے نور سے بھرتا ہے  
ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا کہ اے رب میں تجھے کہاں ڈھونڈھوں  
فرمایا موسیٰ کھن گھر میں میں سما سکتا ہوں اور کونسی جگہ مجھے اٹھا سکتی  
ہے؟ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں کہاں ہوں تو میں نادک دنیا اور  
ذہر و پارسا کے دل میں ہوں لہذا نادک دنیا وہی ہے جو اپنی جد و جہد سے  
دنیا کو چھوڑ دے اور اس میں کچھ دنیا باقی بھی رہے پھر حق تعالیٰ شانہ  
اس پر اپنا احسان فرمائے اور باقی دنیا کو بھی ترک کر دے اور دنیا سے  
اپنے کو مردہ سمجھے پھر اس قدر پارسا اور نیک بن جائے کہ اپنے مالک  
کے سوا کسی چیز پر نظر ہی نہ ڈالے اگر کوئی پوچھے کہ وہ احسان کیا ہے  
جس نے اسے اس قدر پارسا بنا دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ  
نے اسے ایک مرتبہ بخشا اور اسے کھڑا کر دیا اور یہ شرط لگا دی کہ اسے  
چھپے ہو جب اس نے یہ شرط پوری کی اور اس کے سوا اس نے عمل  
تو عمل حرکت بھی نہیں کی اور اس کی حفاظت کی اور اس سے آگے

وفي كل حال لربه دان فهو في قبضته  
وامين من امنائه على اسرار الا وما يورد به  
من ربه الى خلقه فاذا صار الى هذا المحل  
فقد انقطعت الصفات وانقطع الكلام و  
العبارات فهذا هو منتهى العقول والقلوب  
وغاية ما تبلغ حالات الاولياء اليه  
وتتول وما وراء ذلك مختص بالانبياء  
والرسل عليهم السلام لان نهاية الوحي  
بداية النبي على الجميع صلوات الله وتحياته  
ورأفته ورحمته والفرق بين النبوة والولاية  
ان النبوة كلام يفصل من الله تعالى ووحى  
معه روح من الله يقضى الوحي ويختتمه بالروح  
منه تعالى قبوله فيقبله هذا هو الذي يلزم  
تصديقه ومن رده فهو كافر لانه راد  
لكلام الله عز وجل واما الولاية فهي  
من تولى الله عز وجل حديثه على طريق  
الالهام فاوصله اليه فله الحدیث  
فينفصل ذلك الحديث من الله على لسان  
الحق معه السكينة فتلقاه السكينة التي  
في قلب المجذوب فيقبله ويسكن اليه  
فالكلام للانبياء والحديث للاولياء  
فمن رد الكلام كفر لانه رد على الله  
كلامه ووحيه ومن رد الحديث لم يكفر  
بل يخيب ويصير وبالاعليه ويبيهت قلبه  
لانه رد على الحق ما جاء به محبة الله تعالى

نہیں بڑھا تو حق تعالیٰ نے اسے اس مرتبہ ملک جبروت کی طرف منتقل  
فرمادیا تاکہ وہاں پہنچ کر اپنے نفس پر جبر کرے پھر اس نے جبروت کی طرف  
سے اپنے نفس کو زیر کر لیا حتیٰ کہ اس کا نفس اس کا مطیع و منقاد  
بن گیا اور ذلیل و پست ہو گیا پھر اسے اس مرتبہ غالب شہنشاہ کی  
طرف منتقل کیا گیا تاکہ مہذب بن جائے لہذا اس کے نفس کے غرور  
جو شہوتوں کی جڑ ہیں پس پگھل گئے اور وہ دوسرے مرتبہ کے لئے  
تیار ہو گیا پھر حق تعالیٰ نے اسے ملک جلال کی طرف منتقل فرمادیا اور اسے  
ادب کی تعلیم دی پھر ملک جمال کی طرف لاکر اسے سچان پھٹک کر  
صاف کیا پھر ملک عظمت کی طرف منتقل کر کے اس کی نظیر فرمائی پھر  
ملک بہاء کی طرف منتقل کر کے پاکیزہ بنایا پھر ملک بہجت (خوشی)  
کی طرف منتقل کر کے فراخی اور وسعت عطا فرمائی پھر ملک ہدیت کی  
طرف منتقل کر کے شاداب، توی اور دلیر بنایا پھر ملک فردیت  
کی طرف منتقل کر کے توحید کا عادی بنایا لہذا اللہ کا لطف اسکی  
غذا ہے، اس کا پیار اس کی دلچسپی ہے اور اسے گھیرے ہوئے  
ہے، محبت اسے قوت پہنچا رہی ہے، شوق اسے دسمہم اللہ کے  
تربیب لارہا ہے، مشیت اسے اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ رہی ہے اور  
عزت والا عمدہ گھوڑا اسے لے جا رہا ہے، تربیب لارہا ہے اور رب  
کے پاس کر رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ کر ادب سکھاتا ہے پھر  
اس سے سرگوشی فرماتا ہے پھر اپنے فضل و احسان سے اس کا حوصلہ  
بند فرماتا ہے پھر اسے سمیٹ لیتا ہے اب وہ جہاں جاتا ہے جہاں ٹھہرتا  
ہے اور جہاں اترتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب کا مطیع رہتا ہے  
اور وہ اللہ کے قبضہ میں ہے اور اس کا امین ہے اور اس کے سرار کا راز دار  
ہے اور جو چیز اسے رب سے ملتی ہے اسے وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیتا ہے  
پھر جب وہ اس مقام تک پہنچ گیا تو صفتیں کٹ گئیں، کلام اور عبادتیں  
منقطع ہو گئیں، غرضیکہ ذات حق کی طرف پہنچنے کی یہی عقلوں اور دلوں کی



من علم الله في نفسه فادعه الحق وجعله  
مردی الی القلب لان الحدیث ما ظہر من علمہ  
الذی برز فی وقت المشیئة فیصیر حدیثا فی  
النفس کالسرا نما یقع ذلک الحدیث بحیثہ  
من اللہ لہذا العبد فی مضی مع الحق الی قلبہ  
فیقبلہ القلب بالسکینۃ۔

نتیجہ ہے اور حالات اولیاء کی حد و غایت ہے اور اس کے ماوراء انبیاء کے  
کرام کا خاصہ ہے کیونکہ اولیاء کی اتہام سے انبیاء کی ابتداء ہوتی ہے حق تعالیٰ  
شأن کی ان پر رحمتیں اور مسائفتیاں ہوں اور رانت و رحمت ہو۔  
**نبوت و ولایت میں فرق** | نبوت وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ سے  
جدا ہوتا ہے اور وہ وحی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح الای  
ہوتے ہیں یعنی وحی بواسطہ روح الامین ختم کی جاتی ہے اور انہیں کے

واسطے پہنچائی جاتی ہے اور انبیاء کرام اس وحی کو قبول فرماتے ہیں۔ وحی کی تصدیق لازم ہے اور وحی کا انکار کرنا الایا کا نکر ہے کیونکہ وہ حق تعالیٰ  
کے کلام کا انکار کر رہا ہے اور ولایت میں حق تعالیٰ اپنے ولی کے دل میں الہام کے طور پر کوئی بات ڈال دیتا ہے اور اس کے دل میں اس بات کا  
خیال پیدا کر دیتا ہے لہذا بات اللہ کی ہوتی ہے اور سچی زبان سے وہ بات نکلتی ہے اور اس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اس بات کو  
وہ سکون ہی حاصل کرتا ہے جو مجذوب کے دل میں ہوتا ہے اور اسے کھنڈے دل سے قبول کر لیتا ہے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ انبیاء سے کلام  
فرماتا ہے اور باتیں اولیاء کے دل میں ڈالتا ہے لہذا جو کلام کا انکار کرے وہ کافر ہے کیونکہ اس نے اللہ کا کلام اور اس کی وحی کا انکار کیا اور  
جو حدیث روئی کے الہام کا انکار کرے وہ کافر تو نہیں ہوتا ہاں فوائد سے محروم ہو جاتا ہے اور انکار اس کے لئے وبال و بلا ہن جاتا ہے  
اور اس کے دل میں تجر و تردد پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس حق کا انکار کیا جسے اللہ کے علم میں سے ولی کے نفس میں اللہ کی محبت سے کر  
آئی اور اسے حق تعالیٰ نے اپنے ولی کے دل میں بطور امانت کے رکھا اور ولی کے دل تک پہنچا یا کیونکہ حدیث وہ ہے جو اللہ کے علم سے مشیت  
کے وقت ابھرا تھا ظاہر ہوئی اور حدیث نفس ولی میں بمنزلہ راز کے ہوتی ہے اور یہ حدیث اللہ کی محبت کی وجہ سے ولی کے دل میں آتی ہے اور  
حق کے ساتھ اس کے دل میں کھلتی ہے اور اسے ولی کا دل سکون و دلجمعی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔

## اکیسواں باب

### مبتدی کے فرض شیخ کا ادب تربیت سلسلہ میں شیخ فرض کے

فالذی یجب علی المبتدی فی ہذا الطریقۃ  
الاعتقاد الصحیح الذی ہوا لاساس فیكون

مبتدی کے فرض | سلوک میں مبتدی کا پہلا فرض صحیح اعتقاد  
ہے جو اساس و بنیاد ہے یعنی سلف صالح کے عقیدے پر قائم ہو جانا

علی عقیدۃ السلف الصالح اهل السنة القدیمة  
 سنة الانبیاء والمرسلین والصحابة والتابعین  
 والاولیاء والصدیقین علی ما تقدم ذكره و  
 شرحه فی اثنا والکتاب تعلیه بالتمسک بالکتاب  
 والسنة والعمل بهما امر اولیہا اصلاح و فرعا  
 فی جعلها جناحیه بطیر بهما فی الطریق الوا  
 الی الله عزوجل ثم الصدق ثم الاجتهاد  
 حتی یجد الهدایة والارشاد الیه والدلیل  
 وقائد یقود لا ثم مؤسایونسه ومستراحا  
 یتریح الیه فی حالة اعیائه ونصیه و  
 ظلمته عند ثوران شهواته ولذاته  
 وهنات نفسه وهو الا المفضل وطبعه  
 المجبول علی التثبط والتوقف عن السیر  
 فی الطریق قال الله عزوجل والذین جاهدوا  
 فینا لنهدینهم سبلنا وقال الحکیم من  
 طلب وحده وجد فبالاعتقاد یحصل له  
 علم الحقیقة وبالاختصاص یتفق له سلوک  
 الحقیقة ثم یجب علیه ان یتخلص مع الله  
 عزوجل عهدا بان لا یرفع قدما فی طریقہ  
 الیه ولا یفنعها الا بالله ما لم یصل الی  
 الله فلا یتصرف عن قصد لا بسلامة ملیم  
 لان الصادق لا یرجع ولا بوجود کرامة  
 فلا یقف معها ویرضی بها عن الله عزوجل  
 عوضا اذ هی حجابہ عن ربه ما لم یصل الیه  
 عزوجل فاذا حصل الوصول لا تصرفه الکرامات

ارباب سنت قدیمہ ہیں جو انبیائے کرام و پیغمبران عظام کی قدیم سنت  
 ہے اور جس پر صحابہؓ تابعینؒ اولیاءؑ اور صدیقینؒ چلتے رہے اور  
 اس کی تفصیل و شرح اس کتاب میں گزر چکی ہے اس لئے مبتدی کا فرض  
 ہے کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور ان دونوں کے  
 اصولی و فروعی احکام پر سرگرم عمل رہے اور ان دونوں کو اپنے در  
 باز و دپر تصور کرے جن سے آڑ کر اللہ تک پہنچنے والے راستہ کو  
 طے کرنا چاہتا ہے اور سراسر فرض صحت ہے تیسرا فرض جد و جہد اور  
 روڑ و صوب ہے جب تک ہدایت و رہنمائی اور برہان و دلیل تک  
 رسائی حاصل نہ ہو، چوتھا فرض قائد و مؤنس کی تلاش ہے جو اس  
 راہ پر چلا سکے اور حوصلہ بڑھا تاکہ ارشاد دلاتا رہے اور ایسے  
 مستند شیخ کی جستجو ہے جس کے پاس تکان کے وقت سالک سستا سکے اور جب  
 شہوتوں اور لذتوں کا جوش ہو اور نفس کی برائیوں کا اور گمراہ کن ہوا کا  
 اور طبیعت کا جزر استہ ہی میں ٹھہر جانے کی عادی ہے زور شور سے  
 تکلیف و تاریکی کی حالت میں وہ اسے مفید مشورہ دے سکے حتیٰ تعالیٰ  
 نے فرمایا: جو ہماری طلب میں کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہم انہیں اپنی  
 راہیں سمجھا دیتے ہیں ایک حکیم کہتا ہے جو ڈھونڈ لگھے گا اور کوشش کرے  
 گا ضرور پالیکا (جو بندہ یا بندہ) صحیح عقائد سے سالک کو علم حقیقت  
 حاصل ہوگا اور کوشش سے راہ حقیقت پر چلنے کی واقفیت حاصل  
 ہوگی۔ پھر سالک پر فرض ہے کہ حق تعالیٰ شانہ سے پر خلوص عہد  
 کرے کہ اللہ تک پہنچانے والے راستہ پر اللہ کے قانون ہی کے مطابق  
 قدم اٹھاؤں گا اور اس کے آئین ہی کی روشنی میں قدم رکھوں گا اور  
 جب تک اللہ تک پہنچ نہ جاؤں دم نہیں لوں گا اس عہد کے بعد  
 راہ سلوک پر چل پڑے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے متاثر ہو کر  
 رکے نہیں کیونکہ مخلص و صادق راہ سے لڑتا نہیں کرتا اور اپنی بات کا  
 پکا ہوتا ہے اور اگر حق تعالیٰ کوئی کرامت عطا فرمادے تو اس پر



اذھی من باب القدرة وثمراتها وعلاماتها  
 ووصوله الى الحق عز وجل من القدرة فلا  
 ينقض الشيء نفسه وكيف وقد يفسر هو  
 حينئذ قدوة في الارض وخرق عادة و  
 كلامه حكمة بالغة من بعد جهل وعجمة  
 وبلادة وقصور وحرکاته وسكناته  
 وتصاريفه عبرة لمن اعتبرها وافعال الله تجرى  
 فيه وعليه ما يبهر العقول ثم قد يؤمر  
 حينئذ بطلب الكرامة ويجبر عليه وتحقق  
 عند ان دماره وهلاكه في ترك الطلب  
 ومخالفة هذا الامر وثباته وبقاؤه و  
 عبادته وقربته ومرئاة ربه ودلوه منه  
 وزيادة محبة ربه له في طلبها وامثال  
 امره فيها فكيف تفتر الكرامة حينئذ  
 ان يكون ذلك بينه وبين ربه عز وجل  
 ولا يظهره لاحد من العوام الا ان يغلب  
 عليه ظهوره لان من شرط الولاية كتمان  
 الكرامات ومن شروط النبوة والرسالة  
 اظهار المعجزات ليقع بذلك الفرق بين النبوة  
 والولاية ولا ينبغي له ان يعرج في اوطان  
 التقصير ولا يخاطب المقصرين والباطالين  
 ابناء قیل وقال اهداء الاعمال والتكاليف  
 المدعين للاسلام والایمان الذين قال  
 الله عز وجل في حقهم يا ايها الذين آمنوا  
 لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله

فناعت کر کے سفر سے رک نہ جائے کہ کرامت ہی کہ غرض سمجھ کر راضی  
 ہو جائے کیونکہ یہ کرامت رب سے حجاب ہے جب تک سالک حق تعالیٰ  
 تک پہنچ نہ جائے پہنچنے کے بعد کہ امتیں مفسر نہیں کیونکہ قدرت کے دروازوں  
 ثمرات اور علامات میں سے ایک قدرت، ثمرہ اور علامت ہے اور  
 حق تعالیٰ تک پہنچنا اس کی قدرت سے ہے اس لئے یہ چیز (کرامت)  
 فنا فی اللہ سالک کی ذات کے لئے مفسر نہیں بھلا کیسے مفسر ہو سکتی ہے  
 جب کہ اللہ تک پہنچا ہوا ولی اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اور کرامت  
 اللہ کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے اب ولی کی باتیں جہالت و خاموشی  
 اور کند ذہنی د کوتاہی کے بعد انتہائی اور چوٹی کی حکمتوں سے بھر پور  
 ہیں اور اس کی حرکات و سکنات اور تصرفات سبق حاصل کرنے والوں  
 کے لئے ایک سبق ہیں اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے افعال اس میں اور اس  
 پر جاری و ساری ہیں جن سے انسانی عقول حیران و دنگ ہیں، اس  
 مقام پر پہنچنے کے بعد کبھی اس ولی کو طلب کرامت کا حکم ہوتا ہے اور  
 اس سلسلہ میں اس پر جبر کیا جاتا ہے اور اسے اس بات پر یقین ہوتا  
 ہے کہ ترک طلب و مخالفت حکم باری میں اس کی تباہی اور ہلاکت ہے  
 اور طلب کرامت میں اور حق تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں اسے  
 ثبات و بقا عبادت و تقرب، رضا و محبت اور قرب حاصل ہوتا  
 ہے اس لئے کرامت اس کے حق میں کیسے مفسر ثابت ہو سکتی ہے۔  
 یہ طلب ولی کے اور اللہ ہی کے درمیان رہتی ہے اور وہ اسے کسی  
 پر ظاہر نہیں کرتا ہاں اگر اس کا ظہور ہی اس پر غالب آجائے تو  
 دوسری بات ہے کیونکہ ولایت کی ایک شرط کرامت کو چھپانا بھی  
 ہے اور نبوت و رسالت کی ایک شرط معجزات کا اظہار کرنا بھی ہے  
 تاکہ اس طرح نبوت و ولایت میں فرق واضح ہو جائے۔

مبتدی کے لئے لازم ہے کہ کوتاہیوں کے مقامات پر کھڑا نہ ہو اور  
 ان سے الگ تھلگ رہے جو کوتاہی کرنے والے جھوٹے / فرزند ان

ان تقولوا ما لا تفعلون وقال في اختها انا مرد  
الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون  
الكتاب افلا تعقلون وينبغي له ان لا يرضن  
ببذل الميسور ولا يبخل بالموجود خوفا ان ينال  
مثله للاقطار والسحور ويقطع في نفسه وتقلبه  
علما بان الله لم يخلق ولياله في سالف الدهور  
بجلا ببذل الميسور وينبغي له ان يرضى بالذل  
الدائم وحرمان النصيب والجوع الدائم  
والخمول وذم الناس له وتقديم اضرابه و  
اشكاله واقرانه عليه في الاكرام والعطاء  
والتقريب عند الشيوخ وجمالس العلماء فيجوع  
هو والجماعة يشبعون والكل اعزاء و  
نصيبه الذل ويعز الجميع ويكون يستخير  
لنفسه الذل ويجعله نصيبه ومن لم يرض  
بهذا وليوطن نفسه عليه فلا يكاد ان يقيم  
عليه ويحیی منه شيء فالنجاح الكلي و  
الفلاح فيما ذكرنا وينبغي له ان لا ينتظر  
من الله مطلوبا سوى المغفرة لما سلف  
من الذنوب والعصمة فيما ياتي من الدهور  
والتوفيق لما يجبه من الساعات وليوصله  
اليه من القربيات ثم الرضا عنه في الحركات  
والسكنات والتجيب الى الشيوخ من الاولياء  
والابدال اذ ذاك سبب لدخوله في زمرة  
الاحباب ذوي العقول والالباب الذين  
عقلوا من رب الارباب واطلعوا على العبر

تیل و قال اعمال ذکا لیبف کے دشمن اور اسلام و ایمان کے دعویدار  
ہیں فرمایا: اے ایمان والو تم وہ باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہو جن  
پر خود عمل نہیں کرتے اس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے کہ تم کہو اور  
ان پر عمل نہ کرو دوسری جگہ فرمایا: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور  
اپنے آپ کو مبہول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو پھر کیا تم  
سمجھتے نہیں۔ مبتدی کا فرض ہے کہ اسے جو کچھ میسر ہے اس کے خرچ  
کرنے میں بخل نہ کرے اور موجود کے بارے میں یہ خیال نہ کرے کہ  
یہ نعمت اگر اب خرچ کر لی جائے تو انظار یا سحری کے وقت نہیں ملے  
گی اور دل و جان سے اس پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کسی  
بخیل کو اپنا ولی نہیں بنایا کہ وہ حاضر نعمت کو پھر نہ بننے کے ڈر سے  
خرچ نہ کرتا ہو۔ مبتدی کا فرض ہے کہ وہ دائمی انکساری، حرام نصیبی  
دائم بھوک، گنہگاروں کی طعن و تشنیع پر صابر و شاکر رہے  
اور خاطر، تواضع اور عطاء میں اپنے ہم جنسوں اور بھائیوں کو اپنے  
پر ترجیح دے اور شیوخ و علماء کی مجلسوں میں لپک کر سب سے  
پہلے جائے۔ مبتدی بھوکا رہے اور جماعت پیٹ بھر کر کھائے،  
سب کو عزت حاصل ہو اور یہ خود کو سب سے گرا ہوا سمجھے۔  
اخلاق سب سے کرنا بخیر ہے تو یہ ہے: خاک آپکو سمجھنا اکیر ہے تو یہ ہے  
وہ سب کی عزت کرے اور اپنے لئے ذلت و عجز کو اختیار کرے اور  
اسی کو اپنا حصہ سمجھے اگر مبتدی اس پر راضی نہ ہو اور اپنے نفس  
کو عجز و ذلت پر دبا کر نہ رکھے تو اسے فلاح کا حاصل ہونا کارے  
دار اور وہ اس راہ میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا پوری کامرانی  
اور فلاح اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے جس طرح ہم نے بتائی ہے۔  
مبتدی کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف گناہوں کی مغفرت  
آئندہ کے لئے عصمت پسندیدہ طاقتوں کی توفیق پر فائدہ تقرب کا  
جذبہ اور آئین شرع کی پابندی کی توفیق طلب کرے اور شیوخ



والآیات فصفت حينئذ القلوب والضمائر  
والنيات فهذا الذي ذكرته صفة المرید  
فلما لم يتجر قلبه عن جميع الطلبات  
والمآرب ويتنفي عن غيرها ما ذكرنا من  
الحوائج والمطالب لا يكون مریدا علی  
نعت الاستحقاق

**فصل** : واما آدابہ مع الشیخ فالواجب  
علیه ترك مخالفة شیخه فی الظاهر وترك  
الاعتراض علیہ فی الباطن فصاحب العصیان  
بظاہرہ تارك لا دبه وصاحب الاعتراض  
بسرہ متعرض لعطبه بل یكون خصما علی  
نفسه لشیخه ابدایکف نفسه ویزجرها  
عن مخالفته ظاهرا وباطنا ویكثر قراءه  
قوله عز وجل ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین  
سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا  
للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم واذا  
ظهر له من الشیخ ما یکره فی الشرع استخبر  
عن ذلك بضرب المثل والاشارة ولا  
یصرح به لئلا ینفر به علیہ وان رأى فیہ  
عیبا من العیوب ستره علیہ ولیجود بالثمة  
علی نفسه ویتاویل للشیخ فی الشرع فان لم  
یحصل له عذرا فی الشرع استغفر للشیخ ودعا  
له بالتوفیق والعلم والتیقظ والعصمة والحیة  
ولا یعتقد فیہ العصمة ولا یخبر احدا به  
واذا رجع الیه یوما اخر او ساعة اخرى

راولیا وابدال) سے پر خلوص محبت کرے کیونکہ یہ واحد سبب ہے  
کہ وہ ان ارباب ہوش و عقل کے زمرہ میں شامل ہو جائے جو التبت  
کے سچے دوست ہیں اور رب الارباب کی طرف سے نعم و ذکاوت کے مالک ہیں اور  
عزتوں اور نشانات سے واقف ہیں اور ان کے دل خیالات اور نتیجہ میں پاک  
وصاف ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے یہی مرید و مبتدی کی صفات  
ہیں لہذا جب تک مرید کا دل تمام حاجتوں اور امیدوں سے مجرور نہ  
ہوگا اور ان سے پاک و صاف نہ ہوگا وہ مرید کہلانے کا مستحق نہ ہوگا  
شیخ کے لئے مرید کے آداب | مرید کا فرض ہے کہ ظاہر میں  
شیخ کی مخالفت نہ کرے اور باطن میں اس پر اعتراض نہ کرے۔  
بظاہر آداب شیخ کو چھوڑنے والا گنہ گار اور باطن میں طعن کرنیوالا  
ہلاکت کو لگا رہا ہے بلکہ مرید ہمیشہ اپنے شیخ کی خاطر اپنے نفس سے  
دشمنی رکھے اور اپنے نفس کو ظاہر و باطن میں شیخ کی مخالفت سے روکے  
اور ڈانٹتا ہے اور کثرت سے یہ آیت پڑھتا رہے: یا اللہ ہمیں اور  
ہمارے بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے پہلے کر گئے بخش دے اور  
ہمارے رب ہمارے دلوں میں مومنوں کی طرف سے کینہ نہ رکھے  
بلاشبہ تو انتہائی شفیق و مہربان ہے۔ اگر شیخ سے کوئی کام خلاف  
شرع سرزد ہو تو شیخ کو اشارے کناٹے سے متنبہ کرے صراحت نہ  
کرے تاکہ شیخ کو مرید سے نفرت نہ ہو اور اگر مرید شیخ میں کوئی عیب  
پائے تو اس پر پردہ ڈال دے اور اپنے نفس پر الزام غاند کرے اور  
شیخ کی عصمت کے لئے کوئی شرعی تاویل ڈھونڈھے اور اگر کوئی عیب  
عذر نہ مل سکے تو شیخ کے لئے مغفرت کی دعا مانگے اور توفیق، علم،  
تنبہ اور عصمت و اجتناب کی دعا مانگے اور یہ عقیدہ نہ رکھے کہ میرا  
شیخ معصوم ہے علاوہ ازیں شیخ کے عیب کو کسی پر ظاہر نہ کرے اور  
جب کسی دن کسی وقت شیخ کے پاس جائے تو یہ خیال لیکر جائے کہ  
اب وہ عیب شیخ سے جاتا رہا ہوگا اور وہ اپنے مرتبہ سے اونچے مرتبہ

يعتقد ان ذلك قد زال وان الشيخ قد نقل الى  
 ما هو اهل رتبة ولم يقر عليه وانما كان  
 ذلك غفلة وحدثا وفلا بين الحالين لان  
 لكل حالين فملا ورجوعا الى رخص الشرع  
 وابطاحته وترك العزيمة والاشد كالداهليز  
 بين الدارين والمنزلة بين المنزلتين انتشاء  
 للحالة الاولى وقيام اهل عتبة الحالة الثانية  
 وانتقال من ولاية الى اخرى وخلع خلعة ولاية  
 وليس خلعة ولاية اخرى التي هي الالهي  
 والاشرف لانهم كل يوم في مزيد قرب من  
 الله عز وجل واذا غصب الشيخ وعيس في  
 وجهه او ظهر منه نوع اعراض عنه  
 لم ينقطع عنه بل يفتش باطنه وما جرى  
 منه من سوء الادب في حق الشيخ او التفريط  
 فيما يعود الى امر الله عز وجل من ترك  
 امثال الامور ارتكاب النهي فليستغفر  
 ربه عز وجل وليتب اليه ويعزم على ترك  
 المعاودة اليه ثم يعتذر الى الشيخ ويتذلل  
 له ويتملقه ويتحجب اليه بترك المخالفة  
 له في المستقبل ويد او مر على المرافقة له  
 وواجب عليها في جعله وسيلة وواسطة  
 بينه وبين ربه عز وجل وطريقا وسببا  
 يتوصل به اليه كمن يريد الدخول على  
 ملك ولا معرفة له به فانه لا بد له من  
 ان يبادف حاجبا من حجاب او واحدا

پر منتقل ہو گئے ہوں گے اور خلاف شرع بات غفلت کی وجہ سے معرض  
 وجود میں آئی اور در حالتوں میں علیحدگی کے اعتبار سے پائی گئی کیونکہ  
 یہ حالت رخصت و اباحت اور ترک عزیمت و سخت اعمال کے درمیان  
 بنزلہ اس چوکھٹ کے ہے جو در گھروں کے درمیان ہے اور مثل اس  
 مرتبہ کے ہے جو در مرتبوں کے درمیان ہے کہ شیخ پہلی حالت ختم کر کے  
 دوسری حالت کی چوکھٹ پر آکھڑے ہوئے ہیں اور ایک ولایت  
 سے دوسری ولایت کی طرف منتقل ہو گئے ہیں اور ایک ولایت کا جو  
 اتار کر دوسری ولایت کا جوڑا پہن لیا ہے جو پہلے سے اعلیٰ اور  
 قیمتی ہے کیونکہ اولیاء کو روزانہ اللہ سے مزید قرب حاصل ہوتا  
 رہتا ہے۔

اگر شیخ ناراض یا ترش رہے جو جئے یا کسی قسم کے اعراض کا اظہار  
 کرے تو سر پر شیخ سے بدظن ہو کر قطع تعلق نہ کرے بلکہ شیخ کے غم و غصہ  
 کی وجہ تلاش کی جائے اور شیخ کی شان میں جو بے ادبی اور گستاخی یا  
 حقون اللہ میں جو کمی معرض وجود میں آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کسی  
 حکم کی تعمیل نہ کی ہو اور کسی حرام سے نفس کو نہ رد کا ہو تو حق تعالیٰ  
 جل مجدہ سے دعائے مغفرت کرے اور پر خلوص توبہ کرے اور آئندہ  
 اس قسم کی حرکت نہ کرنے کا عزم مصمم کرے اور شیخ سے معافی مانگ  
 لے اور خوشامد در آمد کر کے اسے منالے اور مستقبل میں ترک مخالفت  
 کا یقین دلا کہ شیخ کی محبت حاصل کر لے اور ہمیشہ شیخ کے موافق رہے  
 اور اسے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھ لے اور راہ  
 و سبب تصور کر لے جس کے ذریعہ اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے جیسے  
 کوئی بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے اور اسے براہ راست بادشاہ تک  
 رسائی حاصل نہیں اس لئے اسے لازمی طور پر بادشاہ کے کسی دربار  
 سے یا کسی خادم سے یا کسی رازدار سے دستی کرنی پڑتی ہے  
 تاکہ وہ اسے بادشاہ کی سیاست، عادت، اخصلت اور خوبو



من حواشيه و خواصه لي بصيرة سياسية  
 الملك و دأبه و عاداته و يتعلم الادب بين  
 يديه و المناظرة له و ما يهلم له من الهدايا  
 و الطرائف ما ليس مثلها في خزانته و مما  
 يؤثر الاستكثار فليات البيت من بابه و لا  
 يتسلق من ورائه من غير بابه فيلا م و يبهان  
 لا يبلغ الغرض من الملك و لا المقصود منه  
 و لكل داخل دهنه لا بد له من تذكرة و منته  
 و من ياخذ بيد لا فيفعد لا موضع مثله او يثير  
 اليه بذلك لئلا تنطرق اليه المهانة و لا يثار  
 اليه بسوء الادب و الحماقة و ليتحقق بان الله  
 عز و جل اجري العادة بان يكون في الارض  
 شيخ و مرید صاحب و مصحوب تابع و متبوع  
 من لدن آدم الى ان تقوم الساعة الا تری الى  
 آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى علمه  
 الاسماء كلها و اتمم الامر به فجعله كالتلميذ  
 مع الاستاذ و المرید مع الشيخ و قال له يا آدم  
 هذا فرس و هذا بقل و هذا احمار حتى علمه  
 فصحة و قصبعة ثم لما فرغ من تعليمه و تهنئ به  
 جعله استاذاً معلماً شيخاً حكيماً و كساها بالواع  
 الحلل و الحلى و توجه منطقة و اجلسه على كرسی  
 في الجنة و اقام الملائكة حوله صفوا فقال  
 يا آدم انبئهم باسمائهم بعد ان ظهر عجز  
 هم و عدم علمهم لك و قولهم سبحانك  
 لا علم لنا الا ما علمتنا فصارت الملائكة

آگاہ کرے اور بادشاہ سے ملاقات کے اور گفتگو کے آداب بتادے اور بادشاہ  
 کی شان کے لائق تحفے تحائف بھی جو اس کے خزانہ میں نہ ہوں یا جن کی وہ  
 کثرت چاہتا ہو بتادے تاکہ وہ ان تمام چیزوں کی معلومات حاصل کر کے  
 صحیح طریقہ سے بادشاہ کے پاس جا کے اور چور دروازے سے نہ جائے کہ  
 قابل ملامت ٹھہرے اور ذلیل ہو اور بادشاہ کے پاس جانے کی جو غرض  
 و غایت ہے وہ اسے حاصل نہ ہو۔ بادشاہ کے پاس ہر جانے والے پر  
 دہشت طاری ہوتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی راہبر و قائد مل جائے  
 جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مناسب جگہ بٹھادے یا مناسب جگہ کی طرف  
 اشارہ کر دے تاکہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی یہ کہنے نہ پائے  
 کہ بڑا بد تمیز و احمق تھا اور شاہی دربار کے کسی ادب سے بھی واقف نہ  
 تھا اور جاہل مطلق تھا۔ مرید کو یقین کر لینا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی  
 حضرت آدم کے زمانہ سے لے کر قیامت تک یہ عادت ہے اور رہیگی۔  
 کہ دنیا میں شیوخ ہوں اور ان کے مرید ہوں، کوئی صاحب ہو اور اس  
 کے ماننے والے ہوں اور کوئی تابع ہو اور اس کے پیرو کار ہوں آپ نے  
 حضرت آدم کی حالت پر غور نہیں کیا حق تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا  
 آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور آپ سے دنیا کا آغاز فرمایا  
 اور آپ کو گویا اپنا شاگرد بنایا اور خود استاد بنا اور آپ کو مرید  
 بنایا اور خود شیخ بنا اور حضرت آدم سے فرمایا کہ اے آدم یہ گھوڑا  
 ہے، یہ بچہ ہے اور یہ گدھا ہے حتیٰ کہ آپ کو چھوٹے اور بڑے پیالوں  
 کے نام بھی بتادے پھر جب آدم نارغ التحصیل ہو گئے تو حق تعالیٰ  
 نے آپ کو استاد، معلم، شیخ اور حکیم بنا دیا اور قسم قسم کے جوڑوں اور  
 زیورات سے آراستہ فرما دیا اور گفتگو کا سرسبز تاج رکھ دیا اور جنت  
 میں ایک کرسی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد فرشتوں کی قطاریں کھڑی  
 کر دیں اور فرمایا آدم! فرشتوں کو چیزوں کے نام بتادو۔ یہ حکم حضرت  
 آدم کو جب ہوا جب فرشتوں کا عجز ظاہر ہو گیا اور انھوں نے انرا کہ

تلا میڈ لآدم و آدم شیخہم فانباہم  
 باسواء الاشیاء کلہا علی ما شہد بہ القرآن  
 فظہر فضلہ علیہ السلام علیہم فصار افضلہم  
 و اشرفہم عند اللہ وعندہم فصار متبوعہم  
 و ہم تابعون مقتدون صلوات اللہ علیہم  
 فلما جری ماجری من اکل الشجرۃ و الخروج  
 من الجنۃ و الانتقال الی حالۃ اخری و منزل  
 غیرہ لم یعط علمہ ولم یتوطنہ بعد و لا  
 جری ذلک فی خلدہ و لا ظن انہ سبب  
 بہ الیہ فلما وصل الی المنزل و جال فی الارض  
 استوحش منہا و رأی فیہا ما لم یکن رآہ  
 من قبل فالقی علیہ الجوع و العطش و الحرقة  
 و القبح ما لم یعہد بہ من قبل احتاج الی  
 معلم و مرشد و استاذ و دلیل و مودب و منبہ  
 فیعت اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام فآتہ  
 و عرفہ ما اشکل علیہ من امر المنزل و اعطاہ  
 الخنطۃ فامرہ فیدرہا ثم امرہ فحصدہا  
 ثم امرہ فذراہا فطحنہا و هیالہ اسبابہا  
 ثم امرہ بالخبز فخبزہا ثم امرہ بالاکل  
 فاکل ثم لما طلب الطعام الخروج من  
 المعدۃ تخیر و لم یعلم بالصنع احتاج  
 الی معلم ایضا فعلمہ کیف یتغوط و  
 کیف یتطہر و کیف یعبد اللہ تعالیٰ فی  
 المنزل و علمہ کیف یتوصل الی بیاض  
 جسدہ الذی قد حال لونه من البیاض

لیا کہ ہم چیزوں کے نام نہیں جانتے اور صاف صاف کہہ دیا کہ اے  
 حق تعالیٰ سبحانہ ہمیں اس کے سوا جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے کچھ  
 اور علم نہیں۔ نتیجہ صاف ہے کہ حضرت آدم فرشتوں کے شیخ اور فرشتے  
 حضرت آدم کے شاگرد ہیں حضرت آدم نے فرشتوں کو تمام نام بتا دیے۔  
 جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے اس سے فرشتوں پر آپ کی فضیلت ثابت  
 ہوئی اور اللہ کے نزدیک اور فرشتوں کے نزدیک آپ فرشتوں سے افضل  
 و اشرف ٹھہرے اور فرشتے آپ کے اطاعت گزار و پیرو کار ہوئے اور  
 آپ ان کے امام و مقتدی بنے پھر حضرت آدم کو مستقبل میں جو انسان  
 و اقعات پیش آئے کہ آپ نے ممنوعہ درخت کا پھل کھایا، جنت سے  
 نکالے گئے اور سری حالت و منزل کی طرف منتقل کر دیئے گئے جس کا آپ  
 کو وہم و گمان بھی نہ تھا اور آپ نے اس نئی منزل کو اپنا وطن نہیں سمجھا  
 بلکہ اس کا آپ کے دل میں تصور بھی نہیں آیا اور نہ آپ کو اس کا خیال  
 تھا کہ مجھے اس نئی منزل میں بھیجا جائے گا لیکن بد قسمتی سے اس نئی منزل  
 میں آنا پڑا اور جب اس میں آگئے تو آپ کو وحشت ہوئی اور اس  
 اداس رہنے لگے کیونکہ یہاں وہ ناسازگار حالات دیکھنے پڑے جن کو  
 آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا یہاں آپ کو بھوک، پیاس، سوزش اور  
 تپش سے دوچار ہونا پڑا جس کے آپ عادی نہ تھے لہذا آپ کو  
 معلم، مرشد، استاذ، رہنما، مودب، تربیت دینے والا اور چکانا  
 کر دینے والے کی ضرورت پڑی آخر کار حق تعالیٰ نے حضرت جبریل کو  
 آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت جبریل نے آپ کو مانوس بنایا، ڈھارس  
 دلائی اور اس منزل کے مشکل مسائل کا حل بتایا اور آپ کو گیہوں کے  
 دانے دئے کہ انہیں زمین میں بوڈ پھریک جانے کے بعد انہیں کاٹنے  
 کا حکم دیا پھر آپ کے حکم سے انہیں بھوسہ بنا کر بھوسہ سے دانے  
 الگ کئے گئے پھر آپ کے حکم سے دانے پیسے گئے، آٹا گوندھا گیا،  
 روٹی پکانی گئی اور حضرت جبریل نے آپ کے لئے ان تمام چیزوں کو



والاشراق الی السواد والظلمۃ فامرہ بصیام  
ایام البیض من الشهر ثالث عشر و رابع  
عشر وخامس عشر فعاد لومہ الی البیاض  
وعلمہ غیر ذلک من العلوم والاداب فصار  
آدم علیہ السلام تلمیذ الجبریل علیہ السلام  
استاذہ وشیخہ بعد ان کان آدم شیخہ  
والملائکۃ اجتمع وکتبوا عنہم واعلمہم  
کل ذلک لتغیر الحال بہ والانتقال من منزل  
الی آخر ثم ہلم جرا تعلم شیت بن آدم من  
ابہ آدم ثم اولادہ منہ وکذلک نوح  
النبی علیہ السلام معلم اولادہ و ابراہیم  
علیہ السلام معلم اولادہ قال اللہ تعالیٰ  
ووصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب ایامہم  
وعلمہم وکذلک موسیٰ و ہارون  
علیہما السلام علما اولادہما و بنی  
اسرائیل و عیسیٰ علیہ السلام معلم الحواریین  
ثم ان جبریل علیہ السلام علم نبینا صلی اللہ  
علیہ وسلم الوضوء والصلاۃ و صاۃ بالسواک  
وہو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم و صانی جبریل  
بالسواک حتی کاد ان یفرغہ و صلی جی  
جبریل علیہ السلام عند البیت مرتین  
فصلی بی الظہر حین زالت الشمس الحدیث  
الی آخرہ وقد نقص ذکرہ ثم تعلبت  
المحابة رضی اللہ عنہم منہ صلی اللہ  
علیہ وسلم ثم التالعون منہم ثم تالعو

حاصل کرنے کے لئے اسباب فراہم کئے پھر روٹی کھائی گئی پھر جب کھانے کے نفسانہ  
نے معدہ سے نکلنا چاہا تو حیران ہوئے کہ اب کیا کروں پھر حضرت جبریل پانچ دن  
کمنے کا اور استنجے کا طریقہ بتایا اور اللہ کی عبادت کے طریقے بتائے پیسے آپ  
مترج و سفید تھے لیکن دنیا میں آکر سیاہ و تاریک بن گئے تھے حضرت جبریل  
نے بتایا کہ آپ ایام بیض (ہر ماہ کی ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخ) کا روزہ رکھا  
کریں آپ کا سابق رنگ بحال ہو جائے گا چنانچہ آپ کا رنگ بحال ہو گیا  
حضرت جبریل نے آپ کو اور بھی علوم و آداب سکھائے اب حضرت آدم  
جبریل کے شاگرد بنے اور حضرت جبریل آپ کے استاذ اور شیخ بنے جبکہ  
آپ حضرت جبریل کے اور تمام فرشتوں کے استاذ و شیخ تھے اور سب سے  
زیادہ عالم تھے آپ کے حالات میں انقلاب انتقال مکانی کی وجہ سے ہوا  
پھر تعلیم و علم کا سلسلہ جاری ہوا اور قیامت تک رہے گا حضرت شیت  
بن آدم نے اپنے والد حضرت آدم سے پڑھا پھر شیت کی اولاد نے شیت  
سے پڑھا علیٰ ہذا القیاس حضرت نوح کی اولاد نے حضرت نوح سے  
پڑھا اور حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو تعلیم دی حق تعالیٰ نے فرمایا  
اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور یعقوب (پوتے) کو عبادت کی تعلیم  
دی اور تاکید دی حکم فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے  
اپنی اولاد کو اور بنی اسرائیل کو تعلیم دی حضرت عیسیٰ نے حواریوں کو تعلیم  
دی پھر حضرت جبریل نے ہمارے محبوب نبی کو وضو، نماز اور سواک وغیرہ  
کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا: جبریل نے مجھے سواک کرنے کی وصیت  
کی، دوسری روایت میں یہ زیادہ ہے ختمے کہ میرے منہ میں دانت رہیں  
فرماتے ہیں، مجھے بیت اللہ کے پاس حضرت جبریل نے دو دفعہ نماز  
پڑھائی اور زوال کے بعد طہر کی نماز پڑھائی (آخر حدیث تک) اس  
پوری حدیث کا ترجمہ اوپر گزر چکا ہے پھر آپ سے صحابہ نے اصحابہ  
سے تابعین نے اور تابعین سے تبع تابعین نے اپنے اپنے زمانوں  
میں تعلیم و تربیت حاصل کی لہذا کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے ساتھی

التابعین منهم قرنا بعد قرن وعصر بعد عصر فما  
من نبی الا وله صاحب یهدی بہداه و  
یقو اثره ویتبع مذہبہ ویہدی ہدیہ ثم  
یخلفہ مکانہ ویقوم مقامہ کبوسی بن عمران  
وغلامہ وابن اختہ یوشع بن نون علیہم السلام  
والحواریین مع عیسیٰ علیہ السلام وابی بکر وعمر  
رضی اللہ عنہما مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
وکذلك عثمان وعلی وسانر الصحابة رضی اللہ  
عنہم وما زالت الاولیاء والصدیقون والابداء  
کذلک من بین استاذ وتلمیذ کالحسن البصری  
وتلمیذہ عتبۃ الغلام وسوری السقطی وغلامہ  
وابن اختہ ابی القاسم الجنید وغيرہم ما  
یطول شرحہ فالمشایخ ہم الطریق الی اللہ عزوجل  
والادلاء علیہ والباب الذی ینزل منہ الیہ  
فلا بد لکل مرید للہ عزوجل من شیخ علی ما بینا  
الاعلیٰ النور والشذوذ فیجوز ان یمضی اللہ  
عبد امن عبادہ لا یتولی تربیتہ وحر استہ عن  
الشیطان وھنات النفس والھوی کا ابراہیم  
النبی ونبیہا محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہما  
واولیس القرنی من الاولیاء وغيرہم رحمہم اللہ  
فلا ینکر الا انا بینا ما ہوا الا غلب والاکثر  
والاسلم والا حسن فلا ینبغی لہ ان ینقطع عن  
الشیخ حتی یمتحنی عنہ بالوصول الی ربہ عزوجل  
فیتولی تبارک وتعالیٰ تربیتہ وتمہذیبہ ولوقفہ  
علی معافی اشیاء خفیة علی الشیخ ویتعملہ

نہ ہوں ہی ساتھی اس کی ہدایات پر عمل پیرا اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے  
ہوتے ہیں اس کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے طریقہ کو سینوں  
سے لگاتے ہیں پھر اپنے پیچھے اس مقصد کے لئے اپنے جانثین و قائم مقام چھوڑ  
جاتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ نے اپنے غلام کو اور اپنے بھانجے یوشع بن  
نون کو چھوڑا، حضرت عیسیٰ نے حواریین کو چھوڑا اور پیغمبر اسلام نے  
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام کو چھوڑا  
اسی طرح اولیاء صدیقین ابدال شاگرد و استاذ بنتے چھوڑ آئے ہیں  
جیسے حسن بصری نے اپنے شاگرد رشید عتبہ بن غلام کو چھوڑا، سوری  
سقطی نے اپنے غلام اور بھانجے ابوالقاسم جنید کو چھوڑا انہیں پر  
دیگر حضرات کا قیاس کر لیجئے۔ الغرض اللہ تک پہنچنے کے لئے مشایخ  
اللہ کی راہ ہیں اللہ کی راہ کو بتانے والے ہیں اور وہ دروازہ ہیں جس  
میں داخل ہو کر انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے  
پر طالب حق کے لئے شیخ کے بغیر چارہ نہیں یہ دوسری بات ہے کہ  
حق تعالیٰ شاذ و نادر اپنے کسی بندے کو چن کر خود اسے تعلیم و تربیت  
دے اور اسے شیطان سے اور نفس و ہوس کی برائیوں سے محفوظ  
رکھے جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ہمارے محبوب نبی حبیب اللہ  
صلوات اللہ علیہم و تسلیما تھے اور اولیاء میں سے اولیس قرن وغیرہ  
تھے مگر اغلب و اکثر اور اچھا اور سلامتی والا راستہ وہی ہے جو  
ہم نے بتایا کہ ہر مرید کے لئے شیخ کا ہونا ضروری ہے اور مرید شیخ کو  
ہرگز ہرگز نہ چھوڑے جب تک منزل کی آخری حد تک پہنچ کر حق تعالیٰ  
کے دربار معرفت تک حضور ہی حاصل نہ کر لے اب وہ شیخ سے مستغنی ہو  
سکتا ہے کیونکہ اب اس کی تربیت و تمہذیب حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ  
لے لی ہے اور حق تعالیٰ اب اسے اس کی صلاحیت کے مطابق ایسے  
ایسے امرار سے آگاہ فرمادے گا کہ شاید اس کے شیخ بھی ان سے  
آگاہ نہ ہوں اور حق تعالیٰ شانہ اپنی مرضی کے مطابق اس سے



مباشراً من الاعمال ویا مراً وینہا لا ویسطہ  
 و یقبضہ و یغنیہ و یفقروہ و یلقنہ و یطلعه علی  
 اقسامہ و ما سیئول امرہ الیہ فیستغنی بریہ  
 عن غیرہ بل لا یتفرع لغيرہ ولا یسعه الامراة  
 الادب لربہ و محافظۃ خدمتہ و حرمتہ و توقیر  
 فحیث یقطع عن الشیخ قطعاً و ربما حرماً علیہ  
 المرور الی الشیخ الا یمن صریح و خبر بین الاما  
 یتفق علیہ الشیخ الیہ او الملاقاة لہ فی طریق او  
 جامع قدر او لا یكون قصد اکل ذلك حفظا  
 للحال و استغناء بالرب و غیرة علی الحال  
 و ملازمة لہا و خيفة من الزلة و المفارقة  
 لہا و العقوبة بذلک و ذلك ان المحکم  
 یجمع المرید و الشیخ و یسعهما و الاحوال  
 تفرق بینہما لانہا قدر و القدر غیب فہی  
 فعل الرب عزوجل و اللہ تعالیٰ فی کل یوم  
 ہو فی شأن فی تقدیم و تاخیر و تبدیل و تغیر  
 و ولایۃ و عزل و اغناء و افقار و اعزاز  
 و اذلال یسوق المقادیر الی المواقیت لا یدرک  
 ذلك ولا ینفبط لاحد من الخلق لیل مظلم  
 و بحر لحي و بر شاسع لا یحیط بشیء من ذلك الا  
 اللہ عزوجل و من یطلعه اللہ تعالیٰ علیہ من  
 رسلہ و انبیائہ و خواص اولیائہ فالاشنان  
 من الاولیاء لا یتفقان فی طریق بعد دخولہما  
 الی ہی القدر و الفعل فما یمنع المرید بالشیخ  
 و طریقہما مختلفۃ فالشیخ یرید الی جہۃ

لے گا اور کچھ کاموں کا حکم فرمائے گا اور کچھ کاموں سے روک دے گا اور  
 حسب مصلحت اس کی حالت میں بطور قبض فرمائے گا اور کبھی مال دار  
 بنا دے گا اور کبھی نادار اور اسے علوم سکھائے گا اور علوم کے اقسام  
 پر آگاہ فرمادے گا اور کاموں کے مراجع پر آگاہ فرمادے گا یعنی بعض  
 اوقات قبل از عمل نتائج سے بھی آگاہ فرمادے گا اور وہ اپنے رب کے  
 معلم ہونے کی وجہ سے دوسروں سے بے نیاز رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ  
 کے علاوہ کسی دوسری طرف اس کا دھیان ہی نہ جائے گا اور اپنے  
 رب کے آداب ہی پیش نظر رکھے گا اور دل و جان سے اس کی خدمت  
 اور احترام و توقیر کی محافظت کرتا رہے گا اس حالت پر پہنچ کر  
 اگر وہ شیخ سے رابطہ منقطع کر لے تو کہہ سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے  
 کہ اسے شیخ کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس پر شیخ کے پاس  
 جانا حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی صریح  
 حکم اور واضح خبر نہ آجائے یہ دوسری بات ہے کہ اتفاقاً شیخ ہی اس کے  
 پاس آجائیں یا اتفاقاً سے سر راہ یا جامع مسجد میں ملاقات ہو جائے  
 لیکن یہ ملاقات قصد و ارادے کے بغیر ہے غرضیکہ یہ ساری باتیں  
 اس کے حال کی حفاظت کے لئے رب پر مستغنی ہونے کی وجہ سے اپنے  
 حال پر غیرت کی اور چمٹ جانے کی وجہ سے اور لغزش و سلب حال  
 کے خوف کی وجہ سے معرض وجود میں آتی ہیں کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ اللہ  
 کے حکم سے شیخ و مرید دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں جب کہ ان کے  
 احوال بھی الگ الگ ہوں کیونکہ یہ تقدیری امور ہیں اور تقدیری امور  
 غیب میں داخل ہیں اور رب العالمین کا فعل ہیں اور حق تعالیٰ شانہ  
 روزانہ ایک شان میں ہوتا ہے وہ جسے چاہے مقدم کر دے جسے  
 چاہے مؤخر کر دے جس میں چاہے انقلاب و تغیر پیدا کر دے  
 جسے چاہے ولایت سے سرفراز فرما دے جس سے چاہے ولایت  
 سلب کر لے جسے چاہے مالدار بنا دے اور جسے چاہے نادار بنا دے

والمريد الى اخرى فقد خولف بين ظهورهما  
وجوههما فاني لهما والعجبة والاجتماع  
والايقاع بيعد ذلك جدا فان اتفق فهو نادر  
شاذ لا التفات اليه ولا معول عليه اذا لا  
ما قد انكشف وظهور بان فصوات الله على  
الشيخ وعلى المرید الصادق الذي اذا بلغ به الى  
حالة استغنى فيها بربه تبارك وتعالى عن  
الشيخ الا في الوقت -

ومن آداب المرید: ان لا يتكلم بين  
يدي شيخه الا في حالة الضرورة وان لا يظهر  
ثيما من مناقب نفسه بين يديه ولا يتبعي  
له ان يبسط سجادة ته يدي الشيخ الا في وقت  
اداء الصلاة فاذا فرغ من صلاته طوى سجادته  
في الحال ويكون متهيئا لخدمة شيخه ومن  
هو قاعد على بساطه مبسوطا مستوطنا مسترجيا  
لا حلفة عليه لغيره وهذه حالة الشيوخ  
لا حالة المریدين ويجتهد في اجتناب بسط  
سجادته وفوق سجادته من هو فوته في الرتبة  
وادناء سجادته الا باصره فان ذلك عندهم  
سوء الادب ويتبعي للمريد اذا جرت مسألة  
بين يدي الشيخ ان يسكت وان كان عنده  
فضل واشباع جواب فيها بل يغتم ما  
يفتح الله على لسان شيخه فيقبله ويعمل به  
وان رأى في جوابه نقصانا وتصورا فلا يرد  
عليه بل يشكر الله تعالى على ما خصه من

اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت سے دھتکار دے۔

حق تعالیٰ شانہ ہی تقدیری امور کو ان کے اوقات پر جاری فرماتا ہے تقدیر

کا حال کسی کو معلوم نہیں اور نہ کسی اصول و کلی کی حد میں آسکتا ہے رات

تاریک ہے سمندر میں بھنور والی موجیں ہیں اور میدان وسیع ہیں اور

ان میں کیا کیا ہو رہا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے اور رسولوں کو انبیاء کو

اور خاص خاص اولیاء کو جو کچھ بتا دیتا ہے تو ان میں سے دو شخصوں کو

کسی ایک راز پر متفق نہیں ہونے دیتا جب وہ تقدیری اور فعلی حالات

میں داخل ہو جاتے ہیں لہذا مرید شیخ کے ساتھ رہ کر کیا کرے جب کہ دونوں

کی راہیں مختلف ہیں شیخ کی سمت اور ہے اور مرید کی سمت اور۔ ایک سمت کی

طرف شیخ جا رہا ہے اور دوسری سمت کی طرف مرید جا رہا ہے ان کی پشتوں اور

چروں کی سمتوں میں تو اختلاف ہے تو ان کا اکٹھا ہونا اور جمع ہونا اور ایک

جگہ باقی رہنا کیسے ممکن ہے اور اگر اتفاق سے ایسا ہو بھی جائے تو شاذ و نادر

ناقابل التفات ہے اور لائق اعتبار نہیں کیونکہ اکثر اسی پر حکم لگایا جاتا ہے

جو ظاہر و صاف ہو حق تعالیٰ شیخ پر اور اس سچے مرید پر اپنی رحمتیں نازل

فرمائے کہ جب وہ ایسی حالت پر پہنچے کہ اللہ کی حضوری میں مشغول ہو کہ

علاوہ کسی خاص وقت کے اسے اپنے پیرو شیخ کی ضرورت نہ رہے تو

حق تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ اور عطیہ کبریٰ کا جس قدر بھی شکر بجالائے کم

مرید کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت کے شیخ کی موجودگی میں کلام

کرے اور اپنی کسی ذاتی صفت کو شیخ کے آگے بیان نہ کرے اور نہ اپنا سجادہ

کسی وقت ادائے نماز کے وقت کے علاوہ بچھائے پھر جب نماز سے فارغ

ہو جائے تو فوراً مصلے لپیٹ لے اور شیخ کی خدمت کے لئے کمر بستہ ہو جائے

اور جو اپنے کھلے ہوئے بستر پر آرام سے بلا کلفت غیرے پاؤں لپسار

بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ مشائخ کی عادت ہوتی ہے مریدوں کی نہیں

مریدوں کو پوری پوری کوشش کرنی چاہیے کہ مشائخ کے سامنے مصلے

بچھانے سے پرہیز کریں اور نہ ان کے مصلے کے آگے اپنا مصلے بچھائیں



نفل و علم و نور و یخفی جمیع ذلك فی نفسه  
 ولا یكثر حدیثه ولا یقول اخطا الشیخ فی  
 المسألة ولا یناقض علامه الا ان یقلب علیه  
 ذلك فیبتدر منه الكلمة فلیتدارکته  
 بالسکوت والتوبة والعزم علی ترک المعاودة  
 علی ما قد مناد کره فی اثناء الكتاب من  
 فعله فی توبته عن معاصی الله عز وجل  
 فالخیر کله فی حق المرید فی سکوته فیما  
 هذا سبیله و ینبغی للمرید ان لا یتحرك فی  
 حال السماع بین یدی الشیخ الا بإشارة منه  
 علیه ولا یری من نفسه البتة حالا الا  
 ان ترد غلبة تاخذ عن التمییز والاختیار  
 فاذا سکت فورته فلیعد الی حال سکوته  
 وادبه ووقاره وکتمان ما اولاه الله  
 عز وجل من سره وقد ذکرنا هذا و  
 ان کنال نری بالسماع والقول والقصیب  
 والرخص وقد قد منا کراهته فیما تقدم  
 الا ان انا قد ذکرنا ذلك علی ما قد لهج به  
 اهل زماننا فی اربطتهم وعجا معهم ولا  
 ینکر ان ینکون ینمن یفعل ذلك ما دق  
 ینکون معنی ما قد سمع مهیجا لئلا یرتد  
 صدقه وفتیر الیها فیشتغل بنا یرتد  
 یغیب فیها فتتحرك اعضاؤه وجوارحه  
 بین القوم و هو فی معزل عما القول فیہ  
 من لذت الطباع والاهویة وتذکار کل

جو مرتبہ میں ان سے اونچے ہیں اور شیخ کے ہتھکے کے قریب بھی شیخ کی اجازت  
 کے بغیر ہتھکے نہ چھایں کیونکہ یہ صوفیائے کرام کے نزدیک بے ادبی ہے۔  
 مرید کی شان کے لائق یہی ہے کہ جب شیخ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا  
 جائے تو مرید خاموش رہے اگرچہ مرید کے پاس اس کا ایک مسکت اور فیصلہ کن  
 حل موجود ہو بلکہ شیخ کی زبان سے جو کچھ حق تعالیٰ اہل کرانے اسے غنیمت  
 سمجھنا چاہیے اور اسے قبول کر کے اس پر عمل کرے اگر شیخ کے حل میں کمی اور  
 کوتاہی دیکھے تو شیخ کے خلاف شیخ کے حل کی تردید نہ کرے بلکہ اپنے مخصوص  
 واسطے قسم کے علم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے اپنے فضل علم  
 اور نور سے آراستہ فرمایا ہے اور اسے اپنے دل میں چھپائے رکھے اور  
 باتیں بنا کر اپنے علم کا اظہار نہ کرے اور نہ یہ کہے کہ اس مسئلہ میں شیخ غلطی  
 پر ہیں اور شیخ کے کلام پر نقص وارد نہ کرے اگر بلا سوچے سمجھے غلبہ کی  
 حالت میں شیخ کے خلاف کوئی بات نکل جائے تو خاموشی سے توبہ سے  
 اور آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کرنے کے عزم سے اس کی تلافی کر دے جیسا  
 کہ ہم گناہوں سے توبہ کے سلسلہ میں ادب پر بیان کر آئے ہیں، یاد رکھو  
 مرید کے حق میں کمال اور پوری پوری بھلائی اسی میں ہے کہ اس قسم کے برقعوں  
 پر خاموش رہے۔ مرید پر لازم ہے کہ سماع کے وقت شیخ کے اشارے  
 کے بغیر کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کرے اور اپنی طرف سے کوئی حال ظاہر نہ کرے  
 ہاں اگر کسی مرید پر ایسا وجد طاری ہو جائے کہ اسے اس کے ہوش و حواس  
 ہی سے گم کر دے اور عقل و خرد سے بیگانہ بنا دے تو دوسری بات ہے  
 جب اس وجد کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے تو اپنے سکون و وقار اور حالت  
 پر فوراً لوٹ آئے اور اللہ تعالیٰ نے جس راز سے اسے نوازا ہے اسے  
 چھپائے اس موقع پر ہم نے سماع کا ذکر کیا اگرچہ ہم سماع، رخصت سرو  
 راگ و رنگ اور قوالیوں کے قائل نہیں اور ادب پر اسی کتاب میں  
 ہم ان چیزوں کو مکروہ بتا آئے ہیں۔ مگر یہ مسئلہ ہم نے یہاں اس لئے  
 بیان کر دیا کہ ہمارے زمانہ کے لوگ اپنی خانقاہوں اور اجتماعات میں

واحد قرب من معشوقہ من قدمات و طال  
 یہ عہد لا و من هو حی غائب عنہ فاشد  
 شوقہ و المرید الصادق ناثر تہ غیر خاملاً  
 و شعلتہ غیر خاملاً و محبوبہ غیر غائب و  
 و انیسہ غیر مستوحش فهو ابدانی زیادتہ  
 لذت و قرب و لذتہ و نعیم فلا یغیرہ و یہیجہ  
 عن حالته غیر کلام مرادہ و حدیثہ الذی  
 ضرر بہ عزوجل نفی ذلک عندہ لا مندوحة  
 عن الاستعار و القیانتہ و الاصوات و صراخ  
 المدعین شرکاء الشیاطین رکاب الہویۃ  
 مطایا النفوس و الطیام اتباع کل ناعق و  
 ناعق و ینبغی للمرید ان لا یعارض احدانی  
 حال سماعہ و لا یزاحم احدانی وقتہ فی  
 التقاضی علی الذی ینشد الزہدیات المرتقا  
 المشوقات الی الجنان و المحرور و رومیۃ الحق  
 تعالیٰ فی الآخرة المزہدات فی الدنیا و  
 لذاتہا و شہواتہا و ابنائہا و نسوانہا  
 المشجعات عن الصبر علی آفاتہا و محنتہا  
 و بلائہا و ادبارہا علی ابناء الآخرة و  
 انبالیہا علی ابنائہا و غیر ذلک فلیکل  
 جمیع ذلک الی الشیخ الحاضر فان القوم فی  
 ولایۃ الشیخ اللہم ان ینکون المستمع  
 حینئذ المستحقین فیحفظ الادب فی الظاہر  
 و ینکر من تکلفہ فی الباطن فلا شک ان اللہ  
 عزوجل یقیض من یتقاضی عنہ او یلہم القائل

تو ایوں اور رقص و سرور پر جان دیتے ہیں اور بڑے شوق سے اس قسم کی  
 مجلسیں منعقد کرتے ہیں مگر اس سے انکار نہیں کیا جاتا کہ اس قسم کے لوگوں  
 میں بعض مخلص اور سچے بھی ہوتے ہیں اور سماع سے ان کی سچی محبت کی آگ بھڑک  
 اٹھتی ہے اور وہ اس محبت کے شعلہ میں گھر کر چلنے لگتے ہیں اور اس میں گم  
 ہو جاتے ہیں اور ان کے ظاہری اعضاء لوگوں کے درمیان متحرک ہو جاتے  
 ہیں اور قوم کی لذتوں اور خواہشوں سے بالکل علیحدہ ہیں ان کے دلوں میں  
 تو اللہ کی محبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے جبکہ لوگ اپنے ذمیوی معشوقوں کو  
 یاد کرتے ہیں جو ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں خواہ موت کی وجہ سے جدا ہوئے  
 اور موت کی بھی ایک طویل مدت گزر گئی یا زندہ تو ہیں مگر وہ انہیں نہیں  
 سکتے اور ان سے جدا ہیں اور سماع سے ان کی آتش شوق بھڑک اٹھتی ہے  
 سچے اور مخلص مرید کی آگ نہ تو بجی ہوتی ہے اور نہ کبھی اس کے شعلے بجتے  
 ہی ہیں اس کا محبوب غائب نہیں بلکہ ہر وقت اس کے سامنے ہے اور اس کا مو  
 و ہدم اس سے دور بھی نہیں وہ تو دم بدم اس سے قریب سے قریب  
 تر ہوتا جاتا ہے اور اس کا ہر لمحہ زیادہ قریب کی وجہ سے لذت اندوز و شہ  
 خیز ہوتا جاتا ہے لہذا بجز اس کے مرادی کلام کے اسکی حالت میں جوش  
 و ہیجان لایںوالی کوئی شے نہیں اور مرادی کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے  
 بلاشبہ قرآن پاک کی بعض آیتیں اسکی آتش شوق کو بھڑکا سکتی ہیں اس  
 میں تو اس کے لئے گنجائش ہے اور درجہ جواز ہے لیکن اشعار و رقص و  
 سرود و ترنم ایگز صدا میں محبت کے دعویٰ اردن کی حینیں جو شیطانوں  
 کے بھائی اور ان کے کاموں میں شریک ہیں خواہشات کے گھوڑوں پر اور  
 طبائع اور سہمی کی سوار یوں پر سوار ہیں اور ہر حینے والے اور فریاد  
 کر نیوالے کے پیرو کار ہیں، اللہ سے محبت کر نیوالے ان تمام شیطانوں کا مو  
 لے بیزار ہیں۔ مرید کا فرض ہے کہ سماع میں کسی سے معارضہ نہ کرے  
 اور کسی کے وقت اور طلب میں حائل نہ ہو بعض ایسے بھی ہیں جو ترک دنیا  
 کے اشعار پڑھوانا چاہتے ہیں جو دلوں کو نرم بنائیں اور ان میں سو زدگار



بذلك التكرار والترداد ليقضي الصادق المستمع  
نهنته ووطره من ذلك -

فصل آخر فی ادبہ مع شیخہ (وینبغی  
لہ اذا اراد ان یتادب بشیخ ان یکون لہ ایمان  
وتصدیق واعتقاد ان لا احد فی تلك الدیار  
ادلی منه حتی ینتفع بہ فیما هو مرادہ وان  
تقبلہ اللہ عزوجل ویحفظ سرہ فی خدمتہ  
اللہ تعالیٰ فی عقد اداۃتہ بحفظہ حتی لا یجری  
علی لسان شیخہ الا ما هو الاذلی بشانہ  
ویحذر مخالفتہ جدا لان مخالفتہ الشیوخ سم  
قابل فیہا مفرۃ عامۃ فلا یخالفہ بتصریح  
ولا بتاویل ویجتہد ان لا یکتہم من شیخہ  
شیئا من احوالہ واسرارہ ولا یطلع احد اسواہ  
علی ما یامرہ شیخہ ولا یبلغی لہ ان یجتمع  
الی طلب الرخصۃ او یرجع الی شیء ترکہ اللہ  
عزوجل فانہ من الصبار وفسخ الاداۃ  
عند اهل الطریقۃ وقد جاء فی الخیر عن  
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال  
العائد فی ہبۃ کالکلب یقیء ثم یعود فیہ  
وعلیہ الاتقیاد لا لتزام ما یامر بہ شیخہ  
من التادیب علی مقتضی سوء ادبہ فان وقع  
منہ تقصیر فی القیام بما اشار الیہ شیخہ  
فالواجب علیہ تعریف ذلك لشیخہ لیری فیہ  
دایۃ ویل عولہ بالتوفیق والتیسیر والفلاح  
فصل: واما الذی یحب علی الشیخ فی تادیب

پیدا کریں اور آخرت کی نعمتوں (جنتوں) حوروں اور دیدار باری تعالیٰ  
کا شوق دلائیں اور دنیا سے، دنیوی لذتوں اور مشہورتوں سے، دنیا داروں سے  
اور دنیا کی عورتوں سے نفرت دلائیں اور دنیوی آفتوں، مشقتوں، مصائب  
اور بلاؤں پر آخرت والوں سے دنیا کے بھاگنے پر اور دنیا داروں سے  
دنیا کے قریب آنے پر صبر دلائیں، لہذا یہ تمام باتیں شیخ پر چھوڑ دی  
جائیں کیونکہ لوگ شیخ کے مرید ہیں اور شیخ کے زیر تربیت ہیں اور اس کی  
دلاہت میں ہیں ہاں اگر اس وقت سننے والا مستحق ہو تو ظاہر میں ادب  
پیش نظر رکھے اور باطن میں تکلف سے انکار کرے بلاشبہ حق تعالیٰ کوئی  
ایسا آدمی مقرر فرمائے گا جو اشعار کی فرمائش کرے گا یا اشعار پڑھنے والے  
ہی کے دل میں ڈال دے گا کہ وہ مکرر کرے اشعار پڑھے تاکہ سننے والا  
مخلص و صادق محب اپنا شوق پورا کرے اور اپنے دل کی آگ کو تسکین  
شیخ سے آداب سیکھنا | مرید جب کسی شیخ سے تربیت حاصل کرے  
چاہے تو صدق و خلوص اور ایمان و اعتقاد کے ساتھ ساتھ یہ خیال کرے  
کہ اس علاقہ میں اس شیخ سے بہتر کوئی نہیں اور اسی شیخ کے ذریعہ میں منزل مراد تک  
پہنچ سکتا ہوں حق تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرمائے اور اپنے شیخ کا راز جو اس  
اور حق تعالیٰ کے درمیان ہے چھپائے اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دے حتیٰ کہ اس  
میں شیخ کی زبان سے جو الفاظ سنے ہیں انہیں بھی نقل نہ کرے ہاں اگر وہ الفاظ اس  
حال کے لئے آئی ہوں تو دوسری بات ہے اور پوری احتیاط سے شیخ کی مخالفت  
بچے کیونکہ شایع کی مخالفت نہ ہر لائل ہے اور اس میں ہمہ گیر نقصان ہے لہذا نہ تو  
کلمہ کھلا اس کی مخالفت کرے اور نہ تاویل کے ساتھ اور کوشش کرے کہ  
شیخ سے اپنے کسی حال دسر کو نہ چھپائے اور شیخ کے سوا کسی اور کو ان باتوں کی  
خبر نہ ہونے دے جن کا حکم شیخ نے کیا ہو۔ مرید کی شان کے یہ لائق نہیں کہ  
شیخ کے کسی شے کی رخصت مانگے یا جو چیز اللہ کے لئے چھوڑ دی ہو  
اسکی طرف لوٹ آئے کیونکہ اہل طریقہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور  
ارادے کا شیخ کو دینا ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

المريد فهو ان يقبله الله عز وجل لا لنفسه  
 فيعاشه بحكم النصيحة ويلاحظه بعين الشفقة  
 ويلاينه بالرفق عند عجزه عن احتمال الريا  
 فيربيه تربيته الوالدة لولدها والوالد الشفيق  
 الحكيم اللبيب لولده وغلظه نياخذ بالاحكام  
 ولا يميله ما لا طاقة له به ثم بالاشد نيامر  
 اوله بترك متالعة الطبع في جميع امور واتباع  
 رخص الشرع حتى يخرج بذلك عن قيد الطبع  
 وحكمه ويحصل في قيد الشرع ورقة ثم  
 ينقله من الرخص الى العزيمة شيئاً بعد شيء  
 فيحصل من الرخص ويثبت مكاترها  
 خصلة من العزيمة فان وجد في ابتداء  
 امره فيه مدق المجاهدة والعزيمة و  
 نفوس فيه ذلك بنور الله عز وجل و  
 مكاشفة وعلم من قبل الله عز وجل  
 على ما قد مضت سنة الله في عباده  
 المؤمنين من الاولياء والاحباب الامناء  
 العلماء به فحينئذ لا يساهه في شيء ومن  
 ذلك بل ياخذ بالاشد من الرياضات  
 التي يعلم انه لا تقام قوتها ارادته عنها  
 اذ ثبت عند الله انه مخلوق لذلك وجد  
 به وهو من شانه فلا يخونه في التهورين  
 عليه ولا ينبغي له ان يرتفق من المرید  
 مجال لا بالانتقام بباله ولا بخدمته ولا  
 يأمل من الله عز وجل عوضاً في تاديبه

کہ یہ کہ کے اسے لوٹانے والا ایسا ہے جیسے تے کر کے اسے چاٹ لے  
 مرید کا فرض ہے کہ شیخ بے ادبی کے سلسلہ میں ادب سکھانے کے لئے جو  
 کچھ حکم کرے اسے دل و جان سے بجالائے اور چمٹا رہے اگر شیخ کی ہر ایسا  
 بجالانے کے سلسلہ میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو اس سے شیخ کو مطلع کرے  
 تاکہ شیخ اس سلسلہ میں غور و فکر کرے اور اس کے حق میں توفیق و  
 فلاح کی اور آسانی کی دعا کرے۔

**شیخ کے فرائض** | مریدوں کی تربیت کے سلسلہ میں شیخ کا فرض ہے کہ  
 مرید کو حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر قبول کرے اپنے نفس کی خدمت کے لئے نہیں  
 اور اس کے ساتھ خیر خواہانہ زندگی بسر کرے اور اسے محبت و شفقت کی  
 نگاہ سے دیکھے اگر وہ ریاضت کی مشقت برداشت نہ کر سکے تو نرمی سے  
 اس کے ساتھ پیش آئے تو اسے اس طرح تربیت دے جس طرح ایک والد  
 اپنے بچہ کو تربیت دیتا ہے اور ایک مشفق و دانشمند حکیم والد اپنے بچہ  
 اور غلام کو ادب سکھاتا ہے اور شروع میں آسان ترین ریاضت کرائے  
 اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے پھر رفتہ رفتہ سخت  
 ریاضتوں میں ڈال دے چنانچہ شروع میں ہدایت فرما دے کہ تمام ہاتھوں  
 میں طبیعت کی خواہش چھوڑ دو اور شریعت میں جو رخصتیں ہیں ان پر  
 عمل پیرا ہو پھر جب وہ طبیعت کی قید اور اس کے حکم سے نکل جائے اور  
 شرع کی قید و اطاعت میں داخل ہو جائے پھر آہستہ آہستہ رخصتوں  
 سے واجبات کی طرف لائے ایک رخصت ختم کرے اور اس کی جگہ  
 فرض لے آئے اسی طرح آہستہ آہستہ رخصتوں کو ختم کر کے فرائض  
 لے آئے اگر شیخ اپنے کسی مرید میں شروع ہی میں سخت مجاہدہ کی صلاح  
 پائے اور اس میں اللہ کے عطا کردہ نور، مکاشفہ اور علم لدنی سے جیسا  
 کہ اللہ کے اولیاء و احباب، امین اور علماء میں اللہ کی سنت جاری ہے  
 عزیمت و سخت مجاہدہ کی ترویج بھانپ لے تو اس صورت میں  
 آسان مجاہدہ دے کہ چشم پوشی نہ کرے بلکہ سخت ریاضت کرائے



ولا شيئاً بل يوديه ويربیه موافقة لله عز وجل  
 اداء لامره وقبول لهديته وطرنته فان المرید  
 الذی جاء من غیر تخیر من الشیخ ولا استجلاب  
 بل قدر محض بإرشاد الله تعالى له وهدایته  
 والقاذة الیه فانه هدیة من الله فعلیه  
 قبوله والاحسان الیه بحسن تادیبه وتربیته  
 فلا یرتفق به ولا یبالی الا بما امر من الله تعالى  
 وخیرتی استعماله وقبول ما یأتی به من ماله  
 الذی قد جعل الله تعالى صلاح المرید ونجاته  
 به وقسم للشیخ فیہ فحینئذ لا سیل الی  
 الاعراض عنه وردة ویمجد رجدا ان یمتار  
 من المرید ما یقع له بل ینتظر فی ذلك فعل الله  
 وقدرة فمن جاء الله تعالى به من غیر تکلف  
 منه وتخیر قبله ورباه فحینئذ یوفق فی  
 تربیته ویسرع فلاح المرید ونجده فلیحذر  
 ان یکون لهوی فیہ فیعدم التوفیق والحفظ  
 فی حق المرید وعلیه ان یربیه بهتته وینوب  
 عنه فی سرة اذا وجد منه خللا او فتره  
 وعلیه ان یحفظ سراً المریدین فلا یطلع غیره  
 علی ما یحصل له من الاشراف علی احواله  
 اما بطریق علم لدنی من مواهب الله عز وجل  
 او بانشاء المرید له واستکتامه ایاه فلا  
 ینبغی له ان یفشیه لغيره لانه امانة عنده  
 وقد تیل صدور الاحرار قبور الاسرار  
 فینبغی له ان یکون مستراحاً للمریدین و

جس کے بارے میں یہ گمان غالب ہو کہ مرید اسے بجالاتے گا اور اس میں  
 کوئی تاہی نہ آنے دیگا کیونکہ اسے یقین ہے کہ میں اسے پیدا کیا گیا ہوں  
 اور اس کا اہل ہوں اور یہ ریاضت اس کی صلاحیت کے عین موافق ہے  
 لہذا شیخ آسان ریاضت کو اگر اس سے خیانت نہ کرے شیخ کے لائق  
 یہ بات نہیں کہ کسی حال میں بھی مرید کی کسی چیز کو اپنے آرام کے لئے  
 استعمال کرے نہ اس کے مال سے فائدہ اٹھائے اور نہ اس کی خدمت سے  
 اور اس کی تربیت میں اللہ تعالیٰ سے کسی عوض کی یا کسی شے کی امید قائم  
 نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا کے لئے اس کے حکم کو بجالانے کے لئے اور اس کے  
 تحفہ اور ہدیہ کا شکر ادا کرنے کے لئے اسے ادب سکھائے اور تربیت  
 دے کیونکہ مرید شیخ کے چنے بغیر آیا ہے شیخ نے اسے طلب نہیں کیا بلکہ اللہ  
 کے حکم و ہدایت سے تقدیر سے کھینچ کر لایا ہے گو یا وہ اللہ کی طرف سے  
 ہدیہ ہے لہذا شیخ کا فرض ہے کہ اسے قبول کرے اور اپنی حسن تربیت سے  
 اس کے ساتھ احسان کرے اور اس کے مال سے فائدہ نہ اٹھائے  
 اگر مرید شیخ کی خدمت میں بطیب خاطر کچھ مال پیش کرے تو اسے قبول کرے  
 کیونکہ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے مرید کی نجات و صلاح کا ذریعہ بنایا ہے  
 اور اس میں شیخ کا بھی حصہ مقرر فرمایا ہے تو اس صورت میں اس سے  
 اعراض کرنے کی اور اسے قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور اس بات  
 کی پوری پوری احتیاط برتے کہ شیخ مریدوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے  
 اور ان کا سارا مال مضتم کرنے کی فکر میں رہے بلکہ اس سلسلہ میں اللہ  
 کے حکم اور اس کی تقدیر کا منتظر رہے اور ہر آنیوالے مرید کو نہ چنے پھرے  
 اللہ تعالیٰ بلا تکلف کے اور بلا انتخاب کے اس کے پاس لے آئے اسے  
 قبول کرے اور اسے تعلیم و تربیت دے حق تعالیٰ تربیت میں اس کی  
 حمد و فرمائے گا اور فلاح و کامرانی مرید کے جلد از جلد قدم چومے گی  
 اس لئے شیخ کو اس کے بارے میں تکلف سے بچنا ضروری ہے ورنہ مرید  
 کے حق میں توفیق و تحفظ باقی نہ رہے گا شیخ پورے حوصلہ کے ساتھ تربیت

خزانة وحرز الاسرارهم وملجالهم وكففا  
 ومشجعا ومقويا ومعينالهم ومثبتالهم  
 فی الطریق ولا ینفروهم عن الطریق ومصاحبتم  
 والقصد الی اللہ عزوجل واذا رأی شیئا  
 مما یکره فی الشرع من المرید وعظه فی السر  
 وادبه ونهاه عن المعاوذة الی ذلك  
 ان كان ذلك فی الامول او الفروع او ادعاء  
 حالة لیست له او اعجاب بعمله ورؤیته  
 فیصوته عن محل الاعجاب ویبغض فی عینه  
 احواله واعماله لئلا یهلك فان العجب  
 یتقط العبد من عین اللہ عزوجل وان اراد  
 ان یعم الجماعة بالنعم فلیجمعهم ولیتکلم  
 علیهم فیقول بلغنی ان فیکم من یدعی  
 کذا ویقول کذا او یرتکب کذا ویذکر  
 ما یتعلق بذک من المفسد والمصالح و  
 ینکرهم ویحذرهم ولا یعین احد منهم  
 علی ذلك لما فی ذلك من التنقیح فان احسن  
 الخلق والقول معه وافشی اسرارهم واعتابهم  
 وسلبهم وذرهم مساویهم نفرت قلوبهم  
 من قفله ومصاحبته وصار ذلك تهمه  
 عندهم فی اهل الطریقة ونبیاً قد غرس  
 فی قلوبهم من حب اولیاء اللہ تعالی فلیحد  
 من ذلك جدا فان غلب هذا علیه ولا  
 یمکنه تدارک فلیغرل نفسه عن هذا  
 المنصب والولاية ولینفرد عن المریدین

دے اور اگر مرید کی طرف سے ریاضت میں خلل یا سستی محسوس کرے  
 تو اس کی طرف سے باطن میں توبہ کرے اور اس کی اصلاح کی دعا مانگے  
 شیخ پر لازم ہے کہ مریدوں کے اسراروں کی حفاظت کرے اور ان کے احوال  
 پر کسی غیر کو مطلع نہ کرے خواہ مریدوں کے احوال کا علم شیخ کو علم لدنی کے  
 ذریعہ حاصل ہوا ہو یا خود مریدوں نے ان کی شیخ کو خبر دی ہو اور چھپانے  
 کی ہدایت کر دی ہو اس لئے غیروں پر ان اسرار نہانی کا انشاء کرنا اچھا نہیں  
 کیونکہ یہ اسرار شیخ کے پاس امانت ہیں یہ مثل مشہور ہے کہ آزاد و شرفاء  
 کے سینے اترانہ کی قبر میں ہوتے ہیں لہذا شیخ کو مریدوں کے حق میں راحت کی  
 جگہ اور ان کے اسرار کا خزانہ اور محفوظ کر نیوالا بنے اور انکی پناہ گاہ اور  
 غار ہو اور ان کا حوصلہ بڑھا نیوالا اور انہیں تقویت دینے والا ہو اور  
 راہ سلوک میں انہیں چمانے والا اور انکی مدد کر نیوالا ثابت ہو اور انہیں  
 راہ سلوک سے اکتانے نہ دے اور انہیں مصاحبت سے اور اللہ کی طرف  
 متوجہ ہونے سے متنفر نہ ہونے دے اگر شیخ کو مرید سے کوئی خلل فرغ کا  
 دیکھے تو اسے تنہائی میں بلا کر نصیحت فرمائے اور اسے ادب سکھائے اور اسے  
 اس کام کو کرنے سے روک دے خواہ وہ اعتقادی عمل ہو یا شرعی یا کسی  
 ایسے حال کا دعویٰ ہو جو ہنوز مرید میں نہ پایا جاتا ہو یا مرید کو اس عمل  
 میں فخر ہو اور اسکی طرف دیکھتا ہو لہذا شیخ اسے محل غرور سے بچائے  
 اور اس کے احوال کو اس کی نظروں سے گرائے اور اعمال کو حقیر و معمولی  
 بتائے تاکہ مبتدی ہلاک نہ ہو کیونکہ غرور انسان کو اللہ کی نگاہ سے گرا دیتا ہے  
 اور اگر عام طریقے نصیحت کرنا چاہتا ہے تو سب کو جمع کر کے ان سے  
 خطاب فرمائے اور کہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں بعض لوگ فلاں فلاں  
 کا دعویٰ کرتے ہیں، فلاں فلاں بات کہتے ہیں اور فلاں فلاں عمل کرتے  
 ہیں پھر ان دعویوں، باتوں اور اعمال کے فسادات اور خرابیاں بتائے اور  
 مصالح کے مفید گوشوں پر بھی روشنی ڈالے اور انہیں نصیحت کرے اور اللہ سے  
 خوف دلائے اور کسی کو معین کر کے خطاب نہ کرے کیونکہ اس سے نفرت کا جذبہ



ويشتغل بجاهدة نفسه ورياضتها وطلب  
 شيخ يوربه وبقومه ويهد به فلا يسلح أن  
 يكون شيخا مع هذا إلا ولا يقطع على  
 المرید بن طریقتهم الى الله عز وجل -

ابھرتے اس قسم کے موقعوں پر اگر سختی سے پیش آیا جائے اور سخت  
 کہا جائے اور ان کے بڑے کرتوت منظر عام پر لے آئے جائیں اور غیبت  
 کی جائے اور ان میں عیب نکالے جائیں اور برائیاں ظاہر کر دی جائیں تو مریدوں  
 کے دل اپنے ارادوں سے متنفر اور شیخ کی صحبت سے بیزار ہو جائیں گے اور لوگ  
 شیخ کے اس فعل کی وجہ سے ارباب سلوک کو بدنام کر دیں گے اور لوگوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت جو جوڑ پکڑ گئی ہے وہ بھی چھوڑ بیٹھیں گے اس لئے  
 اس سلسلہ میں پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے لیکن اگر شیخ غصہ سے مغلوب ہو کر ضبط و تحمل پر قابو نہ پاسکے اور کسی طرح غصہ کو نہ پی کے تو اسے اس  
 منصب ولایت سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور مریدوں کو الگ کر دینا چاہیے اور اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جانا چاہیے اور خود ریاضتیں  
 کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرے اور کسی شیخ کو تلاش کرے جو اسے ادب سکھائے، سیدھا کرے اور مہذب بنائے اور آفات کی موجودگی میں اس  
 میں شیخ بننے کی صلاحیت نہیں۔ اور ایسی حالت میں اس کا شیخ بننا مریدوں کی راہ میں جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں رکاوٹ ڈالنے کا موجب ہوگا۔

## بائیسواں باب

### آقارب اغیار کے ساتھ اور والد اوروں اور قبیروں کے ساتھ میل جول

اما المحبة مع الاخوان فبالا یشار  
 والفتوة والصنع عنهم والقيام معهم بشرط  
 الخدمية لا يبرى لنفسه على احد حقا ولا  
 يطالب احد بحق ويبرى لكل احد عليه  
 حقا ولا يقصر في القيام بحقوقهم ومن المحبة  
 بهم اظهار الموافقة لهم في جميع ما يقولون  
 او يفعلون ويكون ابدامهم على نفسه  
 ويتاول لهم ويعتذر عنهم ويترك عن الفهم  
 ومانرتهم ومجادلتهم ومشادتهم وتبعاً

اجباب کے ساتھ میل جول | بھائیوں اور اپنوں کے ساتھ ایثار  
 و جواں مردی کا سلوک کیا جائے ان کے قصوروں سے درگزر کی جائے  
 ان کی مقدور بھ خدمت کی جائے اور کسی پر اپنا حق نہ سمجھا جائے اور کسی  
 سے اس حق کا مطالبہ نہ کیا جائے بلکہ اپنے اوپر سب کا حق سمجھ لیا جائے  
 اور اس حق کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے اور سچائی کے ساتھ صحبت  
 رکھنے میں اور ان کے تمام اقوال و افعال میں موافقت کرنے میں فرق نہ  
 آنے دیا جائے اور ہمیشہ ان کا ہم خیال رہا جائے اگرچہ خود کو نقصان پہنچ  
 رہا ہو اگر ان کا کوئی عیب دیکھا جائے تو انکی طرف سے کوئی معقول عدل  
 گھر کر پیش کر دیا جائے اور انکی مخالفت، جنگ و جدل اور منافرت نہ

عن عیوبہم فان خالفہ احد منهم فی شیء  
سلم لہ ما یقول فی الظاہر وان کان الامر  
عندہ لا یخلاف ما یقولہ ینبغی ان ینحفظ ابدا  
قلوب الاخوان ینحفظ فعل ما یکرہونہ  
وان علم فیہ صلاحہم فلا ینطوی لاحد  
منہم علی حقہ وان خامر قلب واحد منہم  
کراہۃ لہ تخلق معہ بشیء حتی یزول ذلک  
فان لم یزل زاد فی الانسان والتخلق حتی  
یزول وان وجد ہو فی قلبہ من احد منہم  
استیحاشا واذیۃ بغیبۃ او غیرہا فلا ینظہر  
ذلک من نفسہ ویری من نفسہ خلاف ذلک۔

**فصل:** واما المحبة مع الاجانب  
فیحفظ السر عنہم وینظر الیہم بعین الشفقة  
والرحمة وان لیسلم اموالہم الیہم ویستر  
علیہم احکام الطریقة ویصبر علی سوء  
اخلاقہم و ترک معاشرتہم ما امکنہ  
وان لا یعتقد لنفسہ علیہم فضیلة ویقول  
انہم من اهل السلامة فیتجاوز اللہ عنہم  
ویقول لنفسہ انت من اهل المصانقة <sup>لین</sup> فتظاہر  
بالنقیب والقطمیر والحقیر والکبیر وتحاسین  
علی الکبیر والصغیر وان اللہ تعالیٰ یتجاوز  
للجاہل ما لا یتجاوز بثلثہ من العالم  
والعوام لا یبالی بہم والخواص علی الخطر۔

**فصل:** واما المحبة مع الافنیاء  
فالتعزز علیہم و ترک الطمع فیہم وقطع

مناصحت سے بچا جائے اور ان کے عیبوں سے اندھا بن جانا چاہیے اگر ان میں  
سے کسی کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو بظاہر اس کی بات مان لی جائے اگرچہ  
وہ بات اس کے زعم میں خلاف واقعہ ہو مناسب ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے  
بھائیوں کی دلجوئی کرتا رہے اور ایسی باتوں سے بچتا رہے جو انہیں کد کر کے  
دالی ہوں اگرچہ وہ ان میں اسکی صلاح و فلاح بھی دیکھتا ہو لہذا اپنے کسی  
بھائی سے بغض و کینہ اور حسد نہ رکھا جائے اگر تمہارے کسی بھائی کے دل میں  
تمہاری طرف سے کدورت ہو تو اس سے ایسے اعلیٰ اخلاق سے پیش آؤ کہ  
اس کی کدورت زائل ہو جائے اگر تم اپنے کسی بھائی کو اپنے حق میں اذیت  
و غیبت کی حالت میں دیکھو تو اسے ظاہر نہ کرو اور اسے یقین دلا دو کہ  
مجھے اس سلسلہ میں تمہاری طرف سے کسی قسم کا وہم بھی نہیں۔

★

**بیگانوں سے میل جول** | دوسروں پر اپنا راز ظاہر نہ ہونے اور تمام لوگوں  
کو محبت و پیار کی نگاہ سے دیکھو اور ان کے ذاتی احوال کی کدینہ نہ کرو انہیں  
پر چھوڑ دو اور ان سے طریقت کے مسائل چھپاؤ اور مقدور بھراؤ کی بد اخلاقی  
اور ترک معاشرت پر صبر کرو اور یہ خیال نہ کرو کہ مجھے ان پر برتری حاصل ہے  
بلکہ انہیں عیب سے بھیجنا ہے اور دعا کرو کہ حق تعالیٰ ان کے گناہوں سے  
درگزر فرمائے اور اپنے آپ کو خیال کرو کہ میری سخت کپڑے ہونے  
والی ہے اور مجھ سے ہر چھوٹے بڑے اور معمولی اور عظیم گناہوں کی  
باز پرس کی جانے والی ہے اور ذرہ ذرہ کا حساب لیا جانے والا ہے  
اور یقین کرو کہ حق تعالیٰ جاہلوں سے جن گناہوں سے درگزر فرمائے گا  
ان سے عالموں سے درگزر نہیں فرمائے گا۔ عوام پریشان نہ ہوں  
اور خواص کل کے لئے اپنی نجات کی زیادہ سے زیادہ فکر کریں۔

★

**مالداروں سے میل جول** | مالداروں سے بلا کسی طمع کے ان کی  
غیر خواہی کے لئے ملو جلو اور حرص و لالچ کو دل سے بالکل نکال دو اور



الامل منافي ابيديهم واخراج جميعهم من  
 قبلك وحفظ دينك من التضعضع لهم لنوالهم كما  
 جاء في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم  
 من تضعضع لغني لاجل مافي يديه ذهب  
 ثلثا دينه فنعوذ بالله من فعل ينقص به  
 الدين وصحة اقوام ينثلم بهم الدين وتنقطع  
 عراه ويطفىء نور الايمان شعاع اموالهم  
 وبريق ديناهم كما جاء في الحديث غير  
 انك اذا ابتليت بفاحتهم في سيرا وسفر  
 او مسجد اور باط جمع فحسن الخلق اولى ما  
 يتعمل وهو حكم عام شامل في صحبة  
 الاغنياء والفقراء فلا ينبغي لك ان تعتقد  
 لنفسك فضيلة عليهم بل تعتقد ان جميع  
 الخلق خير منك لتخلص من الكبر ولا  
 تطلب لنفسك فضيلة الفقر ولا تعتقد لها  
 خطرا في الدنيا ولا في الآخرة ولا تری لها  
 قدرا ولا وزنا كما قيل من جعل لنفسه  
 قدرا فلا قدر له ومن جعل له وزنا فلا  
 وزن له فادب الغني بالاحسان الى الفقير  
 وهو اخراج المال من كيبه اليه ويكون  
 فارغا من ماله مستخلفا فيه غير متملك  
 له وادب الفقير اخراج الغني من قلبه ويكون  
 قلبه فارغا من الغني وماله بل من الدنيا  
 والآخرة اجمع ولا يجعل لشيء من الاشياء  
 في قلبه موطن او مدخلا بل يتصفى من ذلك

ان کے مال سے بالکل ناامید ہو جاؤ اور ان کے تحفے تحائف کے لاپچ سے  
 دین کے خلاف ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ اور اپنے دین کا تحفظ برقرار  
 رکھو جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوٰت والتسلیمات  
 نے فرمایا کہ جو مال کسی امیر کے سامنے گے اس کا دو تہائی دین ختم ہو جاتا ہے  
 لہذا ایسے فعل سے جو دین کے دو حصے گھٹا دے اور ان لوگوں کی صحبت  
 سے جن سے دین میں چھید ہو جائیں اور اس کا کڑا ٹوٹ جائے اور  
 جن کی دولت اور دنیوی چمک دمک سے نور ایمان بجھ کر رہ جائے اللہ  
 تعالیٰ ہم سب کو ایسی باتوں سے بچائے آمین حدیثوں میں بھی اسی طرح  
 آتا ہے تاہم اگر تم کو راستہ میں یا سفر میں یا مسجد میں یا خانقاہ  
 و مراٹے میں یا کسی اجتماع میں ان سے ٹٹنے کا اتفاق ہو جائے تو ان کے  
 ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ کیونکہ حسن اخلاق سے پیش آنا ایک  
 عام حکم ہے اور اسے ہر ایک کے ساتھ برتنا چاہیے خواہ امیر ہو یا  
 فقیر اور بیگانہ ہو یا بیگانہ یہ مومنوں کی شان نہیں کہ دوسروں کے  
 مقابلہ میں خود کو برتر خیال کریں بلکہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم  
 سے سب اچھے ہیں تاکہ غرور کی بونہ آنے پائے یہ خیال نہ کرو کہ ہمیں  
 فقر کی فضیلت حاصل ہے اور ترک دنیا کو دنیا اور آخرت میں ایک  
 معمولی شے سمجھو اسے زیادہ اہمیت نہ دو ایک مثل مشہور ہے کہ جو  
 خود اپنی قدر و منزلت سمجھے اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں اور جو اپنے  
 آپ کو بھاری سمجھے وہ ہلکا ہے غنی کا فرض ہے کہ اپنے مال سے فقیر کے ساتھ  
 احسان کرے یعنی تحصیل کا منہ کھول کر مستحق فقراء کو دے اور تحصیل کو  
 اللہ کی راہ میں خالی کر دے کیونکہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ  
 نے اسے کچھ دنوں کے لئے اس مال کا خزانچی بنا دیا ہے اور فقیر کا فرض  
 ہے کہ امیر کی طرف سے اپنے دل میں ذرا سا بھی لاپچ نہ رکھے اور امیر  
 اور اس کے مال سے اس کا دل بالکل خالی رہے بلکہ تمام دنیا اور  
 آخرت سے بھی اور اپنے دل میں کسی چیز کو جگہ نہ دے اور کسی چیز کو

كله ويخلو منه ثم يترتب امتلاعه برببه  
 عز وجل فلا يكون لغيره وجود ولا له حول  
 ولا قوة فباتية عند ذلك فضل الله عز وجل  
 فحينئذ يحصل به عز وجل من غير تعب ولا هم  
**فصل** : واما المعجبة مع الفقراء فبا  
 يثارهم وتقديمهم على نفسك في المأكول و  
 المشروب والملبوس والملذوذ والمجالس وكل  
 شيء نفيس وترى نفسك دونهم ولا ترى لها  
 عليهم فضلا في شيء من الاشياء البتة عن  
 ابي سعد بن احمد بن عيسى قال صحبت الفقراء  
 ثلاثين سنة ولم يجربيني وبينهم كلام  
 قط تأذوا به ولا جرى بيني وبينهم منافرة  
 استوحشوا منها قيل له كيف ذلك قال  
 لاني كنت معهم على نفسي ابدأ واذا دخلت  
 عليهم ادخلت عليهم سرورا ورفقا  
 واستعملت معهم خلقا هديته وادبا وسببا  
 من الاسباب فلا ترى بذلك لك عليهم فضلا  
 بل تتقلد منهم منه في قبولهم ذلك منك  
 واحذر ان تمن عليهم بذلك او تراها  
 منك بل اشكر الله عز وجل على ما اولاك من  
 توفيقه على تيسير ذلك وجعلك له اهلا لخدمة  
 اهله وخاصته واحبابه فان الفقراء الصالحين  
 هم اهل الله وخاصته كما قال النبي صلى الله  
 عليه وسلم اهل القرآن هم اهل الله وخاصته  
 فاهل القرآن من يعمل بالقرآن واما من يقرأ

جگہ نہ دے اور کسی چیز کو گھسنے نہ دے کہ وہ دل میں جڑ پکڑ سکے اور دل  
 کو ہر چیز سے پاک و صاف اور خالی رکھے اور انتظار و کوشش کرے کہ یہ اللہ  
 کا گھر ہے اسی کی معرفت کے الوار سے بھر جائے غیر اللہ کا اس میں وجود  
 تو وجود گنہ رکھی نہ ہونے پائے اور نہ غیر اللہ کا اس میں رسوخ و جماؤ ہو  
 اس صورت میں حق تعالیٰ کا فضل و کرم بلا محنت و مشقت کے شامل حال  
 ہوگا واللہ ہو الموفق۔

**فقراء کے ساتھ میل جول** | فقراء کو کھانے پینے میں لباس میں  
 تمام لذتوں اور مجلسوں میں اور ہر نفیس و عمدہ چیز میں ترجیح دو اور اپنے  
 آپ کو ان سے حقیر و ادنیٰ سمجھو اور اپنے کو ان سے کسی چیز میں بھی افضل نہ سمجھو  
 ابو سعید احمد بن عیسیٰ :- میں تیس سال تک فقراء کی صحبت میں رہا کبھی  
 میری ان سے رنجش نہیں ہوئی اور میرے اور ان کے درمیان کبھی کوئی  
 ایسی بات پیش نہیں آئی کہ اس سے ان کا دل دکھے اور نہ کبھی بیزاری و نفرت  
 کی نوبت آئی لوگوں نے پوچھا : کیسے ؟ بولے : اس لئے کہ میں انکی صحبت  
 میں رہ کر ہمیشہ اپنے اوپر ہی ہر گمان رہا جب میں ان کے پاس جانا تو سرور  
 و پیار اور نرمی کی حالت میں جانا اور اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ مل  
 کر کام کرتا اور ادب کے اور ہدیہ کے اور کسی دنیوی یا دینی سبب کے تحت  
 جانا۔ لہذا ان تمام باتوں میں اپنے کو فقراء سے افضل نہ سمجھو بلکہ ان کا احسان  
 مانو کہ انہوں نے تمہارا ہدیہ قبول فرمایا خبردار ان پر اپنا احسان نہ جتاناکہ  
 ہم نے تمہارے ساتھ یہ یہ سلوک کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس  
 نے تم کو توفیق دے کر ان کے ساتھ فلاں فلاں سلوک تمہارے لئے آسان  
 بنا دیا اور تم کو اپنے خواص، اولیاء اور مقرب بندوں کی خدمات کا  
 اہل بنایا کیونکہ صالح فقراء اللہ والے اور اسکے خاص بندے ہوتے ہیں  
 جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قرآن ہی اللہ والے  
 اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اہل قرآن قرآن پر عمل کر مولیٰ ہیں  
 قرآن کو بلا عمل کے پڑھنے والے اہل قرآن نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ



بلا عمل فلیس من اہلہ قال النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم ما آمن بالقرآن من استحل  
 محارمہ فاملنۃ لمن یقبل منک العطیۃ لاک۔  
 رومن آداب الصحبۃ مع الفقراء أن لا  
 یوجهہم الی مسألتک وان اتفق فاستقرض  
 الفقیر منک شیئاً فتقرضہ فی الظاہر ثم تبرئہ  
 منہ فی الباطن وتضبرہ عن قریب بذلک ولا  
 تبدأہ بالعطاء علی وجہ الصلۃ لئلا یتحشم  
 بجملة المنة منک بذلک ومن الادب معهم  
 مراعاة قلبہ بتعجیل مرادہ دون تنغیص  
 الوقت علیہ بطول الانتظار لان الفقیر ابن  
 وقتہ کما ورد ابن آدم ابن یومہ ولیس لہ  
 وقت الانتظار المستقبل ومن الادب معهم  
 انک اذا علمت انه ذوعیال وصبیان فلا  
 تفرده بالارتفاق معہ بل تخلق معہ بقدر  
 ما یتسغ لہ ولمن یشغل بہ قلبہ ومن الادب  
 معهم الصبر علی ما یدکر الفقیر من حالہ  
 وان تتلقاہ فی حال ما یخاطبک بوجہ طلق  
 متبشر ولا تلقاہ بالعبوس ولا بالنظر الشر  
 ولا بالکلام الوحش واذا طالبک بما لا یجیر  
 فی الوقت فاصرفہ بالوجه الجمیل الی مساعده  
 الامکان ولا توحشہ بیاس الرد علی الجزم لئلا  
 یعود بحشمتہ الاخفاق وعدمالاصابة حاجتہ  
 عندک والندم علی انشاء سورۃ الیک حیرا  
 وربا یغلب علیہ طبعہ وتستولی علیہ نفسہ

اس کا قرآن پر ایمان نہیں جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھتا ہو لہذا اس کا  
 شکر ادا کر دو جو تم سے تمہارا عطیہ قبول کرے تمہارا اس پر کیا احسان؟  
 آداب فقراء میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ تم فقراء کو سوال کی تو  
 ہی نہ آنے دو اور بلا سوال کے ان کی ضرورتیں پوری کر دو اگر اتفاق سے  
 کوئی فقیر تم سے قرض مانگے تو ظاہر میں تو اسے قرض دیدو مگر دل میں  
 یہ سوچ لو کہ میں نے اسے قرض نہیں دیا بلکہ ہدیہ دیا ہے اور یہ مستقبل  
 قریب میں اسے اپنے اس ارادے سے خبردار کر دو کہ میں نے بطور حسن سلوک  
 کے آپکی خدمت کی ہے تاکہ تمہارے احسان کا بار اس کے کمزور کندھوں  
 پر نہ پڑے جس سے اسے تکلیف ہو اور ان کے ساتھ ایک ادب یہ بھی ہے  
 کہ ان کی دلجوئی کے لئے فوراً ان کی مراد پوری کر دو ویر لگا کر انکی طبیعت  
 کو کدرد نہ کر دو کیونکہ فقیر فرزند وقت ہے جیسا کہ منقول ہے کہ فرزند آدم  
 ابن الوقت ہے اس کے پاس انتظار کے لئے مستقبل میں وقت نہیں ہوتا  
 ان کے ساتھ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو کہ فلاں  
 فقیر بچوں والا ہے تو صرف اس کے ساتھ سلوک نہ کرو بلکہ سلوک میں  
 اس کے بچوں کا بھی خیال رکھو اور اتنا دکر سب کے لئے فراخی ہو جائے تاکہ  
 وہ فارغ البال ہو کر اللہ اللہ میں مشغول رہے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی  
 فقیر اپنا حال تم سے بیان کرے تو اسے صبر و تحمل کے ساتھ سنو اور اثنائے گفتگو  
 میں اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ ترش روی اور المی سیسی  
 نگاہوں سے اسے نہ دیکھو اور نہ اس سے نفرت انگیز باتیں کرو اگر کوئی فقیر  
 تم سے کچھ سوال کرے اور اس وقت تمہارے پاس دینے کے لئے کچھ نہ ہو  
 تو اسے خندہ پیشانی سے محبت و پیار کے لہجہ میں جواب دو کہ افسوس اس  
 وقت میں مجبور ہوں اور آپکی خدمت کرنے میں قادر نہیں ہوں حالات سا  
 ہونے پر انشاء اللہ میں آپکی ضرور اعانت کر دنگا اور اسے مایوس و  
 ناامید بنا کر غمزدہ نہ پھرو تاکہ وہ شرم و ندامت کی وجہ سے تمہارے  
 پاس پھر نہ آئے کیونکہ تم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی تھی اور اسے

فيظهر عليه الجهل بحاله والسخط عليك والاعتزاز  
 على الرب عزوجل فيساقتم له من الفاقة الى  
 الخلق والتبذل لهم فيعنى قلبه وينطفىء نور  
 ايمانه فكنت انت مؤاخذا بذلك كله اذا  
 كنت سببا لثوران ذلك من قلبه بترك الادب  
 في رده وربما حجب ايمانه عن الثواب والمعارف  
 والعلوم والمصالح المدفونة في سواله للخلق  
 التي لو صبر واحسن الادب ظهرت وارتحل  
 السؤال للخلق وحصل غنى اليد والقلب و  
 البيت وجاءته عساكر فضل الله والآلئه  
 ونعمائه ودلته بيد الرأفة والرحمة والراحة  
 والرعاية وتحقق فيه قوله عزوجل وهو  
 يتولى الصالحين وجعل ممانا مغارا عليه وهو  
 غنى عن الاشياء بخالقها وتأتيه الاشياء  
 وهو لا ياتيها يقصد القاصدون فينالون  
 من الوارء وسواء ويطييون بطيبه وهو لا  
 يشعر بهم في غيب عنهم مشغول بمولا  
 وجاذبه الذي جذبه اليه والقدر من  
 ظلمات مخالطة الخلق وموافقة النفس و  
 متابعة الهوى والتقييد بارادة الاشياء دنيا  
 اخرى ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون  
 اهل الجنة لما باعوا في الدنيا انفسهم واموالهم  
 لربهم عزوجل بالجنة كما قال جل وعلا  
 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و  
 اموالهم بجان لهم الجنة وصبروا على

انوس تھا کہ میرا از بھی ہا ہر ہو اور کام بھی نہ بنا بسا اوقات فقیر  
 کی طبیعت اس پر غالب آجاتی ہے اور اس کا نفس اس پر مسلط ہو جاتا ہے  
 اور اس کے حال پر جہالت کا زور ہوتا ہے تو اسے تم پر بھی غصہ آجاتا  
 ہے اور وہ حق تعالیٰ شانہ پر بھی اعتراض کر بیٹھتا ہے کہ اس نے اس  
 کے مقدر میں ایسا کیوں لکھا کہ وہ دوسرے کے پاس اپنی حاجت لے  
 جائے اور وہ اپنی نعمتوں کو دوسروں سے کیوں دلواتا ہے؟ براہ راست  
 کیوں نہیں دیتا؟ یہ صورت حال اس کا دل اندھا بنا دیتی ہے اور  
 اس کے ایمان کا نور بجھ کر رہ جاتا ہے لہذا تم سے پہلے اسکی باز پرس  
 کی جائیگی کیونکہ تم ہی سے لوٹا کہ اس بدگمانی اور بے ادبی کا سبب ہے  
 بسا اوقات یہ فقیر، ثواب، معارف، علوم اور مصالح سے جو اس  
 کے سوال میں رکھے گئے ہیں محبوب ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ صبر کرتا،  
 لوگوں سے سوال نہ کرتا اور بے ادبی اختیار نہ کرتا تو ساری برکتیں  
 اسے حاصل ہوتیں تو اس کا ماتھ، دل اور گھر سب تو گر ہو جاتے  
 اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے اور احسانات و النعمات کے لشکر  
 آجاتے اور محبت و پیار اور رعایت و راحت کا ہاتھ اس کے سر  
 پر ہوتا اور اس پر یہ آیت چسپاں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ صلحاء کا متولی  
 ہے اور اسے محفوظ اور غیرت دلا یا گیا بنا دیا جاتا اور خالق کائنات  
 کی مدد سے وہ تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا جاتا دنیا اس کے پیچھے  
 پیچھے ہوتی اور وہ دنیا کو دیکھتا بھی نہیں آئیوں لے اس کے پاس آتے  
 اس کے الزام و سرار سے مستفیض ہوتے اور اس کی خوشبو سے اپنے  
 دماغ معطر کرتے اور اسے ان کی خبر بھی نہ ہوتی اور ان سے غائب رہ کر  
 اپنے آقا کے ذکر میں مشغول رہتا اور اس میں وہی جذبہ کا فرما رہتا  
 جو اسے اللہ کی طرف کھینچ کر لایا ہے اور دنیوی آمیزش کے اندھیروں  
 سے اسے بچالیتا اور نفس کی موافقت، ہوس کی اطاعت اور  
 دنیوی اور اخروی اشیاء کی خواہش سے نجات بخش ثابت ہوتا حق تعالیٰ



الانفلاس فی الدنیا و ردوا التصرف فی النفس  
والاموال والاولاد الی ربهم عزوجل و  
سلموا الکل الیہ جل جلالہ سوی الامر  
والنواہی و امتثلوا الامر و اتہوا عن  
النواہی و سلموا فی المقدر و تحرزوا من الخلیقة  
و تجوہروا عن الارادة و الامانی و الہم فی  
الجملة ادخلہم الجنة فمشغلہم بالاعین  
رات ولا اذن سعت ولا خطر علی قلب بشر  
کما قال جل و علا ان اصحاب الجنة الیوم  
فی شغل فاکھون فہکذا الفقیر اذا فعل  
ذک فی الدنیا و تحقق بظاہر القرآن حصول  
الجنة لہ باع حیث ان الجنة بریہ عزوجل  
و طلب الجار قبل الدار کما قالت رابعة  
العدویة رحمہا اللہ الجار قبل الدار و کما  
قال اللہ عزوجل یریدون وجہہ و کما  
قال اللہ عزوجل فی بعض کتیبہ السالفة  
اود الوداء الی عبد عبد فی لغیر نوال لیعطی  
الربوبیۃ حقہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
لو لم یخلق اللہ تعالیٰ الجنة و النار ما کان  
احد یعبدہ و قول علی رضی اللہ عنہ لو لم  
یخلق اللہ الجنة و النار ما کان اهلا  
ان یعبد قال عزوجل هو اهل التقوی و  
اهل المغفرة فاذا انصف الفقیر ینہذ الصفة  
و تحقق افلا سے عن سوی مولا و تنطق قلبہ  
عن التعلق بالاشیاء و فی عنہا و صار مریدا

نے فرمایا: بلاشبہ آج جنت والے اپنے شغل میں لطف اٹھا رہے ہیں۔  
چونکہ جنت والوں نے دنیا میں اپنی جانیں اور مال دیکر جنت خرید لی  
تھی جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین مانو اللہ تعالیٰ نے جنت کے  
عرض مومنوں سے انکی جانیں اور مال خرید لئے ہیں اور انہوں نے دنیا  
میں فقر و فاقہ پر صبر کیا تھا اور اپنی جانیں، مال اور اولاد اللہ کے تصرف  
میں دے دی تھیں اور اپنی ہر چیز اللہ جل جلالہ کے حوالہ کر دی تھی اور  
اللہ کے فرامین و محرمات پر سرگرم عمل رہتے تھے اور خوشی خوشی اللہ  
کے احکام بجالاتے تھے اور ممانعتوں سے باز رہتے تھے اور خود کو تقدیر  
کے حوالہ کر دیا تھا اور مخلوق سے علیحدہ ہو کر خلوت میں اللہ اللہ کیا  
کرتے تھے اور ارادوں، آرزوں اور خواہشوں سے بالکل دستبردار  
رہا کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل فرما کر  
انہیں ایسی ایسی نعمتوں میں مشغول فرما دیا جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ  
کانوں نے سنا اور نہ وہ کسی انسان کے دل میں گزریں اسی بنا پر حق تعالیٰ  
نے فرمایا کہ آج جنت والے اپنے اشتغال میں رہ کر ان سے لطف اٹھا  
رہے ہیں اسی طرح اگر فقیر اسی طرح دنیا میں زندگی بسر کرے تو  
بظاہر قرآن جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اس نے بھی اپنے مالک سے  
جنت کا سودا کر لیا ہے اور آخرت کے گھر سے پہلے اللہ کا پروس  
ڈھونڈ لیا ہے جیسا کہ رابعہ عدویہ فرماتی ہیں کہ پروس گھر سے  
پہلے ہے اور جس طرح حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا و رغبت  
میں اور حق تعالیٰ نے کسی الہامی کتاب میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ  
پیارا وہ بندہ ہے جو بلا بخشش کے میری عبادت میں مشغول رہتا ہے  
تاکہ میری ربوبیت کا حق ادا کرے نہ کہ اگر صلعم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ  
جنت و جہنم پیدا نہ فرماتا تو کوئی اللہ کی عبادت کرنا نہ ہوتا۔  
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر حق تعالیٰ سبحانہ جنت و جہنم پیدا نہ فرماتا  
تو کیا وہ عبادت کئے جانے کا اہل نہ تھا ضرور تھا مگر لوگ انکی عبادت کرتے

حقاً وغاب عما سوى ربه عز وجل كان حقيقاً  
 على كرم الله ان يتولا لا وين لله وينعمه في  
 الدنيا الى حين اللقاء ثم يزيد لا على ذلك  
 ويجد عليه انواع الخلق والاثوار والتعظيم والحيات  
 الطيبة والقرب على ما اهدوا وخبر اوليائه  
 واجاب به بقوله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفى  
 لهم من قرآه اعين جزاء بما كانوا يعملون و  
 قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز و  
 جل اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين  
 رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب  
 بشر ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه اقرءوا  
 ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفى لهم  
 من قرآه اعين الآية فان رددت الفقير  
 اليد الغني القلب المثل لا مرمولا لا في  
 اخباره لك عن حاله لا جل عياله او نفسه  
 طاعاً لربه عز وجل في ذلك خائفاً له  
 ولم يترك سؤالك اذ خلقه الله ذلك و  
 ابتلاء به قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم  
 لبعض فتنة الصبرون وهي حالة لا تدوم  
 بل تنقضي عن قريب وينقل الى ما قسم له  
 من الغنى والعز اذا لم يقرب مولاة و  
 اعطائه عاقبك الله يا غني اليد فقير  
 القلب الجاهل بنفسه وربه ومنشئه  
 ومنها لا بان يئلب الغنى عن ييدك  
 فتصير فقير اليد كما كنت فقير القلب

حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ تقویٰ والا اور بخشش والا ہے پھر جب  
 کوئی فقیر نہ کر رہے بالاصفت سے منصف ہو اور اپنے مالک حقیقی کے  
 سوا سب سے اس کا افلاس ثابت ہو اور دنیا کی چیزوں کے تعلق  
 سے اس کا دل صاف ہو اور تمام چیزوں سے اپنا دل مارنے اور سچا  
 اور مخلص اللہ کا طالب بن جائے اور اپنے پروردگار کے ماسویٰ  
 سے نغم ہو جائے تو حق تعالیٰ کی بزرگی کا حق ہے کہ وہ اس کا متولی ہو  
 اور اس کا ناز بردار ہو اور ملاقات کے وقت تک اسے آرام سے  
 نعمتوں میں رکھے پھر اس پر مزید نعمتوں کی بارش فرمائے اور گونا گوں  
 جوڑوں، الوار، نعمتوں، پاکیزہ زندگی اور قرب سے نوازے جو  
 اس نے اپنے اولیاء اور احباب کے لئے تیار کر رکھی ہیں اور ان کا  
 ان سے وعدہ فرمایا ہے چنانچہ فرمایا کسی کو معلوم جو ان کے لئے  
 آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نعمتیں چھپا کر ان کے عملوں کے صلے  
 میں رکھی گئی ہیں اور نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے  
 کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ آنکھوں  
 نے، بکھانہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں کھٹکیں پھر حضرت  
 ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو فلا تعلم نفس الا پرطھ لو۔

اگر تم اسے جو ہاتھ کا فقیر اور دل کا امیر ہے اور تم پر اپنا حال ظاہر  
 کر کے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے کیونکہ اسے اپنے بچوں کے لئے  
 یا خود اپنی ذات کے لئے رب العالمین کا فرمان بردار رہ کر سوال کرنا پڑتا  
 رہا ہے اس لئے کہ اگر سوال نہ کرے تو اسے رب کی نافرمانی کا خوف ہے  
 کیونکہ اللہ ہی نے اسے سوال پر مجبور کیا ہے اور اس کے ذریعہ اسے آزمایا  
 ہے حق تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لئے فتنہ  
 بنایا ہے کہ آیات صبر کر دگے یا نہیں۔ علاوہ ازیں یہ ناداری کی حالت  
 مستقبل قریب میں رہنے والی نہیں بلکہ ایسی مالدار اور دائمی عزت سے  
 بدل جانے والی ہے جو تمام ازل نے اپنے فقر اذ کے لئے لکھ دی ہے اور



تتكون ابدافقير الى الاشياء فلا تشبع  
منها حريصا عليها طالبها معد با في  
ارادتها وتخصيلها وهي غير مقسومة  
لك كما قيل ان من اشد العقوبات طلب  
مالا يقسم الا ان يتعمدك الله برحمته  
فينبئك لذنبك فتستغفرا وتتوب اليه  
من ذلك وتعترف بتفريطك وتيوب عليك  
ويغفر لك ذلك فتنب الى الله وهو ارحم  
الراحمين غفور رحيم۔

رُفَصَلْ: في آداب الفقير في فقره

فينبغي للفقير ان تكون شفقتة على فقره  
كشفقة الغنى على غناه فكما ان الغنى  
يفعل كل شئ ويجتهد حتى لا يزول غناه  
فكذلك ينبغي للفقير ان يفعل مثل ذلك حتى  
لا يزول فقره فلا يسأل الله عز وجل زوال  
فقره الى غناه او يتعرض بالمعاش والاكساب  
والاسباب للاستغناء والتكثير بالمال لا ليعال  
وعفة النفس عند الضيقة ومن شرط الفقير ان  
يقف مع كفايته ولا ياخذ فوقها ويكون  
اخذ لا لذلك القدر امثالاً لا امر الله تعالى  
وخوفا من الوقوع في اثم قتل النفس قال الله  
عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان  
بكم رحيماً لان منعه لنفسه حقها حرام  
وهو القوت من الطعام والشراب والكسوة  
والقدر الذي تقوم به البنية ولا يضعف

جو مولی کے تقرب و بخشش کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے) خالی ہاتھ لوٹا  
دو گے تو اسے ہاتھوں کے مالدار اور دلوں کے فقیر و اپنی ذاتوں سے اور  
اپنے رب بیگانہ اور اپنے آفاذ و انجام سے بے خبر و اجتناب سے  
تم کو سزا دیگا اور تمہارے ہاتھوں سے دولت چھین لے گا اور تم  
جیسے دلوں کے فقیر ہو، ہاتھوں کے بھی فقیر بن جاؤ گے اور ہمیشہ چیزوں  
کے محتاج و فقیر رہو گے اور ان سے کبھی تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا۔  
چیزوں پر حریص رہو گے انکے طالب رہو گے ان کے حاصل کرنے اور  
قبضہ کرنے کی پریشانیوں میں مبتلا رہو گے حالانکہ وہ چیزیں تمہاری  
قسمت میں نہ ہوگی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا عذاب غیر مقدر  
چیز کا طلب کرنا ہے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ حق تعالیٰ تم کو اپنی رحمت  
میں ڈھانپ لے اور تم کو تمہارے گناہوں پر توجہ دلا دے اور  
تم توبہ اور دعا سے مغفرت کر لو اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کر لو اور حق تعالیٰ  
اپنی نوازش سے تم پر رجوع فرمائے اور تمہارے گناہ بخش دے اور ہم  
سب مل کر اپنے گناہوں پر روئیں دھوئیں اور حق تعالیٰ سے رحم کی  
درخواست کریں بلاشبہ وہ بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے اور  
ارحم الراحمین ہے۔

حالت فقر میں فقیر کے آداب | فقیر کا فرض ہے کہ وہ اپنے فقر  
پر ترس کھا کر اس کا تحفظ کرے جیسے مالدار ترس کھا کر اپنی دولت  
کا تحفظ کرتا ہے جیسے مالدار اپنی دولت کے تحفظ کے لئے ہر طرح کے  
جتن کرتا ہے کہ اسکی دولت ضائع نہ ہو اسی طرح فقیر کو اپنے فقر کے  
لئے ہر قسم کی دُر دھوپ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا فقر باقی رہے اور  
زائل نہ ہو لیسا نہ ہو کہ فقیر حق تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرا فقر  
دور کر کے مجھے مالدار بنا دے یا مالدار بننے کے لئے یا دولت کی کثرت  
کے لئے کمائیوں دھندوں اور اسباب معاش کی تلاش کرنے لگے  
ہاں اگر اپنے بچوں کے لئے اور حالت تنگی میں اپنے نفس کو سوال سے

عن اداء الاوامر من الاتيان بشرائط الصلوة  
 واركائها وواجباتها وكل واجب ويترك  
 ما هو حظها فان كانت تسته فتساق  
 اليه من غير ان يكون هونيه بل يفعل الله  
 عز وجل فلا يتعرض للحظ ابد الا ان يكون  
 مريضا فيوصف له شيء من الحظوظ فيتناوله  
 على وجه التداوي فيصير الحظ حينئذ حقا  
 في حال مرضه كالقوت في حال هيمته وينبغي  
 ان يكون استلذا اذا بفقرة اكثر من  
 استلذا الغنى لوجود غنا لا وينبغي له ان  
 يؤثر ذلله وحمولة وعدم مقبول الناس له  
 وقصد هم اليه وازدحامه له به ومن  
 شرطه ان يكون قلبه اقوى بصفاء الحال  
 عند خلويده من المال فكما قل الفتوح اكثر  
 طيب قلبه وقوته ونوره وازداد فرحه  
 بشعار الصالحين واما اذا اظلم ذلك قلبه  
 واوحشه واستخطه على ربه فليعلم انه  
 مفتون قد احدث في فقرة ذنبا عظيما فليتب  
 الى الله عز وجل ويستغفره ويخلد الى التفتيش  
 والتنقيرو لو ما النفس ومن حق الفقير ان يكون  
 كلما اكثر عياله كان قلبه في باب امر  
 الرزق اسكن وبربه او ثق يمثله امر ربه  
 في الكسب لهم في الظاهر ويسكن الى عد  
 ربه في الباطن ويقطع بان لهم رزقا عند الله  
 قد وعده به وقد رآه وهو سألته اليهم

بچانے کے لئے بقدر ضرورت حلال پیشہ اختیار کر لیا جائے تو خیر۔ فقیر  
 کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ بقدر کفایت حاصل کرے اور اس سے زیادہ  
 کسی حال میں بھی حاصل نہ کرے اور اس مقدار کو حاصل کرنا بھی اللہ  
 کے حکم کی تعمیل کے لئے اور خود کشتی میں بڑھنے کے ڈر سے ہو حق تعالیٰ  
 جل مجدہ نے فرمایا: اپنی جانوں کو قتل مت کرو، دیکھو اللہ تم پر بڑا  
 ہی مہربان ہے کیونکہ نفس کو اس کے حق سے روکنا حرام ہے اور  
 نفس کا حق بقدر سدر مق طعام و شراب، لباس اور بقدر ضرورت  
 ادویات ہیں اور فرائض ادا کرنے میں سستی نہ کرے یعنی نمازوں کا  
 معاذکی شرائط و ارکان اور واجبات کے ان کے اوقات میں پابند  
 رہے کیونکہ یہ واجب ہے البتہ نفسانی لذتوں کو چھوڑ دو اگر لذتیں  
 قسمت میں ہونگی تو بلا تکلیف و تکلف کے حاصل ہو جائیں گی  
 بلکہ حق تعالیٰ ان کے خود بخود اسباب پیدا فرمادے گا اس لئے ہرگز ہرگز  
 نفسانی لذت کے درپے نہ ہو جاؤ اگر بیمار رہے اور حکیم اسے کوئی  
 لذت والی چیز بتا دیتا ہے تو بطور دوا کے اسے استعمال کرے  
 اس لئے کہ حالت مرض میں نفس کا حق ہے جیسے حالت صحت میں  
 نفس کا حق بقدر سدر مق روٹی ہے۔ فقیر کو لائق ہے کہ اسے  
 فقر سے ایسی لذت آئے جو دولت سے امیر کی لذت سے کہیں زیادہ  
 ہو۔ اور اسے مناسب ہے کہ اپنی پستی کو، گناہی کو، لوگوں میں  
 عدم مقبولیت کو اور اپنے پاس لوگوں کے نہ آنے جانے کو  
 ترجیح دے۔ فقیر کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا دل حال کی صفائی  
 کی وجہ سے قوی رہے اگرچہ اس کا ہاتھ مال سے خالی ہو اور جوں  
 جوں فقر وفاقہ میں اضافہ ہو اسی نسبت سے شرح صدر و صفائی  
 قلب میں اضافہ ہو اور صلوات کا جیسا شعار ہے قوت قلب  
 و نور ایمان میں زیادتی ہو اور مسرت و فرحت بھی بڑھ جائے  
 لیکن اگر مفلسی کا خیال اس کے دل کو تاریک کر دے، اسے وحشت میں



علی ید لا اویل غیرہ فلیتنع من الوسط ولا یكون  
 نفولیا فیدخل بین الخلق وخالقہم بل یمثل  
 الامر فیہم ولا یعترض ولا یسخط ولا یتہم  
 الرب ولا یشک فی وعدہ ولا یشکو الی احد  
 بل یکون شکو الی ربہ وانزال حاجتہ بہ  
 عزوجل وکلامہ وسوالہ لہ عزوجل فی  
 توفیقہ بالصبر واداء الامر فی حقہم والرضا  
 بما قضی علیہم باضافتہم والزامہ لہ  
 موتہم ویسالہ تسہیل رزقہم وتیسیرہ  
 فہو قریب عجیب انما یتلی عبدہ لیردہ بالیلۃ  
 الیہ عزوجل لانہ یحب الملجین لہ بالسؤال لان  
 بالسؤال یتمیز الرب من المرلوب والسید من  
 العبد والغنی من الفقیر ویخرج العبد من الکبر  
 والاستنکاف والتعظیم والنخوة الی التواضع  
 والذلة والافتقار فاذا تحقق ذلك من العبد  
 تحققت الاحیاءة سوریعا عاجلا مع ما یندرج  
 لہ من الثواب فی العقبی۔

ومن آدابہ ان لا یکون لہ ہم فی الوقت  
 المستقبل بل یکون بحکم وقتہ لا یطلع للوقت  
 الثانی بل یحفظ الحال وحدودہا وشرائطہا  
 وادابہا مطرقا غائبا عن اسواہا الی علی  
 منہا ولا دونہا ولا یشیر الی حال غیرہ  
 وریباعات ہلاکہ فیہا وہی لاہلہا سلا  
 ونعمۃ کالغذیۃ من الغذیۃ ما ینزید  
 لشخص عافیۃ ولا یرسقا وبلاء فلا ینبغی

ڈال دے اور مالک سے ناراض کر دے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ میں  
 فتنہ میں مبتلا ہوں اور حالت فقر میں ایک عظیم گناہ کر بیٹھا ہوں اس لئے  
 حق تعالیٰ سے پر خلوص توبہ کرنی چاہیے اور معافی کی دعا مانگنی چاہیے  
 اور اس گناہ کی جستجو اور کرید کر داور اپنے نفس کو ملامت کروا کر کسی فقر  
 کے بچے زیادہ ہوں تو فقر کی شان یہ ہے کہ اس کا دل انکی روزی کے  
 بابے میں پر سکون رہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور اپنے  
 مالک کے حکم کی تعمیل کے بظاہر کوئی پیشہ اختیار کر لے اور باطن میں اپنے  
 رب کے وعدے پر مطمئن رہے اور پورا پورا یقین رکھے کہ میرے  
 بچوں کے رزق کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور انہیں ان کے مفد  
 کا رزق یقیناً ملے گا خواہ انہیں میرے ہاتھ سے ملے یا کسی اور کے  
 ذریعہ سے اس لئے خود کو درمیان سے ہٹائے اور مخلوق و خالق کے درمیان  
 بے ہودہ کوشش سے باز آجائے بلکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم  
 بجالائے اور رب پر کلمہ چینی نہ کرے نہ اس پر ناراض ہو اور نہ اس پر  
 الزام لگائے اور اسکے وعدے میں شک نہ کرے اور کسی سے اس کا  
 شکوہ نہ کرے بل جہر کچھ کہنا سنبھالنا ہو اپنے رب سے کہے اور اپنی  
 ہر ضرورت حق تعالیٰ سے طلب کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور  
 درخواست کرے کہ وہ صبر کی ادراہل و عیال کے حق میں اور ان کے  
 خرچہ کے بارے میں اپنے حکم کو ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کے  
 فیصلہ کے آگے تسلیم خم کر دے اور اس سے دعا مانگے کہ ان کے رزق  
 کو مجھ پر آسان و سہل بنا دے کیونکہ وہ قریب ہے اور دعا قبول  
 کرے اور اللہ سے وہ اپنے بندے کو کسی بچیدگی میں محض اس لئے ڈالتا ہے  
 تاکہ اس کے ذریعہ اپنی طرف لوٹا لائے کیونکہ وہ چمٹ کر سوال کرنے  
 والوں کو محبوب نہ کہتا ہے کیونکہ سوال رب اور آقا میں اسید اور  
 غلام میں اور مالدار و نادار میں تیز ہو جاتی ہے اور بندہ کبر و غرور  
 اور عظمت و نخوت سے نکل کر تواضع اذلت اور احتیاج کا طرف آجائے

للمریض ان يتناول شيئاً منها الا بأمر  
الطبيب كذلك ينبغي للفقير ان لا يختار حالة  
لنفسه حتى يدخل فيها من غير ان يكون  
هو فيها بل يفعل للمولى عز وجل قدره فما  
وارا دة لجر دة لا يجعل نفسه في شئ من الحالات  
والمقامات وینزلها به فیصل وپردی حتی  
یا تبه امر الذی امات واحیا وینقله منها  
فعل الذی منع واعطى وافقر واغنى وافتحك  
وابكى لان ذلك الیق به والی ربه اقرب ادنی  
هكذا تقدم ومضى امر من سلف من اولی  
العلم من اهل الطريقة فیما خلا فیهم  
الافتداء والی رب الخلیقة المنتهی۔

ومن أدب الفقیر: ان یتكون مستعداً  
لورود الموت متهدياً له منتظراً مترقباً فی  
الساعات كلها لیکون ذلك عوناً له علی  
الرضا بفقرة وحمل ما حل به من الازی  
لین به یقصر الامل وتتكسر النفس ویزول  
منها وهم شهوات الدنیا قال النبی صلی الله  
علیه وسلم اکثر وامن ذکرها ذم اللذات  
اعنی الموت۔

ومن آدابہ: ان یتخرج من قلبه ذکر  
المخلوقین ومن آدابہ ان یتخلق مع الغنی  
اذا دخل علیہ بما تنقل یدیه الیه من  
القوت او فاکرمة وان کان شیئاً یسیراً  
لانه یقلبه محترزاً عن الاسباب فهو بالایشیار

جب بندہ انکساری کی اس حالت میں آجاتا ہے تو فوراً سرعت کے ساتھ  
دعا قبول کر لی جاتی ہے اور آخرت کا ثواب دیا گیا۔

فقیر کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ مستقبل کی فکر نہ کرے بلکہ موجودہ وقت  
کے حکم پر رہے دوسرے وقت کی طرف نہ جھانکے بلکہ حال کی اس کے  
حدود و شرائط کی اور اس کے آداب کی حفاظت کرے اور اپنے حال میں  
مرجھائے رہے اور دوسروں سے خواہ وہ اس سے اعلیٰ ہوں یا کم  
درجہ کے آنکھیں بند رکھے رہے اور کسی دوسرے کے حال کی حرص نہ کرے  
کیونکہ بسا اوقات دوسرے کے حال کی حرص اس کے لئے موجب ہلاکت  
ہوتی ہے اور حال حال والے کے لئے نعمت و سلامتی کا سبب ہوتا ہے  
جیسے بعض غذا بعض شخص کے لئے تندرستی کا موجب ہوتی ہے اور  
بعض میں بیماری اور دکھ بڑھا دیتی ہے اس لئے مرید کا فرض ہے  
کہ طبیب کی اجازت کے بغیر اسے نہ کھائے اسی طرح فقیر کا فرض ہے کہ خود  
اپنے لئے حال منتخب نہ کرے جب تک اس میں داخل نہ کر دیا جائے اور  
خود بہ خود اس میں داخل نہ ہو بلکہ خود کو حق تعالیٰ کی تقدیر و ارادے  
پر چھوڑ دے اور کسی حال اور مقام میں خود اپنے نفس کو نہ اتارے  
جب تک اس کا حکم نہ آجائے جو مادنا اور جلاتا ہے ورنہ گمراہ و ہلاک  
ہو جائے گا فقیر کو اس کے حال سے اسی کا فعل منتقل کر سکتا ہے جو  
نہ دینے والا اور دینے والا مالدار و نادار بنا نیوالا اور ہنسانے  
اور رلانے والا ہے کیونکہ وہ فقیر کے لائق ہے اور اسے اس کے  
دب سے قریب و نزدیک کرنے والا ہے متقدمین و متقدمی ارباب  
طریقت کا طریقہ اسی طرح گزارا ہے باقی انجام و ثمرہ اللہ کے اختیار  
میں ہے۔ فقیر کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہر وقت موت کے لئے تیار  
رہے اور ہر لمحہ اس کا منتظر رہے اور فنا کے لئے چشم براہ رہے  
کیونکہ موت کی یاو فقیری سے رضا پر اس کے لئے مددگار ثابت ہوگی اور  
ہر طرح کی تکلیف جس میں مبتلا ہو برداشت کرے کیونکہ اس امید میں منقطع



اولی من الغنی الذی ہو فی اسر غنایہ الا ان یكون  
ذاعیال فی ضیقۃ فلا یضیق علی عیالہ بایشارہ  
ذک للغنی الا ان یكون یعلم من عیالہ  
الا یتار و طیب النفس بذک و الموائفۃ  
والصبر و الرضا و المعرفة و الیقین و الاتوار  
تظہر من قلوبہم علی السننہم و جوارحہم  
و انفسہم فینئذ لا ینالی فی البذل و المنع  
و الا یتار و الامساک۔

ومن ادب الفقیر: ان لا یتزک الاحتیاط  
فی الورع فی حال ضیق الید فلا ینخرج الی مالا  
یحیل فی الشرع لفقرہ ینخرج من العزیمۃ الی  
الرخص فان الورع ملاک الدین و الطمع  
ہلاکہ و تناول الشبہات فسادہ کما  
قال بعض الصالحین من لم یرحبه الورع  
فی فقرہ اکل الحرام و ہول الیدری فعلیہ  
ان لا یخلد الی التاویلات فی دینہ فی  
حالة فقرہ بل یرتکب الاشق و الاحوط  
الذی ہو العزیمۃ۔

فصل: فی سؤال الفقیر من ادب  
الفقیر ترک السؤال للحق مادام یجد عندہ  
ما یکفیہ فان الجأتہ الضرورۃ و الحاجۃ  
الموحدۃ فیسأل بقدر الحاجۃ فتكون حاجتہ  
کفارتہ فینئذ یسلم لہ السؤال و ینبغی  
ان لا یسأل لاجل نفسه ما امکنہ بل  
لعیالہ علی ما قد سالا فان کان یتدلا

ہوں گی انفس کا غرور ٹوٹے گا اور دنیوی شہوتوں کا شعلہ بجھے گا۔  
نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ کثرت سے لذتوں کو فنا کرنے والی کا ذکر کیا کرو  
یعنی موت کا۔ فقیر کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اسکے دل سے غلوں کی یاد  
نکل جائے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر مالدار سے ملاقات ہو جائے  
تو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اور وہ جو کچھ دے اگرچہ ذرا  
سی ہو قبول کر لے کیونکہ وہ تو دل سے اسباب کے الجھاڑ میں نہیں اس  
لئے وہ فقیری میں اس دولت مند سے جو اپنی دولت کے ہاتھوں اسیر  
زیادہ مگن ہے ہاں اگر فقیر بچوں والا اور تنگ حال ہو تو ان پر تنگی نہ کرے  
ہاں اگر اسے یقین ہو کہ میرے بچے اور بیوی خوشی سے فقیری کو ترجیح دے  
ہیں اور میرے ہم خیال ہیں اور صبر، رضا، معرفت، یقین اور انوار  
ان کے دلوں سے ان کے اعضاء، زبانوں اور طبائع پر ظاہر ہوتے  
ہیں تو ان حالات میں خرچ دینے نہ دینے کی اور فقیری کو ترجیح دینے  
کی اور اہل و عیال سے ہاتھ روکنے کی پروا نہ کرے، فقیری کا ایک  
ادب یہ بھی ہے کہ تنگی کی حالت میں پا کر امنی میں انتہائی محتاط رہے  
لہذا جو شے شرع میں حلال نہ ہو اسے اپنے فقر کی وجہ سے ہرگز استعمال  
نہ کرے کہ وجوب سے رخصت کی طرف نکل آئے کیونکہ پرہیزگاری میں  
کی جڑ ہے اور لالچ دین کی ہلاکت ہے اور مشتبہ چیزیں دین کو بگاڑ  
دیتی ہیں جیسا کہ بعض صالحین کا قول ہے کہ جس کے ساتھ حالت  
فقر میں پارسائی نہیں وہ غیر شعوری طور پر حرام کھلے گا۔ اس  
لئے فقیر پر لازم ہے کہ اس حالت فقر میں اپنے دین میں تاویلوں کی  
طرف نہ جھکے بلکہ دشوار و احتیاط والے کام کرے اور احتیاط  
و وجوب ہی پر قائم رہنے میں ہے۔

کیا فقیر سوال کر سکتا ہے؟ فقیر کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہ  
کے سوا کسی سے سوال نہ کرے جب تک اس کے پاس بقدر کفایت  
مال موجود ہو اگر سخت حاجت کی وجہ سے مجبور ہو جائے تو بقدر حاجت

دائق وهو محتاج الی درہم لم یسلم له السؤال  
حتی یتصرف الدائق ویخلو عن المعلوم جدا کما قبل  
لا یتطهر من الغیب شیء مادام فی الجیب شیء  
ومن شرط سوالہ للخلق ان لا یراہم بل تكون  
اشارتہ الی اللہ عزوجل ویبری الخلق کالوکلاء  
والامناء المتصرف فیہم المفعول فیہم  
فلا یتخذ ہما ربا من دون اللہ عزوجل  
فیكون معنی سوالہ لہم اخبار بحالہ وعبالہ  
لا شکوی من ربہ ویكون سوالہ استخبارا  
فیقول هل دفع لنا الیک شیء هل اخیل علیک  
هل اذن لک یا وکیل یا خازن یا امین یا  
مملوک یا فقیر یا من انا وھو سوا فیما یدنا  
المالک لہ غیرنا کنا فی عبالہ فاذا سأل  
علی ہذا الوجه جازلہ السؤال والافلا ولا  
کرامة لكل مشرک وجمال مراد عابد  
الاصنام خارج عن اهل الطریقة مدح  
کذاب منافق زندیق ثمران اعطی شکر دان  
منع صبر ہکتا تكون صفات الفقیر الصادق  
ولا یتوخش بالرد ولا یتغیر فی سخط و  
یعترض ویذم الراد لہ فی ظلمہ لانہ مامو  
وکیل والوکیل هو الذی یتصرف فیما  
فی یدہ باذن امرہ وموکلہ المعطى وهو  
اللہ عزوجل بل یرجع الیہ عزوجل فیسالہ  
التیسیر والتسہیل لیسخر لہ القلوب و  
یذل لہ الصعاب ویدر لہ الرزاق و

سوال کی اجازت ہے کیونکہ یہ حاجت اس گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے پھر  
جہاں تک ممکن ہو اپنی ذات کے لئے سوال نہ کرے بلکہ ہمارے حسب سابق  
بیان کے مطابق اپنی بیوی بچوں کے لئے سوال کر سکتا ہے اگر فقیر کے  
پاس پے درہم ہو اور اس کو ایک درہم کی ضرورت ہو تو اسکے لئے اس  
وقت تک سوال جائز نہیں جب تک یہ پے درہم خرچ نہ کر دے اور  
خالی ہاتھ نہ ہو جائے (یہی کہا جاتا ہے) کہ جب تک جیب میں کچھ  
ہے اس وقت تک غیب سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی اور لوگوں سے  
سوال کرتے وقت اشارہ اور اصل سوال اللہ ہی سے کرے اور لوگوں  
کو امین وکیل اور اللہ کے حکم سے تصرف کرے نبوالے اور خزانچی سمجھے اور اللہ کو  
چھوڑ کر انہیں رب نہ بنائے اس صورت میں اس کے سوال کا یہ مطلب  
ہوگا کہ وہ انہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے حال کی خبر دے رہا ہے  
اپنے رب کا شکوہ نہیں کر رہا اور سوال خبر کی صورت میں ہوا اللہ  
کی صورت میں نہ ہو۔ مثلاً اس طرح سوال کرے کیا ہمارے لئے آپ کو  
کوئی چیز دی گئی؟ کیا آپ کو کسی کا حوالہ دیا گیا؟ اے وکیل اے خزانچی  
اے امین اے غلام اے فقیر اور اے وہ کہ اس امانت میں میں  
اور وہ دونوں برابر ہیں کیونکہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور  
ہم سب کو وہی رزق پہنچاتا ہے کیا ہمارے لئے اس میں اس مالک  
نے تم کو اجازت دیدی ہے؟ بہر حال اسی صورت میں اور سوال کو  
رنگ ڈھنگ میں ڈھال کر سوال کرنا جائز ہے ورنہ نہیں، ہر مشرک  
دھوکا باز، ریاکار، بت پرست، اہل طریقت کو جھٹلانے والا  
دعویٰ دار ولایت، جھوٹا، منافق اور بے دین صاحب کرامت  
و عطا نہیں لہذا اس قسم کے لوگوں سے سوال نہ کرے پھر اگر  
حاجت پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے اور اگر سوال  
کے بعد بھی کچھ نہ ملے تو صبر کرے سچے اور مخلص فقیر کی یہی شان  
ہوتی ہے اگر کوئی خالی ہاتھ لوٹا دے تو برا نہ مانے اور آپے میں



يسوق اليه الاقسام ويرفع عنه الجوع والعذاب  
والتبذل الى العبيد والارباب ولعله قبض  
ايدي الخلق عنه بالعطاء ليرده اليه فيلازم  
الباب ويرفع بدعائه وتقديره الحجاب فيكون  
هو المعطى له دون العباد۔

**فصل** : (في آداب العشرة) وينبغي له ان  
يجس العشرة مع اخوانه فيكون منبسط الو<sup>جه</sup>  
غير عبوس ولا يتجالفهم فيما يريدون  
عنه بشرط ان لا يكون فيه خرق  
للشرع ومجاوزة للحد وارتكاب للآثم  
بل يكون مباحا بالشرع واذن فيه  
الرب ولا يكون مارقا ولا لجوجا ويكون  
ابدا مساعدا للاخوان على الشرط الذي  
ذكرنا ومتحملا عنهم ما يخالفونه فيه  
ويكون مبرورا على اذا هم غير حقوق ولا  
ينطوي لاحد منهم على سوء وعش ومكر  
غير مغتاب لهم في حال غيبته ولا يكون  
سيئ المحضر ويذب عن اخيه في حال  
غيبته ويستتر العيوب على اخوانه ما  
امكنه وان مرض احد منهم عادة فان  
شغله ان ذلك شاعل مضى اليه  
فتنهاه بالعافية وان مرض هو ولم  
يعده لبعض اخوانه اعتذر عنه فاذا  
مرض لم يقابل به بل يعود و  
يصل من قطعه ويعطى من حرمه ويعفو

رہے اور ناراض نہ ہو اور الٹی سیدھی بگو اس نہ کرے اور لوٹا نیو لے کر  
بڑا بھلا نہ کہے کیونکہ یہ ظلم ہوگا کیونکہ جس سے سوال کیا ہے وہ دوسرے کا  
محکوم و وکیل ہے اور وکیل مالک و مولیٰ کے حکم سے تصرف کیا کرتا ہے  
اور مال کا اصل مالک حق تعالیٰ شانہ ہے بلکہ سوال میں حق تعالیٰ ہی کی  
طرف لوٹے اور اسی سے درخواست کرے کہ فلاں کے دل میں ڈال دے  
کہ وہ میرے سوال کو رد نہ کرے اور فلاں کے ذریعہ میری حاجت پوری  
کر دے اور میری قسمت کا رزق دلوادے اور مجھ سے بھوک کا عذاب  
بٹھا دے اور لے اللہ اپنے مالدار بندوں کے ہاتھوں مجھے ذلیل و خوار  
نہ کر اور ان سے میری بے پروائی نہ کر۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں  
کے ہاتھ دینے سے اس لئے روک رکھے ہوں کہ وہ مجھے اپنی طرف لوٹانا  
چاہتا ہو اس لئے اللہ ہی کے دروازے کو چھٹ جائے اور اسی سے  
رو دھو کر گڑ گڑا کر اور بلب بلب کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے  
وہی کام بنائیں والا ہے اور وہی دینے والا ہے اس کے سوا کوئی حاجت  
فقیر کے لئے آداب معاشرت | فقیر کو لائق ہے کہ اپنے بھائیوں  
کے ساتھ حسن معاشرت سے رہے سب سے اور ان سے خندہ پیشانی  
سے ملتا رہے ملاقات کے وقت تیوری پر بل نہ چڑھاٹے بلکہ مسکا  
کر ملاقات کرے اور اگر خلاف شرع نہ ہوں تو ان کے کاموں میں  
ان کی مخالفت نہ کرے کیونکہ وہ کام حد سے آگے بڑھے ہوئے یا گناہ  
نہیں ہیں بلکہ شارع نے انہیں مباح قرار دیا ہے اور ان کی اجازت  
دی ہے لوگوں سے اس قسم کے کاموں میں اڑے نہیں اور نہ جھگڑے  
بلکہ اگر ممکن ہو تو ان کی اعانت کرے اور اپنے ہاٹے میں لوگوں کی  
مخالفت برداشت کرے اگر ان سے دکھ پہنچے تو صبر کرے اور  
ان سے دل میں کینہ نہ رکھے اور ان کی طرف سے دل میں بد خلقی کی  
نخم ریزی نہ کرے انہیں دھوکہ نہ دے ان کے ساتھ برا سلوک نہ  
کرے ان کے پیچھے ان کی غیبت نہ کرے اور ان کے سامنے بد خلقی

عن ظلمہ واذا اساء احدہم الیہ اعتذر  
 عنہ عند نفسه ويرجع بالملامة علی نفسه  
 ولا یرى ملكه منوعا عن غیره من الاخوان  
 ولا يتحكم فی ملكه لغيره اذ انهم ولا یبسی  
 الورع فی جیب حرکاته وسکناته و ان  
 انبسط معه احد من اخوانه فی شیء  
 من ماله اجابه الی ذلك مسرعا مستشرا  
 فرحامسرورا متقلدا منه فی ذلك منة  
 حیث جعله اهلا لمباستنته معه وانزال  
 حاجته به ولا يستعیر من احد شیئا ان  
 امکنه وان استعار احد منه شیئا لا  
 یترده ما امکنه لانه ما استعار منه  
 الا لحاجته ولا یلیق بالفتوة استرداد العار  
 کمالا یحسن فی الشرع استرجاع الهدیة  
 والهبة فان لم یقدر علی ذلك فلیسرع  
 اعادته ولا یبغده من ذلك ولوکل یوم  
 اذ لا یلیق بحاله ان ینفرد عن احد من  
 الناس بماله لانه امین لیس فی رقی شیء  
 من الاشیاء فلا یملک شیء وکل من  
 ملک شیئا فذلک الشیء یملک لانه  
 المرء عبد لمن زمامه بید الی یرى الاشیاء  
 التی فی بید الی ملک الله عزوجل وهو  
 بقیة الناس عبید الله عزوجل والکل  
 متساو فی ملکة عزوجل واما ما کان  
 فی بید الغیر فیتعمل فیہ حکم الشرع

سے پیش نہ آئے بلکہ ان کے پیچھے ان کی طرف سے دفاع کرے اور جہاں تک  
 ممکن ہو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو  
 اس کی بیماری پر سی کرے اور اگر عیدیم الفرصت ہونے کی وجہ سے عیادت  
 نہ کر سکے تو تندرستی پر اسے مبارکباد دے اگر خود بیمار پڑ جائے اور بعض  
 لوگ بیمار پر سی کے لئے نہ آئیں تو انہیں معذور سمجھے اور اگر نہ آئیں تو  
 بیمار پڑ جائیں تو ان کی بیماری پر سی کر جائے مقابلہ نہ کرے کہ وہ میری بیماری  
 میں نہیں آئے تھے میں کیوں جاؤں؟ بلکہ ایسے لوگوں کی عیادت کے لئے  
 ضرور جائے اور قطع رحمی کر نیوالے سے صلہ رحمی کرے اور حق تلفی  
 کر نیوالوں کو دے اور اپنے اوپر ظلم کر نیوالوں کو معاف کر دے اگر کوئی  
 اس کے ساتھ برائی کرے پھر نادم ہو کر معافی مانگے تو اسے معاف کر  
 دے اور اپنے نفس پر ملامت کرے اور اپنی مملوک چیزوں کو اپنی نہ سمجھے  
 بلکہ اپنے بھائیوں کی سمجھے اور دوسروں کی چیزوں میں ان کی اجازت  
 کے بغیر تصرف نہ کرے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں پارسائی  
 کو نہ بھولے اگر کوئی بھائی اس کے مال سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہے تو  
 فوراً خوشی اور خندہ پیشانی سے اسکی ضرورت پوری کرے اور اس  
 کا شکر یہ ادا کرے کہ اس نے تم کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا اہل  
 سمجھا اور اپنی ضرورت تمہارے سامنے رکھی مقدر بھر کسی سے  
 کوئی چیز نہ مانگے اور اگر کوئی اس سے کوئی چیز مانگ لے تو حتی الامکان  
 اسے لوٹائے نہیں کیونکہ اس نے اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر یہ چیز  
 مانگی ہے اور مانگی ہوئی چیز کو واپس لینا جو انردی کی شان کے شایاں  
 نہیں جس طرح شرع شریف میں ہدیہ اور ہبہ کا لوٹانا اچھا نہیں  
 اگر یہ ممکن نہ ہو تو چیز کے دینے میں سرعت سے کام لے اور اس  
 چیز کو روکے نہیں اگرچہ کوئی روزانہ مانگے کیونکہ لوگوں کو چھوڑ کر  
 تنہا اپنا مال استعمال کرنا فقیر کی شان کے شایاں نہیں کیونکہ وہ  
 امین ہے اور کسی چیز کا غلام نہیں لہذا کسی چیز کا مالک نہیں



والورع وحفظ الحدور لئلا یصیر فی زمرة  
 الاباحیة الزنادقة وینبغی له اذا مسته  
 حنة او فاقة ان یستر حاله عن اخوانه  
 ما امکنه لئلا یشغل قلوبهم بسببه فیتکلفوا  
 له وکذلک ان مسه هم او اصابه حزن لا  
 ینظر ذلک لا خوانه ولا یشوش علیهم  
 ما هم فیہ من الفرح والسور والراحة  
 ولذلة العیش وان رأی اخوانه نازلا بهم  
 هم وغم وقل اظہروا فرحاً و سروراً  
 ساعدہم فی الظاہر من اظہار النشاط  
 والاستبشار ویکتم عنہم ما هم فیہ  
 من الاستیحاء والحزن والهم فلا  
 یقابلہم بما یکرہون ولا یختلف عنہم  
 فی شیء من ذلک وینبغی له فی ادب حسن  
 لعشرة اذا استوحش من شیء ان یتکلم فی  
 حسن الخلق ویرد قلبه الیہ لتزول وحشته  
 وینبغی له ان یعاشر کل احد من حیث  
 ہوا یكلفہ حجاباً و زلة حلاً و موافقتہ بل  
 یتابعہ ہونیا علیہ ذلک الانسان ما لم  
 یکن فیہ خرق للشرع قال النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم امرنا معاشرا لانبیاء  
 ان یحدث الناس علی قدر عقولہم  
 وینبغی له ان یعاشر من دونہ بالشفقة  
 علیہ ومن فوقہ بالجلال ومن ہو مثله  
 بالافضال والایثار والاحسان۔

کیونکہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہے وہ چیز اس کی مالک ہے کیونکہ انسان  
 اس کا غلام ہے جس کے ہاتھ میں اس کی تکمیل ہے لہذا جتنی چیزیں فقیر کے  
 قبضہ میں ہیں انہیں اللہ کی مملوک چیزیں سمجھ لے اور وہ معہ تمام لوگوں  
 کے اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی چیزوں میں اس کے تمام بندے برابر  
 کے حقدار ہیں اور جو چیزیں دوسروں کے قبضہ میں ہوں ان میں حکم شرع  
 کا پابند رہے اور ان کی حدود کی گہمداشت کرے تاکہ ان لوگوں کے  
 زمرہ میں شامل نہ ہو جو دوسروں کی چیزوں کو مباح سمجھتے ہیں یہ لوگ  
 مباحیہ زنادقہ کہلاتے ہیں اگر کسی فقیر کو تکلیف یا فاقہ کی لوبت آئے تو  
 اسے مقدور بھر لوگوں سے اپنا حال چھپانا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے  
 لوگوں کے دل نہ دکھیں اور وہ اس کے لئے تکلف کریں اسی طرح اگر  
 اسے کوئی پریشانی یا غم لاحق ہو تو اسے اپنے بھائیوں پر ظاہر  
 نہ ہونے دے تاکہ ان کا عیش و سرور اور لذت و راحت مگر نہ ہو  
 اور اگر دوسروں کو پریشانی یا غم لاحق ہو اور وہ بظاہر خوشی خرمی  
 کا اظہار کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ بظاہر خوشی خرمی کا اظہار  
 کرے اور ان کی اندرونی پریشانی کا ان پر اظہار نہ کرے اور ان سے  
 ایسی گفتگو نہ کرے جو انہیں ان کی پریشانیوں یا دوا دلا دے اور  
 انہیں مزید پریشانی میں مبتلا کر دے غرضیکہ ان کے مزاج و ماحول  
 کے خلاف کوئی بات نہ چھیڑے۔ اور آداب حسن معاشرت میں سے  
 ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر فقیر کے دل کو کسی چیز سے دکھ پہنچے اور وحشت  
 ہو تو حسن اخلاق کے ساتھ شریفانہ گفتگو کرے اور اپنا دل حسن  
 اخلاق کی طرف متوجہ رکھے تاکہ اسکی وحشت دور ہو فقیر کو لائق  
 کہ ہر ایک کے ساتھ بلا تکلف کے سادہ طریقہ سے معاشرت رکھے  
 کسی کو حد سے باہر جانے کی اور موافقت کی تکلیف نہ دے بلکہ فقیر  
 خود اسکی ان کاموں میں جو خلاف شرع نہ ہوں پیردی کرے رعیتیں  
 سید الانبیاء و الرسلین صلعم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم ہے

**فصل:** (فی آداب الفقراء عند الاکل) من ذلك ان لا ياكلوا بالشراه ولا على الغفلة بل يذكروا الله عز وجل بقلوبهم عند الاكل ولا ينسونه ومن ذلك ان لا يبدوا ايد يدهم عند الطعام قبل من هو فوقهم ومن ذلك ان لا يقولوا لغيرهم كل ولا يضعوا مابین ايديهم شيئا بين يدي غيرهم لا على طريق الخدمة ولا على طريق الانبساط الا صاحب الطعام فانه مسلم له ذلك لانه نوع خدمته ولا يقولوا لصاحب الطعام كل معنا واذا اقعده موضعاً فلا يختار غيره ويقعد حيث يؤمر ولا يرفع يده من الطعام مادام يأكل من معه لئلا يجتشم ما فيه فيحمله على الامتناع ولا ينبغي ان يرفع الطعام من بين يدي الفقير مادام يأكل وما دام عينه عليه ويساعد الاحتجاب على الاكل بقدر ما لا يكون مخالفة وان لم يكن به شهوته ولا ينبغي ان يلتمس على المائدة احداً وان عرض عليه الماء لا يرد الساقى ولو تقطره واحداً ولو قام صاحب الطعام بالخدمة لا يمنع ولو اراد صب الماء على يده فلا يمنعه ولا ينبغي ان ياكل مع الاغنياء بالتعزز او مع الفقراء بالاثثار ومع الاخوان بالانبساط

کہ ہم لوگوں سے بقدر ان کی عقلوں کے بائیں کریں۔ فقیر کا فرض ہے کہ چھوٹوں سے شفقت سے، بڑوں سے عزت سے اور برابر والوں سے ملاحظت سے پیش آئے اور سب کی نگاہوں میں ہر دو عزیز رہے۔

**فقراء کے کھانے کے آداب** | فقراء حرص و غفلت کیساتھ نہ کھائیں بلکہ کھاتے وقت دلوں میں حق تعالیٰ شانہ کو یاد رکھیں اور اسے نہ بھولیں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے بزرگوں سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں اور کسی غیر سے جو دعوت میں نہ بلا یا گیا ہو کھانے کو نہ کہیں اور اپنے آگے سے اٹھا کر دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ رکھیں خواہ خدمت کے طور پر ہو یا تواضع کے طور پر البتہ میزبان ایسا کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی خدمت ہے۔ میزبان سے نہ کہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں اور جب انہیں کھانا کھانے کے لئے کسی جگہ بٹھا دیا جائے تو اپنے لئے دوسری جگہ پسند نہ کریں اور جہاں بیٹھنے کے لئے کہا گیا ہے وہیں بیٹھ جائیں اور جب تک ساتھی کھانا کھا نہیں فقراء کو کھانے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے خواہ برائے نام ہی کھاتے رہیں کیونکہ ساتھی شرمناک کھانا چھوڑ دیں گے اور دسترخوان سے بھوکے اٹھ جائیں گے۔ فقراء کے سامنے سے دسترخوان نہ اٹھایا جائے جب تک وہ کھا رہے ہوں یا کھانے کی طرف رغبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں بلکہ میزبان مہمانوں کو شرعی حدود میں رہ کر کھانے کے لئے اصرار کرے اگرچہ مہمانوں کو کھانے کی خواہش نہ ہو کسی کو کسی کے منہ میں نوالہ دینا مناسب نہیں جب کہ سب ایک دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوں اگر پانی لایا جائے تو پانی کا برتن نہ لوٹایا جائے خواہ اس میں ایک ہی قطرہ ہو اسی کو پی لیا جائے اگر میزبان کھانا کھلانے کے لئے کھڑا ہو تو اسے نہ روکا جائے اگر میزبان مہمانوں کے ہاتھ دھلوائے تو اسے



ولا یخبط الکل ببالہ الا اذا حضر فحینئذ یاکل  
ولا یتساعد نفسہ فی اشتہا شہوۃ ولعلہا  
لم تکن مقسومة لہ فلا ینالہا ابدان فیبقی  
محبوباً بہا عن اللہ تعالیٰ ویشغل بہا عن  
طاعتہ ومراقبۃ حالہ فاذا اعرض عن  
ذک واشتغل بحالہ کان سلیمان کان  
مقسومة لہ ثم حضرت اشتہاها وتناولہا  
وشکر اللہ تعالیٰ ولا یجعل الکل ہمہ  
ویعلق قلبہ بہ ویجعلہ حدیثہ بل یمہد  
مع نفسہ بانہا مریضۃ ومن حالہا الاحتیاء  
عن الطعام والشراب والشہوات حتی یمراء  
عن المرض فالمرض ہواہا وازادتها ومانہا  
والرب عزوجل طیباً ومداویہا فاذا البعث  
الطعام والشراب علیٰ بین مملوكة تناولہا  
وعلم ان دواءہا وعافیتہا فی ذلک دون  
غیرہ واشتغل بحفظ الحال والمراقبۃ و  
اخراج الاشیاء من القلب والارتکان  
الی شیء من الاشیاء والطمانینۃ الیہ  
ابدان فی جمیع حرکاتہ وسکناتہ۔

**فصل:** فی آدابہم فیما بینہم من  
ذلک الا ینتفع شیئاً یكون لہ من اصحابہم  
من ثیابہم وسجاجیدہم وریوسہم و  
ما یجری مجراہا ولو وطی احد منہم سجدتہ  
بقدمہ لا یتوحش منہ ولا یضع قدمہ  
علی سجادۃ غیرہ ولا یسبط سجادتہ علی

نہرو کا جائے فقراء مالداروں کے ساتھ امتیاز کے ساتھ کھائیں اور فقراء  
کے ساتھ ایشار کے ساتھ اور کھائیوں کے ساتھ انبساط و تکلف سے بچیں  
ہو کر علاوہ ازیں جب تک کھانا دسترخوان پر نہ چن دیا جائے کھانے کا  
نصو بھی نہ کریں اور چن جانے کے بعد کھانا کھائیں اور پہلے سے اپنے  
کو کھانے میں الجھا کر نہ رکھیں ہو سکتا ہے کہ کھانا ان کی قسمت کا نہ ہو  
اور انہیں نہ مل سکے اور اسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محروم ہو جائیں  
اور اس میں دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حال والے مراقبہ کو چھوڑ  
بیٹھیں پھر جب کھانے کا خیال نہ ہوگا اور اپنے حال میں مشغول رہیں گے  
تو سلامتی کے ساتھ رہیں گے اگر کھانا مقدر میں ہے اور دسترخوان پر چن  
دیا گیا تو اگر خواہش ہے تو کھالیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں قصد  
کھانے کی طرف نہ رکھیں اور اس میں دل کو نہ الجھائیں اور کھانے کو موصوف  
گفتگو نہ بنائیں بلکہ دل سے کہیں کہ اے دل تو بیمار ہے اور تجھے کھانے پینے  
اور خواہش کی چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے جب تک تو بیماری  
اچھا نہ ہو جائے بیماری نفس کی خواہش، ارادہ اور آرزو ہے اور  
حق تعالیٰ شانہ اس کا طیب و معالج ہے پھر جب طیب کھانے پینے  
کی چیزیں اپنی کسی بندی کے ہاتھ بھیجے تو مرخص کھالے اور یقین کر لے  
کہ میری بیماری کی یہی دوا ہے اور اسی سے اللہ کے حکم سے مجھے تندرستی حاصل  
ہو گی کسی اور چیز سے نہیں اور اپنے حال کی حفاظت و مراقبہ میں مشغول  
رہے اور اپنے دل سے تمام چیزیں نکال پھینکے اور کسی چیز کی طرف مائل  
نہ ہو اور تمام حرکات و سکنات میں ہمیشہ حق تعالیٰ ہی کی رضا جوئی  
سے سکون و اطمینان قلب حاصل کرے۔

**فقراء کے باہمی آداب** | فقراء کے باہمی آداب میں سے ایک  
ادب یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو کسی چیز سے منع نہ کریں خواہ  
کپڑے ہوں یا جانناز ہو یا پانی پینے کے آبخورے وغیرہ ہوں  
اگر کوئی کسی کی جانناز پر پاؤں رکھ دے تو ناراض نہ ہوں اور

سجادة من هو فوقه في الرتبة ولو صد احد  
 بيد لا الى كتفه لا يبتعه ولا يمد هو بيد لا  
 الى كتف غيره ولا يستخذم احد من  
 الفقراء ويخدمه هو بنفسه كل احد ولا  
 يغمز ارجل الفقراء ولو اراد احد ان يغمز  
 رجله لا يبتعه واذا دخلوا الحمام فليس  
 في ادب الفقراء ان يمسكوا القيم من دلكهم  
 ولو اراد بعضهم دلك بعض امكنه منه  
 ولا يبتعه واذا نظر فقير الى شيء من خرقته  
 او سجادته او غير ذلك فليدفعه اليه في  
 الوقت وليؤثر به ولا ينبغي ان يجعل  
 الفقراء في انتظاره عند الاكل وكذلك  
 في كل شيء لا يوزي قلب احد بان يتظره  
 ما امكنه فان المنتظر مستثقل واذا اراد  
 ان يقدم الى فقير طعاما فيجب ان لا  
 يجلس في الانتظار لان الانتظار المرقته  
 ذل ولا ينبغي ان يدر شيئا مما يمكنه  
 واذا لم يكن الطعام كثيرا فلا ياكل  
 الا بعد ما يفضل منهم ويختهد في تقديم  
 الطعام الى الفقراء ان يكون النطف ما  
 يمكنه ووافق لهم وان كان في قوم  
 فلا ينبغي ان يفردهم باكل شيء  
 ولا يأخذ شيء فان فتح له بشيء ينبغي  
 ان يطره في الوسط وان مريض وهو  
 بين قوم فاحتاج الى تخصيصه بدواء

بدلہ میں دو سروں کی جاننا دل پر پیر نہ رکھیں اور جاننا کسی بزرگ کی جاننا  
 سے آگے نہ بچھائیں اگر کوئی کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے تو رکھنے والے  
 اور بدلہ میں اس کے کندھے پر ہاتھ نہ رکھے اور کسی فقیر سے اپنی خدمت  
 نہ لے اور خود بہر شخص کی خدمت کے لئے تیار رہے اور فقراء کے پیر دبانے  
 اور اگر کوئی تمہارے پیر دباننا چاہے تو دبانے دو رو کو نہیں اگر نہانے  
 کے لئے حمام میں جاؤ تو فقراء کے ادب میں یہ داخل نہیں کہ حمام سے  
 اپنا بدن ملوائیں ہاں اگر کوئی فقیر کسی فقیر کا بدن ملنا چاہے تو ملوا  
 لے اسے روکے نہیں اگر کوئی فقیر تمہاری گڈڑی یا جاننا وغیرہ کو دیکھے  
 تو اسے فوراً اس کو دے دینا چاہیے اور اپنے اوپر اسے ترجیح دینا چاہیے  
 کھانے کے وقت فقراء کو اپنا انتظار نہ کراؤ، اسی طرح ہر کام میں  
 مقدور بھرا نہیں اپنا انتظار نہ کراؤ اور کسی کے دل کو ایذا نہ پہنچاؤ  
 کیونکہ انتظار بھاری ہوتا ہے اور اس سے ایذا پہنچتی ہے اگر کسی فقیر  
 کی دعوت کر دو تو اسے انتظار کی تکلیف سے بچاؤ کیونکہ شہزادہ کا انتظار  
 ذلت کا سبب ہے اور ہر ممکن چیز کو جمع کرنا مناسب نہیں اگر کھانا  
 زیادہ نہ ہو تو خود مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لئے نہ بیٹھو ہاں اگر  
 ان سے بچ جائے تو کھا لو اور مقدور بھر صاف ستھرا کھانا مہمانوں  
 کے سامنے رکھو جو ان کی شان کے لائق ہو اگر کسی مجلس میں موجود ہو  
 تو تنہا کوئی چیز نہ کھاؤ اور نہ کوئی چیز اپنے لئے اٹھاؤ اور اگر کوئی چیز  
 مل جائے تو سب مل کر کھا پی لیں اگر فقراء کی جماعت میں کوئی فقیر بیمار  
 ہو جائے اور خاص طور سے دو اکی ضرورت ہو تو اسے علاج کرانے  
 کے لئے جماعت سے اجازت لینی چاہیے لیکن اگر کسی سرائے یا  
 مدرسہ میں ٹھہرا ہوا ہو اور اس میں کوئی یا خادم ہو تو اس شیخ یا  
 خادم کے حکم سے علاج کرانا چاہیے اور اس کی رائے کے خلاف کوئی  
 قدم نہ اٹھائے اور اگر لوگوں میں جائے تو ان کے موافق رہے اور  
 فقراء میں اپنی تسبیح یا تلاوت قرآن بلند آواز سے نہ پڑھے بلکہ اسے



فينبغي له ان يتأذن الجماعة في ذلك اما  
 اذا نزل برباط او مدرسة وفيها شيخ او  
 خادم فينبغي ان يكون بحكم ذلك الشيخ ولا  
 يفعل شيئاً الا باسطلاع رأيه واذا ورد  
 على قوم فينبغي ان يوافقهم على ما هم  
 عليه ولا ينبغي ان يرفع صوته بين الفقراء  
 بتسيحه وقرائته بل يخفي ذلك عنهم و  
 يتتربه او ينقل ذلك الى تفكر واعتبار  
 عبادة باطنه وان كان من الخواص ذوي  
 الاسرار فلا كلفة عليه في ذلك لان  
 ربه يتولا ويهيء له ويامر وينهاه  
 في ذلك ويسخر له قلوب الجماعة ويعطفها  
 عليه ويملؤها من حبه تارة وهيبته  
 واحترامه اخرى وكذلك لا ينبغي ان  
 يرفع صوته بغير ذلك من الكلام بينهم  
 واذا كان بين قوم فينبغي ان لا يسار  
 احداً منهم ولا يتكلم بين الفقراء بشيء  
 من حديث الدنيا والماكلات ما امكنه  
 ومن شرطه ايضا ان لا يكتب بين الفقراء  
 شيئاً ما امكنه ووجد من ذلك بد ابل يتغل  
 بالعمل المكتوب ومراقبة قلبه وحفظ حاله  
 والفكر فيهما ولا يكثر من التوافل بين ايديهم  
 واذا صام الجماعة وافقهم في ذلك وكذلك  
 اذا افطروا وافقهم في ذلك ولا ينفرد عنهم  
 بالصوم ولا ينام بين الفقراء وهم اليقظ

ان سے پھپھانے اور چپکے چپکے پڑھ لے یا غور و فکر سے اور دل سے پڑھنے  
 لے اگر اسرار والے خاص فقراء میں سے ہے تو بلند آواز سے پڑھنے  
 میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کا رب اس کا متولی ہے اور وہی اس  
 کے لئے اسباب فراہم فرماتا ہے اور اس سلسلہ میں وہی حکم دہی فرماتا  
 ہے اور وہی اس کے لئے جماعت کے دل مسخر فرماتا ہے اور انہیں اس کی  
 طرف مائل کرتا ہے اور اس کی محبت، صہبت اور احترام سے بھرتا  
 علاوہ ازیں جماعت میں بلند آواز سے کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہئے  
 اور جب جماعت میں ہو تو در آدمی پوری جماعت کو چھوڑ کر آپس  
 میں چپکے چپکے باتیں نہ کریں اور جہاں تک ممکن ہو فقراء میں بیٹھ کر  
 کوئی دنیوی یا کھانے پینے کی بات نہیں کرنی چاہئے اور ایک شرط  
 یہ بھی ہے کہ فقراء کی مجلس میں جہاں تک ممکن ہو اور اس کے بغیر  
 چارہ پائے تو کچھ نہ لکھے بلکہ لکھے ہوئے عملوں میں مشغول رہے  
 اور مراقبہ میں اور اپنے حال کے تحفظ میں مصروف رہے اور در دل  
 میں غور و فکر کرتا رہے اور ان کے سامنے کثرت سے نوافل نہ  
 پڑھے اگر جماعت روزہ رکھے تو روزہ میں ان کی موافقت کرے  
 اسی طرح اگر جماعت روزہ نہ رکھے تو ان کی موافقت میں خود  
 سبھی روزہ نہ رکھے اور ان سے علیحدہ ہو کر روزہ نہ رکھے اور  
 جاگنے والے فقراء میں جاگے اور سوئے نہیں ہاں اگر نیند ہی کا  
 ہو تو ان سے علیحدہ ہو کر سو جائے یا اتنی دیر لیٹ جائے کہ نیند  
 کا جوش ٹھنڈا ہو جائے اور فقراء سے کسی شے کے طلب کرنے میں  
 حتی المقدور پہل نہ کرے اور اگر فقراء اس سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو  
 انہیں نا امید نہ کرے اور کچھ نہ کچھ دیدے خواہ تھوڑی ہی ہو اور  
 طویل انتظار کرے ان کے دلوں کو دکھ نہ پہنچائے اگر کوئی اس سے  
 مشورہ کرے تو جواب دینے میں جلدی نہ کرے کہ اس کی بات کان  
 کر جواب دیدے بلکہ اسے اپنے دل کی بات کہنے دے پھر جواب دے

الا ان یغلب علیہ النوم فینفر عنہم ویضطجع  
بقدر ما تنکسر فورته ولا ینبغی لہ ان یتقدم  
بشبیۃ شیء واختیاراً علی الفقراء اذا  
امکنہ وان طالبہ الفقیر بشیء فلا یردہ  
ولو تلیل ولا یوزی قلبہ بطول الانتظار  
واذا شاورہ احد فلا یعجل علیہ بالجواب  
فیقطع علیہ کلامہ بل یمہلہ حتی ینہی  
جبع ما فی قلبہ ولا یجیبہ بالرد والانکار  
فاذا فرغ من ذلك وراہ غیر صواب قابلہ  
اولاً بالموافقة وقال هذا وجه ثم ین  
لہ ما هو اصبوب منہ عندہ برفق لا بمغاشنہ  
ووحشۃ ومن آدابہم ان لا یبدوا الطعام  
حال الاکل ولا یند مودہ۔

فصل : فی آدابہم مع الاہل والولد  
من ذلك حسن الخلق والانفاق علیہم بالمعروف  
بما امکنہ واذا ملک فی الیوم ما یکفیہ لیلۃ  
فلا یجس شیئاً لعدو لہ الی ذلك القدر  
حاجۃ فی الحال فان فضل من ذلك شیء  
فلیدخرہ لغد للعیال لا لنفسہ فلا یاکل  
الاتبع الہم بل یكون كالوكیل والخادم  
لعیالہ والبلوک مع سیدہ ویعتقد  
بخدمتہ عیالہ والکد علیہم والقیام  
بمصالحہم اداء امر اللہ وطاعتہ ولینزل  
خدمتہ نفسہ من الوسط ویؤثر عیالہ علی  
نفسہ واذا اکل بشرہوتہم ولا یجملہم

اپنی پوری داستان سناچکے تو مفید مشورہ دے اور رد و انکار سے  
جواب نہ دے جب مشورہ کرنے والا اپنی بات ختم کر چکے اور اس  
کی رائے صحیح نہ ہو تو شروع میں اس کی موافقت کرے اور کہہ  
دے کہ یہ بھی ایک صورت ہے پھر اس کے خیال میں جو وجہ معقول  
ہو اس کو نرمی سے بیان کرے سختی سے اور کڑک کر بیان نہ کرے  
فقراء کے ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ کھانے میں فی ذمہ کالیں  
جیسا ہو کھالیں نہ اس کی تعریف کریں اور نہ برائی۔

فقراء بیوی بچوں کے ساتھ آداب | بیوی بچوں کے ساتھ  
حسن اخلاق و خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور دستور کے مطابق  
ان پر ہر ممکن چیز خرچ کریں اگر آج فقیر بقدر کفایت کا مالک  
تو اسے آج ہی خرچ کر دے کل کے لئے روک کر نہ رکھے جب کہ  
فی الحال اس کے خرچ کرنے کی آج ہی ضرورت ہو اگر خرچ کے بعد  
کچھ بچ جائے تو اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ بچوں کے لئے کل کے لئے  
جمع کرے اور خود بالبتبع کھائے یعنی اگر بچوں سے بچ جائے تو  
کھالے بلکہ خود اپنے بیوی بچوں کے حق میں وکیل، خادم اور غلام  
کی مانند رہے اور بیوی بچوں کی خدمت اور ان کے لئے تکلیف  
اور ان کے کاموں کو بنانے کی زحمت اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اس  
کی عبادت کو بجالانے کے لئے کرے اور اپنی خدمت کو کالعدم  
تصور کرے بیوی بچوں کی خدمت کو اپنی خدمت پر ترجیح دے  
اور خود ان کی خدمت کرنے کی غرض سے بقدر سدرت کھائے  
اور بچوں کو اپنی خدمت اور دل کی خواہشات کی پیروی کرنے کی  
طرف توجہ نہ دلائے اگر کسی فقیر کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو  
جاڑے میں کام آنے والی ہو اور گرمی کے موسم میں اسے اس کی  
قیمت کی ضرورت ہو تو اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لے اگر  
آج کا خرچہ حاصل ہو جائے اور خرچہ کے بعد کل کے لئے بقدر



على متابعة شهوة نفسه واذا كان في ذات يده شيء يصلم لشتائه وهو في الصيف محتاج لثمنه صرفه في وجه حاجته في الصيف وان وجد كفاية لومه وكان فيه فضل للكسب في لومه لكفاية غدا لعيله لم يشتغل بذلك بل يقف مع الكفاية في لومه لان الوقوف مع الكفايات واجب واخر تدبير غدا الى غدا فان كان له قوة في التوكل وصبر على مقاساة القلة والجوع والضر وتقصير قوة عياله عن ذلك فلا يجوز له ان يدعوهم الى حالة نفسه بل يتحرك ويكتسب لاجلهم وان رأى من اهله الطاعة لله عز وجل وحسن السيرة والعبادة فعليه بكسب الحلال واطعامهم المباح حتى يثمر ذلك الطاعة والصلاح ولا يطعمهم الحرام فانه يثمر العصيان والجناح وليجتهد في ذات نفسه باصلاح العمل والصدق وطهارة الباطن حتى يصلم الله امره بينه وبين عياله في حسن الصبر وحسن الطاعة له والله عز وجل والموافقة له وتعود بركة صلاحه على عياله قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصلاح ما بينه وبين الله عز وجل اصلاح الله تعالى ما بينه وبين الناس واهله وعياله من جملة الناس واذا نزل به صيف فيجب ان يطعم عياله

کڑایت پرچ جائے تو بچے اور کل کا دن اللہ اللہ میں گزارے کسی کسب میں مشغول نہ ہو کیونکہ کفایت کے ساتھ توقف واجب ہے اور کل کی نگرانی پر موقوف رکھے اگر کسی کو توکل پر قدرت حاصل ہو اور بھوک کی تکلیف پر صبر کر سکے لیکن اس کے بچے ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکتے ہوں تو اس قسم کا توکل ناجائز ہے کیونکہ اس سے ان کی حق تلفی ہوتی ہے اس لئے ان کے لئے حرکت کرے اور کمائے اگر گھر والے اللہ کی اطاعت و حسن سیرت میں دلچسپی رکھتے ہوں تو انہیں حلال و مباح کمائی سے کھلائے تاکہ اس اطاعت و حسن سیرت کا نتیجہ مرتب ہو اور انہیں حرام نہ کھلائے کیونکہ حرام سے گناہ اور نافرمانیاں پیدا ہوتی ہیں فقیر کو اپنے اعمال کی اصلاح میں صدق و صفائی میں اور دل کی پاکی میں پوری پوری سرگرمی دکھانی چاہیے تاکہ اس میں اور اسکے بیوی بچوں میں معاملات درست رہیں اور وہ بھی بہترین صبر و اطاعت میں دلچسپی لیں اور پورے خاندان کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمادے اور سب گھر والے اس کے ہم خیال بن جائیں اور اس کی نیکیوں کی برکت متعدی ہو کر اس کے بچوں میں بھی پھیل جائے نبی اکرم صلعم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات بہتر بنالے اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کے تعلقات بہتر بنا دے گا اور اہل و عیال لوگوں میں شامل ہیں اگر کوئی مہمان آجائے تو جو کھانا مہمان کو کھلائے وہی گھر والوں کو کھلائے اگر حق تعالیٰ نے فراخی دی ہے تو اتنا کھانا تیار کر لیا جائے کہ سب کو کافی ہو بلکہ بچ بھی جائے لیکن اگر وسعت نہ ہو اور فقر و تنگی ہو اور بچوں کے صبر و ایثار اور رضا کا بھی علم ہو تو ان پر مہمانوں کو ترجیح دے اگر ان سے بچ جائے تو تبرک کے طور پر بچوں کو کھلا دے کیونکہ حق تعالیٰ شانہ عنقریب ان کے جسموں

ما يطعم الضيف اذا كان بذات يديه  
 سعة ومكنة فليوفر ذلك بحيث يطعم  
 الجميع ويكفيهم ويفضل عندهم فان كان  
 هناك فقر وقلة وضيقة بيد وعلم من عياله  
 الاثثار والرفان لك فحينئذ يوشتر الضيفان  
 فان فضل عندهم شيء تناولوا على وجه  
 التبرك فان الله تعالى سيخلف عليهم  
 ويوسع مالهم فان الضيف سينزل  
 برزقه ويرحل بذنوب اهل البيت كما  
 جاء في الحديث واذا دعا الفقير الى دعوة  
 وله عيال وليس له ما يصلح شأنهم فليس  
 من الفتوة ان يضيع عياله ويمضي الى الدعوة  
 ويوشتر شهوته على فاقة عياله ولا يستقيم  
 في الطريقة والشريعة اخذ الذل والخيبة  
 لاجل العيال من الدعوة فليمتنع من الحضور  
 وليصبر مع اهله فان كان في صاحب الدعوة  
 فتوة وعلم بان للضيف عيالا فينبغي  
 له ان لا يفردها بالاستحضار بل يفرغ  
 قلب الضيف عن شغل عياله بان يكفيه  
 ذلك ويحمل اليهم ما يحتاجون اليه  
 ويعلم ضيفه بذلك والواجب على الفقير  
 ان يؤدب اهله بملازمة ظاهر العلم  
 والشريعة ولا يكثر من مخالفة العلم  
 في القليل والكثير ولا ينبغي له ان يسلم  
 اولاده الى السوق وتعلم الحرف بل يعلمهم

کا اجر جمیل عطا فرمادے گا اور ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے  
 گا کیونکہ مہمان اپنی روزی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور گھر والوں  
 کے گناہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا  
 ہے اگر کوئی فقیر کی دعوت کرے اور وہ بچوں والا ہو اور گھر میں  
 کچھ نہ ہو کہ بچے کھا لیں تو یہ جو نزدیکی نہیں کہ اپنے بچوں کو بھوکا  
 چھوڑ کر خود دعوت میں چلا جائے اور اپنا پیٹ بھر آئے اور  
 شریعت و طریقت میں یہ جائز نہیں کہ دعوت میں بچوں کو ساتھ  
 لے جا کر ذلیل و خوار ہو لہذا ان حالات میں دعوت میں نہ جائے اور گھر  
 والوں کے ساتھ صبر سے رہے اگر مہمان میں جواں مردی کا جذبہ  
 کار فرما ہو گا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گا کہ اس مہمان کے بچے بھوکے  
 ہیں تو وہ اس کے بچوں کو بھی دعوت میں بلا لے گا یا اپنے مہمان کو  
 بچوں کی طرف سے اس طرح فارغ البال کر دے گا کہ بچوں کے لئے  
 اس کے ساتھ اتنا کھانا کر دیگا کہ بچوں کو اور میری کو کافی ہو اور  
 کہ دے گا کہ یہ کھانا تمہارے بچوں کے لئے ہے فقیر پر لازم  
 ہے کہ اپنے گھر والوں کو ظاہری علم و شریعت کے مسائل سکھائے  
 اور علم شریعت کے کسی مسئلہ کے خلاف کی انھیں جرات نہ کرتے  
 دے فقیر کی یہ شان نہیں کہ اپنے بچوں کو کوئی جائز پیشہ سکھانے کے  
 لئے بازار کے حوالہ کر دے بلکہ انہیں دین کے احکام سکھائے اور انہیں  
 دنیا کی طرف رغبت کرنے سے نفرت دلائے ہاں اگر تنگ موعہ بہ مہربانی  
 کے غلبہ ہو اور راز کے کھل جانے کا اور رسوائی کا اور پیٹ کی  
 خاطر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا ڈر ہو تو پھر بچوں کو اور  
 اپنی ذات کو کسی پیشہ میں لگا دے اور بقدر کفایت روزی بحکم  
 رب پیدا کر لے تاکہ لوگوں سے مستغنی رہے یہ کسب دوسرے  
 کاموں سے بہتر و افضل ہے لیکن شرعی حدود کی حفاظت کا  
 دامن چھوٹنے نہ پائے۔



احكام الدين ويحملهم على ترك طلب الدنيا  
الا ان يغلب عليه الفقر وقلة الصبر وانكشاف  
الحال والفضيحة والرجوع الى الخلق في القوت  
وما يبديه الخلة فليشغل اهله وولده  
ونفسه بالكسب وتحصيل ما يحصل به الغنى  
عن الناس فهو افضل من غيره مع حفظ الحدود  
ويعرف اولاده وجوب مراعاة حق الوالدين  
ومجانبة العقوق ويعرف اهله مراعاة حق الله  
وحقه وفضيلة الصبر معه وطاعته وغير  
ذلك على ما بينا في باب آداب النكاح  
**فصل** في آدابهم في السفر وقد  
ذكرنا في كتاب الادب في اثناء الكتاب  
انه يجب ان يكون سفر المومن الخروج  
من اوصافه المذمومة الى صفاته المحسودة  
فيخرج من هواه الى طلب رضا مولا  
بتصحيح تقواه فاذا اراد الفقير ان  
يسافر من بلد لا فاؤل شئ يجب عليه  
ان يرضى خصومه ويستاذن والديه او  
من هو في حكمهما في وجوب الحق عليه  
من العم والخال والجد والمجدة فاذا رضى  
بذلك خرج فان كان ذاعبال وفي  
سفره عنهم مفرقة عليهم وضيعة فلا  
يسلم له السفر الا بعد اصلاح امورهم  
او يستصحبهم معه قال النبي صلى الله  
عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع

فقير اپنی اولاد کو حقوق والدین کی نگہداشت رکھنے کی تعلیم  
دے اور ان کی نافرمانی کرنے سے ڈرائے اور انہیں نصیحت  
کے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا اور میرے حقوق کا خیال رکھیں  
اور میرے ساتھ رہ کر عبادتوں پر صبر کریں اور اطاعت رب  
العالمین پر جمے رہیں اور انہیں صبر و شکر کی فضیلت بتائے  
جیسا کہ ہم نے اس پر آداب نکاح میں کافی روشنی ڈالی ہے۔  
فقراء کے آداب سفر | ہم نے اسی کتاب کی کتاب الادب  
میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک سفر مومن پر فرض ہے یعنی اخلاق  
زمیمہ سے سفر کر کے اخلاق جمیلہ کی منزل تک پہنچنا انتہائی  
ضروری ہے جس کے بغیر چار انہیں لہذا اپنی ہوئی کو چھوڑ  
کر مولیٰ کی رضا کی طرف نکل جائے اور دل میں صحیح تقویٰ پیدا  
کرے۔ جب فقیر اپنے شہر سے سفر کرنا چاہے تو اس پر سب سے  
پہلے جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں اور جھگڑنے والوں  
کو راضی کرے اور اپنے والدین سے یا ان سے جو وجوب حق میں  
ان کے قائم مقام ہیں رجبے چچا، ماموں، دادا، دادی وغیرہ  
اجازت حاصل کرے اگر وہ سفر کی اجازت دیں تو سفر کرے  
ورنہ سفر موقوف رکھے اگر بچوں والا ہو اور یہ ڈر ہو کہ بچے  
بچوں کو ضرر پہنچے گا اور وہ ضائع ہو کر رواں دواں ہوں گے  
تو جب تک ان کا انتظام درست نہ کرے سفر پر ہرگز نہ جائے  
یا انہیں اپنے ساتھ لے جائے نبی اکرم صلعم نے فرمایا کہ انسان  
کے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کا خرچ اٹھاتا ہے انہیں ضائع  
کر دے۔

فقیر کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب سفر کرے تو اپنا دل اپنے  
ساتھ رکھے اس کا دل اس کے پیچھے کسی چیز سے الجھا ہوا نہ رہے  
اور تمام چیزوں کے تعلقات سے یکسو ہو جائے اور کسی کے

من یقوت ومن شرط الفقیر اذا سافر ان یكون قلبه معه لا یكون قلبه ملتفتا الى علاقة وءاءة ولا یكون قلبه متعلقا بنطالینة امامه فبیشما نزل یكون قلبه معه ویكون قلبه فارغا خالیا عن الاشیا كما قیل عن ابراهیم بن دوحه انه قال دخلت مع ابراهیم بن شیبۃ البادیة فقال لی اطرح ما معك من العلائق فطرحت كل شیء الا دینارا فقال لا تشغل سوی اطرح ما معك فطرحت الدینار فقال اطرح ما معك من العلائق فذكرت ان معی شسوعا للنعل فطرحتها فوالله ما احتجت فی الطریق الی شسع الا وجدته بین یدیی فقال ابن شیبۃ هكذا من عامل الله تعالی بالصّدق ولا ینبغی ان یقصر فی سفره من اورادہ الّتی کان یفعلها فی حضره لان السفر زیادۃ فی احوالهم فلا ینبغی ان یحصل له خلل فی اعماله و احواله بسفره وانما الرخص للضعفاء والعوام وما للاقویاء والخواص بالرخص بل العزیمۃ شأنهم ابدانی جیب احوالهم والتوفیق شامل لهم والرحمة نازلۃ علیهم والحرس قائم معهم والحفظ دائم لهم والحیب جالس معهم والانس به زائد والغنی به قائم والامداد به

مطالبہ سے وابستہ نہ رہے اس صورت میں وہ جہاں بھی ٹھہرے گا اس کا دل اس کے ساتھ ہوگا اور وہ تمام چیزوں سے یکسو ہوگا اور فارغ البال ہوگا جیسا کہ ابراہیم بن دوحہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ابراہیم بن شیبہ بادیہ سے ملاقات کی انہوں نے فرمایا ان تعلقات کو نکال پھینکو جن میں تمہارا دل پھنسا ہوا ہے یہ سن کر میں نے اپنے دل سے بجز دنیا کے سب چیزیں ہٹا دیں فرمایا: میرے دل کو اپنے دل کی چیزیں نہ پھنساؤ اب جو چیز تمہارے دل میں ہے اسے بھی نکال پھینکو اب میں نے دینار کا خیال بھی ہٹا دیا لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے دل سے تمام خیالات نکال پھینکو میں نے غور کیا تو یاد آیا کہ ابھی میرے جوتوں کے تسمے موجود ہیں میں نے انہیں بھی پھینک دیا اللہ کی قسم راستہ میں اگر مجھے تسمہ کی ضرورت پڑی تو میں نے تسمہ اپنے سامنے پایا پھر ابن شیبہ نے فرمایا کہ یہی حال اس شخص کا ہے جو صدق و خلوص سے اپنے پروردگار سے معاملہ رکھے فقیر کی شان کے شایاں یہ بات نہیں کہ وطن میں جن اورادہ و ظائف پڑھنے کا عادی تھا انہیں سفر میں چھوڑ دے یا ان میں کمی آنے دے کیونکہ سفر سے احوال میں زیادتی ہوتی ہے لہذا سفر کی وجہ سے اعمال و احوال میں خلل نہ آنے دیا جائے۔ رخصتیں کمزوروں اور عوام ہی کے لئے ہیں طاقت والوں کے اور خواص کے لئے رخصتیں نہیں ہیں بلکہ تمام حالات میں ان کی شان کے شایاں ہمیشہ عزیمت ہے توفیق ان کی رفیق ہے، رحمت ان پر برستی ہے، نگہبان ان کی نگرانی کرتے ہیں اور سدا ان کے لئے حفاظت و حراست ہے اور نماز تو یہ ہے کہ محبوب ان کے پاس ہے اور محبت و انسیت میں دم بہ دم اضافہ ہو رہا ہے انہیں محبوب کی وجہ سے بے پردگی ہے اور ان کی لگاتار و متواتر امداد فرما رہا ہے، لکن ان کے



متداركة ومتواتر لا والنصر لهم لازم و  
 والجنود لهم متكاثفة متتابعة ومنتبكة  
 لديهم فالسفر اقوى لهم واليق واحسن بما  
 هم بهمد ولا اذقيه البعد من الاسباب التي  
 هي الارباب والخلق الذين هم الاصنام  
 واضل من الصليان واشد من الشيطان  
 وينبغي للفقير ان يترأى قلبه في اول سفره  
 ولا يخرج عن الغفلة ويخترهد في سفره حتى لا  
 ينسى بقلبه ربه في سفره ولا ينبغي له ان  
 يكون سفره لغرض من اغراض الدنيا بوجه  
 من الوجوه بل يكون سفره لطاعة من الطاعات  
 اما للحج او للقاء شيخ او زيارة موضع من المواضع  
 المقدسة الشريفة و اذا سافر الفقير فوجد  
 قلبه بموضع من المواضع و رآه فيه اصفى  
 من الكدورات وعيشته او في فيلزم ذلك  
 الموضع ولا يزول عنه الا بما رجز ما و فعل  
 محض وقد فليتنح حينئذ الى ما لو صر به او  
 يميله القدر اذا كان من المفعولين فيهم  
 الزائل الهوى والارادات والاماني الفانيين  
 عنهم المرادين المحبوبين و اذا ظهر لفقير جاه  
 وقبول ببعض المواضع فينبغي له ان يخرج  
 منه ويشوش على نفسه ذلك القبول لئلا  
 ينفي بيه عن الله ويحجب عنه فيكون الخلق  
 نصيبه وهذا انما يكون مع وجود الهوى  
 واما مع زواله فلا وجود للخلق ولا لقبولهم

لازم ہے اور لگا تار طوسی دل گھنا شکر ان کے ساتھ ہے لہذا  
 جس کام کے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے لئے سفر انتہائی  
 موزوں، مناسب اور قوت افزا ہے کیونکہ سفر میں وہ اسباب  
 سے جو ارباب ہیں اور لوگوں سے جو بت ہیں اور صلیب پرستوں  
 سے بھی زیادہ گمراہ اور شیطانوں سے بھی آگے آگے ہیں بہت  
 دُور رہتے ہیں فقیر کو لائق ہے کہ آغاز سفر میں اپنے دل کی گھنا  
 کرے اور غفلت کی حالت میں سفر پر روانہ نہ ہو اور سفر میں  
 سرگرم ذکر و فکر رہے تاکہ اپنے دل سے اپنے پروردگار کو نہ بھولے  
 یہ بھی لائق نہیں کہ فقیر کا سفر کسی بھی پہلو سے کسی دنیوی غرض کے  
 لئے ہو بلکہ سفر کسی عبادت کے لئے ہو خواہ حج و عمرے کے لئے  
 ہو یا کسی بزرگ سے ملاقات کے لئے ہو یا کسی مقدس و شریف  
 جگہ کی زیارت کے لئے ہو اگر اثنائے سفر میں فقیر کسی مقام پر  
 اپنے دل کو کدورتوں سے صاف پائے اور یہ بھی دیکھے کہ میں  
 یہاں سکونت اختیار کر کے آرام سے اپنی زندگانی کے دن بسر  
 کر لوں گا تو اس جگہ بس جائے اور اسے چھٹ جائے اور وہاں سے  
 ہرگز ہرگز نہ ہٹے الا یہ کہ کسی ضروری امر کی وجہ سے تقدیر ہی  
 وہاں سے ہٹا دے تو وہاں سے ہٹ کر اس جگہ چلا جائے  
 جہاں کا حکم ہوا ہے یا جہاں تقدیر سے لے جانا چاہتی ہے  
 جبکہ وہ مفعول یعنی تقدیر کے تصرف میں ہے اور ہوئی اور  
 اور آرزو سے کنارہ کش ہے اور فنا فی اللہ اور حق تعالیٰ  
 شانہ کا مراد و محبوب ہے۔

اگر کسی فقیر کو کسی جگہ عزت و قبولیت کا شرف نصیب  
 ہو تو اسے اس جگہ سے نکل جانا مناسب ہے اور اس عزت  
 و قبولیت کو اپنے دل کے لئے باعث تشویش تصور کرے  
 تاکہ اس میں پھنس کر اللہ سے دُور اور محبوب نہ ہو جائے اور

اثر فہم خارجون عن القلب و بینہما حجب و  
 حرس یحفظون القلب عن دخول الخلق الیہ  
 لئلا یحصل الشریک فیتشعت التوحید و  
 ینبغی للفقیر أن یحاشی اصحابہ فی سفرہ  
 بحسن الخلق و جمیل المدارات و ترک المخالفة  
 و اللجاج فی جمیع الاشیاء و یشتغل بخدمتہم  
 ولا یتخذ منہم احدا و ینبغی أن یکون  
 ابدا فی سفرہ علی الطہارۃ و ان لم یجد  
 الماء یتیمم ما مکنہ ذلک کما یتحب  
 لہ فی حضرہ أن یکون علی الطہارۃ لأن  
 الوضوء سلاح المؤمن کما جاء فی الخبر و  
 هو امان لہ من الشیاطین و کل مؤذ و  
 ینبغی أن لا یفحیہ الاحداث المرادات  
 فی السفر علی الخصوص فانہم اقرب من  
 مصافاة الشیاطین و القبول منہا و الی  
 الشر و الفتن و متابعة الهوی و ہنات  
 النفس و التہمة و فی محبتہم خطر عظیم  
 الا ان یکون الفقیر ممن یقتدی بہ من  
 الشیوخ و العلماء باللہ و ابدال انبیاءہ  
 المحفوظین الاثمة الہدایۃ الربانیین معلمی  
 الخیر المؤمنین المنذربین للخلق و المسہد بین  
 لہم السفر اء بین الحق و الخلق الجہابذ لا  
 یحینذ لابیالی بمن یمحبہ من الاحداث  
 و الشیوخ اذا دخل بلد اوفیہ شیخ ینبغی أن  
 یبدأ سلامہ علیہ و خد منہ لہ و ینظر

خالق کے بجائے مخلوق حصہ میں نہ آجائے۔ یاد رکھیے یہ صورت حرص  
 و ہوس کی موجودگی میں پیدا ہوا کرتی ہے لیکن اگر ہوس سے دل  
 پاک و صاف ہے تو اس پر لوگوں کی عزت و قبول کا کوئی اثر نہ ہوگا  
 اور اس کے دل سے لوگ خارج ہوں گے اور اس میں اور لوگوں  
 میں بہت سے حجاب حائل ہیں اور بہت سے نگہبان تیار کھڑے ہیں  
 جو دل کی حفاظت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس میں داخل ہونے  
 سے روک رہے ہیں تاکہ شرک کے ناپاک قدم نہ آئیں اور توحید پر اگندہ  
 نہ ہونے پائے۔

فقیر کو لازم ہے کہ رفقاء سفر کے ساتھ حسن اخلاق، لطف  
 مدارات اور تمام چیزوں میں ترک مخالفت و خصومات سے پیش آئے  
 اور رفقاء کی خدمت کرتا رہے ان سے اپنی خدمت نہ کر لے سفر  
 میں حتی الامکان ہر وقت با وضو رہنا مناسب ہے اگر پانی نہ ملے  
 تو تنیم کر لے جیسا کہ حالت اقامت میں با وضو رہنا مستحب ہے  
 کیونکہ وضو مؤمن کا ہتھیار ہے جیسا کہ ایک حدیث سے ثابت  
 ہے۔ وضو شیطانوں سے اور ہر موزی سے محفوظ رکھتا ہے۔  
 مناسب تو یہی ہے کہ خاص طور سے سفر میں نو عمر بچے جن کے  
 ڈار بھی موچھ نہ ہو ساتھ نہ رکھے جائیں کیونکہ وہ شیطانوں سے  
 دوستی کرنے کے اور شیطانوں کو قبول کرنے کے جال ہیں اور  
 فتنہ و شرکے، ہوس کی پیروی کے، نفسیاتی عیوب کے اور نہمت  
 کے قریب ترین ہیں اور انہیں ساتھ رکھنے میں ایک عظیم خطرہ  
 ہے ہاں اگر فقیر امام و مقتدی ہو اور عالم با عمل ہو اور بدل ہو  
 خواہ نبی کا بدل ہو جس کی حفاظت کی جاتی ہے یا امام کا بدل ہو  
 جو رہنما ہوتے ہیں یا ربانی کا بدل ہو جو معلم خیر ہوتے ہیں  
 یا مؤدب کا بدل ہو جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر  
 جھنجھوڑتے رہتے ہیں اور انہیں تہذیب سے آراستہ کرتے رہتے



الیہ بعین الکبار والحشمة والتعظیم لئلا  
 یجرم فائدته واذ افتح له بشیء فلا یثاثر  
 به دون اصحابه واذ اوقع لاحد هم عذر  
 وقف معه ولا یضیعه والله الموفق للصواب۔  
**فصل ۳:** فی آدابهم فی السماع من ذلك  
 ان لا یتكلفوا السماع ولا یتقبلوه بالاختیار  
 فاذا اتفق السماع فمن حق المستمع ان یقع  
 بشرط الادب ذا کرا لربه بقلبه مشتغلاً  
 قلبه من طوارق الغفلة والنسیان فاذا قرع  
 سعه شیء یرى القاری للقرآن کأنه مستنطق  
 من قبل الحق عزوجل فیما یرد علیه من تعریفاً  
 الغیب ایلاً ما یوجب ترغیباً وترهیباً و  
 ایناساً وعتاباً وزیاداً فی القیام بعبادته  
 عزوجل او غیره فعند ذلك بادری ما یرد  
 علیه وقابل الاشارة علیه بالبداروان کان  
 السماع بحیث یمیرکان لسان القاری  
 لسانه وصار کانه یخاطب هو الحق بما یقرأ  
 القاری فما یحصل مما یجد فی قلبه من ذلك  
 یكون موافقاً للحق العبودیة وآداب الشریعة  
 وفی الجملة لا یمکن فی الطریقة ولا فی علم  
 الحقیقة شیء ینخالف آداب الشریعة واذ  
 کان فی القوم شیخ حاضر فی السماع فالواجب  
 علی الفقیر السکون ما أمکنه ومراعاة  
 حشمة ذلك الشیخ فان ورد علیه امر غالب  
 فنقد الغلبة یسلم الیه الحركة فاذا سکت

ہیں یا خالق و مخلوق کے درمیان والے سفیر کا بدل ہو غرضیکہ ابدال میں  
 سے ہو تو اگر اس کے ساتھ سفر میں نوجوان و بوڑھے اور مرد و عورت  
 تو کوئی سفنا لفظ نہیں، اگر فقیر کسی شہر میں جائے اور وہاں کوئی بزرگ  
 ہوں تو پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں سلام کرے اور  
 ان کی خدمت کرے اور انہیں احترام و عزت اور اکرام کی نگاہ  
 سے دیکھے تاکہ ان کے فوائد سے محروم نہ رہے اگر کوئی شخص ہاتھ آ  
 جائے تو اسے اپنے رفقاء کو چھوڑ کر اپنے لئے خاص نہ کرے اگر  
 کسی رفیق سفر کو کوئی عذر پیش آ جائے تو اس کے ساتھ ٹھہر  
 جائے اور اسے منافع نہ ہونے دے اللہ ہی صحیح راہ کی توفیق  
 عطا فرماتا ہے۔

**فقراء کے سماع کے آداب** فقیر کا فرض ہے کہ قصد سماع کے  
 لئے دعوت و قوالی وغیرہ میں حاضر نہ ہو اور نہ سماع کو پسند کرے لیکن  
 اگر اتفاق سے اس قسم کی مجلسوں میں پہنچ جائے تو اس پر فرض ہے  
 کہ ادب سے بیٹھ جائے اور دل میں اپنے پروردگار کا ذکر قائم رکھے  
 اور غفلت و بھول والی چیزوں سے اپنے دل کو محفوظ رکھے اگر کوئی  
 شعر کے دل پر اثر انداز ہو تو یہ تصور کرے کہ یہ قرآن کے قاری کی  
 ایک نصیحت ہے، غیبی الہام ہے اور یہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے  
 میری تنبیہ کے لئے اسکی زبان پر لایا گیا ہے جس سے مجھے کسی بات کا  
 شوق و لانا یا ڈرانا یا مالوس کرنا یا عتاب کرنا یا عبادت وغیرہ  
 میں اضافہ کرنا مقصود ہے لہذا جس چیز کی طرف اشارہ سمجھے اسے  
 پوری سرگرمی سے بحال لے اگر سماع کی یہ حیثیت ہو گویا پڑھنے والے  
 اللہ تعالیٰ کی زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہے اور سننے والا یہ جیسا  
 کہے گویا حق تعالیٰ پڑھنے والے کے کلام کے ذریعہ مجھی سے  
 مخاطب ہے اور شرع کے موافق ہے اور برحق ہے تو جو تاثر اس سے  
 حاصل کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے بہر حال طریقت و حقیقت میں

الغلبة فاولى له السكون مراعاة لحشمة  
 الشيخ ولا ينبغي للفقير ان يتفاضى القارى ولا  
 القوال ان استبدل القول الذى هو اذنى بالذنى  
 هو خير لعين الاتيان بالقرآن على ما هو  
 عادة اهل الزمان اليوم فلو صدقوا فى قصد  
 هم وتجردهم وتصرفهم لما انزعجوا فى قلوبهم  
 وجوارحهم بغير سماع كلام الله عز وجل  
 اذ هو كلام محبوبهم وصفته وقيده ذكره  
 وذكر الاولياء والاوابين والآخرين و  
 الماضين والغابرين والمحبة والمحبوب  
 والمريد والمراد وعتاب المدعين لمحبة  
 ولومهم وغير ذلك فلما اختلف صدقهم  
 وقصد هم وظهورت دعواهم من غير بينة  
 وزورهم وقتيا منهم مع الرسم والعادة  
 من غير غريزة باطنة وصدق السريرة  
 والمعرفة والمكاشفة والعلوم الغريبة  
 والاطلاع على الاسرار والقرب والانس  
 والوصول الى المحبوب والسماع الحقيقى و  
 الحديث والكلام الذى هو سنة الله  
 عز وجل مع العلماء به والخواص من الاولياء  
 والابدال والاعيان وخلت بواطنهم  
 من ذلك كله وقفوا مع القوال والابيات  
 والاشعار التى تشير لطباع وتريخ تاثره  
 العشاق بالطباع لا بالقلوب والارواح  
 فينبغى للفقير فى الجملة اعنى فقير الحق

کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو آداب شریعت کے خلاف ہو اگر مجلس سماع  
 میں کوئی شیخ تشریف فرما ہوں تو فقراء پر حتی المقدور پرسکون سنا  
 اور ان کے وقار و احترام کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اگر کسی جذبہ  
 اندرونی کا غلبہ ہو تو اس غلبہ کے انداز سے کے مطابق حرکات کا جواز  
 ہے پھر جب اس جذبہ کے غلبہ کا جوش بجھ جائے تو فوراً پرسکون اور  
 شیخ کے وقار و احترام کو پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ فقیر کی یہ شان نہیں  
 کہ قاری یا قوال سے استدعا کرے کہ اعلیٰ قول کو چھوڑ کر اذنی قول  
 اختیار کرے یعنی قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ کر غزلیں اور مہر طکدار  
 اشعار گا گا کہ پڑھ جیسا کہ آج کل ہمارے زمانہ کے لوگوں کی عادت  
 ہے کہ ان کا قرآن پاک کی تلاوت میں جی نہیں لگتا اور تو ایوں اور  
 عشقیہ غزلوں پر جان دیتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے قصد و تجرد میں  
 اور تصرف و اختیار میں سچے اور مخلص ہوتے تو ان کے دلوں اور  
 اعضاء کو اللہ کے مقدس کلام کو سننے بغیر چین ہی نہ آتا کیونکہ وہ  
 کلام ان کے محبوب حقیقی کا کلام ہے اور اس کی ایک صفت ہے اور  
 اس میں ان کے محبوب و مطلوب کا ذکر خیر ہے اور اگلے پچھلے تمام  
 اولیاء اللہ کا ماضی مستقبل کے تمام اللہ والوں کا محب و محبوب  
 کا مرید و مراد کا اور جھوٹے دعوی داران محبت پر عتاب و سرزنش  
 کا بیان ہے چنانکہ ان صدق و قصد میں خلل ہے ان کے دعوے  
 بلا دلیل کے ہیں ان کے جھوٹ اظہر من الشمس ہیں، وہ رسمی اور  
 عادی طور پر اللہ اللہ کرتے ہیں، ان میں باطنی محبت، خلوص  
 نیت، الزار معرفت، کشف حقائق، علوم غریبہ، اسرار سے واقفیت  
 قرب از محبوب، انس از حبیب، مطلوب تک رسائی اور سماع حقیقی  
 قرآن و حدیث کا سماع اور قرآن و حدیث کے سماع ہی پر اولیاء  
 ابدال، خواص اور ممتاز محب جان دیتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں  
 کہ یہی اللہ کا طریقہ ہے، کے جذبات کا فرما نہیں اور ان تمام جذبات



عز وجل و فقیر الخلق اعنی فقیر المعنی و فقیر  
 الصورة اعنی فقیراً من الدنیا و فقیراً من العقبی  
 والاکوان ان لا یتقاضی القاری والقوال  
 بالتکرار والاعادة بل یکمل ذلک الی الحق  
 سبحانہ ان شاء قیض من ینوب عنہ فی  
 التقاضی او یلهم القوال بالتکرار اذا کان  
 الفقیر المستمع صائلاً فی التکرار و لاء  
 و مصلحة ولا ینبغی للفقیر ان یتعین لغيره  
 فی حال السماع فان سأل الفقراء منه المسأل  
 فی الحركة فلیساعدهم و ذلک منع فی الحال  
 و اذا سمع الفقیر آیة او بیتاً فلا یجب  
 ان یزاحمه احد و یجب ان یسلم له وقتہ  
 وان خولف فز و حم فالأولی للمزاحم له  
 التسلیم و اذا تحرك الفقیر علی آیة او  
 بیت فیجب ان یسلم له وقتہ و ان وقع  
 للحاضرین علیہ اشراف و رأوا فیسألون تقصیراً  
 و انقصاناً فالواجب علیہم الاستزغلیہ و  
 الحمل عنہ فان اقتضى الوقت تنبیہہ فلینبہہ  
 بالرفق او بالقلب لا باللسان و ہا ہنا  
 یحتاج الی قوۃ حال و صفاء باطن و علم  
 دقیق و اطلاع و آداب کاملۃ و محافظۃ  
 شدیدۃ حبیدۃ و اذا خرج فی حال ساعہ  
 من جرقة او من شیء من ثیابہ فلا یخلو  
 اما ان یکون قد تخلق بہ مع القاری فہو  
 للقاری علی الخصوص و یطرحہ فی الوسط فیکون

سے ان کے دل غیر آباد ہیں، اسی لئے وہ قوالوں، نظموں اور غزلوں پر  
 جو ان کے دلوں میں آگ لگا دیں اور ان کے نفسانی عشق کی آگ بھڑکا دیں  
 اور دل والی اور روحانی آگ بجھا دیں، ٹوٹ پڑتے ہیں بہر حال فقیر کی  
 یعنی اللہ کے فقیر کی، معنی کے فقیر کی، صورت کے فقیر یعنی دنیا کے فقیر کی  
 اور آخرت کے فقیر کی شان کے شایاں یہی ہے کہ قاری اور قوال سے تکرار  
 و اعادہ کا سوال نہ کرے بلکہ یہ معاملہ حق تعالیٰ سبحانہ کے سپرد کر دے  
 اگر سننے والا فقیر صادق و مخلص ہے اور تکرار میں اس کیلئے مصلحت و علاج ہے تو حق تعالیٰ  
 اگر چاہے گا تو اپنے اس مخلص بندے کی طرف سے کسی نہ کسی کو تکرار کی استدعا کے لئے  
 کھڑا کرے گا اور اس کا نائب بنا کر اسکی فرمائش سے وہ چیز تکرار کرے کہ رہنما ہو گا  
 یا خود تارکی یا قوال کے دل میں یہ خیال پیدا کرے گا کہ وہ بار بار پڑھنے تاکہ سامعین کو  
 زیادہ زیادہ لطف اندوز ہوں اور سرور و کیف کی لذتیں فقیر کو لائق نہیں سمجھتا  
 سماع میں کسی غیر سے اپنی شکر گرائے اور اس سے مدد طلب کرے اگر فقیر فقیر سے اپنے حال  
 میں مدد مانگیں تو ان کی اعانت کر دے یہ حال کی کمزوری کی اگر فقیر کوئی  
 آیت یا کوئی شعر سن کر وجد میں آجائے تو اس سے کوئی مزاحمت نہ کرے  
 اور اسے وجد کی حالت میں رہنے دے لیکن اگر کوئی مزاحمت کرے تو  
 فقیر کے لئے اولیٰ یہی ہے کہ اس کی مزاحمت کو مان لے اگر کوئی فقیر کسی  
 آیت یا شعر کو سن کر وجد میں آجائے اور حرکت کرنے لگے ناچنے  
 لگے، تو اسی وقت اسے اسی حال پر چھوڑ دیا جائے اگر حاضرین کو قرآن  
 سے معلوم ہو جائے کہ اس کا وجد بنا دٹی ہے اور وہ اس میں تصور و کوئی بھی  
 دیکھیں تو اس کے عیب پر پروردہ ڈالنا واجب ہے اور اسکی طرف سے  
 صفائی کرنا بھی مناسب ہے اگر وقت کا تقاضا یہ ہو کہ اسے تنبیہ کا جائے  
 تو محبت و پیار سے نرم لہجہ میں دل سے زبان سے نہیں تنبیہ کر دی  
 جائے لیکن اس کام کے لئے توت حال، صفائی باطن، دقیق علم،  
 اسرار پر اطلاع، کامل آداب اور سخت و قابل تعریف محافظت کی  
 ضرورت ہے اگر وجد کی حالت میں گدڑی یا کپڑے اتار چھینے تو یا

حکمہ الیہ فیقال لہ ما الذی اردت بہ فان  
قال قصدت بہ ان یكون بحکم الفقراء کان  
ذک خلقا منہ معہم فہولہم بحکم الفتوح  
وذلك الیہم یرون فیہ رأیہم وان قال  
اردت بہ موافقة شیخ طرح خرقتہ فہذا ضعیف  
الحال جد اریک الامر حقا لانه انما ینبغی  
ان یوافق الشیخ فی حکم خروجہ عن خرقتہ من  
قد وافق الشیخ فی وجد لا وحالہ و ذلک  
بعید جدا ان یتفق اثنا منہم فی حال دا  
والذی جرت بہ العادۃ بین الفقراء واستمر  
بہ الرسم بینہما الیوم فی المرافقة فی  
طرح الخرقة فلیس لہ اصل ثم اذا جرى  
منہ ذلک مع منعہ فبحکم خرقتہ المطروحة  
الی ذلک الشیخ فی رسم العادۃ لا فی العلم  
والشریعة او فی مقتضى الطریقة والحقیقة  
وان قال صاحب الخرقة اردت موافقة  
القوم الحاضریں فہذا ایضا ضعیف من الاول  
لانہ انما ینبغی ان یكون الاشتراک فی  
الفعل عند الاتفاق فی الحال والوجد و  
فلما یتفق ذلک للقوم حتی یستروا فی الشرک  
والحال فیرجع فی ذلک الی القوم فما یكون  
حکم خرقتہم فلہ اسوتہم فی ذلک فان  
قال لم یکن الوقت قصد ولا نیتہ یقال  
فالآن ہو بحکمک فاحکم فیہ بما شئت  
ولیس لاحد من الحاضریں ولا للشیخ ان کان

تو وہ کپڑے اس نے پڑھنے والے کو بطور انعام کے دئے ہیں تو وہ کپڑے  
خاص طور پر قاری ہی کے ہیں یا مجلس کے درمیان پھینک دئے ہیں تو  
ان کا حکم اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ان  
کپڑوں کو اتار کر پھینکنے کا کیا مقصد ہے اگر یہ جواب دے کہ میں نے  
یہ کپڑے فقراء کے حکم کے بموجب پھینکے ہیں تو اس نے فقراء کے ساتھ  
حسن سلوک کا ارادہ کیا ہے اس لئے وہ فقراء ہی کے کپڑے ہیں اور  
فقراء اپنی رائے سے ان میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کہے کہ  
میں نے فلاں شیخ کی اجازت سے اپنی گڈری وجد میں پھینک دی تھی  
دیکھا کبھی ایسا کیا ہے تو یہ شخص انتہائی کمزور حال الا اور حقیقت  
میں انتہائی ردی کام والا ہے کیونکہ گڈری سے باہر نکل آنے کے حکم  
میں شیخ کی رہی شخص موافقت کر سکتا ہے جو شیخ کے وجد و حال میں  
بھی موافق ہو اور یہ بات بعید از عقل ہے کہ دو شخص ایک ہی  
حال میں موافق و متحد ہوں۔ آج کل فقراء میں شیخ کی موافقت میں  
حالت وجد میں گڈری پھینکنے کی جو رسم پائی جاتی ہے اس کی کوئی  
اصل نہیں اور اگر یہ کام عقیدے کی سستی سے کیا گیا ہے تو پھر اس کا  
فیصلہ وہی شخص فرمائیں گے جن کی موافقت میں گڈری پھینکی گئی ہے  
اور رسم و عادت کے طور پر ایسا کیا گیا ہے علم و شریعت اور طریقت  
و حقیقت کے طور پر نہیں کیا گیا اگر گڈری پھینکنے والا کہے کہ میں نے تجری  
مجلس سماع کی موافقت میں یہ کام کیا ہے تو یہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور  
ہے کیونکہ فعل میں شرکت اسی وقت ممکن ہے جبکہ حال وجد میں سب کا  
اتفاق ہو حالانکہ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہی نہیں کہ تمام حاضرین مجلس  
میں آجائیں مشرب و وجد میں لوگوں میں برابری نہیں ہوتی لہذا  
جو گڈری حاضرین کی موافقت میں پھینکی گئی ہے اس کا حکم حاضرین  
کی رائے پر ہے جو حاضرین کی گڈریوں کا حکم ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا  
اور اگر کہے کہ گڈری پھینکنے وقت میرا کوئی قصد و ارادہ نہ تھا تو



حاضر فی ذلك حکم البتة اذا لیس صاحبہ  
 نیہ بحق اولاً له قصد ولا لذلك اصل فی الطريقة  
 فان قال وردت علی فی الوقت الا شارحاً  
 بالخروج من الخرقۃ من غیر قصد الی شیء  
 علی التعیین فقد یكون لهذا فی الطريقة اصل  
 لان من خلعت علیہ السلطان خلعت فالواجب  
 علی المخلوع علیہ ان ینزع ملبوسہ ثم  
 یلبس الخلعة فہذا حکم هذا الفقیر  
 ان ینزع من خرقته ویلبس ما خلعت علیہ  
 الباری عزوجل من الالنوار والقرب والاطنا  
 ثمان حکم خرقته الی الشیخ الحاضر ان کان  
 هناك والافللحاضری من الفقراء ان یفر  
 القاری أو القوال بها وقد قیل ان ذلك الی  
 الفقیر وهو اولی بحکم خرقته من غیرہ فاما  
 معارضة الحاضری من ارباب الدنیا لیشترکوا  
 الخرقۃ ثم ترد الی صاحبها فذلك غیر  
 محمود فی الطریق وغیر مرضی اللہم الا ان  
 یكون المشتري فیہ فتویٰ وایمان بالقوم  
 یرید ان ینخلق معہم وهو نوع من المعاوضۃ  
 والسؤال بالتلطف ولکنہ مذموم جدا  
 لانه فی حال خروجه عن الخرقۃ اظهر الصدق  
 من نفسه فی الحال ویرجوع الی الخرقۃ  
 فافتم لنفسه ومکذب لها وذلك غیر  
 مرضی ولا ینبغی لمن خرج من خرقته ان یعود  
 الیها ویقبلها فان کان ذلك باشارتاً

کہا جائے گا تو اس صورت میں تم کو اختیار ہے گدڑی کے سلسلہ میں جو چاہو  
 کہ وہ اس میں تصرف کا نہ حاضرین کو اختیار ہے اور نہ کسی شیخ کو اگر وہ مجلس  
 میں موجود ہوں کیونکہ گدڑی والے نے شعور و ارادے سے گدڑی نہیں  
 پھینکی اور نہ اس کی طرفت میں کوئی اصل ہے اگر کہے کہ سماع کے وقت  
 مجھے حق تعالیٰ کی طرف سے بلا قصد کے گدڑی پھینکنے کا اشارہ ہوا یعنی میں نے  
 کسی معین شخص کو دینے کا قصد نہیں کیا تھا تو طرفت میں اس کی اصل پائی  
 جاسکتی ہے کیونکہ جس بادشاہ نے اسے خلعت سے نوازا اور سر بلند فرمایا تھا  
 اسی نے حکم دیا کہ اس لباس کو اتار پھینکو پھر وہی اسے دوسرا خلعت عطا  
 فرمادے گا لہذا اس فقیر کا اسی طرح حکم ہے کہ اپنی گدڑی اتار پھینکے اور  
 حق تعالیٰ شانہ کی عطا کردہ گدڑی پہن لے جو الطاف الہی اور تہرب کی  
 ہے پھر اس کا حکم مجلس میں موجودہ شخص فرمائے گا اگر کوئی شیخ اس  
 مجلس میں موجود ہو تو اور نہ حاضرین فقراء خواہ اسے پڑھنے والوں کو  
 دیں یا تو الوں کو دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حکم گدڑی والا  
 فقیر ہی کہے گا کیونکہ غیروں کی بہ نسبت وہی اپنی گدڑی میں تصرف کا  
 حق دار ہے لیکن حاضرین مجلس میں سے جو دنیا دار حضرات اسے خرید کر  
 پھر فقیر کو لوٹا دیتے ہیں یہ طرفت میں لائق تعریف بات نہیں اور ناپسند  
 ہے اگر اس گدڑی کو خریدنے والا جو ان مرد فقراء کا معتقد اور ان جیسا  
 بننے کا ارادہ رکھتا ہو تو خیر کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا معاوضہ  
 اور لطیف پیرایہ میں سوال ہے لیکن انتہائی قابل مذمت ہے کیونکہ جب وہ  
 فقیر گدڑی سے باہر آیا تو اس نے وجد و حال سے اپنے نفس کی صداقت  
 کا اظہار کیا اور گدڑی کا پھر پہن لینا اپنے نفس کی رسوائی اور اس کی  
 تکذیب ہے جو انتہائی ناپسندیدہ ہے اور جو فقیر اپنی گدڑی سے نکل  
 جائے اسے مناسب نہیں کہ پھر اس کی طرف رجوع کرے اور اسے  
 قبول کر لے پھر اگر ایسا کسی شیخ کے اشارے سے کیا گیا ہو کہ شیخ نے  
 اسے اس کے لینے کا حکم دیا ہو تو شیخ کے حکم کو بجالانے کے لئے حکم

شیخ بان امرہ باخذہا فانہ یاخذہا خیرا  
 امتثالاً لامر الشیخ ثم یخرج منها بعد ذلك  
 فیتخلق بها غیرہ واذا وقع شیء فی الوسط  
 للجماعة فالواجب التسویة بینہم فان کان  
 نیہم شیخ ورأی تخصیص قوماً واحداً من الحاضری  
 فحکم ذلك الی الشیخ یتبع رأیہ فیہ خلوط  
 خرقتہ فردت علیہ فکانت طریقته ان لا  
 یرجع الی شیء وخرج منه وعاد الفقراء الی  
 خرقتہم فان کان لہ شیخ کان لہ ان لا  
 یرجع الی خرقتہ ویلزم طریقته فلا یرجع  
 الی ما خرج منه ولا ینقض حالته اتباعاً  
 لاحوال الجماعة وان کان واحداً من  
 الفقراء فالأطرف من حالہ والایق بہا  
 ان یوافق الجماعة فی الحال فیعود الی خرقتہ  
 لئلا یجعل القوم ویستجیوا ویبقتوا ثم  
 بعد ذلك یخرج منها الی الحاضرین وهو  
 الاولی وان دفعها الی غائب عن المجلس  
 جاز۔

وهذا آخر ما الفنا من آداب المقوم  
 علی وجه الاختصار والاقبال والامکان  
 فی الوقت واما ما تعلق بدخول الربط  
 والسقایات ولبس الخداء واشیاء احدی  
 ووضوعها وسبعوها بینہم فذلک یتفاد  
 من ما رستہم ومخالطہم والاستخبار  
 والاشارة منہم فلم نسطرہ فی الكتاب

نے نے رہانے کی کیا ضرورت ہے) پھر جب شیخ صاحب تشریف لے  
 جائیں تو گدڑی کو اتار کر کسی اور کو دے دے اور جب جماعت کے  
 درمیان کوئی چیز گرسے تو اس میں ان میں برابری واجب ہے، اگر  
 جماعت میں کوئی شیخ ہو اور وہ حاضرین میں سے چند لوگوں کو یا کسی  
 معین شخص کو اس کے لئے مخصوص فرمادیں تو شیخ کو اختیار ہے شیخ  
 کے حکم پر عمل کیا جائے اور ان کی رائے کو مقدم سمجھا جائے۔ اگر کسی  
 فقیر نے اپنی گدڑی اتار پھینکی پھر وہ گدڑی اسی پر لوٹا دی گئی اور  
 اس کی عادت ہے کہ جو چیز اتار کر پھینک دے اس کی طرف رجوع نہیں  
 کیا کرتا اور دیگر فقراء نے اپنی اپنی گدڑی واپس لے لی ہے اگر اس کا  
 شیخ موجود ہو تو اس کا فرض ہے کہ اپنی گدڑی واپس نہ لے اور اپنی  
 سابق عادت پر چارہ ہے اور جس چیز کو پھینک دیا ہے اسے پھر نہ  
 لے اور دیگر فقراء کی پیروی کر کے اپنی عادت کو نہ توڑے۔ اگر وہ فقیر  
 تنہا ہے تو اس کے حال کی شان کے شایاں اور لائق یہی بات ہے  
 کہ حال میں جماعت کی موافقت کرے اور اپنی گدڑی واپس لے لے تاکہ  
 اس کی توہم کے فقراء کو نہ امت نہ ہو اور وہ شرمندہ نہ ہوں اور اس  
 ناراض نہ ہوں پھر اس کے بعد وہ گدڑی حاضرین مجلس کو دیدے۔  
 یہی بہتر ہے اور اگر کسی ایسے شخص کو دیدنے جو مجلس میں موجود نہیں  
 تو بھی جائز ہے یہ آداب فقراء کے سلسلہ آخری موضوع ہے یہ آداب ہم  
 نے اختصار سے وقت کی گنجائش کے مطابق تھوڑے سے بیان کر دیے  
 ہیں جو آداب سرائے پانی بھرنے اور پلانے، جو تاپینے اور ان چیزوں کے  
 بارے میں ہیں جو فقراء نے آپس میں ایجاد کر لی ہیں، انہیں وضع کر لیا ہے  
 اور وہ ان میں رسمی طور پر جاری ہیں ہم نے انہیں کتاب میں درج نہیں  
 کیا ہے وہ تو ان میں ملنے جلنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے اور گھل مل کر  
 رہنے سنے سے معلوم ہو سکتی ہیں تاہم ہم نے ان میں سے اکثر چیزوں  
 کا ذکر اثنائے کتاب میں کتاب الادب فی الشرع میں کر دیا ہے



وقد ذكرنا معظم ذلك في كتاب الادب في الشرع في  
اثناء الكتاب ثم نختم الكتاب بذكر باب يشتمل على  
باب المجاهدة والتوكل وحسن الخلق والشكر  
الصبر والرضا والمدق اذ هذا الاشياء السبعة  
اساس لهدى الطريقة والكل خير.

اب ہم اپنی کتاب ایک ایسے باب پر ختم کرتے ہیں جس میں  
مجاہدہ، توکل، حسن اخلاق، شکر، صبر، رضا اور صدق  
شامل ہیں کیونکہ یہ سات چیزیں اس (طریقیت) کے بنیادی  
پتھر ہیں اور ہر ایک خیر و برکات کا موجب ہے۔

★

## خاتمہ

### مجاہدہ، توکل، حسن خلق، شکر، صبر، رضا، صدق

فصل: واما المجاهدة فالاصل فيها قول  
الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم  
سبلنا وروى البونصره عن ابي سعيد الخدري  
رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله  
عليه وسلم عن افضل الجهاد قال كلمة  
حق عند سلطان جائر ودمعت عينا  
ابي سعيد رضي الله عنه وقال ابو علي  
الدقاق رحمه الله من زين ظاهرا بالمجاهد  
حسن الله سرائره بالمشاهدة قال الله  
عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم  
سبلنا وكل من لم يكن في بد ايتيه  
صاحب مجاهدة لم يجد من الطريقة شمة  
وقال ابو عثمان المغربي رحمه الله من طن  
انه يفتح عليه بشيء من هذه الطريقة او

مجاہدہ | مجاہدہ قرآن پاک سے ثابت ہے فرمایا: اور وہ جو ہماری  
جستجو میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں راہیں ضرور سنبھادیتے ہیں۔  
البونصرہ از ابو سعید خدری:۔ رسول اکرم صلعم سے افضل جہاد  
کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات  
کہہ دینا سب سے بڑا جہاد ہے، یہ روایت کر کے حضرت ابو سعید  
کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔

ابو علی دقاق:۔ جو اپنے ظاہر کو مجاہدہ سے آراستہ کر لے حتیٰ تعالیٰ  
اس کے باطن کو مشاہدہ سے حسین بنا دیگا حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو  
ہماری طلب میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور سنبھادیتے  
ہیں اگر کوئی آغاز میں صاحب مجاہدہ نہیں تو اس نے طریقت کی تہ  
نہیں سونگھی۔

ابو عثمان مغربی:۔ جس کا خیال ہو کہ مجھ پر بلا مجاہدہ کے طریقت کے  
دروازے کھل جائیں یا بعض مسائل معلوم ہو جائیں وہ غلطی پر ہے  
ابو علی دقاق:۔ جس کے آغاز میں قوم نہ ہو اس کے اختتام پر

يكشف له شيء منها لغير لزوم المجاهدة  
فهو في غلط وقال ابو علي الذقاق رحمه الله  
من لم يكن له في بدايته قومة لم يكن له في  
نعمائيه جلسته وقال ايضا رحمه الله الحركة  
بركة حركات الطواهر توجب بركات السرائر  
وقال الحسن بن علوية قال ابو يزيد رحمه الله  
كنت ثلثي عشرة سنة حادا نفسي وخمس  
سنتين كنت مراءاة قلوبى وسنة النظر فيما  
بينها فاذا في وسطى زنا طاهر فعملت  
في قطعه ثلثي عشرة سنة ثم نظرت فاذا  
في باطنى زنا فعملت في قطعه خمس سنين  
النظر كيف اقطع فكشف لي فنظرت الى الخلق  
فرايتهم موقفي فكبرت عليهم اربع تكبيرات  
وعن الجنيد رحمه الله قال سعت السرى  
رحمه الله يقول يا معشر الشباب جددوا  
قبل ان تبلغوا مبلغى فتضعفوا وتقصروا  
كما قصرت وكان في ذلك الوقت لا  
يلحقه الشباب في العبادة وقال الحسن  
القزاز رحمه الله بنى هذا الامر على ثلاثة  
اشياء ان لا ياكل الا عند الفاقة ولا  
ينام الا عند الغلبة ولا يتكلم الا عند  
الضرورة وقال ابراهيم بن ادلم رحمه  
الله بن بينال الرجل درجة الصالحين حتى  
يجوزست عقبات الاولى يخلق باب النعمة  
ويفتح باب الشدة والثانية يخلق باب العز

جلسه بھی نہ ہوگا۔ صاحب موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ حرکت میں برکت ہے۔  
ظاہری اعضاء کی حرکات برکات باطن کی موجب ہیں۔ حسن بن علویہ۔ ابو  
یزید کا قول ہے کہ میں بارہ سال تک اپنے نفس کو لوہار بن کر کھڑا رہا  
اور پانچ برس تک دل کے آئینہ سے زنگ صاف کرتا رہا اور ایک سال  
تک اس آئینہ میں اپنے خدو خال دیکھتا رہا کہ اچانک مجھے اپنے باطن  
میں زنا دکھائی دیا پانچ سال تک اس زنا کے کاٹنے میں سرگرم عمل  
رہا اور کہشش کرتا رہا کہ کس طرح کاٹوں آخر کار اس سلسلہ میں مجھے  
کشف ہوا اور میں نے لوگوں کو مردہ پایا بالآخر میں نے ان پر چار  
تکبیروں سے جنازے کی نماز پڑھی۔

جنید: میں نے سری سے سنا فرمایا کرتے تھے: لوگو! قبل اس کے  
کہ تم میرے مرتبہ تک پہنچو خوب کہشش کرو تم کمزور ہو جاؤ گے اور  
میری طرح سے عبادت میں کوتاہی کرنے لگو گے اور اس وقت سری کا  
بڑھاپا تھا لیکن عبادت میں لوجوان ان کے مقام تک پہنچنے سے  
عاجز رہ جاتے تھے۔

حسن قزاز: اس امر (تصوف) کی بنیاد تین چیزوں پر ہے کہ فاتحہ ہی  
کے وقت کھایا جائے، غلبہٴ بیند کے وقت ہی سویا جائے اور ضرورت  
کے وقت ہی بات کی جائے۔

ابراہیم بن ادلم: انسان صلحاء کا درجہ نہیں پاسکتا جب تک  
چھ گھاٹیوں سے نہ گزر جائے پہلی گھاٹی تو یہ ہے کہ اپنے اوپر نعمتوں کا  
دروازہ مقفل کر دے اور تشدد کا دروازہ کھول دے دوسری گھاٹی  
یہ ہے کہ اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر دے اور ذلت کا دروازہ  
کھول دے۔ تیسری گھاٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر آرام کا دروازہ  
بند کر دے اور محنت و مشقت کا دروازہ کھول دے چوتھی گھاٹی  
یہ ہے کہ اپنے اوپر بیند کا دروازہ بند کر دے اور بیداری کا دروازہ  
کھول دے پانچویں گھاٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر مالداری کا دروازہ بند



کردے اور نفی کا دروازہ کھول دے چھٹی گھٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر  
امیدوں کا دروازہ بند کر دے اور موت کی تیاریوں کا دروازہ کھلا رکھے  
ابو عمرو بن حنیفہ: جسے اپنا نفس پیارا ہے اسے اپنا دین عزیز نہیں  
ابو علی رودباری: جب صوفی پانچ دن کے بعد کہہ دے کہ میں  
بھوکا ہوں تو اسے بازار میں بھیج دو اور کمانے کی تاکید کر دو۔  
ذوالنون مصری: ایسی عزت جو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت  
والی ہو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نصیب نہیں فرمائی بجز اس بندے کے  
جسے اس کے نفس کی ذلت کی طرف رہنمائی فرمائی اور اللہ کے نزدیک  
انتہائی ذلیل وہ بندہ ہے جسے اس نے اس کے نفس کی ذلت سے  
محبوب رکھا۔

ابراہیم الخواص: مجھے جو چیز مولانا محسوس ہوئی میں اسی  
پر سوار ہوا۔

محمد بن الفضل: اصل آرام نفس کی امیدوں سے رہائی ہے۔  
منصور بن عبد اللہ: میں نے ابو علی رودباری سے سنا فرما  
تھے کہ آفت بین دروازوں سے آتی ہے طبیعت کی بیماری سے عادتوں  
پر چھٹ جانے سے اور فساد صحبت سے ہیں نے پوچھا: طبیعت  
کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حرام کھانا، میں نے پوچھا عادت پر چھٹنا  
کیا ہے؟ فرمایا حرام کو دیکھنا اس سے فائدہ اٹھانا اور غیبت  
کرنا میں نے کہا فساد صحبت کیا ہے؟ فرمایا جب دل میں کوئی  
خواہش پیدا ہو تو اس کے پیچھے لگ جانا۔

نصرا بادی: تیرا قید خانہ تیرا نفس ہے اگر تو اس سے رہائی پا  
جائے تو تجھے دائمی راحت مل جائے۔

ابو الحسن دقاق: ابتدا میں مسجد ابو عثمان میں ہمارا سب  
سے بڑا کام یہ تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا اسے سب ہانٹ  
لیا کرتے تھے اور کسی خاص چیز کی نیت نہیں کرتے تھے اور اگر کوئی

ویفتم باب الذل والثالثة یفلق باب الراحة و  
یفتم باب الجهد والرابعة یفلق باب النوم و  
یفتم باب السهر والخامسة یفلق باب الغی  
ویفتم باب الفقر والسادسة یفلق باب الأمل  
ویفتم باب الاستعداد للموت وقال ابو عمر  
بن نجید رحمه الله من کرمت علیه نفسه  
هان علیه دینہ ویقتل ابو علی الروذباری  
رحمه الله اذا قال الصوفی بعد خمسة ایام  
انا جائع فالزموا السوق وامروا بالكسب  
وقال ذوالنون المصری رحمه الله ما اعز  
الله عبد العز هو اعز له من أن یدله  
على ذل نفسه وما اذل الله عبد اذل  
هو اذل له من أن یجبه عن ذل نفسه وقال  
ابراہیم الخواص رحمه الله ما هالک شیء  
الا رکبته وقال لی محمد بن الفضل رحمه  
الراحة هی الخواص من امانی النفس وقال  
منصور بن عبد الله رحمه الله سمعت ابا  
علی الروذباری رحمه الله یقول دخلت  
الآفة من ثلاث سقم الطبيعة وملازمة  
العادة وفساد الصحبة فسألته ما سقم  
الطبيعة فقال اكل الحرام فقلت وما  
ملازمة العادة قال النظر والاستمتاع  
بالحرام والغيبة قلت فما فساد الصحبة  
فقال كلما حاجت فی النفس شهوة یتبعها  
وقال النصرا بادی رحمه الله سبحك نفسك

اذا خرجت منها وقعت في راحة الابد  
وقال ابو الحسن الوراق رحمه الله كان  
اجل احكامنا في مبادي امرنا في مسجد  
ابي عثمان الايثار بما يقيم علينا وان لا  
نبيت على معلوم ومن استقبلنا بكرة  
لا ننتقم منه لانفسنا بل نقتدر اليه و  
نتواضع له واذا وقع في قلوبنا حقارة لاجل  
تمنا نجد منه فجا هذة العوام في توفية  
الاعمال وجاهدة الخواص في تصفية  
الاحوال وقد تسهل مقاساة الجوع والعطش  
والسهر ومعالجة الاخلاق الرديئة تقوى  
وتصعب -

ومن آفات النفس ركونها الى استجلاب  
المدح والذکر الطيب وثناء الخلق وقد  
تتمثل اثقال العبادات لذلك ويستولى عليها  
الرياء والنفاق وعلامة ذلك رجوعها  
الى الكسل والفشل عند القطار ذلك ودم  
الناس لها ولا يتبين لك آفات نفسك و  
شركها ودعواها وكذبها الا عند  
الامتحان في مواطن دعواها وعند الموازنة  
لها لانها تتكلم بعلام الخائفين ما لم  
تضطر الى الخوف واذا احتجت اليها في  
مواطن الخوف وجدتها آمنة وتقول  
قول الابرار ما لم تمتحن بالتقوى واذا  
خجنت اليها وطالبت بها بشروط التقوى

ہم سے بے ادبی سے پیش آتا تو ہم اس سے اپنے نفسوں کا انتقام نہیں لیا  
کرتے تھے اور صبر و تحمل سے کام لیتے تھے بلکہ اس سے اسی معافی مانگ لیا  
کرتے تھے اور اس کا احترام کیا کرتے تھے اگر کوئی شخص ہمیں حقیر معلوم  
ہو تا تو ہم اس کی خدمت کیا کرتے تھے غرضیکہ عوام کا مجاہدہ ظاہری اعمال  
و فریض و واجبات و مستحبات کو پورا کرنا ہے اور خواص کا مجاہدہ  
احوال کو پاک و صاف کرنا ہے۔ بھوک، پیاس اور بیداری تکلیفیں  
آسان ہیں لیکن بری عادتوں کا علاج دشوار و سخت ہے۔

نفس کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ نفس کا رجحان یہی  
ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مدح و ثنا اور ذکر خیر کریں اپنی تعریف سن کر سر  
انسان خوش ہوتا ہے بلکہ کبھی تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بھاری  
بھاری عبادتیں بھی کرتا ہے اور اس پر ریا اور نفاق کا علبہ چھایا کرتا ہے  
اس کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی  
برائی کرنے لگ جاتے ہیں تو عبادت چھوڑ بیٹھتا ہے اور سست  
پڑ جاتا ہے۔ نفس کی آفتیں، اس کا شرک، اس کے دعوے اور اس کا  
کذب النساؤں کو محسوس نہیں ہوا کرتا جب اس کے امتحان کا اور مقابلہ  
کرنے کا موقع نہیں آتا کیونکہ جب تک وہ خوف میں پھنستا نہیں اس وقت  
تک وہ ڈرنے والوں جیسی باتیں نہیں کرتا جب تم اسے مقامات خوف  
میں پاؤ گے تو اسے اللہ سے ڈرنے والوں کی طرح خوفزدہ نہ پاؤ  
گے۔ انسان پار ساڈن جیسی باتیں بناتا ہے مگر پار سا نہیں ہوتا۔  
صلی و کا قول ہے کہ جب تک پار سا کی پار سائی کا امتحان نہ ہو جب  
تک اس کی پار سائی کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر دعویہ داران پار سائی کی  
ذاتوں میں غور کرو اور ان میں تقویٰ کی شریطیں تلاش کرو تو تم انہیں  
مشرک، ریاکار اور مغرور پاؤ گے۔ نفس ہمیشہ عارفوں کے اوصاف  
بیان کرتا رہتا ہے جب تک اس کی کوئی غرض اٹکی ہوئی نہیں ہوتی  
لیکن اپنا الو سیدھا کرنے کے لئے تم اسے ان باتوں میں جھوٹا پاؤ



وحدتها مشرکة مرآیة معجبة وتصف وصف  
 العارفين مالم تحتاج الى الغایة فاذا طلبت منها  
 ذلك وجدتها كذاتة وتدعی دعوی الموقنین  
 مالم تتمتع بالاخلاص وتزعم انهما من  
 المتواضعین مالم یجیل بها خلاف هواها  
 عند الغضب وكذلك تدعی المخاء والكرم  
 والایثار والبذل والغنی والفتوة وغير  
 ذلك من الاخلاق الحميدة اخلاق الاولیاء  
 والابدال والاعیان تمنیا ورعونة وحقا  
 واذا طالبتها بذلك وامتنعتها لم تجدها  
 الا كسراب تقيعة یحسبه الظلمان ماء  
 حتی اذا جاء لا لم یجد لا شیئا ولو كان ثم  
 صدق واخلص وصدق منها القول وصدق  
 بالقول لسانها لما اظهرت التزین للخلق  
 الذین لا یملكون لها ضرا ولا نفعا ولصحت  
 اعمالها عند الامتحان فوافق قولها عملها  
 وقال ابو حفص رحمه الله النفس ظلمة کلها  
 وسراجها سرها یعنی الاخلاص ونور  
 سراجها التوفیق فمن لم یصحبه فی سراجها  
 توفیق من ربه كانت ظلمة کلها وقال  
 ابو عثمان رحمه الله لا یری احد عیب  
 نفسه وهو یستحسن من نفسه شیئا وانما  
 یراه من یتهمها فی جمیع الاحوال و  
 قال ابو حفص رحمه الله اسرع الناس  
 هلاکا من لا یعرف عیبه فان المعاصی

علاہہ ازبس نفس یقین لائے والوں کے سے دعویے کرتا ہے جب تک  
 اخلاص کے معیار پر اسے کسا نہیں جاتا اور گمان کرتا ہے کہ میں تو  
 پسند ہوں جب تک اس کی مرضی کے خلاف غصہ کے وقت کوئی دافع  
 پیش نہیں آتا اسی طرح نفس صفائی، بزرگی دوسروں کو خود پر  
 ترجیح، اللہ کی راہ میں خرچ، تو نگہی، جو امر وی وغیرہ یعنی اخلاق  
 حمیدہ کا دعویے کرتا ہے۔ جو اولیاء، ابدال، خواص اور اللہ والوں  
 کے اخلاق ہیں اور یہ دعویے شیخی، غرور اور صداقت کا یقین دلانے  
 کے لئے کرتا ہے لیکن اگر تم اس کے اندر جھانک کر دیکھو اور اسے کسوٹی  
 پر کسو تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اور محض سراب ہی سراب نکلتا ہے  
 جسے دوز سے پیسا پانی سمجھنا ہے مگر پاس آنے پر دیاں پانی کا  
 ایک قطرہ بھی نہیں پاتا اگر اس میں صداقت و اخلاص پایا جاتا تو  
 اس کا دعویٰ صحیح ہوتا اور زبان سے سچی بات نکلتی تو دنیا کو دھوکا  
 نہیں دیتا کیونکہ دنیا اس کے نفع و نقصان پر قادر نہیں اور پرکھنے  
 پر اس کے اعمال کندن ثابت ہوتے اور اس کے قول و عمل میں  
 موافقت ہوتی، تضاد نہ ہوتا۔

ابو حفص:۔ نفس سرابا ظلمت ہے اور اس کا چراغ اخلاص  
 ہے اور اس چراغ کا نور توفیق ہے لہذا جس کے باطن کی رفیق رب  
 کی توفیق نہیں اس کے باطن میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔

ابو عثمان:۔ کوئی اپنی ذات کے عیب نہیں دیکھتا بلکہ اپنی سراب  
 اچھی سمجھتا ہے لیکن جب کلمتہ چین اسے جھانک کر دیکھتا ہے تو اس کے  
 تمام عیبوں کی نشاندہی کرتا ہے۔

ابو حفص:۔ وہ شخص بہت جلدی ہلاک ہو جاتا ہے جو اپنے  
 عیب نہ پہچانے کیونکہ گناہ کفر کے ناصد و ایلچی ہیں۔

ابو سلیمان:۔ میں نے اپنے کسی عمل کو اچھا نہیں سمجھا کہ اسے  
 شمار میں لاؤں۔ سری:۔ مالدار پڑوسیوں سے، بازاری قاریوں سے

اور امراء کے ہم نشین علماء سے بچو۔

ذوالنون مصری :- دنیا میں نسا دچھ دروازوں سے آتا ہے

آخرت کے عملوں میں نیت کی سستی سے، تمناؤں میں جسموں

کو گروی رکھنے سے، موت کے قریب ہونے کے باوجود ایسی لمبی

امیدوں سے، خالق کی رضا پر مخلوق کی رضا کو مقدم کرنے

سے، استتوں کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے لگنے سے اور سلف

کے بہت سے شاندار کارنامے نظر انداز کر کے ان کی تھوڑی

سی لغزشوں کے اپنے لئے حجت بنانے سے۔

مجاہدہ کی حقیقت | مجاہدہ کی حقیقت نفس و خواہش کی مخالفت

ہے مجاہدہ میں نفس کو اس کی مرغوب چیزوں سے، من مانی باتوں

سے اور تمام لذتوں سے چھڑایا جاتا ہے اور ہر وقت اسے اس کی

خواہشوں کے خلاف آمادہ کیا جاتا ہے۔ اگر نفس خواہشات

میں ڈوبنا چاہتا ہے تو مجاہدہ اس سرکش گھوڑے کے منہ میں

تقوے کی اور اللہ کے ڈر کی لگام ڈال دیتا ہے اگر نفس منہ زور سے

کے اور عبادتوں کے بجالانے میں پس و پیش کرے اور شرع سے

کی موافقت سے منہ موڑے تو مجاہدہ اسے خوف کے خلاف ہوئی

کے اور لذتوں کو دفع کرنے والے کوڑوں سے مار مار کر چلاتا ہے اور

سیدھا کرتا ہے۔

مجاہدہ کا متمم مراقبہ | مجاہدہ مراقبہ کے بغیر کبھی مراحل طے

نہیں کر سکتا جب رسول اکرم صلعم سے حضرت جبریل نے اس

کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسی مراقبہ کی طرف اشارہ فرمایا

اور فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اس تصور سے اللہ کی عبادت کرو

گو یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور نہ آئے تو یہ تصور تو

قائم کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے کیونکہ مراقبہ بندے کا اس پر

یقین کر لینا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ اس کے ہر عمل سے آگاہ ہے

برید الكفر وقال ابو سليمان رحمه الله ما

اسحسنت من نفسى عبلا فاحتسبت به وقال

السرى رحمه الله اياكم وجيران الاغنياء

وقراء الاسواق و علماء الامراء وقال ذوالنون

المصرى رحمه الله انما دخل الفساد على الخلق

من سنة اشياء اولها ضعف النية بعمل

الآخرة والثاني صارت ابدانهم رهينة

بنواتهم والثالث طول الامل مع قرب الاجل

والرابع آثر ارضى المخلوقين على رضا الخالق

والخاص اتبعوا هواهم ونبتوا سنة نبيهم

صلى الله عليه وسلم وراى ظهورهم والسادس

جعلوا قليل زلات السلف حجة انفسهم و

دفعوا كثير مناقبهم۔

فصل : والامل في المجاهدة مخالفة

التهوى فيقظم نفسه عن الما لوفات والشهوات

واللذات ويحملها على خلاف ما تهوى في

عموم الاوقات فاذا انهمك في الشهوات

المجهها بلجام التقوى والخوف من الله عز وجل

فاذا حرنت ووقفت عند القيام بالطاعات

والموافقات ساقها بسياط الخوف وخلاف

التهوى ومنع المخطوط۔

فصل : ولا تتم المجاهدة الا بالمرا

و هي التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه

وسلم حين ساله جبريل عليه السلام عن

الاحسان فقال الاحسان ان تعبد الله



كانك ترا لا فان لم تكن ترا لا فانه يراك  
 لان المراقبة علم العبد باطلاع الرب  
 سبحانه عليه واستدامتة لهذا العلم  
 مراقبة لربه وهذا هو اصل جل خيزو  
 انما يصل الى هذه الرتبة بعد المحاسبة  
 واصلاح حاله في الوقت ولزوم طريق الحق  
 واحسان مراعاة القلب بينه وبين الله  
 تعالى وحفظ الانفاس مع الله عز وجل  
 فيعلم ان الله تعالى عليه رقيب ومن  
 قلبه قريب يعلم احواله ويرى افعاله  
 ويسمع اقواله ولا تتم ايضا الا بمعرفة  
 خصال اربع اولها معرفة الله تعالى  
 والثانية معرفة عدو الله ابليس والثالثة  
 معرفة نفسك الامارة بالسوء والرابعة  
 معرفة العمل بالله تعالى ولو عاش انسان  
 دهر في العبادة هجتهدا ولم يعرفها ولم  
 يعرفها ولم يعمل عليها لم تنفعه عبادته  
 وكان على الجهل ومضيرة الى النار الا  
 ان تفضل الله تعالى عليه برحمته فاما  
 معرفة الله عز وجل فهو ان يلزم العبد  
 قلبه قربة عز وجل وقيامه عليه وقدرته  
 عليه وشهادته وعلوه  
 به والله رقيب حفيظ والله واجد ماجد  
 لا شريك له في ملكه والله عند ما وعد  
 صادق وعند ما ضمن وافي وعند ما دعا

اسی یقین کہ ہر وقت پیش نظر رکھنا براقیبہ ہے اور یہی ہر نیکی اور کار  
 خیر کی جڑ ہے لیکن محاسبہ کے اور فوراً اصلاح حال کے بعد ہی  
 اس مرتبہ تک پہنچا جاتا ہے تاکہ انسان صحیح راہ پر گامزن رہے  
 اور اسے چمٹا رہے اور اپنے اور اللہ کے درمیان دل کی بہترین  
 نگہداشت کرتا رہے اور حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ اپنی سائنسوں  
 کی حفاظت کرے اور یقین کر لے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ اس کی  
 نگرانی کر رہا ہے اور اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اس کے  
 دل کے قریب ہے اور اس کے احوال و افعال کو جانتا ہے اور اسے  
 دیکھ رہا ہے اور اس کی تمام باتوں کو سن رہا ہے۔

مجاہدہ مندرجہ ذیل چار چیزوں کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اللہ  
 کو پہچاننا، ابلیس کو جو اللہ کا اور انسان کا دشمن ہے پہچاننا  
 نفس امارہ کو پہچاننا جو برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور  
 اللہ کے لئے عمل کو پہچاننا۔

اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر عبادت میں پوزی سرگرمی سے گزارے  
 دے اور مذکورہ بالا چار باتوں سے غافل رہے۔ تو اس کی عبادت  
 بے سود ہے اور وہ جہالت ہی پر قائم ہے اور اس کا ٹھکانہ  
 جہنم ہے یہ دوسری بات ہے کہ ارحم الراحمین اسے اپنی رحمت  
 میں ڈھانپ لے۔

**حق تعالیٰ کی معرفت** معرفت اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ بندہ  
 اپنے دل کو قرب باری تعالیٰ سے چمٹالے یعنی یہ پختہ عقیدہ رکھے  
 کہ میں بارگاہ قدس میں حاضر و قائم ہوں اس کی قدرت میں ہوں  
 وہ میرے پاس ہے اور میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے  
 وہ میری نگرانی اور حفاظت کر رہا ہے اور بڑی قوت والا اور  
 بڑی عظمت والا ہے اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں  
 وہ اپنے وعدوں میں قطعی سچا ہے اور ضمانت میں پورا پورا ذمہ دار ہے

الیہ وندب الیہ ملیء ولہ وعد نیجزہ  
 ووعید صادق ینفذ لا ومقام تسمیز الیہ  
 الخلاق ومصدر یتصرف من عندہ ولہ  
 ثواب وعقاب لیس لہ شبہ ولا مثیل وانہ  
 کان رحیم ودود سبیح علیم وانہ کل یوم  
 ہوفی شأن لا یشغلہ شأن عن شأن یعلم  
 الخفی وفوق الخفی والضمیر والخطرات والوسیۃ  
 والہمة والارادۃ والوسواس والحركة  
 والطرفۃ والغمزۃ والہمزۃ وما فوق  
 ذلک وما دون ذلک مادیق فلا یعرف  
 وجل فلا یوصف ما کان وما یکون  
 وانہ عزیز حکیم وقد استوفینا ذلک فی  
 باب معرفۃ الصانع من قبل فاذا الزم  
 هذا قلبہ فی الیقین الراسخ والعمل النافع  
 ولزم ذلک کل عضو منہ وکل جارحۃ  
 وکل مفصل وعرق وعصب وشعر وبشر  
 وكذلك یتیقن ان اللہ تعالیٰ قائم علی  
 ذلک عالم بہ احاط بہ علماء تغزب عنہ  
 عازبۃ وانہ خلقہ فاحسن خلقہ وصورة  
 فاحسن صورته وثبت جمیع ذلک فی قلبہ  
 ومع بہ عزمہ واکمل عقلہ وثبتت  
 حینئذ فیہ المحاسنہ ووصلت الیہ  
 المعرفة وقامت علیہ الحجۃ وکان فی  
 مقام من اللہ شریف والحد ریحہ فی  
 ذلک کلہ فحفظت جوارحہ وقلبہ ولا یتال

ہے اگر کوئی چیز اس سے مانگی جائے اور اس کے سلسلہ میں اس سے دعا کی  
 جائے تو وہ ایسا مالدار ہے کہ اس کے دینے سے اس کے خزانہ میں کمی نہیں  
 آتی اس کے جو وعدے ہیں وہ انہیں پورا کئے بغیر نہ رہے گا اور اس نے  
 جو دھمکیاں دی ہیں انہیں ضرور نافذ فرمائے گا اسی کے پاس کھڑنے کی  
 جگہ ہے اور تمام دنیا اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی اسی سے ہر چیز نکلتی ہے  
 اور وہی ہر چیز میں تصرف فرماتا ہے جسے چاہے ثواب دے اور جسے  
 چاہے عذاب میں مبتلا کر دے اس کا کوئی شبیہ نہیں نہ تو اس کا کوئی  
 ہم مثل ہے وہ بندوں کے تمام کاموں کے لئے کافی ہے ان پر بڑا امران  
 ہے اور ان سے انتہائی محبت کرنے والا ہے ان کی تمام باتیں اچھی طرح  
 سنتا ہے اور ان کے تمام حرکات و سکنات سے آگاہ ہے اور وہ  
 ہر لمحہ اور ہر آن ایک شان میں ہے اسے کوئی کام دوسرے کاموں سے  
 روکتا نہیں وہ پوشیدہ باتوں کو بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کو  
 نیتوں کو، دل کے کھٹکوں کو، دوسوسوں کو، حرکتوں کو، ایک چھپکنے  
 کو، آنکھ کے اشاروں کو طعن و تشنیع کو اور اس سے ادب پر نیچے کی تمام  
 چیزوں خواہ وہ کتنی ہی لطیف و باریک ہوں اور دکھائی نہ دیتی ہوں  
 خوب جانتا ہے اور اگر اس قدر عظیم ہوں کہ ان کا وصف بیان نہ  
 کیا جاسکے تو انہیں بھی خوب جانتا ہے خواہ ماضی کی چیزیں ہوں یا  
 مستقبل کی یا حال کی بلاشبہ وہ بڑی عزت والا اور بڑی حکمت  
 والا ہے ہم اس پر تفصیلی روشنی "معرفة صانع عالم" میں ڈال آئے  
 ہیں پھر جب یہ تمام باتیں مستحکم یقین کے ساتھ اپنے دل میں جمالی  
 جائیں اور ہر عضو، ہر جوڑ، ہر رگ، ہر سٹپے، ہر مال اور تمام جلدیں  
 خون کی طرح جاری و ساری ہو جائیں اور خوب رچ جائیں تو  
 یہی معرفت ہے اسی طرح یقین کرے کہ حق تعالیٰ اس پر قائم ہے  
 اس کی ہر بات سے واقف ہے اس کے علم نے اسے گھیر رکھا ہے  
 اس سے غائب ہونے والی کوئی چیز غائب نہیں ہوتی اللہ ہی ہے



ثیباً من هذه الجملة إلا ان يقطع الاشتغال كلها  
 إلا ما دل له على هذا والفرق لا يفارق قلبه  
 حذراً من سطواته لقد رتبه عليه لما قد سئل  
 وبما يكون منه وحياء منه لقربه منه  
 ولم تسقط منه ارادة ولم تنزل منه همة ولا  
 خطرة الا لانه فيه علم فيكون العالم القائم  
 بما يجب الله منه والنازل له عما يكرهه  
 منه ولا تكون منه خطرة ولا لحظة ولا  
 وسوسة ولا ارادة ولا حركة ظاهراً ولا  
 باطناً الا وعلم الله عنده لا قائم في قلبه  
 قبل المخبرات والحركات والوساوس وهو  
 مقام العلماء بالله عز وجل الخائفين العارفين  
 الاتقياء الورعين واما معرفته عدو الله ابليس  
 فقد امر الله تعالى بهجارتته وهجاءه تته  
 في السر والعلانية في الطاعة والمعصية  
 واعلم العباد بانته قد عادي الله عز وجل  
 في عبادة ونبيه وصفيه وخليفته في الارض  
 آدم عليه السلام وشاره في ذريته  
 وانته لا ينال اذا نام الا دحى ولا يغفل اذا  
 غفل الا دحى ولا يسهوا اذا سهوا في نومه  
 ويفتته مجتهد في عطب الا دحى وهلاكه  
 لا يالويه خديعة وحيلة ومكر او مصائد  
 الشهية اللذيذة في طاعته ومعصيته  
 ما يجمله كثير من خلق الله من العابدين  
 المفرورين المخدوعين وكثير من الغافلين

بہترین پیدائش میں پیدا کیا اور اسے بہترین شکل و صورت عطا فرمائی  
 غرضیکہ یہ تمام عقائد اس کے دل میں جم جائیں اور ان پر اس کا عزم  
 و ایمان منزل نہ ہو اور یہ اس کی عقل کو مکمل کر دیں اب اس میں  
 محاسبہ پایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت تک اسے رسائی حاصل ہو  
 گئی اور اس پر حجت قائم ہو گئی اور وہ اللہ کی طرف سے ایک  
 شریف و عالی مقام پا گیا الغرض ان تمام باتوں میں اللہ کا خوف  
 اس کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس کا دل اور تمام اعضا دگنا ہوں  
 سے محفوظ رہیں یہ مرتبہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب تک  
 اس شغل کے علاوہ جو اسے اس منزل معرفت تک پہنچانے والا ہے  
 تمام اشغال ترک نہ کرے سالک کے دل سے اللہ کا ذکر کبھی  
 علیحدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کے قہر و عتاب سے  
 لرزتا رہتا ہے کیونکہ اللہ اس پر ہر وقت قادر ہے اگر وہ چاہے  
 تو اسے ناصی اور مستقبل کے گناہوں پر پکڑ لے اور شرم کی وجہ  
 سے بھی خوفزدہ رہتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ حق تعالیٰ اس کے  
 قریب ہے اور اس کے ہر حال سے بخوبی واقف ہے اور جو بھی  
 ارادہ، قصد، کھٹکا اور تصور اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے  
 اللہ ہی کے لئے اور اسی کی محبت کے سلسلہ میں پیدا ہوتا ہے  
 لہذا وہ علم کے ساتھ انہیں چیزوں پر قائم ہے جن کو اللہ تعالیٰ  
 اس سے پسند فرماتا ہے اور اسی کی خاطر ان چیزوں سے بیزار رہتا ہے  
 جو اللہ کو ناپسند ہیں اور جو کھٹکا، آنکھ کا اشارہ، وسوسہ، ارادہ  
 اور ظاہری یا باطنی حرکت اس سے سرزد ہوتی ہے تو اس سے پہلے  
 اس کے دل میں اللہ کا علم ضرور قائم ہوتا ہے یہ اللہ والے علماء کا  
 مقام ہے جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کو پہچاننے والے متقی اور پارسا  
 ہوتے ہیں۔

ابلیس کی پہچان | ابلیس سے جنگ کرنے کے اور اس کے خلاف

لیست بغینہ ان یوقع ابن آدم فی معصیۃ ادریاء  
 او عجب انما بغینتہ ان یرد لا معہ حیث یرد  
 جہنم حیث قال جل و علا انما یدعو حزبه  
 لیكونوا من اصحاب السعیر فاذا عرفہ  
 العبد یرہل لا الصفة فینبغی لہ ان یلزم قلبہ  
 معرفتہ فی الحق والمباطن بلا عقلۃ ولا سہو  
 منہ فیجاریہ یا شد المحاربتہ و یجاہد لا باشد  
 المجاہد لا ستر او علانیۃ ظاہرا و باطنا لا  
 یقصر فی ذلک حتی یبذل مجہودہ فی محاربتہ  
 و مجاہدتہ فی کل ما یدعو الیہ من الخیر  
 والشرو لا یدع التفرع وللجألی اللہ عزوجل  
 والاستعانۃ بہ فی حرکاتہ کلہا الیعبیتہ  
 علیہ و یری اللہ عزوجل من نفسہ القفر  
 والفاقتہ الیہ فانہ لا جیلۃ ولا قوتہ الیہ  
 و ینتغیت باللہ عزوجل بالبعاء والتفوع  
 ویسالہ النہی علیہ جاہد امتا للالیلا  
 ونہار استرا و علانیۃ فی الخلا والملا  
 حتی تصغر فی عینہ مجاہدتہ لمعرفتہ بتوفیق  
 اللہ تعالیٰ ایما لا فانہ عد و مولا لا و ہوا اول  
 من عصی اللہ من خلقہ و اول من مات من خلقہ یعنی من عصاہ و  
 عاص اللہ عزوجل میت کما جاء فی الحدیث  
 قال اللہ عزوجل ان اول من مات من  
 خلقی ابلیس و ہوالذی عادی اولیاء اللہ  
 من الانبیاء والصدیقین و اصفیاءہ من  
 خلقہ اجمعین و ینبغی للعبد ان یعلم انہ

سرگرم عمل رہنے کا ظاہر و باطن میں اور اطاعت و عدم اطاعت میں  
 حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو بتا دیا ہے کہ ابلیس نے  
 اللہ سے اور اس کے برگزیدہ بندے اور نبی سے جو دنیا میں اس  
 کے خلیفہ تھے یعنی حضرت آدم سے دشمنی کی اور آپ کی اولاد کو ضرر پہنچانے کی نکر میں رہتا ہے انسان سو جاتا ہے مگر وہ دشمن انسان  
 نہیں سوتا اور جب آدمی غافل ہوتا ہے تو اپنے کام سے غافل نہیں  
 ہوتا اور جب انسان خواب یا بیداری میں سہو کر جاتا ہے تو  
 وہ سہو نہیں کرتا یہ ہر وقت انسان کی تباہی اور ہلاکت کی نکر میں  
 رہتا ہے اور اپنے دھوکا، فریب، مکر اور دغا بازی میں کسر  
 اٹھا کر نہیں رکھتا اور طاعت و معصیت کے سلسلہ میں اس کے  
 پسندیدہ اور لذیذ دام فریب ایسے ہیں جن سے بہت سے عابد  
 ناواقف ہیں اور اس کے دام فریب میں آکر دم دھوکا کھاجاتے  
 ہیں اور اکثر غفلا و بھٹی اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں کینت  
 ابلیس اس پر قناعت نہیں کرتا کہ انسان کو گناہ میں یا دیا کاری  
 میں یا غرور میں پھانس کر چین سے بیٹھ جائے اس کی تودلی  
 تناسلی ہے کہ انسان اس کے ساتھ جہنم کے شعلوں میں کود جائے  
 جن میں وہ خود جاتے والا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان  
 تو اپنی جماعت کو اسی لئے بلاتا ہے کہ وہ بھی جہنم والوں میں شامل  
 ہو جائیں۔

پھر جب انسان یہ پہچان جلائے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے  
 تو اس سے جو کتنا سہنے کی سخت ضرورت ہے اور حق و باطل میں  
 شیطانوں کے خلاف کرے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھائے  
 اور کسی وقت بھی اس کی دشمنی سے غافل نہ رہے اور اس کی  
 عداوت کو کسی حال میں بھی نہ بھولے اور خلوت و جلوت میں  
 ظاہر و باطن میں شدت سے اس کے ساتھ لڑتا رہے اور اس کے



فی جہاد عظیمہ فی قرب من الرب جل ثناؤہ  
 ولا یوصف شرف مقامہ فلیثبت ولا یعجز  
 فانہ ان عجز او مل فقد عسی ربه عز وجل  
 ووقع فی جہنم وغضب اللہ علیہ ویكون  
 قد اعطى عدو اللہ امنیۃ منہ وقوی علیہ  
 لعنة اللہ ولیس لارادته فی العبد غایۃ  
 وانتہاء الا الکفر باللہ فانہ انما یقلہ  
 من حال الی حال حتی یغضب اللہ علیہ فیخلہ  
 الی نفسہ فیعطب ویقع فی النار مع الشیطان  
 فلا خلق اشد علی العبد منہ فالخذر  
 الخذر فانما هو الورود علی العطب او  
 النجاة بفضل اللہ ورحمۃ اعادنا اللہ  
 وجیبع المسلمین من شر ابلیس وجنودہ  
 ولا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم  
 واما معرفۃ النفس الامارۃ بالسوء  
 فیضعہا حیث وضعہا اللہ عز وجل  
 ویضعہا بسا وینفہا اللہ تعالیٰ ویقوم  
 علیہا بما امرہ اللہ عز وجل فانہا  
 اعدی لہ من ابلیس وانما یقوی علیہ  
 ابلیس بہا ویقبولہا منہ فیعرف ای شیء  
 طابعہا وما ارادتها والامر تدعو  
 وبم تامر وکیف خلقہا خلقۃ ضعیفۃ  
 قوی طبعہا شریحۃ مدعیۃ خارجۃ عن  
 طاعة اللہ سبحانہ متملکۃ متمنیۃ  
 خوفہا من ورجاؤها مافی وصدقہا

خلاف کرتا ہے اور اس میں کسراٹھا کہ نہ رکھے اور کوتاہی نہ کرے حتیٰ کہ  
 پوری پوری تندہی اور سرگرمی سے اس سے جنگ و مجاہدہ کرتا ہے  
 اور جس امر خیر یا شد کی طرف بلائے اس سے بیزارگی کا اظہار کرے  
 اور ہمت کر کے اس کے دانت کھٹے کر دے اور اپنی تمام حرکتوں  
 میں اللہ تعالیٰ سے امداد چاہے اور ابلیس کو شکست دینے کے لئے  
 حق تعالیٰ کی ہار گاہ قدس میں روئے دھوئے اور اس کی پناہ طلب  
 کرتا رہے تاکہ حق تعالیٰ مدد فرمائے اور حق تعالیٰ شانہ کے سامنے اپنی  
 فقیری، محتاجی اور کمزوری و ناتوانی کا اظہار کرتا رہے کیونکہ اس سے  
 بچنے کی تدبیر و توت اللہ ہی کی مدد سے میسر آسکتی ہے اور روزِ  
 اور گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے شیطان  
 کے نتنوں سے محفوظ فرما اور دن رات اندر و باہر ظاہر و باطن اور  
 خلوت و جلوت میں عاجزی سے بلب بلب کہ فریاد کرتا رہے کہ یا  
 اللہ میری ابلیس پر مدد فرما۔ تاکہ ابلیس کے نزدیک اپنی کوشش حقیر دے سو  
 ثابت ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ شخص  
 مجھے اپنا دشمن تسلیم کرتا ہے غرضیکہ ابلیس اللہ کا دشمن ہے اور  
 اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلا اللہ کا نافرمان ہے اور مخلوق میں  
 سب سے پہلے مرنے والا ہے یعنی نافرمان ہے کیونکہ ہر نافرمان مردہ  
 ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مخلوق  
 میں سب سے پہلے مرنے والا ابلیس ہے یہی اللہ کے اولیاء کا پیکار دشمن  
 ہے یعنی انبیاء کا صدیقین اور اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں کا سخت  
 دشمن ہے حق تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے آمین۔

انسان کو لازم ہے کہ یہ یقین کر لے کہ نفس و شیطان سے جہاد  
 جہاد اکبر ہے اور سب سے بڑا جہاد ہے اور میں اپنے رب کے  
 قریب ہوں قربت حق تعالیٰ کا اس قدر ادب و نچا اور اشرف مقام  
 کہ حد بیان سے باہر ہے لہذا اپنے ارادے پر جما رہے اور مجاہدہ نہ

کذب و دعواها باطله و کل شیء منہا غرور  
 و لیس لہا فعل محمود و لا دعویٰ حق فلا  
 تغربہ بما یظہر لہ منہا و لا یرجو بہا تامل  
 ان حل عنہا تیودھا شدت و ان اطلق و  
 ثاقہا جہت و ان اعطاھا سؤلہا ہلکت  
 و ان غفل عن محاسبتہا ادبیرت و ان عجز  
 عن مخالفتہا غرقت و ان اتبع ہواہا تولت  
 الی النار و فیہا ہوت لیس لہا حقیقۃ و لا  
 رجوع الی خیر و ہی رأس البلاء و معدن  
 الفبیحۃ و خزائن ابلیس و ماوی کل سوء  
 و لا یعرفہا احد غیر خالقہا عزوجل  
 فی فی الصفۃ النبی و صفہا اللہ عزوجل کما  
 اظہرت حوقا فلہا من و کما ادعت صدقا  
 فلہو کذب و کما ذکر ت اخلصہا فہو  
 ریاء و اعجاب عند الحقائق ین صدقہا  
 و یعرف کذبہا و عند الامتحان یرجع  
 الی دعواہا فلیس بلاء عظیم الا و قد حل  
 بہا فعلی العبد محاسبتہا و مراقبتہا و  
 مخالفتہا و مجاہدتہا فی جمیع ما تدعو  
 الیہ و تدخل فیہ فلیس لہا دعویٰ حق  
 و انما سعی فی ہلاکہا و دمارہا و لا  
 توصف بشیء الا وہی اکثر ما توصف  
 فیہ کثر ابلیس و مستراحہ و مسامرتہ  
 و محادثتہ و صدیقتہ فاذا عرف العبد  
 صفتہا فقد عرفہا و ہانت علیہ و ذلت

چھوڑ بیٹھے کیونکہ اگر خدا نخواستہ مجاہدہ چھوڑ بیٹھا یا اکتا گیا تو  
 رب العالمین کی نافرمانی کی اور شیطان کی بات مان لی اور جہنم میں  
 گر گیا اور اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اپنے دشمن ابلیس کی  
 تناپوری کی اور اس کے کام پر اسے قومی بنایا۔ یاد رکھیے شیطان  
 کی انتہائی دلی خواہش اور تڑپ یہی ہے کہ انسان کو کافر و مشرک  
 بنا دے اور جناب قدس سے دور سے دور کر دے اسی لئے وہ انسان  
 کے دل میں گوناگوں اوہام و وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے اور اللہ  
 سے اس قدر دور کر دیتا ہے کہ اس پر اللہ کا قہر و عتاب نازل  
 ہو جاتا ہے اور ابلیس اس کے نفس پر چھوڑ کر چین لیتا ہے اور  
 انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور شیطان کے ساتھ جہنم کا کنڈا  
 بن جاتا ہے۔ خوب یاد رکھو شیطان سے زیادہ خطرناک دنیا میں  
 کوئی چیز نہیں لہذا اس سے انتہائی محتاط رہو اور دم بھر کے لئے  
 بھی اس کا گناہ مانو۔ بندہ دو حال سے خالی نہیں رہتا تو شیطان  
 کا مرید ہو کر قعر مذلت میں گرے کہ ہلاک ہو یا حق تعالیٰ کی عنایت  
 و مہربانی اور نوازش و کرم سے شیطان کا دشمن بن کر رہائی  
 حاصل کر لی حق تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ابلیس کے شر اور  
 اس کے لشکروں کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے آمین، بلاشبہ  
 فرما بزرگاری کی طاقت اور نافرمانی سے بچنے کی قوت بلند و  
 عظیم اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

نفس آمارہ کی پہچان | نفس آمارہ کو اسی مقام پر رکھے جس  
 مقام پر اسے حق تعالیٰ رکھا ہے اور اسے اسی مذمت سے یاد  
 رکھے جو مذمت اس کی حق تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور وہی گناہ  
 لے کر اس کے سر پر کھڑا ہے جس کا حکم حق تعالیٰ نے دیا ہے  
 کیونکہ نفس آمارہ ابلیس سے زیادہ دشمن اور خطرناک ہے ابلیس  
 اسی کی راہ سے انسان پر قابو پاتا ہے اور انسان کے نفس میں



وقوى عليها بالله عزوجل فاذا اجتمعت  
 في العبد هذه الخصال الثلاث فليستعن بالله  
 عزوجل عليهم ولا يغفل ولا يطيع نفسه لا  
 اذا قوى على ادب نفسه ومخالفتها عما تنهى  
 قوى على الخصال كلها ان شاء الله تعالى  
 فعليه ببذل التقدير بالعزم بالله عزوجل  
 وحده لا شريك له فعلا يبيلن في هذا  
 كله الى احد غير الله عزوجل فانه ان  
 فعل ذلك فلا يوفق لخير ويكلمه الله عزوجل  
 الى نفسه فينبغي له ان يستعين بالله تعالى  
 في هذا كله ويتبع مرصاته في جميع ما  
 امره الله به ونهاه لا يريد بلك احدا  
 غير الله عزوجل فاذا فعل ذلك ارشدا  
 الله ووفقه واحبه وجنبه مكارهه و  
 ستره بستر الاصفياء العلماء بالله الذين  
 بلك نالوا العلم بالله عزوجل واما  
 معرفة العمل لله عزوجل فان يعلم العبد  
 ان الله عزوجل امره بامور ونهاه عن  
 امور فالذي امره به هو الطاعة والذي  
 نهاه عنه هو المعصية له عزوجل وامره  
 بالاخلاص نيهما والقصد الى سبيل الهدى  
 على نهج الكتاب والسنة ولا يكون  
 في ضلالة في فعله كل شيء غير الله عزوجل  
 ولا يكن ممن ترك المعاصي الظاهرة و  
 اعرض عن ترك المعاصي الباطنة التي

طرح کی آرزو میں پیدا کر کے اپنی طرف مائل کر لیتا ہے لہذا انسان کو  
 اپنی طبعی خواہش کو مہینا چاہیے کہ وہ کیا ہے اور کیوں پیدا ہوئی اگر  
 وجہ پیدائش کمزور ہے اور اس کا لالچ کثیر تو قوی ہے اور جس سے بھرپور  
 ہے اچھوٹے دعوتوں سے آراستہ ہے تو اللہ کی اطاعت سے باہر ہے  
 اس پر حرص و طمع حکمران ہے اور امیدوں کے ہاتھوں اس پر ہے خوف  
 والی چیزوں کو امن والی سمجھتا ہے امیدیں باطل آرزوئیں ہیں صدق  
 کذب اور دعوتے باطل ہے اور نفس کی طرف سے ہر چیز دھوکہ  
 اور فریب ہے نفس کا کوئی فعل قابل تعریف نہیں اور نہ کوئی دعوتے  
 سچا ہے لہذا اس سے جو کچھ ظاہر ہو اس سے دھوکا نہ کھانا اور نفس  
 جس چیز کی طرف راغب ہو اس کی امید نہ باندھنا اگر نفس کے  
 بندھن کھول دئے جائیں تو وہ شرارت پر اتر آتا ہے اور اگر اس کی  
 لگام ڈھیلی کر دی جائے تو سرکش ہو جاتا ہے اگر اس کا کمان لیا  
 جائے تو ہلاک کر دیتا ہے اگر اس کے محاسبہ سے غفلت برتی جائے  
 تو پیٹھ موڑ کر عینے لگتا ہے اگر اس کی مخالفت نہ کی جائے تو لے ڈیتا  
 ہے اور اگر اس کی خواہش کی پیروی کی جائے تو آگ میں لے کر ڈھاتا  
 ہے نفس میں ایسی بیکار و فضول اور لالچ یعنی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں  
 جو حقیقت سے معر بہرتی ہیں نفس کبھی خیر کی طرف نہیں لڑتا .....  
 ..... اور بلاؤں کی جڑ اور سوائی کی کان ابلیس کا خزانہ  
 اور ہر رائی کا ٹھکانہ ہے اسے خالق کے سوا کوئی نہیں پہچانتا لہذا یہ  
 انہیں برائیوں سے متصف ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اسے یاد فرمایا ہے  
 جب یہ اللہ کا خوف ظاہر کرتا ہے تو امن کی حالت ہوتی ہے اور اگر  
 یہ صدق کا دعوتے کرتا ہے تو کذب ہوتا ہے اور اگر خلوص کا دعوتے  
 ہے تو یہ ربا اور غرور ہے جب حقائق کا ظہور ہوتا ہے تو اس کا چھو  
 پچ کھل کر سامنے آ جانا ہے اور کسوٹی پر کئے سے اس کی پول کھل جاتی ہے  
 غرضیکہ ہر برائی سے بڑی آفت اس میں موجود ہے لہذا جن چیزوں کی

ہی امہات الذنوب و اصولہا لان اللہ تعالیٰ  
 لیس علی هذا وعد بالمغفرة ولا علی هذا امن  
 الثواب فی دار الجزاء فلا یجهدن العبد فی  
 العبادة بالظاهر بفساد النية وسقم الارادة  
 فتعود اذا ذاک طاعته معاصی کلھا فتحل  
 بد عقوبات الدنيا والآخرة مع تعب البدن  
 وقللة المراد به وترك الشهوة واللذات فیحسر  
 الدنيا والآخرة ولكن یرین طاعته بالاخلاق  
 والتقوی والورع ونيته بالصدق ویحفظ  
 ارادته بالمعاسبة وليکن همه طلب  
 النية الصادقة وغزوه طلب الاخلاص  
 والتوحيد فی اقواله وافعاله واحواله اجمع  
 عند اخذ لا فی الطاعة واعرامنه عن  
 المعصية حتى یتثبت معرفة النية كما یتثبت  
 معرفة العمل وینبغی له ان یحترز من أن  
 یخدعه ابليس اللعين بغوائله ویصرعه  
 بمصائده ویوقعه فی فتوحه ویلهد به  
 به بكرة وخذعه فان له مصائد  
 مسجلات فی القلوب وغوائل شهیة  
 وظرائف لذیة یحسبه الجاهل نورا  
 ویقینا وهو شك وظلمة یفتن له مائة  
 باب من الطاعة یرید بذلك ان یرخله  
 فی ادنی منزلة یتغرق عمله بها فایا لا  
 ثم ایا لا الحذر الحذر فان قدر ان یتعلم  
 خدعه كما یتعلم القرآن فلیفعل فی هذا

طرف نفس بلانا ہے انسان پر ان کے سلسلہ میں اس کی مخالفت اور  
 نفس سے جنگ واجب ہے اور اس سے محاسبہ کرنا اور اس کی حفاظت  
 کرنا انسان کا اولین فریضہ ہے اس کی کوئی کل صحیح نہیں وہ تو بلاکت  
 و تباہی کی طرف پکٹتا ہے اور اس کی جو بھی برائی کی جائے اس سے بڑھا  
 ہوا ہی نکلتا ہے یہ ابلیس کا خزانہ اس کی آرام گاہ اس کا دار الخیانت  
 اور دار الامارت ہے اور اس کا لنگوٹیا یا رہے پھر جب انسان  
 نفس کو اس کے تمام نشانات سے پہچان لے اور اسے اس کی حقیقت  
 معلوم ہو جائے تو نفس اس کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔  
 اور انسان اللہ کے حکم سے اس پر حاوی ہو جائے گا جب انسان میں  
 یہ تین عادتیں جمع ہو جائیں تو ان کے تحفظ پر اللہ تعالیٰ سے  
 استغانت طلب کرتا رہے اور غافل نہ رہے اور اپنے نفس کا  
 کہنا نہ مانے کیونکہ جب انسان اپنے نفس کو ادب سکھانے پر اور نفسانی  
 خواہشات کی مخالفت پر قوی ہو تو وہ انشاء اللہ تمام عادتوں پر  
 قوی رہے گا لہذا انسان پر لازم ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ عدم  
 بالجزم کو مقدم رکھے اور ان تمام باتوں میں اللہ کے سوا کسی دوسرے  
 کی طرف مائل نہ ہو کیونکہ اگر کسی دوسرے کا خیال دل میں لے آئے تو  
 نیکی کی توفیق نصیب نہیں ہوگی اور حق تعالیٰ تمہیں تمہارے نفسوں  
 کے حوالہ فرمادے گا اس لئے ان تمام باتوں میں اللہ ہی سے مدد مانگنی  
 چاہیے اور تمام اوامر و نواہی میں اللہ کی رضا کی پیروی کی جائے اور  
 بجز حق تعالیٰ جل مجدہ کے کسی غیر کا خیال بھی دل میں نہ لایا جائے  
 پھر جب انسان مذکورہ بالا ہدایات پر عمل پیرا ہوگا حق تعالیٰ  
 اسے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے گا اس سے محبت فرمائے گا  
 مکروہ کاموں سے اسے بچائے گا اور ان برگزیدہ اللہ والے علماء  
 کے لباس سے اسے آراستہ فرمائے گا جو اس بلند مقام تک پہنچ  
 گئے ہیں۔



امرہ اللہ جل ثناؤہ فلیحذرہ العبد فی طاعتہ کما یحذرہ فی معاصیہ فان خطر بالہ امر او دعتہ نفسہ الی شیء او تحرك بحرکة فلا یعجلن دون المعرفة والعلم ولیرفق بنفسہ ویترسل بترسل العلماء ویجالس الفقہاء العالمین باللہ وبامرہ ونہیہ حتی یدلوه علی طریق اللہ عزوجل ویعرفوہ ذلک ویدلوه علی دوائہ ودائہ علی ما قدمناہ فی مجلس التوبۃ ولا ینبغی لہ ان یغتر بطول القیام وکثرة الصیام و النوافل الظاہرۃ بلا معرفۃ منہ بعملہ فاذا کان کذلک ورأی فعلہ مع معرفتہ بنفسہ وبربہ وبعد وہ صم فعلہ فعندہا یورث العلم والفقہ فما کان من علم ظاہر او باطن نظر ان کان للہ خالصا صادقا قبلہ اللہ منہ واثابہ علیہ وان کان غیر ذلک ردہ علیہ فلم ینفط لہ عند ذلک فعل ولا ینحی علیہ امر فاذا کان فقد کذلک اعطی کل خلق حسن و صم عقلہ وثبت عملہ و زاد حلمہ وکان من اولیاء اللہ واصفیائہ الذین باللہ ینظرون و باللہ یتکلمون و بہ یاخذون و بہ یعطون ومع ذلک اترہم نفسہ وانہم ہوا لا علی نفسہ و دینہ وانہم ابلیس فینزل اترہم مع ذلک معرفتہ بنفسہ علی معرفتہ بہا۔

### حق تعالیٰ کی رضا کے عملوں کی پہچان

کی خوشنودی و رضا کے لئے کئے جاتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ انسان کو ان کے بارے میں یقین ہو کہ فلاں کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور فلاں کاموں سے منع فرمادیا ہے لہذا جن کاموں کا حکم ہے انہیں بجالانا اطاعت ہے اور جن سے منع فرمادیا ہے ان پر عمل کرنا معصیت و گناہ ہے حق تعالیٰ نے اوامر و نواہی میں اخلاص کا حکم فرمایا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق انہیں ادا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور ان عملوں کے بجالانے کی نیت محض حصول رضا کے الٹی ہو دل میں کچھ اور خیال نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ ظاہری گناہ تو چھوڑ دے لیکن باطنی گناہوں پر اڑا رہے جو اصل گناہ ہیں اور گناہوں کی جڑ میں ہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے ظاہری گناہ چھوڑنے پر مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا اور نہ ان کے چھوڑنے پر آخرت میں ثواب کی ضمانت لی لہذا فاسد نیت و بدارادے کے ساتھ بندہ ظاہری عبادت میں درپردہ دھوپ نہ کرے کیونکہ اس صورت میں اس کی ساری عبادتیں گناہوں میں تبدیل کر دی جائیں گی اور اسے دنیا اور آخرت میں سزائیں بھگتنی پڑیں گی اور عملوں میں جو محنت و مشقت اٹھائی اور شہوت و لذت چھوڑی وہ رہی الگ اور عبادت سے جو مفید تھا اس میں شہ کام رہا اور دنیا میں بھی گھاٹا اٹھایا اور آخرت میں بھی لہذا بندے کا فرض ہے کہ اطاعت کو خلوص و تقویٰ سے اور پارہ سائی سے حسین بنائے اور صدق سے نیت کو آراستہ کرے اور ارادے کا محاسبہ کر کے تحفظ کرے اور اس کا قصد صحیح و درست نیت کے ساتھ ہو اور عبادتوں کے بجالانے اور گناہوں سے بچنے کے سلسلہ میں اپنے تمام اقوال، افعال اور احوال میں طلب خلوص و توحید کا عزم بالجرم ہونے کے عمل کی معرفت کی طرح نیت کی معرفت بھی محقق و ثابت ہو جائے انسان کا فرض ہے کہ

**فصل** : ولا هل المجاهدة والمجاسبة  
 واولى العزم عشر خصال جرلوهالانفسهم  
 فاذا اقاموها واحكموها باذن الله تعالى  
 وصلوا الى المنازل الشريفة۔

اولها ان لا يحلف العبد بالله عزوجل  
 صادقا ولا كاذبا عاما ولا ساهيا لانه  
 اذا حكر ذلك من نفسه وعود لسانه رفعه  
 ذلك ان يترك الحلف ساهيا و عاما فاذا  
 اعتاد ذلك فتح الله له بابا من الوارث يعرف  
 منفعة ذلك في قلبه وزيادة في بدنه و  
 رفعة في درجته وقوة في عزمه و في  
 بصره والثناء عند الاخوان وكرامة  
 عند الجيران حتى ياتهر به من يعرفه  
 ويهابه من يراة۔

والثانية ان يجتنب الكذب هازلا  
 وجادا لانه اذا فعل ذلك واحكمه من  
 نفسه واعتاده لسانه شرح الله به  
 صدره و صفى به علمه حتى كانه لا يعرف  
 الكذب و اذا سعه من غير الاعاب  
 ذلك عليه و غير لاه في نفسه و ان  
 دعاه بزوال ذلك كان له ثواب۔

والثالثة : ان يجذر ان يعد احدا  
 شيئا في خلقه ايا لا وهو يقدر عليه الا  
 من عذر بين او يقطع العدة البتة فانه  
 اقوى لامر و واقصد بطريقه لان الخلق من

شیطان کے پھندوں سے خود کو محفوظ رکھے اور خوب محتاط رہے کہ  
 ابلیس لعین اس سے دھوکہ دے کہ تباہ کن عمل نہ کرنے پائے اسے  
 اپنی مکاریوں سے نہ پھینکاڑ سکے اور اپنے دام فریب میں نہ پھانسنے  
 پائے، اسے حرام و مکروہ جگہ نہ لے جائے اور اسے بہلا پھسلانہ  
 سکے کیونکہ شیطان کے خنجر جن کو وہ لوگوں کے دلوں میں گھونپ دیتا  
 ہے لوگوں کو میٹھے معلوم ہوا کرتے ہیں اس لعین کے تباہ کن خیالات  
 طبیعتوں کو پسند آتے ہیں اور انسان اس کی نادر و انوکھی باتوں  
 سے لذت اندرز ہوتا ہے، جاہل انہیں نذر و یقین سمجھ بیٹھتا ہے  
 حالانکہ وہ سراپا تاریکی و شک ہوتے ہیں یہ مکار و فریبی انسان کے  
 لئے اطاعت کے سینکڑوں دروازے کھولتا ہے جن سے اس کا  
 مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک معمولی سا گناہ کر لے جس کی بنا پر  
 اس کے تمام عمل ڈوب جائیں اس لئے اس دشمن کے فریب سے  
 ہوشیار رہو اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاؤ قدم قدم پر  
 خار ہی خار اور خار و از جھاڑیوں کے انبار ہیں کیا ہی اچھا ہو  
 اگر شیطان مکاریوں اور دغا بازیوں کو اسی طرح یاد کیا جائے  
 جیسے قرآن یاد کیا جاتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے یہی حکم فرمایا ہے  
 اس لئے انسان عبادتوں میں بھی اس سے محتاط رہے اور گناہوں  
 میں بھی، اگر کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو یا اس کا دل کسی  
 چیز کی خواہش کرے یا وہ کوئی قدم اٹھائے تو معرفت و علم کی  
 روشنی کے بغیر بلا سوچے سمجھے نوراً حرکت نہ کرے اپنے نفس کے  
 ساتھ نرمی سے پیش آئے اور علماء کی طرح سوچ سمجھ کر احتیاط سے  
 قدم اٹھائے اور اللہ والے فقہاء کے ساتھ جو اللہ کے اوامر  
 و نواہی سے واقف ہیں اٹھے بیٹھے حتیٰ کہ وہ اسے اللہ کی راہ  
 بتائیں، اس کی نشان دہی کریں اور بیماری کا کھوج لگا کر اس  
 کی دوا بتائیں جیسا کہ ہم مجلس نور میں بیان کر آئے ہیں، انسان



الكذب فاذا فعل ذلك فتم له باب السخاء و  
درجة الحياء واعطى مودة في الصادقين و  
رفعة عند الله جل ثناؤه -

والرابعة: يجتنب ان يلعن شيئا من  
الخلق او يوذى ذرّة فما فوقها لانها من  
اخلاق الابرار والصادقين وله عاقبة  
حسنة في حفظ الله بيباه في الدنيا مع ما  
يذكر له عند الله من الدرجات ويستنقذ  
من مصارع الهلكة ويسلمه من الخلق و  
يرزقه رحمة العباد والقرب منه عز وجل -  
والخامسة: يجتنب ان يبدعوا على  
احد من الخلق وان ظلمه فلا يقطع له بسا  
ولا يكافئه بفعاله ويحتمل ذلك لله تبارك  
وتعالى ولا يكافئه بقول ولا فعل فان  
هذه الخصال ترفع صاحبها في الدرجات  
العلا اذا تادب بها ينال بها منزلة شريفة  
في الدنيا والآخرة والحب والمودة في  
قلوب الخلق اجمعين من قريب وبعيد واجابة  
الدعوة والعلو في الخير والعز في الدنيا في  
قلوب المؤمنين -

والسادسة: ان لا يقطع الشهادة على  
احد من اهل القبلة بشرك ولا كفر  
ولا نفاق فانه اقرب للرحمة واعلى في  
الدرجة وهي تمام السنة والجد عن الدخول  
في علم الله سبحانه وتعالى والعد من

بلا معرفت کے طویل قیام و کثرت صیام اور ظاہری لوائل سے دھوکہ نہ  
کھائے اگر کثرت قیام وغیرہ ہو اور اس کے خیال میں یہ عبادتیں نفس کو  
رب العالمین اور اپنے دشمن ابلیس کو پہچانتے ہوئے روپذیر ہوں  
تو عبادتیں صحیح ہیں اور یہ اس کے علم و فقہ کی علامت ہے پھر انسان  
اپنے ظاہری اور باطنی اعمال پر غور کرے اگر یہ عمل خالص اللہ ہی کے  
لئے ہیں اور صدق و خلوص والے ہیں تو حق تعالیٰ انہیں قبول فرما  
ئے گا اور ان پر ثواب عطا فرمائے گا اور اگر اس کے برعکس ہیں تو  
منہ پر مار دئے جائیں گے اس صورت میں انسان اپنے فرائض سے  
سبکدوش نہ ہوگا خود انسان کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے عمل  
مقبول ہیں یا مردود اگر اس نے مقبول عمل کئے ہوں گے تو اخلاق  
کا مالک ہوگا، عقل درست رہے گی، عمل صحیح ہوگا اور ہوشیاری میں  
اضافہ ہوگا اور اس کا اللہ کے اولیاء اور برگزیدہ بندوں میں شمار  
ہوگا جو اللہ ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اللہ ہی کے ساتھ کلام کرتے ہیں  
اللہ ہی کے ساتھ لیتے ہیں اور اللہ ہی کے ساتھ دیتے ہیں اور ذاتی  
اللہ ہیں، اس کے باوجود اپنے نفس کو انسانی خواہشوں کو منہم قرار  
دے اور ابلیس کو بھی اور خود اپنی معرفت کو بھی منہم قرار دے کہ  
ہنوز مجھے پوری معرفت حاصل نہیں ہوئی رستگاری کی یہی صورت ہے  
اصحاب مجاہدہ کی وس عادتیں | ارباب مجاہدہ و محاسبہ اور  
پچے ارادے والوں کے اندر دس عادتیں کار فرما رہتی ہیں جن کو  
وہ اپنے لئے آزما چکے ہیں اور جب یہ حضرات اپنے اندر اللہ کے حکم  
سے یہ دس عادتیں قائم رکھ لیں اور انہیں مستحکم و راسخ کر لیں تو بلند  
و شریف مقام حاصل کر لیتے ہیں (۱) اللہ کی قسم کھا کر جو وعدہ کیا گیا  
ہو خواہ سچا ہو یا جھوٹا عدا کیا گیا ہو یا بھول کر اس کے خلاف ہو کر  
نہ کیا جائے جب انسان کے اندر یہ عادت جڑ پکڑ جاتی ہے اور اپنی  
زبان کو اس کا عادی بنا لیتا ہے تو قسم کھانا چھوڑ دیتا ہے اور

مقت الله عز وجل واقرب الى رضاء الله تعالى  
ورحمته فانه باب شريف كريم على الله  
يورث العبد الرحمة للخلق اجمعين -

والسابعة: يجتنب النظر والهم الى شيء  
من المعاصي طاهر او باطن او يكف عنها  
جوارحه فان ذلك من اسرع الاعمال ثوابا  
للقلب والجوارح في عاجل الدنيا مع ما يبدخر  
الله تعالى له من خير الآخرة نسال الله تعالى  
ان يمن علينا اجمعين بالعمل بهذا الخصال  
وان يخرج شهواتنا من قلوبنا -

والثامنة: يجتنب ان يجعل على احد من  
الخلق منه مؤنة صغيرة ولا كبيرة بل يرفع  
مؤنته عن الخلق اجمعين مما احتاج اليه  
واستغنى عنه فان ذلك تمام عزة العابدين  
وشرف المتقين وبه يقوى على الامر بالمعروف  
والنهي عن المنكر ويكون الخلق عنده  
اجمعون بمنزلة واحدة في الحق سواء فاذا  
كان كذلك نقله الله تعالى الى الفتاة  
واليتيمين والثقة به عز وجل ولا يرفع احدا  
بهوا ولا ويكون الناس عنده في الحق سواء  
وتقطع بان هذا الباب عز المؤمنين وشرف  
المتقين وهو اقرب باب الى الاخلاص -

والتاسعة: ينبغي له ان يقطع طبعه  
من الامميين لا يطعم نفسه في شيء مما  
في ايديهم فانه العز الاكبر والغنى الخالص

شعوری اور غیر شعوری کسی طور پر بھی قسم نہیں کھانا اور جب اس کا عادی  
بن جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس پر اپنے التوار کا دروازہ کھول دیتا ہے جس  
کا ناندہ اسے اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے اور برن میں بھی اس کا درجہ  
بلند ہو جاتا ہے عزم مستحکم ہو جاتا ہے نگاہ تیز ہو جاتی ہے لوگ تلعف  
کرتے ہیں اور پاس پڑوس میں عزت بڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ جان پہچان  
والے اس سے مشورہ کرتے ہیں اور دیکھنے والوں پر اس کا رعب پڑتا  
ہے (۲) جھوٹ سے قطعاً پرہیز کیا جائے خواہ دل لگی کے طور پر جھوٹ  
ہو یا سنجیدگی سے کیونکہ جب یہ عادت راسخ ہو جائے گی اور زبان پر  
کبھی جھوٹ نہیں آئے گا تو حق تعالیٰ اس کا شرح صدر فرمائے گا اور  
اس سے اس کا علم بکھڑائے گا اور یہاں تک صفائی ہوگی گو یا اسے معلوم  
ہی نہیں کہ جھوٹ کس چرط یا کا نام ہے اور اگر کسی سے جھوٹی بات  
سنے گا تو جھوٹ پر اسے قائل کرے گا اور اپنے دل ہی دل میں جھوٹ  
سے اسے شرم دلائے گا اور اگر اس کے لئے دعا کر دے کہ حق تعالیٰ  
اس سے اس کی جھوٹ بولنے کی عادت چھڑا دے تو ثواب ملے گا۔  
(۳) مفرد بھر وعدہ خلافی نہ کرے اور اس سلسلہ میں پوری پوری احتیاط  
برتنے ہاں اگر بظاہر کوئی معقول عذر ہو تو دوسری بات ہے یا مرے  
سے وعدہ کرنے کی عادت ہی چھوڑ دے یہ سب سے اچھی بات ہے  
اور اس سلسلہ میں درمیانی راہ ہے کیونکہ وعدہ خلافی بھی جھوٹ ہی  
ہے۔ اس عادت سے حق تعالیٰ اس کے لئے سخاوت اور حیا کا  
دروازہ کھول دے گا اور سچے دوستوں کے دلوں میں محبت بڑھے  
گی اور حق تعالیٰ جل مجدہ کے نزدیک درجہ بلند ہوگا (۴) کسی کو  
برانہ کہے اور نہ کسی کو دکھ پہنچائے حتیٰ کہ ایک چیونٹی کو بھی دکھ  
پہنچائے یہ عادت اللہ کے نیک اور مخلص بندوں کی ہے اور اس  
کا انجام بخیر ہے اور ایسا شخص دنیا میں اللہ کی حفاظت میں رہتا  
ہے علاوہ ازیں اس نے اپنے پاس آخرت کے لئے ذخیرہ درجات



والمك العظیم والفخر الجلیل والیقین الصادق  
 والتوکل الشافی العظیم وهو باب من البواب  
 الثقة بالله عز وجل وهو باب من البواب  
 الزهد وبعده بینال الورع ویکمل نسكده وهو  
 من علامات المتقطعین الی الله تبارک وتعالی  
 الخصلة العاشرة التواضع لانه بذلك  
 یشید مجد درجته وتعلو منزلته ویستكمل  
 العز والرفعة عند الله تعالی وعند الخلق  
 ویقدر علی ما یرید من امر الدنیا والآخرة  
 وهذه الخصلة اصل الطاعات کلها وفرعها  
 وکمالها وبها یدرك العبد منازل الصالحین  
 الراضین عن الله تعالی فی الفراء والسرائر  
 وهی کمال التقوی والتواضع هو ان لا یلقى  
 العبد احدا من الناس الا رأى له الفضل  
 علیه ویقول عسی ان یرکب عند الله خیرا  
 منی وارفح درجة فان کان مغیرا قال  
 هذا لم یرع الله وانا قد عصیت فلا اشک  
 انه خیر منی وان کان کبیرا قال هذا  
 عبد الله قبلی وان کان عالما قال هذا  
 اعطى ما لم ابلغ ونال ما لم اتل وعلم ما  
 جهلت وهو یعلم بعلم وان کان جاهلا  
 قال هذا عصی الله بجهل وانا عصیته بعلم  
 ولا ادری بما یختم له وبما یختم لی وان  
 کان کافرا قال لا ادری عسی یرسل  
 هذا فیختم له بخیر العمل وغسی اکفر

جمع کر لیا ہے اس کی برکت سے حق تعالیٰ اسے خطرناک پھندوں سے  
 اور ہلاکت گاہوں سے نکال لاتا ہے اور لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ  
 فرمادیتا ہے اور عوام کے دلوں میں محبت پیدا فرمادیتا ہے اور  
 حق تعالیٰ شانہ کا قرب نصیب ہوتا ہے (۵) کسی پر بددعا نہ کرے اگرچہ  
 ظالم ہی کیوں نہ ہو اور ظالم کو نہ زبان سے کچھ کہے اور نہ ظلم کا بدلہ لے  
 اور حق تعالیٰ کے لئے ظالم کا ظلم برداشت کرنے اور قول و فعل سے  
 بدلہ نہ لے۔ یہ خصلت انسان کو بہت بلند کر دیتی ہے اور اپنے درجوں  
 تک اٹھا کر لے جاتی ہے جب کسی میں یہ نیک عادت پائی جاتی ہے  
 تو وہ دنیا اور آخرت میں ایک شریف مقام حاصل کر لیتا ہے اور عوام  
 و خواص میں ہر درجہ عزیز بن جاتا ہے خواہ وہ اپنے ہوں یا پرانے  
 اور یگانے ہوں یا بیگانے اور اس کی دعا شرف قبولیت حاصل کرتی  
 ہے اور مومنوں کے دلوں میں دنیا میں عزت بڑھتی ہے اور نیکوں  
 میں اونچا مقام حاصل ہوتا ہے (۶) کسی اہل قبلہ کو قطعاً طور پر مشرک  
 یا کافر یا منافق نہ کہے یہ خصلت لوگوں کی محبت سے قریب تر ہے  
 اور انتہائی بلند درجہ والی ہے، سنت کے عین مطابق ہے۔  
 اللہ کے علم میں دخل دینے سے بہت دور ہے اور اللہ کے غصہ سے  
 بھی بہت دور ہے اور اللہ کی رضا اور رحمت کے بہت قریب ہے  
 اور یہ ایک شریف و معزز دروازہ ہے جس سے حق تعالیٰ تمام لوگوں  
 کے دلوں میں اپنے بندے کی محبت پیدا فرماتا ہے (۷) ہر طرح کے گناہ  
 کی (خواہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی) طرف اچھٹی ہوئی نگاہ بھی نہ  
 ڈالے اور گناہ کا تصور بھی دل میں نہ آنے دے اور اپنے اعضاء کو  
 سختی کے ساتھ گناہوں سے باز رکھے کیونکہ اس طرح گناہوں سے  
 نگہداشت کرنے سے دل و اعضاء کے نیک اعمال کا ثواب بہت  
 تیزی سے مرتب ہوتا ہے اور حق تعالیٰ آخرت کی بھلائی جو جمع کر  
 کے رکھتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے ہماری حق تعالیٰ جل شانہ سے

انا فیختم لی بشر العمل و هذا باب الشفقة  
 والوجل و اول ما یصحب و آخر ما یبقی  
 علی العباد فاذا کان العبد کذلک سلمه  
 اللہ من الغوائل و بلغ بہ منازل النصحۃ  
 اللہ عزوجل و کان من اصفیاء الرحمن  
 و احبابہ و کان من اعداء ابلیس عدو  
 اللہ لعنہ اللہ و هو باب الرحمة و مع  
 ذلک یکون قد قطع طریق الکبر و حبال  
 العجب و رفض درجۃ العلو و جانب درجۃ  
 التعزز فی نفسہ فی الدین و الدنیا و الآخرة  
 و هو مخ العبادۃ و غایۃ شرف الزاہدین  
 و سیمای الناسکین فلا شیء افضل منه  
 و مع ذلک یقطع لسانہ عن ذکر العالمین  
 فلا یتملہ عمل الایہ و ینخرج الغل و  
 البغی و الکبر من قلبہ فی جمیع احوالہ و کان  
 لسانہ فی السر و العلانیۃ و احد او مشیتہ  
 فی السر و العلانیۃ و احد او کلامہ  
 کذلک و الخلق عندہ لا فی النصحۃ و احد  
 و لا یکون من الناصحین و هو یدکر احد  
 من خلق اللہ بسوء او یعیرہ بفعل او یجب  
 ان ینکر عندہ لا بسوء او یرتاح قلبہ اذا  
 ذکر عندہ لا بسوء و هذا آفة العابدین  
 و عطب الشاک و هلاک الزاہدین  
 الا من اعانہ اللہ عزوجل علی حفظ لسانہ  
 و قلبہ برحمۃ -

دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو ان عادتوں پر عمل کرنے کی اپنی  
 مریانی سے توفیق عطا فرمائے اور بہار سے دلوں سے نفسانی خواہشیں  
 دور فرمادے آمین ثم آمین - (۸) اپنا بار خواہ تھوڑا ہو یا بہت  
 کسی پر نہ ڈالے بلکہ اس سلسلہ میں سب سے بے نیاز رہے اور اپنی  
 کوئی مزدورت کسی کے سامنے پیش نہ کرے کیونکہ یہ استغناء عبارت  
 گزاردن کی عزت کا اور پرہیزگاروں کے شرف کا قلم ہے اور اس  
 کی برکت سے تبلیغ پر توفیق و جرات حاصل ہوتی ہے اور اس کے  
 نزدیک اس سلسلہ میں تمام مخلوق برابر ہوتی ہے اور سب کا حق  
 یکساں ہوتا ہے جب یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ  
 اس کی تو نگری کا ضامن بن جاتا ہے اور یقین و توکل کا بھی کفیل  
 ہو جاتا ہے اور اسے اس کی خواہش نفسانی پر ابھرنے نہیں دیتا  
 اور لوگ حق میں اس کی نگاہ میں برابر رہتے ہیں - اس بات پر  
 انسان کو قطعاً طور پر یقین کر لینا چاہیے کہ یہ عادت مومنوں کے  
 لئے عزت کا اور پارساؤں کے لئے شرف و تقار کا سبب ہے اور  
 خلوص کا قریب ترین دروازہ ہے (۹) انسان کو چاہیے کہ کسی  
 سے لالچ نہ رکھے اور سب کے مال کی طرف سے نا امید ہو جائے  
 یہی اس کے لئے سب سے بڑی عزت، اصلی تو نگری، عظیم ملک  
 جلیل القدر فخر، یقین صادق اور صحیح و نشانی توکل ہے، اللہ پر  
 بھروسہ کئے جانے والے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور  
 پارسائی کے دروازوں میں سے بھی ایک دروازہ ہے اور اسی  
 انسان پارسائی حاصل کرتا ہے اور اس کی عبادتیں مکمل ہوتی ہیں  
 اور یہی ان کی ایک نشانی ہے جو دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑ  
 جاتے ہیں (۱۰) دسویں عادت تواضع اور مسکینی ہے کیونکہ اس  
 سے انسان اپنے مقام شرف کو مضبوط کرتا ہے، اپنا مرتبہ بلند  
 کرتا ہے، اللہ کی اور مخلوق کی نگاہوں میں اپنی عزت و رفعت کی



**فصل:** واما التوکل فالاصل فیہ قولہ عزوجل ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ و قولہ تعالیٰ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم موتبین وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت الامم بالموسم فرأیت امتی قد ملات السہل والجبل فاعجبتني کثیرتہم وھیئتہم فقیل لی ارضیت قلت نعم قیل ومع ہولاء سبعون الفاید خلون الجنة بغير حساب لا یکتون ولا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون فقام عکاشۃ بن محصن الاسدی فقال یا رسول اللہ ادع اللہ ان یجعلنی منہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ منہم فقام آخر فقال ادع اللہ ان یجعلنی منہم فقال صلی اللہ علیہ وسلم سبقک بہا عکاشۃ وحقیقۃ التوکل تفویض الامور الی اللہ عزوجل والتنفی عن طلبات الاختیار والتدبیر والاسترقی الی ساحات شہود الاحکام والتقدیر فیقطع العبد ان لا تبدیل للقسمۃ فما <sup>قسم</sup> لہ لا یفوتہ وما لم یقدر لہ لا ینالہ فیسکن قلبہ الی ذلک ویطمئن الی وعد مولا لا یتاخذ من مولا لا والتوکل ثلاث درجات وہی التوکل ثم التسلیم ثم التفویض فالمتوکل یسکن الی وعد ربہ

تکمیل کرتا ہے اور حسب منشاء نبوی اور اخروی کاموں پر قادر ہوتا ہے یہ عادت تمام عبادتوں کی نہ صرف جرت بلکہ معہ طہنیوں، گریہوں اور پتوں کے مکمل درخت ہے اسی سے تمام عبادتوں کا نیکو ہوتا ہے اور اسی سے ان صلحا جیسے مراتب حاصل کرتا ہے جو ہر حال میں خواہ تنگی ہو یا فراخی اور بیماری ہو یا تندرستی اللہ سے راضی رہتے ہیں اور یہی تواضع تقویٰ کا کمال ہے۔ تواضع یہ ہے کہ انسان جس سے بھی ملے اسی کو اپنے سے اچھا سمجھے اور یہ گمان کرے کہ ممکن ہے اللہ کے نزدیک یہ مجھ سے اچھا ہو اور اس کا درجہ بارگاہ قدس میں مجھ سے اونچا ہو اگر وہ نابالغ ہو تو خیال کرے کہ یہ اللہ کا بندہ معصوم ہے بے گناہ ہے اور میں گناہوں میں گتھا ہوا ہوں بلاشبہ یہ مجھ سے بہتر ہے اور اگر بڑا ہو تو یہ تقویٰ کرے کہ اس اللہ کے بندے نے مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کی اس لئے مجھ سے افضل ہے اور اگر عالم ہو تو یہ رائے قائم کرے کہ اس کو وہ نعمت نصیب ہے جو مجھے نصیب نہیں اور اس کے پاس وہ پیش بہادرت ہے جو میرے پاس نہیں اور وہ علم ہے جس سے میں بیگانہ ہوں اور اپنے علم کے تقاضوں پر عمل پیرا بھی ہے لہذا مجھ سے کہیں بہتر ہے اور اگر جاہل ہو تو سوچ کے یہ بے چارہ تو جہل کی حالت میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور میں جاننے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں لہذا یہ مجھ سے اچھا ہے مجھے معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ کس عمل پر ہو اور اس کا خاتمہ کس عمل پر ہو اور اگر کافر ہو تو یہ خیال کرے کہ ممکن ہے یہ مشرف بہ اسلام ہو کر اچھے عمل دنیا سے رخصت ہو جائے اور خدا خواستہ معاذ اللہ معاذ اللہ میں ناشکر ابن کر دنیا سے بڑے عمل پر سدھار جاؤں حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کا خاتمہ بخیر فرمائے آمین یہ خوف و بیم کا ایک دروازہ ہے اور سب سے پہلے انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور آخری ساتھی باقی رہتا ہے پھر جب بندہ متواضع بن کر زندگی گزارتا ہے تو حق تعالیٰ

وصاحب التسليم يكتفى بعلمه وصاحب التفرقة  
يرضى بحكمه وقيل التوكل بداية والتسليم  
وسط والتفويض نهاية وقيل التوكل صفة  
المؤمنين والتسليم صفة الاولياء والتفويض  
صفة الموحدين وقيل التوكل صفة العوام  
والتسليم صفة الخواص والتفويض صفة خواص  
الخواص وقيل التوكل صفة الانبياء والتسليم  
صفة ابراهيم والتفويض صفة نبينا صلوات  
الله عليهم اجمعين فالتوكل على كمال  
الحقيقة وقع لابراهيم الخليل عليه السلام  
في الوقت الذي فيه قال لجبريل عليه السلام  
اما اليك فلا لانه غابت نفسه حتى لم يبق  
لها اثر فلم يرمع الله تعالى غير الله عز وجل  
وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى  
اول مقام في التوكل ان يكون العبد بين  
يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل  
يقلبه كيف اراد لا يكون له حركة ولا  
تدبير فالتوكل على الله سبحانه وتعالى  
يكون لا يسأل ولا يريد ولا يريد ولا يجلس  
وقيل ايضا التوكل هو الاسترسال وقال  
حمدون رحمه الله تعالى هو الاعتصام  
بالله عز وجل وقال ابراهيم الخواص  
رحمه الله تعالى حقيقة التوكل اسقاط  
الخوف والرجاء مما سوى الله عز وجل  
وقيل التوكل رد العيش الى يوم واحد

اسے تباہ کن اثرات سے بچالینا ہے اور اپنی ہمدردی کے منازل تک  
پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور محبوب بندہ بن جانا ہے  
اور اطمینان کا پکا دشمن اور ٹھیکہ مخالف ثابت ہوتا ہے یہ عادت  
محبت و شفقت کی ایک شاخ ہے اور غرور کا راستہ مٹا دیتی ہے اور  
کبر کی رسیاں کاٹ دیتی ہے اور ذاتی بڑائی کا درجہ چھڑا دیتی ہے  
اور دین و دنیا میں اور آخرت میں ذاتی عزت و رفعت سے دور کر  
دیتی ہے بلکہ سچ پوچھو تو عبادت کا جوہر ہے پارساؤں کے شرف کی  
انتہائی حد ہے اور عبادت گزاروں کی ایک مخصوص علامت ہے اور  
اس سے افضل کوئی چیز نہیں اس کے ساتھ ساتھ عابدوں کی زبانوں کو  
دنیا کے ذکر سے روک دیتی ہے اس کا ہر عمل اسی سے تکمیل مراحل طے  
کرتا ہے اور ہر حال میں دل سے حسد، کینہ، بغاوت کا جذبہ اور غرور  
نکال پھینکتی ہے اور ظاہر و باطن میں ایک زبان بنا دیتی ہے اور  
ظاہر و باطن میں ارادہ اور کلام ایک ہی کہ دیتی ہے ایسے شخص کی  
نگاہ میں خیر خواہی کے اعتبار سے تمام مخلوق کیساں ہوتی ہے اس  
کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جب تک اسے برائی سے یاد کرنا نہ چھوڑے  
اور اس پر طعن و تشنیع نہ چھوڑے اگر اسے یہ پسند ہے کہ اس کے  
سامنے کسی کی برائی کی جائے یا وہ کسی کی برائی سن کر خوش ہوتا ہے  
تو یہ عابدوں کے لئے آفت، سالکوں کے لئے تباہی اور زاہدوں کے  
لئے ہلاکت ہے حق تعالیٰ جل مجدہ زبان و دل کی حفاظت پر انکی  
(اور بہاری) اعانت فرمائے آمین۔

توکل | توکل کی دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت ہے اور جو اللہ پر بھروسہ  
رکھے اللہ اسے کافی ہے اور یہ بھی کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ  
رکھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حج  
کے زمانہ میں قومیں دکھائی گئیں میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ اس سے  
میدان اور پہاڑ پٹے ہوئے ہیں ان کی کثرت و ہمیت دیکھ کر میں



واسقاط هم غد وقال ابو علی الروذباری  
 رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ مراعاة التوکل ثلاث  
 درجات الاولى منها اذا اعطی شکر و اذا  
 منع صبر والثانية ان يكون العبد المنع  
 والعطاء عنده واحد والثالثة المنع  
 مع الشکر احب اليه لعلمه باختیار  
 اللہ تعالیٰ له ذلك وروی عن جعفر  
 الخلدی قال قال ابراهيم الخواص  
 رحمہ اللہ تعالیٰ كنت في طريق مكة ما را  
 فرأيت شخصا وحشيا فجت اليه فقلت  
 اجني امراسي فقال بل جني فقلت الى  
 اين فقال الى مكة فقلت له بلا زاد ولا  
 راحلة قال نعم ان فينا ايضا من يسافر  
 على التوکل فقلت له ما التوکل قال  
 الاخذ من اللہ وقال سهل رحمہ اللہ  
 تعالیٰ هو معرفة معطى ارزاق المخلوقين  
 ولا يفهم لاحد التوکل حتى يكون  
 عنده السماء كالصفر والارض كالحديد  
 لا ينزل من السماء مطر ولا يخرج من  
 الارض نبات ويعلم ان اللہ لا يبني له  
 ما امن له من رزقه بين هذين وقيل  
 هو ان لا تعصى اللہ تعالیٰ من اجل رزقه  
 وقال بعضهم حسبك من التوکل ان لا  
 تطلب لنفسك ناصرا غير اللہ تعالیٰ  
 ولا لرزقك خازنا غيرہ ولا لعملك

کہا گیا پھر مجھ سے پوچھا گیا، کیا آپ خوش ہیں؟ میں نے کہا، ہاں خوش  
 ہوں، کہا گیا کہ ان میں سے ستر ہزار بلا حساب کے جنت میں جائیں گے جو  
 داغ نہیں لگواتے، نہ بری شکوتوں کے قائل ہوتے ہیں اور نہ دم وغیرہ  
 کہتے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ سن کر عکاشہ  
 بن معصن اسدی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول (صلعم اللہ  
 سے دعا فرمادیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے پھر رسول اللہ (صلعم  
 نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں ان میں شامل فرما پھر  
 دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر یہی سوال کیا آپ نے فرمایا عکاشہ اس  
 سوال پر تم سے پہلے کہہ گیا۔

**توکل کی حقیقت** | توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ  
 کو سونپ دئے جائیں اور اختیار و تدبیر کے اندھیروں سے نکل کر ارادہ  
 ترقی کر کے مشیت و تقدیر کے فراخ میدان میں آجانا ہے یعنی یہ یقین  
 کہ لینا ہے کہ تحریر تقدیر میں رد و بدل ہونے والا نہیں جو میرے نصیب  
 میں ہو گا مجھے مزور دئے گا اور جو مقدر میں نہیں ہو گا وہ ہرگز نہیں  
 ملے گا اس عقیدے سے دل میں اطمینان و ٹھنڈک ہو اور اپنے آقا  
 کے وعدے پر یقین ہو اور اپنے آقا سے اپنے حصہ کی روزی حاصل کرے  
**توکل کے درجے** | توکل کے تین درجے ہیں توکل، تسلیم، تفویض  
 پہلا درجہ توکل کا ہے کہ متوکل کو اپنے رب کے وعدے پر یقین و اطمینان  
 ہو دوسرا درجہ تسلیم کا ہے صاحب تسلیم اللہ کے علم پر قناعت کرتا ہے  
 تیسرا درجہ تفویض کا ہے صاحب تفویض اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی  
 رہتا ہے یعنی توکل ابتدائی، تسلیم درمیانی اور تفویض انتہائی درجہ ہے  
 بعض کے نزدیک توکل ہو منوں کی، تسلیم اولیاء کی اور تفویض نزدیک  
 توحید کی صفت ہے، بعض کے نزدیک توکل عوام کی، تسلیم خواص کی  
 اور تفویض اخص الخواص کی صفت ہے۔ بعض کے نزدیک توکل انبیاء  
 کرام کی، تسلیم حضرت ابراہیم کی اور تفویض بہار سے محبوب نبی کی صفت ہے

شاهد اغیرہ وقال الجنید رحمہ اللہ تعالیٰ  
 التوکل ان تقبل بالکلۃ علی ربک وتعرض  
 عن دونہ وقال النوری رحمہ اللہ تعالیٰ هو  
 ان تفنی تدنیرک فی تدبیرہ وترضی باللہ وکیلاً  
 ومدبراً ونصیراً قال اللہ تعالیٰ وکفی  
 باللہ وکیلاً وقیل هو اکتفاء العبد  
 الذلیل بالرب الجلیل کا اکتفاء الخلیل  
 بالجلیل جین لم یظن الی عنایتہ جبریل  
 علیہ السلام وقیل هو السکون عن  
 الحركات اعتماداً علی خالق الارض  
 والسموات وقیل لبہلول المجنون رحمہ اللہ  
 تعالیٰ متی یکون العبد متوکلًا قال  
 اذا کان بالنفس غریباً بین الخلق و  
 بالقلب قریباً الی الحق وقیل لحاتم  
 الامیر رحمہ اللہ تعالیٰ علام بنیت امرک  
 هذا من التوکل قال علی اربع خلال علمت  
 ان رزقی لیس یا کلہ غیری فلست اشتغل  
 بہ وعلمت ان عملی لا یعملہ غیری فانا  
 مشغول بہ وعلمت ان السموت یا قی بغتہ  
 فابادرہ وعلمت انی بعین اللہ تعالیٰ فی  
 کل حال فانا مستم منہ وعن ابی موسی  
 الدبیلی قال سألت عبد الرحمن بن یحیی  
 عن التوکل فقال لی لو ادخلت یدک فی  
 فمالتین حتی تبلغ الی الرسخ لم تخفف  
 مع اللہ شیئاً فقال ابو موسی رحمہ اللہ

حق تعالیٰ شانہ کی آپ پر اور تمام انبیائے کرام پر رحمتیں نازل ہوں۔  
 لہذا اصل توکل معہ اپنی مکمل حقیقت کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ  
 کے اندر پایا گیا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور حضرت جبریل آپ سے پوچھا  
 مجھ سے کچھ کام تو نہیں تو فرمایا آپ سے مجھے کچھ کام نہیں کیونکہ اس وقت  
 آپ کو اپنے نفس کی خبر نہ تھی صرف اللہ کی طرف دھیان تھا اور نفس کا  
 ذرا سا بھی کہیں سراغ نہیں ملتا تھا اس لئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی موجودگی  
 میں غیر اللہ کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائی۔

سہل بن عبد اللہ: توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر  
 کے آگے اس طرح بن جائے جیسے مردہ نہلانے والے کے آگے ہوتا ہے کہ  
 نہلانے والا اسے جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے اور مردے میں  
 نہ حرکت ہوتی ہے اور نہ کوئی تدبیر یا نجاتی ہے لہذا توکل کرنے والے  
 کی طرف ہوتی ہے وہ حق تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگتا نہ اس کے عطیہ کو لوٹاتا ہے  
 اور نہ روک کر رکھتا ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ توکل اپنے کو تقدیر پر چھوڑ دینا ہے۔ حمدون  
 توکل اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ ابراہیم خواص: توکل کی  
 حقیقت غیر اللہ سے خوف ورجا کو ہٹا دینا ہے یعنی غیر اللہ سے ڈرانہ  
 جانے اور نہ اس سے کوئی آس باندھی جانے بلکہ بعض علماء: توکل آج  
 کی زندگی کے لئے سامان فراہم کرنا اور کل کا فکر نہ کرنا ہے۔ ابو علی رودباری  
 توکل کی رعایت و نگہداشت کے تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر کچھ  
 مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر کچھ نہ ملے تو صبر کرے دوسرا  
 درجہ یہ ہے کہ انسان اس حالت میں ہو کہ کسی شے کا ملنا نہ ملنا اس کے  
 نزدیک برابر ہو تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ ملنا معہ شکر کے زیادہ محبوب  
 ہو کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو میرے لئے پسند  
 فرمایا ہے۔ جعفر خلدی از ابراہیم خواص: ایک دفعہ میں کہ مغل  
 جارا تھا۔ میں نے راہ میں ایک وحشی آدمی دیکھا اور اس کے تیسرے



تعالیٰ فخرجت الی ابی یزید البسطامی رحمہ اللہ  
تعالیٰ اسالہ عن التوکل فدقت علیہ الباب  
فقال لی یا اباموسی ما کان لک فی جواب  
عبد الرحمن من القناعة حتی تجیء وتسالنی  
نقلت یا سیدی افتح الباب فقال لو جئتنی  
زائراً لفتحت لک الباب خذ الجواب من  
الباب فانصرفت فلوان الحیة التي هی  
مطوقة بالعرش هبت بک لم تخفف مع  
الله شیئاً قال ابو موسی رحمہ اللہ تعالیٰ  
فانصرفت حتی جئت الی دبیل فاقمت بہا  
سنة ثم اعتقدت الزیارة فخرجت الی  
ابی یزید فلما وصلت الیہ قال لی الآن  
جئتنی زائراً مرحباً بالزائر ادخل فاقمت  
عندہ لا شہراً الا یقع لی شیء الا اخبرنی بہ  
قبل ان اسالہ فقلت لہ یا ابایزید ارید  
الخروج فاطلب منک فاشد لا فقال اعلم  
ان فائدۃ المخلوقین لیست بفائدة فانصرف  
فجعلتها فائدة وانصرفت وعن ابن طاووس  
الیہ فی رحمہ اللہ تعالیٰ عن ابیہ طاووس  
رحمہ اللہ تعالیٰ قال ان اعرابیا جاء  
براحلۃ لہ فبرکھا وعقلھا ثم رفع  
رأسہ الی السماء فقال اللهم ان هذا  
الراحلة وما علیہا فی ضمانک حتی اخرج  
الیہا ومضی ثم دخل المسجد الحرام  
فخرج الی اعرابی من المسجد الحرام وقد

جا کر اس سے پوچھا: کیا آپ جن میں یا انسان ہے اس نے کہا: میں جن ہوں  
میں نے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ لولا کہ حارہ ہوں / میں نے کہا:-  
کیا بے سرو سامان اور بلا سوازی کے؟ لولا ہاں / ہماری تویم میں ہیں  
ایسے لوگ ہیں جو توکل پر سفر کرتے ہیں.....  
..... میں نے کہا  
توکل کیا ہے؟ لولا: اللہ تعالیٰ سے لینا توکل ہے۔

سئل: توکل دنیا کو روزی عطا فرمانے والے کو پہچانتا ہے۔ توکل  
اسی وقت صحیح ہوتا ہے کہ اگر بالفرض آسمان تانبے کا اور زمین لوہے کی  
بن جائے کہ نہ آسمان سے بارش ہو اور نہ زمین سے کچھ پیدا ہو تو اسے  
یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان جس روزی کی  
صناعت دی ہے وہ اسے ضرور ملے گی اور اسکی مقدار کی روزی کو حق تعالیٰ  
اس کے لئے نہیں بھولے گا۔

بعض علماء:۔ توکل یہ ہے کہ تم اپنے رزق کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو  
بعض علماء: توکل کے لئے یہی کافی ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے لئے کوئی  
دو گار نہ ڈھونڈو اور نہ اپنے رزق کے لئے کوئی خزانچی تلاش کرو  
اور نہ اپنے عمل پر بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو حاضر و موجود سمجھو۔  
جیندہ:۔ توکل یہ ہے کہ تم ہمہ تن اپنے رب کی طرف متوجہ رہو اور  
دوسروں سے منہ پھیر لو۔ (توکل یہ ہے کہ اپنی تدبیر کو اللہ کی تدبیر  
میں فنا کر دو اور کارساز اور برادر دو گار ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ  
سے راضی ہو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا اور کارساز ہونے کے اعتبار سے  
اللہ تعالیٰ سے راضی رہو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا اور کارساز  
ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ بعض علماء:۔ توکل یہ ہے کہ ناچیز  
دعوت بندہ صاحب جلال پروردگار پر اس طرح قناعت کر لے جیسے حضرت  
نجیل نے رب جلیل پر قناعت کر لی تھی اور حضرت جبرئیل کی طرف  
نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بعض علماء:۔ توکل یہ ہے کہ خالق کا نام



اخذت الراحلة وما عليها فرفع رأسه  
الى السماء وقال اللهم ما سرق مني شيء وما  
سرق الا منك قال طائوس فبينما نحن كذلك  
مع الاعرابي اذ رأينا رجلا نازلا من رأس  
جبل ابي قبيس يقود الراحلة بيد لا اليسرى  
ويده اليمنى مقطوعة معلقة في عنقه حتى  
جاء الى الاعرابي فقال خذ راحلتك وما  
عليها فان الله عن حاله فقال استقبلني فاد  
س  
على فرس اشهب في رأس ابي قبيس فقال  
لي يا سارق مد يدك قال فمد يدها فوضعتها  
على حجر ثم اخذ حجرا آخر فبذلها و  
عقلها في عنقي وقال انزل ورد الراحلة و  
ما عليها الى الاعرابي وروى عن عمر بن  
الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله  
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو  
خصاصا وتروح بطانا وروى محمد بن كعب  
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرى  
ان يكون اكرم الناس فليتنس الله ومن  
سرى ان يكون اغنى الناس فليكن بسا  
في بيد الله اوثق منه مما في يديه وكان  
عمر رضي الله عنه يمشي بهذين البيتين -  
هون عليك فان الامور يا امر الاله مقاديرها  
فليس بآتيك معروفها ولا هارب عنك مقدورها

پر بھروسہ کر کے حرکات موقوف کر دی جائیں۔ کسی نے بتکول مجنون  
سے پوچھا کہ بندہ کب متوکل کہلاتا ہے؟ فرمایا جب وہ لوگوں میں رہ کر  
ان سے بہت دور رہتا ہے لیکن اس کا دل اللہ سے قریب رہتا ہے۔  
حاتم اعمش سے پوچھا گیا کہ آپ کو توکل کن چیزوں سے حاصل ہوا؟  
فرمایا چار باتوں سے مجھے یقین ہے کہ میرا رزق میرے سوا کوئی اور  
نہیں کھا سکتا لہذا میں اس میں مشغول نہیں ہوتا، مجھے معلوم ہے کہ  
میرا عمل غیر نہیں کر سکتا اس لئے میں عمل میں مشغول رہتا ہوں مجھے  
معلوم ہے کہ موت اچانک آجائے گی لہذا میں ہر وقت اس کا منتظر رہتا  
ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے سامنے رہتا ہوں  
اس لئے اس سے شرماتا ہوں اور گناہوں سے باز رہتا ہوں۔  
ابو موسیٰ وہابی :- میں نے عبد الرحمن بن یحییٰ سے توکل کے بارے  
میں پوچھا، فرمایا: اگر تم کسی اذہ سے کے منہ میں پہنچے تب تک  
داخل کر دو اس وقت بھی اللہ کی موجودگی میں کسی چیز سے نہ ڈرو۔  
ابو موسیٰ :- میں ابو یزید بسطامی کی تلاش میں نکلا تا کہ آپ سے  
توکل کے بارے میں پوچھوں اسخو کار میں شہزاد بسطام میں پہنچ گیا اور  
میں نے آپ کا دروازہ جاکھٹکھا مٹایا آپ نے مجھ سے فرمایا: ابو موسیٰ  
کیا عبد الرحمن کے جواب سے تم کو اطمینان حاصل نہیں ہوا کہ تم کو میرے  
پاس آنے کی اور مجھ سے پوچھنے کی نوبت آئی فرماتے ہیں :- میں نے عرض  
کیا جناب من آپ دروازہ تو کھولیں فرمایا، اگر تم مجھ سے ملاقات  
کرنے کے لئے آتے تو میں دروازہ کھول دیتا اب تم جواب دروازے  
سے حاصل کر دو اور واپس چلے جاؤ اگر وہ سانپ جو عرش پر حلقہ  
کئے ہوئے ہے تم پر حملہ کرے تو اللہ کے ہوتے ہوئے اس سے بالکل  
نہ ڈرنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں اسخو کار میں واپس ہوا اور دلیل پہنچا  
اور وہاں ایک سال ٹھہرا، پھر میں ابو یزید کی طرف ملاقات کی نیت  
سے روانہ ہوا اور جب آپ کے پاس پہنچا تو فرمایا: اب تم ملاقات



وسئل يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى متى  
 يكون الرجل متوكلا فقال اذا رضى بالله  
 وكيلا وقال بشر رحمه الله تعالى يقول احد  
 هم توكلت على الله وهو كاذب والله  
 فانه لو توكل على الله رضى بما يفعل الله  
 به وقال ابو تراب النخعي رحمه الله تعالى  
 هو طرح البدن في العبودية وتعلق القلب  
 بالربوبية والطمانينة الى الكفاية فان  
 اعطى شكروا ان منع صبر وقال ذو النون  
 المصري رحمه الله تعالى التوكل ترك  
 تدبير النفس والاتخايع من الحول  
 والقوة وقال ذو النون رحمه الله  
 تعالى ايضا الرجل ساله عن التوكل  
 فقال هو خلع الارباب وقطع الاسباب  
 فقال له السائل زد في فقال القضاء  
 النفس في العبودية واخراجها من  
 الربوبية وقال ايضا هو النطاق  
 المطامع واما الحركة بالظاهر التي  
 هي الكسب بالسنة فلا تنافي توكل  
 القلب بعد ما يتحقق العبد ان التقدير  
 من قبل الله تعالى في قلبه لان محل  
 التوكل القلب وهو تحقيق الايمان  
 فمن انكر الكسب فقد انكر السنة  
 ومن انكر التوكل فقد انكر الايمان  
 فان تعسر شيء من الاسباب فبتقدير

کے نیت سے آئے ہو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے میں آپ کے  
 پاس ایک ماہ ٹھہرا جرات میرے دل میں آتی تھی اسے آپ سوال  
 پہلے ہی مجھے بتا دیتے تھے میں نے کہا ابو بکرؓ اب میں جانا چاہتا  
 ہوں اور آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں فرمایا: یقیناً اسے دنیا کے  
 لوگوں سے حاصل کردہ فائدہ کچھ فائدہ نہیں اب آپ چلے جائیں اور  
 اسی کو فائدہ سمجھ لیں آخر کار میں واپس آ گیا۔

ابن طاووسؒ بیان از طاووسؒ :- ایک دفعہ ایک دیہاتی اپنی سواری  
 اور اسے بٹھا کر اسے باندھا پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر بولا: اللہ  
 یہ سواری اور اس پر جو کچھ ہے میرے واپس آنے تک تیری ضمانت میں  
 ہے یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور مسجد حرام میں جا کر اس نے عبادت کی پھر  
 وہاں سے نکل کر آیا تو دیکھا کہ اس کا اونٹ مع سامان کے ندرت  
 اس مرتبہ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر یہ کہا کہ اے اللہ میری  
 سواری مع سامان کے میرے پاس سے نہیں چرائی گئی بلکہ آپ کی نگرانی  
 سے چرائی گئی طاووسؒ کہتے ہیں ابھی ہم اسی حال میں دیہاتی کے  
 پاس ہی تھے کہ ہم نے دیکھا ایک شخص کوہ البوتیس کی چوٹی سے  
 اتر رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے اونٹ کی پکیں پکڑے ہوئے اسے لا  
 رہا ہے اور اس کا سپرد حالاً ہاتھ کٹا ہوا اس کی گردن میں لٹک رہا  
 ہے مگر وہ اس دیہاتی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اپنا اونٹ معہ اس کے  
 سامان کے تمام لے فرماتے ہیں میں نے اس کے حال کے بارے  
 میں پوچھا کہنے لگا البوتیس کی چوٹی پر میرے سامنے سرخ رنگ کے  
 گھوڑے پر سواری ایک شخص آیا اور مجھ سے کہنے لگا: اے چور  
 اپنا ہاتھ آگے بڑھا میں نے ہاتھ پھیلا دیا اس نے میرا ہاتھ  
 ایک پتھر پر رکھا اور دوسرا پتھر اٹھا کر میرے ہاتھ پر اس قدر  
 زور سے مارا کہ میرا ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا پھر اس نے اسی  
 ہاتھ کو میرے گلے میں لٹکا دیا اور حکم دیا کہ دیہاتی کا اونٹ معہ



اللہ عزوجل وان تیسر شیء منها فتیسیر  
عزوجل فتكون جوارحه وظواهره  
متحركة في السبب بامر الله عزوجل  
وباطنه ساكن لوعد الله عزوجل  
وقد روى عن انس بن مالك رضى الله عنه  
انه قال جاء رجل على ناقه له فقال  
يا رسول الله ادعها واتوكل فقال  
ولى الله عليه وسلم اعقلها واتوكل  
وقيل المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا  
ياوى اليه الا تدى امه كذلك المتوكل  
لا يهتدى الا الى ربه عزوجل وقيل  
التوكل نفى الشكوك والتفويض الى مالك  
الملوك وقيل التوكل الثقة بما في يد الله  
عزوجل والياس بما في ايدي الناس  
وقيل التوكل افراغ السر عن التفكير  
للتقاضى في طلب الرزق -

**فصل:** داماحن الخلق فالاصل  
فيه قول الله عزوجل لنبيه صلى الله  
عليه وسلم في كتابه المنزل عليه و  
انك لعلی خلق عظیم وماروی عن انس بن  
مالك رضى الله عنه انه قال قيل يا رسول  
الله اى المومنين افضل ايماننا قال صلى الله  
عليه وسلم احسنهم خلقا الخلق الحسن  
افضل مناقب العبد و بة تظهر جواهر  
الرجال والالسان مستور بخلقه مشهور

سامان کے پھاڑ سے نیچے اتر کر اسے دے آ۔۔

حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اگر تم اللہ پر  
کما حقہ توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً روزی سنبھال دے جیسے پرندوں کو  
روزی دی جاتی ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر  
واپس لوٹتے ہیں۔

محمد بن کعب از ابن عباسؓ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو یہ  
بات پسند ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں تو اسے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا  
چاہیے اور جو سب سے زیادہ مالدار بننا چاہے تو اس کا بھروسہ اپنی  
مقبوضہ سے زیادہ اس پر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے  
حضرت عمرؓ اکثر بطور تمثیل کے یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

وہون علیک فان الامور بما را لا لا مقادیرھا یعنی اپنے اوپر آسانی  
کر کیونکہ نہ کام کا اندازہ اللہ کے حکم پر ہے نہ نلایا نیک مصروف نہ  
ولا مضارب عنک مقدرھا۔ جو تجھ سے ہٹا دیا گیا وہ تیرے پاس  
نہ لائیں اور جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھ سے بھاگنے والا نہیں۔

یہی بن معان سے پوچھا گیا کہ انسان کب متوکل ہوتا ہے؟ فرمایا: جب  
اللہ کو وکیل بنا کر خوش ہوتا ہے۔ بشرہ: ایک شخص کہتا ہے کہ میرا اللہ پر  
توکل ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے اللہ کی قسم اگر اس کا اللہ پر توکل ہوتا  
تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرتا اس پر خوش رہتا۔ البتہ اب غشہ:  
توکل بدن کو عبودیت میں ڈالنا، دل کو ربوبیت سے وابستہ کرنا اور  
بقدر کفایت پر اطمینان حاصل کرنا ہے کہ اگر دل بھٹے تو ستر بجالائے  
اور نہ ملے تو صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ ذوالنون مشرعی: توکل نفس  
کی تدبیر کو چھوڑ اور ذاتی قوت و طاقت سے دست بردار ہو جانا  
ہے۔ آپ سے کسی شخص نے توکل کے بارے میں پوچھا تو ذوالنون  
نے فرمایا ارباب کو چھوڑنا اور اسباب کو کاٹ دینا توکل ہے، وہ شخص  
بولتا: اس سلسلہ میں کچھ اور فرمائیے، فرمایا کہ نفس کو ربوبیت سے نکال



وقیل ان اللہ عزوجل خص نبیہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما خص بہ من المعجزات والکرامات والفضائل ثم لم یثن علیہ بشیء من خصاله بثل ما اثنی علیہ بخلقہ فقال عز من قائل وانک لعلی خلق عظیم وقیل انما وصفہ اللہ تعالیٰ بالخلق لانه جاد بالکونین واکتفی باللہ عزوجل وقیل الخلق العظیم لان یخامروا ینجامو من شدة معرفتہ باللہ تعالیٰ وقیل معناه لم یؤثر فیہ جفاء الخلق بعد مطالعته للحق وقال البوسعید الخراز رحمہ اللہ تعالیٰ هو ان لا تکون لہ ہمتہ غیر اللہ عزوجل وقال الجنید رحمہ اللہ تعالیٰ سمعت الحارث المحاسبی یقول فقد خالفتہ اشیاء حسن الوجہ مع الصیانتہ وحسن القول مع الامانتہ وحسن الاخاء مع الوفاء وقیل الخلق الحسن استغفار ما منک واستعظام مالک وقیل علامۃ حسن الخلق کف الاذی واحتمال الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا محابہ رضی اللہ عنہم انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوہم بسبط الوجہ وحسن الخلق۔

**فصل** : وحسن الخلق مع اللہ عزوجل ان تودی او امرہ وتترک لواحبیہ و تطیعہ فی الاحوال کلہا من غیر اعتقاد

عبودیت میں ڈال دینا توکل ہے یعنی توحید ربوبیت کے تو مشرک بھی ناک ہیں اصل توکل توحید الوہیت کو اپنانا ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، ایک جگہ فرمایا: توکل لا یج کو ختم کر دینا اور اسے کاٹ دینا ہے۔ یہی ظاہری جہد و جہد جو شرع کے مطابق کمائی ہے سورہ قہر توکل کے خلاف نہیں جب کہ بندہ اپنے دل میں یہ عقیدہ جمالے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے برحق ہے کیونکہ کھٹکانہ دل ہے اور حقیقت ایمان میں بھی یہی ہے جو منکر سبب ہے وہ منکر سنت ہے اور جو منکر توکل ہے وہ منکر ایمان ہے۔ اگر اسباب میں سے کوئی سبب دشوار ہو تو تقدیر سے ہے اور اگر آسان ہو تو تقدیر سے ہے یعنی دشواری اور آسانی ہر ایک حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے اس لئے سبب کے لئے اعضاء اور ظاہری جسم کے حصے اللہ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں اور باطن حق تعالیٰ شانہ کے وعدے کی وجہ سے پرسکون ہے۔ حضرت انس بن مالک: ایک شخص انڈی پر سوار ہو کر سرور عالم صلعم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کر لوں؟ آپ نے فرمایا اسے باندھ کر رکھو اور اللہ پر توکل کر۔ بعض علماء: منوکل ایک شیر خوار بچہ کی طرح ہے جو بچہ اپنی ماں کی گود کے کچھ نہیں پہچانتا اسی طرح منوکل اللہ ہی کو پہچانتا ہے اور اسی کی طرف لپک کر جاتا ہے۔ بعض علماء: توکل منوکل سے کیسے ہونا اور خود کو شہنشاہ حقیقی کے حوالہ کر دینا ہے۔ بعض علماء جو کچھ اللہ کے قبضہ میں ہے اس پر بھروسہ کرنا اور اس کی امید باندھنا اور جو لوگوں کے قبضہ میں ہے اس سے ناامید ہو جانا توکل ہے۔ بعض علماء: فکر معاش سے دل کو خالی کرنا اور روزی کے طلب کے تقاضوں کی فکر چھوڑ دینا توکل ہے۔

**حسن اخلاق** | حق تعالیٰ شانہ نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب نبی کے اخلاق حمیدہ کا ذکر خیر فرمایا ہے کہ بلاشبہ آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ انس بن مالک: کسی نے سرور عالم صلعم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ

استحقاق العوض علیہ وتسلم جیب المقدر  
 الیہ من غیر تہمة وتوحد لا من غیر شریک  
 وتصدقہ فی وعدہ لا من غیر شک وقیل  
 لذی النون المصری رحمہ اللہ تعالیٰ من  
 اکثر الناس ہما قال اسواہم خلقا و  
 قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ فی  
 قولہ عزوجل وثیابک فظہر اسی خلقک  
 فحسن وقیل فی قولہ تعالیٰ واسبع علیکم  
 نعمة ظاہرۃ وباطنۃ قیل الظاہرۃ  
 تسویۃ الخلق والباطنۃ تصفیۃ الخلق و  
 قیل لابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ  
 تعالیٰ هل فرحت فی الدنیا قط فقال  
 نعم مرتین احدا ہما کنت قاعدا ذات  
 یوم فجاہ کلب وبال علی والثانیۃ کنت  
 قاعدا فجاہ النسان و صفعنی وقیل کان  
 اولین القرنی رحمہ اللہ تعالیٰ اذا راہ  
 الصبیان یرمونہ بالحجارۃ ینقول ان  
 کان لابدنار مونی بالصغار لئلا تدنوا  
 ساقی وتنعونی عن الصلاۃ وقیل شتم  
 رجل احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ و  
 کان یتبعہ فلما قرب من الحی وقف  
 وقال یافتی ان کان بقی فی قلبک شیء  
 فقلہ کیلا سمعک لبعض سفہاء القوم  
 فی جیبوک وقیل لحاتم الامم رحمہ اللہ  
 تعالیٰ یجتسل الرجل من کل احد قال

ایمان کے اعتبار سے کونسا مومن افضل ہے؟ فرمایا: اچھے اخلاق والار  
 اچھے اخلاق النسان کی بہترین عادت ہے اور اخلاق ہی سے النسان کا ذاتی  
 جوہر چمکتا ہے، النسان پیدائش کے اعتبار سے پوشیدہ رہتا ہے لیکن  
 اخلاق کے اعتبار سے مشہور ہو جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نشانہ  
 نے اپنے محبوب نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلعم کو باوجود معجزات  
 فضائل اور بزرگیوں سے خاص کرنے کے حسن اخلاق سے مخصوص  
 فرمایا اور جس طرح آپ کے اخلاق حمیدہ کی تعریف فرمائی ایسی آپ کی  
 کسی اور خوبی کی تعریف نہیں فرمائی اور فرمایا کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک  
 کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کی اخلاق حمیدہ سے اس لئے تعریف فرمائی  
 کہ آپ نے دنیوں جہانوں کی چیزیں لوگوں کو عطا فرمادیں اور آپ نے  
 خود حق تعالیٰ شانہ پر قناعت کی۔ کہا جاتا ہے کہ بڑا خلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ  
 کی معرفت میں عقل کا سارا لیکر جھگڑا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر  
 گہری معرفت حاصل کہ کسی کو اس سے جھگڑا کرنے کی جرأت نہ ہو۔  
 بعض علماء:۔ جب انسان حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں ہو تو اس پر  
 لوگوں کا ظلم اثر انداز نہ ہو یہی بزرگ خلق ہے۔ ابو سعید خدری نے فرمایا  
 خلق یہ ہے کہ انسان کو بجز حق تعالیٰ کی فکر کے کوئی اور نہ کرے۔  
 مہیند:۔ میں نے نہ عادت محاسبی سے سنا آپ فرماتے تھے کہ  
 ہم نے تین چیزوں کے ساتھ تین چیزیں ہم بائیں حفاظت کے ساتھ خوب یاد  
 کو امانت کے ساتھ اچھے قول کو اور دوائے عہد کے ساتھ بھائی چارہ  
 کو۔ بعض علماء:۔ خلق حسن اپنی برصفت کو پہنچا کر اور دوسرے  
 کی بر خوبی کو بڑا سمجھنا۔ بعض علماء:۔ حسن خلق کی نشانی ایذا سے  
 رک جانا اور خود منقبت برداشت کرنا ہے یہی اکرم مسلم نے  
 صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنے مال سے م لوگوں کو نادمہ نہ پہنچا  
 گے اس لئے انہیں خندہ پیشانی سے اور حسن خلق سے فائدہ پہنچاؤ  
 اللہ کے ساتھ حسن اخلاق حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن اخلاق



نعم الامن نفسه و روی ان امیر المؤمنین  
 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دعا غلاما  
 فلم یجیبہ فدعا لثانیاً و ثالثاً فلم  
 یجیبہ فقام الیہ فرآه مفضجعا  
 فقال ام تسع یا غلام قال نعم قال  
 ما حملک علی ترک جوابی قال امنت  
 عقوبتک فتکاسلت فقال امعن فانت  
 حر لوجه اللہ عزوجل وقیل الخلق  
 الحسن ان تکون من الناس قریبا و فیما  
 بینهم غریبا وقیل الخلق الحسن قبول ما  
 یرد علیک من جفاء الخلق و قضاء الحق  
 بلا فخر ولا قلق وقیل مکتوب فی  
 الانجیل عبدی اذ کرتی حین تعضب  
 اذ کرک حین اغضب و قالت امرأتی  
 لمالك ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ یا  
 مرائی فقال یا ہذا قد وجدت اسمی  
 الذی اضلہ اهل البصریة وقال لقمان  
 لابنہ یا بنی لا تعرف ثلاثا الا عند  
 ثلاث الخلیم عند الغضب والشجاع  
 عند الحرب والارخ عند الحاجة الیہ  
 وقال موسیٰ علیہ السلام ربنا الہی  
 اسألك ان لا یقال لی ما لیس فی فادحی  
 اللہ تعالیٰ الیہ ما فعلت ذلک لنفسی  
 فكیف افعلہ لك۔

فصل: واما الشکر فالاصل فیہ قوله

یہ ہے کہ اس کے ادا کرنا بجا اور ممنوعہ کاموں سے بچنا اور ہر حال میں بخیر  
 عقیدہ استحقاق عوض اس کی اطاعت میں سرگرم عمل رہنا اور تقدیری  
 امور کے آگے بلا کسی اعتراض کے تسلیم خم کرنا اور اللہ کو ایک مانو  
 اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور شک چھوڑ کر اس کے وعدوں  
 کو سچا جاننا۔ ایک دفعہ ذوالنون مہری سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب  
 سے زیادہ نیک مندر کون ہے؟ فرمایا: بدترین اخلاق والا۔ حسن لہری  
 روٹیا بک فطہر کی تفسیر میں (یعنی اپنا خلق اچھا بنا۔ اس آیت ز اللہ  
 نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل فرمادیں) کی تفسیر میں کہا جاتا  
 کہ ظاہری نعمت خوبصورت پیدا کرنا ہے اور باطنی نعمت خوبصورت  
 عادت ہے۔ ابراہیم بن ادہم سے پوچھا گیا: کیا آپ کبھی دنیا میں  
 خوش ہوئے؟ فرمایا: ہاں دو مرتبہ خوش ہوا ہوں ایک دن میں بیٹھا  
 ہوا تھا کہ ایک کتے نے آکر میرے اوپر بیٹھا کہ دیا اس دن میں خوش  
 ہوا اسی طرح ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آکر میرے  
 گھونٹہ مارا، اس دن مجھے خوشی ہوئی کہتے ہیں: جب بچے اولیس قرنی  
 کو دیکھتے تو ان پر پتھر برساتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے بچو اگر تم پتھر  
 کے برساتے بغیر چارہ ہی نہیں تو چھوٹے چھوٹے سنگریزے برساتو  
 تاکہ میری ٹانگوں سے خون نہ بہے ورنہ تم مجھے نماز سے روک دو گے  
 ایک شخص نے جو احنف بن قیس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا آپ کو گالیاں  
 دیں جب آپ اپنے قبیلہ کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا  
 اے جوان! اگر تیرے دل میں کوئی بات باقی رہ گئی ہو تو اسے بھی کھال  
 اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لے ایسا نہ ہو کہ میری قوم کے بعض نادان  
 تیری گالیاں سن کر تجھے ان کا جواب دیں حاتم اصم سے پوچھا گیا: کیا  
 انسان پر شخص کی بات برداشت کر لیتا ہے؟ فرمایا: ہاں مگر اپنے نفس  
 کی بات برداشت نہیں کرتا، ایک دفعہ حضرت علی نے اپنے کسی غلام کو  
 آواز دی مگر وہ آیا نہیں یعنی میں دفعہ آواز دینے کے باوجود نہیں آیا آپ

عز وجل لئن شكرتم لازيدنكم وما  
 روي عن عطاء رحمه الله تعالى قال دخلت  
 على عائشة رضي الله عنها فقلت اخبرينا  
 باعجب ما رايت من رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم فيكثرت ثم قالت واعي  
 شيء من شأنه لم يكن عجبا الله  
 اتاني في ليلة فدخل معي في فراشي او  
 قالت في لحاف حتى مس جلدي حيلدا  
 ثم قال يا بنت ابي بكر ذريتي العبد  
 لربي قالت فقلت اني احب قريبا ولكني  
 اوثر هواك فاذنت له صلى الله عليه  
 وسلم فقام الى قربة من ماء فتوضا  
 واكثر صب الماء ثم قام فصلى نيكى  
 حتى سالت دموعه على صدره ثم ركع  
 نيكى ثم سجد نيكى ثم رفع راسه نيكى فلم  
 يزل صلى الله عليه وسلم كذلك حتى  
 جاء بلال رضي الله عنه فاخبره بالصلوة  
 فقلت يا رسول الله ما يبكيك وقل  
 غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما  
 تاخر قال صلى الله عليه وسلم افلا  
 اكون عبدا شكورا ولما فعل وقد انزل  
 الله عز وجل على ان في خلق السموات  
 والارض الآية وحقيقة الشكر عند اهل  
 التحقيق الاعتراف بنعمة المتعم على وجه  
 الخضوع وعلى هذا المعنى وصف الله تعالى

نے دیکھا بھالا تو اسے لیٹا ہوا پایا پوچھا: کیا تو نے میری آواز نہیں سنی؟  
 بولا: ہنسی، پوچھا: پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ بولا: میں سزا سے بے خوف  
 تھا لہذا میں نے سستی کی فرمایا: اچھا تو جا میں نے تجھے اللہ کی رضا  
 کے لئے آزاد کر دیا۔ بعض علماء:۔ حسن خلق یہ ہے کہ تم لوگوں سے قریب  
 ہو اور ان کے درمیان اجنبی ہو۔ بعض علماء:۔ مخلوق کے ظلم کو برداشت  
 کر لینا اور بلا تعلق و ملال کے لوگوں کے حقوق ادا کرنا حسن خلق ہے۔  
 کہتے ہیں انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بندے غصہ کے وقت مجھے  
 یاد کر لیا کہ کیونکہ جب میں غصہ کرونگا تو تجھے یاد کر لوں گا۔ ایک خاتون نے  
 مالک بن دینار کو اسے رپا کار کہہ کر پکارا بولے اے اللہ کی بندی تجھے  
 میرا وہ نام مل گیا جو بصرہ والوں کو معلوم نہ تھا۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے  
 کہا: پیارے بیٹے! تین قسم کے اشخاص تین چیزوں کے بغیر نہیں بچا  
 جاتے۔ سنجیدہ آدمی غصہ کے وقت بہادر لڑائی کے وقت اور بھائی  
 ضرورت کے وقت ہی پہچانا جاتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ  
 میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ میں جو بات نہیں ہیں اس سے نہ  
 پکارا جاؤں اس پر حق تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ یہ بات تو میں نے  
 اپنی ذات کے لئے بھی تجویز نہیں کی پھر آپ کے لئے کس طرح تجویز کر سکتا  
**شکر** شکر کی دلیل یہ آیت ہے "اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم پر  
 اپنی نعمتوں کو زیادہ کروں گا" عطاء: ایک دن میں صدیقہ کے پاس  
 گیا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلعم کی جو بات  
 سب سے حیرت انگیز دیکھی ہو وہ مجھے بتا دیجئے صدیقہ نے رو کر فرمایا  
 کہ رسول اللہ صلعم کی کونسی بات حیرت انگیز تھی ایک رات کو آپ  
 میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس میرے بستر پر (یا فرمایا)  
 میرے لحاف میں لیٹ گئے سختی کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مل گیا  
 فرمانے لگے ابو بکرؓ کی صاحبزادی! مجھے اپنے پروردگار کی عبادت  
 کرنے دو میں نے کہا مجھے تو آپ کا قرب محبوب ہے مگر میں آپ کی خواہش



نفسه بانه الشكور تر سعافنا لا انه  
 يجازى العباد على الشكر نسبي جزاء الشكر  
 شكرا كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة  
 سيئة مثلها وقيل حقيقة الشكر الثناء  
 على المحسن بذكر احسانه فشكر العبد  
 لله تعالى ثناء لا عليه بذكر احسانه  
 اليه وشكر الحق سبحانه للعبد ثناء لا  
 عليه بذكر احسانه له ثم ان احسان  
 العبد طاعته لله واحسان الحق سبحانه  
 العامه على العبد وشكر العبد على الحقيقة  
 انما هو نطق اللسان واقرار القلب بانعام  
 الرب ثم الشكر ينقسم اقسام الى شكر  
 باللسان وهو اعترافه بالنعمة بتعت الاحتكا  
 وشكر بالبدن والاركان وهو الصفات  
 بالوفاء والخدمة وشكر بالقلب وهو  
 النكات على بساط الشهود بادامة  
 حفظ الحرمه وقيل شكر العيين ان تستر  
 عيبا ترا لا لصاحبك وشكر الاذنين  
 ان تستر عيبا تسعة فيه وفي الجملة  
 الشكر ان لا تعصى الله تعالى بنعمه و  
 يقال شكر هو شكر العالمين فيكون  
 من جملة اقوالهم وشكر هو شكر  
 العابدين فيكون نوعا من افعالهم  
 وشكر هو شكر العارفين فيكون باستق  
 له عز وجل في عموم احوالهم واعتقادهم

بھی احترام کرتی ہوں چنانچہ آپ کو عبادت کی اجازت دیدی پھر آپ  
 نے پانی کے ایک شیکڑے کے پاس کھڑے ہو کر وضو کیا اور خوب پانی بہا  
 پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور رونے لگے حتیٰ کہ آنسو آپ  
 کے سینہ مبارک پر بہنے لگے پھر رکوع میں بھی روئے اور سجدے میں بھی  
 روئے اور سجدے سے سر اٹھا کر بھی روئے اور آپ اسی طرح نماز  
 پڑھتے اور رونے رہے حتیٰ کہ بلال نے آکر آپ کو نماز کی اطلاع کی  
 میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ اس قدر کہیں روئے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے  
 راگہوں تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف فرمائے ہیں فرمایا رب اللہ تعالیٰ  
 کی مجھ پر بڑی زبردست نعمت ہے تو کیا میں ایک شاکر بندہ بن کر زندگی  
 کے ایام نہ گزاروں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کہوں نہ ادا کر دوں حالانکہ اس نے  
 مجھ پر یہ آیت اتاری ہے کہ بلاشبہ آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن  
 کے آنے جانے میں اور باب دانش کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ  
 تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹ کر یاد کرتے رہتے ہیں اور کائنات کی پیدا  
 میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں ر آخر آیت تکم ادبائ تحقیق کے نزدیک  
 شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ منعم کی نعمتوں کا اقرار  
 کیا جائے اسی معنی کے اعتبار سے حق تعالیٰ نے اپنی ذات کو شکر کے  
 اسم سے پکارا ہے شکر کے معنی تو شکر گزار کے ہیں لیکن یہاں مجازی معنی مراد  
 ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو شکر کا صلہ دینے والا ہے  
 لہذا جزائے شکر کو شکر سے تعبیر کر لیا گیا ہے جیسا کہ فرمایا اور برائی کے جزا  
 اس کے ہم مثل برائی ہے حالانکہ جزا برائی نہیں بلکہ عین عدل ہے لیکن جزا  
 بری کو بری سے تعبیر کر لیا گیا۔ بعض علماء شکر کی حقیقت محسن کے  
 احسانات کا ذکر کر کے اسکی تعریف کرتا ہے اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا  
 ہے تو اس کے احسانات بیان کر کے اسکی تعریف کرتا ہے اور اگر حق  
 تعالیٰ بندے کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اپنے احسانات کے  
 ساتھ یاد فرماتا ہے پھر بندے کا احسان یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت

ان جميع ما هم فيه من الخير وما يظهر  
منهم من الطاعة والعبودية والذكر  
له عز وجل بتوفيقه والعامه وعونه وحوله  
وقوته عز وجل والغزالهم عن جميع ذللك  
والفناء فيه والاعتراف بالعجز و  
القصور والجهل ثم الاستكانة اليه  
عز وجل في جميع الاحوال وقال ابو بكر  
الوراق رحمه الله تعالى شكر النعمة  
مشاهدة الامنة وحفظ الحرمة وقيل  
شكر النعمة ان ترى نفسك فيها طفيليا  
وقال ابو عثمان رحمه الله تعالى الشكر  
معرفة العجز عن الشكر وقيل الشكر  
على الشكر اتم من الشكر وذلك ان ترى  
شكرك بتوفيقه ويكون ذلك التوفيق  
من اجل النعم عليك فتشكره  
على الشكر ثم تشكره على شكر الشكر  
الى ما لا يتناهى وقيل الشكر اضافة  
النعم الى مولاه بنعت الاستكانة له وقال الجنيد  
رحمه الله تعالى الشكر ان لا ترى نفسك اهلا للنعمة  
وقيل الشاكر الذي يشكر على الموجود والشكور الذي يشكر  
على المفقود ويقال الشاكر الذي يشكر على لنفع والشكور  
الذي يشكر على المنع ويقال الشاكر الذي يشكر  
على العطاء والشكور الذي  
يشكر على الملاء ويقال الشاكر الذي  
يشكر عند البذل والشكور الذي يشكر

نیں لگا ہے اور حق تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ بندے پر اپنے انعامات برساتا  
رہے درحقیقت بندے کا شکر زبان سے احسانات کا ذکر کرنا اور ان کا  
دل سے اقرار کرنا ہے۔ پھر شکر کی کئی قسمیں ہیں ایک شکر زبان سے تو  
ہے یعنی نیاز مندی کے ساتھ زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا  
اور ایک شکر بدن اور اعضا کے ذریعہ ہوتا ہے یعنی عمدہ زندگی کو بچا  
کرنا اور خدمات کو بجالانا اور ایک شکر دل سے ہوتا ہے یعنی ہمیشہ حرا  
کے تحفظ کے ساتھ نرش حضور پر جہار رہنا۔ بعض علماء نے آنکھوں کا  
شکر یہ ہے کہ اگر وہ کسی کا عیب دیکھیں تو اسے چھپالیں، کانوں کا  
شکر یہ ہے کہ اگر وہ کسی کا عیب تو اس پر پردہ ڈال دیں۔ غرضیکہ  
شکر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے۔ کہا جاتا ہے  
ایک شکر علماء کا ہے جو اس سے قول سے متعلق ہے اور ایک شکر عرفاء  
کا ہے یعنی ان کا اپنے عام احوال پر ثابت قدم رہنا اور یہ عقیدہ  
رکھنا کہ ہم میں جو کچھ نیکیاں پائی جاتی ہیں اور ہم سے جس قدر ذکر،  
اطاعتیں اور عبادتیں سرزد ہوتی ہیں یہ سب کچھ حق تعالیٰ شانہ کی  
توفیق، اعانت اور انعام کے نتائج ہیں اور جو کچھ ہمارے اندر کوئی اور  
پے بسی اور جہالت ہے اس کا ہمیں اعتراف ہے پھر ہم ہر حال میں کام  
میں حق تعالیٰ شانہ کے محتاج ہیں۔ ابو بکر و راق نے نعمت کا شکر احسان  
کو پیش نظر رکھنا اور اسکی حرمت کی حفاظت کرنا ہے۔ بعض علماء  
نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم خود کو طفیلی سمجھو۔

ابو عثمان: شکر سے عجز کو بچانا شکر ہے۔

بعض علماء: شکر پر شکر شکر سے مکمل تر ہے یعنی یہ خیال  
کرنا کہ شکر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے نصیب ہوتا ہے اور یہ تو  
تم پر حق تعالیٰ کی ایک جلیل القدر نعمت ہے پھر تم یہ سمجھ کر شکر  
ادا کرو گے پھر شکر کے شکر پر شکر ادا کرو گے اسی طرح یہ سلسلہ  
کبھی ختم نہ ہوگا۔ بعض علماء: نعمتوں کو دل کی نعمت کی طرف منسوب



عند المطل وقال الشبلي رحمه الله تعالى  
 الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة و  
 قيل الشكر تيد الموجود وصيد المفقود  
 وقال ابو عثمان رحمه الله تعالى  
 شكر العامة على المطعم والمشرب  
 والملبس وشكر الخواص على ما يرد  
 على قلوبهم من المعاني قال الله عز وجل  
 وقيل من عبادي الشكور وقال داود  
 عليه السلام الهي كيف اشكرك وشكر  
 لك نعمة من نعمك فاوحى الله تبارك  
 وتعالى اليه الان قد شكرتني وقيل  
 اذا حضرت يدك عن المكافاة فليطل  
 لسانك بالشكر وقيل لما بشر ادريس عليه  
 السلام بالمغفرة سال الحياة فقيل له  
 لم فقال لا شكر الا قاني كنت اعمل قبله  
 للمغفرة فبسط الملك جناحه وحمله  
 الى السماء وقيل مر بعض الانبياء  
 عليه السلام بحجر صغير يخرج منه  
 الماء الكثير فتعجب منه فانطقه الله  
 له فساله عن ذلك فقال منذ سمعت  
 الله عز وجل يقول نار او قودها الناس  
 والحجارة فانا ابكي من خوفه فدعا  
 ذلك النبي عليه السلام ان يجير  
 ذلك الحجر من النار فاوحى الله عز وجل  
 اليه اني قد اجرتك من النار فمر ذلك

کرنا اور دلی نعمت کے آگے جھکنا شکر ہے۔ جنید شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس  
 کو نعمتوں کا اہل نہ سمجھو۔ کہا جاتا ہے: شاکر وہ ہے جو موجودہ نعمتوں کا  
 شکر ادا کرے اور شاکر وہ ہے جو مفقود نعمتوں کا شکر ادا کرے، کہا جاتا ہے  
 ہے کہ شاکر وہ ہے جو نعمتوں پر شکر ادا کرے اور شاکر وہ ہے جو بلا پر  
 شکر ادا کرے، شاکر وہ ہے جو کسی شے کے ملنے کے وقت شکر ادا کرے  
 اور شاکر وہ ہے جو تاخیر پر شکر ادا کرے۔

شبلی؟ شکر یہ ہے کہ نعمت کے دینے والے پر نگاہ رکھی جائے۔  
 نعمت پر نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شکر موجودہ نعمت کی حفاظت کا اور  
 غیر موجودہ نعمت کے لئے شکر کا ذریعہ ہے۔ ابو عثمان: عوام کا  
 شکر کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں پر ہوتا ہے اور خواص کا شکر  
 ان دلوں میں وارد ہونے والے معانی پر ہوتا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا  
 کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ حضرت داؤد نے پوچھا کہ اے  
 میرے معبود میں تیرا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں حالانکہ میرا شکر  
 ادا کرنا بھی میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے؟ حق تعالیٰ نے آپ  
 پر وحی بھیجی کہ اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا۔

کہا جاتا ہے کہ اگر نعمت کا عوض نہ دیا جاسکے تو زبان سے اس کا طول  
 طویل شکر ادا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ادریس کو بخشش کا  
 مشورہ سنایا گیا تو آپ نے زندگی مانگی پوچھا گیا: زندگی کیوں مانگتے  
 ہو؟ فرمایا تاکہ میں شکر ادا کر سکوں کیونکہ اس سے پہلے بخشش کے لئے  
 عمل کیا کرتا تھا اب شکر کے لئے کروں گا۔ پھر فرشتہ نے اپنے  
 پہ پھمائے اور ان پر بٹھا کہ آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔  
 کہا جاتا ہے کہ کسی نبی کا ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرتا  
 ہوا جس سے کثرت سے پانی پھوٹ رہا تھا آپ نے اس پر چرت کا  
 اظہار کیا حق تعالیٰ نے پتھر کو زبان دیدی آپ نے اس سے پوچھا  
 کب سے رو رہے ہو بولا: جب سے میں نے قرآن پاک میں یہ

النبي فلما عاد وجد الماء ينفجر منه اذ فر  
 مساكن قبل ذلك فعجب فانطق الله  
 تعالى الحجر له فقال له لم تبكي وقد  
 غفر الله لك فقال ذلك كان بكاء  
 الحزن والخوف وهذا بكاء الشكر والسرو  
 وقيل الشاكر مع المزيد لانه في شهود  
 النعمة قال الله تعالى لئن شكرتم لا  
 زيدنكم والصابر مع الله لا تضربه تعالى  
 لانه في شهود البلاء قال الله تعالى  
 ان الله مع الصابرين وقيل الحمد على  
 الانفاس والشكر على نعم الحواس وقيل في  
 الخير الصحيح اول من يدعى الى الجنة  
 الحمادون الله وقيل الحمد على ما دفع  
 والشكر على ما صنع وحكى عن بعضهم  
 انه قال رأيت في بعض الاسفار شيخا  
 كبيرا قد طعن في السن فسالته عن حاله  
 فقال اني كنت في ابتداء عمري هوى  
 ابنة عملي وهي كذلك كانت تهواني  
 فاتفق اني تزوجت بها فليلة زفانها  
 قلت لها تعالى حتى تحبي هذا الليلة  
 شكرا لله عز وجل على ما جمعنا قلوبنا  
 تلك الليلة ولم يفرغ احدنا الى الآخر  
 فلما كانت الليلة الثانية بتنا هكذا  
 واستمر بنا هكذا فبتنا سبعين سنة  
 او ثمانين سنة ونحن على تلك الحالة كل

ہے کہ جنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اسی وقت سے میں اس  
 خوف سے رو رہا ہوں یہ سن کر اس پیغمبر نے حق تعالیٰ سے دعا فرمائی  
 کہ اے اللہ اس پتھر کو آگ سے پناہ دے حق تعالیٰ نے آپ پر وحی  
 بھیجی کہ میں نے اسے آگ سے پناہ دیدی پیغمبر علیہ السلام تشریف لے  
 گئے پھر کچھ مدت کے بعد اس کے پاس سے گزرے تو دیکھا اب اس سے  
 پہلے سے بھی زیادہ پانی ابل رہا ہے آپ کو تعجب ہوا۔ حق تعالیٰ نے  
 پتھر کو زبان دے دی پیغمبر علیہ السلام نے پتھر سے رونے کی وجہ  
 پوچھی کہ اب تو حق تعالیٰ نے تم کو بخش دیا ہے اب کیوں روتے ہو؟  
 بولا: میں پہلے خوف و غم کی وجہ سے روزنا تھا اور اب مسرت و شکر  
 کی وجہ سے روزنا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ شکر گزار کی نعمتوں میں اضافہ  
 ہوتا رہتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم شکر کرو گے تو میں  
 تمہاری نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا اور صابر اللہ تعالیٰ  
 کے ساتھ ہوتا ہے اور حق تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے فرمایا  
 یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حمد سانسوں  
 پر ہے اور شکر حواس کی نعمتوں پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صحیح  
 حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے کے لئے جن کو  
 بلایا جائے گا وہ اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے۔ کہتے ہیں حمد نوافل  
 پر ہے اور شکر عطا پر ہے۔

ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی سفر میں ایک معمر  
 بزرگ کو دیکھا جن کی کافی عمر تھی اور میں نے ان کا حال پوچھا فرمایا  
 کہ مجھے ابتدائے شباب میں اپنی چچا زاد بہن سے محبت تھی اور  
 اسے کبھی مجھ سے محبت تھی حسن اتفاق سے اس سے میری شادی ہو  
 گئی شب زفاف میں نے اس سے کہا کہ آؤ اس شکر میں کہ حق تعالیٰ نے  
 نے ہمیں یہ شب سعید عطا فرمائی ہے اس رات جاگ کر اللہ کی  
 عبادت کریں چنانچہ ہم دونوں رات بھر نماز پڑھتے رہے اسی طرح



لیلة وعانت زوجته معه نسألها وقال  
لها اليس كذلك يا فلانة فقالت العجوز  
هو كما قال الشيخ۔

**فصل ۱۰۔** واما الصبر فالصل فيه  
قول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا  
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله  
لعلكم تفلحون وقوله عز وجل واصبر  
وما صبرك الا بحب الله وما روى عن  
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله  
عليه وسلم انه قال ان الصبر عند الصل  
الاولى وما روى ان رجلا قال يا رسول الله  
ذهب مالي وسقم جسمي فقال النبي صلى الله  
عليه وسلم لا خير في عبد لا يذهب ماله  
ولا يسقم جسمه ان الله تعالى اذا احب  
عبدا ابتلاهم واذا ابتلاهم صبرهم وما  
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال  
ان الرجل لتكون له الدرجة عند الله  
عز وجل لا يبلغها بعمله حتى يتلى بلاء  
في جسمه فيبليها بذلك وما جاء في  
الخير انه لما نزل قوله تبارك وتعالى  
ومن يعمل سوءا يجزيه قال ابو بكر الصديق  
رضي الله عنه يا رسول الله كيف الفراق  
بعد هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه  
وسلم عقر الله لك يا ابا بكر اليس تمرض  
اليس يهيبك البلاء اليس تصبر اليس

صبر ہو گئی اور مٹنے کی نوبت ہی نہیں آئی اسی طرح ہم دونوں کی سزیا  
اسی سال سے راتیں گزرتی چلی آ رہی ہیں ان کی بیوی ان کے ساتھ تھیں  
انہوں نے بھی اس واقعہ کی تصدیق فرمائی۔

**صبر** صبر کی دلیل یہ آیت ہے اے ایمان والو صبر کرو اور ایک ستر  
کو صبر کی رغبت دلاؤ اور پھر وہ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کو فلاح  
نصیب ہو دو سری جگہ فرمایا: اے نبی آپ صبر کریں اور آپ کا صبر  
اللہ ہی کے ساتھ ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ  
فرمایا کہ صبر شروع عدم کے وقت ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ  
میرا مال ختم ہوا اور میرا جسم بیمار ہو گیا، فرمایا، اس بندے میں بھلائی  
نہیں جس کا مال نہ جائے اور وہ بیمار نہ ہو جب حق تعالیٰ اپنے کسی بندے  
سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزماتا ہے اور جب آزماتا ہے تو اسے صبر کی  
توفیق عطا فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک  
بندہ کا ایک درجہ ہوتا ہے مگر وہ اس تک اپنے عمل سے نہیں پہنچتا حتی  
کہ حق تعالیٰ اسے کسی جسمانی بیماری میں مبتلا فرمادیتا ہے اور اس پر  
صبر کرنے کی وجہ سے وہ اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے ایسا حدیث میں ہے  
کہ جب ومن يعمل سوءا يجزيه یعنی جو برے عمل کرتا ہے اسے ان کا بدلہ دیا  
جاتا ہے اتنی تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس آیت کے بعد  
کیسے فلاح نصیب ہوگی؟ فرمایا: ابو بکر! حق تعالیٰ تمہارے گناہ معاف  
فرمائے کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم بلاؤں میں نہیں پھنکتے؟ کیا تم صبر  
نہیں کرتے؟ کیا تم پریشان نہیں ہوتے؟ یہی چیزیں تمہارے برے  
عملوں کی جزا ہے یعنی یہ تمام چیزیں تمہاری برائیوں کا کفارہ بن جاتی  
ہیں۔

**صبر کے اقسام** لہذا صبر کی تین قسمیں ہیں رام اللہ کے لئے صبر کرنا  
یعنی اوامر بجالانا اور نواہی سے باز رہنا (۲) اللہ کے ساتھ صبر  
کرنا یعنی سختیوں اور بلاؤں میں اللہ کی تقدیر و مشیت کے آگے

تخزون؟ فهذا ما تجزون به یعنی ان جمیع  
 ما یصیبك یكون كفارة لذنوبك فالصبر  
 علی ثلاثة اصناف احدها صبر اللہ  
 عزوجل وهو علی اداء امره وانتهاء نهیه  
 وصبر مع اللہ عزوجل وهو اللہ الصبر  
 تحت جریان قضائہ وفعالہ فیک  
 من سائر الشدائد والبلايا وصبر علی اللہ  
 عزوجل وهو الصبر علی ما وعد من الرزق  
 والفرج والكفاية والنصر والثواب فی  
 دار الآخرة وقیل الصبر علی تسمین احدها  
 صبر علی ما هو کسب للعبد وصبر علی  
 ما لیس یکسب له فالصبر علی الکسب  
 ینقسم علی تسمین احدهما علی ما امر  
 اللہ به عزوجل والثانی علی ما نهاه  
 عزوجل عنه واما الصبر علی ما لیس  
 یکسب للعبد فصبر علی مقاساة ما  
 یتصل به من حکم اللہ وقضائہ فیما  
 له فیسنة مشقة والمر فی القلب والجسد  
 وقیل الصابرون ثلاثة متمبر ومنابر  
 وصبار وقیل وقف رجل علی الشبلی رحمه  
 اللہ تعالیٰ فقال له ای الصبر اشد علی  
 الصابرين قال الصبر فی اللہ فقال لا فقال  
 الصبر للہ قال لا قال الصبر مع اللہ قال  
 لا قال فالیس قال الصبر عن اللہ فصرخ  
 الشبلی فرخه کادت روحه تلتف وقال

سر تسلیم خم کر دینا (۳) اللہ پر صبر کرنا یعنی اللہ کے رزق کے کشادگی  
 کے کفایت کے، مرد کے اور آخرت میں ثواب کے وعدوں پر صبر کرنا  
 بعض علماء کے نزدیک صبر کی دو قسمیں ہیں اپنے کام پر صبر کرنا  
 اور اس پر صبر کرنا جو بند سے کاسب نہیں ہے پھر اپنے کام پر صبر  
 کرنے کی دو قسمیں ہیں اللہ کے احکام بجالانے پر صبر کرنا اور ممنوعات  
 سے باز رہنے پر صبر کرنا۔ اس پر صبر جو انسان کام نہیں وہ یہ ہے  
 کہ انسان جسمانی اور روحانی آلام و مصائب پر جو اس کے منقذ  
 کے ہیں صبر کرے اور خوشی تسلیم و رضا پیرا کرے۔

کہا جاتا ہے کہ صبر کرنا نیوالوں کی تین قسمیں ہیں منقصر یعنی دشواری  
 سے صبر کرنا، صابر یعنی بلا دشواری کے صبر کرنے والا اور  
 صبار یعنی انتہائی صبر کرنے والا۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شبلیؒ سے پوچھا کہ صبر کرنے والوں پر  
 کونسا صبر زیادہ سخت ہے فرمایا اللہ میں صبر کرنا بولا نہیں فرمایا  
 اللہ کے لئے صبر کرنا، بولا نہیں، فرمایا اللہ کے ساتھ صبر کرنا، بولا  
 نہیں، ..... شبلیؒ نے کہا پھر  
 کونسا صبر سخت ہے تو یہی بنا، بولا: اللہ سے صبر کرنا یہ سن کر شبلیؒ  
 نے ایک ایسی چیخ ماری جس سے آپکی روح نکلنے کا خطرہ تھا۔

جنیدؒ: مومن کے لئے دنیا سے آخرت کی طرف جانا آسان و سہل ہے  
 مگر اللہ کے لئے لوگوں کو چھوڑنا سخت ہے اور نفس کو چھوڑ کر  
 اللہ کی طرف جانا اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور اللہ کے ساتھ  
 صبر کرنا انتہائی سخت ہے۔ جنیدؒ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا  
 فرمایا صبر یہ ہے کہ منہ بنائے بغیر کھڑے سے گھونٹ پی جانا۔ حضرت  
 علیؓ: صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو ایک جسم سے  
 نسبت ہے بعض کہتے ہیں یہ نبی صلعم کا فرمان ہے۔ زد النون مصر  
 صبر عن الفتور سے دور رہنا اور مصائب کے پھندوں والے



الجئید رحمہ اللہ تعالیٰ السیر من الدنیا الی  
 الآخرة سہم ھین علی المؤمن وھجران الخلق  
 فی جنب الحق شدید والسیر من النفس الی  
 اللہ صعب شدید والصبر مع اللہ اشد وسئل  
 رحمہ اللہ تعالیٰ عن الصبر فقال تجرع  
 المرارة من غیر تعبیس وقال علی بن ابی  
 طالب رضی اللہ عنہ الصبر من الایمان  
 بمنزلة الرأس من الجسد وقیل ذلك عن  
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ذوالنون  
 المصری رحمہ اللہ تعالیٰ الصبر التباعد  
 عن المخالفات والسکون عند تجرع غصص  
 البلیة واطھار الغنی مع حلول الفقر بسباحة  
 المعیشتہ وقیل الصبر الوقوف مع البلاء  
 بحسن الادب وقیل هو الفناء فی البلوی  
 بلا ظھور شکوی وقیل الصبر هو المقام  
 مع البلاء بحسن الصنحة كالمقام مع  
 العافیة وقیل احسن الجزاء علی العبادۃ  
 الجزاء علی العبادۃ الجزاء علی الصبر ولا  
 جزاء فوقہ قال اللہ تعالیٰ ولنجزین الذین  
 صبروا اجرھم باحسن ما كانوا یعملون  
 وقال عزوجل انما یوفی الصابرون اجرھم  
 بغير حساب وقیل الصبر هو الثبات مع  
 اللہ عزوجل وتلقى اذیة یلائئہ بالرحب  
 والسعة وقال الخواص رحمہ اللہ تعالیٰ  
 الصبر الثبات مع اللہ تعالیٰ علی احکام

گھونٹ سکون سے پی جانا اور میدان معیشت میں فقر و فاقہ کے باوجود  
 تو گری کا اظہار کرنا ہے۔ بعض علماء: مصائب کو حسن ادب کے ساتھ  
 برداشت کرنا صبر ہے۔ بعض علماء: صبر مصیبت کی حالت میں  
 لب شکایت کو دانہ کرنا اور مصیبت کی پیداوار نہ کرنا ہے۔

بعض علماء: صبر مصیبت کی موجودگی میں معاجزت کے ساتھ  
 قائم رہنا ہے جیسے انسان حالت تندرستی میں قائم رہتا ہے۔

بعض علماء: صبر پر بہترین صلہ ملتا ہے جو کسی اور عبادت پر  
 نہیں ملتا اور صبر کے صلہ سے اوپر کوئی صلہ نہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے  
 فرمایا: یقیناً ہم صبر کرنے والوں کو ان کے عملوں میں سب سے اچھا  
 بدلہ دیں گے دوسری جگہ فرمایا: صبر کرنے والوں ہی کو بلا حساب  
 کے بدلہ دیا جاتا ہے۔ بعض علماء: صبر حق تعالیٰ شانہ کے لئے  
 ثابت قدم رہنا اور کشادہ پیشانی اور فراخ دلی سے مصائب کی ایذا  
 سہ لینا ہے۔ خواص: صبر حق تعالیٰ کے لئے قرآن و حدیث کے  
 احکام پر قائم و دائم رہنا ہے۔

یحییٰ بن معاذ رازی: محبت کرنے والوں کا صبر ترک دنیا کرنے  
 والوں کے صبر سے زیادہ سخت ہے حیرت ہے کہ وہ کیوں صبر کرتے  
 ہیں۔ ممکن ہے صبر آڑے سے آڑے مقام پر: ممکن نہیں ہے  
 صبر تمہارے فراق سے۔ بعض علماء: صبر شکوہ کو چھوڑ دینا  
 ہے۔ بعض علماء: صبر اظہار عجز و حق تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے  
 بعض علماء: صبر اللہ سے درد مانگنا ہے۔ بعض علماء: صبر  
 حق تعالیٰ شانہ کے نام کی طرح ہے۔

بعض علماء: صبر یہ ہے کہ نعمت و محبت کی حالتوں میں فرق  
 نہ کیا جائے اور دونوں حالتوں میں دل کو سکون و اطمینان حاصل  
 ہو اور نصبر تکلف سے صبر کرنا مصائب پر ان کا بوجھ  
 محسوس کرتے ہوئے دل میں سکون کا پیدا ہونا ہے۔

الكتاب والسنة وقال يحيى بن معاذ الرازي  
رحمه الله تعالى: صبر المحبين أشد من  
صبر الزاهدين وأعجب كيف يصبرون  
والشد:

الصبر جميل في المواطن كلها: إلا عليك فإنه لا جميل  
وقيل: الصبر ترك الشكوى وقيل هو ال-  
ستكانة والاستعاذة بالله عز وجل وقيل  
هو الاستعانة بالله وقيل الصبر عاصبه  
هو أن لا يفرق بين حال النعمة والمحنة  
مع سكون الخاطر فيهما والتصبر هو السكون  
مع البلاء مع وجدان أفعال المحنة.

**فصل:** وأما الرضا فالامل فيه قول  
الله عز وجل رضی الله عنهم ورضوا عنه  
وقوله تبارك وتعالى يبشرهم برحمة  
منه ورضوان الآیة وروى عن ابن عباس  
بن عبد المطلب رضی الله عنهما أنه  
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ذاق طعم الايمان من رضی بالله عز وجل  
وباوقيل كتب عمر بن الخطاب الى ابي  
موسی الأشعري رضی الله عنهما ما  
بعد فان الخیر كله فی الرضا فان  
استطعت ان ترضی والا فاصبر وروى  
عن قتادة رحمه الله تعالى فی قوله عز وجل  
واذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه  
مسودا الآیة هذا صنیع مشركی العرب

رضائے الہی رضا کی دلیل یہ آیت ہے: حق تعالیٰ مسلمانوں سے  
راضی ہو گیا اور مسلمان اس سے راضی ہیں، دوسری جگہ فرمایا  
ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت و رضا کی بشارت سناتا ہے  
حضرت عباسؓ:۔۔ نبی اکرم صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایمان کا  
ذائقہ نصیب ہو گیا جس نے حق تعالیٰ کو خوشی خوشی اپنا  
پروردگار مان لیا۔

کہتے ہیں، حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا  
ابا بعد یاد رکھو پوری پوری خیر و برکت رضا میں ہے کہ راضی  
برضائے مولیٰ رہو، اگر تم کو رضا پر قائم رہنے کی طاقت ہے  
تو خیر ورنہ صبر کرو۔

قتادہ: اذا بشر احدكم بالانثى الخ یعنی جب ان میں سے  
کسی کو لڑکی کی پیدائش کا مشورہ سنایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ  
سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کے سے گھونٹ پی کر رہ  
جاتا ہے کی تفسیر میں:۔۔ یہ حالت عرب کے مشرکوں کی تھی۔  
حق تعالیٰ شانہ نے ان کے گندے اور شرمناک حال کی خبر دی ہے  
لیکن مسلمان کی شان کے لائق یہی ہے کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے  
اس کی قسمت میں مفرد فرمادیا ہے اس سے خوشی خوشی راضی  
ہو جائے انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے ذاتی  
فیصلہ سے کہیں بہتر ہے، اسے فرزند آدم! حق تعالیٰ شانہ نے  
تیرے حق میں جو فیصلہ فرمادیا ہے اگرچہ وہ تجھے ناپسند ہو تو  
لئے اس فیصلہ سے بہتر ہے جو تجھے پسند ہو اس لئے اللہ سے  
جا اور اللہ کے فیصلہ پر راضی ہو جا فرمایا، امید ہے کہ ایک  
چیز تمہیں ناپسند ہو اور تمہارے حق میں بہتر ہو اور امید ہے  
کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور تمہارے حق میں بری ہو (کیونکہ)  
اللہ کو رانجام کا علم ہے تم کو نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان



اخبرنا الله عز وجل نجيت صنيعهم  
 فاما المؤمن فهو حقيق ان يرضى بما قسم  
 الله تعالى له وقضاء الله عز وجل خير  
 من قضاء المرء لنفسه وما قضاء الله  
 لك يا ابن آدم فيما تكره خير لك مما قضى  
 الله عز وجل نيما تحب فاتق الله تعالى وارض  
 بقضائه تالله تبارك وتعالى وعسى ان تكرر  
 هوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا  
 شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا  
 تعلمون يعنى ما فيه صلاح دينكم و  
 دنياكم فالتق الله عز وجل طوى عن الخلق  
 مصالحهم وكلفهم عبوديته من اداء  
 الاوامر وابتها المناهي والتسليم في  
 المقدور والرضا بالقضاء فيما لهم و  
 عليهم في الجملة واستاثر هو عز وجل  
 بالعواقب والمصالح فينبغي للعبدان  
 يديما الطاعة لمولا لا ويرضى بما قسم  
 الله له ولا يتهمه۔

واعلم ان تعب كل واحد من  
 الخلق على قدر ما زعته المقدور  
 للمقدور وموافقته له ولا وترك رضاء  
 بالقضاء فكل من رضى بالقضاء استراح  
 وكل من لم يرض به طالت شقاوته  
 وتعبه ولا ينال من الدنيا الا ما قسم  
 له فما دام هو لا متبعا قاضيا عليه

چیزوں کا علم ہے جن میں تمہارے دینی اور دنیوی کاموں کی اصلاح ہے  
 حق تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کی مصلحتوں کے دفتروں کو لپیٹ کر رکھ  
 لیا ہے اور انہیں اپنی پرستش کا حکم فرمایا ہے کہ ادا کرنا اور لانا  
 سے باز رہو اور قضاؤ قدر کے آگے تسلیم خم رکھو اور اجمالی طور پر  
 اسے اس کے نفع و نقصان پر آگاہ فرمادیا ہے اور انجام ہمہ مصالح  
 اور نتائج کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اس لئے انسان کا  
 فرض ہے کہ ہمیشہ اپنے آقا کی عبادت میں دوڑ دھوپ کرتا رہے اور  
 مقدر پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے کیونکہ اس مقام  
 پر لب ہلانے کی گنجائش نہیں۔ دیکھو یا در کھو ہر شخص کو تکلیف اس کی  
 تحریر تقدیر کے مطابق خواہشات نفسانی کی پیروی اور اللہ کی نافرمانی  
 کی وجہ سے پہنچتی ہے جو تقضا پر راضی ہے اسے آرام ہی آرام نصیب  
 ہے اور جو راضی نہیں اس کی شقاوت و تکلیف کے طویل ہونے ہیں  
 کلام نہیں دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر میں ہوگی جب تک انسان  
 اپنی خواہشات کا پیرو کار رہے گا اور اس کی موافقت کرے گا وہ  
 تقضائے الہی سے ناراضگی کا اظہار کرتا رہے گا کیونکہ خواہش اسے  
 حق تعالیٰ شانہ کے حکم کے خلاف لے جائے گی اس لئے اس کی تکلیف  
 گھنی ہو کر بڑھتی ہی چلی جائے گی لہذا آرام خواہش کی مخالفت  
 ہی میں ہے کیونکہ اس مخالفت میں چاروں اچار تقضا پر رضا ہے اور  
 خواہش کی موافقت میں تکلیف و دکھ کے سوا کچھ نہیں۔ کیونکہ اس میں  
 بلاشبہ حق کی مشیت سے جھگڑنا ہے اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو ہمارا  
 وجود کہاں سے ہوتا ہواٹے نفس کی موجودگی میں ہمارا اصل وجود ہی  
 ختم ہو جاتا ہے۔

ارباب علم و طریقت میں رضا کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا  
 رضا حال ہے یا مقام؟ عراقی کہتے ہیں رضا بھی ایک حال ہے اور یہ  
 انسان کی پیدا کی ہوئی نہیں ہوا کہ تی بلکہ خدا داد ہوتی ہے اور دیگر

فہو غیر راض بالقضاء لان الهوى منازع  
للحق عز وجل تتعبه متكاتف متزايد  
فاستجلب الراحة في مخالفة الهوى  
لان فيه الرضا بالقضاء بلا بد واستجلب  
التعب والنصب في موافقة الهوى لان فيه  
منازعة الحق عز وجل بلا بد فلا كان الهوى  
واذا كان فلا كانا۔

واختلف اهل العلم والطريقة في  
الرضا هل هو من الاحوال او من المقامات  
فقال اهل العراق هو من جملة الاحوال  
وليس هو كسب العبد بل هو نازلة تحمل  
بالقلب كسائر الاحوال ثم تحول وتزول  
وياتي غيرها وقال الخراسانيون الرضا  
من جملة المقامات وهو نهاية التوكل  
حتى يتول الى غاية ما يتوصل اليه العبد  
باكتسابه والجمع بينهما ممكن بان  
يقال بداية الرضا مكتسبة للعبد و  
هي من المقامات ونهايته من جملة الاحوال  
وهي ليست مكتسبة وفي الجملة الراضى  
هو الذي لا يعترض على تقدير الله عز وجل  
وقال ابو علي الدقاق رحمه الله تعالى  
ليس الرضا ان لا تحس بالبلاء انما الرضا  
ان لا تعترض على الحكم والقضاء وقد  
قالت المشايخ رحمه الله تعالى الرضا  
بالقضاء باب الله الاعظم وجنة الدنيا

احوال کی طرح انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے  
پھر یہ ہٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حال لے لیتا ہے۔  
خدا سانی کہتے ہیں رضا حال نہیں بلکہ مقام ہے اور توکل کی انتہا  
ہے اور اسی انتہا کے بعد انسان کسب کی طرف مائل ہوتا ہے ان  
دونوں قولوں میں تطبیق ممکن ہے وہ یہ ہے کہ رضا کی ابتداء  
کب سے اور مقامات سے ہے اور آگے چل کر یہ حال بن جاتی  
ہے جو انسان کے کسب میں داخل نہیں غرضیکہ راضی وہ ہے جو  
اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض نہ کرے۔

ابو علی دقاق :- رضا یہ نہیں کہ تم بلا کا احساس نہ کرو بلکہ رضا  
یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم ذیصلہ پر اعتراض نہ کرو۔  
مشائخ :- قضا پر رضا اللہ کی نعمت کا سب سے بڑا دروازہ  
ہے جو انسان پر کھلا ہوا ہے اور دنیوی جنت ہے یعنی جسے قضا پر  
رضا کے ساتھ نواز دیا گیا اسے حق تعالیٰ کی خوشنودی ایک وسیع  
میدان عطا کیا گیا اور انتہائی بلند قرب سے سرفراز کیا گیا۔

کہا جاتا ہے کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا: کیا کسی کو  
اللہ کی رضا کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، مہلّا رضا کا کیسے  
علم ہو سکتا ہے وہ تو ایک غیبی چیز ہے، شاگرد نے کہا: نہیں بلکہ  
انسان کو اللہ کی رضا کا علم ہو جاتا ہے، استاد نے پوچھا: کس  
طرح؟ بولا: جب میں اللہ کے حکم سے اپنے دل کو راضی پاتا  
ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ مجھ سے راضی  
استاد نے کہا: بیٹا تم نے بہت خوب سمجھا کیونکہ بندہ اللہ  
راضی نہیں ہوتا جب تک اللہ بندے سے راضی نہ ہو۔ حق تعالیٰ  
شانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ  
اس سے۔

کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ



ای من اکرم بالرضا فقد لقی بالرحب  
 الاوفی واکرم بالقرب الاعلی وقیل ان  
 تلمیذا قال لاستاذہ هل یعرف العبد  
 ان الله تبارک وتعالی راض عنه قال  
 لا کیف یعلم ذلك ورضا لا غیب فقال  
 التلمیذ یعلم ذلك فقال کیف قال اذا  
 وجدت قلبی راضیا عن الله تعالی علمت  
 انه راض عنی فقال الاستاذ لقد احسنت  
 یا غلام ولا یرضی العبد عن الله حتی یرضی  
 الحق جل جلاله عنه قال الله عزوجل  
 رضی الله عنهم ورضوا عنه ای برضا  
 عنهم رضوا عنه وقیل سال موسی علیہ  
 السلام ربہ عزوجل فقال الہی دلنی علی  
 عمل اذا عملتہ رضیت عنی فقال انک  
 لا تطیق ذلك فخر موسی علیہ السلام  
 ساحدا متضرعا فاوحی الله عزوجل  
 الیہ یا بن عمران ان رضائی فی رمناک  
 بقضائی وقیل من اراد ان یرضی  
 فلیلزم ما جعل الله عزوجل رضایہ  
 فیہ وقیل الرضا علی قسمین رضایہ  
 ورضاعنہ فالرضایہ مندبر والرضا  
 عنہ فیما یقتضی حاکما وفاصلا  
 وقیل الراضی ان لو جعلت جہنم عن  
 یبینه ما سال ان یجولہا الی یسارہ  
 وقیل الرضا اخراج الکراہیۃ من القلب

آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ اسے انجام دینے سے آپ مجھ سے راضی  
 ہو جائیں فرمایا: تمہارے اندر اس عمل کی طاقت نہیں پھر حضرت موسیٰ  
 سجدے میں گر گئے اور گڑگڑا کر دعائیں مانگنے لگے آخر کار حق تعالیٰ  
 نے آپ پر وحی بھیجی کہ اے فرزند عمران میری رضا اس میں ہے کہ تو میری رضا  
 پر راضی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مقام رضا تک پہنچنا چاہے  
 تو ان عملوں کو چمٹ جائے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا رکھی ہے  
 رضا کے اقسام اکتے ہیں کہ رضا کی دو قسمیں ہیں اللہ کے ساتھ رضا  
 اور اللہ سے رضا۔ اللہ کے ساتھ رضا یہ ہے کہ اس کے مدبر و  
 منظم ہونے سے راضی رہے اور اللہ سے رضا یہ ہے کہ اس کے حاکم  
 ہونے کے اعتبار سے راضی رہے۔ اول کا تعلق قضا و قدر سے  
 اور ثانی کا تعلق دین و شریعت سے ہے۔

کتے ہیں راضی وہ ہے کہ اگر جہنم اس کے دائیں طرف رکھ دی جائے  
 تو یہ نہ کہے کہ اسے بائیں طرف رکھ دو۔

بعض علماء نے۔ دل سے کہ اہمیت نکالنے کا نام رضا ہے حتیٰ کہ  
 دل میں فرحت و سرور کے علاوہ کچھ باقی ہی نہ رہے۔

الجب بصری سے پوچھا گیا کہ منہ قضا سے کب راضی ہوتا ہے؟ فرمایا  
 اس وقت جب نعمت کی طرح مصیبت پر بھی خوش ہو۔ ایک دن  
 شبلی نے جنید کے سامنے لاجول ولاقوۃ الاہل اللہ پڑھی فرمایا:  
 تمہارا یہ قول تمہارے سینہ کی تنگی پر دلالت کرتا ہے اور سینہ کی  
 تنگی رضا بر قضا کے چھوڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔

ابو سلیمان:۔ رضایہ ہے کہ اللہ سے جنت نہ مانگ اور نہ اس سے  
 جہنم سے پناہ مانگے۔

اگر بخشے نہ ہوتے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا  
 ہر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے،  
 ذو النون مصری:۔ رضا کی تین نشانیاں ہیں۔ قضا و قدر میں

حتى لا يبقى الا فرح وسرور وسئلت رابعة  
العدوية رحمة الله تعالى متى يكون  
العبد راضيا بالقضاء فقالت رحمة الله  
تعالى اذا سئرت بالمصيبة كما يسر بالنعمة  
وقيل قال الشبلي رحمه الله تعالى بين يدي  
الجنيد رحمه الله تعالى لا حول ولا قوة  
الا بالله فقال الجنيد رحمه الله قولك ذا  
لضيق صدر وضيق الصد لترك الرضا بالقضاء  
وقال ابو سليمان رحمه الله تعالى الرضا ان  
لا تسال الجنة من الله ولا تستعبد به من  
النار وقال ذوالنون المصري رحمه الله تعالى  
ثلاثة من علامات الرضا بترك الاختيار  
قبل القضاء وفقدان المرارة بعد القضاء  
وهيجان الحب في حشو البلاء وقال ايضا  
رحمة الله تعالى هو سرور القلب به والقضاء  
وسئل ابو عثمان رحمه الله تعالى عن قول  
النبي صلى الله عليه وسلم اسألك الرضا بعد  
القضاء قال لان الرضا قبل القضاء عزم على  
الرضا والرضا بعد القضاء هو الرضا و  
روى انه قيل للحسين بن علي بن ابي طالب  
رضي الله عنهما ان ابا ذر رضي الله عنه  
يقول الفقرا احب الي من الغني والستقما احب  
الي من الصحتة والموت احب الي من الحياة  
فقال رحمه الله ابا ذر اما انا فاقول من  
اتكل على حسن اختيار الله لم يتبين غير ما

اپنا اختیار ترک کر دینا اور اللہ کے فیصلہ کے بعد کسی معیشت میں تلخی  
محسوس نہ کرنا اور معائب میں اللہ کی محبت میں جوش پیدا ہونا۔  
ذوالنونؒ ۱۔ رضا قضا کی تلخی کے ساتھ دلی مسرت کا نام ہے۔  
ابو عثمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اسألك الرضا بعد القضاء  
یعنی اے اللہ میں قضا کے بعد تیری رضا کا سوال کرتا ہوں اے  
بارے میں پوچھا گیا فرمایا کہ آپ نے یہ سوال اس لئے کیا کہ قضا سے  
پہلے رضا اور رضا پر قصد ہے اور قضا کے بعد رضا اصل رضا ہے  
منقول ہے کہ امام حسینؑ سے پوچھا گیا کہ ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ  
مجھے مالداری سے ناداری، تندرستی سے بیماری اور زندگی سے موت  
زیادہ بیماری ہے فرمایا حق تعالیٰ ابو ذرؓ پر رحم فرمائے میں تو یہ کہتا  
ہوں کہ جو حق تعالیٰ کے حسن اختیار پر بھروسہ رکھتا ہے اور جو  
حق تعالیٰ نے اس کے لئے مقدر فرمادیا ہے وہ اسے چھوڑ کر کسی  
دوسری چیز کی تمنا نہیں کرتا۔

فیصل بن عیاض (بشر حافی سے): ترک دنیا سے رضا افضل ہے  
کیونکہ راضی رہنے والا اپنے مقام سے بڑھ کر خواہش نہیں کرتا۔  
فیصلؒ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ اس میں اپنے حال پر رضا ہے  
اور حال پر رضا میں ہر طرح کی بھلائی ہے حق تعالیٰ شانہ نے  
حضرت موسیٰ سے فرمایا: میں تجھے لوگوں پر اپنے پیام و کلام کے ساتھ  
چن لیا لہذا میں جو کچھ دے دوں اسے لے لے اور شکر ادا کر یعنی  
اپنے حال کی حفاظت کہ اسی طرح حق تعالیٰ نے ہمارے محبوب  
پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراہ ابی داری سے فرمایا کہ  
آپ اپنی نگاہیں ان برتنے کی چیزوں پر نہ ڈالیں جو ہم نے دنیوی  
زندگی کی رونق کے طور پر قسم قسم کے لوگوں کو دیں تاکہ ہم ان  
چیزوں میں انہیں آزمائیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے  
اپنے لاڈلے نبی کو ادب سکھایا اور آپ کو اپنے حال کی حفاظت کا



اختر الله له وقال الفضيل بن عياض  
لبشر الحافي رحمة الله تعالى الرضا افضل  
من الزهد في الدنيا لان الراضى لا يتمنى  
فوق منزلته والذي قال الفضيل هو  
الصحيح لان فيه الرضا بالحال وكل خير  
في الرضا بالحال قال الله عز وجل لموسى  
عليه السلام اني اصطفيتك على الناس  
برسالتي ويكلامي فخذ ما آتيتك  
وكن من الشاكرين اى ارض بما اعطيتك  
ولا تطلب منزلة غيرك وكن من الشاكرين  
يعنى بحفظ الحال وكذلك لبنيامين  
صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك  
الى ما تمنعنا به ازواجنا منهم زهرة  
الحياة الدنيا لتفتنهم فيه فادب نبويه  
عليه الصلوة والسلام وامره بحفظ  
الحال والرضا بالقضاء والعطاء بقوله  
تعالى ورزق ربك خير والي ما  
اعطيتك من النبوة والعلم والقناعة  
والصبر وولاية الدين والقدوة فيه  
اولى مما اعطيت غيرك واحرى فالخير  
كله في حفظ الحال والرضا به وترك  
الالتفات الى ما سواه لانه لا يخلو  
اما ان يكون ذلك قسمك او قسم  
غيرك او انه لا قسم لاحد بل او جلا  
الله تعالى فتنة فان كان قسمك

اور رضا برضا کا ایک عظیم عطیہ کا حکم فرمایا چنانچہ آگے فرمایا کہ آپ کے  
رب کی دمی ہوئی نعمت بہت ہی بہتر اور دیر پاب ہے یعنی ہم نے آپ کو  
نبوت، علم، قناعت، صبر، دین کی ولایت اور امانت عطا فرمائی ہے  
جو دوسروں کو دمی ہوئی چیزوں سے کہیں بہتر اور ہمیشہ رہنے والی  
ہیں لہذا ہر طرح کی خیر و برکت حال کے تحفظ میں، رضا برضا میں  
اور ماسوی سے ترک تو جہ میں ہے کیونکہ دوسری طرف نگاہ دوڑانا  
تین حال سے خالی نہیں یا تو وہ چیز تمہارے مقدر میں ہے یا کسی اور  
کے مقدر میں ہے یا کسی کے مقدر میں بھی نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے اسے  
آزمائش کے لئے پیدا فرمایا ہے اگر وہ چیز تمہارے مقدر میں ہے تو  
لا محالہ تمہارے پاس پہنچ کر رہے گی خواہ تم اسے چاہو یا نہ چاہو اس  
لئے اس میں بے ادبی اور حرص کا اظہار تمہاری شان کے  
شایان نہیں کیونکہ عقل و علم کی رو سے بے ادبی اور حرص قابل مذمت  
ہے اور اگر وہ چیز دوسرے کے مقدر میں ہے تو تم جسے پانہیں سکتے  
اور جو تم کو کبھی نہیں مل سکتی اس کے لئے تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟  
اور اگر وہ چیز باعث فتنہ ہے تو ذمی ہونش و دانش مند فتنہ والی  
چیز کو کیسے پسند کر سکتا ہے اور اسے اچھا سمجھ کہ اس کی طرف کیسے  
مائل ہو سکتا ہے کیا کوئی شخص اپنے لئے فتنہ کا امیدوار و طالب  
ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

بعض علماء :- رضا برضا یہ ہے کہ تمہاری نگاہ میں اللہ تعالیٰ  
کے تمام فیصلے برابر ہوں خواہ تم کو پسند ہوں یا ناپسند۔  
بعض :- رضا، قضا کی تلخی پر صبر کرنا ہے۔ بعض علماء :- رضا  
اللہ تعالیٰ کے حکم میں چون دچرانہ کرنا اور اسے تسلیم کرنے کا نام ہے  
بعض علماء :- رضا ترک اختیار کا نام ہے۔  
بعض علماء :- رضا تدبیر میں لچھے برے میں فرق نہ کرنے  
کا نام ہے۔ اور معاملہ مدبر کائنات پر چھوڑ دینا ہے۔

فہو واصل الیک تثبت اما تیت فلا ینبغی  
ان یظہر منک سوء الادب والشیرۃ فی طلبہ  
فان ذلک غیر محمود فی قضیۃ العقل  
والعلم وان کان قسم غیرک فلا تتعب  
فیما لاتنالہ ولا یصل الیک ابدان وان  
کان لیس بقسم لاحد بل ہو فتنۃ تکلیف  
یری العاقل ویستحسن اللیب ان یطلب  
لنفسہ فتنۃ ویستجلیہا وقال قوم الرضا  
بالقضاء هو ان یتوی عندک ما تحب وما  
تکرہ من تضائہ عزوجل وقال بعضهم  
هو الصبر علی ما القضاء وقال آخر  
هو طرح الکف بین یدی اللہ عزوجل  
والتسلیم لاحکامہ وقال آخر هو  
اسقاط التخبیر علی المدبر وقال آخر  
هو ترک الاختیار وقال بعضهم اهل  
الرضا هم الذین قطعوا عن قلوبہم فی  
الاصل الاختیار فہم لا یختارون شیئا  
من الاشیاء ما ترید انفسہم ولا  
شیئا ما یریدون بہ اللہ ولا یسالونہ  
ولا یطالعون حکما قبل نزولہ فاذا  
وقع حکم من اللہ حیث لا یتشوقون  
الیہ ولم یطالعوا رضوا بہ فاحبواہ  
سرواہ وقال ان للہ عبادا اذا وقع  
بہم الحکم من البلوی رأواہ نعمۃ من  
اللہ علیہم فشکروہ علیہا و سواہا

بعض علماء بحقیقت میں اہل رضا وہی ہیں جو اپنے دلوں سے  
اختیار کا رشتہ کاٹ ڈالیں لہذا وہ من مانی چیزوں کو پسند نہیں  
کرتے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن سے اللہ کو طلب کرتے  
ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں نہ وقوع سے پہلے کسی چیز کا  
فکر کرتے ہیں پھر جب اللہ کا حکم جس کے وہ منتظر نہ تھے اور نہ  
اس کا انہیں خیال تھا رد نما ہو جاتا ہے تو وہ اس سے راضی ہوتے ہیں  
اور محبت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔

فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر مصیبت کے  
سلسلہ میں اللہ کا کوئی حکم ان پر اترتا ہے تو اسے اللہ کی نعمت تصور  
کرتے اس سے خوش ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ شانہ کا شکر ادا کرتے  
ہیں پھر اپنے اس سرور کے بعد حق تعالیٰ کی نعمتوں پر نگاہ ڈالتے  
ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ نعمتوں میں کھو کر منعم سے بے خبر ہونا  
باعث نقصان ہے اس لئے ان کے دل نعمتوں سے ہٹ کر منعم  
میں مشغول ہو جاتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو  
ان کے دل اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے جب وہ اس مقام  
پر جم جاتے ہیں اور ہنسنگی کرتے ہیں تو حق تعالیٰ انہیں اس سے  
انتہائی اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی نوازشوں  
کی حد و غایت نہیں، رضا برقصا کے سلسلہ میں انتہائی کثر یہ چیز  
ہے کہ انسان غیر اللہ سے طمع و حرص کے بندھن کاٹ پھینکتا ہے۔  
اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے لالچ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہزمت  
فرمائی ہے چنانچہ بیہی بن کثیر سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے  
فرمایا کہ میں نے تورات پڑھی تو اس میں دیکھا کہ حق تعالیٰ  
فرماتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنی جیسی مخلوق پر  
بھروسہ رکھے ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے  
کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنی جیسی مخلوق پر بھروسہ رکھے



ثم رأوا بعد سرورهم بالنعمان اشتغالهم  
 بالنعمته عن المنعم نقص فاشتغلت قلوبهم  
 بالمنعم عن النعم فكان البلاء جاريا  
 عليهم وقلوبهم مغايبة عنه فلما استوطنوا  
 هذا المقام وداوموا عليه نقلهم  
 مولا هم الى ما هو اعلى لهم واسمى  
 من ذلك لان مواليه عز وجل لا  
 غاية لها ولا نهابة وقل ما في الرضا  
 ان ينقطع طبعه عما سوى الله عز وجل  
 وقد ذم الله عز وجل الطمع في غير لا عز  
 وجل فروى عن يحيى بن كثير انه  
 قال قرأت التوراة فرأيت فيها ان  
 الله سبحانه وتعالى يقول ملعون  
 من كان ثقته بخلق مثله وروى  
 في بعض الاخبار ان الله سبحانه يقول  
 وعزتي وجلالي وجودي ومجدي  
 لا قطعن امل كل موئل امل غيري  
 بالياس ولا ليسنه ثوب المذلة بين  
 الناس ولا بعد شه من قربي ولا  
 قطعته من وصلي اليومل غيري في الشائد  
 والشائد بيدى وانا الحى ويرجى  
 غيرى ويطرق بالفكر البواب غيرى  
 وهى مغلقة ومفاتيحها بيدى وروى  
 في خبر آخر ان الله عز وجل يقول ما  
 من عبد يقتصر بي دون خلقى اعلم

ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال  
 کی اور کرم و شرف کی قسم جو شخص میرے علاوہ کسی غیر سے امید  
 رکھتا ہے میں اس کی امید ضرور بالفزور کاٹ دوں گا اور  
 اسے لوگوں میں ذلیل و خوار کر دوں گا اسے اپنے قرب سے دور  
 کر دوں گا اور اپنے وصل سے اس کا تعلق کاٹ دوں گا کیا  
 وہ سختیوں میں غیر اللہ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے حالانکہ  
 سختیاں میرے ہاتھوں میں ہیں اور میں زندہ ہوں کیا وہ غیر  
 سے امیدیں قائم کرتا ہے اور پریشانیوں کے لئے غیروں کے  
 دروازے کھٹکھٹاتے ہو حالانکہ وہ بند ہیں اور ان کی کنجیاں  
 میرے ہاتھوں میں ہیں۔

ایک دوسری حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتا  
 ہے کہ جو بندہ لوگوں کو چھوڑ کر مجھے مضبوط پکڑ لیتا ہے اور میں  
 اس کے دل اور نیت سے واقف ہوں پھر اس سے آسمان و  
 زمین اور ان کے ہاتھوں سے اس کے خلاف سازش کریں تو میں  
 ضرور اس سازش سے نکلنے کے لئے اس کے لئے کوئی نہ کوئی  
 راہ نکال دیتا ہوں اور جو بندہ مجھے چھوڑ کر لوگوں کو پکڑ لیتا  
 ہے تو میں اوپر سے آسمان کے ذرائع اس سے کاٹ دیتا ہوں  
 اور نیچے سے زمین کو شور بنا دیتا ہوں اور دنیا میں اسے  
 میں ڈال کر ہلاک کر دیتا ہوں۔

بعض صحابی :- میں نے سنا کہ سرور عالم صلعم نے فرمایا کہ  
 جو لوگوں سے عزت حاصل کرنا چاہے گا خوار ہوگا۔ کہا جاتا  
 ہے کہ جو اپنے جیسے کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے  
 اولاد آدم کی طرف اس کے دل کا جھانکنا اور ان سے لاپرواہی  
 رکھنا اس کی پریشانی اور ذلت و خواری کے لئے کافی ہے۔  
 اس میں دو باتیں جمع ہو گئی دنیوی ذلت اور روزی میں

ذلك من قلبه ونيتته فتكيد السموات  
والارض ومن قيهن الاجلعت له من  
ذلك مخرجا وما من عبد يعتصم بخلق  
روني الا قطعت اسباب السماء من فوقه  
واسعت الارض من تحت قدميه ثم  
اهلكه في الدنيا والتعبه فيها وروى عن  
بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم  
اجمعين انه قال سمعت رسول الله صلى الله  
عليه وسلم يقول من تعزز بالناس ذل  
وقيل من اتكل على مخلوق مثله ذل  
فكفاه الطمع بما يناله من اطلاق قلبه  
وتشتت همه وذله ومسكنته فقد اجتمع  
عليه امران ذل في الدنيا وبعد  
من الله عز وجل بلا اذ يد في رزقه  
ذرة واحدة وقال بعضهم لا اعرف  
شيئا اضر على المریدین والطالبین من  
الطمع ولا اضر بقلوبهم ولا اذل  
لهم ولا اظلم لقلوبهم ولا الجدل لهم  
ولا اشد تشتيتا لهمهما انما كان ذلك  
كذلك لانه شرك اينما كانوا لان  
الرجل منهم اشرك بالله عز وجل  
حيث طمع في مخلوق مثله لا يملك مترا  
ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا فجعل  
ملك الملك لسوكة فاني يكون له  
ورع فلا يتحقق ورعه حتى ينسب

ایک جہ کی بھی زیادتی کے بغیر حق تعالیٰ سے درسی۔ حق تعالیٰ آرام  
کے بعد تکلیف سے محفوظ فرمائے آمین۔

بعض علماء :- میں مرید و طلبہ کے حق میں لالچ سے زیادہ کوئی مفسر  
رساں چیز نہیں پاتا سب سے زیادہ لالچ ہی ان کے دل ویران بنانا  
ہے انہیں سوا کرتا ہے ان کے دل سیاہ نام کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ  
سے دور کرتا ہے اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ کرتا ہے لالچ کا یہی  
حال ہے کیونکہ لوگ جہاں بھی لالچ ایک قسم کا شرک ہے یاد رکھو  
اس نے شرک کیا جس نے اپنے جیسے ایک انسان سے جو خود ہی اپنے  
لفح و نقصان پر قادر نہیں اور نہ دینے پر قادر ہے، لالچ رکھا کیونکہ  
ایسے شخص نے شہنشاہ حقیقی کے مملوکہ چیزوں کو اس کے مملوکہ چیزیں  
سمجھیں تو اس میں تقویٰ کہاں رہا تقویٰ اسی وقت باقی رہتا ہے  
جب چیزیں اصل مالک (حق تعالیٰ) ہی کی طرف منسوب کی جائیں  
اور اسی سے مانگی جائیں کسی غیر سے نہیں۔ کہتے کہ لالچ کی جڑ بھی  
اور شاخیں بھی، جڑ تو غفلت ہے اور شاخیں، ریا، شہرت  
زیب و زینت، تصنع، بناوٹ اور لوگوں سے عزت و جاہ کا  
کہنا ہے۔

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے حراریوں سے کہا: کہ لالچ قاتل و  
نباہ کرنے والی بلا ہے۔

بعض علماء :- ایک دفعہ میں نے کسی ذہبوی کام میں لالچ کیا  
کہ ہائف غیبی نے کہا اسے شخص آزاد و مرید کی شان کے شایاں  
یہ بات نہیں کہ جب وہ اپنی ہر مراد اللہ کے پاس پا جاتا ہے تو وہ  
اپنے دل سے اللہ کے بندوں کی طرف مائل ہو۔

یقین مانو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو لالچ کو جلتے  
بھی نہیں اور چیزوں کے مالکوں سے کسی چیز کا لالچ نہیں رکھتے  
چونکہ وہ کسی سے لالچ نہیں رکھتے اس لئے ان کی ساری ضرورتیں



الاشياء الى مالكمها عز وجل في طلبها  
منه ولا يطلبها من غيره وقيل الطمع له  
امل وفرع فاصله الغفلة وفرعه الرياء  
والسعة والتزين والتصنع وحب اقامة  
الجماعة عند الناس وقال عيسى عليه السلام  
للمحاوريين الطمع القتل الوحى وعن بعضهم  
انه قال طمعت ليوم امرة في شىء من امر  
الدنيا فتهتف بي هاتف وهو يقول يا هذا  
انه لا يحمد بالحر المرید اذا كان يجد  
عند الله كل ما يريد ان يركن بقلبه  
الى العبيد واعلم ان الله عبادا يخفى عليهم  
الطمع فيمن يملك لهم ما فيه يطمعون  
حتى تكون البركة داخله عليهم من  
حيث لا يطمعون ويرون ان حالة الطمع  
نقص في الاحوال وهو ادنى درجة من درجات  
العارفين من اهل التوكل ولا يخطر على  
قلب مرید شىء من الطمع ويساكنه الا  
لاجل كمال البعد من الله عز وجل حيث  
طمع في مخلوق مثله وهو يرى ان مولاة  
مطمع عليه ثم لم يجزه الخوف من ذلك  
**فصل** : واما الصدق فالاصل  
فيه قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا  
الله وكونوا مع الصادقين وما روى  
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه  
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

حق تعالیٰ پوری فرماتا ہے اور ان کے پاس نیز برکت  
کا ریل پیل ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لالچ سے احوال میں  
کسی آجاتی ہے اور یہ ایل توکل عرفاء کے درجوں میں سے  
سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ جس مرید کے دل میں لالچ کا  
خیال آتا ہے اور لالچ اس کے دل میں سماتا ہے وہ حق  
تعالیٰ جل مجدہ کے قرب سے بہت دور ہو جاتا ہے کیونکہ  
اس نے اپنے جیسے ایک انسان سے لالچ کیا حالانکہ اسے معلوم  
ہے کہ حق تعالیٰ اس کے دل کے حال سے واقف ہے لیکن  
حق تعالیٰ شانہ کا خوف بھی اسے لالچ سے نہیں باز رکھتا۔  
**صدق** | سچ کے ثبوت میں یہ آیت ہے "اے ایمان والو  
اللہ سے ڈرجاؤ اور سچوں کے ساتھ رہو۔"

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ :- نبی اکرم صلعم نے  
فرمایا کہ بندہ برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی نگہ میں  
رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صدیق لکھ لیا جاتا  
ہے اسی طرح جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے پاس کذاب  
لکھ لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت  
داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اسے داؤد چاہیے  
دل میں میری تصدیق کرتا ہے میں اسے کھلم کھلا لوگوں میں  
مشہور کر دیتا ہوں یعنی وہ لوگوں میں صادق و امین سمجھا  
جاتا ہے۔

یاد رکھو سچائی دین کا ستون، تتمہ نظام اور نبوت  
کا درسا درجہ ہے حق تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ان کے  
ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہے یعنی نبیوں کے،  
انتہائی سچوں کے، شہداء کے اور صلحاء کے ساتھ  
ہوں گے۔ اس آیت میں انبیاء کے بعد صدیقین کو بیان

لا یزال العبد یصدق و یتحرى الصدق  
حتى یکتب عند الله صدقا ولا یزال  
یکذب و یتحرى الکذب حتى یکتب عند الله کذبا  
وقیل ان الله اوحى الی داود علیه السلام یاداود  
من صدقتی فی سمریتہ صدقتہ عند الخلقین فی علانیۃ  
واعلم ان الصدق عماد الاصل و بینه تمامہ و  
فیہ نظامہ و ہوتا فی درجۃ النبوة و ہو قولہ عزوجل  
فأولئك مع الذين انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین  
والشهداء والمناحین والصادقین ہو الاسم اللزوم  
الصدق والصدیق ہو المبالغۃ منہ و ہو من تکرر منہ  
الصدق فصار دابہ و سببہ و منار الصدق عالیہ فالصدق  
استواء السر والعلانیۃ فالصادق ہو الذی صدق فی  
اقوالہ والصدیق من صدق فی اقوالہ و جیع افعالہ  
واجوالہ وقیل من اراد ان یکون الله معہ فلیزل  
الصدق فان الله مع الصادقین وقال الجنید رحمۃ  
تعالی الصادق یتقلب فی الیوم اربعین مرۃ والمرائی  
ثبت علی حالہ واحداۃ اربعین سنۃ وقیل الصدق ہو القول بالحق فی  
موطن العکلۃ وقیل الصدق موافقۃ السر بالنطق وقیل الصدق منہ  
المحرام من الشوق وقیل الصدق الرفاء لله بالعمل وقال سعد بن  
عبد الله لا یتیم رائحۃ الصدق عبد راءن نفسہ او غیرہ وقال ابو سعید  
القرنی رحمہ الله تعالی الصادق الذی یتبعیا ان یموت ولا یتیمی من  
سواء لو کشف قال الله تعالی فتمنوا الموت  
ان کنتم صادقین وقیل الصدق صحۃ التوحید مع  
القصد وقیل حقیقۃ الصدق ان تصدق فی موطن  
لا ینجیک منہ الا الکذب وقیل ثلاثۃ لا تخطی الصادق

کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیقین انبیاء کے بعد درجہ  
ہے۔ صادق اسے کہتے ہیں جس پر صدق کا غلبہ ہو اور صدیق  
وہ ہے جس کی گھٹی میں صدق ہو اور صدق اس کی فطرت  
و عادت بن جائے اور اس پر ہر وقت صدق ہی چھایا رہے اور  
اس کا ظاہر و باطن سچائی سے بھر لو رہے۔ لہذا صادق وہ ہے جو  
اپنی باتوں میں سچا ہو اور صدیق وہ ہے جس کے اقوال، افعال  
اور احوال ہر ایک میں صداقت ہو۔ کہتے ہیں جو یہ چاہے کہ  
اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہے اسے سچ کو چٹ جانا چاہیے  
کیونکہ حق تعالیٰ جل مجدہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

جنید:۔ سچے آدمی کو ایک دن میں چالیس چالیس درجہ  
مل جاتے ہیں اور ریاکار چالیس سال تک ایک ہی حالت  
پر قائم رہتا ہے۔

بعض علماء:۔ صدق خطرات کے مقابلہ پر سچ بولنے کا  
نام ہے۔

بعض علماء:۔ صدق دل کی زبان سے موافقت ہے۔

بعض علماء:۔ صدق منہ کو حرام سے روکنا ہے۔

بعض علماء:۔ صدق اللہ سے عمل سے وفاداری ہے۔

سہل بن عبد اللہ شہری:۔ جو شخص احکام شہدہ میں سستی  
کرتا ہے خواہ اپنی ذات کے لئے سستی کرے یا کسی اور کے  
لئے اسے صدق کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوتی۔

ابو سعید قرشی:۔ صادق وہ ہے جو موت کے لئے تیار رہے  
اور اگر اس کا راز فاش ہو جائے تو شہادت نہیں حق تعالیٰ  
نے فرمایا: اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو یعنی موت کے لئے  
تیار رہو۔

بعض علماء:۔ صدق قصد ارادے کے ساتھ توحید کو



الملاوۃ والہیبة والملاحة وقال ذوالنون  
رحمہ اللہ تعالیٰ الصدق سیف اللہ ما وضع  
علی شیء الا قطعہ وقال سہل بن عبد اللہ  
رحمہ اللہ تعالیٰ اول جنایۃ الصدیقین حدیثہم  
مع انفسہم وسئل فتح الموصلی رحمہ اللہ تعالیٰ  
عن الصدق فا دخل ید لا فی کانون الحداد  
واخرج الحدید وھی تشتعل ناراً ووضعہا  
علی کفہ حتی تبردت وقال ہذا هو الصدق  
وسئل الحارث المجاہسی عن علامۃ الصدق  
فقال الصادق هو الذی لا یبالی لو خرج کل  
قدر لہ فی قلوب الخلق من اجل صلاح قلبہ  
ولا یجب اطلاق الناس علی مشاقیل الذر من  
حسن عملہ ولا یکرہ ان یطلع الناس علی السیء  
من عملہ فان کراہتہ ذلک دلیل علی انہ یحب  
الزیادۃ عندہم ولیس ہذا من اخلاق  
الصدیقین وقال بعضہم من لم یؤد الفرض  
الدائم لا یقبل منہ الفرض المؤقت قیل ما  
الفرض الدائم قال الصدق وقیل اذا طلبت  
اللہ بالصدق اعطاک مرآة تنظر فیہا کل  
شیء من عجائب الدنیا والآخرۃ۔

صحیح کرنے کا نام ہے۔

بعض علماء:۔ صدق کی حقیقت یہ ہے کہ دلائل پر لڑ جائے  
جہاں جھوٹ ہی سے نجات ملتی ہو۔

کہا جاتا ہے کہ صادق میں تین باتیں ضرور موجود رہتی ہیں  
عبادت کی مٹھاس، ہیبت اور ملاحت۔

ذوالنون مصری: صدق اللہ کی تلوار ہے یہ تلوار جس خینچ  
پر رکھی جاتی ہے اسی کو کاٹ دیتی ہے۔

سہل بن عبد اللہ: صدیقین کا ابتدائی گناہ اپنے دلوں  
باتیں کرنا ہے۔

فتح موصلی سے صدق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے  
لوہار کی مچھٹی میں ہاتھ ڈال کر سرخ لوہا نکال لیا اور اپنے ہاتھ پر  
رکھ لیا حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا اور فرمایا کہ یہ ہے صدق۔

حارث مجاہسی سے صدق کی نشانی کے بارے میں پوچھا گیا  
فرمایا صادق وہ ہے جس کے دل کی اصلاح کے لئے لوگوں کے

دلوں میں اسکی جو قدر و منزلت ہے اگر وہ ساری ختم ہو جائے تو پر  
نہ کرے اور اپنی نیکیوں میں سے ذرہ برابر نیکی کی بھی کسی کو خبر نہ

دے اور اگر اس کے برے عملوں کی لوگوں کو خبر ہو جائے تو  
برائے مانے کیونکہ برے عملوں کے راز فاش ہونے پر کراہت اس با

کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں میں اپنی عزت و جاہ کی زیادتی کا خواہش  
ہے اور یہ صدیق حضرات کی عادت نہیں۔ بعض علماء:۔ جو دائمی

مراجم نہ دیتا ہو اس سے وقتی فرائض قبول نہیں کئے جاتے پوچھا گیا۔ دائمی فرض کیا ہے؟ فرمایا: صدق۔ بعض علماء:۔ اگر تم  
تعالیٰ کو صدق و خلوص سے طلب کرو تو حق تعالیٰ شانہ تم کو ایک ایسا آئینہ عطا فرمادے گا جس میں تم دنیا اور آخرت کی عجیب چیز دیکھو

ختم شد



# عَتَبَةُ الطَّالِبِينَ

اُردو ترجمہ مع عربی متن

محبوب سبحانی قطبِ ریائی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

تفیس اکیس  
اُردو بازار، کراچی طبعی